

جدید نظر ثانی شدہ ایڈیشن

# حیاء الصحابہ

اردو

جلد دوم

تصنیف: حضرت محمد یوسف کاندھلوی رتھلیہ

ترجمہ: حضرت مولانا محمد احسان الحق

اردو بازار اکمل بیچری روڈ  
کراچی پاکستان 2213768

دارالاشاعت

# THE ISLAMIC BULLETIN

**REFLECT ON THE WONDERS OF ISLAM!**

**Friends or Family interested in Islam?**

Read an introductory book on the beauty of Islam.

**Live Quranic Radio**

*From all over the world*

**Need to find direction to pray?**

Type your address in our **QIBLA LOCATOR**

**Masjid Finder**

**Islamic videos and TV**  
Watch *Discover Islam* in English and *Iqra* in Arabic

*IB hopes that this website can bring both Muslims and non-Muslims together in a place of mutual respect and enlightenment.*

**MOUNTAINS OF INFORMATION FOR MUSLIMS & NON-MUSLIMS!**

Available now in:

- Arabic
- French
- German
- Italian
- Spanish

**GO TO:**

[www.islamicbulletin.org](http://www.islamicbulletin.org)

**Click:**

**“ENTER HERE”**

Our site is **user friendly**  
With **EASY-FINDING** icons  
Plus **QUICK-LOADING** for all systems

**Email us at:**  
[info@islamicbulletin.org](mailto:info@islamicbulletin.org)

**Read Past Issues**

**Last Will and Testament**

**Want to learn Tajweed?**  
Hear the world's most **RENOWNED RECITERS!**

**Free E-Books!**

**Learning how to pray?**  
*Step-by-step* guide!

**One-Page Hajj Guide**  
*In 8 different languages!*

**Interested in Islam?**  
Read convert's stories in **HOW I EMBRACED ISLAM**

## فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۱۷	صحابہ کرام کا باہمی اتحاد و اتفاق اور باہمی جھگڑوں سے بچنے کا اہتمام
۲۰	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت پر اتفاق
۳۱	حضرات صحابہ کرام کا امر خلافت میں حضرت ابو بکرؓ کو مقدم سمجھنا
۳۷	خلافت لوگوں کو واپس کرنا
۳۸	کسی دینی مصلحت کی وجہ سے خلافت قبول کرنا
۳۹	خلافت قبول کرنے پر تمسکین ہونا
۴۰	امیر کا کسی کو اپنے بعد خلیفہ بنانا
۴۵	امر خلافت کی صلاحیت رکھنے والے حضرات کے مشورہ پر امر خلافت کو موقوف کر دینا
۵۱	خلافت کا جو جہ کون اٹھائے؟
۵۵	خلیفہ کی نرمی اور سختی کا بیان
۵۸	جن لوگوں کی نقل و حرکت سے امت میں انتشار پیدا ہو، انہیں روکے رکھنا
۵۹	حضرات اہل الرائے سے مشورہ کرنا حضور اکرم ﷺ کا اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا
۶۵	حضرت ابو بکرؓ اہل الرائے سے مشورہ کرنا
۶۷	حضرت عمر بن الخطابؓ کا حضرات اہل الرائے سے مشورہ کرنا
۷۱	جماعتوں پر کسی کو امیر مقرر کرنا
۷۲	دس آدمیوں کا امیر بنانا، سفر کا امیر بنانا
۷۲	لہارت کی ذمہ داری کون اٹھا سکتا ہے؟
۷۵	امیر بن کر کون شخص (دوزخ سے) نجات پائے گا

صفحہ	مضمون
۷۶	امارت قبول کرنے سے انکار کرنا
۸۳	خلفاء اور امراء کا احترام کرنا اور انکے احکامات کی تعمیل کرنا
۹۳	امیروں کا ایک دوسرے کی بات ماننا
۹۴	رعایا پر امیر کے حقوق
۹۵	امراء کو برا بھلا کہنے کی ممانعت
۹۵	امیر کے سامنے زبان کی حفاظت کرنا
۹۸	امیر کے سامنے حق بات کہنا اور جب اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے تو اسے مانگنے سے انکار کر دینا
۱۰۲	امیر پر رعایا کے حقوق
	امیر کے عام مسلمانوں سے اپنا معیار زندگی بلند کرنے پر لوہور زبان مقرر کر کے
۱۰۴	ضرورت مندوں سے چھپ جانے پر نکیر۔
۱۰۹	رعایا کے حالات کی خبر گیری
۱۱۰	ظاہری اعمال کے مطابق فیصلہ کرنا
۱۱۱	امیر بنا کر اس کے اعمال پر نگاہ رکھنا
۱۱۱	باری باری لشکر بھجنا، جو تکلیف عام مسلمانوں پر آئے اس میں امیر کا مسلمانوں کی رعایت کرنا۔
۱۱۳	امیر کا شفیق ہونا
۱۱۵	حضور اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کا عدل و انصاف، حضور کا عدل و انصاف
۱۱۹	حضرت ابو بکر صدیقؓ کا عدل و انصاف
۱۱۹	حضرت عمر فاروقؓ کا عدل و انصاف
۱۳۴	حضرت عثمان ذوالنورینؓ کا عدل و انصاف
۱۳۵	حضرت علی المرتضیٰؓ کا عدل و انصاف
۱۳۷	حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کا عدل و انصاف
۱۳۷	حضرت مقداد بن اسودؓ کا عدل و انصاف
۱۳۸	حضرات خلفاء کرامؓ کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا
۱۴۱	کیا امیر کسی کی ملامت سے ڈرے؟
۱۴۴	حضرت ابو بکرؓ کا حضرت عمرو بن عاصؓ اور دیگر صحابہ کرام کو وصیت کرنا
۱۴۶	حضرت ابو بکر صدیقؓ کا حضرت شریک بن حبیب بن حبیب کو وصیت کرنا

صفحہ	مضمون
۱۴۷	حضرت ابو بکر صدیقؓ کا حضرت یزید بن ابی سفیانؓ کو وصیت کرنا
۱۴۹	حضرت عمر بن خطابؓ کا اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرنا
۱۵۰	حضرت عمر بن خطابؓ کا حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کو وصیت کرنا
۱۵۰	حضرت عمر بن خطابؓ کا حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو وصیت کرنا
۱۵۲	حضرت عمر بن خطابؓ کا حضرت عتبہ بن غزوٰانؓ کو وصیت کرنا
۱۵۳	حضرت عمر بن خطابؓ کا حضرت علاء بن حضرتؓ کو وصیت کرنا
۱۵۴	حضرت عمر بن خطابؓ کا حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو وصیت کرنا
۱۵۵	حضرت عثمان ذوالنورینؓ کا وصیت کرنا
۱۵۹	حضرت علی بن ابی طالبؓ کا اپنے امیروں کی وصیت کرنا
۱۶۱	رعایا کا اپنے امام کو نصیحت کرنا
۱۶۴	حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کا وصیت کرنا
۱۶۵	حضرات خلفاء و امراء کی طرز زندگی
۱۶۸	حضرت عمیر بن سعد انصاریؓ کا قصہ
۱۷۲	حضرت سعید بن عامر بن حدیمؓ کا قصہ
۱۷۴	حضرت ابو ہریرہؓ کا قصہ
۱۷۴	نبی کریم ﷺ کا خرچ کرنے کی ترغیب دینا
۱۷۷	نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرامؓ کا مال خرچ کرنے کا شوق
۱۸۹	اپنی پیاری چیزوں کو خرچ کرنا
۱۹۴	اپنی ضرورت کے باوجود مال دوسروں پر خرچ کرنا
۱۹۵	حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ کے خرچ کرنے کا قصہ
۱۹۶	حضرت عبد اللہ بن زیدؓ کے خرچ کرنے کا قصہ
۱۹۶	ایک انصاری کے خرچ کرنے کا قصہ
۱۹۷	سات گھروں کا قصہ
۱۹۷	اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے والے
۱۹۹	لوگوں میں اسلام کا شوق پیدا کرنے کیلئے مال خرچ کرنا
۲۰۰	جمادی سبیل اللہ میں مال خرچ کرنا

صفحہ	مضمون
۲۰۱	حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مال خرچ کرنا
۲۰۲	حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا مال خرچ کرنا
۲۰۳	حضرت حکیم حزام رضی اللہ عنہ کا مال خرچ کرنا
۲۰۵	حضرت ابن عمر اور دیگر صحابہ کرامؓ کا مال خرچ کرنا
۲۰۵	حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابی عورتوں کا مال خرچ کرنا
۲۰۶	فقراء مساکین اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا
۲۰۸	حضرت سعید بن عامر بن حذیمؓ کا مال خرچ کرنا
۲۱۰	حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا مال خرچ کرنا
۲۱۱	حضرت عثمان بن ابی العاصؓ کا مال خرچ کرنا
۲۱۲	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مال خرچ کرنا
۲۱۲	اپنے ہاتھ سے مسکین کو دینا
۲۱۳	مانگنے والوں پر مال خرچ کرنا
۲۱۵	صحابہ کرامؓ کا صدقہ کرنا
۲۱۷	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہدیہ دینا
۲۱۸	کھانا کھلانا
۲۲۰	حضور ﷺ کا کھانا کھلانا
۲۲۲	حضرت عمر بن خطابؓ کا کھانا کھلانا
۲۲۳	حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ کا کھانا کھلانا
۲۲۳	حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا کھانا کھلانا
۲۲۶	حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کا کھانا کھلانا
۲۲۷	حضرت سعد بن عبادہؓ کا کھانا کھلانا
۲۲۸	حضرت ابو شعیب انصاریؓ کا کھانا کھلانا
۲۲۸	ایک درزی کا کھانا کھلانا
۲۲۸	حضرت جابر بن عبد اللہؓ کا کھانا کھلانا
۲۳۱	حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کا کھانا کھلانا
۲۳۳	مدینہ طیبہ میں آنے والے مہمانوں کی مہمانی کا بیان

صفحہ	مضمون
۲۴۲	کھانا تقسیم کرنا
۲۴۳	جوڑے پہنانا اور ان کی تقسیم
۲۴۷	مجاہدین کو کھانا کھلانا
۲۴۹	نبی کریم ﷺ کے خرچ اخراجات کی کیا صورت تھی؟
۲۴۱	نبی کریم ﷺ کے خود مال تقسیم کرنے کا اور تقسیم کرنے کی صورت کا بیان
۲۵۳	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال تقسیم کرنا اور سب کو برابر اور دینا
	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مال تقسیم کرنا اور پرانوں اور حضور ﷺ کے رشتہ داروں کو زیادہ دینا۔
۲۵۶	
۲۶۰	حضرت عمرؓ کا لوگوں کو وظیفے دینے کیلئے رجسٹر بنانا
	مال کی تقسیم میں حضرت عمرؓ کا حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ کی رائے کی طرف رجوع کرنا۔
۲۶۳	
۲۶۳	حضرت عمرؓ کا مال دینا
۲۶۵	حضرت علی بن ابی طالبؓ کا مال تقسیم کرنا
۲۶۵	حضرت عمر اور حضرت علیؓ کا بیت المال کے سارے مال کو تقسیم کرنا
۲۶۹	مسلمانوں کے مالی حقوق کے بارے میں حضرت عمرؓ کی رائے
۲۷۱	حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ کا مال تقسیم کرنا
۲۷۳	حضرت زبیر بن عوفؓ کا مال تقسیم کرنا
۲۷۵	حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ کا مال تقسیم کرنا
۲۷۶	حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت حذیفہؓ کا مال تقسیم کرنا
۲۷۸	حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا مال تقسیم کرنا
۲۷۹	حضرت اشعث بن قیسؓ کا مال تقسیم کرنا
۲۸۰	حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تقسیم کرنا
۲۸۱	دودھ پیتے بچوں کے لئے وظیفہ مقرر کرنا
۲۸۲	بیت المال میں سے اپنے لوہے اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں احتیاط برتنا
۲۸۸	مال واپس کرنا
۲۹۲	حضرت ابو بکر صدیقؓ کا مال واپس کرنا

صفحہ	مضمون
۲۹۴	حضرت عمر بن خطابؓ کا مال واپس کرنا
۲۹۵	حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کا مال واپس کرنا
۲۹۶	حضرت سعید بن عامرؓ کا مال واپس کرنا
۲۹۷	حضرت عبد اللہ بن سعدؓ کا مال واپس کرنا
۲۹۸	حضرت حکیم بن حزامؓ کا مال واپس کرنا
۲۹۹	حضرت عامر بن ربیعہؓ کا زمین واپس کرنا
۲۹۹	حضرت ابو ذر غفاریؓ کا مال واپس کرنا
۳۰۱	حضور ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافعؓ کا مال واپس کرنا
۳۰۲	حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر صدیقؓ کا مال واپس کرنا
۳۰۳	حضرت عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالبؓ کا مال واپس کرنا
۳۰۵	حضرت ابو بکر صدیقؓ کی صاحبزادیوں حضرت اسماء اور حضرت عائشہؓ کا مال واپس کرنا
۳۰۵	سوال کرنے سے بچنا
۳۰۷	دنیا کی وسعت اور کثرت سے ڈرنا حضور ﷺ کا ڈر
۳۰۹	دنیا کی وسعت سے حضرت عمر بن خطابؓ کا ڈرنا اور رونا
۳۱۳	حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا دنیا کی وسعت سے ڈرنا اور رونا
۳۱۴	حضرت خباب بن ارتؓ کا دنیا کی وسعت و کثرت سے ڈرنا اور رونا
۳۱۷	حضرت سلمان فارسیؓ کا دنیا کی کثرت سے ڈرنا اور رونا
۳۲۰	حضرت ہاشم بن عقبہ بن ربیعہ قرشیؓ کا ڈر
۳۲۰	حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کا دنیا کی کثرت اور وسعت پر ڈرنا اور رونا
۳۲۱	نبی کریم ﷺ کا زہد
۳۲۵	حضرت ابو بکر صدیقؓ کا زہد
۳۲۷	حضرت عمر بن خطابؓ کا زہد
۳۳۹	حضرت عثمان بن عفانؓ کا زہد
۳۴۰	حضرت علی بن ابی طالبؓ کا زہد
۳۴۲	حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کا زہد
۳۴۲	حضرت مصعب بن عمیرؓ کا زہد



صفحہ	مضمون
۳۴۲	حضرت عثمان بن مظعونؓ کا زہد
۳۴۵	حضرت سلمان فارسیؓ کا زہد
۳۴۶	حضرت ابوذر غفاریؓ کا زہد
۳۴۸	حضرت ابو الدرداءؓ کا زہد
۳۵۰	حضرت معاذ بن عمروؓ کا زہد
۳۵۱	حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا زہد
۳۵۳	حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کا زہد
۳۶۱	اسلام کے تعلقات کو مضبوط کرنے کیلئے جاہلیت کے تعلقات کو بالکل ختم کر دینا
۳۶۷	حضرات صحابہ کرامؓ کے دلوں میں حضور ﷺ کی محبت
۳۷۴	صحابہ کرامؓ کا حضور ﷺ کی محبت کو اپنی محبت پر مقدم رکھنا
۳۷۷	حضور ﷺ کی عزت اور تعظیم کرنا
۳۸۳	حضور ﷺ کے جسم مبارک کا بوسہ لینا
۳۸۷	حضور ﷺ کی جدائی کے یاد آجانے پر صحابہ کرامؓ کا رونا
۳۸۹	حضور ﷺ کی وفات کے خوف سے صحابہ کرامؓ کا رونا
۳۹۰	حضور ﷺ کا (صحابہ کرام اور امت کو) الوداع کہنا
۳۹۲	حضور ﷺ کا وصال مبارک
۳۹۳	حضور ﷺ کی تجنیز و تنفیہ
۳۹۵	حضور ﷺ پر نماز جنازہ پڑھے جانے کی کیفیت
	حضور ﷺ کی وفات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی حالت اور ان کا
۳۹۷	حضور ﷺ کی جدائی پر رونا۔
۴۰۰	حضور ﷺ کی وفات پر صحابہ کرامؓ نے کیا کہا
۴۰۲	صحابہ کرامؓ کا حضور ﷺ کو یاد کر کے رونا
۴۰۵	حضور ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو صحابہ کرامؓ کا مارنا
۴۰۶	حضور ﷺ کا حکم جلالا
۴۱۶	حضور ﷺ کے حکم کیخلاف کرنیوالے پر صحابہ کرامؓ کی سختی
۴۲۱	ارشاد نبویؐ کیخلاف سرزد ہو جانے پر صحابہ کرامؓ کا خوف و ہراس

صفحہ	مضمون
۴۲۴	صحابہ کرامؓ کا نبی کریم ﷺ کا اتباع کرنا
	حضور ﷺ کو اپنے صحابہؓ، گھر والوں، خاندان والوں اور اپنی امت سے جو نسبت حاصل ہے اس نسبت کا خیال رکھنا۔
۴۳۵	مسلمانوں کے مال اور جان کا احترام کرنا
۴۴۶	مسلمان کو قتل کرنے سے چنا اور ملک کی وجہ سے لڑنے کا ناپسندیدہ ہونا
۴۵۴	مسلمان کی جان ضائع کرنے سے چنا
۴۷۱	مسلمان کو کافروں کے ہاتھ سے چھڑانا
۴۷۲	مسلمان کو ڈرانا، پریشان کرنا
۴۷۲	مسلمان کو ہلکا اور حقیر سمجھنا
۴۷۳	مسلمان کو غصہ دلانا
۴۷۴	مسلمان پر لعنت کرنا
۴۷۵	مسلمان کو گالی دینا
۴۷۶	مسلمان کی برائی بیان کرنا
۴۷۸	مسلمان کی غیبت کرنا
۴۷۹	مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کو تلاش کرنا
۴۸۴	مسلمان کے عیب کو چھپانا
۴۸۶	مسلمانوں سے درگزر کرنا اور اسے معاف کرنا
۴۹۳	مسلمان کے نامناسب فعل کی اچھی تاویل کرنا
۴۹۴	گناہ سے نفرت کرنا گناہ کرنیوالے سے نفرت نہ کرنا
۴۹۴	سینہ کو کھوٹ اور حسد سے پاک صاف رکھنا
۴۹۶	مسلمانوں کی اچھی حالت پر خوش ہونا
۴۹۶	لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا تاکہ ٹوٹ نہ جائیں
۴۹۸	مسلمان کو راضی کرنا
۵۰۲	مسلمان کی ضرورت پوری کرنا
۵۰۳	مسلمانوں کی ضرورت کے لئے کھڑا ہونا
۵۰۳	مسلمان کی ضرورت کے لئے چل کر جانا


صفحہ	مضمون
۵۰۴	مسلمان کی زیارت کرنا
۵۰۵	طنے والوں کے لئے آنے والوں کا اکرام کرنا
۵۰۶	مہمان کا اکرام کرنا
۵۰۷	قوم کے بڑے اور محترم آدمی کا اکرام کرنا
۵۰۹	قوم کے سردار کی دل جوئی کرنا
۵۰۹	حضور ﷺ کے گھر والوں کا اکرام کرنا
۵۲۲	علماء کرام، بڑوں اور دینی فضائل والوں کا اکرام کرنا
۵۲۶	بڑوں کو سردار بنانا
۵۲۶	رائے اور عمل میں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا اکرام کرنا
۵۳۰	اپنی رائے کے خلاف بڑوں کے پیچھے چلنے کا حکم
۵۳۰	اپنے بڑوں کی وجہ سے ناراض ہونا
۵۳۹	بڑوں کی وفات پر رونا
۵۴۱	بڑوں کی موت پر دلوں کی حالت کو بدلا ہوا محسوس کرنا
۵۴۲	کمزور اور فقیر مسلمانوں کا اکرام کرنا
۵۴۶	والدین کا اکرام کرنا
۵۵۰	بچوں کیسا تھ شفقت کرنا اور ان سب کیسا تھ برابر سلوک کرنا
۵۵۳	بڑوسی کا اکرام کرنا
۵۵۵	نیک رفیق سفر کا اکرام کرنا
۵۵۶	لوگوں کے مرتبے کا لحاظ کرنا
۵۵۶	مسلمان کو سلام کرنا
۵۵۹	سلام کا جواب دینا
۵۶۲	سلام بھیجنا
۵۶۳	مصافحہ اور معافتہ کرنا
۵۶۵	مسلمان کے ہاتھ پاؤں اور سر کا بوسہ لینا
۵۶۵	حضرت عمرؓ نے حضور ﷺ کا بوسہ لیا ہے
۵۶۷	مسلمان کے احترام میں کھڑا ہونا

صفحہ	مضمون
۵۶۹	مسلمان کی خاطر اپنی جگہ سے ذرا سرک جانا
۵۶۹	پاس بیٹھنے والے کا اکرام کرنا
۵۷۰	مسلمان کے اکرام کو قبول کرنا
۵۷۱	یتیم کا اکرام کرنا
۵۷۱	والد کے ڈوسٹ کا اکرام کرنا
۵۷۲	مسلمان کی دعوت قبول کرنا
۵۷۳	مسلمانوں کے راستہ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا
۵۷۴	چھینکنے والے کو جواب دینا
۵۷۶	مریض کی بیماری پر سی کرنا اور اسے کیا کہنا چاہیے
۵۸۲	اندر آنے کی اجازت مانگنا
۵۸۸	مسلمان سے اللہ کے لئے محبت کرنا
۵۹۱	مسلمان سے بات چیت چھوڑ دینا اور تعلقات ختم کر لینا
۵۹۳	آپس میں صلح کرانا
۵۹۴	مسلمان سے سچا وعدہ کرنا
۵۹۴	مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچنا
۵۹۵	مسلمان کی تعریف کرنا اور تعریف کی کون سی صورت اللہ کو ناپسند ہے
۵۹۹	صلہ رحمی اور قطع رحمی
۶۰۲	حسن اخلاق کا بیان
۶۰۸	نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کے اخلاق
۶۲۱	بردباری اور درگزر کرنا
۶۱۸	نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کی بردباری
۶۱۹	نبی کریم ﷺ کی شفقت
۶۲۰	نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کی شفقت
۶۲۰	نبی کریم ﷺ کی حیاء
۶۲۱	نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کی حیاء
۶۲۴	حضور ﷺ کی تواضع

صفحہ	مضمون
۶۲۹	نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کی تواضع
۶۳۸	مزاح اور دل لگی
۶۴۱	حضور ﷺ کے صحابہؓ کا مزاح و دل لگی
۶۴۲	سخاوت اور جود
۶۴۵	نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کی سخاوت
۶۴۶	ایثار و ہمدردی
۶۴۶	سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا صبر
۶۴۷	نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کرام کا صبر کیوں پر صبر
۷۵۲	پیمانہ کی چلے جانے پر صبر کرنا
۷۵۳	سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا صبر
۶۵۶	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کا موت پر صبر
۶۶۶	عام مصائب پر صبر کرنا
۶۶۸	سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کا شکر
۶۷۰	نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کا شکر
۶۷۳	اجرو ثواب حاصل کرنے کا شوق
۶۷۳	نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کا اجرو ثواب حاصل کرنے کا شوق
۶۷۸	عبادت میں کوشش اور محنت
۶۷۹	نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کی کوشش اور محنت
۶۷۹	سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہؓ کی بھادری
۶۸۱	تقویٰ اور کمال احتیاط
۶۸۱	نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کا تقویٰ اور کمال احتیاط
۶۸۳	سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا توکل
۶۸۳	نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کا توکل
۶۸۶	نقد پر پرور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا
۶۸۶	تقویٰ
۶۸۸	اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر

صفحہ	مضمون
۲۸۸	نبی کریم ﷺ کے صحابہ کا خوف
۲۹۲	سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا رونا
۲۹۲	نبی کریم ﷺ کے صحابہ کا رونا
۲۹۷	غور و فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا
۲۹۸	نفس کا محاسبہ
۲۹۹	خاموشی اور زبان کی حفاظت
۷۰۰	نبی کریم ﷺ کے صحابہ کی خاموشی
۷۰۳	حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی گفتگو
۷۰۵	سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا مسکراتا اور ہنستا
۷۰۸	دقار اور سنجیدگی
۷۰۹	غصہ پی جانا
۷۰۹	غیرت
۷۱۱	نیکی کا حکم کرنا اور بدائی سے روکنا
۷۱۹	تہائی اور گوشہ نشینی
۷۲۱	جو مل جائے اسی پر راضی رہنا
۷۲۲	نکاح میں حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ کا طریقہ
۷۲۳	حضور ﷺ کا حضرت عائشہ اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہما سے نکاح
۷۲۷	حضور ﷺ کا حضرت حصہ بنت عمر سے نکاح
۷۲۷	حضور ﷺ کا حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ سے نکاح
۷۲۹	حضور ﷺ کا حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے نکاح
۷۳۱	حضور ﷺ کا حضرت زینب بنت جحش سے نکاح
۷۳۲	حضور ﷺ کا حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب سے نکاح
۷۳۶	حضور ﷺ کا حضرت جویریہ بنت الحارث خزاعیہ سے نکاح
۷۳۷	حضور ﷺ کا حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ سے نکاح
۷۳۸	نبی کریم ﷺ کا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے شادی کرنا۔

صفحہ	مضمون
۷۴۲	حضرت ربیعہ سلمیٰ رضی اللہ عنہ کا نکاح
۷۴۴	حضرت جلیب رضی اللہ عنہ کا نکاح
۷۴۵	حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نکاح
۷۴۷	حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا نکاح
	حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا اپنی بیٹی سے ورداء کی ایک غریب سادہ
۷۴۸	مسلمان سے شادی کرنا۔
	حضرت علی بن ابی طالبؓ کا اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے
۷۴۸	حضرت عمر بن خطابؓ کی شادی کرنا۔
	حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا اپنی بیٹی سے حضرت عمرو بن
۷۴۹	حریث رضی اللہ عنہ کی شادی کرنا۔
۷۵۰	حضرت بلال اور ان کے بھائی رضی اللہ عنہما کا نکاح
۷۵۰	نکاح میں کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے پر انکار
۷۵۱	مہر کا بیان
۷۵۲	عورتوں مردوں اور بچوں کی معاشرت اور آپس میں رہن سہن
۷۶۷	نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی معاشرت
۷۷۸	کھانے پینے میں حضور ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کا طریقہ
۷۸۳	لباس میں نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام کا طریقہ
۷۹۱	نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات کے گھر



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text notes that any discrepancies or errors in the records can lead to significant complications during an audit and may result in the disallowance of certain expenses.

2. The second part of the document addresses the issue of proper documentation. It states that all receipts and invoices must be properly filed and indexed. This not only facilitates the audit process but also helps in the identification and correction of any missing or incomplete records. The document further explains that the lack of proper documentation can be a major red flag for auditors and may lead to a more extensive and costly audit.

3. The third part of the document discusses the importance of timely reporting. It highlights that all financial information should be reported to the appropriate authorities in a timely and accurate manner. This is essential for maintaining the trust of stakeholders and for ensuring compliance with applicable laws and regulations. The text also notes that late reporting can result in penalties and may damage the organization's reputation.

4. The fourth part of the document focuses on the importance of transparency and communication. It states that all relevant parties should be kept informed of the organization's financial status and any potential risks. This includes providing regular updates to the board of directors and other key stakeholders. The document further explains that transparency is a key factor in building trust and confidence in the organization's financial management.

5. The fifth part of the document discusses the importance of internal controls. It notes that a strong system of internal controls is essential for preventing and detecting errors and fraud. This includes implementing proper segregation of duties, maintaining accurate records, and conducting regular internal audits. The text also explains that a robust internal control system can help to reduce the risk of financial misstatements and ensure the accuracy of the financial statements.

6. The sixth part of the document addresses the issue of professional conduct. It states that all individuals involved in the financial reporting process should adhere to the highest standards of professional conduct. This includes being honest, objective, and transparent in all dealings. The document further explains that any unethical behavior or misconduct can have serious consequences for the organization and its stakeholders.

7. The seventh part of the document discusses the importance of staying up-to-date on changes in laws and regulations. It notes that the financial reporting environment is constantly evolving, and organizations must stay informed of any new requirements or changes. This includes attending relevant seminars and conferences, as well as consulting with legal and accounting professionals. The text also explains that staying up-to-date is essential for ensuring compliance and avoiding penalties.

8. The eighth part of the document focuses on the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text notes that any discrepancies or errors in the records can lead to significant complications during an audit and may result in the disallowance of certain expenses.

9. The ninth part of the document addresses the issue of proper documentation. It states that all receipts and invoices must be properly filed and indexed. This not only facilitates the audit process but also helps in the identification and correction of any missing or incomplete records. The document further explains that the lack of proper documentation can be a major red flag for auditors and may lead to a more extensive and costly audit.

10. The tenth part of the document discusses the importance of timely reporting. It highlights that all financial information should be reported to the appropriate authorities in a timely and accurate manner. This is essential for maintaining the trust of stakeholders and for ensuring compliance with applicable laws and regulations. The text also notes that late reporting can result in penalties and may damage the organization's reputation.

11. The eleventh part of the document focuses on the importance of transparency and communication. It states that all relevant parties should be kept informed of the organization's financial status and any potential risks. This includes providing regular updates to the board of directors and other key stakeholders. The document further explains that transparency is a key factor in building trust and confidence in the organization's financial management.

12. The twelfth part of the document discusses the importance of internal controls. It notes that a strong system of internal controls is essential for preventing and detecting errors and fraud. This includes implementing proper segregation of duties, maintaining accurate records, and conducting regular internal audits. The text also explains that a robust internal control system can help to reduce the risk of financial misstatements and ensure the accuracy of the financial statements.

13. The thirteenth part of the document addresses the issue of professional conduct. It states that all individuals involved in the financial reporting process should adhere to the highest standards of professional conduct. This includes being honest, objective, and transparent in all dealings. The document further explains that any unethical behavior or misconduct can have serious consequences for the organization and its stakeholders.

14. The fourteenth part of the document discusses the importance of staying up-to-date on changes in laws and regulations. It notes that the financial reporting environment is constantly evolving, and organizations must stay informed of any new requirements or changes. This includes attending relevant seminars and conferences, as well as consulting with legal and accounting professionals. The text also explains that staying up-to-date is essential for ensuring compliance and avoiding penalties.

15. The fifteenth part of the document focuses on the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text notes that any discrepancies or errors in the records can lead to significant complications during an audit and may result in the disallowance of certain expenses.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## حصہ دوم

### از کتاب حیاة الصحابہ رضی اللہ عنہم

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا باہمی اتحاد اور اتفاق رائے کا اہتمام کرنا اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف دعوت دینے اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے میں آپس کے اختلاف اور جھگڑے سے بچنے کا

### اہتمام کرنا

لین اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سقیفہ بنی ساعدہ والے دن بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے دو امیر ہوں کیونکہ جب بھی ایسا ہو گا مسلمانوں کے تمام کاموں اور تمام احکام میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور ان کا شیرازہ بٹھر جائے گا اور ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا اور پھر سنت چھوٹ جائے گی اور بدعت غالب آجائے گی اور بڑا فتنہ ظاہر ہو گا اور کوئی بھی اسے ٹھیک نہ کر سکے گا۔

حضرت سالم بن عبید رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے بارے میں روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس موقع پر انصار میں سے ایک آدمی نے کہا ایک امیر ہم (انصار) میں سے ہو اور ایک امیر آپ (مہاجرین) میں سے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک پیام میں دو تلواریں نہیں سہکتیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا: اے لوگو! (اپنے امیر کی) بات ماننا اور آپس

میں اکٹھے رہنا اپنے لئے ضروری سمجھو۔ کیونکہ یہی چیز اللہ کی وہ رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور آپس میں جڑ مل کر چلنے میں جو ناگوار باتیں تمہیں پیش آئیں گی وہ تمہاری ان پسندیدہ باتوں سے بہتر ہیں جو تم کو الگ چلنے میں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک انتہاء بھی بنائی ہے جہاں وہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ یہ اسلام کے ثبات اور ترقی کا زمانہ ہے اور عقرب یہ بھی اپنی انتہاء کو پہنچ جائے گا۔ پھر قیامت کے دن تک اس میں کمی زیادتی ہوتی رہے گی اور اس کی نشانی یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ فقیر ہو جائیں گے اور فقیر کو ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اس پر احسان کرے اور غمی بھی یہ سمجھے گا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے لئے کافی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اپنے سگے بھائی اور چچا زاد بھائی سے اپنی فقیری کی شکایت کرے گا لیکن وہ بھی اسے کچھ نہیں دے گا اور یہاں تک کہ ضرورت مند سائل ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہفتہ بھر مانگتا پھرے گا لیکن کوئی بھی اس کے ہاتھ پر کچھ نہیں رکھے گا اور جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی تو زمین سے ایک زوردار آواز اس طرح نکلے گی کہ ہر میدان کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ آواز ان کے میدان سے ہی نکلی ہے اور پھر جب تک اللہ چاہیں گے زمین میں خاموشی رہے گی۔ پھر زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو باہر نکال پھینکے گی۔ ان سے پوچھا گیا اے حضرت ابو عبد الرحمن! زمین کے جگر کے ٹکڑے کیا چیز ہیں؟ آپ نے فرمایا سونے اور چاندی کے ستون اور پھر اس دن کے بعد سے قیامت کے دن تک سونے اور چاندی سے کسی طرح کا نفع نہیں اٹھایا جاسکے گا۔ لہٰذا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر حضرات کی روایت میں یہ مضمون ہے کہ رشتہ دار یوں کو توڑا جائے گا یہاں تک کہ مالدار کو صرف فقیر کا ڈر ہو گا اور فقیر کو کوئی آدمی ایسا نہ ملے گا جو اس پر احسان کرے اور آدمی کا چچا زاد بھائی مالدار ہو گا اور وہ اس سے اپنی حاجت کی شکایت کرے گا لیکن وہ چچا زاد بھائی اسے کچھ نہیں دے گا۔ اس کے بعد والا مضمون ذکر نہیں کیا۔ ۱

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے لئے ایک چیز اٹھا کر لے چلے۔ ان کے مقام ربذہ پہنچ کر ہم نے ان کے بارے میں پوچھا تو وہ ہمیں وہاں نہ ملے اور ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے (امیر المؤمنین سے) حج پر جانے کی اجازت

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۷ ص ۳۲۸) رواہ الطبرانی باسنادہ وفيہ مجالد وقد وثق

وفيہ خلاف وبقیة رجال احدى الطرق ثقات. انتهى

۲۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۹ ص ۲۴۹)

مانگی تھی۔ ان کو اجازت مل گئی تھی (وہ حج کرنے گئے ہوئے ہیں) چنانچہ ہم وہاں سے چل کر شہر منیٰ میں ان کے پاس پہنچے ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ان کو بتایا کہ (امیر المؤمنین) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے (منیٰ میں) چار رکعت نماز پڑھی ہے تو انہیں اس سے بڑی ناگواری ہوئی اور اس بارے میں انہوں نے بڑی سخت بات کہی اور فرمایا میں نے حضور ﷺ کے ساتھ (یہاں منیٰ میں) نماز پڑھی تھی تو آپ نے دو رکعت نماز پڑھی تھی اور میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ (یہاں) نماز پڑھی تھی (تو انہوں نے بھی دو دو رکعت نماز پڑھی تھی) لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر چار رکعت نماز پڑھی (حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں شادی کر لی تھی اور مکہ میں کچھ دن رہنے کا ارادہ کر لیا تھا اس لئے وہ مقیم ہو گئے تھے اور چار رکعت نماز پڑھ رہے تھے) اس پر ان کی خدمت میں کہا گیا کہ امیر المؤمنین کے جس کام پر آپ اعتراض کر رہے تھے اب آپ خود ہی اسے کر رہے ہیں۔ فرمایا امیر کی مخالفت کرنا اس سے زیادہ سخت ہے۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا تھا تو ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد بادشاہ ہو گا تم اسے ذلیل نہ کرنا کیونکہ جس نے اسے ذلیل کرنے کا ارادہ کیا اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے نکال پھینکا اور اس شخص کی توبہ اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک وہ اس سورج کو بند نہ کر دے جو اس نے کیا ہے (یعنی بادشاہ کو ذلیل کر کے اس نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی نہ کر لے) اور وہ ایسا کرنے سکے گا اور (اپنے سابقہ رویہ سے رجوع کر کے اس بادشاہ کی عزت کرنے والا نہ بن جائے۔ حضور ﷺ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ تین باتوں میں بادشاہوں کو ہم اپنے پر غالب نہ آنے دیں (یعنی ہم ان کی عزت کرتے رہیں لیکن ان کی وجہ سے یہ تین کام نہ چھوڑیں) ایک تو ہم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں اور لوگوں کو سنت طریقے سکھاتے رہیں۔

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ اور منیٰ میں دو رکعت قصر نماز پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں دو ہی رکعت نماز پڑھی لیکن بعد میں چار رکعت پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا انا لله وانا اليه راجعون (لیکن جب نماز پڑھنے کا

وقت آیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر چار رکعت نماز پڑھی تو ان سے کہا گیا کہ (چار رکعت کی خبر پر تو) آپ نے انا للہ پڑھی تھی اور خود چار رکعت پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا امیر کی مخالفت کرنا اس سے زیادہ بری چیز ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم ویسے ہی فیصلے کرتے رہو جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ کیونکہ میں اختلاف کو بہت بری چیز سمجھتا ہوں یا تو لوگوں کی ایک ہی جماعت رہے یا میں مر جاؤں جیسے میرے ساتھی (حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بغیر اختلاف کے) مر گئے۔ چنانچہ حضرت لن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ (غلو پسند) لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عموماً جو روایات نقل کرتے ہیں وہ غلط ہیں۔ ۲

حضرت سلیم بن قیس عامری بیان کرتے ہیں کہ لن کواء نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنت اور بدعت اور اکٹھے رہنے اور بکھر جانے کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا اے لن کواء! تم نے سوال یاد رکھا اب اس کا جواب سمجھ لو۔ اللہ کی قسم! سنت تو حضرت محمد ﷺ کا طریقہ ہے بدعت وہ کام ہے جو اس طریقہ سے ہٹ کر ہو اور اللہ کی قسم! اہل حق کا اکٹھا ہونا ہی اصل میں اکٹھا ہونا ہے چاہے وہ تعداد میں کم ہوں اور اہل باطل کا اکٹھا ہونا حقیقت میں بکھر جانا ہے چاہے وہ تعداد میں زیادہ ہوں۔ ۳

## صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا

### حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ (حضور ﷺ کے انتقال کی خبر سن کر) حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ محلہ سے اپنی سواری پر تشریف لائے اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر سواری سے نیچے اترے۔ آپ بڑے بے چین اور غمگین تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گھر میں آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ نے اجازت دی۔ حضرت ابو بکر اندر تشریف لے گئے۔ حضور ﷺ کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ اپنے بستر پر تھے اور آپ کی ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت

۱۔ اخرجہ عبدالرزاق کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۲۴۲) ۲۔ اخرجہ البخاری و ابو عبید فی کتاب الاموال والاصبہانی فی الحجۃ کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۵۰) ۳۔ اخرجہ العسكري کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۹۶)

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات نے اپنے چہرے چادروں سے چھپائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردہ کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بوسہ لینے لگے اور روتے ہوئے فرمانے لگے کہ حضرت (عمر) لکن خطاب جو کہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے (کہ حضور ﷺ کا انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ یہ بے ہوشی طاری ہوئی ہے یا ان کی روح معراج میں گئی ہے جو واپس آجائے گی) رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! یا رسول اللہ! آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ حالت حیات میں اور وفات کے بعد بھی کتنے پائیزہ ہیں۔ حضرت ابو بکر نے حضور ﷺ کے چہرے پر چادر ڈال دی اور پھر تیزی سے مسجد کی طرف چلے اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے منبر تک پہنچے۔ حضرت ابو بکر کو آتا ہوا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر نے منبر کی ایک جانب کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی۔ آواز سن کر سب بیٹھ گئے اور خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر نے کلمہ شہادت جیسا انہیں آتا تھا پڑھا اور فرمایا کہ جب اللہ کے نبی ﷺ تمہارے درمیان زندہ تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی خبر دے دی تھی اور تم کو بھی تمہاری موت کی خبر دے دی اور یہ موت ایک یقینی امر ہے۔ اللہ عزوجل کے علاوہ تم میں سے کوئی بھی (اس دنیا میں) باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے (قرآن میں) فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران آیت ۱۴۴)

ترجمہ اور محمد نبیرے رسول ہی تو ہیں اور آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید ہی ہو جاویں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا (میں اس آیت کو بالکل ہی بھول گیا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے سے مجھے یہ یاد آئی اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے) قرآن کی یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے اور آج سے پہلے نازل نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ سے فرمایا ہے إِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَنْتُمْ قَبِيحُونَ (زمر آیت ۳۰)

ترجمہ۔ آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (قصص آیت ۸۸)

ترجمہ۔ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں بجز اس کی ذات کے اسی کی حکومت ہے (جس کا ظہور کامل قیامت میں ہے) اور اسی کے پاس تم سب کو جانا ہے (پس سب کو ان کے کئے کی جزا دے گا) اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَسْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(رحمن آیت ۲۶)

ترجمہ۔ جتنے (ذی روح) روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے اور آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت والی احسان والی ہے باقی رہ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران آیت ۱۸۵)

ترجمہ۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پوری پاداش تمہاری قیامت کے روز ملے گی۔ اور پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو اتنی عمر عطا فرمائی اور ان کو اتنا عرصہ دنیا میں باقی رکھا کہ اس عرصہ میں آپ نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا، اللہ کے حکم کو غالب کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اللہ کے راستہ میں جہاد کیا۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت پر وفات دی اور حضور ﷺ تمہیں ایک (صاف اور کھلے) راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں اب جو بھی ہلاک ہو گا وہ اسلام کی واضح ذیلیوں اور (کفر و شرک سے) شفاء دینے والے قرآن کو دیکھ کر ہی ہلاک ہو گا۔ جس آدمی کے رب اللہ تعالیٰ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہیں جن پر موت نہیں آسکتی۔ اور جو حضرت محمد ﷺ کی عبادت کیا کرتا تھا اور ان کو معبود کا درجہ دیا کرتا تھا تو (وہ سن لے کر) اس کا معبود مر گیا۔ اے لوگو! اللہ سے ڈرو اور اپنے دین کو مضبوط پکڑو اور اپنے رب پر توکل کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہے اور جو اللہ (کے دین) کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے اور اپنے دین کو عزت عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے جو کہ نور اور شفاء ہے۔ اسی کتاب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو ہدایت عطا فرمائی اور اسی کتاب میں اللہ کی حلال اور حرام کردہ چیزیں مذکور ہیں۔ اللہ کی قسم! اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی ہمارے اوپر لشکر لائے گا ہم اس کی کوئی پروہ نہیں کریں گے۔ بھگ اللہ کی تلواریں ستی ہوئی ہیں۔ ہم نے ان کو ابھی رکھا نہیں ہے اور جو ہماری مخالفت کرے گا ہم اس سے جہاد کریں گے جیسے کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ ہو کر جہاد کیا کرتے تھے۔ اب جو بھی زیادتی کرے گا وہ حقیقت میں اپنے اوپر ہی زیادتی کرنے والا ہے۔ پھر ان کے ساتھ مہاجرین حضور ﷺ کی طرف (تکلفین اور تدفین کے لئے) چلے گئے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ آخری خطبہ سنا جو انہوں نے منبر پر بیٹھ کر بیان فرمایا تھا۔ یہ حضور ﷺ کی وفات سے اگلے دن کی بات ہے اور اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بالکل خاموش تھے اور کوئی بات نہ فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے امید تھی کہ حضور ﷺ اتنا زیادہ عرصہ زندہ

رہیں گے کہ ہم دنیا سے پہلے چلے جائیں گے اور حضور ہمارے بعد تشریف لے جائیں گے۔ (لیکن اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا اب) اگر حضرت محمد (علیہ السلام) کا انتقال ہو گیا ہے تو (گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے) اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک نور (یعنی قرآن) باقی رکھا ہوا ہے جس کے ذریعہ سے تم ہدایت پاسکتے ہو اور اسی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو ہدایت نصیب فرمائی تھی اور (دوسری بات یہ ہے کہ) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے (خاص) صحابی ہیں اور (ان کی امتیازی صفت اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب حضور ﷺ ہجرت کی رات میں مکہ سے چل کر غار ثور میں چھپ گئے تھے تو اس وقت صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی حضور ﷺ کے ساتھ تھے۔ جس کی وجہ سے قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق) یہ ثانی النین یعنی دو میں سے دوسرے ہیں اور یہ تمہارے کاموں کے لئے تمام مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ مناسب ہیں لہذا کھڑے ہو کر ان سے بیعت ہو جاؤ اور اس سے پہلے سقیۃ بنی ساعدہ میں ایک جماعت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو چکی تھی۔ اور عام مسلمانوں کی بیعت (مسجد میں) منبر پر ہوئی۔ حضرت زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنا کہ وہ حضرت ابو بکرؓ سے کہہ رہے تھے کہ آپ منبر پر تشریف لے جائیں اور ان کو بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو منبر پر خود چڑھایا۔ پھر عام مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سقیۃ (بنی ساعدہ) میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ (حضور ﷺ کے انتقال کے) اگلے دن منبر پر بیٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی شایان شان حمد و ثناء بیان کی۔ پھر فرمایا اے لوگو! کل میں نے تمہارے سامنے ایسی بات کہہ دی تھی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس میں ملی ہے اور نہ اس کا مجھ سے حضور ﷺ نے عہد لیا تھا بس میرا اپنا یہ خیال تھا کہ حضور ﷺ ہم سب کے بعد دنیا سے تشریف لے جائیں گے (اس لئے کل میں نے کہہ دیا تھا کہ حضرت محمد ﷺ کا انتقال نہیں ہوا جو کہ غلط تھا) اور اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے میں اپنی اس کتاب کو باقی رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو ہدایت نصیب فرمائی تھی۔ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان باتوں کی ہدایت دے

دے گا جن کی انہیں ہدایت دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے امر (خلافت) کو تمہارے میں سب سے بہترین آدمی پر مجتمع فرمادیا ہے جو حضور ﷺ کے صحابی اور عار ثور کے ساتھی ہیں۔ لہذا تم سب کھڑے ہو کر ان سے بیعت ہو جاؤ۔ چنانچہ سقیفہ کی بیعت کے بعد (اب مسجد میں) عام مسلمانوں نے حضرت ابو بکر سے بیعت کی۔ پھر حضرت ابو بکر نے بیان فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب حمد و ثناء بیان کی اور پھر کہا مجھے تمہارا اولیٰ بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں (حضرت ابو بکر یہ بات تو اھضا فرما رہے ہیں ورنہ تمام علماء امت کے نزدیک حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں) اگر میں ٹھیک کام کروں تو تم میری مدد کرو اور اگر میں ٹھیک نہ کروں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ سچائی امانت داری ہے اور جھوٹ خیانت ہے اور تمہارا کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے وہ جو بھی شکایت میرے پاس لے کر آئے گا میں انشاء اللہ اسے ضرور دور کروں گا۔ تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے میں اس سے کمزور کا حق لے کر کمزور کو انشاء اللہ دوں گا۔ جو لوگ بھی جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان پر ذلت مسلط فرمادیں گے اور جو لوگ بھی بے حیائی کی اشاعت کرنے لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ (دنیا میں) ان سب کو (فرمانبردار اور نافرمان کو) عام سزا دیں گے۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہوں تم بھی میری مانتے رہو اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو پھر میری اطاعت تم پر لازم نہیں ہے۔ اب نماز کیلئے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھایا کرتا تھا (اس زمانہ میں بڑے چھوٹوں سے بھی علم حاصل کیا کرتے تھے) ایک دن حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ اپنی قیام گاہ پر واپس آئے تو انہوں نے مجھے اپنے انتظار میں پایا اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آخری حج کا اور منیٰ کا واقعہ ہے۔ حضرت عبدالرحمن نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کی خدمت میں آکر کہا کہ فلاں آدمی کہہ رہا تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں آدمی سے (یعنی حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے) بیعت خلافت کر لوں گا۔ اللہ کی قسم! حضرت ابو بکر کی بیعت یوں اچانک ہوئی تھی اور پوری ہو گئی تھی (میں بھی یوں اچانک ان سے بیعت کر لوں گا تو ان کی بیعت بھی پوری ہو جائے گی اور سب ان سے بیعت ہو جائیں گے) اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج شام انشاء اللہ میں لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان



کروں گا اور لوگوں کو اس جماعت سے ڈراؤں گا جو مسلمانوں سے ان کا امر خلافت (یوں اچانک) چھیننا چاہتے ہیں (یعنی بغیر مشورہ اور سوچ و چار کے اپنی مرضی کے آدمی کی اہلیت دیکھے بغیر خلیفہ بنانا چاہتے ہیں) حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المؤمنین! آپ ایسا نہ کریں کیونکہ موسم حج میں گرے پڑے، کم سمجھ اور عام لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بیان کے لئے لوگوں میں کھڑے ہوں گے تو یہی آپ کی مجلس میں غالب آجائیں گے (اور یوں سمجھدار عقلمند آدمیوں کو آپ کی مجلس میں جگہ نہ ملے گی) اس لئے مجھے خطرہ ہے کہ آپ جو بات کہیں گے اسے یہ لوگ لے اڑیں گے نہ خود پوری طرح سمجھیں گے اور نہ اسے موقع محل کے مطابق دوسروں سے بیان کر سکیں گے۔ (لہذا ابھی آپ صبر فرمائیں) جب آپ مدینہ پہنچ جائیں (تو وہاں آپ یہ بیان فرمائیں) کیونکہ مدینہ ہجرت کا مقام اور سنت نبوی کا گھر ہے۔ لوگ آپ کی بات کو پوری طرح سمجھ بھی لیں گے اور موقع محل کے مطابق اسے دوسروں سے بیان بھی کریں گے۔ حضرت عمر نے (میری بات کو قبول کرتے ہوئے) فرمایا اگر میں صحیح سالم مدینہ پہنچ گیا تو (انشاء اللہ) میں اپنے سب سے پہلے بیان میں لوگوں سے یہ بات ضرور کہوں گا (حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ) جب ہم ذی الحجہ کے آخری دنوں میں جمعہ کے دن مدینہ پہنچے تو میں سخت گرمی کی پرواہ کئے بغیر عین دوپہر کے وقت جلدی سے (مسجد نبوی) گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے آکر منبر کے دائیں کنارے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کے برابر میں گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت عمر تشریف لے آئے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منبر پر ایسی بات کہیں گے جو آج سے پہلے اس پر کسی نے نہ کہی ہوگی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ میرا تو یہ خیال نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ایسی بات کہیں جو ان سے پہلے کسی نے نہ کہی ہو (کیونکہ دین تو حضور ﷺ کے زمانہ میں پورا ہو چکا۔ اب کون نئی بات لا سکتا ہے) چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھ گئے (پھر مؤذن نے اذان دی) جب مؤذن خاموش ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے مطابق اللہ کی حمد و ثناء بیان کی۔ پھر فرمایا۔ لہذا! اے لوگو! میں ایک بات کہنے والا ہوں۔ جس بات کو کہنا پہلے سے ہی میرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اور ہو سکتا ہے یہ بات میری موت کا پیش خیمہ ہو۔ لہذا جو میری بات کو یاد رکھے اور اسے اچھی طرح سمجھ لے تو جہاں تک

اس کی سواری اسے دنیا میں لے جائے وہاں تک کے تمام لوگوں میں میری اس بات کو بیان کرے اور جو میری بات کو اچھی طرح نہ سمجھے تو میں اسے اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں غلط بیانی سے کام لے (سب کو چوکنا کرنے کے لئے حضرت عمر نے یہ بات پہلے فرمادی) اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو حق دے کر بھیجا اور ان پر کتاب کو نازل فرمایا اور جو کتاب حضور ﷺ پر نازل ہوئی اس میں رجم (یعنی زانی کو سنگسار کرنے) کی آیت بھی تھی (اور وہ آیت یہ تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیفا فارجموہما۔ اس آیت کے الفاظ تو منسوخ ہو چکے ہیں لیکن اس کا حکم باقی ہے) ہم نے اس آیت کو پڑھا اور اسے یاد کیا اور اسے اچھی طرح سمجھا اور حضور ﷺ نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ طویل زمانہ گزرنے پر کوئی آدمی یوں کہے کہ ہم تو رجم کی آیت کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فرض کو چھوڑ کر وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور زنا کے گواہ پائے جائیں گے۔ یا زنا سے حاملہ عورت زنا کا اقرار کرے گی یا کوئی مرد یا عورت ویسے ہی زنا کا اقرار کریں گے تو اسے رجم کرنا شرعاً لازم ہو گا۔ اور سنو! ہم (قرآن میں) یہ آیت بھی پڑھا کرتے تھے لا ترغبوا عن آباءکم فان کفراً بکم ان ترغبوا عن آباءکم۔

ترجمہ: اپنے باپ دادے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف نسب کی نسبت نہ کرو۔ کیونکہ اپنے باپ دادا کے نسب کو چھوڑنا کفر ہے یعنی کفرانِ نعمت ہے (اب اس آیت کے الفاظ بھی منسوخ ہو چکے ہیں لیکن اس کا حکم باقی ہے) اور سنو! حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا گیا۔ میں تو بس ایک بندہ ہی ہوں۔ لہذا تم (میرے بارے میں) یہ کہو کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر گئے تو میں فلاں سے بیعت کر لوں گا اسے اس بات سے دھوکہ نہیں لگانا چاہئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت اچانک ہوئی تھی اور وہ پوری بھی ہو گئی تھی۔ سنو! وہ بیعت واقعی ایسے ہی (جلدی میں) ہوئی تھی لیکن اس بات سے بیعت کے (جلدی میں ہونے کے) شر سے اللہ تعالیٰ نے (ساری امت کو) بچا لیا اور آج تم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نہیں ہے جس کی فضیلت کے سب قائل ہوں اور قریب و بعید سب اس کی موافقت کر لیں جب حضور ﷺ کا انتقال ہوا اس وقت کا ہمارا قصہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ

کچھ اور لوگ حضور ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں بیچھے رہ گئے۔ اور ادھر تمام انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے اور مهاجرین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا اے ابو بکر! آئیں ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلیں۔ چنانچہ ہم ان انصاریوں کے ارادے سے چل پڑے۔ راستہ میں ہمیں دو نیک آدمی (حضرت عویم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معن رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ملے اور انصاری جو کر رہے تھے وہ ان دونوں نے ہمیں بتایا اور ہم سے پوچھا کہ اے جماعت مهاجرین! تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ ان دونوں نے کہا ان انصار کے پاس جانا آپ لوگوں کے لئے ضروری نہیں ہے۔ اے جماعت مهاجرین! تم اپنے معاملہ کا خود فیصلہ کر لو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم! نہیں۔ ہم تو ان کے پاس ضرور جائیں گے۔ چنانچہ ہم گئے اور ہم ان کے پاس پہنچے۔ وہ سب سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع تھے اور ان کے درمیان ایک آدمی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے کہا یہ سعد بن عبادہ ہیں۔ میں نے کہا ان کو کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا یہ بیمار ہیں۔ جب ہم بیٹھ گئے تو ان میں سے ایک صاحب بیان کے لئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد کہا المابعد! ہم اللہ (کے دین) کے انصار و مددگار اور اسلام کا لشکر ہیں اور اے جماعت مهاجرین! آپ لوگ ہمارے نبی کی جماعت ہیں۔ اور آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں نظر انداز کرنا چاہتے ہیں اور امر خلافت سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ صاحب خاموش ہو گئے تو میں نے بات کرنی چاہی۔ اور میں نے ایک مضمون (اپنے ذہن میں) تیار کر رکھا تھا جو مجھے بہت پسند تھا اور حضرت ابو بکر کے سامنے میں اسے کہنا چاہتا تھا اور میں اس میں نرمی اختیار کئے ہوئے تھا اور میں غصہ والی باتیں نہیں کہنا چاہتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے عمر! آرام سے بیٹھے رہو۔ میں نے حضرت ابو بکر کو ناراض کرنا پسند نہ کیا۔ (اس لئے اپنی بات کہنے کے لئے کھڑا نہ ہوا) چنانچہ انہوں نے گفتگو فرمائی اور وہ مجھ سے زیادہ دانا اور زیادہ باوقار تھے اور اللہ کی قسم! جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے اپنے مضمون میں جتنی باتیں سوچی تھیں وہ سب باتیں انہوں نے اپنے ہر جتہ بیان میں کہہ دیں یا تو وہی باتیں کہیں یا ان سے بہتر کہیں چنانچہ انہوں نے کہا المابعد! تم نے اپنے بارے میں خیر کا ذکر کیا تم لوگ واقعی اس کے اہل ہو۔ لیکن تمام عرب کے لوگ امر خلافت کا حق دار صرف قبیلہ قریش کو ہی سمجھتے ہیں اور قبیلہ قریش سارے عرب میں نسب اور شہر کے اعتبار سے سب سے افضل ہے اور مجھے تمہارے (خلیفہ بننے کے) لئے ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی پسند ہے۔ دونوں میں جس

سے چاہو بیعت ہو جاؤ۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابو بکر نے میرا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح کا اور اس ایک بات کے علاوہ حضرت ابو بکر کی اور کوئی بات مجھے ناگوار نہ گزری اور اللہ کی قسم! مجھے آگے بڑھا کر بغیر کسی گناہ کے میری گردن اڑا دی جائے یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے میں لوگوں کا امیر بن جاؤں۔ اس وقت تو میرے دل کی یہی کیفیت تھی لیکن مرتے وقت میری یہ کیفیت بدل جائے تو اور بات ہے۔ پھر انصار میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اس مسئلہ کا میرے پاس بہترین حل ہے اور اس مرض کی بہت عمدہ دوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اے جماعت قریش! ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے ہو۔ اس کے بعد سب بولنے لگ گئے اور آوازیں بلند ہو گئیں اور ہمیں آپس کے اختلاف کا خطرہ ہوا تو میں نے کہا اے ابو بکر! آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا پہلے میں ان سے بیعت ہوا۔ پھر مہاجرین بیعت ہوئے اس کے بعد انصار ان سے بیعت ہوئے اور یوں ہم حضرت سعد بن عبادہ پر غالب آگئے (کہ وہ امیر نہ بن سکے) اس پر ان میں سے کسی نے کہا ارے۔ تم نے تو سعد کو مار ڈالا میں نے کہا اللہ انہیں مارے (یعنی جیسے انہوں نے اس موقع پر حق کی نصرت نہیں کی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ امیر بننے میں ان کی نصرت نہ کرے) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم! اس موقع پر ہم جتنے امور میں شریک ہوئے ان میں کوئی امر حضرت ابو بکرؓ سے بیعت سے زیادہ کار آمد مناسب نہ پایا (اور میں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے بیعت کا سلسلہ ایک دم اس لئے شروع کر دیا) کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ بیعت کے بغیر ہم ان انصار کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے تو یہ ہمارے بعد کسی نہ کسی سے بیعت ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں (ان کا ساتھ دینے کے لئے) یا تو نا پسندیدہ صورت حال کے باوجود ان سے بیعت ہونا پڑے گا یا ہمیں ان کی مخالفت کرنی پڑے گی تو فساد کھڑا ہو جائے گا (لہذا اب قاعدہ کلیہ سن لو) جو آدمی مسلمانوں سے مشورہ کئے بغیر کسی امیر سے بیعت ہو جائے گا تو اس کی یہ بیعت شرعاً معتبر نہ ہوگی اور نہ اس امیر کی بیعت کی کوئی حیثیت ہوگی۔ بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ (ان دونوں کے بارے میں حکم شرعی یہ ہو کہ اگر یہ حق بات نہ مانیں تو ان) دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت زہری حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ دو آدمی جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو راستہ میں ملے تھے وہ حضرت عویم بن ساعدہ اور حضرت معن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جن صاحب نے کہا تھا کہ اس مسئلہ کا میرے پاس بہترین حل ہے وہ حضرت حباب بن منذر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔!

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کا قصہ اس طرح ہوا کہ حضور ﷺ کا انتقال ہوا۔ تو ہم سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو چکے ہیں اور وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر ان کی طرف چل پڑے کہ کہیں یہ انصار اسلام میں نئی بات نہ کھڑی کر دیں۔ راستہ میں ہمیں انصار کے دو آدمی ملے جو بڑے سچے آدمی تھے۔ ایک حضرت عویم بن ساعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے حضرت معن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں نے کہا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا تمہاری قوم (انصار) کے پاس۔ کیونکہ ہمیں ان کی بات پہنچ گئی ہے۔ ان دونوں نے کہا آپ حضرات واپس چلے جائیں کیونکہ آپ لوگوں کی مخالفت ہرگز نہیں کی جاسکتی ہے اور ایسا کوئی کام نہیں کیا جاسکتا ہے جو آپ حضرات کو ناگوار ہو۔ لیکن ہم نے کہا ہم تو ان کے پاس ضرور جائیں گے اور میں (راستہ میں) وہاں جا کر بیان کرنے کیلئے مضمون تیار کرتا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ ہم انصار کے پاس پہنچ گئے تو وہ حضرت سعد بن عبادہ کے ارد گرد جمع تھے اور حضرت سعد اپنے تخت پر بیمار پڑے ہوئے تھے۔ جب ہم ان کے مجمع میں پہنچ گئے تو انہوں نے (ہم سے) کہا اے جماعت قریش! ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے ہو اور حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس مرض کی میرے پاس بہت عمدہ دوا ہے اور اس مسئلہ کا میرے پاس بہترین حل ہے اور اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو ہم اس مسئلہ کا فیصلہ جو ان اونٹ کی طرح پسندیدہ بنا دیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ سب لوگ اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ کہوں لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر! تم خاموش رہو اور پھر انہوں نے حمد و ثناء کے بعد کہا اے جماعت انصار! اللہ کی قسم! آپ لوگوں کی فضیلت کا اور اسلام میں جس عظیم درجہ تک آپ لوگ پہنچ گئے ہیں اس درجہ کا اور آپ لوگوں کے حق واجب کا ہمیں انکار نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس قبیلہ قریش کو عربوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے جو ان کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور عرب اس

۱۔ اخرجہ احمد و رواہ مالک و من طریقہ اخرج هذا الحديث الجماعة كذا في البداية (ج ۵ ص ۲۳۵) و اخرجہ ايضا البخاری و ابو عبیدہ فی الغریب و البیہقی و ابن ابی شیبہ بنحوه مطولا کما فی الكنز (ج ۳ ص ۱۳۸، ۱۳۹)

قبیلہ ہی کے کسی آدمی پر جمع ہو سکیں گے۔ لہذا ہم لوگ امیر ہوں گے اور آپ لوگ وزیر۔ لہذا آپ اللہ سے ڈریں اور اسلام کے شیرازے کو نہ بکھیریں اور آپ لوگ اسلام میں سب سے پہلے نئی بات پیدا کرنے والے نہ بنیں اور ذرا غور سے سنیں! میں نے آپ لوگوں کے لئے ان دو آدمیوں میں سے ایک کو پسند کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں سے مجھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیا تھا۔ پھر فرمایا ان دونوں میں سے جس سے بھی آپ لوگ بیعت ہو جائیں وہ قابل اعتماد انسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو بات بھی کہنا پسند کرتا تھا وہ بات حضرت ابو بکر نے کہہ دی تھی سوائے اس آخری بات کے کہ یہ مجھے پسند نہ تھی۔ کیونکہ اللہ کی قسم! مجھے کسی گناہ کے بغیر قتل کیا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر مجھے قتل کیا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایسے لوگوں کا امیر بنوں جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں۔ پھر میں نے کہا اے جماعت انصار! اور اے جماعت مسلمین! حضور ﷺ کے بعد ان کے امر خلافت کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق دار وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں (قرآن مجید میں) **لَنَأْتِيَنَّكَ الْكُفْرُ فِي الْغَارِ** کے الفاظ آئے ہیں اور وہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر نیکی میں کھلے طور پر سب سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ (بیعت ہونے کے لئے) پکڑنا چاہا لیکن ایک انصاری آدمی مجھ پر سبقت لے گئے اور انہوں نے میرے ہاتھ دینے سے پہلے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا (اور بیعت ہو گئے) پھر تو لوگوں نے لگا تار بیعت ہونا شروع کر دیا اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سب کی توجہ ہٹ گئی۔!

حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ذریقہ کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ اس دن (یعنی حضور ﷺ کے انتقال کے دن) حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حجرہ سے نکلے اور انصار کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے جماعت انصار! ہمیں تمہارے حق کا انکار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مومن تمہارے حق کا انکار کر سکتا ہے۔ اور اللہ کی قسم! ہم لوگوں نے جو خیر بھی حاصل کی ہے تم اس میں ہمارے برابر کے شریک رہے ہو۔ لیکن عرب کے لوگ قریش ہی کے کسی آدمی (کے خلیفہ بننے) سے راضی اور مطمئن ہو سکیں گے۔ کیونکہ ان کی زبان تمام لوگوں سے زیادہ فصیح ہے اور ان کے

چہرے سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اور ان کا شہر (مکہ مکرمہ) تمام عرب (کے شہروں) سے افضل ہے اور یہ تمام عربوں سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں لہذا حضرت عمر کی طرف آؤ اور ان سے بیعت ہو جاؤ۔ انصار نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں؟ (یہ بات حضرت عمر نے اندر کی کملوانے کے لئے پوچھی تھی ورنہ ان کا خود خلیفہ بننے کا ارادہ نہیں تھا) انصار نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ حضرت عمر نے کہا جب تک میں زندہ رہوں گا اس وقت تک تو تم پر دوسروں کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ آپ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم مجھ سے زیادہ قوی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ مجھ سے زیادہ افضل ہیں۔ یہی بات دونوں حضرات میں دوسری دفعہ ہوئی۔ جب تیسری مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میری ساری قوت آپ کے ساتھ ہوگی اور پھر آپ کو مجھ پر فضیلت بھی حاصل ہے۔ چنانچہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے وقت کچھ لوگ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس (بیعت ہونے) آئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا تم میرے پاس آرہے ہو حالانکہ تم میں وہ صاحب بھی ہیں جن کے بارے میں (قرآن مجید میں) ثانی الثنین کے الفاظ ہیں (یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ)۔

حضرات صحابہ کرام کا امر خلافت میں حضرت ابو بکرؓ کو  
مقدم سمجھنا اور ان کی خلافت پر راضی ہونا اور جس آدمی  
نے ان میں توڑ پیدا کرنا چاہا صحابہ کرام کا اسے رد کر دینا

حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آؤ میں تمہیں (حضور ﷺ) کا خلیفہ بنا دوں کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر امت کے لئے ایک امین ہوتا ہے اور آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس آدمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا جسے

حضور ﷺ نے (نماز میں) ہمارے امام بننے کا حکم دیا ہو (اور وہ خود آپ ہی ہیں)۔<sup>۱</sup>  
 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں تم سے بیعت ہو جاؤں کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اس امت کے امین ہیں۔  
 حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس آدمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں جسے حضور ﷺ نے (نماز میں) ہمارے امام بننے کا حکم دیا ہو اور انہوں نے حضور ﷺ کے انتقال تک ہماری امامت کی ہو۔ (اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں لہذا میں خلیفہ نہیں بن سکتا)۔<sup>۲</sup> لکن سعد اور ابن جریر نے حضرت ابراہیم تیمی سے اسی جیسی حدیث روایت کی ہے اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے) کہا جب سے تم اسلام لائے ہو میں نے اس سے پہلے تم سے عاجزی اور غفلت کی بات نہیں دیکھی ہے۔ کیا تم مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہو؟ حالانکہ آپ لوگوں میں وہ صاحب موجود ہیں جو صدیق (اکبر) ہیں اور جو (غار ثور میں) دو میں سے دوسرے تھے یعنی حضور ﷺ کے غار کے ساتھی۔ اور خیمہ اطرابلسی حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں سے زیادہ امر خلافت کے حق دار ہیں کیونکہ وہ صدیق بھی ہیں اور (ہجرت کے موقع پر غار ثور کے) حضور ﷺ کے ساتھی بھی ہیں اور حضور ﷺ کے صحابی بھی ہیں۔<sup>۳</sup>

حضرت سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار توڑ دی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا اور ان کے سامنے اپنا عذر پیش کیا اور فرمایا اللہ کی قسم! کسی دن یا کسی رات بھی یعنی زندگی بھر کبھی بھی

۱۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۳۶) واخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۲۶۷) عن مسلم البطين عن ابی البختری بنحوہ وقال صحیح الا سناد ولم یخرجاه وقال الذہبی منقطع . ۵۱.  
 واخرجہ ابن عساکر و ابن شاہین وغیرہ ہما عن علی بن کثیر بنحوہ کما فی کنز العمال (ج ۳ ص ۱۲۶) ۲۔ واخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۵ ص ۱۸۳) رجالہ رجال الصحیح الا ان ابی البختری لم یسمع من عمر . ۵۱ واخرجہ ابن عساکر ایضا بنحوہ کما فی الكنز (ج ۳ ص ۱۴۰) ۳۔ کذا فی کنز العمال (ج ۳ ص ۱۴۰)



میرے دل میں امارت کی تمنا پیدا نہیں ہوئی اور نہ اس کی خواہش ہوئی اور نہ میں نے کبھی اللہ سے امارت کو چھپ کر یا علی الاعلان مانگا۔ لیکن مجھے (مسلمانوں میں) فتنہ (پیدا ہو جانے) کا ڈر ہوا (کہ اگر میں امارت قبول نہ کرتا تو مسلمانوں میں جوڑ باقی نہ رہتا بلکہ ان میں توڑ پیدا ہو جاتا) اور میرے لئے امارت میں راحت کا کوئی سامان نہیں ہے اور ایک بہت بڑے امر (یعنی امر خلافت) کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی ہے جو میری قوت اور طاقت سے باہر ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمادے (تو پھر وہ ذمہ داری ٹھیک طرح سے ادا ہو سکتی ہے اور میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ قوی آدمی ہے وہ آج میری جگہ اس امارت پر آجائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہمیں تو صرف اس بات پر غصہ آیا تھا کہ ہمیں مشورہ میں شریک نہیں کیا گیا۔ ورنہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ حضور ﷺ کے بعد لوگوں میں خلافت کے سب سے زیادہ حق دار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حضور ﷺ کے عار کے ساتھی ہیں اور (قرآن کے الفاظ کے مطابق) یہ ثانی اثینین دو میں سے دوسرے ہیں۔ ہم ان کی شرافت اور بزرگی کو خوب پہنچاتے ہیں اور حضور ﷺ نے اپنی زندگی میں انہیں لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔

حضرت سوید بن غفلہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس (ان کے گھر) گئے۔ اور یوں کہا اے علی! اور اے عباس! (یہ بتاؤ کہ) یہ خلافت کا کام کیسے قریش کے سب سے زیادہ کم عزت اور سب سے زیادہ چھوٹے خاندان میں چلا گیا۔ اللہ کی قسم! اگر تم چاہو تو میں (ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف) سوار اور پیادہ لشکر سے سارا مدینہ بھر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ اللہ کی قسم! میں تو نہیں چاہتا کہ تم (ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف) سوار اور پیادہ لشکر سے سارا مدینہ بھر دو اور اے ابو سفیان! اگر ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خلافت کا اہل نہ سمجھتے تو ہم ہر گز ان کے لئے خلافت کو نہ چھوڑتے بیشک مومن تو ایسے لوگ ہیں کہ سب ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کے وطن اور جسم دور ہوں اور منافقین ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو احمد دہقان نے اسی کے ہم معنی روایت ذکر کی ہے جس میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ منافقوں کے بدن اور وطن

۱۔ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۶۶) والبيهقي (ج ۸ ص ۱۵۲)

۲۔ اخرجه ابن عساکر كذا في الكنز (ج ۳ ص ۱۴۱)

اگرچہ قریب ہوں لیکن وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ اور ہم تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہو چکے ہیں اور وہ اس کے اہل ہیں۔<sup>۱</sup>

حضرت ابن ابجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آکر کہا کیا تم لوگوں پر اس خلافت کے بارے میں قریش کا ایک کم درجہ کا گھرانہ غالب آگیا؟ غور سے سنو! اللہ کی قسم! اگر تم چاہو تو میں (ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف) سوار اور پیادہ لشکر سے سارا مدینہ بھر دوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم زندگی بھر اسلام اور اہل اسلام سے دشمنی کرتے رہے لیکن اس سے اسلام اور اہل اسلام کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ ہم حضرت ابو بکر کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں۔<sup>۲</sup>

حضرت مرہ طیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آکر کہا کہ یہ کیا ہوا؟ کہ خلافت قریش کے سب سے کم درجہ والے اور سب سے کم عزت والے آدمی یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی؟ اللہ کی قسم! اگر تم چاہو تو میں سارے مدینہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سوار اور پیادہ لشکر سے بھر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو سفیان! تم اسلام اور اہل اسلام کی بہت دشمنی کر چکے ہو۔ لیکن تمہاری دشمنی سے اسلام اور اہل اسلام کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس (امر خلافت) کا اہل پایا (تبھی تو ہم ان سے بیعت ہوئے)۔<sup>۳</sup>

حضور ﷺ کے پہرے دار حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تھے اور جب حضور ﷺ کا انتقال ہوا اس وقت بھی حضرت خالد یمن میں ہی تھے۔ حضور ﷺ کے انتقال کے ایک ماہ بعد حضرت خالد (مدینہ منورہ) آئے۔ انہوں نے بیان کارئیشی جبہ پہن رکھا تھا۔ ان کی حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آس پاس کے لوگوں کو بلند آواز سے کہا اس کے جبہ کو پھاڑ دو۔ کیا یہ ریشم پہن رہا ہے؟ حالانکہ زمانہ امن میں ہمارے مردوں کے لئے اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کا جبہ پھاڑ دیا۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۔ کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۴۰) ۲۔ اخرجه ابن المبارك عن مالك بن مغول كذا في

الاستيعاب (ج ۴ ص ۸۷) ۳۔ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۷۸)

نے کہا اے ابو الحسن! اے ابو عبد مناف! کیا امر خلافت میں تم لوگ مغلوب ہو گئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم اسے ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش سمجھتے ہو یا خلافت؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو عبد مناف! تم سے زیادہ حق دار آدمی اس امر خلافت پر غالب نہیں آسکتا (حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابو عبد مناف میں سے نہیں ہیں اس لئے وہ کیسے خلیفہ بن گئے؟ چونکہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات مسلمانوں میں اختلاف کا سبب بن سکتی تھی اس وجہ سے سمجھانے کے لئے) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ تیرے دانتوں کو توڑ کر گرا دے۔ اللہ کی قسم! تم نے جو بات کہی ہے جھوٹے آدمی اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے رہیں گے اور پھر صرف اپنا ہی نقصان کریں گے۔

حضرت خالد بن سعید بن العاصؓ کی صاحبزادی حضرت ام خالد کہتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو جانے کے بعد میرے والد یمن سے مدینہ آئے تو انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمانؓ سے کہا اے ابو عبد مناف! کیا تم اس بات پر راضی ہو گئے ہو کہ دوسرے لوگ اس امر خلافت میں تمہارے والی بنیں؟ یہ بات حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکر کو پہنچائی لیکن حضرت ابو بکرؓ نے اس سے کوئی اثر نہ لیا البتہ حضرت عمر نے حضرت خالدؓ کی اس بات سے اثر لے کر اسے دل میں اٹھالیا۔ چنانچہ حضرت خالدؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے تین ماہ تک بیعت نہ کی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت ابو بکرؓ کا حضرت خالدؓ کے پاس سے گزر ہوا حضرت خالدؓ اس وقت اپنے گھر میں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلام کیا۔ حضرت خالدؓ نے ان سے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں؟ حضرت ابو بکرؓ نے (اپنی طرف متوجہ نہ کیا بلکہ عام مسلمانوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے) کہا جس صلح میں تمام مسلمان داخل ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں تم بھی اس میں داخل ہو جاؤں حضرت خالدؓ نے کہا آج شام کا آپ سے وعدہ ہے۔ میں آپ سے شام کو بیعت ہو جاؤں گا چنانچہ شام کو حضرت خالدؓ آئے اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خالدؓ ان سے بیعت ہو گئے۔ ان کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اچھی تھی اور حضرت ابو بکرؓ ان کی تعظیم کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکرؓ شام کی طرف لشکر روانہ فرمانے لگے تو انہوں نے حضرت خالدؓ کو مسلمانوں کا

۱۔ اخوجه الطبری (ج ۴ ص ۲۸) و اخوجه سیف و ابن عساکر صخر منصر اکمافی

امیر بنا کر انہیں امارت کا جھنڈا دے دیا۔ حضرت خالدؓ وہ جھنڈا لے کر اپنے گھر گئے۔ (جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو) حضرت عمرؓ نے (اس بارے میں) حضرت ابو بکرؓ سے گفتگو کی اور کہا کہ آپ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا رہے ہیں حالانکہ انہوں نے ہی (آپ کے خلیفہ بننے کے خلاف) وہ بات کہی تھی۔ حضرت عمرؓ بار بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بات کہتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکرؓ نے (ان کی رائے کو قبول کر لیا اور حضرت خالدؓ کو امارت سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے لئے) حضرت ابو اروی دوسی کو (حضرت خالدؓ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا (امارت والا) جھنڈا ہمیں واپس کر دو۔ چنانچہ انہوں نے وہ جھنڈا نکال کر حضرت ابو اروی کو دے دیا اور کہا کہ نہ تمہارے امیر بنانے سے ہمیں کوئی خوشی ہوئی تھی اور نہ اب تمہارے معزول کرنے سے ہمیں کوئی رنج و صدمہ ہوا ہے اور قابل ملامت تو آپ کے علاوہ کوئی اور ہے (یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے) حضرت ام خالد کہتی ہیں کہ ابھی کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے پاس آکر ان سے معذرت کرنے لگے اور وہ انہیں قسم دے کر کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برائی سے تذکرہ نہ کریں۔ چنانچہ میرے والد مرتے دم تک حضرت عمر کے لئے دعائے خیر کرتے رہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد سواری پر سوار ہو کر تلوار سونٹے ہوئے ذی القصدہ مقام کی طرف نکلے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکر ان کی سواری کی لگام پکڑی اور کہا اے رسول اللہ کے خلیفہ! آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آج آپ سے وہی بات کہتا ہوں جو حضور ﷺ نے غزوہ احد کے دن آپ کو فرمائی تھی کہ آپ اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیں اور آپ (زخمی یا شہید ہو کر) ہمیں اپنے بارے میں پریشان نہ کریں۔ کیونکہ اللہ کی قسم! اگر ہمیں آپ (کی موت) کا صدمہ پہنچا تو پھر آپ کے بعد کبھی بھی اسلام کا نظام باقی نہیں رہ سکے گا۔ چنانچہ میرے والد خود واپس آگئے اور لشکر کو روانہ کر دیا۔

## خلافت لوگوں کو واپس کرنا

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو! اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے تمہاری یہ خلافت اس لئے لی ہے کہ مجھے اس کے لینے کا شوق تھا یا میں تم پر اور مسلمانوں پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا تھا تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ میں نے یہ خلافت نہ تو اپنے شوق سے لی ہے اور نہ تم پر اور نہ کسی مسلمان پر فوقیت حاصل کرنے کے لئے لی ہے۔ اور (زندگی بھر) نہ کسی رات میں نہ کسی دن میں میرے دل میں اس کی طلب پیدا ہوئی اور نہ کبھی چھپ کر اور نہ کبھی علی الاعلان میں نے اللہ سے اسے مانگا ہے اور میں نے بڑی بھاری ذمہ داری اٹھالی ہے جس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے ہاں اگر اللہ میری مدد فرمائے (تو اور بات ہے) میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حضور ﷺ کا کوئی صحابی اس خلافت کو سنبھال لے بھڑطیکہ وہ اس میں انصاف سے کام لے۔ لہذا یہ خلافت میں تمہیں واپس کرتا ہوں اور تمہاری جگہ سے بیعت ختم۔ تم جسے چاہو اسے خلافت دے دو میں تم میں کا ایک آدمی بن کر رہوں گا۔

حضرت عیسیٰؑ عظیمہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیعت سے اگلے دن کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا اے لوگو! (میرے خلیفہ بنانے کے بارے میں) تمہاری جو رائے ہے وہ میں نے تم کو واپس کر دی ہے۔ کیونکہ میں تمہارا بہترین آدمی نہیں ہوں۔ تم اپنے بہترین آدمی سے بیعت ہو جاؤ۔ تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا اے رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ! اللہ کی قسم! آپ ہمارے بہترین آدمی ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا اے لوگو! لوگ اسلام میں خوشی اور ناخوشی (دونوں طرح) داخل ہوئے ہیں لیکن اب وہ سب اللہ کی پناہ اور اس کے پڑوس میں ہیں اس لئے تم اس کی پوری کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ذمہ داری کا کچھ بھی مطالبہ نہ کرے۔ (یعنی کسی مسلمان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ) میرے ساتھ بھی ایک شیطان رہتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ مجھے غصہ آگیا ہے تو پھر تم مجھ سے الگ ہو جاؤ کہیں میں تمہارے بالوں یا کھالوں کو تکلیف نہ پہنچا دوں۔ اے لوگو! اپنے غلاموں کی آمدن کی تحقیق کر لیا کرو (کہ حلال ہے یا حرام) اس لئے کہ جس گوشت کی پرورش حرام مال سے ہو وہ جنت میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔ غور سے سنو! اپنی نگاہوں سے میری نگرانی کرو۔ اگر میں سیدھا چلوں تو تم میری مدد کرو۔ اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم مجھے سیدھا کر دو۔

اگر میں اللہ کی اطاعت کروں تو تم میری بات مانو اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم میری بات نہ مانو۔<sup>۱</sup>

حضرت ابو الحجاج کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکرؓ سے لوگوں نے بیعت کر لی تو انہوں نے تین دن تک اپنا دروازہ بند کئے رکھا اور روزانہ باہر آکر لوگوں سے کہتے تھے اے لوگو! میں نے تم کو تمہاری بیعت واپس کر دی ہے۔ لہذا اب تم جس سے چاہو بیعت ہو جاؤ اور ہر مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہتے نہ ہم آپ کی بیعت واپس کرتے ہیں اور نہ آپ سے بیعت کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے (اپنی زندگی میں مسلمانوں کی امامت کیلئے) آپ کو آگے بڑھایا تھا۔ اب کون آپ کو پیچھے کر سکتا ہے۔<sup>۲</sup>

حضرت زید بن علی اپنے آباء (یعنی بڑوں) رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے منبر پر کھڑے ہو کر تین مرتبہ فرمایا کیا کوئی میری بیعت کو ناپسند سمجھنے والا ہے تاکہ میں اس کی بیعت واپس کر دوں؟ اور ہر مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہتے نہ ہم آپ کی بیعت واپس کرتے ہیں اور نہ آپ سے بیعت کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ ﷺ نے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو اب آپ کو کون پیچھے کر سکتا ہے۔<sup>۳</sup>

## کسی دینی مصلحت کی وجہ سے خلافت قبول کرنا

حضرت رافع بن ابو رافع کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنالیا تو میں نے کہا یہ تو میرے وہی ساتھی ہیں جنہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں دو آدمیوں کا بھی امیر نہ ہوں (اور خود سارے مسلمانوں کے امیر بن گئے ہیں) چنانچہ میں (اپنے گھر سے) چل کر مدینہ پہنچا اور میں نے حضرت ابو بکر کے سامنے آکر ان سے عرض کیا۔ اے ابو بکر! کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا آپ کو وہ بات یاد ہے جو آپ نے مجھے کہی تھی؟ کہ میں دو آدمیوں کا بھی امیر نہ ہوں اور آپ خود ساری امت کے امیر بن گئے ہیں (یعنی آپ نے جو مجھے نصیحت کی تھی خود اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں) حضرت ابو بکر نے فرمایا رسول اللہ ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور لوگ زمانہ کفر

۱۔ عند الطبرانی کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۳۵) قال الہیثمی (ج ۵ ص ۱۸۴) ذہبہ سلیمان

۲۔ وهو ضعیف و عیسی بن عطیة لم اعرفه انتہی عند العشاری کذا فی الكنز (ج ۳ ص

ص ۱۴۱) ۳۔ اخرجه ابن النجار کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۴۰)

کے قریب تھے، (کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے کفر چھوڑا تھا) مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ (اگر میں خلیفہ نہ بنا تو) لوگ مرتد ہو جائیں گے اور ان میں اختلاف ہو جائے گا۔ مجھے خلافت نا پسند تھی لیکن میں نے (امت کے فائدے کی وجہ سے) قبول کر لی اور میرے ساتھی بدر مجھ پر تقاضا کرتے رہے۔ حضرت ابو بکرؓ اپنے اعذار بیان فرماتے رہے یہاں تک کہ میرا دل مان گیا کہ واقعی یہ (خلافت کے قبول کرنے میں) معذور ہیں۔

## خلافت قبول کرنے پر غمگین ہونا

آل ربیعہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ ان کو یہ بات پہنچی کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو وہ غمگین ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں گھر حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے تم نے مجھے خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کریں؟ تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ والی و حاکم جب (صحیح طریقے سے) محنت کرتا ہے اور حق تک پہنچ جاتا ہے تو اسے دوا جرتے ہیں اور اگر (صحیح طریقے سے) محنت کرے لیکن حق تک نہ پہنچ سکے تو اسے ایک اجر ملتا ہے (یہ حدیث شاکر) حضرت عمرؓ نے گویا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم ہلکا کر دیا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض الوفا میں ان سے فرمایا مجھے صرف اس پر افسوس ہے کہ میں نے تین کام کئے۔ اے کاش میں ان کو نہ کرتا اور تین کام میں نے نہیں کئے اور اے کاش میں انہیں کر لیتا اور میں تین باتیں حضور ﷺ سے پوچھ لیتا۔ آگے حدیث بیان کی۔ پھر یہ مضمون ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خلافت کا بوجھ سقیفہ بنی ساعدہ کے دن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کے کندھے پر ڈال دیتا۔ وہ امیر ہوتے اور میں ان کا وزیر و مشیر ہوتا اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام بھیجا تھا تو اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق بھیج دیتا۔ اس طرح میں اپنے دائیں بائیں دونوں ہاتھ اللہ کے راستے میں پھیلا دیتا۔

۱۔ اخرجه ابن راهويه والعلل والبغوي و ابن خزيمة كذا في الكنز (ج ۳ ص ۱۲۵)

۲۔ اخرجه ابن راهويه و خيشمة في فضائل الصحابة وغيرهما كذا في الكنز (ج ۳ ص ۱۳۵)

اور وہ تین باتیں جنہیں حضور ﷺ سے پوچھنے کی میرے دل میں تہنہ گئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں حضور ﷺ سے پوچھ لیتا کہ یہ امر خلافت کن میں رہے گا؟ تاکہ اہل خلافت سے کوئی جھگڑانہ کر سکتا اور میں چاہتا ہوں کہ حضور ﷺ سے یہ بھی پوچھ لیتا کہ کیا اس خلافت میں انصار کا بھی کچھ حصہ ہے؟

## امیر کا کسی کو اپنے بعد خلیفہ بنانا

حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکرؓ کی بیماری بڑھ گئی اور ان کی وفات کا وقت قریب آگیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ کو بلایا اور ان سے فرمایا مجھے حضرت عمرؓ بن خطاب کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں؟ حضرت عبد الرحمنؓ نے عرض کیا آپ جس آدمی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ اس کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا چاہے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں لیکن پھر بھی تم بتاؤ۔ حضرت عبد الرحمنؓ نے عرض کیا جتنے آدمیوں کو آپ خلافت کا اہل سمجھتے ہیں یہ حضرت عمرؓ ان سب سے افضل ہیں۔ پھر حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عثمان بن عفانؓ کو بلایا اور ان سے فرمایا تم مجھے حضرت عمرؓ کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت عثمانؓ نے کہا آپ ان کو ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اے ابو عبد اللہ! (یہ حضرت عثمان کی کنیت ہے) پھر بھی۔ تب حضرت عثمانؓ بن عفان نے عرض کیا اللہ کی قسم! جہاں تک میں جانتا ہوں ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اللہ کی قسم! اگر میں ان کو چھوڑ دیتا (یعنی ان کو خلیفہ نہ بناتا) تو میں تم سے آگے نہ بڑھتا (یعنی تم کو خلیفہ نہ بناتا کسی اور کو نہ بناتا) حضرت ابو بکرؓ نے ان دو حضرات کے علاوہ حضرت سعید بن زید ابو العورؓ اور حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا۔ حضرت اسیدؓ نے کہا اللہ کی قسم! میں ان کو آپ کے بعد سب سے بہتر سمجھتا ہوں۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان ہی کاموں سے وہ (عمرؓ) بھی خوش ہوتے ہیں اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان سے وہ بھی ناراض ہوتے ہیں ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے۔ خلافت کے لئے ان سے زیادہ طاقتور اور کوئی والی نہیں ہو سکتا۔

۱۔ اخراجہ ابو عبید و العقیلی و الطبرانی وابن عساکر و سعید بن منصور و غیر ہم کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۱۳۵) قال الہیثمی (ج ۵ ص ۲۰۳) و فیہ علوان بن داؤد البجلی و هو ضعیف و ہذا الاثر مما انکر علیہ.



حضور ﷺ کے بعض صحابہ نے یہ سنا کہ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمنا میں کچھ بات کی ہے۔ چنانچہ یہ حضرات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ایک صاحب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کو جانتے ہی ہیں اور آپ ان کو ہمارا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ اس بارے میں جب آپ کا پروردگار آپ سے پوچھے گا تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذرا مجھے بٹھا دو۔ کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ جو تمہارے معاملہ میں ظلم کو توشہ بنا کر لے جائے وہ نامراد ہو۔ میں اپنے پروردگار سے کہوں گا اے اللہ! جو تیری مخلوق میں سب سے بہترین تھا میں نے اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا تھا۔ میں نے جو بات کہی ہے۔ وہ میری طرف سے اپنے پیچھے کے تمام لوگوں کو پہنچا دینا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر لیٹ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان کو بلا کر فرمایا لکھو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ وہ معاہدہ ہے جو ابو بکر بن ابی قحافہ نے دنیا کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اور آخرت کے زمانہ میں داخل ہوتے ہوئے کیا ہے۔ جب کہ کافر مومن ہو جاتا ہے اور فاجر کو بھی یقین آجاتا ہے اور جھوٹا سچ بولنے لگتا ہے۔ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کو اپنے بعد تمہارا خلیفہ بنایا ہے تم ان کو سنو اور ان کی بات مانو۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ، اس کے دین، اور اپنی ذات اور تمہارے ساتھ بھلائی کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے اگر (خلیفہ بن کر) عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل سے کام لیا۔ تو یہی میرا ان کے بارے میں گمان ہے اور اسی کا مجھے ان کے بارے میں علم ہے اور اگر وہ بدل گئے تو ہر آدمی جو گناہ کمائے گا۔ اسی کا بدلہ پائے گا۔ میں نے تو خیر ہی کا ارادہ کیا ہے۔ اور مجھے غیب کا علم نہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے (حقوق اللہ وغیرہ میں) ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریر پر مہر لگا دی۔ پھر بعض راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریر کا ابتدائی حصہ لکھ لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ابھی باقی رہ گیا

تھا اور کسی کا نام لکھوانے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے لکھ دیا کہ میں نے تم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آئے تو فرمایا آپ نے جو لکھا ہے وہ مجھے سنائیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پڑھ کر سنایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر اور فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ (آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خود اس لئے لکھ دیا کہ ان کا نام لکھوانے بغیر) اگر اس بے ہوشی میں میری روح پرواز کر جاتی تو آپ کو خطرہ تھا کہ لوگوں میں (خلیفہ کے بارے میں) اختلاف ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم! آپ بھی اس (خلافت) کے اہل ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم دینے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاہدہ نامہ پر مہر لگا کر باہر نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعید قرظی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا جس آدمی کا نام اس میں ہے کیا تم اس سے بیعت کرو گے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں اور بعض لوگوں نے کہا ہمیں اس آدمی کا نام معلوم ہے اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی۔ چنانچہ تمام لوگوں نے (حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا) اقرار کیا اور وہ سب اس پر راضی تھے اور سب بیعت ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہائی میں بلایا اور ان کو بہت سی وصیتیں کیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے چلے گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور یہ دعا مانگی اے اللہ! میں نے اپنے اس عمل سے مسلمانوں کے فائدے اور بھلائی کا ہی ارادہ کیا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ (میں اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہ بناتا تو) مسلمان میرے بعد فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ (مسلمانوں کے فائدہ کے لئے) میں نے یہ کام کیا ہے جسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور صحیح فیصلہ کرنے کے لئے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور جو ان میں سب سے بہترین آدمی تھا سب سے زیادہ طاقتور تھا اور مسلمانوں کے فائدے کو سب سے زیادہ چاہنے والا تھا اسے میں نے ان کا والی بنایا ہے اور میرے لئے آپ کا مقرر کردہ موت کا وقت آچکا ہے۔ اے اللہ! تو ان میں میرا خلیفہ ہو جا۔ یہ سب تیرے بندے ہیں۔ ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں ان کے لئے ان کے والی کو صالح بنادے اور اسے اپنے ان خلفاء راشدین

میں سے کر دے جو بنی رحمت کے طریقہ کا اور ان کے بعد کے صالحین کے طریقہ کا اتباع کرے اور اس کے لئے اس کی رعیت کو صالح بنا دے۔ ۱

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ہمارا ہو گئے اور ان کو اپنے بارے میں موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا اور ان سے فرمایا جو کچھ میرا حال ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ میرا گمان تو یہی ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے عہد و پیمان کو میری بیعت سے اٹھالیا ہے اور میرے بندھن کو تم سے کھول دیا ہے اور تمہارے امر (خلافت) کو تمہاری طرف واپس کر دیا ہے۔ اب تم جسے چاہو اپنا امیر بنا لو۔ کیونکہ اگر تم میری زندگی میں اپنا امیر بنا لو گے تو میرے بعد تمہارا آپس میں اختلاف نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ لوگ اس مقصد کے لئے کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں چھوڑ گئے لیکن اس بارے میں کوئی بات طے نہ ہو سکی اور لوگوں نے واپس آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے خلیفہ رسول اللہ! آپ ہی ہمارے لئے اپنی رائے سے کسی امیر کا فیصلہ کر دیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا شاید تم میرے فیصلہ سے اختلاف کرو۔ لوگوں نے کہا بالکل نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں جو فیصلہ کروں تم اس پر راضی رہنا۔ تمام لوگوں نے کہا جی بالکل راضی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے کچھ مہلت دو تاکہ میں سوچ لوں کہ اللہ اور اس کے دین اور اس کے بندوں کا فائدہ کس میں ہے؟ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کر بلایا اور (جب وہ آگئے تو) ان سے فرمایا مجھے مشورہ دو کہ کس آدمی کو امیر بنایا جائے؟ ویسے تو اللہ کی قسم! میرے نزدیک آپ بھی اس مارت کے لٹل اور حق دار ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتادیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا لکھو۔ حضرت عثمان لکھنے لگے۔ توجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان کو افاقہ ہوا تو فرمایا لکھو عمر۔ ۲

حضرت عثمان بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے اپنا وصیت نامہ لکھو لیا۔ لیکن (مارت کے لئے) کسی

۱۔ اخر جہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۹۹) و کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۴۵)

۲۔ عند ابن عساکر و سیف

کانام لکھوانے سے پہلے حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عثمانؓ نے وہاں حضرت عمر بن خطابؓ کانام لکھ دیا۔ پھر حضرت ابو بکرؓ ہوش میں آگئے تو حضرت عثمانؓ سے پوچھا کہ آپ نے کسی کانام لکھا ہے؟ حضرت عثمانؓ نے کہا مجھے خطرہ ہوا کہ آپ کا اس بے ہوشی میں انتقال ہو جائے اور بعد میں مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے اس لئے میں نے حضرت عمرؓ بن خطاب کانام لکھ دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے اگر آپ اپنا نام لکھ دیتے تو آپ بھی اس امارت کے اہل تھے۔ پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا جو لوگ میرے پیچھے ہیں میں ان کا قاصد بن کر آیا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمرؓ آپ کی زندگی میں ہم پر کتنی سختی کرتے رہے ہیں اب جب آپ ہمارے امور ان کے حوالے کر دیں گے تو آپ کے بعد نہ معلوم یہ ہم پر کتنی سختی کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ غور کر لیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ۔ کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ جس آدمی نے تمہارے معاملے کے طے کرنے میں وہم سے کام لیا ہو وہ نامراد ہو (یعنی میں نے حضرت عمرؓ کا نام اس یقین کے ساتھ طے کیا ہے کہ وہ تمہارے لئے ہر طرح بہتر ہیں) جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے تیری مخلوق پر ان میں سے سب سے بہترین انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ یہ بات میری طرف سے اپنے پیچھے والے لوگوں کو پہنچا دو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ پھر حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے کس کو خلیفہ بنایا ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت عمرؓ کو۔ ان دونوں نے کہا آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم دونوں مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ میں اللہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم دونوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں (اپنے رب سے) کہہ دوں گا میں نے تیری مخلوق میں سے سب سے بہترین آدمی کو ان کا خلیفہ بنایا تھا۔

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱ عند الالکائی  
 ۲ عند ابن سعد (ج ۳ ص ۱۹۶) کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۴۶) و آخره البیهقی (ج ۸ ص ۱۴۹) بنحوه عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ابن جریر (ج ۴ ص ۵۴) بمعناہ عن اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا

کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے خلیفہ بنانے کے لئے پیغام بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اس پر لوگوں نے (حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے) کہا آپ ہم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو کہ تند خو اور سخت دل ہیں۔ وہ اگر ہمارے والی بن گئے تو اور زیادہ تند خو اور سخت ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم پر خلیفہ بنا کر جب آپ اپنے رب کو ملیں گے تو کیا جواب دیں گے؟

حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کیا تم لوگ مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو؟ میں کہہ دوں گا اللہ! میں نے تیری مخلوق میں سب سے بہترین آدمی کو خلیفہ بنایا تھا۔

## امر خلافت کی صلاحیت رکھنے والے حضرات کے

### مشورہ پر امر خلافت کو موقوف کر دینا

حضرت لن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ابو لولہ نے حضرت عمرؓ پر نیزے کے دو وار کئے تو حضرت عمرؓ کو یہ خیال ہوا کہ شاید ان سے لوگوں کے حقوق میں کوئی ایسی کوتاہی ہوئی ہے جسے وہ نہیں جانتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت لن عباسؓ کو بلایا۔ حضرت عمرؓ کو ان سے بڑی محبت تھی۔ وہ ان کو اپنے قریب رکھتے تھے اور ان کی بات سنا کرتے تھے اور ان سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پتہ کرو کہ میرا یہ قتل لوگوں کے مشورے سے ہوا ہے؟ چنانچہ حضرت لن عباسؓ باہر چلے گئے۔ وہ مسلمانوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے وہ روتے نظر آتے۔ حضرت لن عباسؓ نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں واپس آکر عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین میں جس جماعت کے پاس سے گزرا میں نے ان کو روتے ہوئے پایا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے آج ان کا پہلا چم گم ہو گیا ہو۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت لن عباسؓ نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے مجوسی غلام ابو لولہ نے۔ حضرت لن عباسؓ کہتے ہیں (جب حضرت عمرؓ کو پتہ چلا کہ ان کا قاتل مسلمان نہیں بلکہ مجوسی ہے) تو میں نے ان کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے اور کہنے لگے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرا قاتل ایسے آدمی کو نہیں بنایا جو لا الہ الا اللہ کہہ کر مجھ سے حجت بازی کر سکے۔ غور سے سنو۔ میں نے تم کو کسی عجمی کافر غلام کو یہاں لانے سے منع کیا تھا۔ لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ پھر فرمایا۔ میرے بھائیوں کو بلا لاؤ۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون

ہیں؟ انہوں نے فرمایا حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ۔

ان لوگوں کے پاس آدمی بھیجا۔ پھر اپنا سر میری گود میں رکھ دیا۔ جب وہ حضرت آگے تو میں نے کہا۔ یہ سب آگے ہیں تو فرمایا اچھا میں نے مسلمانوں کے معاملہ پر غور کیا ہے۔ میں نے آپؐ چھ حضرات کو مسلمانوں کا سردار اور قائد پایا ہے اور یہ امر خلافت صرف تم میں ہی ہو گا۔ جب تک تم سیدھے رہو گے اس وقت تک لوگوں کی بات بھی ٹھیک رہے گی۔ اگر مسلمانوں میں اختلاف ہو تو پہلے تم میں ہو گا۔ جب میں نے سنا کہ حضرت عمرؓ نے آپس کے اختلاف کا ذکر کیا ہے تو میں نے سوچا کہ اگرچہ حضرت عمرؓ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر اختلاف ہوا لیکن یہ اختلاف ضرور ہو کر رہے گا کیونکہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمرؓ نے کوئی چیز کسی ہو اور میں نے اسے ہوتے نہ دیکھا ہو۔ پھر ان کے زخموں سے بہت سا خون نکلا جس سے وہ کمزور ہو گئے وہ چھ حضرات آپس میں چپکے چپکے باتیں کرنے لگے یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ یہ لوگ ابھی اپنے میں کسی ایک سے بیعت ہو جائیں گے۔ اسپر میں نے کہا ابھی

امیر المومنین زندہ ہیں اور ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہونے چاہئیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں۔ (ابھی کسی کو خلیفہ نہ بناؤ) پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ۔ چنانچہ ہم نے ان کو اٹھایا پھر انہوں نے فرمایا تم لوگ تین دن مشورہ کرو اور اس عرصہ میں حضرت صہیبؓ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہیں۔ ان حضرات نے پوچھا ہم کن سے

مشورہ کریں۔ انہوں نے فرمایا ماجرین اور انصار سے اور یہاں جتنے لشکر ہیں ان کے سرداروں سے۔ اس کے بعد تھوڑا سا دودھ منگایا اور اسے پیا تو دونوں زخموں میں سے دودھ کی سفیدی باہر آنے لگی جس سے حضرت عمرؓ نے سمجھ لیا کہ موت آنے والی ہے۔ پھر فرمایا اب اگر میرے پاس ساری دنیا ہو تو میں اسے موت کے بعد آنے والے ہولناک منظر کی گھبراہٹ کے بدلے میں دینے کو تیار ہوں۔ لیکن مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ میں خیر ہی دیکھوں گا۔ حضرت ابن عباس نے کہا آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے کیا یہ بات نہیں ہے کہ جس زمانے میں مسلمان مکہ میں خوف کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے اس وقت حضور ﷺ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ آپ کو ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ دین کو اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کا اسلام عزت کا ذریعہ بنا اور آپ کے ذریعہ سے اسلام اور حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ کھلم کھلا سامنے آئے اور آپ نے مدینہ کو ہجرت فرمائی اور آپ کی ہجرت فتح کا ذریعہ بنی۔ پھر جتنے غزوات میں

حضور ﷺ نے مشرکین سے قتال فرمایا آپ کسی سے غیر حاضر نہ ہوئے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ نے حضور ﷺ کے طریقہ کے مطابق حضور ﷺ کے بعد خلیفہ رسول کی خوب زور دار مدد کی۔ اور ماننے والوں کو لے کر آپ نے نہ ماننے والوں کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ لوگ طوعاً و کرہاً اسلام میں داخل ہو گئے۔ (بہت سے لوگ خوشی سے داخل ہوئے۔ کچھ ماحول اور حالات سے مجبور ہو کر داخل ہوئے) پھر ان خلیفہ کا اس حال میں انتقال ہوا کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا اور آپ نے اس ذمہ داری کو اچھے طریقہ سے انجام دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ سے بہت سے نئے شہر آباد کرائے (جیسے کوفہ اور بصرہ) اور (مسلمانوں کے لئے روم و فارس کے) سارے اموال جمع کر دیئے اور آپ کے ذریعہ دشمن کا قلع قمع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں آپ کے ذریعہ دین کو بھی ترقی عطا فرمائی اور رزق میں بھی وسعت عطا فرمائی اور پھر اللہ نے آپ کو خاتمہ میں شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ مرتبہ شہادت آپ کو مبارک ہو۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! تم (ایسی باتیں کر کے) جسے دھوکہ دے رہے ہو اگر وہ ان باتوں کو اپنے لئے مان جائے گا تو وہ واقعی دھوکہ کھانے والا انسان ہے۔ پھر فرمایا اے عبد اللہ! کیا تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی میرے حق میں ان تمام باتوں کی گواہی دے سکتے ہو؟ حضرت لمن عباس نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا اے اللہ! تیرا شکر ہے (کہ میری گواہی دینے کے لئے حضور ﷺ کے چچا زاد بھائی تیار ہو گئے ہیں پھر فرمایا) اے عبد اللہ من عمر! میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو (حضرت لمن عمرؓ کہتے ہیں) میں نے لن کا سراپنی ران سے اٹھا کر اپنی پنڈلی پر رکھ دیا۔ تو فرمایا نہیں۔ میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی داڑھی اور رخسار کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیا۔ اور فرمایا او عمر! اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ رحمۃ اللہ۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو ان حضرات نے حضرت عبد اللہ من عمر کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا حضرت عمرؓ آپ لوگوں کو حکم دے گئے ہیں کہ آپ لوگ مہاجرین اور انصار سے اور جتنے لشکر یہاں موجود ہیں ان کے امراء سے مشورہ کریں۔ اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کرو گے تو میں آپ لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا۔ جب حضرت حسن بصری سے حضرت عمرؓ کے انتقال کے وقت کے عمل کا اور ان کے اپنے رب سے ڈرنے کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا مومن ایسے ہی کیا کرتا ہے کہ عمل بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور منافق عمل بھی برے کرتا ہے اور اپنے بارے میں دھوکہ میں مبتلا رہتا ہے اللہ کی قسم! گزشتہ زمانے میں اور موجودہ زمانے میں میں نے یہی پایا کہ جو بندہ اچھے عمل

میں ترقی کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے میں بھی ترقی کرتا ہے اور جو برے عمل میں ترقی کرتا ہے اس کا اپنے بارے میں دھوکہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔

حضرت عمر بن میمون حضرت عمرؓ کی شہادت کا قصہ ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی شہادت کا قصہ ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کہا دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے؟ اس کا حساب لگاؤ۔ انہوں نے کہا چھیا سی ہزار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے مال سے یہ قرضہ ادا ہو جائے تو ان سے مال لے کر میرا یہ قرضہ ادا کر دینا۔ ورنہ (میری قوم) ابو عدی بن کعب سے مانگنا۔ اگر ان کے مال سے میرا تمام قرضہ اتر جائے تو ٹھیک ہے ورنہ (میرے قبیلہ) قریش سے مانگنا۔ ان کے بعد کسی اور سے نہ مانگنا اور میرا قرضہ ادا کر دینا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں جا کر سلام کرو اور ان سے کہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں (حضور ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ساتھ (حجرہ مبارک میں) دفن ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ عمر بن خطاب کہنا اور اس کے ساتھ امیر المومنین نہ کہنا۔ کیونکہ میں آج امیر المومنین نہیں ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں سلام کر کے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم! میں نے اس جگہ دفن ہونے کی اپنے لئے نیت کی ہوئی تھی۔ لیکن میں آج حضرت عمرؓ کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی یعنی انکو اجازت ہے جب حضرت عبداللہ بن عمرؓ واپس آئے تو حضرت عمرؓ نے کہا تم کیا جواب لائے ہو؟ حضرت عبداللہؓ نے کہا انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا (اس وقت) میرے نزدیک اس کام سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا جب میں مر جاؤں تم میرے جنازے کو اٹھا کر (حضرت عائشہؓ کے دروازے کے سامنے) لے جانا۔ پھر ان سے دوبارہ اجازت طلب کرنا اور یوں کہنا کہ عمر بن خطاب (حجرہ میں دفن ہونے کی) اجازت مانگ رہے ہیں اور اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جانا اور اس حجرہ میں دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے واپس کر کے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب حضرت عمرؓ کے جنازے کو اٹھایا گیا تو (سب کی چیخیں



نکل گئیں اور) ایسے لگا کہ جیسے آج ہی مسلمانوں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے سلام کر کے عرض کیا کہ عمرؓ بن خطاب (اندر دفن ہونے کی) اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے اجازت دے دی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کو حضور ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ دفن ہونے کا شرف عطا فرمادیا۔ جب حضرت عمرؓ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیں تو فرمایا میں (ان چھ آدمیوں کی) اس جماعت سے زیادہ کسی کو بھی امر خلافت کا حق دار نہیں پاتا ہوں کہ حضور ﷺ کا اس حال میں انتقال ہوا تھا کہ وہ ان چھ سے راضی تھے۔ یہ جیسے بھی خلیفہ بنا لیں وہی میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ پھر حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ اور حضرت سعدؓ کے نام لئے۔ اگر خلافت حضرت سعدؓ کو ملے تو وہی اس کے مستحق ہیں ورنہ ان میں سے جسے بھی خلیفہ بنایا جائے وہ ان سے مدد حاصل کرتا رہے کیونکہ میں نے ان کو (کوفہ کی خلافت سے) کسی کمزوری یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا اور حضرت عمرؓ نے (اپنے بیٹے) عبد اللہ کیلئے یہ طے کیا کہ یہ چھ حضرات ان سے مشورہ لے سکتے ہیں لیکن ان کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جب یہ چھ حضرات جمع ہوئے تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوفؓ نے کہا اپنی رائے کو تین آدمیوں کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اختیار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جب ان تینوں کو اختیار مل گیا تو ان تینوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ فیصلہ میرے حوالہ کر دو اور میں اللہ سے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ تم میں سے سب سے افضل آدمی کی اور مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ مفید شخص کی تلاش میں کمی نہیں کروں گا۔ وہ دونوں حضرات نے کہا ہاں ہم دونوں تیار ہیں۔ پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علیؓ سے تہنائی میں بات کی اور کہا کہ آپ کو حضور ﷺ سے رشتہ دہلوی کا شرف بھی حاصل ہے اور اسلام میں سبقت بھی۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو کیا آپ انصاف کریں گے؟ اور اگر میں حضرت عثمانؓ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کی بات سنیں گے اور مانیں گے؟ حضرت علیؓ نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمانؓ سے تہنائی میں بات کی اور ان سے بھی یہی پوچھا۔ حضرت عثمانؓ نے جواب میں کہا ہاں۔

پھر حضرت عبدالرحمنؓ نے حضرت عثمانؓ سے کہا اے عثمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیعت کی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی لوگوں نے کی۔ ۱

حضرت عمر ورحمۃ اللہ علیہ سے ہی یہ روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ (چنانچہ یہ حضرات آگئے) ان حضرات میں سے صرف حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ سے گفتگو فرمائی۔ چنانچہ حضرت علیؓ سے فرمایا اے علیؓ! یہ حضرات آپ کی حضور ﷺ سے رشتہ داری کو اور ان کے داماد ہونے کو بھی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم اور فقہ عطا فرمایا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ لہذا اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور بے وفائاں (یعنی بے ہاشم) کو لوگوں کی گردنوں پر نہ بٹھادینا۔ پھر حضرت عثمانؓ سے فرمایا اے عثمانؓ! یہ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ حضور ﷺ کے داماد ہیں اور آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ بڑی شرافت والے ہیں لہذا اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور بے وفائاں (یعنی اپنے رشتہ داروں) کو لوگوں کی گردنوں پر نہ بٹھادینا۔ پھر فرمایا حضرت صہیبؓ کو میرے پاس بلا کر لاؤ (وہ آئے تو) ان سے فرمایا تم لوگوں کو تین دن نماز پڑھاؤ۔ یہ (چھ) حضرات ایک گھر میں جمع رہیں۔ اگر یہ حضرات کسی ایک کے خلیفہ ہونے پر متفق ہو جائیں تو جو ان کی مخالفت کرے اس کی گردن اڑا دینا۔

حضرت ابو جعفر کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرات شوری سے فرمایا آپ لوگ اپنے امر خلافت کے بارے میں مشورہ کریں۔ (اور اگر رائے میں اختلاف ہو اور چھ حضرات) اگر دو اور دو اور دو ہو جائیں یعنی تین آدمیوں کو خلیفہ بنانے کی رائے بن رہی ہو تو پھر دوبارہ مشورہ کرنا اور اگر چار اور دو ہو جائیں تو زیادہ کی یعنی چار کی رائے کو اختیار کر لینا۔ حضرت اسلم حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر رائے کے اختلاف کی وجہ سے یہ حضرات تین اور تین ہو جائیں تو جدھر حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف ہوں ادھر کی رائے اختیار کر لینا اور ان حضرات کے فیصلہ کو سننا اور ماننا۔ ۲

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ نے اپنی وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت ابو طلحہ

۱۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۳۴۴) وابوعبید و ابن ابی شیبہ و البخاری و النسائی و غیرہم

۲۔ عند ابن سعد

(انصاری) کو بلا کر فرمایا اے ابو طلحہ! تم اپنی قوم انصار کے پچاس آدمی لے کر ان حضرات شوری کے ساتھ رہنا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اپنے میں سے کسی ایک کے گھر جمع ہوں گے تم ان کے دروازے پر اپنے ساتھی لے کر کھڑے رہنا اور کسی کو اندر نہ جانے دینا اور نہ ان کو تین دن تک چھوڑنا یہاں تک کہ یہ حضرات اپنے میں سے کسی کو امیر مقرر کر لیں اے اللہ! تو ان میں میرا خلیفہ ہے۔<sup>۱</sup>

## خلافت کا بوجھ کون اٹھائے؟

### یعنی خلیفہ میں کن صفات کا ہونا ضروری ہے

حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکرؓ نے اپنی بھماری میں لوگوں کو جمع کیا پھر ایک آدمی کو حکم دیا جو آپ کو اٹھا کر منبر پر لے گیا۔ چنانچہ یہ آپ کا آخری بیان تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا:

”اے لوگو! دنیا سے بچ کر رہو اور اس پر بھر دسہ نہ کرو۔ یہ بہت دھوکہ باز ہے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دو اور اس سے محبت کرو کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے محبت کرنے سے ہی دوسرے سے بغض پیدا ہوتا ہے اور ہمارے تمام معاملات امر خلافت کے تابع ہیں اس امر خلافت کے آخری حصہ کی اصلاح اسی طریقہ سے ہوگی جس طریقہ سے اس کے ابتدا کی حصہ کی ہوئی تھی۔ اس امر خلافت کا بوجھ وہی اٹھا سکتا ہے جو تم میں زیادہ طاقت والا ہو اور اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابو پانے والا ہو۔ سختی کے موقع پر خوب سخت اور نرمی کے موقع پر خوب نرم ہو اور شوری والے اہل رائے کی رائے کو خوب جانتا ہو۔ لایعنی میں مشغول نہ ہوتا ہو۔ جو بات ابھی پیش نہ آئی ہو اس کی وجہ سے غمگین و پریشان نہ ہو۔ علم سیکھنے سے شرماتا نہ ہو۔ اچانک پیش آجانے والے کام سے گھبراتا نہ ہو۔ مال کے سنبھالنے میں خوب مضبوط ہو اور غصہ میں آکر کمی زیادتی کر کے مال میں خیانت بالکل نہ کرے اور آئندہ پیش آنے والے امور کے لئے تیاری رکھے اور احتیاط اور چوکنا پن اور اطاعت خداوندی سے ہر وقت آراستہ ہو اور ان تمام صفات کے حامل حضرت عمرؓ بن خطاب ہیں۔“

یہ بات فرما کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔<sup>۲</sup>  
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۔ کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۵۶، ۱۵۷)

۲۔ اخراجہ ابن عساکر کذا فی کنز العمال (ج ۳ ص ۱۴۷)

کی ایسی خدمت کی کہ ان کے گھر والوں میں کوئی بھی ویسی نہ کر سکا اور میں نے ان کے ساتھ شفقت کا ایسا معاملہ کیا کہ ان کے گھر والوں میں سے کوئی بھی ویسا نہ کر سکا۔ ایک دن میں ان کے گھر میں ان کے ساتھ تہائی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجھے اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے اور میرا بہت اکرام فرمایا کرتے تھے۔ اتنے میں انہوں نے اتنے زور سے آہ بھری کہ مجھے خیال ہوا کہ اس سے ان کی جان نکل جائے گی۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! کیا آپ نے یہ آہ کسی چیز سے گھبرا کر بھری ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں گھبرا کر بھری ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا ذرا نزدیک آجاؤ۔ چنانچہ میں ان کے بالکل قریب ہو گیا۔ تو فرمایا میں کسی کو اس امر خلافت کا اہل نہیں پارہا ہوں۔ میں نے کہا فلاں اور فلاں، فلاں اور فلاں، فلاں اور فلاں کے بارے میں آپکا کیا خیال ہے؟ اور حضرت لئن عباس نے ان کے سامنے چھ اہل شوری کے نام گنائے۔ جو اب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چھ میں سے ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات فرمائی۔ پھر فرمایا اس امر خلافت کی صلاحیت صرف وہی آدمی رکھتا ہے جو مضبوط ہو لیکن سخت اور درشت نہ ہو۔ نرم ہو لیکن کمزور نہ ہو۔ سخی ہو لیکن فضول خرچ نہ ہو۔ احتیاط سے خرچ کرنے والا ہو لیکن کنجوس نہ ہو۔

حضرت لئن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں انہوں نے اتنے زور سے سانس لیا کہ میں سمجھا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ نے کسی بڑی پریشانی کی وجہ سے سانس لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں کسی بڑی پریشانی کی وجہ سے لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں اپنے بعد یہ امر خلافت کس کے سپرد کروں؟ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا شاید تم اپنے ساتھی (حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو اس امر خلافت کا اہل سمجھتے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں! پیٹھک وہ اس امر خلافت کے اہل ہیں کیونکہ وہ شروع میں مسلمان ہوئے تھے اور بڑے فضل و کمال والے ہیں۔ انہوں نے فرمایا پیٹھک وہ ایسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا لیکن وہ ایسے آدمی ہیں کہ ان میں دل لگی اور مذاق کی عادت ہے۔ پھر ان کا تذکرہ کرتے رہے اور پھر فرمایا اس امر خلافت کی صلاحیت صرف وہ آدمی رکھتا ہے جو مضبوط ہو لیکن درشت نہ ہو اور نرم ہو لیکن کمزور نہ ہو اور سخی ہو لیکن فضول خرچ نہ ہو اور احتیاط سے خرچ کرنے والا ہو لیکن کنجوس نہ ہو۔ حضرت لئن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمام صفات تو صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی میں پائی جاتی تھیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کی خدمت گیا کرتا تھا ان سے ڈرا بھی بہت کرتا تھا اور ان کی تعظیم بھی بہت کیا کرتا تھا۔ میں ایک دن ان کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوا وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اتنے زور سے سانس لیا کہ میں سمجھا کہ ان کی جان نکل گئی ہے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر بہت لمبا سانس لیا۔ میں نے ہمت سے کام لیا اور کہا میں ان سے اس بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ چنانچہ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ نے کسی بڑی پریشانی کی وجہ سے اتنا لمبا سانس لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم! مجھے سخت پریشانی ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی اس امر خلافت کا اہل نہیں مل رہا ہے۔ پھر فرمایا شاید تم یوں کہتے ہو گے کہ تمہارے ساتھی یعنی حضرت علیؓ اس امر خلافت کے اہل ہیں۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! انہیں ہجرت کی سعادت بھی حاصل ہے اور وہ حضورؐ کے صحبت یافتہ بھی ہیں اور حضور ﷺ کے رشتہ دار بھی ہیں کیا وہ ان تمام امور کی وجہ سے خلافت کے اہل نہیں ہیں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم جیسے کہہ رہے ہو وہ ایسے ہی ہیں لیکن ان کی طبیعت میں مزاج اور دل لگی ہے پھر وہ حضرت علیؓ کا تذکرہ فرماتے رہے۔ پھر یہ فرمایا کہ خلافت کی ذمہ داری صرف وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو نرم ہو لیکن کمزور نہ ہو۔ اور مضبوط ہو لیکن سخت نہ ہو اور سخی ہو لیکن فضول خرچ نہ ہو۔ اور احتیاط سے خرچ کرنے والا ہو لیکن کنجوس نہ ہو اور پھر فرمایا اس خلافت کو سنبھالنے کی طاقت صرف وہی آدمی رکھتا ہے جو بدلہ لینے کے لئے دوسروں سے حسن سلوک نہ کرے اور ریا کاروں کی مشابہت اختیار نہ کرے اور لالچ میں نہ پڑے اور اللہ کی طرف سے سونپی ہوئی خلافت کی ذمہ داری کی طاقت صرف وہی آدمی رکھتا ہے جو اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہے جس کی وجہ سے اسے اپنا عزم توڑنا پڑے اور اپنی جماعت کے خلاف بھی حق کا فیصلہ کر سکے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں اس امر خلافت کا ذمہ دار اس شخص کو ہی بنانا چاہئے جس میں یہ چار خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ نرمی ہو لیکن کمزوری نہ ہو۔ مضبوطی ہو لیکن درختی نہ ہو احتیاط سے خرچ کرتا ہو لیکن کنجوسی نہ ہو اور سخاوت ہو لیکن فضول خرچی نہ ہو۔ اگر اس میں ان میں سے ایک خوبی بھی نہ ہوئی تو باقی تینوں خوبیاں بیکار ہو جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے اس کام کو ٹھیک طرح سے وہی کر سکتا ہے جو بدلہ لینے کے لئے دوسروں سے حسن سلوک نہ کرے اور ریاکاروں کی مشابہت اختیار نہ کرے اور لالچ میں نہ پڑے۔ اس

میں اپنی عزت بنانے کا جذبہ نہ ہو اور تیزی اور غصہ کے باوجود حق کو نہ چھپائے۔<sup>۱</sup>  
 حضرت سفیان بن ابی العوجاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ فرمایا خدا کی قسم! مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں؟ اگر میں بادشاہ ہوں تو یہ بڑے (خطرے کی) بات ہے۔ (حاضرین میں سے) ایک نے کہا ان دونوں میں تو بڑا فرق ہے۔ خلیفہ تو ہر چیز حق کی وجہ سے لیتا ہے اور پھر اسے حق میں ہی خرچ کرتا ہے اور اللہ کے فضل سے آپ ایسے ہی ہیں۔ اور بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ ایک سے زبردستی لیتا ہے اور دوسرے کو ناحق دیتا ہے۔ (یہ سن کر) حضرت عمرؓ خاموش ہو گئے۔<sup>۲</sup> حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اگر آپ نے مسلمانوں کی زمین سے ایک درہم یا اس سے کم و پیش (ظلماً) لیا ہے اور پھر اسے ناحق خرچ کیا ہے تو آپ بادشاہ ہیں خلیفہ نہیں ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔<sup>۳</sup>

قبیلہ ہوا سعد کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں موجود تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا جن میں حضرت طلحہ، حضرت سلیمان، حضرت زبیر اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ فرمایا کہ میں تم سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنے لگا ہوں۔ تم مجھے غلط جواب نہ دینا ورنہ مجھے اور اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ کیا میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ؟ حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ نے فرمایا آپ ہم سے ایسی بات پوچھ رہے ہیں جسے ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ حضرت سلمانؓ نے کہا میں پورے انشراح صدر کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ آپ خلیفہ ہیں اور بادشاہ نہیں ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو تو تمہیں ایسے فیصلہ کن انداز میں یہ بات کہنے کا حق ہے کیونکہ تم حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ پھر حضرت سلیمانؓ نے کہا میں نے یہ بات اس وجہ سے کہی ہے کہ آپ رعایا میں انصاف کرتے ہیں اور ان میں (ہر چیز) کو برابر تقسیم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی شفقت و محبت کا معاملہ کرتے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے اور آپ ہر فیصلہ اللہ کی کتاب کے

۱۔ عندہ ایضا ابن عساکر وغیرہما کذا فی کنز العمال (ج ۳ ص ۱۶۵)

۲۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۲۱)

۳۔ عندہ ایضا کذا فی منتخب کنز العمال (ج ۴ ص ۳۸۳)

مطابق کرتے ہیں۔ اس پر حضرت کعبؓ نے فرمایا میرا خیال نہیں تھا کہ اس مجلس میں میرے علاوہ بھی کوئی آدمی ایسا ہے جو خلیفہ اور بادشاہ کے فرق کو جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمانؓ کو حکمت اور علم سے بھرا ہوا ہے۔ پھر حضرت کعبؓ نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ خلیفہ ہیں اور بادشاہ نہیں ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا آپ یہ گواہی کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ کا ذکر اللہ کی کتاب (یعنی تورات) میں پاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا اس میں میرا ذکر میرے نام کے ساتھ ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ بلکہ آپ کا ذکر آپ کی صفات کے ساتھ ہے۔ چنانچہ تورات میں اس طرح ہے کہ پہلے نبوت ہوگی۔ پھر نبوت کے طریقے پر خلافت اور رحمت ہوگی۔ اس کے بعد ایسی بادشاہت ہوگی جس میں کچھ ظلم بھی ہوگا۔

### خلیفہ کی نرمی اور سختی کا بیان

حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضور ﷺ کے منبر پر (کھڑے ہو کر) بیان فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا:

”اے لوگو! مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ مجھ میں سختی اور درشتی دیکھتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں آپ کا غلام اور خادم تھا اور آپ (کے بارے میں) اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے۔ بالمومنین رؤف رحیم۔ (ایمان داروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق مہربان ہیں) آپ واقعی ایسے ہی (بڑے ہی شفیق اور مہربان) تھے۔ اس لئے میں آپ کے سامنے سستی ہوئی تنگی تلوار کی طرح رہتا تھا۔ اگر آپ مجھے نیام میں ڈال دیتے یا مجھے کسی کام سے روک دیتے تو میں رک جاتا۔ ورنہ میں آپ کی نرمی کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا۔ حضور ﷺ کی زندگی میں میرا یہ طرز رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو اپنے ہاں بلایا اور دنیا سے جاتے وقت حضور ﷺ مجھ سے راضی تھے۔ میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اسے اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ پھر حضور ﷺ کے بعد ان کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا یہی رویہ رہا۔ آپ لوگ ان کے کرم، تواضع اور نرم مزاجی کو جانتے ہی ہیں۔ میں ان کا خادم تھا اور ان کے سامنے سستی ہوئی تلوار کی

طرح رہتا تھا۔ میں اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملا دیتا تھا۔ اگر وہ کسی معاملہ میں خود پہل کر لیتے تو میں رک جاتا۔ ورنہ میں اقدام کر لیتا اور ان کے ساتھ میرا یہی رویہ رہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھالیا اور دنیا سے جاتے وقت وہ مجھ سے راضی تھے۔ میں اس پر اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اسے اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں اور آج تمہارا مسئلہ میری طرف منتقل ہو گیا۔ (کیونکہ میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں) مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ جب خلیفہ دوسرے تھے (عمرؓ نہیں تھے) تو یہ ہم پر سختی کیا کرتے تھے اب جب کہ یہ خود خلیفہ بن گئے ہیں تو اب ان کی سختی کا کیا حال ہو گا۔ تم پر واضح ہو جانا چاہئے کہ تمہیں میرے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے پہنچانے بھی ہو اور تم لوگ میرا تجربہ بھی کر چکے ہو۔ اور اپنے نبی ﷺ کی سنت بخشنی میں جانتا ہوں اتنی تم بھی جانتے ہو۔ اور حضور ﷺ سے میں نے ہر بات پوچھ رکھی ہے۔ اب مجھے (ضرورت کی) کسی بات کے نہ پوچھنے پر ندامت نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اب جب کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں تو اب میری سختی جو تم دیکھتے تھے وہ کئی گنا بڑھ گئی ہے لیکن یہ سختی طاقتور مسلمان سے حق لے کر کمزور مسلمان کو دینے کے لئے ہو گی اور میں اپنی اس سختی کے باوجود اپنا رخسار تمہارے ان لوگوں کے لئے مجھادوں گا جو پاک دامن ہوں گے اور غلط کاموں سے رکھیں گے اور بات مانیں گے اور مجھے اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ اگر میرے اور تم میں سے کسی کے درمیان کسی فیصلہ کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم جیسے پسند کرو میں اس کے ساتھ اس کے پاس چلا جاؤں گا اور وہ (ثالث) میرے اور اس کے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے منظور ہو گا۔ اے اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو۔ اور اپنے بارے میں اس طرح میری مدد کرو کہ میرے پاس (ادھر ادھر کی ساری) باتیں نہ لادو اور میرے نفس کے خلاف میری اس طرح مدد کرو کہ (جب ضرورت پیش آئے تو) مجھے نیکی کا حکم کرو اور مجھے برائی سے روکو اور تمہارے جن امور کا اللہ نے مجھے والی بنا دیا ہے ان میں تم میرے ساتھ پوری خیر خواہی کرو۔“

پھر آپ منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔

حضرت محمد بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعدؓ جمع ہوئے اور ان میں حضرت عمرؓ کے سامنے (بات کرنے میں) سب سے زیادہ جری حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے۔ چنانچہ ان حضرات نے (ان سے) کہا اے عبدالرحمنؓ! کیا ہی اچھا ہو کہ آپ لوگوں کے بارے



میں امیر المؤمنین سے بات کر لیں اور ان سے یہ کہیں کہ بہت سے حاجت مند لوگ آتے ہیں لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر پاتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین! آپ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار فرمائیں۔ کیونکہ بہت سے ضرورت مند آپ کے پاس آتے ہیں لیکن آپ کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر پاتے ہیں۔ اور آپ سے اپنی ضرورت کے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں حضرت علیؓ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعدؓ نے یہ بات کرنے کو کہا ہے؟ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبدالرحمنؓ! اللہ کی قسم! میں نے لوگوں کے ساتھ اتنی نرمی اختیار کی کہ اس نرمی پر اللہ سے ڈرنے لگا (کہ کہیں وہ اس نرمی پر پکڑ نہ فرمائے) پھر میں نے لوگوں پر اتنی سختی اختیار کی کہ اس سختی پر اللہ سے ڈرنے لگا (کہ کہیں وہ اس سختی پر میری پکڑ نہ فرمائے) اب تم ہی بتاؤ کہ چھٹکارا کی کیا صورت ہے؟ حضرت عبدالرحمنؓ وہاں سے روتے ہوئے چادر گھیٹتے ہوئے اٹھے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ہائے افسوس! آپ کے بعد ان کا کیا بنے گا (ہائے افسوس! آپ کے بعد ان کا کیا بنے گا)۔

ابو نعیم اپنی کتاب حلیہ میں حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے اللہ کی قسم! میرا دل اللہ کے لئے اتنا نرم ہوا کہ مکھن سے بھی زیادہ نرم ہو گیا اور (اسی طرح) میرا دل اللہ کے لئے اتنا سخت ہوا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔

لکن عسا کہ حضرت لادن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ کو خلیفہ بنایا گیا تو ان سے ایک صاحب نے کہا کہ بعض لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ یہ خلافت آپ کو نہ ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کس وجہ سے؟ اس نے کہا ان کا خیال تھا کہ آپ بہت سخت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرا دل لوگوں کی شفقت سے بھر دیا اور لوگوں کے دل میں میرا رعب بھر دیا۔

## جن لوگوں کی نقل و حرکت سے امت میں

### انتشار پیدا ہو، انہیں روکے رکھنا

حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت قریش (کے بعض خاص حضرات) ان سے اکتا چکے تھے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ میں روک رکھا تھا (اور ان کے باہر جانے پر پابندی لگا رکھی تھی) اور ان پر خوب خرچ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اس امت کے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ تمہارے مختلف شہروں میں پھیلنے سے معلوم ہوتا ہے (حضرت عمرؓ نے یہ پابندی مہاجرین میں سے بعض خاص حضرات پر لگا رکھی تھی) اور مہاجرین کے ان خاص حضرات کے علاوہ اور اہل مکہ پر یہ پابندی حضرت عمرؓ نے نہیں لگائی تھی۔ چنانچہ جن مہاجرین کو حضرت عمرؓ نے مدینہ رہنے کا پابند بنا رکھا تھا ان میں سے کوئی جہاد میں جانے کی اجازت مانگتا تو اس سے فرماتے کہ تم حضور ﷺ کے ساتھ جو غزوات کے سفر کر چکے ہو وہ منزل مقصود یعنی جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کیلئے کافی ہیں۔ آج تو غزوہ میں جانے سے تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ (یہاں مدینہ میں رہو) نہ تم دنیا کو دیکھو اور نہ دنیا تمہیں دیکھے (حضرت عمرؓ کا مقصد یہ تھا کہ یہ چند خاص حضرات اگر مختلف علاقوں میں چلے جائیں گے تو وہاں کے مسلمان ان کی ہی صحبت پر اکتفاء کر لیں گے اور مدینہ میں آیا کریں گے اور یوں ان کا امیر المؤمنین سے اور مرکز اسلام سے تعلق کمزور ہو جائے گا۔ اگر یہ حضرات مدینہ ہی میں رہیں گے تو ساری دنیا کے مسلمان مدینہ آیا کریں گے اور اس طرح ان کا امیر المؤمنین اور مرکز اسلام سے تعلق مضبوط ہوتا رہے گا اور یوں مسلمانوں میں فکر اور محنت اور ساری ترتیب میں یکسانیت رہے گی) جب حضرت عثمانؓ خلیفہ بنے تو انہوں نے ان حضرات سے یہ پابندی اٹھائی اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ حضرات مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور وہاں کے مسلمانوں نے ان حضرات کی صحبت پر ہی اکتفاء کر لیا۔ اس حدیث کے روای حضرت محمد اور حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی کمزوری تھی جو اسلام میں داخل ہوئی اور یہی سب سے پہلا فتنہ تھا جو عوام میں پیدا ہوا (کہ مقامی حضرات سے تعلق زیادہ ہو گیا اور امیر المؤمنین اور مرکز اسلام سے تعلق کم ہو گیا) حضرت قیس

۱۔ اخرجه سيف و ابن عساكر كذا في الكنز (ج ۷ ص ۱۳۹) واخرجه الطبري (ج ۵ ص

۱۳۴) من طريق سيف بنحوه.

بن ابی حازم کہتے ہیں کہ حضرت زبیرؓ، حضرت عمرؓ کی خدمت میں جہاد میں جانے کی اجازت لینے سکے لئے آئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم اپنے گھر میں بیٹھ رہو۔ تم حضور ﷺ کے ساتھ بہت غزوے کر چکے ہو حضرت زبیرؓ بار بار اصرار کرنے لگے۔ تیسری چوتھی مرتبہ کے اصرار پر حضرت عمرؓ نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ کیونکہ اللہ کی قسم! میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم اور تمہارے ساتھی نکل کر اطراف مدینہ میں چلے جاؤ گے تو تم لوگ حضرت محمد ﷺ کے صحابہؓ کے خلاف فتنہ پیدا کر دو گے۔

## حضرات اہل الرائے سے مشورہ کرنا

### حضور اکرم ﷺ کا اپنے صحابہؓ سے مشورہ کرنا

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کو ابو سفیان (کے لشکر) کے آنے کی خبر ملی تو حضور ﷺ نے اپنے صحابہؓ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت ابو بکرؓ نے کچھ بات فرمائی۔ حضور ﷺ نے ان سے اعراض فرمایا۔ پھر حضرت عمرؓ نے کچھ بات فرمائی۔ حضور ﷺ نے ان سے بھی اعراض فرمایا۔ آگے حدیث کا اور مضمون بھی ہے جو کہ جہاد کے باب کے شروع میں حصہ اول صفحہ ۴۳۳ پر گزر چکا ہے۔

لام احمد اور امام مسلم بدر کے واقعہ میں حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عمرؓ سے مشورہ لیا۔ (کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟) تو حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ لوگ (ہمارے) چچا کے بیٹے، خاندان کے لوگ اور بھائی ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں (اور انہیں چھوڑ دیں) تو ہم ان سے جو فدیہ لیں گے وہ کفار سے مقابلہ کے لئے ہماری قوت کا ذریعہ بنے گا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ تو پھر یہ ہمارے دست و بازو بن جائیں گے۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا لکن الخطاب! تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم! جو حضرت ابو بکرؓ کی رائے ہے وہ میری رائے نہیں ہے۔ بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ فلاں آدمی جو میرا قریبی رشتہ دار ہے وہ میرے حوالہ کر دیں میں اس کی گردن اڑا دوں اور عقیل کو حضرت علیؓ کے حوالہ کر دیں وہ عقیل کی گردن اڑا دیں اور فلاں آدمی جو حضرت حمزہؓ کے بھائی ہیں یعنی حضرت عباسؓ وہ حضرت حمزہؓ

کے حوالہ کر دیں۔ حضرت حمزہؓ ان کی گردن اڑا دیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کے بارے میں کسی قسم کی نرمی نہیں ہے۔ یہ لوگ قریش کے سردار اور امام اور قائد ہیں۔ حضور ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کی رائے کو پسند فرمایا اور میری رائے آپ کو پسند نہ آئی۔ اور ان قیدیوں سے فدیہ لے لیا۔ اگلے دن میں حضور ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں گیا تو وہ دونوں رورہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رورہے ہیں؟ اگر (رونے کی وجہ معلوم ہونے پر) مجھے بھی رونا آگیا تو میں بھی رونے لگ جاؤں گا اور اگر رونا نہ آیا تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے میں بھی تکلف رونے کی صورت بنا لوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں اس وجہ سے رورہا ہوں کہ تمہارے ساتھیوں نے ان قیدیوں سے جو فدیہ لیا ہے اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب آگیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى (الانفال آیت ۶۷) جس کا ترجمہ یہ ہے: ”نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں (بلکہ قتل کر دیئے جائیں) جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خونریزی نہ کر لیں۔ تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت (کی مصلحت) کو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑی حکمت والے ہیں۔“

امام احمد حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے جنگ بدر کے موقع پر قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ تو ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں پر قابو دے دیا ہے (بتاؤ اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہئے؟) حضرت عمر بن خطابؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان لوگوں کی گردنیں اڑا دیں۔ حضرت انسؓ کہتے کہ حضور ﷺ نے حضرت عمرؓ کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ حضور ﷺ نے دوبارہ متوجہ ہو کر فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں پر قابو دیدیا ہے اور یہ لوگ کل تمہارے بھائی ہی تھے۔ (لہذا ان کے ساتھ نرمی کا ہی برتاؤ ہونا چاہئے) حضرت عمرؓ نے دوبارہ وہی رائے پیش کی۔ حضور ﷺ نے ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ حضور ﷺ نے پھر متوجہ ہو کر وہی بات ارشاد فرمائی۔ اس مرتبہ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے فدیہ قبول فرمائیں (یہ سن کر) حضور ﷺ کے چہرہ مبارک سے غم اور پریشانی کا اثر دور ہو گیا۔

پھر آپ نے ان کو معاف فرمادیا۔ اور ان سے فدیہ لینا قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: **لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ** (الانفال آیت ۶۸)

”اگر خدا تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارہ میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی۔“ (حضور ﷺ کا فدیہ لینے کی رائے کی طرف رجحان صرف صلہ رحمی اور رحم دلی کی وجہ سے تھا۔ البتہ بعض صحابہؓ نے صرف مالی فوائد کو سامنے رکھ کر یہ رائے دی تھی اور اکثر صحابہؓ نے دوسری دینی مصلحتوں اور اخلاقی پہلو کے ساتھ مالی ضروریات کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے یہ رائے دی تھی اور فدیہ لے کر چھوڑ دینا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں غلطی قرار دیا گیا اور یہ غلطی تھی تو ایسی تھی کہ ان لوگوں کو سخت سزا دی جاتی جنہوں نے دنیوی مسلمان کا خیال کر کے ایسا مشورہ دیا تھا۔ مگر سزا دینے سے وہ چیز مانع ہے جو اللہ پہلے سے لکھ چکا اور طے کر چکا ہے۔ اور وہ کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ (۱) مجتہد کو اس قسم کی اجتہادی خطا پر عذاب نہیں ہوگا (۲) الیٰ بہد کی خطاؤں کو اللہ معاف فرما چکا ہے (۳) ان قیدیوں میں سے بہت سوں کی قسمت میں اسلام لانا لکھا گیا تھا وغیرہ۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضور اقدس ﷺ نے (صحابہؓ سے) فرمایا تم ان قیدیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ لوگ آپ کی قوم اور آپ کے خاندان کے ہیں ان کو (معاف فرما کر دیا جائے) باقی رکھیں اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں۔ شاید اللہ تعالیٰ ان کو (کفر و شرک سے) توبہ کی توفیق دے دے اور پھر حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! انہوں نے آپ کو (مکہ سے) نکالا اور آپ کو جھٹلایا۔ آپ ان کو اپنے پاس بلائیں اور ان سب کی گردنیں اڑادیں اور حضرت عبد اللہ بن رواحہؓ نے یہ رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ! آپ گھنے درختوں والا جنگل تلاش کریں۔ پھر ان لوگوں کو اس جنگل میں داخل کر کے لوپر سے آگ جلا دیں۔ حضور ﷺ نے (سب کی رائے سنی اور) کوئی فیصلہ نہ فرمایا اور (اپنے خیمہ میں) تشریف لے گئے۔ (لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے) بعض نے کہا آپ حضرت ابو بکرؓ کی رائے پر عمل کریں گے اور بعض نے کہا حضرت عمرؓ کی رائے پر عمل کریں گے اور بعض نے کہا آپ حضرت عبد اللہ بن رواحہؓ کی رائے پر عمل کریں گے۔ پھر آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض

۱۔ عند احمد کذا فی نصب الرایۃ (ج ۳ ص ۴۰۳) قال الہیثمی (ج ۶ ص ۸۷) رواہ احمد عن شیخہ علی بن عاصم بن صہیب و هو کثیر الغلط و الخطا لا یرجع اذا قیل له الصواب و بقیۃ رجال احمد رجال الصحیح انتہی۔

لوگوں کے دلوں کو اپنے بارے میں اتنا نرم فرمادیتے ہیں کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے دلوں کو اپنے بارے میں اتنا سخت فرمادیتے ہیں کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور اے ابو بکر! تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا تَهَافَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (ابراہیم آیت ۳۶)

ترجمہ: ”پھر جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہی ہے اور جو شخص (اس باب میں) میرا کہنا نہ مانے سو آپ تو کثیر المغفرت کثیر الرحمة ہیں“ اور اے ابو بکر! تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا اِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (المائدہ آیت ۱۱۸) ترجمہ: ”اور اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف فرمادیں تو آپ زبردست ہیں حکمت والے ہیں.....“ اور اے عمر! تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا تَهَارَبْتُ لِأَنْتَ عَلِي الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دُبَّارًا۔ (نوح آیت ۲۶) ترجمہ: ”اے رب! نہ چھوڑو زمین پر منکروں کا ایک گھر بننے والا۔“ اور اے عمر! تمہاری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا تَهَارَبْنَا أَطْمَسَ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ وَأَشَدُّ عَلَيَّ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ ترجمہ: ”اے ہمارے رب! ان کے مالوں کو نیست و بباد کر دیجئے اور ان کے دلوں کو زیادہ سخت کر دیجئے (جس سے ہلاکت کے مستحق ہو جاویں) سو یہ ایمان نہ لانے پاویں یہاں تک کہ عذاب الیم (کے مستحق ہو کر) اس کو دیکھ لیں“ (پھر حضور ﷺ نے فرمایا) چونکہ تم ضرورت مند ہو اس وجہ سے ان قیدیوں میں سے ہر قیدی یا تو فدیہ دے گا یا پھر اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ (بن مسعود) فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس حکم سے سہیل بن بیضا کو مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ کیونکہ میں ان کو اسلام کا بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ (یہ سن کر) حضور ﷺ خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس دن جتنا مجھے اپنے لو پر آسمان سے پتھروں کے برسنے کا ڈر لگا اتنا مجھے کبھی نہیں لگا۔ (ڈر اس وجہ سے تھا کہ کہیں حضور ﷺ سے نامناسب بات کی فرمائش نہ کر دی ہو) آخر حضور ﷺ نے فرمایا ہی دیا کہ سہیل بن بیضا کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ماکان لنبی ان یكون له اسری سے لے کر دو آیتیں نازل فرمائیں۔

۱۔ عند احمد و هكذا رواه الترمذی و الحاكم و قال الحاكم صحيح الا سناد ولم يخرجه وزواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن عمر و ابی هريرة رضي الله تعالى عنهم بنحو ذلك و قدرى عن ابی ايوب الا نصارى رضي الله تعالى عنه بنحوه كذا فى البداية (ج ۳ ص ۲۹۷)

حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر (غزوہ خندق کے موقع پر) مصیبت سخت ہو گئی تو حضور ﷺ نے قبیلہ غطفان کے دوسرے داروں عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف مری کو بلا بھیجا اور ان کو مدینہ کا تھما کی پھل اس شرط پر دینے کا ارادہ فرمایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو آپ کے اور آپ کے صحابہ کے مقابلہ میں واپس لے جائیں۔ چنانچہ آپ کے اور ان کے درمیان صلح کی بات شروع ہو گئی حتیٰ کہ انہوں نے صلح نامہ بھی لکھ لیا لیکن ابھی تک گواہیاں نہیں لکھی گئی تھی اور صلح کا مکمل فیصلہ نہیں ہوا تھا صرف ایک دوسرے کو آمادہ کرنے کی باتیں چل رہی تھیں۔ جب آپ نے اس طرح صلح کر لینے کا پختہ فیصلہ فرمایا تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کو بلا کر اس صلح کا ان سے تذکرہ فرمایا اور ان دونوں سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ تو ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ صلح کا کام آپ کو پسند ہے اس لئے آپ اس کو کر رہے ہیں یا اللہ نے آپ کو اس صلح کرنے کا حکم دیا ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے یا یہ صلح ہمارے فائدے کے لئے کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں یہ صلح تمہارے فائدے کے لئے کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم! میں یہ صلح اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے عرب والے ایک کمان سے تم پر تیر چلا رہے ہیں یعنی سارے تمہارے خلاف متحد ہو گئے ہیں اور ہر طرف سے کھلم کھلا تمہاری دشمنی کر رہے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ (یوں صلح کر کے) ان کی طاقت کو کچھ تو توڑ دوں۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اور یہ لوگ پہلے اللہ کے ساتھ شریک کرنے اور بتوں کی عبادت میں اکٹھے تھے۔ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ہم اللہ کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ تو اس زمانہ میں ہماری ایک کھجور بھی زبردستی کھا لینے کا ان میں حوصلہ نہیں تھا ہاں ہمارے مہمان بن جاتے یا ہم سے خرید لیتے تو پھر یہ ہماری کھجور کھا سکتے تھے۔ تو اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام کا شرف عطا فرمایا اور ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور آپ کے ذریعہ اسلام دے کر ہمیں عزت عطا فرمادی تو اب ہم خود اپنے پھل انہیں دے دیں؟ (یہ ہرگز نہیں ہو سکتا) اللہ کی قسم! ہمیں اس صلح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم! ہم ان کو تلوار کے علاوہ اور کچھ نہیں دیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ ہی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا تم جانو اور تمہارا کام۔ (تمہاری رائے صلح کرنے کی نہیں ہے تو پھر ہم نہیں کرتے) چنانچہ حضرت سعد بن معاذ نے وہ صلح نامہ لیا اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ مٹا دیا اور کہا کہ وہ

ہمارے خلاف اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حارث حضور ﷺ کی خدمت میں (غزوہ خندق کے موقع پر) آکر کہنے لگا ہمیں مدینہ کی آدھی کھجوریں دے دو ورنہ میں آپ کے خلاف مدینہ کو سوار اور پیدل لشکر سے بھر دوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ (آپ نے جا کر ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا) ان دونوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم! ہم تو زمانہ جاہلیت میں کبھی ایسی ذلت والی بات پر راضی نہیں ہوئے تو اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا دیا ہے تو اس ذلت والی بات پر ہم کیسے راضی ہو سکتے ہیں۔ حضور ﷺ نے واپس آکر حارث کو یہ جواب بتایا۔ اس نے کہا اے محمد! آپ نے (نعوذ باللہ) بد عمدی کی کیا طبرانی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ حارث غطفانی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا ہمیں مدینہ کی آدھی کھجوریں دے دو۔ حضور ﷺ نے فرمایا سعد نامی لوگوں سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن الربیع، حضرت سعد بن حیشم، اور حضرت سعد بن مسعود کو بلا کر فرمایا مجھے معلوم ہے سارے عرب کے لوگ تم کو ایک کمان سے تیر مار رہے ہیں۔ یعنی وہ سب تمہارے خلاف متحد ہو چکے ہیں اور حارث تم سے مدینہ کی آدھی کھجوریں مانگ رہا ہے تو اگر تم چاہو تو اس سال اسے آدھی کھجوریں دے دو۔ آئندہ تم دیکھ لینا۔ ان حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ آسمان سے وحی آئی ہے؟ پھر تو اس کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ یا یہ آپ کی اپنی رائے ہے۔ تو ہم آپ کی رائے پر عمل کریں گے لیکن اگر آپ ہم پر شفقت کی وجہ سے یہ فرما رہے ہیں تو اللہ کی قسم! آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ ہم اور یہ برابر ہیں۔ یہ ہم سے ایک کھجور بھی زبردستی نہیں لے سکتے ہاں خرید کر یا مہمان بن کر لے سکتے ہیں۔ (ان حضرات سے) حضور ﷺ نے فرمایا ہاں میں تو شفقت کی وجہ سے کہہ رہا تھا (اور پھر حارث سے کہا) تم سن رہے ہو کہ یہ حضرات کیا کہہ رہے ہیں۔ حارث نے کہا اے محمد! آپ نے (معاذ اللہ) بد عمدی کی ہے۔

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ مسلمانوں کے اس طرح کے امور کے بارے میں رات کے وقت حضرت ابو بکرؓ سے (مشورہ کے لئے) گفتگو فرماتے اور میں بھی

۱۔ اخروجه ابن اسحاق كذا في البداية (ج ۴ ص ۱۰۴)

۲۔ اخروجه البزار ۳۔ قال الهيثمي (ج ۶ ص ۱۳۲) رجال البزار

والطبرانی فيهما محمد بن عمرو وحدثه حسن وبقية رجاله ثقات



آپ کے ساتھ ہوتا۔

## حضرت ابو بکرؓ اہل الرائے سے مشورہ کرنا

حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیقؓ کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا جس میں وہ اہل الرائے اور اہل فقہ سے مشورہ کرنا چاہتے تو مہاجرین و انصار میں سے کچھ حضرات کو بلا لیتے اور حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت ابی بن کعبؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ کو بھی بلاتے۔ یہ سب حضرات حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ خلافت میں فتویٰ دیا کرتے تھے اور لوگ بھی ان ہی حضرات سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں یہی ترتیب رہی۔ ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو وہ بھی ان ہی حضرات کو (مشورہ کیلئے) بلایا کرتے اور ان کے زمانے میں حضرت عثمانؓ، حضرت ابی اور حضرت زید فتویٰ کا کام کیا کرتے۔

حضرت عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عیینہ بن حصن اور اقرع بن حابس حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور کہا اے خلیفہ رسول اللہ! ہمارے علاقہ میں ایک شوریلے زمین ہے جس میں نہ گھاس اگتی ہے اور نہ اس سے کوئی اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ ہمیں بطور جاگیر دے دیں۔ تاکہ ہم اس میں اہل چلائیں اور اسے کاشت کریں شاید وہ آباد ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے وہ زمین ان کو بطور جاگیر دینے کا ارادہ کر لیا اور ان کے لئے ایک تحریر لکھی اور یہ طے کیا کہ حضرت عمرؓ اس فیصلہ پر گواہ نہیں۔ اس وقت حضرت عمرؓ وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ دونوں تحریر لے کر حضرت عمرؓ کو اس پر گواہ بنانے کے لئے ان کے پاس گئے۔ جب حضرت عمرؓ نے اس تحریر کا مضمون سنا تو ان دونوں کے ہاتھ سے وہ تحریر لی اور اس پر تھوک کر اسے مٹا دیا۔ اس پر ان دونوں کو غصہ آ گیا اور دونوں نے حضرت عمرؓ کو برا بھلا کہا۔ حضرت عمرؓ نے کہا حضور ﷺ تم دونوں کی تالیف قلب فرمایا کرتے تھے۔ (اور تالیف قلب کی وجہ سے تم دونوں کو زمین دی تھی) جب کہ اس وقت اسلام کمزور اور اسلام والے تھوڑے تھے اور آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے (اس لئے اب تمہاری تالیف قلب کی کوئی ضرورت نہیں ہے) تم دونوں چلے جاؤ اور میرے خلاف جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو اور اگر تم لوگ اللہ سے حفاظت مانگو تو اللہ تمہاری حفاظت نہ کرے۔ یہ دونوں غصہ

۱۔ اخرجه مسند وهو صحيح كذا في كنز العمال (ج ۴ ص ۴۵)

۲۔ اخرجه ابن سعد كذا في الكنز (ج ۳ ص ۱۳۴)

میں بھرے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس آئے۔ اور ان سے کہا اللہ کی قسم! ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ خلیفہ ہیں یا عمر؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر وہ چاہتے تو خلیفہ بن سکتے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر بھی غصہ میں بھرے ہوئے آئے اور حضرت ابو بکر کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ زمین جو ان آدمیوں کو بطور جاگیر دی ہے یہ آپ کی ملک ہے یا تمام مسلمانوں کی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، تمام مسلمانوں کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا تو پھر آپ نے سارے مسلمانوں کو چھوڑ کر صرف ان دو کو کیوں دے دی؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میرے پاس جو مسلمان تھے میں نے ان سے مشورہ کیا تھا۔ ان سب نے مجھے ایسا کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا آپ نے اپنے پاس والوں سے تو مشورہ کیا لیکن کیا آپ نے تمام مسلمانوں سے مشورہ کر کے ان کی رضامندی حاصل کی ہے؟ (چونکہ یہ بات ظاہر تھی کہ ہر امر میں سارے مسلمانوں سے مشورہ نہیں لیا جاسکتا اس وجہ سے حضرت ابو بکر نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ) حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم اس امر خلافت (کو سنبھالنے) کی مجھ سے زیادہ طاقت رکھتے ہو۔ لیکن تم مجھ پر غالب آ گئے (اور تم نے مجھے خلیفہ بنا دیا)۔

حضرت عطیہ بن بلال رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسم بن منجاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اقرع اور زبرقان دونوں نے حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ بحرین کا خراج (محصول) ہمارے لئے مقرر فرمادیں ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہماری قوم کا کوئی آدمی (دین اسلام سے) نہیں پھرے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ایسا کرنے پر تیار ہو گئے اور ان کے لئے ایک تحریر لکھی۔ اور یہ معاملہ حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ کی وساطت سے طے ہوا۔ ان حضرات نے چند گواہ بھی مقرر کئے جن میں حضرت عمرؓ بھی تھے جب یہ تحریر حضرت عمر کے پاس آئی اور انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اس پر گواہ بننے سے انکار کر دیا اور فرمایا نہیں۔ اب کسی کے اکرام اور تالیف قلب کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس تحریر کے لکھے ہوئے کو مٹا کر اسے پھاڑ دیا۔ اس پر حضرت طلحہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے حضرت ابو بکر کے پاس آکر کہا آپ امیر ہیں یا عمر؟ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا امیر تو حضرت عمر ہیں لیکن

۱۔ اخرجه ابن ابی شیبۃ و البخاری فی تاریخہ و ابن عساکر و البیہقی و یعقوب بن سفیان کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۱۸۹) و عزاء فی الاصابۃ (ج ۳ ص ۵۵ و ج ۱ ص ۵۹) الی البخاری فی تاریخہ الصغیر و یعقوب بن سفیان و قال باسناد صحیح و ذکر عن علی بن المدینی هذا منقطع لان عبیدۃ لم یدرک القصة ولا روی عن عمرانہ سمع منه وقال ولا یروی عن عمر باحسن من هذا الا سناد انتہی و اخرجه عبدالرزاق عن طاؤس مختصر اکما فی الکنز (ج ۱ ص ۸۰)

بات میری مانتی ضروری ہے (حضرت طلحہؓ نے سوال تو ایسا کیا تھا جس سے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ میں توڑ پیدا ہو جائے لیکن حضرت ابو بکرؓ نے جواب جوڑ والا دیا اس وجہ سے) یہ سن کر حضرت طلحہؓ خاموش ہو گئے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرو بن العاصؓ کو یہ لکھا کہ حضور ﷺ جنگی امور کے بارے میں مشورہ کیا کرتے تھے لہذا تم بھی مشورہ کرنے کو اپنے لئے لازمی سمجھو۔ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ کی روایت میں یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے غزوہ روم کے بارے میں حضرات اہل رائے سے مشورہ کیا۔

### حضرت عمر بن الخطابؓ کا حضرات اہل رائے سے مشورہ کرنا

حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت علی بن ابی طالبؓ کو ان کی صاحبزادی حضرت ام کلثومؓ سے نکاح کا پیغام دیا۔ تو حضرت علیؓ نے کہا میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی صرف جعفر کے بیٹوں سے ہی کروں گا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے علی! تم اس سے میری شادی کر دو کیونکہ روئے زمین پر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو آپ کی اس بیٹی کے ساتھ اچھی زندگی گزار کر وہ اعلیٰ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہو جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں (اور اس فضیلت کو حضرت عمرؓ نے آگے جا کر بیان فرمایا ہے) اس پر حضرت علیؓ نے فرمایا اچھا میں نے (اس بیٹی کا آپ سے نکاح) کر دیا۔ مہاجرین میں سے حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ (حضرت عمرؓ کے مشورے والے حضرات تھے اور یہ حضرات ہر وقت مسجد نبوی میں) قبر نبوی اور منبر شریف کے درمیان بیٹھے رہتے تھے۔ جب اطراف عالم سے کوئی بات حضرت عمرؓ کے پاس آیا کرتی تو وہ آکر ان کو بتایا کرتے اور اس کے بارے میں ان سے مشورہ کیا کرتے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ان حضرات کو آکر کہا مجھے نکاح کی مبارکباد دو۔ ان حضرات نے حضرت عمرؓ کو مبارکباد دی اور پوچھا اے امیر المؤمنین! (آپ نے) کس سے (نکاح کیا ہے؟) حضرت عمرؓ نے فرمایا حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ کی بیٹی سے پھر انہیں سارا واقعہ تفصیل سے بتانے لگے اور فرمایا حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرے تعلق اور رشتہ کے علاوہ

۱۔ اخرجه سيف و ابن عساكر عن الصعب بن عطية بلال كذا في منتخب الكنز (ج ۴ ص ۳۹۰) ۲۔ اخرجه الطبرانی قال الهيثمي (ج ۵ ص ۳۱۹) رواه الطبرانی و رجاله قد و ثقوا انتهى و اخرجه البزار و العقيلي و سندہ حسن كما في الكنز (ج ۲ ص ۱۶۳)

ہر تعلق اور رشتہ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا۔ حضور ﷺ کی صحبت تو مجھے حاصل ہے ہی۔ اب میں نے چاہا کہ (اس نکاح کے ذریعہ حضور ﷺ سے) میرا رشتہ کا تعلق بھی قائم ہو جائے۔ لہ

حضرت عطاء بن یسارؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمانؓ حضرت لئن عباسؓ کو بلایا کرتے تھے اور بدر والوں کے ساتھ ان سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے اور حضرت لئن عباسؓ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے زمانے سے آخر دم تک فتویٰ کا کام انجام دیتے رہے۔ حضرت یعقوب بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کو جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو وہ حضرت لئن عباسؓ سے مشورہ لیتے اور فرماتے اے غوطہ لگانے والے! (یعنی ہر معاملہ کی گہرائی تک پہنچنے والے!) غوطہ لگاؤ۔ (اور اس اہم مسئلہ میں اچھی طرح سوچ کر اپنی رائے پیش کرو) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو حضرت لئن عباسؓ سے زیادہ حاضر دماغ، زیادہ عقلمند، زیادہ علم والا اور زیادہ بردبار ہو۔ میں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت لئن عباسؓ کو پیچیدہ اور مشکل مسائل کے پیش آنے پر بلاتے اور فرماتے یہ ایک پیچیدہ مسئلہ تمہارے سامنے ہے۔ پھر لئن عباسؓ ہی کے مشورے پر عمل کرتے حالانکہ ان کے چاروں طرف بدری حضرات مہاجرین و انصار کا مجمع ہوتا ہے۔ حضرت لئن شہابؓ کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت عمرؓ کو کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو آپؓ نوجوانوں کو بلاتے اور ان کی عقل و سمجھ کو تیزی کو اختیار کرتے ہوئے ان سے مشورہ لیتے۔ امام بیہقی نے حضرت لئن سیرین سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ کا مزاج مشورہ کر کے چلنے کا تھا چنانچہ بعض دفعہ مستورات سے بھی مشورہ لے لیا کرتے اور ان مستورات کی رائے میں ان کو کوئی بات اچھی نظر آتی تو اس پر عمل کر لیتے۔ ۴

حضرت محمد، حضرت طلحہ اور حضرت زیادؓ کہتے ہیں کہ (یکم محرم ۱۳ھ کو) حضرت عمرؓ لشکر لے کر (مدینہ سے) نکلے اور ایک پانی پر پڑاؤ کیا جس کا نام صرار تھا۔ (یہ پانی مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر تھا) اور لشکر کو بھی وہاں ٹھہرایا۔ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حضرت عمرؓ آگے چلیں گے یا (مدینہ ہی) ٹھہریں گے اور لوگ جب کوئی بات حضرت عمرؓ سے پوچھنا

۱۔ اخرجہ ابن سعد و سعید بن منصور و رواہ ابن راہویہ مختصر ۱۔ کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۹۸) و اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۱۶۲) ایضاً مختصر اوقال هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وقال الذہبی منقطع۔ ۲۔ اخرجہ ابن سعد۔ ۳۔ اخرجہ البیہقی و ابن السمعانی

چاہتے تو حضرت عثمان یا حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے واسطے سے پوچھتے اور حضرت عمر کے زمانے میں ہی حضرت عثمان کا لقب ردیف پڑ گیا تھا۔ اور عربوں کی زبان میں ردیف اسے کہتے ہیں جو کسی آدمی کے بعد اس کا قائم مقام ہو اور موجودہ امیر کے بعد اس کے امیر بننے کی امید ہو، اور جب یہ دونوں حضرات لوگوں کی وہ بات حضرت عمر سے پوچھنے کی ہمت نہ پاتے تو پھر لوگ حضرت عباسؓ کو واسطہ بناتے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے حضرت عمر سے پوچھا آپ کو کیا خبر پہنچی ہے؟ اور آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اس پر حضرت عمر نے اعلان کروایا الصلوة جامعہ۔ (اے لوگو! نماز کے عنوان پر جمع ہو جاؤ) چنانچہ لوگ حضرت عمر کے پاس جمع ہو گئے انہوں نے لوگوں کو (سفر کی) خبر دی۔ پھر دیکھنے لگے کہ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو اکثر لوگوں نے کہا آپ بھی چلیں اور ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے لوگوں کی اس رائے سے اتفاق کیا اور ان کی رائے کو یونہی چھوڑ دینا مناسب نہ سمجھا۔ بلکہ یہ چاہا کہ ان کو اس رائے سے نرمی اور حکمت عملی کے ساتھ ہٹائیں گے (اگر ضرورت پیش آئی تو) اور فرمایا خود بھی تیار ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی تیار کرو۔ میں بھی (آپ لوگوں کے ساتھ) جاؤں گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی رائے سے زیادہ اچھی رائے کوئی اور آئی تو پھر نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ نے آدمی بھیج کر اہل الرائے حضرات کو بلایا۔ چنانچہ حضور ﷺ کے چیدہ چیدہ صحابہ اور عرب کے چوٹی کے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا میرا خیال ہے کہ میں بھی اس لشکر کے ساتھ چلا جاؤں۔ آپ لوگ اس بارے میں اپنی رائے مجھے دیں۔ وہ حضرات سب جمع ہو گئے اور ان سب نے یہی رائے دی کہ حضرت عمر حضور اکرم ﷺ کے صحابہ میں سے کسی آدمی کو (اپنی جگہ) بھیج دیں۔ اور خود حضرت عمرؓ یہاں (مدینہ) ہی ٹھہرے رہیں۔ اور آدمی کی مدد کے لئے لشکر بھیجتے رہیں۔ پھر اگر حسب منشاخ ہو گئی تو پھر حضرت عمرؓ کی لوگوں کی مراد پوری ہو جائے گی ورنہ حضرت عمر دوسرے آدمی کو بھیج دیں گے اور اس کے ساتھ دوسرا لشکر روانہ کر دیں گے۔ اس طرح کرنے سے دشمن کو غصہ آئے گا اور مسلمان غلطی کرنے سے بچ جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گا اور اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر حضرت عمرؓ نے اعلان کروایا الصلوة جامعہ۔ چنانچہ حضرت عمر کے پاس مسلمان جمع ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے مدینہ میں اپنی جگہ حضرت علیؓ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ انہیں بلانے کے لئے حضرت عمرؓ نے آدمی بھیجا وہ بھی آگئے۔ حضرت طلحہؓ کو حضرت عمرؓ نے مقدمتہ پیش پر مقرر فرما کر آگے بھیجا ہوا تھا۔ انہیں بھی آدمی بھیج کر بلایا۔ وہ بھی آگئے۔ اس لشکر کے میمنہ اور میسرہ پر حضرت زبیر اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو مقرر کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ

بیان کیا۔

”بے شک اللہ عزوجل نے مسلمانوں کو اسلام پر جمع فرمادیا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی اور اسلام کی وجہ سے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک عضو کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ باقی تمام اعضاء کو بھی پہنچتی ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہونا چاہئے (کہ ایک مسلمان کی تکلیف سے سب کو تکلیف ہو) اور مسلمانوں کا ہر کام حضرات اہل شوری کے مشورہ سے طے ہونا چاہئے۔ عام مسلمان اپنے امیر کے تابع ہیں اور اہل شوری جس چیز پر اتفاق کر لیں اور اسے پسند کر لیں تو تمام مسلمانوں کے لئے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور جو مسلمانوں کا امیر بنے وہ ان اہل شوری کا تابع ہے۔ اسی طرح جنگی تدبیر میں جو اہل شوری کی رائے ہو اور جس تدبیر پر اہل شوری راضی ہوں اس میں تمام مسلمان ان کے تابع ہیں۔ اے لوگو! میں بھی تم میں سے ایک آدمی تھا (اور میرا بھی تمہارے ساتھ جانے کا ارادہ تھا) لیکن تمہارے اہل شوری نے مجھے جانے سے روک دیا ہے۔ اب میری بھی یہی رائے ہے کہ میں (مدینہ ہی) ٹھہروں اور (اپنی جگہ) کسی دوسرے کو (امیر بنا کر) بھیج دوں اور میں جن کو آگے بھیج چکا تھا یا پیچھے (مدینہ) چھوڑ آیا تھا (اور جو یہاں موجود تھے) میں ان سب سے اس بارے میں مشورہ کر چکا ہوں۔“

حضرت عمرؓ مدینہ میں حضرت علیؓ کو اپنا خلیفہ بنا کر آئے تھے اور مقدمۃ الخیش پر امیر بنا کر حضرت طلحہؓ کو آگے احوص مقام پر بھیج رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے بلا کر ان دونوں کو بھی اس مشورہ میں شریک کیا تھا۔ لہٰذا لکن جریرؓ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ کو حضرت ابو عبید بن مسعودؓ کے شہید ہونے کی اطلاع ملی اور یہ پتہ چلا کہ اہل فارس کسری کے خاندان کے ایک آدمی (کی لارت) پر جمع ہو رہے ہیں تو حضرت عمرؓ نے اعلان کر کے حضرات مہاجرین اور انصار کو جمع فرمایا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر (مدینہ سے) باہر نکلے یہاں تک کہ صرار مقام پر پہنچ گئے۔ آگے مختصر حدیث ذکر کی جیسے کہ پہلے گزر چکی ہے۔

امام طبرانی حضرت محمد بن سلامؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن معد کبرؓ نے زمانہ جاہلیت میں بہت سے کارنامے کئے تھے اور انہوں نے اسلام کا زمانہ بھی پایا ہے۔ حضور ﷺ کی خدمت میں وفد کے ہمراہ آئے تھے اور حضرت عمر بن

الخطابؓ نے ان کو حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے پاس قادیسیہ بھیجا تھا اور وہاں انہوں نے اپنی بہادری کے بڑے جوہر دکھائے تھے۔ حضرت عمرؓ نے حضرت سعد کو خط میں یہ لکھا تھا کہ میں تمہاری مدد کے لئے دو ہزار آدمی بھیج رہا ہوں ایک حضرت عمرو بن معدیکرب اور دوسرے حضرت طلحہ بن خویلد اسدیؓ ہیں (یعنی یہ دونوں اتنے بہادر ہیں کہ ان میں سے ہر ایک ہزار آدمیوں کے برابر ہے) ان دونوں سے جتنی امور میں مشورہ کرتے رہنا لیکن ان کو کسی ذمہ دار نہ بنانا۔

## جماعتوں پر کسی کو امیر مقرر کرنا

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے تو قبیلہ جہینہ کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اب آپ ہمارے ہاں آگئے ہیں لہذا آپ ہمیں معاہدہ نامہ لکھ دیں تاکہ ہم اپنی ساری قوم کو لے کر آپ کی خدمت میں آسکیں۔ چنانچہ آپ نے ان کو معاہدہ نامہ لکھ کر دیا۔ اور پھر وہ قبیلہ جہینہ والے مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہمیں رجب کے مہینہ میں بھیجا۔ اور ہماری تعداد سو بھی نہیں تھی اور حضور ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قبیلہ بنو کنانہ پر حملہ کریں یہ قبیلہ جہینہ کے قریب ہی آباد تھا۔ چنانچہ ہم نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ اس لئے ہم پناہ لینے قبیلہ جہینہ کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں پناہ دے دی۔ لیکن انہوں نے کہا تم لوگ شہر حرام (یعنی قابل احترام مہینے) میں کیوں جنگ کرتے ہو؟ (عرب کے لوگ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب کو اشہر حرم یعنی قابل احترام مہینے سمجھتے تھے اور ان مہینوں میں آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے) ہم نے ان سے کہا کہ ہم تو صرف ان لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں بلد حرام (یعنی قابل احترام شہر مکہ) سے شہر حرام (یعنی قابل احترام مہینے) میں نکالا تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کیا رائے ہے؟ (اب ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ اسپر ہمارا اختلاف ہو گیا) بعض ساتھیوں نے کہا ہم حضور ﷺ کی خدمت میں جاتے ہیں اور انہیں ساری بات بتاتے ہیں۔ کچھ ساتھیوں نے کہا نہیں ہم تو یہیں ٹھہریں گے۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے کہا نہیں۔ ہم تو قریش کے قافلہ کی طرف چلتے ہیں اور ان کے سامان تجارت پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ کافروں سے جو مال بغیر لڑائی کے ملے گا وہ سارے کا سارا انہی مسلمانوں کا ہو گا جنہوں نے

وہ مال کا فروں سے لیا ہوگا۔ چنانچہ ہم تو اس قافلہ کی طرف چلے گئے اور ہمارے باقی ساتھی حضور ﷺ کی خدمت میں واپس چلے گئے اور جا کر حضور ﷺ کو ساری تفصیل سنائی تو آپ غصہ میں کھڑے ہو گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم میرے پاس سے اکٹھے گئے تھے اور اب تم الگ الگ ہو کر واپس آ رہے ہو۔ یوں بکھر جانے نے ہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے اب میں تم پر ایسے آدمی کو امیر بنا کر بچوں گا۔ جو تم سے بہتر تو نہیں ہوگا لیکن تم سے زیادہ بھوک پیاس برداشت کرنے والا ہوگا۔ پھر حضور ﷺ نے حضرت عبدالرحمن بن حشاش اسدیؓ کو ہمارا امیر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جن کو اسلام میں امیر بنایا گیا۔

## دس آدمیوں کا امیر بنانا

حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت شہاب عمری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تسعہ شہر کے دروازے کو سب سے پہلے میں نے آگ لگائی تھی۔ اور (اس جنگ میں) حضرت اشعریؓ کو تیر لگا تھا جس سے وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے تھے۔ جب مسلمانوں نے تسعہ فتح کر لیا تو حضرت اشعری نے مجھے میری قوم کے دس آدمیوں کا امیر بنا دیا۔

## سفر کا امیر بنانا

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب سفر میں تین آدمی ہوں تو انہیں چاہئے کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنالیں۔ اس طرح امیر بنانے کا حضور ﷺ نے حکم دیا ہے۔

## امارت کی ذمہ داری کون اٹھا سکتا ہے؟

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک جماعت بھیجی جن کی تعداد زیادہ تھی۔ ان میں سے ہر آدمی کو جتنا قرآن یاد تھا وہ آپ نے ان سے سنا۔ چنانچہ سنتے سنتے آپ ایک

۱۔ اخرجہ احمد و اخرجہ ایضا ابن ابی شیبۃ کما فی الكنز (ج ۷ ص ۶۰) والبعوی کما فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۲۸۷) و اخرجہ ایضا البیہقی فی الدلائل (وزاد بعد لم تقاتلون فی الشهر الحرام فقالوا نقاتل فی الشهر الحرام من اخرجنا من البلد الحرام) کما فی البدایۃ (ج ۳ ص ۸۲۴) قال الہیثمی (ج ۶ ص ۶۶) وفيه المجالدین سعید وهو ضعيف عند الجمهور و وثقه النسائی فی رواية وبقية رجال احمد رجال الصحيح انتهى

۲۔ اخرجہ ابن ابی شیبۃ و اسنادہ صحیح کذا فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۱۵۹)

۳۔ اخرجہ البزار و ابن خزيمة و الدار قطنی و الحاکم کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۳۴۴)



ایسے شخص کے پاس آئے جو ان میں سب سے کم عمر تھا۔ آپ نے فرمایا اے فلا نے! تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں سور تیں اور سورہ بقرہ۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں سورہ بقرہ یاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ تم اس جماعت کے امیر ہو۔ اس جماعت کے سرداروں میں سے ایک آدمی نے کہا میں نے سورہ بقرہ صرف اس وجہ سے یاد نہیں کی کہ میں شاید اسے تہجد میں نہ پڑھ سکوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم لوگ قرآن سیکھو اور اسے پڑھو۔ کیونکہ جو آدمی قرآن سیکھتا ہے اور اسے پڑھتا ہے۔ اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے اور جس شخص نے قرآن سیکھا اور پھر سو گیا اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا۔<sup>۱</sup>

حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ایک جماعت یمن بھیجی اور ان میں سے ایک صحابی کو ان کو امیر بنا دیا جن کی عمر سب سے کم تھی۔ وہ لوگ کئی دن تک وہاں ہی ٹھہرے اور نہ جاسکے۔ اس جماعت کے ایک آدمی سے حضور ﷺ کی ملاقات ہوئی۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے فلا نے! تمہیں کیا ہوا؟ تم ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے امیر کے پاؤں میں تکلیف ہے۔ چنانچہ آپ اس امیر کے پاس تشریف لے گئے اور بسم اللہ وباللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما فیہا سات مرتبہ پڑھ کر اس آدمی پر دم کیا۔ وہ آدمی (اسی وقت) ٹھیک ہو گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ اس کو ہمارا امیر بنا رہے ہیں حالانکہ یہ ہم سب میں کم عمر ہے؟ آپ نے اس کے زیادہ قرآن پڑھنے کا تذکرہ فرمایا۔ اس بوڑھے آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میں سستی کی وجہ سے سوتارہ جاؤں گا اور قرآن کو تہجد میں نہ پڑھ سکوں گا۔ تو میں اسے ضرور سیکھتا (یعنی اس کے حفظ کو باقی نہ رکھ سکوں گا) حضور ﷺ نے فرمایا قرآن کی مثال اس تھیلی جیسی ہے جسے تم نے خوب ممکنے والے مشک سے بھر دیا ہو۔ اسی طرح قرآن جب تیرے سینے میں ہو اور تو اسے پڑھے۔<sup>۲</sup>

حضرت ابو بکر بن محمد انصاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ سے عرض کیا گیا اے خلیفہ رسول اللہ! آپ اہل بدر کو امیر کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے فرمایا میں ان کا مرتبہ پہنچاتا ہوں لیکن میں اسے اچھا نہیں سمجھتا کہ میں ان کو دنیا کی گندگی سے آلودہ کروں۔<sup>۳</sup>

۱۔ اخرجه الترمذی وحسنه و ابن ماجہ و ابن حبان و اللفظ للترمذی كذا في الترغيب (ج ۳ ص ۱۲)

۲۔ اخرجه الطبرانی قال الهيثمي (ج ۷ ص ۱۶۱) وفيه يحيى بن سلمه بن كهيل ضعفه لجمهور و وثقه ابن حبان و قال في احاديث ابنه عنه منا كبير، قلت ليس هذا من رواية ابنه عنه.

۳۔ اخرجه ابو نعيم في الحلية و ابن عساكر كذا في الكنز (ج ۱ ص ۱۴۶)

حضرت عمران بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعبؓ نے حضرت عمر بن خطابؓ سے فرمایا کیا ہوا۔ آپ مجھے امیر نہیں بناتے؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کا دین خراب ہو جائے۔<sup>۱</sup>

حضرت حارثہ بن مضرب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ہمیں (کو فہ) یہ خط لکھا:-

”اما بعد! میں تمہاری طرف حضرت عمار بن یاسرؓ کو امیر اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو معلم اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں حضرات حضرت محمد ﷺ کے صحابہ میں خاص اونچے درجے کے لوگوں میں ہیں اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ لہذا آپ لوگ ان دونوں سے (دین) سیکھو۔ اور ان دونوں کی اقتداء کرو۔ (مجھے مدینہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود کی بہت ضرورت تھی لیکن) میں اپنی ضرورت کو قربان کر کے حضرت عبد اللہ بن مسعود کو آپ لوگوں کے پاس بھیج رہا ہوں۔ اور میں حضرت عثمان بن حنیفؓ کو عراق کے دیہات (کی زمین کی پیمائش کرنے) کیلئے بھیج رہا ہوں۔ میں نے ان حضرات کیلئے روزانہ کا وظیفہ ایک بکری مقرر کیا ہے۔ بکری کا آدھا حصہ اور کھجی گردے وغیرہ حضرت عمار بن یاسر کو دیئے جائیں (کیونکہ وہ امیر ہیں ان کے پاس مہمان زیادہ ہوں گے) اور باقی آدھا حصہ ان تینوں حضرات کو دیا جائے۔ (دو تو حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت عثمان بن حنیف ہیں تیسرے غالباً حضرت حذیفہ بن یمان ہیں جن کو حضرت عمر نے حضرت عثمان بن حنیف کے ساتھ زمین کی پیمائش کے لئے بھیجا تھا)۔<sup>۲</sup>

حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا آج کل میں مسلمانوں کے ایک کام کی وجہ سے بہت فکر مند ہوں۔ بتاؤ میں اس کام کا امیر کسے مقرر کروں؟ لوگوں نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ کو مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا وہ کمزور ہیں۔ لوگوں نے کہا فلاں صاحب کو مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیسا آدمی چاہتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے ایسا آدمی چاہئے کہ جب وہ امیر ہو تو ایسے (متواضع بن کر) رہے جیسے کہ وہ لوگوں میں سے ایک عام آدمی ہے اور جب وہ امیر نہ ہو تو وہ ایسے (فکر اور ذمہ داری سے) چلے کہ گویا وہ ہی امیر ہے۔ لوگوں نے کہا

<sup>۱</sup> اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۶۰) <sup>۲</sup> اخرجہ ابن سعد و الحاکم و سعید بن منصور . کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۳۱۴) و اخرجہ الطبرانی مثله الا انه لم یذکر و بعث عثمان الی آخره قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۹۱) رجالہ رجال الصحیح غیر خارثہ و هو ثقة انتہی و اخرجہ البیہقی (ج ۹ ص ۱۳۶) ایضا بسیاق آخر مطولا.

ہمارے علم کے مطابق تو ایسا آدمی ربیع بن زیاد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم لوگوں نے ٹھیک کہا۔

## امیر بن کر کون شخص (دوزخ سے) نجات پائے گا

حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت بثر بن عاصمؓ کو ہوازن کے صدقات (وصول کرنے پر) عامل مقرر کیا۔ لیکن حضرت بثر (ہوازن کے صدقات وصول کرنے) نہ گئے۔ ان سے حضرت عمرؓ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا تم (ہوازن) کیوں نہیں گئے؟ کیا ہماری بات کو سنا اور ماننا ضروری نہیں ہے؟ حضرت بثر نے کہا کیوں نہیں۔ لیکن میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جسے مسلمانوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا ہوگا۔ تو وہ نجات پالے گا اگر اس نے ذمہ داری صحیح طرح ادا نہ کی ہوگی تو پل اسے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ ستر برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ (یہ سن کر) حضرت عمرؓ بہت پریشان اور غمگین ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ راستہ میں ان کی حضرت ابو ذرؓ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں آپ کو پریشان اور غمگین دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ میں کیوں پریشان اور غمگین نہ ہوؤں جب کہ میں حضرت بثر بن عاصمؓ سے حضور ﷺ کا یہ ارشاد سن چکا ہوں کہ جسے مسلمانوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا ہوگا تو وہ نجات پالے گا۔ اور اگر اس نے ذمہ داری صحیح طرح ادا نہ کی ہوگی تو پل اسے لیکر ٹوٹ پڑے گا اور وہ ستر برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ اس پر حضرت ابو ذرؓ نے کہا کیا آپ نے حضور ﷺ سے یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں۔ حضرت ابو ذرؓ نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی مسلمان کو ذمہ دار بنائے گا اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر وہ (اس ذمہ دار بنانے میں) ٹھیک تھا تو (دوزخ سے) نجات پائے گا اور اگر وہ اس میں ٹھیک نہیں تھا تو پل اسے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ ستر برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا اور وہ جہنم کالی اور اندھیری ہے۔ (آپ بتائیں کہ) ان دونوں حدیثوں میں سے کس حدیث کے سننے سے آپ کے دل کو

زیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا دونوں کے سننے سے میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے۔ لیکن جب خلافت میں ایسا زبردست خطرہ ہے تو اسے کون قبول کرے گا؟ حضرت ابوذر نے کہا اسے وہی قبول کرے گا جس کی ناک کاٹنے کا اور اس کے رخسار کو زمین سے ملانے کا یعنی اسے ذلیل کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا ہو۔ بہر حال ہمارے علم کے مطابق آپ کی خلافت میں خیر ہی خیر ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس خلافت کا ذمہ دار ایسے شخص کو بنادیں جو اس میں عدل و انصاف سے کام نہ لے تو آپ بھی اس کے گناہ سے نہ بچ سکیں گے۔

## امارت قبول کرنے سے انکار کرنا

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت مقداد بن اسود کو گھوڑے سواروں کی ایک جماعت کا امیر بنایا۔ جب یہ واپس آئے تو حضور ﷺ نے ان سے پوچھا۔ تم نے امارت کو کیا پایا؟ انہوں نے کہا یہ لوگ مجھے اٹھاتے اور بٹھاتے تھے یعنی میرا خوب اکرام کرتے تھے جس سے اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں وہ پہلے جیسا مقداد نہیں رہا۔ (میری تواضع والی کیفیت میں کمی آگئی ہے) حضور ﷺ نے فرمایا واقعی امارت ایسی ہی چیز ہے حضرت مقداد نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! آئندہ میں کبھی بھی کسی کام کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ آگے تشریف لا کر ہمیں نماز پڑھادیں تو یہ صاف انکار کر دیتے (کیونکہ نماز میں امام بننا امارت صغریٰ ہے) اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مقداد نے کہا مجھے سواری پر بٹھایا جاتا اور سواری سے اتارا جاتا جس سے مجھے یوں نظر آنے لگا کہ مجھے ان لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا امارت تو ایسی ہی چیز ہے (اب تمہیں اختیار ہے) چاہے اسے آئندہ قبول کر لیا چھوڑ دو۔ حضرت مقداد نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! آئندہ میں کبھی دو آدمیوں کا بھی امیر نہیں ہوں گا۔

حضرت مقداد بن اسودؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ مجھے کسی جگہ (امیر بنا

۱۔ اخرجہ الطبرانی کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۴۴۱) قال الہیثمی (ج ۵ ص ۲۰۵) رواہ الطبرانی وفيه سويد بن عبدالعزيز وهو متروك انتهى واخرجه ايضا عبدالرزاق و ابو نعیم و ابو سعید أنقاش و البغوی والدارقطنی فی المتفق من طریق سويد كما فی الکنز (ج ۳ ص ۱۶۳) واخرجه ابن ابی شیبہ و ابن مندہ من غیر طریق سويد كما فی الاصابہ (ج ۱ ص ۱۵۲)۔

۲۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۵ ص ۲۰۱) وفيه سوار بن دانود ابو حمزہ و ثقہ احمد و ابن حبان و ابن معین وفيه ضعيف و بقية رجاله رجال الصحيح و اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۸۴) عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحوه۔ ۳۔ واخرجه ايضا عن المقداد مختصر

کر) بھیجا۔ جب میں واپس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ میں نے کہا آہستہ آہستہ میری کیفیت یہ ہو گئی کہ مجھے اپنے تمام ساتھی اپنے خادم نظر آنے لگے اور اللہ کی قسم! اس کے بعد میں کبھی دو آدمیوں کا بھی امیر نہیں ہوں گا۔ ۱

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ایک آدمی کو ایک جماعت کا امیر بنایا جب وہ کام کر کے واپس آئے تو حضور ﷺ نے ان سے پوچھا تم نے امارت کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا میں جماعت کے بعض افراد کی طرح تھا جب میں سوار ہوتا تو ساتھی بھی سوار ہو جاتے اور جب میں سواری سے اترتا تو وہ بھی اتر جاتے۔ حضور ﷺ نے فرمایا عام طور پر ہر سلطان ایسے (ظالمانہ) کام کرتا ہے جس سے وہ اللہ کی ناراضگی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ مگر جس سلطان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیں وہ اس سے بچ جاتا ہے (بلکہ وہ تو اللہ کے عرش کا سایہ پاتا ہے) اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم! اب میں نہ آپ کی طرف سے اور نہ کسی اور کی طرف سے امیر ہوں گا۔ اس پر آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگ گئے۔ ۲

حضرت رافع طائی کہتے ہیں میں ایک غزوہ میں حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو میں نے کہا اے ابو بکر! مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ انہوں نے فرمایا فرض نماز اپنے وقت پر پڑھا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کیا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، بیت اللہ کا حج کیا کرو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اسلام میں ہجرت بہت اچھا عمل ہے اور ہجرت میں جہاد بہت اچھا عمل ہے اور تم امیر نہ بننا۔ پھر فرمایا کہ یہ امارت جو آج تمہیں ٹھنڈی اور مزیدار نظر آرہی ہے۔ عنقریب یہ پھیل کر اتنی بڑھے گی کہ نا اہل لوگ بھی اسے حاصل کر لیں گے (اور یہ یاد رکھو کہ) جو بھی امیر بنے گا۔ اس کا حساب سب لوگوں سے زیادہ لمبا ہو گا اور اس پر عذاب سب سے زیادہ سخت ہو گا اور جو امیر نہیں بنے گا اس کا حساب سب لوگوں سے زیادہ آسان ہو گا اور اس کا عذاب سب سے ہلکا ہو گا۔ کیونکہ امراء کو مسلمانوں پر ظلم کرنے کے سب سے زیادہ مواقع ملتے ہیں اور جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے عہد کو توڑتا ہے اس لئے کہ یہ مسلمان اللہ کے پڑوسی اور اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی قسم! تم میں سے کسی کے پڑوسی کی بکری یا اونٹ پر کوئی مصیبت آتی ہے (وہ بکری یا اونٹ چوری ہو جاتا ہے

۱ عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۵ ص ۲۰۱) رجالہ رجال الصبیح خلا عمیر بن اسحاق

ونفق ابن حبان وغیرہ وضعفہ ابن معین وغیرہ و عبد اللہ بن احمد ثقہ مامون

۲ عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۵ ص ۲۰۱) وفيہ عطاء بن السائب وقد اختلط وبهية

یا کوئی اسے مار دے یا ستائے تو اس پڑوسی کی ہمدردی اور حمایت میں (غصہ کی وجہ سے ساری رات اس کے پٹھے پھولے رہتے ہیں اور کتار ہتا ہے میرے پڑوسی کی بحری یا اونٹ پر فلاں مصیبت آئی ہے) (جب انسان اپنے پڑوسی کی وجہ سے اتنا غصہ میں آتا ہے) تو اللہ تعالیٰ اپنے پڑوسی کی خاطر غصہ میں آنے کے زیادہ حق دار ہیں۔

حضرت رافعؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت عمرو بن عاصؓ کو غزوہ ذات السلاسل کے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ اس لشکر میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہؓ کو بھی بھیجا۔ چنانچہ یہ حضرات (مدینہ منورہ) سے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے قبیلہ طے کے دو پہاڑوں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت عمرو نے فرمایا کوئی راستہ بتانے والا تلاش کر لو۔ لوگوں نے کہا ہمارے علم کے مطابق تو رافع بن عمرو کے علاوہ اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ وہ رہیل تھے۔ راعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت طارق سے پوچھا کہ رہیل کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا رہیل اس ڈاکو کو کہتے ہیں جو اکیلا ہی حملہ کر کے پوری قوم کو لوٹ لے۔ رافع کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے غزوے سے فارغ ہو گئے اور جس جگہ سے ہم چلے تھے وہاں واپس پہنچ گئے تو مجھے حضرت ابو بکر میں بہت سی خوبیاں نظر آئیں جن کی بناء پر میں نے ان کو اپنے لئے منتخب کیا اور میں نے ان کی خدمت میں جا کر عرض کیا۔ اے حلال روزی کھانے والے! میں نے خوبیوں کی وجہ سے آپ کے ساتھیوں میں سے آپ کو اپنے لئے منتخب کیا۔ اس لئے آپ مجھے ایسی چیز بتائیں کہ جس کی پابندی کرنے سے میں آپ لوگوں میں سے شمار ہونے لگوں اور آپ جیسا ہو جاؤں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کیا تم اپنی پانچ انگلیوں کو یاد رکھ سکتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، حضرت محمد ﷺ اس کے بعدے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرو۔ اگر تمہارے پاس مال ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ کیا تمہیں یہ باتیں یاد ہو گئیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ایک بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ دو آدمیوں کا بھی ہرگز کبھی امیر نہ بنتا۔ میں نے کہا کیا یہ امارت اب اہل بدر کے علاوہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا عنقریب یہ امارت اتنی عام ہو جائیگی کہ تمہیں بھی مل جائے گی بلکہ تم سے کم درجہ کے لوگوں کو بھی مل جائے گی۔ اللہ عزوجل نے جب اپنے نبی ﷺ کو مبعوث فرمایا تو (ان کی محنت پر) لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بہت سے لوگ تو اپنی خوشی سے اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے

ہدایت سے نوازا تھا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کو تلوار نے اسلام لانے پر مجبور کیا۔ بہر حال اب یہ تمام مسلمان اللہ کی پناہ میں آگئے ہیں۔ یہ اللہ کے پڑوسی اور اس کی ذمہ داری میں ہیں۔ جب کوئی آدمی امیر بنتا ہے اور لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور یہ امیر ظالم سے مظلوم کا بدلہ نہیں لیتا ہے تو پھر ایسے امیر سے اللہ بدلہ لیتا ہے جیسے تم میں سے کسی آدمی کے پڑوسی کی بھری ظلماً پکڑ لی جاتی ہے تو سارا دن اس پڑوسی کی حمایت میں غصہ کی وجہ سے اس کی رگیں پھولی رہتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے پڑوسی کی پوری حمایت کرتے ہیں۔ حضرت رافع کہتے ہیں کہ میں ایک سال (اپنے گھر) ٹھہرا ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے میں سواری پر سوار ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور میں نے ان سے کہا میں رافع ہوں اور میں فلاں جگہ آپ کا رہبر تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں میں نے تم کو پہچان لیا۔ میں نے کہا آپ نے مجھے تو دو آدمیوں کا بھی امیر بننے سے منع کیا تھا اور اب خود آپ ساری امت محمد ﷺ کے امیر بن گئے ہیں انہوں نے فرمایا ہاں لیکن یاد رکھو۔ جو آدمی ان مسلمانوں میں اللہ کی کتاب والے حکم نہیں چلائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔

حضرت سعید بن عمر بن سعید بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا حضرت خالد بن سعید بن عاص اور حضرت لبان بن سعید بن عاص اور حضرت عمرو بن عاص کو جب حضور اقدس ﷺ کی وفات کی خبر پہنچی تو (یہ حضرات مختلف علاقوں کے امیر تھے خبر ملتے ہی) یہ حضرات اپنے اپنے عہدے چھوڑ کر (مدینہ منورہ) واپس آگئے۔ ان حضرات سے حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کوئی آدمی حضور ﷺ کے بنائے ہوئے امیروں سے زیادہ امیر بننے کا حق دار نہیں ہے لہذا تم لوگ اپنے علاقوں میں اپنے عہدوں پر واپس چلے جاؤ۔ ان حضرات نے کہا اب ہم حضور ﷺ کے بعد کسی کی طرف سے امیر بن کر جانے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ حضرات اللہ کے راستہ میں ملک شام چلے گئے اور وہاں ہی سب کے سب شہید ہو گئے۔ (ان حضرات کی طبیعتوں میں لہارت سے گریز تھا اور اللہ کے راستہ میں جان دینے کا شوق تھا)۔

حضرت عبدالرحمن بن سعید بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت لبان بن سعیدؓ (اپنے علاقہ کی لہارت چھوڑ کر) مدینہ منورہ آگئے تو ان سے حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنے امام وقت کی اجازت کے بغیر اپنا کام چھوڑ کر

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۵ ص ۲۰۲) رجالہ نقات انتھی.

۲۔ اخرجه الحاكم و ابو نعیم و ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۲۶)

آجاؤ اور پھر خصوصاً ان حالات میں (کہ چاروں طرف ارتداد پھیل رہا ہے اور دشمنوں کے مدینہ پر حملے کی خبریں آرہی ہیں) لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے امام وقت کا ڈر نہیں رہا۔ اس لئے تم نڈر ہو گئے ہو۔ حضرت بلان نے کہا اللہ کی قسم! حضور ﷺ کے بعد اب میں کسی کی طرف سے امارت قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ اگر میں حضور ﷺ کے بعد کسی کی طرف سے امارت قبول کرتا تو حضرت ابو بکرؓ کی طرف سے ضرور قبول کرتا۔ کیونکہ انہیں بہت سے فضائل حاصل ہیں اور وہ سب سے پہلے اسلام لائے ہیں اور پرانے مسلمان ہیں۔ لیکن میں نے طے کر لیا ہے کہ حضور ﷺ کے بعد کسی کی طرف سے امارت قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے لگے کہ اب کے بحرین بھیجا جائے؟ تو ان سے حضرت عثمان بن عفانؓ نے کہا آپ اس آدمی کو بھیجیں جسے حضور ﷺ نے بحرین بھیجا تھا اور وہ بحرین والوں کو مسلمان اور فریادار بنا کر حضور ﷺ کی خدمت میں لائے تھے۔ بحرین والے انہیں اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ بحرین والوں کو اور ان کے علاقہ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ ہیں حضرت علاء بن حضرمیؓ۔ حضرت عمر نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور حضرت ابو بکرؓ سے عرض کیا کہ آپ (بحرین واپس جانے پر) حضرت بلان بن سعید بن عامر کو مجبور کریں۔ کیونکہ یہ بحرین کئی دفعہ جا چکے ہیں۔ لیکن انہیں مجبور کر کے بھیجنے سے حضرت ابو بکرؓ نے انکار کر دیا اور فرمایا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ جو آدمی کہتا ہے کہ میں حضور ﷺ کے بعد کسی کی طرف سے امیر نہیں ہوں گا۔ میں اسے امارت قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا اور حضرت ابو بکرؓ نے حضرت علاء بن حضرمیؓ کو بحرین بھیجنے کا فیصلہ کیا۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ نے ان کو امیر بنانے کے لئے بلایا۔ انہوں نے امارت قبول کرنے سے حضرت عمرؓ کو انکار کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا تم امیر بننے کو برا سمجھتے ہو حالانکہ اسے تو اس شخص نے مانگا تھا جو تم سے بہتر تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا وہ کون؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا وہ حضرت یوسف بن یعقوب علیہما السلام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا حضرت یوسف تو خود اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کے بیٹے تھے (انہیں ایسا کرنے کا حق تھا) میں تو امیر نامی عورت کا بیٹا ابو ہریرہ ہوں اور امیر بننے میں مجھے تین اور دو (کل پانچ) باتوں کا ڈر ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا پانچ ہی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا (دو باتیں تو یہ ہیں کہ) میں علم کے بغیر کوئی بات کہہ دوں اور کوئی غلط فیصلہ کر دوں۔ (امیر



بن کر مجھ سے یہ دو غلطیاں ہو سکتی ہیں جس کے نتیجے میں مجھے یہ تین سزائیں امیر المؤمنین کی طرف سے دی جاسکتی ہیں) میری کمر پر کوڑے مارے جائیں اور میرا مال چھین لیا جائے۔ اور مجھے بے آبرو کر دیا جائے۔<sup>۱</sup>

حضرت عبداللہ بن مویب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے حضرت لنن عمرؓ سے فرمایا جاؤ اور لوگوں کے قاضی بن جاؤ۔ ان میں فیصلے کیا کرو۔ حضرت لنن عمرؓ نے کہا اے امیر المؤمنین! کیا آپ مجھے اس سے معاف رکھیں گے؟ حضرت عثمانؓ نے فرمایا نہیں۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں۔ تم جا کر لوگوں کے قاضی ضرور ہو۔ حضرت لنن عمرؓ نے کہا آپ جلدی نہ کریں۔ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کی پناہ چاہی وہ بہت بڑی پناہ میں آگیا۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا ہاں۔ حضرت لنن عمرؓ نے کہا میں قاضی بننے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا تم قاضی کیوں نہیں بنتے ہو؟ حالانکہ تمہارے والد تو قاضی تھے۔ حضرت لنن عمرؓ نے کہا میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو قاضی بنا اور پھر نہ جاننے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر دیا تو وہ دوزخی ہے۔ اور جو قاضی عالم ہو اور حق و انصاف کا فیصلہ کرے وہ بھی چاہے گا کہ وہ اللہ کے ہاں جا کر برابر برابر پر چھوٹ جائے (نہ انعام ملے اور نہ کوئی سزا لگے) اب اس حدیث کے سننے کے بعد بھی میں قاضی بننے کا خیال کر سکتا ہوں؟<sup>۲</sup> امام احمد کی روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور ان سے فرمایا کہ تم کو تو معاف کر دیا لیکن تم کسی اور کو یہ بات نہ بتانا (ورنہ اگر سارے ہی انکار کرنے لگ گئے تو پھر مسلمانوں میں قاضی کون بنے گا؟ اور یہ اجتماعی ضرورت کیسے پوری ہو گی؟)

حضرت لنن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے انہیں قاضی بنانا چاہا تو انہوں نے معذرت کر دی اور فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قاضی تین قسم کے ہیں ایک نجات پائے گا۔ دو دوزخ میں جائیں گے۔ جس نے ظالمانہ فیصلہ کیا۔ یا اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا وہ ہلاک ہو گا اور جس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا وہ نجات پائے گا۔<sup>۳</sup>

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۸۰) واخرجہ ایضا ابو موسیٰ فی الذیل قال فی الاصابہ (ج ۴ ص ۲۴۱) وسندہ ضعیف جدا ولكن اخرجہ عبدالرزاق عن معمر عن ایوب فقوی انتھی و اخرجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۵۹) عن ابن سیرین عن ابی ہزیرۃ بمعناه مع زیادۃ فی اولہ.

۲۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر والا وسط قال الہیثمی (ج ۴ ص ۱۹۳) رواہ الطبرانی الکبیر و الاوسط والبراز و احمد کلاهما باختصار و رجالہ ثقات . ۳۔ عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۴ ص ۱۹۳) رواہ الطبرانی فی الاوسط و الکبیر و رجال الکبیر ثقات و رواہ ابویعلیٰ بنحوہ انتھی و اخرجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۰۸) عن عبد اللہ بن مویب بمعناه مطولا.

حضرت لئن عمرؓ فرماتے ہیں جس دن حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ دومۃ الجندل میں جمع ہوئے (غالباً یہ قصہ حضرت حسن بن علیؓ اور حضرت معاویہؓ کا ہے۔ رلوی کو غلط فہمی ہو گئی ہے) تو اس دن مجھ سے (میری ہمیشہ) ام المومنین حضرت حصہؓ نے کہا تمہارے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم ایسی صلح سے پیچھے رہو جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد ﷺ کی امت کے درمیان صلح کرادے۔ تم حضور ﷺ کے سرال سے تعلق رکھتے ہو اور (امیر المومنین) حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہو۔ اس کے بعد حضرت معاویہ ایک بہت بڑے بنتی لونٹ پر یعنی خراسانی لونٹ پر آکر کہنے لگے کون خلافت کی طمع اور امید رکھتا ہے؟ اور کون اس کے لئے اپنی گردن اٹھاتا ہے؟ حضرت لئن عمر فرماتے ہیں اس سے پہلے کبھی میرے دل میں دنیا کا خیال نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان سے جا کر یہ کہوں کہ اس خلافت کی امید و طمع وہ آدمی کر رہا ہے جس نے آپ کو اور آپ کے باپ کو اسلام کی وجہ سے مارا تھا اور (مارا کر) تم دونوں کو اسلام میں داخل کیا تھا (اس سے حضرت لئن عمر اپنی ذات مراد لے رہے ہیں) لیکن پھر مجھے جنت اور اس کی نعمتیں یاد آگئیں۔ تو میں نے ان سے یہ بات کہنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔<sup>۱</sup>

حضرت ابو حصین کہتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ نے فرمایا اس امر خلافت کا ہم سے زیادہ حق دار کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں میرے جی میں آئی کہ میں کہہ دوں خلافت کا آپ سے زیادہ حق دار وہ ہے جس نے آپ کو اور آپ کے والد کو اسلام کی وجہ سے مارا تھا۔ (یعنی خود حضرت لئن عمر) لیکن مجھے جنت کی نعمتیں یاد آگئیں اور اس بات کا خطرہ ہوا کہ کہیں اس طرح کہنے سے فساد نہ برپا ہو جائے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب حضرت علیؓ اور حضرت معاویہ جمع ہوئے تو حضرت معاویہ نے کھڑے ہو کر فرمایا اس امر خلافت کا مجھ سے زیادہ حق دار کون ہے؟ حضرت لئن عمر فرماتے ہیں میرا ارادہ ہوا کہ میں کھڑے ہو کر کہوں کہ اس خلافت کا آپ سے زیادہ حق دار وہ ہے جس نے آپ کو اور آپ کے والد کو کفر کی وجہ سے مارا تھا (یعنی خود حضرت لئن عمر) لیکن مجھے ڈر ہوا کہ میرے اس طرح کہنے سے میرے بارے میں اس چیز کا گمان کر لیا جائے جو مجھ میں نہیں ہے (یعنی یہ سمجھ لیا جائے گا کہ مجھے خلیفہ بننے کا شوق ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے)

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۴ ص ۲۰۸) رجالہ ثقات والظاهر انه اراد صلح الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما و وہم الراوی انتہی و اخرجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۳۴) عن ابن عمر نحوہ۔ اخرجہ ابن سعد ایضاً۔

حضرت عبداللہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ زیاد نے حضرت عمران بن حصینؓ کو خراسان کا حاکم بنا کر بھیجا چاہا تو انہوں نے معذرت کر دی۔ ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کیا آپ نے خراسان کی لغارت چھوڑ دی؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم! مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہے کہ مجھے تو خراسان کی گرمی پہنچے اور زیاد اور اس کے ساتھیوں کو اس کی ٹھنڈک یعنی میں تو وہاں امیر بن کر مشقت اٹھاتا رہوں اور وہ لوگ وہاں کی آمدنی سے مزے اڑاتے رہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں تو دشمن کے مقابلہ میں کھڑا ہوں اور میرے پاس زیاد کا ایسا خط آئے کہ اگر میں اس پر عمل کروں تو ہلاک ہو جاؤں اور اگر اس پر عمل نہ کروں تو (زیاد کی طرف سے) میری گردن اڑادی جائے۔ پھر زیاد نے حضرت حکم بن عمرو غفاریؓ سے خراسان کا امیر بننے کو کہا جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عمران نے فرمایا کوئی ہے جو حکم کو میرے پاس بلا لائے۔ چنانچہ حضرت عمران کا قاصد گیا اور اس پر حضرت حکم حضرت عمران کے پاس آئے تو حضرت عمران نے ان سے فرمایا کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی کی ایسی بات ماننی بالکل جائز نہیں ہے جس میں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ حضرت حکم نے کہا جی ہاں۔ اس پر حضرت عمران نے الحمد للہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا یا اللہ اکبر کہہ کر خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت حسن کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ زیاد نے حضرت حکم غفاریؓ کو ایک لشکر کا امیر بنایا تو حضرت عمران بن حصینؓ ان کے پاس آئے اور لوگوں کی موجودگی میں ان سے ملے۔ اور فرمایا کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ حضرت حکم نے کہا (آپ ہی بتائیں) آپ کیوں آئے ہیں؟ حضرت عمران نے کہا کیا آپ کو یاد ہے کہ ایک آدمی سے اس کے امیر نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو آگ میں پھینک دو۔ (وہ آدمی تو آگ کی طرف چل دیا تھا لیکن دوسرے لوگوں نے جلدی سے اسے پکڑ کر آگ میں چھلانگ لگانے سے روک دیا تھا۔ یہ سارا واقعہ حضور ﷺ کو بتایا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اگر یہ آدمی آگ میں گر جاتا تو یہ آدمی بھی اور اسے حکم دینے والا امیر بھی دونوں دوزخ میں جاتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں کسی کی بات ماننی جائز نہیں ہے۔ حضرت حکم نے کہا ہاں (یاد ہے) حضرت عمران نے کہا میں تو تمہیں صرف یہ حدیث یاد دلا نا چاہتا تھا۔

## خلفاء اور امراء کا احترام کرنا اور ان کے احکامات کی تعمیل کرنا

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ مخزومی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ اس جماعت میں ان کے ساتھ حضرت عمار بن یاسرؓ بھی تھے۔ چنانچہ یہ لوگ (مدینہ منورہ سے) روانہ ہوئے۔ اور رات کے آخری حصے میں انہوں نے اس قوم کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالا جس پر صبح حملہ کرنا تھا۔ کسی مجبر نے جا کر اس قوم کو صحابہ کرام کے آنے کی خبر کر دی۔ جس پر وہ لوگ بھاگ گئے اور محفوظ مقام پر پہنچ گئے۔ لیکن اس قوم کا ایک آدمی جو خود اور اس کے گھر والے مسلمان ہو چکے تھے وہیں ٹھہرا رہا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تو انہوں نے بھی سامان سفر باندھ لیا۔ اس نے گھر والوں سے کہا میرے واپس آنے تک تم لوگ یہاں ہی ٹھہرو۔ پھر وہ حضرت عمار کے پاس آیا اور اس نے کہا اے ابو یقظان! یعنی اے بیدار مغز آدمی! میں اور میرے گھر والے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو کیا اگر میں یہاں ٹھہرا ہوں تو میرا یہ اسلام مجھے کام دے گا۔ کیونکہ میری قوم والوں نے تو جب آپ لوگوں کا سنا تو وہ بھاگ گئے۔ حضرت عمار نے اس سے کہا تم ٹھہرے رہو۔ تمہیں امن ہے۔ چنانچہ یہ آدمی اور اس کے گھر والے اپنی جگہ واپس آ گئے۔ حضرت خالد نے صبح اس قوم پر حملہ کیا۔ تو پتہ چلا کہ وہ لوگ تو سب جا چکے۔ البتہ وہ آدمی اور اس کے گھر والے وہاں ملے جنہیں حضرت خالد کے ساتھیوں نے پکڑ لیا۔ حضرت عمار نے حضرت خالد سے کہا اس آدمی کو آپ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ حضرت خالد نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ امیر تو میں ہوں اور مجھ سے پوچھے بغیر کیا آپ پناہ دے سکتے ہیں؟ حضرت عمار نے کہا ہاں۔ آپ امیر ہیں اور میں آپ سے پوچھے بغیر پناہ دے سکتا ہوں۔ کیونکہ یہ آدمی ایمان لا چکا ہے۔ اگر یہ چاہتا تو یہاں سے جا سکتا تھا جیسے اس کے ساتھی چلے گئے۔ چونکہ یہ مسلمان تھا اس وجہ سے میں نے اسے یہاں ٹھہرنے کو کہا تھا۔ اس پر دونوں حضرات میں بات بڑھ گئی۔ اور ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نازیبا لفاظی نکل گئے۔ جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ گئے تو دونوں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمار نے اس آدمی کے تمام حالات سنائے۔ اس پر حضور ﷺ نے حضرت عمار کے امان دینے کو درست قرار دیا۔ لیکن آئندہ کے لئے امیر کی اجازت کے بغیر پناہ دینے سے منع کر دیا۔ اس پر ان دونوں حضرات میں حضور ﷺ کے سامنے ہی تیزم تازی ہو گئی اس پر حضرت خالد نے کہا یا رسول اللہ! کیا آپ کے سامنے یہ غلام مجھے سخت لفاظی کہہ رہا ہے؟ اللہ کی قسم! اگر آپ نہ

ہوتے تو یہ مجھے کبھی ایسے سخت الفاظ نہ کہتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے خالد! عمار کو کچھ مت کہو۔ کیونکہ جو عمار سے بغض رکھے گا اس سے اللہ بغض رکھے گا اور جو عمار پر لعنت کرے گا اس پر اللہ لعنت کرے گا۔ پھر حضرت عمار وہاں سے اٹھ کر چل دیئے (حضور ﷺ کے اس فرمان کا یہ اثر ہوا کہ) حضرت خالد بھی حضرت عمار کے پیچھے چل دیئے اور ان کا کپڑا پکڑ کر انہیں مناتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمار ان سے راضی ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ ترجمہ: ”تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول ﷺ کا کہنا مانو اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی (حضرت لمن عباس فرماتے ہیں) ان حاکموں سے مراد جماعتوں و لشکروں کے امیر ہیں۔“

”فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ“ ترجمہ: ”پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی طرف حوالہ کر لیا کرو“ (حضرت لمن عباس فرماتے ہیں جب تم اپنے جھگڑے کو اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول ہی اس جھگڑے کا فیصلہ کریں گے۔ ”ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا“ (نساء ۵۹) ترجمہ: ”یہ امور سب بہتر ہیں اور ان کا انجام خوشتر ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے انجام اچھا ہو گا۔

حضرت عوف بن مالک انجی فرماتے ہیں میں بھی ان مسلمان کے ساتھ سفر میں گیا جو غزوہ موتہ میں حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ تھے۔ یمن سے لشکر کی مدد کے لئے آنے والے ایک صاحب اس سفر میں میرے ساتھی بن گئے۔ اس کے پاس اس کی تلوار کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ایک مسلمان نے ایک اونٹ ذبح کیا۔ میرے اس ساتھی نے اس مسلمان سے اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا مانگا۔ انہوں نے اسے ایک ٹکڑا دے دیا۔ جسے لے کر اس نے ڈھال جیسا بنا لیا۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے۔ ہمارا رومی لشکروں سے مقابلہ ہوا۔ ان رومیوں میں ایک آدمی اپنے سرخ گھوڑے پر سوار تھا۔ جس کی زین اور ہتھیار پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ وہ رومی مسلمانوں کو بڑے زور شور سے قتل کرنے لگا۔ مدد کے لئے آنے والا یمنی ساتھی اس کی تاک میں ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ وہ رومی جو نبی اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے حملہ کر کے اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ وہ رومی زمین پر گر پڑا۔ اس کے اوپر چڑھ کر

۱۔ اخروجه ابن جوير و ابن عساكر كذا في الكنز (ج ۱ ص ۲۴۲) و اخروجه ايضا ابو يعلى و ابن عساكر و النسائي و الطبراني و الحاكم من حديث خالد رضى الله تعالى عنه بمعناه مطولا و ابن ابي شيبة و احمد و النسائي مختصر كما في الكنز (ج ۷ ص ۷۳) قال الحاكم (ج ۳ ص ۳۹۰) صحيح الاسناد ولم يخبر جاه و قال الذهبي صحيح وقال الهيثمي (ج ۹ ص ۲۹۴) رواه الطبراني مطولا و مختصر منها ما وافق احمد و رجاله ثقات.

یعنی نے اسے قتل کر دیا اور اس کے گھوڑے اور ہتھیار پر قبضہ کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمادی تو حضرت خالد بن ولیدؓ نے (جن کو آخر میں مسلمانوں نے امیر بنا لیا تھا) اس یعنی کوبلا کر اس سے مقتول رومی کا سارا سامان لے لیا۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد کے پاس جا کر ان سے کہا اے خالد! کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قاتل کے لئے مقتول کے سامان کا فیصلہ کیا تھا؟ حضرت خالد نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن مجھے یہ سامان بہت زیادہ معلوم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یا تو آپ یہ سامان اس یعنی کوبلا کو واپس دے دیں۔ نہیں تو میں رسول اللہ ﷺ سے آپ کی شکایت کروں گا اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن حضرت خالد نے وہ سامان واپس کرنے سے انکار کر دیا (اس سفر سے واپسی پر) ہم لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچے۔ تو میں نے اس یعنی کوبلا کو قصہ اور جو کچھ حضرت خالد نے کیا تھا وہ سب حضور ﷺ کو بتایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے خالد! تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے وہ سامان بہت زیادہ معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا اے خالد! تم نے اس سے جو کچھ لیا ہے وہ اسے واپس کر دو۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ اس پر میں نے حضرت خالد سے کہا اے خالد! لو میں نے تم سے جو کہا تھا وہ پورا کر دینا۔ کہ حضور ﷺ سے شکایت کر کے تمہیں سزا دلو اور لوگوں کو بتاؤ۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی۔ اس پر حضور ﷺ ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے خالد! وہ سامان واپس نہ کرو (اور صحابہ سے متوجہ ہو کر فرمایا) کیا تم میری وجہ سے میرے امیروں کو چھوڑ نہیں دیتے؟

(کہ ان کی بے کراہی نہ کیا کرو بلکہ ان کا احترام کیا کرو) ان کے اچھے کام تمہارے لئے مفید ہیں اور ان کے برے کام کا وبال ان ہی پر ہوگا۔ یعنی اگر وہ اچھے اعمال کریں گے تو ان کا فائدہ تمہیں بھی ہوگا اور اگر وہ غلط کام کریں گے تو اس کا خمیازہ ان کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ تمہیں ہر حال میں ان کا اکرام کرنا چاہئے۔

حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس کچھ مال آیا۔ آپ اس مال کو لوگوں میں تقسیم کرنے لگے۔ آپ کے پاس لوگوں کا بڑا مجمع ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ مجمع کو چیرتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ حضرت عمرؓ کو ڈالنے کے ان پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم تو اس طرح آگے آرہے ہو جیسے کہ تم زمین پر اللہ کے

سلطان سے ڈرتے نہیں ہو۔ میں بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا سلطان تم سے نہیں ڈرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن یزیدؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرو بن عاصؓ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ اس لشکر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ بھی تھے۔ جب یہ حضرات لڑائی کی جگہ پہنچے تو حضرت عمروؓ نے لشکر کو حکم دیا کہ آگ بالکل نہ جلائیں۔ حضرت عمرؓ کو اس پر غصہ آگیا اور انہوں نے جا کر حضرت عمروؓ سے اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت ابو بکر نے انہیں ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا حضور ﷺ نے ان کو تمہارا امیر اس وجہ سے بنایا ہے کہ وہ جنگی ضروریات کو خوب جانتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ ٹھنڈے پڑ گئے اور حضرت عمروؓ کے پاس نہ گئے۔<sup>۱</sup>

حضرت جبیر بن نفیرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عیاض بن غنم اشعریؓ نے دارا اشرفؓ ہو جانے کے بعد اس کے حاکم کو (کوڑوں سے) سزا دی (حضرت ہشام بن حکیمؓ ان کے پاس آئے اور (حاکم کو سزا دینے پر) ان کو سخت بات کہی۔ چند دن گزرنے کے بعد حضرت ہشام، حضرت عیاض کے پاس معذرت کرنے کے لئے آئے۔ اور حضرت عیاض سے (اپنی سختی کی وجہ بتاتے ہوئے) کہا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہو گا جو دنیا میں لوگوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیتا تھا۔ حضرت عیاض نے ان سے کہا اے ہشام! ہم نے بھی وہ سب کچھ (حضور ﷺ سے) سنا ہے جو آپ نے سنا ہے اور ہم نے بھی وہ سب کچھ دیکھا ہے جو آپ نے دیکھا ہے اور ہم بھی اسی ذات اقدس کی صحبت میں رہے ہیں جن کی صحبت میں آپ رہے ہیں۔ اے ہشام! کیا آپ نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جو کسی بادشاہ کو نصیحت کرنا چاہتا ہو تو اسے علی الاعلان لوگوں کے سامنے نصیحت نہ کرے بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے علیحدگی میں لیجائے (اور تنہائی میں اسے نصیحت کرے) اگر بادشاہ اس کی نصیحت قبول کر لے تو ٹھیک ورنہ اس نے اس بادشاہ کا حق ادا کر دیا اور اے ہشام! تم بہت بے باک ہو اور اللہ کے بادشاہ کے خلاف دلیری کرتے ہو کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ اللہ کا سلطان تمہیں قتل کر دیتا اور تم

۱۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۰۶)

۲۔ اخرجہ البيهقي (ج ۹ ص ۴۱) و اخرجہ الحاكم (ج ۳ ص ۴۲) عن عبد اللہ بن بريدة عن ابيه قال بعث رسول الله ﷺ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في غزوة ذات السلاسل فذكر بنحوه وقال هذا حديث صحيح و لم يخترجاه وقال الذهبي صحيح.

اللہ کے بادشاہ کے قتل کئے ہوئے کہلاتے۔ ا۔

حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حدیفہؓ کے زمانے میں لوگوں نے ایک امیر کی کسی بات پر اعتراض کیا۔ ایک آدمی سب سے بڑی جامع مسجد میں داخل ہوا اور لوگوں میں سے گزرتا ہوا حضرت حدیفہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آدمی ان کے سر کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگا اے رسول اللہ ﷺ کے صحابی! کیا آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں؟ حضرت حدیفہ نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور وہ آدمی جو کچھ چاہتا تھا اسے سمجھ گئے۔ تو اس سے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واقعی بہت اچھا کام ہے۔ لیکن یہ سنت میں سے نہیں ہے کہ تم اپنے امیر پر ہتھیار اٹھاؤ۔ ۱۔

حضرت زید بن کعب عدوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر باریک کپڑے پہن کر اور بالوں میں کنگھی کر کے لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے نماز پڑھائی اور پھر اندر چلے گئے اور حضرت ابو بکرؓ منبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مرد اس لبالب نے کہا کیا آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگوں کے امیر باریک کپڑے پہنچتے ہیں اور فاسق لوگوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکرؓ نے ان کی بات سن لی اور اپنے بیٹے اصیلح سے کہا ابو بلال کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ انہیں بلا کر لائے تو ان سے حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا غور سے سنو! تم نے ابھی امیر کے بارے میں جو کہا ہے وہ میں نے سن لیا ہے۔ لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کے سلطان کا اکرام کرے گا اللہ اس کا اکرام کریں گے۔ اور جو اللہ کے سلطان کی اہانت کرے گا اللہ اس کی اہانت کریں گے۔ ۲۔

حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ایک انصاری کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا اور اس جماعت کو تاکید فرمائی کہ اپنے امیر کی بات سنیں اور مانیں۔ چنانچہ (اس سفر میں) امیر کو ان کی کسی بات پر غصہ آگیا تو اس نے کہا میرے لئے لکڑیاں جمع کرو۔ چنانچہ

۱۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۲۹۰) قال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وقال الذہبی فیہ ابن زریق واہ واخرجہ البیہقی (ج ۸ ص ۱۶۴) بهذا الاسناد مثله وذكره فی مجمع الزوائد (ج ۵ ص ۲۲۹) بدون ذکر مخرجه ثم قال رجاله ثقات و اسناده متصل و اخرجہ احمد شریح بن عیید و غیرہ قال جلد عیاض بن غنم صاحب دارا حین فتحت فاغلظ له، هشام فذكر الحدیث بنحوه قال الهیثمی (ج ۵ ص ۲۲۹) رجاله ثقات الا انی لم اجد لشریح من عیاض و هشام سماعا وان كان تابعیا۔ ۲۔ اخرجہ البزار قال الهیثمی (ج ۵ ص ۲۲۴) و فی حبیب بن خالد و ثقہ ابن حبان و قال ابو حاتم لیس بالقوی انتهى۔



انہوں نے لکڑیاں جمع کیں۔ پھر اس امیر نے کہا آگ جلاؤ۔ اس پر ان لوگوں نے آگ جلائی۔ پھر اس امیر نے کہا کیا آپ لوگوں کو حضور ﷺ نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ آپ لوگ میری بات سنو اور مانو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں حکم دیا ہے۔ اس امیر نے کہا تو پھر تو اس آگ میں داخل ہو جاؤ (لوگوں کا امتحان لینا مقصود تھا) اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور یوں کہا ہم تو آگ سے بھاگ کر حضور ﷺ کے پاس آئے تھے۔ (اتنی دیر میں) اس امیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آگ بھی بجھ گئی۔ جب یہ لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں واپس پہنچے تو حضور ﷺ سے اس قصہ کا ذکر کیا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا اگر یہ لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی اس سے باہر نہ نکل سکتے (یعنی یہ بات نہیں تھی کہ امیر کی ماننے کی وجہ سے آگ ان کو نہ جلاتی اور یہ زندہ آگ سے باہر آجاتے بلکہ جل کر مر جاتے) امیر کی اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ضروری ہے۔ (گناہ کے کاموں میں اس کی اطاعت نہ کی جائے۔) ۱

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ اپنے کچھ صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ صحابہ نے کہا جی ہاں معلوم ہے۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ﷺ ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جس نے میری اطاعت کی۔ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میری اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت میں شامل ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ معلوم ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں شامل ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت میں یہ شامل ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور میری اطاعت میں یہ شامل ہے کہ تم اپنے امیروں کی اطاعت کرو۔ اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھائیں تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ ۲

حضرت اسماعیل بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب حضور ﷺ کی خدمت سے فارغ ہو جاتے تو مسجد میں آجایا کرتے۔ مسجد ہی ان کا گھر تھا اسی میں وہ لیٹ جایا کرتے تھے۔ ایک

۱۔ أخرجه الشيخان وهذه القصة ثابتة ايضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذا في البداية (ج ۴ ص ۲۲۶) وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس و ابن أبي شيبة عن أبي سعيد بمعناه وسمى أبو سعيد الرجل الا نصارى عبد الله بن حذافة السهمي كما في الكنز (ج ۳ ص ۱۷۰) وهكذا سماه في البخاري عن ابن عباس كما في الاصابة (ج ۲ ص ۲۹۶)

۲۔ أخرجه أبو يعلى و ابن عساکر و رجاله ثقاة كذا في الكنز (ج ۳ ص ۱۶۸)

رات حضور ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ابوذر مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے سو رہے ہیں۔ حضور ﷺ نے ان کو اپنے پاؤں سے (اٹھانے کے لئے ہلکی سی) ٹھوک ماری۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں مسجد میں سوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میں اور کہاں سوؤں؟ اس مسجد کے علاوہ میرا اور کوئی گھر نہیں ہے۔ پھر حضور ﷺ ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا جب لوگ تم کو (کسی اجتماعی ضرورت کی وجہ سے) اس مسجد سے نکالیں گے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں ملک شام چلا جاؤں گا۔ کیونکہ شام (پہلے انبیاء علیہم السلام کی) ہجرت کی جگہ ہے۔ اور وہاں ہی میدان حشر ہو گا اور وہ انبیاء کی سر زمین ہے۔ (وہاں بہت نبی ہوئے) اور میں وہاں والوں میں سے بن جاؤں گا (یعنی وہاں رہنے لگ جاؤں گا) حضور ﷺ نے فرمایا جب لوگ تمہیں ملک شام سے بھی نکال دیں گے تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں اسی مسجد میں یعنی مدینہ واپس آ جاؤں گا۔ یہی میرا گھر اور میری منزل ہو گی۔ آپ نے فرمایا جب لوگ تمہیں اس مسجد سے یعنی مدینہ سے دوبارہ نکال دیں گے تو پھر تمہارا کیا ہو گا؟ انہوں نے کہا میں تلوار لے کر مرتے دم تک (ان سے) لڑتا رہوں گا۔ حضور ﷺ انہیں دیکھ کر مسکرائے اور انہیں ہاتھ سے تھپکی دی اور فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ضرور بتادیں۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا وہ تمہیں آگے سے پکڑ کر جدھر لے جائیں تم ادھر چلے جانا اور پیچھے سے تمہیں جدھر کو چلائیں تم ادھر کو چلے جانا (یعنی جیسے وہ کہیں ویسے کرتے رہنا) یہاں تک کہ اسی حال میں آکر مجھ سے مل لینا۔

لکن جریر نے اس جیسی حدیث خود حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب تمہیں (مدینہ سے) دوبارہ نکالا جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں تلوار لے کر نکالنے والوں کو مار دوں گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور فرمایا اے ابوذر! تم (ان نکالنے والوں کو) معاف کر دینا اور وہ تمہیں آگے سے پکڑ کر جہاں لے جائیں وہاں چلے جانا اور پیچھے سے تمہیں جدھر کو چلائیں تم ادھر کو چلے جانا (یعنی ان کی بات ماننے رہنا) چاہے تم کو یہ معاملہ ایک کالے غلام کے ساتھ کیوں نہ کرنا پڑے۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں جب (امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر) میں ربڑہ رہنے لگا تو ایک دفعہ نماز کی اقامت ہوئی اور ایک

۱ اخراجہ ابن جریر کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۶۸) واخرجه ايضا احمد عن اسماء نحوه قال الهیثمی (ج ۵ ص ۲۲۳) وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق انتهى.

کالا آدمی جو وہاں کے صدقات وصول کرنے پر مقرر تھا نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگا اور مجھے آگے کرنے لگا۔ میں نے کہا تم اپنی جگہ رہو میں حضور ﷺ کی بات مانوں گا۔

عبدالرزاق نے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے یہی حدیث نقل کی ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربذہ گئے تو ان کو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کالا غلام ملا۔ اس نے اذان دی اور اقامت کہی پھر حضرت ابو ذر سے کہا اے ابو ذر! (نماز پڑھانے کے لئے) آگے بڑھیں۔ حضرت ابو ذر نے کہا نہیں۔ مجھے تو حضور ﷺ نے حکم دیا ہے کہ میں امیر کی بات سنوں اور مانوں۔ چاہے وہ کالا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ وہ غلام آگے بڑھا اور حضرت ابو ذر نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ لکن اہل شیعہ اور لئین جریور یہ تہمتی اور نعیم بن حماد وغیرہ حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اپنے امیر کی بات سنو اور مانو چاہے تم پر کان کٹا جیسی غلام ہی کیوں نہ امیر بنا دیا گیا ہو۔ اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو اسے برداشت کرو اور اگر وہ تمہیں کسی کام کا حکم دے تو اسے مانو اور اگر وہ تمہیں کچھ نہ دے تو صبر کرو۔ اور اگر وہ تم پر ظلم کرے تو بھی صبر کرو۔ اور اگر وہ تمہارے دین میں سے کم کرنا چاہے تو اس سے کہہ دو جان حاضر ہے دین نہیں (میں جان دے سکتا ہوں لیکن دین میں کسی برداشت نہیں کر سکتا) چاہے کچھ بھی ہو جائے تم جماعت سے جدا نہ ہونا۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علقمہ بن علاشہ رات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ حضرت عمر (شکل و صورت اور قد میں) حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھے (حضرت علقمہ ان کو حضرت خالد سمجھے) اور ان سے کہا اے خالد! تمہیں اس آدمی نے (یعنی حضرت عمر نے) معزول کر دیا۔ انہوں نے تنگ نظری کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ میں اور میرا چچا زاد بھائی ان سے کچھ مانگنے کے لئے ان کے پاس جانا چاہتے تھے۔ لیکن اب جب کہ انہوں نے آپ کو لہارت سے ہٹا دیا ہے تو اب میں ان سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (ان کے آئندہ کے ارادے معلوم کرنے کے لئے حضرت خالد جیسی آواز بنا کر) ان سے کہا اور کوئی بات۔ پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت علقمہ نے کہا ہمارے امراء کا ہم پر حق ہے (کہ ہم ہر حال میں ان کے

۱۔ اخرجه ابن جرير ايضا. ۲۔ اخرجه ايضا عبدالرزاق كذا في الكنز (ج ۳ ص ۱۶۸)

۳۔ كذا في كنز العمال (ج ۳ ص ۱۶۷)

فرمانبردار اور وفادار رہیں) ہم ان کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ اور اپنا اجر و ثواب اللہ سے لیں گے (صحابہ کرام نے ناگواریوں میں ایک دوسرے سے جڑنا سیکھا ہوا تھا) جب صبح ہوئی (اور حضرت عمر کے پاس حضرت علقمہ اور حضرت خالد اکٹھے ہوئے تو) حضرت عمر نے حضرت خالد سے کہا آج رات علقمہ نے تم کو کیا کہا تھا؟ حضرت خالد نے کہا اللہ کی قسم! انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تم قسم بھی کھاتے ہو۔ ابو نصرہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علقمہ حضرت خالد سے کہنے لگے اے خالد! چھوڑو (قسم نہ کھاؤ اور انکار نہ کرو) سیف بن عمرو کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عمر نے کہا یہ دونوں سچے ہیں۔ دونوں نے ٹھیک کہا ہے۔ لکن عائذ کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علقمہ کی فریاد سنی اور ان کی ضرورت پوری کر دی۔ زبیر بن بکار کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے (رات کو) جب یہ پوچھا تھا کہ تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت علقمہ نے کہا تمہا بات سننے اور ماننے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا میرے پیچھے جتنے آدمی ہیں وہ سب تمہارے ان اچھے جذبات پر ہوں تو مجھے یہ اتنے اور اتنے مال یعنی ساری دنیا کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔

حضرت ابن ابی ملیحہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوڑھی عورت کے پاس سے گزرے جو کہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا اے اللہ کی بندی! لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر تم اپنے گھر بیٹھی رہو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ چنانچہ (اس نے بیت اللہ کے طواف کیلئے حرم شریف آنا چھوڑ دیا اور) اپنے گھر بیٹھ گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک آدمی اس عورت کے پاس سے گزر اور اس سے کہا جس امیر المؤمنین نے تمہیں طواف کرنے سے روکا تھا ان کا انتقال ہو گیا۔ لہذا اب تم جا کر طواف کر لو۔ اس عورت نے کہا میں ایسی نہیں ہوں کہ ان کی زندگی میں تو ان کی بات مانوں اور ان کے مرنے کے بعد ان کی نافرمانی کروں۔ اے ایک صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں (ایک علاقہ کا) چودھری تھا۔ حضرت علی نے ہمیں ایک کام کا حکم دیا (کچھ عرصہ کے بعد) حضرت علی نے فرمایا میں نے تمہیں جس کام کا حکم دیا تھا کیا تم نے وہ کام کر لیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم! تمہیں جو حکم دیا جائے اسے ضرور پورا کرو

۱ اخرجه يعقوب بن سفيان باسناد صحيح وزواه الزبير بن بكار عن محمد بن سلمة عن مالك

فذكر نحوه مختصراً جداً كذا في الاصابة (ج ۲ ص ۵۰۴)

۲ اخرجه مالك كذا في كنز العمال (ج ۵ ص ۱۹۲)

نہیں تو تمہاری گردنوں پر یہود و نصاریٰ سوار ہو جائیں گے۔ ۲۔

## امیروں کا ایک دوسرے کی بات ماننا

(کئی پرانے اکٹھے ہو جائیں تو وہ آپس میں اختلاف نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کی بات مانیں)

حضرت عمرو بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو (لشکر کا امیر بنا کر) ملک شام کی بستیوں میں قبیلہ قضاہ کے قبائل بعلبلی اور ابو عبد اللہ وغیرہ میں بھیجا۔ بعلبلی (حضرت عمرو کے والد) عاص بن وائل کے ننھیال کے لوگ تھے۔ جب حضرت عمرو وہاں پہنچے تو دشمن کی بڑی تعداد دیکھ کر ڈر گئے۔ انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں مدد کے لئے آدی بھیجا۔ حضور ﷺ نے مہاجرین اولین کو (حضرت عمرو کی مدد کے لئے جانے کی) ترغیب دی۔ جس پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر سرداران مہاجرین تیار ہو گئے۔ حضور ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حضرات مہاجرین کا امیر بنایا۔ جب یہ لوگ حضرت عمرو کے پاس پہنچے تو حضرت عمرو نے ان سے کہا میں آپ لوگوں کا بھی امیر ہوں۔ کیونکہ میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں آدی بھیج کر آپ لوگوں کو اپنی مدد کیلئے بلایا ہے۔ حضرات مہاجرین نے کہا نہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کے امیر ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ مہاجرین کے امیر ہیں۔ حضرت عمرو نے کہا آپ لوگوں کو تو میری مدد کیلئے بھیجا گیا ہے (اس لئے اصل تو میں ہوں آپ لوگ تو میرے معاون ہیں) حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے اخلاق والے اور نرم طبیعت انسان تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا اے عمرو! آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ حضور اقدس ﷺ نے مجھے جو آخری ہدایت دی تھی وہ یہ تھی کہ جب تم اپنے ساتھی کے پاس پہنچو تو تم دونوں ایک دوسرے کی اطاعت کرنا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہاری بات ضرور مانوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے امارت حضرت عمرو بن عاص کے حوالے کر دی۔ ۲۔

حضرت زہری بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ابو کلب، ابو غسان اور عرب

۱۔ اخرجه ابن ابی شیبہ عن شمر كذا في الكنز (ج ۳ ص ۱۶۷)

۲۔ اخرجه البيهقي كذا في البداية (ج ۴ ص ۲۷۳) وهكذا اخرجه ابن عساكر عن عمرو كما في الكنز (ج ۵ ص ۳۱۰) وفيه مشارق بدل مشارف

کے ان کافروں کے پاس جو شام کے دیہات میں رہتے تھے دو لشکر بھیجے۔ ایک لشکر پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے لشکر پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور حضرت عبیدہ کے لشکر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی گئے۔ جب لشکروں کے جانے کا وقت ہوا تو حضور ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمرو کو بلا کر ان سے فرمایا ایک دوسرے کی نافرمانی نہ کرنا۔ جب یہ دونوں حضرات (اپنے لشکر لے کر) مدینہ سے روانہ ہو گئے تو حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمرو کو علیحدہ ایک طرف لے جا کر کہا حضور نے مجھے اور آپ کو خاص طور سے ہدایت فرمائی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کی نافرمانی نہ کرنا اس لئے اب (اس ہدایت پر عمل کی صورت یہ ہے کہ) یا تو تم میرے مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ یا میں تمہارا مطیع اور فرمانبردار بن جاؤں۔ حضرت عمرو نے کہا نہیں تم میرے مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں بن جاتا ہوں۔ اور یوں حضرت عمرو دونوں لشکروں کے امیر بن گئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آگیا اور انہوں نے (حضرت عبیدہ سے) کہا کیا آپ نابغہ (نامی عورت) کے بیٹے کی اطاعت اختیار کر رہے ہیں اور ان کو اپنا اور حضرت ابو بکر کا اور ہمارا امیر بنا رہے ہیں؟ یہ کیسی رائے ہے؟ (یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے) حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر سے کہا اے میری ماں کے بیٹے یعنی اے میرے بھائی! حضور ﷺ نے مجھے اور ان کو خاص ہدایت فرمائی تھی کہ تم ایک دوسرے کی نافرمانی نہ کرنا۔ تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر میں نے ان کی اطاعت نہ کی تو مجھ سے حضور ﷺ کی نافرمانی ہو جائے گی اور میرے اور حضور ﷺ کے تعلق میں لوگوں کا دخل ہو جائے گا (یعنی لوگوں کی وجہ سے میرے اور حضور ﷺ کے تعلق میں فرق آجائے گا) اور اللہ کی قسم! (مدینہ) واپسی تک میں ان کی بات ضرور مانتا ہوں گا۔ جب یہ دونوں لشکر (مدینہ منورہ) واپس پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب نے حضور ﷺ سے بات کی اور ان سے (حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی) شکایت کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا آئندہ میں تم مہاجرین کا امیر صرف تم میں سے ہی بنایا کروں گا (کسی اور کو نہیں بناؤں گا)۔

## رعایا پر امیر کے حقوق

حضرت سلمہ بن شہاب عبدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے رعایا کے لوگو! ہمارے تم پر کچھ حقوق ہیں۔ ہماری غیر موجودگی میں

بھی تم ہمارے ساتھ خیر خوانی کا معاملہ کرو۔ (ہماری موجودگی میں تو کرنا ہی ہے) اور خیر کے کاموں میں ہماری مدد کرو۔ اور اللہ کے نزدیک امام کی بردباری اور نرمی سے زیادہ محبوب اور لوگوں کے لئے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں ہے اور امام کے جہالت والے رویہ سے زیادہ مبعوض اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت عبداللہ بن عکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی بردباری امام کی بردباری اور نرمی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اور اللہ کے نزدیک کوئی جہالت امام کی جہالت سے زیادہ مبعوض نہیں ہے۔ اور اپنے ساتھ پیش آنے والے معاملات میں جو آدمی عفو و درگزر سے کام لے گا اسے عافیت ملے گی اور جو اپنی ذات کے بارے میں لوگوں سے انصاف کرے گا اسے اپنے کام میں کامیابی ملے گی اور اطاعت میں ذلت برداشت کرنا گناہوں میں ظاہری عزت ملنے سے نیکی کے زیادہ قریب ہے۔<sup>۲</sup>

## امراء کو برا بھلا کہنے کی ممانعت

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ کے صحابہ میں سے جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے ہمیں (امراء کے بارے میں چند باتوں سے) منع کیا (اور وہ چند باتیں یہ ہیں کہ) تم اپنے امیروں کو برا بھلا نہ کہو اور ان کو دھوکہ مت دو۔ اور ان کی نافرمانی نہ کرو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور صبر کرو کیونکہ موت (یا قیامت) عنقریب آنے والی ہے۔<sup>۳</sup>

## امیر کے سامنے زبان کی حفاظت کرنا

حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطابؓ کی خدمت میں آیا اور میں نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن! (یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے) ہم اپنے ان امیروں کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ کوئی بات کہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ (یہ بات غلط ہے اور) صحیح بات کچھ اور ہے۔ لیکن ہم ان کی بات کی تصدیق کر دیتے ہیں اور وہ لوگ ظلم کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہم ان کو تقویت پہنچاتے ہیں اور ان کے اس فیصلے کو اچھا بتاتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا اے میرے بھتیجے! ہم تو حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں اسے نفاق شمار کرتے تھے (کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور ظاہر کر رہا

۱۔ اخرجه هنا دكذافي الكنز (ج ۳ ص ۱۶۵) واخرجه الطبرانی (ج ۵ ص ۳۲) عن سلمة

بن كهيل بمعناه ۲۔ اخرجه البيهقي (ج ۸ ص ۱۶۵)

۳۔ اخرجه هنا دكذافي الكنز (ج ۳ ص ۱۶۵)

ہے) لیکن مجھے پتہ نہیں تم لوگ اسے کیا سمجھتے ہو؟ (یعنی امیر کے سامنے حقیقت بات نہ کہہ سکے تو اس کے غلط کو بھی صحیح تو نہ کہے)۔ (حضرت عاصم کے والد) حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت لئن عمرؓ سے کہا ہم اپنے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور ہم کو اس کے سامنے (اس کی وجہ سے) کچھ ایسی باتیں زبان سے کہنی پڑتی ہیں کہ اس کے پاس سے باہر آکر ان کے خلاف کہتے ہیں۔ حضرت لئن عمرؓ نے کہا ہم اسے نفاق شمار کرتے تھے لہٰذا امام بخاری نے حضرت محمد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے اس جیسی حدیث روایت کی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہم اسے حضور اقدس ﷺ کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے۔ ۳

حضرت مجاہدؒ کہتے ہیں ایک آدمی حضرت لئن عمرؓ کے پاس آیا تو اس سے حضرت لئن عمرؓ نے فرمایا تمہارا حضرت ابو انیس (ضحاک بن قیس) رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ اس نے کہا جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہم ان کے سامنے وہ بات کہتے ہیں جو ان کو پسند ہو اور جب ان کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو پھر کچھ اور کہتے ہیں۔ حضرت لئن عمرؓ نے فرمایا حضور ﷺ کے زمانے میں تو ہم اسے نفاق شمار کرتے تھے۔ ۴

حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت لئن عمرؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جب ان (امیروں) کے پاس جاتے ہیں تو وہ بات کہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں اور جب ان کے پاس سے باہر چلے جاتے ہیں تو اس کے خلاف کہتے ہیں۔ حضرت لئن عمرؓ نے فرمایا حضور ﷺ کے زمانے میں ہم اسے نفاق شمار کرتے تھے۔ ۵

حضرت علقمہ بن وقاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بیکار آدمی تھا جو امیروں کے پاس جا کر ان کو ہنسایا کرتا تھا۔ اس سے میرے دادا نے کہا اے فلانے! تیرا اس ہو۔ تم ان امیروں کے پاس جا کر کیوں ہنساتے ہو؟ (ایسا کرنا چھوڑ دو) کیونکہ میں نے حضور ﷺ کے صحابی حضرت بلال بن حارث حزنؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا بعض دفعہ بندہ اللہ کی رضا والا ایک بول ایسا بول دیتا ہے جس کا انسانوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور اتنا موثر ہونے کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا اور اس ایک بول کی وجہ سے اللہ اگسے راضی ہو جاتے ہیں اور اس سے ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن تک اس سے راضی رہتے ہیں اور کبھی بندہ اللہ کی

۱۔ اخروجه ابن جریر کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۶۸) ۲۔ اخروجه البیهقی (ج ۸ ص ۱۶۵)

۳۔ اخروجه البیهقی ایضاً (ج ۸ ص ۱۶۴) ۴۔ کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۳۸۲)

۵۔ اخروجه ابن عساکر کذا فی کنز العمال (ج ۱ ص ۹۳) اخروجه ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۴



ناراضگی والا ایک بول ایسا بول دیتا ہے جس کا انسانوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور اسے اتنا موثر ہونے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس ایک بول کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس سے ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن تک اس سے ناراض رہتے ہیں۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت بلال بن حارث مزیٰنیؓ نے ان سے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ تم ان امیروں کے پاس کثرت سے جاتے ہو۔ دیکھ لو تم ان سے کیبا تیں کرتے ہو؟ کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی اللہ کی رضا والا ایک بول ایسا بول دیتا ہے اور پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں اپنے آپ کو فتنے کی جگہوں سے بچاؤ۔ کسی نے ان سے پوچھا اے ابو عبد اللہ! فتنوں کی جگہیں کون سی ہیں؟ انہوں نے فرمایا امیروں کے دروازے کہ تم میں سے ایک آدمی امیر کے پاس جاتا ہے اور اس کی غلط بات کی تصدیق کرتا ہے اور (اس کی تعریف کرتے ہوئے) ایسی خوبی کا تذکرہ کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد (حضرت عباسؓ) نے فرمایا اے میرے بیٹے! میں دیکھ رہا ہوں کہ امیر المؤمنین (حضرت عمرؓ) تمہیں بلاتے ہیں اور تمہیں اپنے قریب بٹھاتے ہیں اور حضور ﷺ کے دیگر صحابہ کے ساتھ تم سے بھی مشورہ لیتے ہیں۔ لہذا تم میری تین باتیں یاد رکھنا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کبھی ان کے تجربہ میں یہ بات نہ آئے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ یعنی کبھی ان کے سامنے جھوٹ نہ بولنا اور ان کا کوئی راز فاش نہ کرنا۔ اور کبھی ان کے پاس کسی کی غیبت نہ کرنا۔ حضرت عامر کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے کہا ان تین باتوں میں سے ہر بات ایک ہزار (درہم) سے بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ نہیں۔ ان میں سے ہر ایک دس ہزار (درہم) سے بہتر ہے۔

حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عباسؓ نے اپنے بیٹے حضرت عبد اللہؓ سے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آدمی یعنی حضرت عمر بن خطابؓ تمہارا ابو اکرام کرتے ہیں اور تمہیں اپنے قریب بٹھاتے ہیں اور تمہیں ان لوگوں میں یعنی ان بڑے صحابہ میں شامل کر دیا ہے کہ ان جیسے تم ہو۔ میری تین باتیں یاد رکھنا۔ کبھی ان کے تجربہ میں یہ بات نہ آئے کہ تم

۱۔ اخرجہ البیہقی (ج ۸ ص ۱۶۵) ۲۔ اخرجہ البیہقی ایضا (ج ۸ ص ۱۶۵)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلبيہ (ج ۱ ص ۲۲۷) ۴۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلبيہ (ج ۱ ص ۲۲۱) وفيہ مجالد بن سعید وثقه  
النسانی وغیرہ و ضعفہ جماعۃ.

نے جھوٹ بولا ہے۔ اور کبھی ان کا کوئی راز فاش نہ کرنا۔ اور ان کے پاس کسی کی غیبت بالکل نہ کرنا۔

امیر کے سامنے حق بات کہنا اور جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے تو اس کے حکم کو ماننے سے انکار کر دینا

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعبؓ کی (پڑھی ہوئی) ایک آیت کا انکار کیا (کہ یہ قرآن میں نہیں ہے یا قرآن میں اس طرح نہیں ہے) حضرت ابی نے کہا میں نے اس آیت کو حضور ﷺ سے سنا ہے اور تم تو بقیع بازار میں خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے (اس لئے تمہیں یہ آیت حضور ﷺ سے سننے کا موقع نہیں ملا) حضرت عمر نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا۔ میں نے تمہاری آیت کا قصد انکار تم لوگوں کو آزمانے کے لئے کیا تاکہ پتہ چلے کہ تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو (امیر کے سامنے) حق بات کہہ سکے۔ اس امیر میں کوئی خیر نہیں ہے جس کے سامنے حق بات نہ کہی جاسکے اور نہ وہ خود حق بات کہہ سکے۔

حضرت ابو مجلز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابی بن کعبؓ نے یہ آیت پڑھی مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانُ۔ تو حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا تم نے غلط پڑھا۔ حضرت ابی نے کہا (میں نے ٹھیک پڑھا ہے) آپ کی غلطی زیادہ ہے۔ کسی آدمی نے (حضرت ابی سے) کہا آپ امیر المؤمنین (کی بات) کو غلط کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابی نے کہا میں تم سے زیادہ امیر المؤمنین کی تعظیم کرنے والا ہوں۔ لیکن چونکہ ان کی بات قرآن کے خلاف تھی اس وجہ سے میں نے قرآن کے مقابلہ میں ان کی بات کو غلط کہا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن کو غلط کہوں اور امیر المؤمنین کی (غلط) بات کو ٹھیک کہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا حضرت ابی ٹھیک کہتے ہیں۔

حضرت نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ ایک مجلس میں تھے اور ان کے ارد گرد حضرات مہاجرین اور انصاریٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا ذرا یہ بتانا کہ اگر میں کسی کام میں ڈھیل برتوں تو تم کیا کرو گے؟ تمام حضرات ادباً خاموش رہے۔ حضرت عمر نے اپنی اس بات کو دو تین مرتبہ دہرایا۔ تو حضرت بشیر بن سعد نے فرمایا اگر آپ ایسا کریں گے۔

۱۔ اخروجه البيهقي (ج ۸ ص ۱۹۷) ۲۔ اخروجه ابن راهويه كذا في كنز العمال (ج ۷ ص ۲)

۳۔ عند عبد ابن حميد و ابن جوير و ابن عدی كذا في الكنز (ج ۱ ص ۲۸۵)

تو ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے (خوش ہو کر) فرمایا پھر تو تم لوگ ہی (امیر کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہو) پھر تو تم لوگ ہی (امیر کی مجلس کے قابل ہو)!

حضرت موسیٰ بن ابی عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ قبیلہ بنو حارثہ کی پانی کی سبیل کے پاس آئے وہاں انہیں حضرت محمد بن مسلمہؓ ملے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے محمد! مجھے کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم! میں آپ کو ویسا پاتا ہوں جیسا میں چاہتا ہوں اور جیسا ہر وہ آدمی چاہتا ہے جو آپ کے لئے بھلا چاہتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مال جمع کرنے میں خوب زور دار ہیں لیکن آپ خود مال سے بچتے ہیں اور اسے انصاف سے تقسیم کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹیڑھے ہو گئے تو ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے جیسے لوزار سے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے (خوش ہو کر) فرمایا اچھا (تم مجھے کہہ رہے ہو کہ) اگر آپ ٹیڑھے ہو گئے تو ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے جیسے لوزار سے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسے لوگوں میں (امیر) بنایا کہ میں اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دیں۔

حضرت ابو قبیل کہتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ جمعہ کے دن منبر پر چڑھے اور اپنے خطبہ میں فرمایا یہ (اجتماعی) مال ہمارا ہے۔ اور خراج کا مال اور لڑے بغیر ملنے والا مال غنیمت بھی ہمارا ہے۔ جسے چاہیں گے دیں گے اور جسے چاہیں گے نہیں دیں گے۔ اس پر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اگلے جمعہ کو بھی انہوں نے (خطبہ میں) یہی بات کہی۔ پھر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ جب تیسرا جمعہ آیا تو انہوں نے خطبہ میں پھر وہی بات کہی تو حاضرین مسجد میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا۔ ہرگز نہیں۔ یہ (اجتماعی) مال ہمارا ہے۔ اور یہ خراج کا مال اور مال غنیمت ہمارا ہے۔ لہذا جو ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہو گا ہم اپنی تلواروں سے اس کو اللہ کے فیصلہ کی طرف لے جائیں گے۔ حضرت معاویہ (منبر سے) نیچے اتر آئے اور اس آدمی کو بلانے کے لئے پیغام بھیج دیا۔ (اور جب وہ آگیا تو) اسے اندر بلا لیا۔ لوگ کہنے لگے یہ آدمی تو ہلاک ہو گیا۔ پھر لوگ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی تو حضرت معاویہ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت معاویہ نے لوگوں سے کہا اس آدمی نے مجھے زندہ کر دیا۔ اللہ اسے زندہ رکھے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد ایسے امیر

۱) اخروجه ابن عسا کرو ابو ذرا لہروی فی الجامع کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۴۸)

۲) عندا بن المبارک کذا فی منتخب کنز العمال (ج ۴ ص ۳۸۱)

ہوں گے کہ اگر وہ کوئی (غلط) بات کہیں گے تو کوئی ان کی تردید نہ کر سکے گا۔ وہ آگ میں ایک دوسرے پر ایسے اندھا دھند گریں گے جیسے (کسی درخت کے لوپر سے) بندر ایک دوسرے پر چھلانگ لگاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے پہلے جمعہ کو یہ (غلط) بات (قصداً) کہی تھی۔ کسی نے میری تردید نہیں کی۔ جس سے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں (آگ میں گرنے والے) ان امیروں میں سے نہ ہوں۔ پھر میں نے دوسرے جمعہ کو وہی بات دوبارہ کہی تو پھر کسی نے میری تردید نہ کی۔ اس پر میں نے اپنے دل میں کہا میں تو ضرور ان ہی امیروں میں سے ہوں۔ پھر میں نے تیسرے جمعہ کو وہی بات تیسری مرتبہ کہی تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر میری تردید کی۔ اس طرح اس نے مجھے زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھے۔

حضرت خالد بن حکیم بن حزام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہؓ ملک شام کے گورنر تھے۔ انہوں نے ایک مقامی ذمی (کافر) کو (جزیہ نہ دینے پر) سزا دی۔ حضرت خالد (بن الولید) نے کھڑے ہو کر حضرت ابو عبیدہ سے (سزا دینے کے بارے میں) بات کی۔ لوگوں نے حضرت خالد سے کہا آپ نے تو امیر کو ناراض کر دیا۔ انہوں نے کہا میرا ارادہ تو انہیں ناراض کرنے کا نہیں تھا بلکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں ایک حدیث سنی تھی وہ حدیث انہیں بتانا چاہتا تھا اور وہ یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہو گا جو دنیا میں لوگوں کو سب سے زیادہ سزا دیں گے۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زیاد نے حضرت حکم بن عمرو غفاریؓ کو (الشکر کا امیر بنا کر) خراسان بھیجا۔ ان کو وہاں بہت سامان غنیمت ملا۔ زیاد نے ان کو یہ خط لکھا۔

”اما بعد! امیر المؤمنین (حضرت معاویہؓ) نے (مجھے) یہ لکھا ہے کہ مال غنیمت میں سے سارا سونا چاندی ان کے لئے الگ کر لیا جائے (لہذا) آپ سونا چاندی مسلمانوں میں تقسیم نہ کریں۔“

حضرت حکم نے جواب میں زیاد کو یہ خط لکھا۔

”اما بعد! تم نے مجھے خط لکھا ہے جس میں تم نے امیر المؤمنین کے خط کا تذکرہ کیا ہے لیکن

۱۔ اخرجہ الطبرانی و ابو یعلیٰ قال الہشمی (ج ۵ ص ۲۳۶) رواہ الطبرانی فی الکبیر والاورسط ابو یعلیٰ ورجاله ثقات انتہی۔ ۲۔ اخرجہ ابن ابی عاصم و البغوی و اخرجہ ایضاً احمد و البخاری فی تاریخہ و الطبرانی و اخرجہ البازردی و زاد فیہ و هو یعذب الناس فی الجزیة کذا فی الاصابۃ (ج ۱ ص ۴۰۳) قال الہشمی (ج ۵ ص ۴۳۴) و رواہ احمد و الطبرانی و قال فقیل لہ اغضب ال امیر و زاد اذهب فخل سبیلہم ورجالہ رجال الصنحج خلا خالد بن حکیم و هو ثقة انتہی۔

مجھے اللہ کی کتاب امیر المؤمنین کے خط سے پہلے مل چکی ہے۔ (اور امیر المؤمنین کا خط اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اس لئے میں اسے نہیں مان سکتا) اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر سارے آسمان اور زمین کسی بندے پر بند ہو جائیں اور وہ آدمی اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے ان کے درمیان میں سے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دیں گے۔ والسلام۔“

اور حضرت حکم نے ایک آدمی کو حکم دیا اس نے مسلمانوں میں یہ اعلان کیا کہ صبح اپنا مال غنیمت لینے کے لئے آجاؤ (چنانچہ لوگ صبح آئے) اور انہوں نے مسلمانوں میں وہ سارا مال غنیمت (سونے چاندی سمیت) تقسیم کر دیا۔ جب حضرت معاویہ کو پتہ چلا کہ حضرت حکم نے مال غنیمت سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو انہوں نے آدمی بھیجے جنہوں نے حضرت حکم کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا۔ اسی قید میں ان کا انتقال ہوا اور ان کو خراسان ہی میں دفن کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں (اس بارے میں حضرت معاویہ سے اللہ کے ہاں) جھگڑا کروں گا۔<sup>۱</sup>

لن عبد البر نے اسی جیسی حدیث ذکر کی ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت حکم نے مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ اور اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ! (ان حالات میں) اگر تیرے پاس میرے لئے خیر ہو تو مجھے اپنی طرف بلا لے۔ چنانچہ ان کا علاقہ خراسان کے مرد شہر میں انتقال ہو گیا اور اصابہ میں یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ جب انکے پاس زیادتی ناراضگی کا خط آیا تو انہوں نے اپنے لئے (مرنے کی) کو عاکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔<sup>۲</sup>

حضرت ابراہیم بن عطاء اپنے والد (حضرت عطاء) سے نقل کرتے ہیں کہ زیاد یالن زیاد نے حضرت عمران بن حصین کو صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو ایک درہم بھی لے کر نہ آئے تو ان سے زیاد یالن زیاد نے کہا مال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے مجھے مال کے لئے بھیجا تھا؟ حضور ﷺ کے زمانے میں جیسے ہم صدقات لیا کرتے تھے ویسے ہم نے صدقات لئے اور حضور ﷺ کے زمانہ میں جہاں خرچ کیا کرتے تھے وہاں ہم نے خرچ کر دیئے<sup>۳</sup> یعنی وہاں کے مستحقین میں تقسیم کر دیئے)

۱۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۴۴۲)

۲۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی الاستیعاب (ج ۱ ص ۳۱۶) فذکر نحوه.

۳۔ قال فی الاصابۃ (ج ۱ ص ۳۴۷) قال اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۴۷۱) قال

الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد وقال الذہبی صحیح

## امیر پر رعایا کے حقوق

حضرت اسود (بن یزید) رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ کے پاس کوئی وفد آتا تو ان سے ان کے امیر کے بارے میں پوچھتے کہ کیا وہ ہمارا کی عیادت کرتا ہے؟ کیا غلام کی بات سنتا ہے؟ جو ضرورت مند اس کے دروازہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر وفد والے ان باتوں میں سے کسی کے جواب میں ”نہ“ کہہ دیتے تو اس امیر کو معزول کر دیتے۔<sup>۱</sup>

حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمرؓ کسی کو (کسی علاقہ کا) گورنر بناتے اور اس علاقہ سے ان کے پاس وفد آتا تو حضرت عمر ان سے (اس گورنر کے بارے میں) پوچھتے کہ تمہارا امیر کیسا ہے؟ کیا وہ غلاموں کی عیادت کرتا ہے؟ کیا وہ جنازے کے ساتھ جاتا ہے؟ اس کا دروازہ کیسا ہے؟ کیا وہ نرم ہے؟ اگر وہ کہتے کہ اس کا دروازہ نرم ہے (ہر ایک کو اندر جانے کی اجازت ہے) اور غلاموں کی عیادت کرتا ہے تب تو اسے گورنر رہنے دیتے ورنہ آدمی بیچ کر اس کو گورنری سے ہٹا دیتے۔<sup>۲</sup>

حضرت عاصم بن ابی نجد کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ جب اپنے گورنروں کو (مختلف علاقوں میں گورنر بنا کر) بھیجا کرتے تو ان پر یہ شرطیں لگاتے کہ تم لوگ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوا کرو گے اور چھنے ہوئے آنے کی چپائی نہیں کھایا کرو گے اور باریک کپڑا نہیں پہنا کرو گے اور حاجت مندوں پر اپنے دروازے بند نہیں کرو گے اگر تم نے ان میں سے کوئی کام کر لیا تو تم سزا کے حق دار بن جاؤ گے۔ پھر رخصت کرنے کے لئے ان کے ساتھ تھوڑی دودھ چلتے جب واپس آنے لگتے تو ان سے فرماتے میں نے تم کو مسلمانوں کے خون (بہانے) پر اور ان کی کھال (ادھیڑنے) پر اور انہیں بے آبرو کرنے پر اور ان کے مال (چھیننے) پر مسلط نہیں کیا ہے بلکہ میں تمہیں (اس علاقہ میں) اس لئے بھیجا رہا ہوں تاکہ تم وہاں کے مسلمانوں میں نماز قائم کرو اور ان میں ان کا مال غنیمت تقسیم کرو۔ اور ان میں انصاف کے فیصلے کرو اور جب تمہیں کوئی ایسا امر پیش آجائے جس کا حکم تم پر واضح نہ ہو تو اسے میرے سامنے پیش کرو۔ ذرا غور سے سنو! عربوں کو نہ مارنا۔ اس طرح تم ان کو ذلیل کر دو گے اور ان کو اسلامی سرحد پر جمع کر کے وطن واپسی سے روک نہ دینا۔ اس طرح تم ان کو فتنہ میں ڈال دو گے اور ان کے خلاف

۱۔ اخراجہ البیہقی کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۶۶) و اخراجہ الطبری (ج ۵ ص ۳۳) عن

الاسود بمعناه۔ ۲۔ عند ہناد کذا فی کنز العمال (ج ۳ ص ۱۶۶)

ایسے جرم کا دعویٰ نہ کرنا جو انہوں نے نہ کیا ہو اس طرح تم ان کو محروم کر دو گے اور قرآن کو (احادیث وغیرہ سے) الگ اور ممتاز کر کے رکھنا۔ یعنی قرآن کے ساتھ حدیثیں نہ ملانا۔

حضرت ابو حصین سے اسی حدیث کے ہم معنی مختصر حدیث مروی ہے اور اس میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ قرآن کو الگ اور ممتاز کر کے رکھو اور حضرت محمد ﷺ سے روایت کم کیا کرو اور اس کام میں تمہارا شریک ہوں اور حضرت عمرؓ اپنے گورنروں سے بدلہ دلویا کرتے تھے۔ جب ان سے ان کے کسی گورنر کی شکایت کی جاتی تو اس گورنر کو لور شکایت کرنے والے کو ایک جگہ جمع کرتے (اور گورنر کے سامنے شکایت سنتے) اگر اس گورنر کے خلاف کوئی ایسی بات ثابت ہو جاتی جس پر اس کی پکڑ لازمی ہوتی تو حضرت عمر اس کی پکڑ فرماتے۔

حضرت ابو خزیمہ بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمرؓ کسی کو گورنر مقرر فرماتے تو انصار اور دوسرے حضرات کی ایک جماعت کو اس پر گواہ بناتے اور اس سے فرماتے میں نے تم کو مسلمانوں کا خون بہانے کے لئے گورنر نہیں بنایا ہے۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن سابط کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے آدمی بھیج کر حضرت سعید بن عامرؓ کو بلایا اور ان سے فرمایا ہم تمہیں ان لوگوں کا امیر بنا رہے ہیں۔ ان کو لے کر دشمن کے علاقہ میں جاؤ۔ اور ان کو لے کر دشمن سے جہاد کرو۔ انہوں نے کہا اے عمر! آپ مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم لوگ خلافت کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال کر مجھے اکیلا چھوڑ کر خود الگ ہو جانا چاہتے ہو۔ میں تمہیں ایسے لوگوں کا امیر بنا کر بھیج رہا ہوں کہ تم ان سے افضل نہیں ہو لو اور میں تمہیں اس لئے بھی بھیج رہا ہوں کہ تم ہمارا کران کی کھال اوھیز دو اور تم ان کی بے عزتی کرو۔ بلکہ اس لئے بھیج رہا ہوں کہ تم ان کو لے کر ان کے دشمن سے جہاد کرو اور ان کا مال غنیمت ان میں تقسیم کرو۔

حضرت ابو موسیٰؓ نے فرمایا (اے لوگو) امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطابؓ نے مجھے تمہارے پاس اس لئے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کریم ﷺ کی سنت سکھاؤں اور تمہارے لئے تمہارے راستے صاف کر دوں۔

۱۔ اخرجہ البيهقي كذا في الكنز (ج ۳ ص ۱۴۸) ۲۔ اخرجہ الطبري (ج ۵ ص ۱۹)

۳۔ اخرجہ ايضا ابن ابى شيبة و ابن عساكر كما في الكنز (ج ۳ ص ۱۴۸)

۴۔ اخرجہ ابن سعد و ابن عساكر كذا في الكنز (ج ۳ ص ۱۴۹)

۵۔ اخرجہ ابن عساكر و ابو نعيم في الحلية كذا في الكنز (ج ۳ ص ۱۴۹) اخرجہ الطبراني

بنحوه قال الهيثمي (ج ۵ ص ۲۱۳) و رجاله رجال الصحيح انتهى

امیر کے عام مسلمانوں سے اپنا معیار زندگی بلند کرنے پر  
اور دربان مقرر کر کے ضرورت مندوں سے چھپ

جانے پر نکیر

حضرت ابو صالح غفاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرو بن عاصؓ نے (مصر سے)  
حضرت عمر بن خطابؓ کو خط لکھا کہ ہم نے (یہاں) جامع مسجد کے پاس آپ کے لئے ایک  
مکان کی جگہ مخصوص کر دی ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس کے جواب میں لکھا کہ جہاز میں رہنے  
والے آدمی کے لئے مصر میں گھر کیوں کر ہو سکتا ہے اور حضرت عمرو کو حکم دیا کہ اس جگہ کو  
مسلمانوں کے لئے بازار بنا دیں۔<sup>۱</sup>

حضرت ابو تمیم جیشانیؓ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت عمرو بن عاصؓ کو یہ خط  
لکھا:

”لما بعد! مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے ایک منبر بنایا ہے (جب تم) اس پر (بیان کرتے ہو  
تو) تم لوگوں کی گردنوں سے بلند ہو جاتے ہو۔ کیا تمہارے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ تم (زمین  
پر) کھڑے ہو کر بیان کرو۔ اس طرح مسلمان تمہاری ایڑیوں کے نیچے ہوں گے۔ میں تمہیں  
قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم اسے توڑ دو۔“<sup>۲</sup>

حضرت ابو عثمانؓ فرماتے ہیں ہم لوگ آذربائیجان میں تھے وہاں حضرت عمرؓ نے ہمیں یہ خط  
لکھا۔

”اے عتبہ بن فرقد! یہ ملک و مال تمہیں تمہاری محنت سے نہیں ملا اور نہ ہی تمہارے مال  
باپ کی محنت سے ملا ہے۔ اس لئے تم اپنے گھر میں جو چیز پیٹ بھر کر کھاتے ہو وہی چیز  
سارے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں پیٹ بھر کر کھاؤ۔ اور ناز و نعمت کی زندگی سے اور  
شرکین جیسی ہیئت اختیار کرنے سے اور ریشم پہننے سے بچو۔“<sup>۳</sup>

حضرت عروہ بن رویم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ لوگوں کے حالات کا  
جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے پاس سے حمص کے لوگ گزرے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے

۱۔ اخرجه ابن عبدالحکم کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۴۸)

۲۔ اخرجه ابن عبدالحکم کذا فی کنز (ج ۳ ص ۱۶۶)

۳۔ اخرجه مسلم کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۴۵۸)



پوچھا تمہارے امیر (حضرت عبداللہ بن قریظ) کیسے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا بہترین امیر ہیں بس ایک بات ہے کہ انہوں نے ایک بالا خانہ بنا لیا ہے جس میں رہتے ہیں اس پر حضرت عمرؓ نے اس امیر کو خط لکھا اور اپنا قاصد بھی ساتھ بھیجا۔ اور اس قاصد کو حکم دیا کہ وہاں جا کر اس بالا خانے کو جلادے جب وہ قاصد وہاں پہنچا تو اس نے لکڑیاں جمع کر کے اس بالا خانے کے دروازے کو آگ لگا دی۔ جب یہ بات اس امیر کو بتائی گئی تو اس نے کہا اسے کچھ مت کہو۔ یہ (امیر المؤمنین کا بھیجا ہوا) قاصد ہے۔ پھر اس قاصد نے ان کو (حضرت عمرؓ) کا خط دیا۔ وہ خط پڑھتے ہی سوار ہو کر حضرت عمرؓ کی طرف چل دیئے۔ جب حضرت عمرؓ نے ان کو دیکھا تو ان سے فرمایا (مدینہ سے باہر پتھر لے میدان) حرہ میں میرے پاس پہنچ جاؤ۔ حرہ میں صدقہ کے اونٹ تھے (جب وہ حرہ میں حضرت عمرؓ کے پاس پہنچ گئے تو ان سے) حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ اپنے کپڑے اتار دو۔ (انہوں نے کپڑے اتار دیئے) حضرت عمرؓ نے ان کو اونٹ کے اون کی چادر پہننے کے لئے دی (جسے انہوں نے پہن لیا) پھر ان سے فرمایا (اس کنویں سے) پانی نکالو اور ان اونٹوں کو پانی پلاؤ۔ وہ پونسی ہاتھ سے کنویں سے پانی نکالتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا دنیا میں اور کتنا رہو گے؟ انہوں نے کہا میں تھوڑا ہی عرصہ۔ فرمایا اس (مختصر سی زندگی) کے لئے تم نے وہ بالا خانہ بنا لیا تھا۔ جس کی وجہ سے تم مسکین، یتیم اور یتیم انسانوں (کی پہنچ) سے اوپر ہو گئے تھے۔ جاؤ اپنے کام پر واپس جاؤ اور آئندہ ایسا نہ کرنا۔

حضرت عتاب بن رفاعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کو یہ خبر ملی کہ حضرت سعدؓ نے ایک محل بنوایا ہے اور اس پر دروازہ بھی لگوایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اب (بازار کا) شور آنا ختم ہو گیا ہے۔ (یہ محل انہوں نے اسی وجہ سے بنایا تھا کہ بازار کی آوازیں بہت آتی تھیں جس کی وجہ سے یہ کام صحیح طرح نہیں کر سکتے تھے) چنانچہ حضرت عمرؓ نے حضرت محمد بن مسلمہؓ کو بھیجا اور جب بھی حضرت عمرؓ کو اپنی مرضی کے مطابق کام کروانا ہوتا تھا تو ان کو ہی بھیجا کرتے تھے اور ان سے فرمایا۔ سعد کے پاس جاؤ اور ان (کے محل) کا دروازہ جلادو۔ چنانچہ حضرت محمد کو فہ پہنچ گئے اور حضرت سعد کے دروازے پر پہنچتے ہی اپنی چھتاق نکالی اور اس سے آگ جلائی پھر دروازے کو آگ لگا دی۔ لوگوں نے آکر حضرت سعد کو اس کی اطلاع دی اور آگ لگانے والے کا حلیہ بیان کیا تو حضرت سعد ان کو پہچان گئے اور ان کے پاس باہر آئے۔ حضرت محمد نے ان سے کہا امیر المؤمنین کو آپ کی طرف سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اب

شور آتا ختم ہو گیا ہے۔ حضرت سعد نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ حضرت محمد نے کہا ہمیں تو جو حکم دیا گیا وہ کر رہے ہیں اور اب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کی طرف سے (امیر المؤمنین کو) پہنچادیں گے۔ حضرت سعد حضرت محمد کو راستہ کے لئے توشہ پیش کرنے لگے لیکن حضرت محمد نے لینے سے انکار کر دیا اور اپنی سواری پر سوار ہو کر چل دیئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب حضرت عمرؓ نے ان کو دیکھا تو فرمایا (تم بڑی جلدی واپس آگئے ہو) اگر ہمیں تمہارے ساتھ حسن ظن نہ ہوتا تو ہم یہی سمجھتے کہ تم نے کام پورا نہیں کیا۔ حضرت محمد نے کہا میں نے سفر بہت تیزی سے کیا ہے اور آپ نے جس کام کے لئے بھیجا تھا وہ بھی میں نے پورا کر دیا ہے اور حضرت سعدؓ معذرت کر رہے تھے اور قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا حضرت سعد نے تم کو سفر کے لئے توشہ دیا تھا؟ حضرت محمد نے کہا نہیں۔ لیکن آپ نے مجھے توشہ کیوں نہیں دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے اس بات کو برا سمجھا کہ تمہارے لئے توشہ کا حکم دوں کہ اس طرح تمہیں تو دنیا میں توشہ مل جائے گا لیکن میری آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔ کیونکہ میرے ارد گرد مدینہ والے ہیں جو بے چارے بھوک سے مر رہے ہیں۔ کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن خود تو اپنا پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔

حضرت ابو بکر اور حضرت ابو ہریرہؓ اسی حدیث کو مختصر طور سے نقل کرتے ہیں اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت عمرؓ کو یہ خبر ملی کہ حضرت سعدؓ نے اپنا دربان مقرر کر لیا ہے اور لوگوں سے الگ رہتے ہیں اور اپنا دروازہ بند رکھتے ہیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے حضرت عمار بن یاسرؓ کو بھیجا اور ان سے فرمایا۔ جب تم وہاں پہنچو اور تم کو حضرت سعدؓ کا دروازہ بند ملے تو تم اس کو آگ لگا دینا۔

حضرت ابو الدرداءؓ نے حضرت عمرؓ سے ملک شام جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا صرف اس شرط پر اجازت دے سکتا ہوں کہ تم وہاں جا کر کسی شہر کے گورنر بن جاؤ۔ حضرت ابو الدرداءؓ نے کہا میں گورنر بننے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا پھر

۱۔ اخرجه ابن المبارك و ابن زاہویہ و مسد د کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۶۵) وقد ذکرہ فی الاصابہ (ج ۳ ص ۳۸۴) بنمامہ الا انہ قال عن عباہ بن رفاعۃ و ہکذا ذکرہ الہیثمی (ج ۸ ص ۱۶۷) عن عباہ بطولہ ثم قال رواہ احمد و ابو یعلیٰ ببعضہ و رجالہ رجال الصحیح الا ان عباہ بن رفاعۃ لم یسمع من عمر انتھی.

۲۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۶۸) وفيہ عطاء بن السائب وقد اختلط.

میں اجازت نہیں دیتا۔ حضرت ابو الدرداءؓ نے کہا میں وہاں جا کر لوگوں کو ان کے نبی ﷺ کی سنت سکھاؤں گا اور انہیں نماز پڑھاؤں گا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے ان کو اجازت دے دی۔ (اور وہ ملک شام چلے گئے۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد) حضرت عمرؓ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب حضرات صحابہ کرامؓ کے قریب پہنچے تو حضرت عمرؓ رک گئے۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ جب رات کا اندھیرا اچھا گیا تو (اپنے دربان سے) فرمایا اے یرفا! حضرت یزید بن ابی سفیانؓ کے پاس لے چلو اور ان کو دیکھو ان کے پاس مجلس جمعی ہوئی ہوگی اور چراغ جل رہا ہوگا اور مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے لے کر ریشم اور دیباں جھجھا رکھا ہوگا۔ (ان حضرات کو ریشم کو جھکانے کی وجہ یہ تھی کہ اول تو ان حضرات کا ملک شام میں قیام عارضی تھا۔ وہاں ٹھہرنے کی جو پہلے سے انتظامات تھے ان ہی میں چند دن ٹھہر کر انہیں آگے جانا تھا۔ دوسرے ہو سکتا ہے کہ اس کا تانا ریشم کا ہو لو رہا ہوتا سوئی وغیرہ حلال دھاگے کا ہو۔ تیسرے اگر وہ مکمل ریشم ہی کا تھا تو بعض صحابہ کرامؓ ریشم کے جھکانے کو جائز سمجھتے تھے البتہ ریشم کے پنپنے کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تھا) تم انہیں سلام کرو گے وہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ تم ان سے اندر آنے کی اجازت مانگو گے وہ پہلے یہ پوچھیں گے کہ تم کون ہو پھر تم کو اجازت دیں گے۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں سے چلے اور حضرت یزید کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت عمرؓ نے کہا السلام علیکم! حضرت یزید نے کہا وعلیکم السلام حضرت عمرؓ نے کہا میں اندر آ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ حضرت یرفا نے کہا یہ وہ ہستی ہیں جو تمہارے ساتھ ناگوار سلوک کرے گی یہ امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت یزید نے دروازہ کھولا۔ (حضرت عمرؓ اور حضرت یرفا اندر داخل ہوئے) ان حضرات نے دیکھا کہ مجلس جمعی ہوئی ہے۔ چراغ جل رہا ہے۔ ریشم اور دیباں جھجھا ہوا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے یرفا! جلدی سے دروازہ بند کرو۔ دروازہ بند کرو اور ایک کوڑا حضرت یزید کی کپٹی پر رسید کیا۔ اور سارا سامان سمیٹ کر گھر کے درمیان رکھ دیا اور ان لوگوں سے کہا میرے واپس آنے تک تم میں سے کوئی بھی اس جگہ سے نہ ہلے۔ سب یہیں رہیں۔ پھر یہ دونوں حضرات حضرت یزید کے پاس سے باہر آئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے یرفا! آؤ چلیں حضرت عمرو بن عاصؓ کے پاس چلتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں ان کے پاس بھی مجلس جمعی ہوئی ہوگی۔ اور چراغ جل رہا ہوگا اور مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے دیباں جھجھا رکھا ہوگا۔ تم انہیں سلام کرو گے۔ وہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ پھر تم ان سے اندر آنے کی اجازت مانگو گے وہ اجازت دینے سے پہلے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ چنانچہ حضرت عمرو کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا السلام علیکم۔ حضرت عمرو نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا میں اندر آ جاؤں۔ حضرت عمرو نے پوچھا آپ کون

ہیں؟ حضرت یرفا نے کہا یہ وہ ہستی ہے جو تمہارے ساتھ ناگوار سلوک کرے گی۔ یہ امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت عمرو نے دروازہ کھولا (یہ دونوں حضرات اندر گئے) اندر جا کر ان حضرات نے دیکھا کہ مجلس لگی ہوئی ہے اور چراغ جل رہا ہے اور ریشم اور دیباہ چمچھا رکھا ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا اے یرفا جلدی سے دروازہ بند کرو۔ دروازہ بند کرو۔ پھر ایک کوڑا حضرت عمرو کی کپٹی پر رسید کیا پھر سارا سامان سمیٹ کر گھر کے درمیان رکھ دیا۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا میرے واپس آنے تک تم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سب یہیں رہیں۔ پھر یہ دونوں حضرات حضرت عمرو کے پاس سے باہر آئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے یرفا! آؤ چلیں حضرت ابو موسیٰؓ کے پاس چلتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس مجلس جمی ہوئی ہوگی اور چراغ جل رہا ہوگا۔ اور مسلمانوں کے بال غنیمت میں سے اونی کپڑا چھار کھا ہوگا۔ تم ان سے اندر آنے کی اجازت مانگو گے وہ اجازت دینے سے پہلے معلوم کریں گے کہ تم کون ہو؟ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے تو وہاں بھی مجلس جمی ہوئی تھی۔ چراغ جل رہا تھا اور اونی کپڑا چھار کھا تھا۔ حضرت عمرؓ نے ان کی کپٹی پر ایک کوڑا رسید کیا اور فرمایا اے ابو موسیٰ! تم بھی (یہاں آکر بدل گئے ہو اور وہی کر رہے ہو جو دوسرے کر رہے ہیں) حضرت ابو موسیٰ نے کہا میں تو کم کیا ہے۔ میرے ساتھیوں نے جو کچھ کر لیا ہے آپ وہ دیکھ ہی چکے ہیں (وہ میرے سے زیادہ ہے) اللہ کی قسم! مجھے بھی اتنا ملا جتنا میرے ساتھیوں کو ملا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کرنے سے ہی (مارت کا کام ٹھیک چلے گا۔ پھر حضرت عمرؓ نے سارا سامان سمیٹ کر گھر کے بیچ میں رکھ دیا اور ان لوگوں سے فرمایا۔ میرے واپس آنے تک تم میں سے کوئی بھی یہاں سے باہر نہ جائے سب یہیں رہیں۔ جب ہم ان کے پاس سے باہر آئے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا اے یرفا! آؤ ہم اپنے بھائی (حضرت ابو الدرداء) کے پاس چلیں اور ان کو دیکھیں۔ نہ ان کے ہاں مجلس لگی ہوئی ہوگی۔ نہ چراغ ہوگا۔ اور نہ ان کے دروازے کو بند کرنے کی کوئی چیز کنڈی وغیرہ ہوگی۔ کنکریاں چھنا رکھی ہوں گی۔ پالان کے نیچے ڈالنے والے کسبل کو تکیہ بنا رکھا ہوگا۔ ان پر پتلی چادر ہوگی جس میں انہیں سردی لگ رہی ہوگی۔ تم انہیں سلام کرو گے وہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ پھر تم ان سے اندر آنے کی اجازت مانگو گے۔ وہ یہ معلوم کئے بغیر ہی تم کو اجازت دے دیں گے کہ تم کون ہو؟ چنانچہ ہم دونوں چلے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو الدرداء کے دروازے پر پہنچ کر حضرت عمرؓ نے فرمایا السلام علیکم۔ حضرت ابو الدرداء نے کہا وعلیک السلام۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا میں اندر آ جاؤں؟ انہوں نے کہا آجائیں۔ حضرت عمرؓ نے دروازہ کو دکھایا تو اس

کی کنڈی نہیں تھی۔ ہم اندر گئے تو کمرہ میں اندھیر تھا۔ حضرت عمرانؓ کو (اندھیرے کی وجہ سے) ٹٹولنے لگے یہاں تک کہ ان کا ہاتھ حضرت ابو الدرداءؓ کو لگ گیا۔ پھر ان کے تکیہ کو ٹٹولا تو وہ پلان کا کابل تھا۔ پھر ان کے چھوڑنے کو ٹٹولا تو وہ کنکریاں تھیں۔ پھر ان کے اوپر کے کپڑے کو ٹٹولا تو وہ باریک سی چادر تھی۔ حضرت ابو الدرداءؓ نے کہا یہ کون ہے؟ کیا یہ امیر المؤمنین ہیں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو الدرداءؓ نے کہا اللہ کی قسم! آپ بڑی دیر سے آئے ہیں۔ میں سال بھر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ کیا میں نے آپ پر وسعت نہیں کی؟ اور کیا میں نے آپ کے ساتھ فلاں فلاں احسان نہیں کئے؟ حضرت ابو الدرداءؓ نے کہا اے عمر! کیا آپ کو وہ حدیث یاد نہیں ہے جو حضور ﷺ نے ہم سے بیان کی تھی۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کون سی حدیث؟ انہوں نے کہا حضور ﷺ نے فرمایا تھا تم میں سے ایک آدمی کے پاس زندگی گزارنے کا اتنا سامان ہونا چاہئے جتنا سوار کے پاس سفر کا توشہ ہوتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں (یاد ہے) حضرت ابو الدرداءؓ نے کہا اے عمر! حضور ﷺ کے بعد ہم نے کیا کیا؟ پھر دونوں ایک دوسرے کو حضور ﷺ کی باتیں یاد دلا کر صبح تک روتے رہے۔

## رعایا کے حالات کی خبر گیری

حضرت ابو صالح غفاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے خدمت کے لئے مدینہ کے کنارے میں رہنے والی ایک ناپینا عمر رسیدہ بڑھیا تلاش کی تاکہ رات کو اس کا پانی بھر دیا کریں اور اس کے کام کاج کر دیا کریں۔ لیکن جب حضرت عمرؓ اس کے ہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ان سے پہلے آکر خدمت کے سارے کام بڑھیا کی حسب منشا کر چکا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن اس آدمی سے پہلے نہ آسکے۔ وہی پہلے آکر تمام کام کر جاتا۔ آخر اس کا پتہ چلانے کے لئے حضرت عمرؓ راستہ میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ (اس بڑھیا کی خدمت کرنے) آ رہے ہیں اور یہی وہ صاحب ہیں جو حضرت عمرؓ سے پہلے آکر خدمت کر رہے تھے۔ حالانکہ وہ خلیفہ وقت تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمرؓ نے کہا میری عمر کی قسم! آپ ہیں۔ (جو مجھ سے بھی پہلے آکر

اس بڑھیا کی خدمت کر رہے تھے)۔

حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ رات کی تاریکی میں باہر نکلے تو حضرت طلحہؓ کی نظر ان پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ پہلے ایک گھر میں داخل ہوئے۔ پھر دوسرے گھر میں۔ صبح کو حضرت طلحہؓ اس گھر میں گئے تو دیکھا کہ گھر میں ایک نابینا اور پانچ بڑھیا ہے۔ حضرت طلحہؓ نے پوچھا کی بات ہے؟ یہ آدمی تمہارے پاس کس لئے آتا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ یہ اتنے عرصہ سے یعنی برسوں سے میری دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ میری ضرورت کے کام کر دیتے ہیں اور میرے گھر کے پاخانے وغیرہ تمام چیزوں کی صفائی کر دیتے ہیں۔ اس پر حضرت طلحہؓ نے کہا اے طلحہؓ! تیری ماں تجھے گم کرے۔ کیا تم عمرؓ کی لغزشوں کو تلاش کرتے ہو؟ ۲۔

## ظاہری اعمال کے مطابق فیصلہ کرنا

حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور ﷺ کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ وحی کے مطابق معاملہ کیا جاتا تھا (جس میں بعض دفعہ ان کے چھپے ہوئے کاموں کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کیا کرتے تھے) اور اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب ہم تمہارے ظاہری اعمال کے مطابق معاملہ کریں گے۔ جو ہمارے سامنے اچھے کام کرے گا۔ ہم اسے امین سمجھ کر اپنے قریب کریں گے۔ ہمیں اس کے اندرونی اعمال سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اس کے اندرونی اعمال کا اللہ ہی محاسبہ فرمائیں گے اور جو ہمارے سامنے برے کام کرے گا نہ ہم اسے امین سمجھیں گے اور نہ اسے سچا مانیں گے۔ اگرچہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا اندرون بہت اچھا ہے۔ ۳۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں (خلیفہ بننے کے بعد) حضرت عمرؓ نے سب سے پہلے جو بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنایاں کی۔ اس کے بعد فرمایا۔

”لما بعد! (اب میرا تم سے واسطہ پڑ گیا ہے) میری آزمائش تمہارے ذریعہ سے ہوگی اور تمہاری میرے ذریعہ سے اور میرے دونوں ساتھیوں (حضور ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ) کے بعد مجھے تم لوگوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ جو ہمارے پاس موجود ہوگا اس سے تو ہم خود معاملہ کر

۱۔ اخرجہ الخطیب کذا فی منتخب الكنز (ج ۴ ص ۳۴۷)

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۴۸) ۳۔ اخرجہ عبدالرزاق کذا فی الكنز (ج ۳ ص

۱۴۷) و اخرجہ البیہقی (ج ۸ ص ۲۰۱) عن عبد اللہ مثله و قال رواہ البخاری فی الصحیح .

لیں گے اور جو ہم سے غائب ہو گا اس پر ہم طاقتور اور امانت دار آدمی کو امیر بنائیں گے۔ لہذا اب جو شخص اچھی طرح چلے گا۔ اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے اور جو غلط چلے گا اسے ہم سزا دیں گے۔ اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔“

## امیر بنا کر اس کے اعمال پر نگاہ رکھنا

حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر میں تمہارا امیر ایسے آدمی کو بنا دوں جو ان آدمیوں میں سب سے اچھا ہو جن کو میں جانتا ہوں۔ پھر میں اسے عدل و انصاف سے چلنے کا حکم بھی دے دوں تو کیا اس طرح میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ وہ میرے کہنے کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں۔

## باری باری لشکر بھیجنا

حضرت عبداللہ بن کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں انصار کا ایک لشکر اپنے امیر کے ساتھ ملک فارس میں تھا۔ ہر سال حضرت عمرؓ باری باری لشکر بھیجا کرتے تھے (دوسرا لشکر بھیج کر پہلے لشکر کو بلایا کرتے تھے) لیکن اس سال حضرت عمرؓ اور کاموں میں مشغول رہے جس کی وجہ سے بعد میں دوسرا لشکر نہ بھیج سکے۔ جب مقرر کردہ وقت پورا ہو گیا تو اس سرحد والا (انصار کا) لشکر واپس آ گیا۔ (حضرت عمرؓ نے ان کی جگہ پر کام کرنے والا لشکر ابھی بھیجا نہیں تھا اس لئے) حضرت عمرؓ ان سے ناراض ہوئے اور انہیں خوب دھمکایا اور یہ سب حضور ﷺ کے صحابہؓ تھے۔ تو انہوں نے کہا اے عمر! آپ تو ہمیں بھول گئے اور حضور ﷺ نے ہمارے بارے میں آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ باری باری لشکر بھیجتے رہنا۔ آپ نے اس پر عمل نہیں کیا۔

## جو تکلیف عام مسلمانوں پر آئے

### اس میں امیر کا مسلمانوں کی رعایت کرنا

حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں جب امیر المؤمنین (حضرت عمرؓ) نے یہ سنا کہ شام میں لوگ طاعون میں مبتلا ہو رہے ہیں تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کو یہ خط لکھا مجھے ایک کام

۱۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۹۶) والبیہقی کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۴۷)

۲۔ اخراجہ البیہقی و ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۶۵)

۳۔ اخراجہ ابو داؤد و البیہقی کذا فی کنز العمال (ج ۳ ص ۱۴۸)

میں تمہاری ضرورت پیش آگئی ہے۔ میں تمہارے بغیر اس کام کو نہیں کر سکتا۔ اس لئے میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں اگر تمہیں میرا یہ خط رات کو ملے تو صبح ہونے سے پہلے اور اگر دن میں ملے تو شام ہونے سے پہلے تو سوار ہو کر میری طرف چل پڑو۔ حضرت ابو عبیدہ نے (خط پڑھ کر) کہا امیر المومنین کو جو ضرورت پیش آئی ہے میں اسے سمجھ گیا۔ جو آدمی اب دنیا میں رہنے والا نہیں ہے وہ اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں (یعنی حضرت عمرؓ چاہتے ہیں کہ میں طاعون کی وبا والا علاقہ چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں اور اس طرح موت سے بچ جاؤں لیکن میں موت سے بچنے والا نہیں ہوں) حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمرؓ کو جواب میں یہ لکھا کہ میں مسلمانوں کے ایک لشکر میں ہوں۔ جان چانے کے لئے میں انہیں چھوڑ کر جانے کے لئے تیار نہیں ہوں اور جو ضرورت آپ کو پیش آئی ہے میں اسے سمجھ گیا ہوں آپ اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اب دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے۔ لہذا جب میرا یہ خط آپ کی خدمت میں پہنچ جائے تو آپ مجھے اپنی قسم کے پورا کرنے سے معاف فرمادیں اور مجھے یہاں ہی ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ جب حضرت عمرؓ نے ان کا خط پڑھا تو ان کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور رونے لگے تو حاضرین مجلس نے کہا کیا حضرت ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں۔ لیکن یوں سمجھو کہ ہو گیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے حضرت عبیدہؓ کو خط لکھا کہ اردن کا سارا علاقہ وبا سے متاثر ہو چکا ہے اور جلیہ شہر وبا سے محفوظ ہے اس لئے آپ مسلمانوں کو لے کر وہاں چلے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے یہ خط پڑھ کر فرمایا امیر المومنین کی یہ بات تو ہم ضرور مانیں گے۔ حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہؓ نے مجھے حکم دیا کہ میں سوار ہو کر لوگوں کو ان کی قیام گاہوں میں ٹھہراؤں۔ اتنے میں میری بیوی کو بھی طاعون ہو گیا۔

میں (حضرت ابو عبیدہؓ کو بتانے کے لئے) ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو عبیدہؓ خود جا کر لوگوں کو ان کی قیام گاہوں میں ٹھہرانے لگے۔ پھر خود ان کو طاعون ہو گیا جس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر طاعون کی وبا ختم ہو گئی۔ حضرت ابو الموحجہؓ کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہؓ کے ساتھ چھتیس ۳۶ ہزار کا لشکر تھا جن میں سے صرف چھ ہزار زندہ بچے (باقی تیس ۳۰ ہزار کا اس طاعون میں انتقال ہو گیا) حضرت سفیان بن عیینہؓ نے اس سے مختصر روایت نقل کی ہے۔

حاکم نے اسی روایت کو حضرت سفیان کے واسطے سے نقل کیا ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہؓ نے (حضرت عمرؓ کا خط پڑھ کر) کہا اللہ تعالیٰ امیر المومنین پر رحم فرمائے وہ



ان لوگوں کو چھانا چاہتے ہیں جو اب بچنے والے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عمرؓ کو یہ خط لکھا کہ میرے ساتھ مسلمانوں کا ایک لشکر ہے جن میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ میں اپنی جان بچانے کیلئے ان کو چھوڑ کر نہیں جاسکتا۔ لہٰذا ابن اسحاق نے حضرت طارق کے واسطے سے اسی روایت کو نقل کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اے امیر المؤمنین! آپ کو جس وجہ سے میری ضرورت ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ میرے ساتھ مسلمانوں کا ایک لشکر ہے۔ میں اپنی جان بچانے کے لئے ان کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ لہٰذا جب تک اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے بارے میں فیصلہ نہ کر دے میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اے امیر المؤمنین! آپ اپنی قسم کے پورا کرنے سے مجھے معاف فرمائیں اور مجھے اپنے لشکر میں رہنے دیں۔ ۱

### امیر کا شفیق ہونا

حضرت ابو جعفرؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو اسیدؓ حضور ﷺ کی خدمت میں بحرین سے کچھ قیدی لے کر آئے۔ آپ نے ان قیدیوں میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہے آپ نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا انہوں نے یعنی حضرت ابو اسیدؓ نے میرے بیٹے کو بیچ دیا ہے۔ (میں بیٹے کی جدائی میں رو رہی ہوں) حضور ﷺ نے حضرت ابو اسیدؓ سے پوچھا کیا تم نے اس عورت کے بیٹے کو بیچا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! حضور ﷺ نے پوچھا کن لوگوں کے ہاتھ بیچا ہے؟ انہوں نے کہا قبیلہ بنو عیس کے ہاتھ۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم خود سوار ہو کر اس قبیلہ کے پاس جاؤ اور اس چر کو لے کر آؤ۔ ۲

حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں میں حضرت عمرؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک انہوں نے ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنی تو انہوں نے (اپنے دربان سے) کہا اے ریفان! دیکھو یہ آواز کیسی ہے؟ وہ دیکھ کر آئے تو عرض کیا کہ ایک قریشی لڑکی کی ماں فروخت کی جا رہی ہے (اس وجہ سے وہ لڑکی رو رہی ہے) حضرت عمرؓ نے فرمایا جاؤ اور حضرات مناجرین و انصار کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ گھر اور حجرہ (ان حضرات سے) بھر گیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”المبعد! کیا آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ جو دین لے کر آئے تھے اس میں

۱۔ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۲۶۳) قال الحاكم رواة هذا الحديث كلهم ثقاة وهو عجيب بمرارة وقال الذهبي على شرط البخاري و مسلم ۲۔ اخرجه ابن اسحاق من طريق طارق بطوله كما في البداية (ج ۷ ص ۷۸) و اخرجه الطبري (ج ۴ ص ۲۰۱) ايضاً بطوله عن طارق  
 ۳۔ اخرجه ابن ابي شيبة كذا في الكنز (ج ۲ ص ۲۲۹)

قطع رحمی بھی شامل ہے؟ ان حضرات نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا لیکن آج یہ قطع رحمی آپ لوگوں میں بہت پھیل گئی ہے پھر یہ آیت پڑھی فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تَفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتَقَطَعُوا اَرْحَامَكُمْ (سورۃ محمد ﷺ آیت ۲۲)

ترجمہ: سو اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قطع قرابت کر دو۔ پھر فرمایا اس سے زیادہ سخت اور کون سی قطع رحمی ہو سکتی ہے کہ ایک (آزاد) عورت کی ماں کو بچا جا رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اب بہت وسعت دے رکھی ہے۔ ان حضرات نے کہا اس بارے میں آپ جیسا مناسب سمجھیں ضرور کریں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے تمام علاقوں کو خط لکھا کہ کسی آزاد انسان کی ماں کو نہ بچا جائے کیونکہ اسے پچھتا قطع رحمی بھی ہے اور حلال بھی نہیں ہے۔“

حضرت ابو عثمان نمدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے قبیلہ ہوسد کے ایک آدمی کو ایک کام کا امیر مقرر کیا۔ وہ حضرت عمرؓ کے پاس تقرر نامہ لینے آئے۔ اتنے میں حضرت عمرؓ کا ایک چچہ ان کے پاس لایا گیا۔ حضرت عمرؓ نے اس چچہ کا بوسہ لیا۔ اس اسدی نے کہا امیر المؤمنین! آپ اس چچے کا بوسہ لے رہے ہیں؟ اللہ کی قسم! میں نے آج تک کبھی کسی چچہ کا بوسہ نہیں لیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا (جب تمہارے دل میں بچوں کے بارے میں شفقت نہیں ہے) پھر تو اللہ کی قسم! دوسرے لوگوں کے بارے میں شفقت اور کم ہوگی۔ لاؤ ہمارا تقرر نامہ واپس دے دو۔ آئندہ تم میری طرف سے کبھی امیر نہ بننا۔ اور حضرت عمرؓ نے اسے امارت سے ہٹا دیا۔

اور اسی واقعہ کو دینوری نے محمد بن سلام کے واسطے سے نقل کیا ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا جب تمہارے دل سے شفقت نکال لی گئی ہے تو اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں میں سے ان ہی بندوں پر رحم فرماتے ہیں جو دوسروں پر شفقت ہوتے ہیں اور حضرت عمرؓ نے اسے معزول کر دیا اور فرمایا جب تم اپنے چچہ پر شفقت نہیں کرتے ہو تو دوسرے لوگوں پر کیسے کر سکو گے؟

۱۔ اخرجہ ابن المنذر الحاکم و البیہقی کذا فی کنز العمال (ج ۲ ص ۲۲۶)

۲۔ اخرجہ البیہقی و ہناد (ج ۹ ص ۴۱) کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۶۵)

۳۔ کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۳۱۰)

## حضور اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کا عدل و انصاف

### حضور ﷺ کا عدل و انصاف

حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ﷺ کے زمانہ میں فوج مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی اس عورت کی قوم والے گھبرا کر حضرت اسامہ بن زیدؓ کے پاس گئے تاکہ وہ حضور ﷺ سے اس عورت کی سفارش کر دیں (اور یوں ان کی عورت چوری کی سزا سے بچ جائے) جب حضرت اسامہؓ نے اس بارے میں حضور ﷺ سے بات کی تو آپ کا چہرہ مبارک (غصہ کی وجہ سے) بدل گیا اور فرمایا (اے اسامہؓ!) تم مجھ سے اللہ کی حدود کے بارے میں (سفارش کی) بات کر رہے ہو (حضرت اسامہؓ سمجھ گئے کہ سفارش کر کے انہوں نے غلطی کی ہے اس لئے فوراً) حضرت اسامہؓ نے کہا یا رسول اللہ! آپ میرے لئے استغفار فرمائیں۔ شام کو حضور ﷺ بیان فرمانے کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ کی شان کے مناسب ثناء بیان کی پھر فرمایا:

”الابعد! تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا طاقتور اور معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد شرعی قائم کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد (علیہ السلام) کی جان ہے! اگر محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ (اعاذ باللہ منہا)“

پھر حضور ﷺ نے حکم دیا جس پر اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا اور اس نے بہت اچھی توبہ کی اور اس نے شادی بھی کی۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں اس کے بعد وہ عورت (میرے پاس) آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضروریات کی بات حضور ﷺ کے سامنے پیش کیا کرتی۔

حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں ہم لوگ حضور اقدس ﷺ کے ساتھ غزوہ حنین کے موقع پر نکلے۔ جب ہمارا (دشمن سے) سامنا ہوا تو اکثر مسلمان بکھر گئے (البتہ حضور ﷺ اور بعض صحابہؓ میدان جنگ میں جھے رہے) میں نے دیکھا کہ ایک مشرک آدمی ایک مسلمان پر

۱۔ اخرجه البخاری وقد رواه البخاری فی موضع آخر و مسلم من حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کذا فی البدایہ (ج ۴ ص ۳۱۸) واخرجه ایضا الإربعة عن عائشہ کما فی الترغیب (ج

چڑھا ہوا ہے میں نے پیچھے سے اس مشرک کے کندھے پر تلوار کاوار کیا جس سے اس کی زرہ کٹ گئی (اور کندھے کی رگ بھی کٹ گئی۔ وہ زخمی تو ہو گیا لیکن) وہ مجھ پر حملہ آور ہو اور مجھے اس زور سے بھیجنا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا (لیکن زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا) آخر اس پر موت کے اثرات طاری ہونے لگے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ (اور پھر وہ مر گیا) میں حضرت عمرؓ سے ملا۔ میں نے ان سے کہا لوگوں کو کیا ہوا؟ (کہ ان مسلمانوں کو شکست ہو گئی) انہوں نے کہا اللہ کا حکم ایسا ہی تھا۔ (بعد میں کفار کو مکمل شکست ہوئی اور مسلمان جیت گئے) پھر مسلمان (میدان جنگ سے) واپس آئے حضور ﷺ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہے اور اس کے پاس گواہ بھی ہے تو اس مقتول کا سامان اسے ہی ملے گا۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا کون میرے لئے گواہی دیتا ہے؟ (جب کسی نے جواب نہ دیا تو) میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے اسی طرح ارشاد فرمایا۔ میں نے پھر کہا کون میرے لئے گواہی دیتا ہے؟ (جب کسی نے جواب نہ دیا تو) میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے اسی طرح ارشاد فرمایا۔ میں نے پھر کہا کون میرے لئے گواہی دیتا ہے؟ اور پھر میں بیٹھ گیا۔ حضور ﷺ نے پھر وہی ارشاد فرمایا۔ میں نے پھر کہا کون میرے لئے گواہی دیتا ہے؟ اور پھر میں بیٹھ گیا۔ آپ ﷺ نے پھر وہی ارشاد فرمایا۔ میں پھر کھڑا ہو گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے ابو قتادہ! تمہیں کیا ہوا؟ میں نے آپ کو سارا قصہ بتایا تو ایک آدمی نے کہا یہ سچ کہتے ہیں۔ اس مقتول کا سامان میرے پاس ہے (یا رسول اللہ!) آپ ان کو کسی طرح مجھ سے راضی فرمادیں (کہ یہ اس مقتول کا سامان میرے پاس رہنے دیں) حضرت ابو بکرؓ نے کہا نہیں۔ اللہ کی قسم! ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب ان کی بات ٹھیک ہے تو یہ سامان ان کو ہی ملنا چاہئے۔ تمہیں دینے کا مطلب تو یہ ہو گا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے لڑنے والے اللہ کے شیر کو ملنے والا سامان حضور ﷺ تمہیں دے دیں۔ حضور ﷺ نے اس سے فرمایا ابو بکرؓ ٹھیک کہتے ہیں تم ان کو وہ سامان دے دو۔ چنانچہ اس نے مجھے وہ سامان دے دیا جس سے میں نے بوسلمہ کے علاقہ میں ایک باغ خریدا۔ یہ وہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام میں جمع کیا۔

حضرت عبداللہ بن ابی حدرد اسلمیؓ کہتے ہیں ان کے ذمہ ایک یہودی کے چاردرہم قرض تھے۔ اس یہودی نے اس قرض کی وصولی میں حضور ﷺ سے مدد لینے چاہی اور یوں کہا اے محمد ﷺ! میرے اس آدمی کے ذمہ چاردرہم قرض ہیں اور یہ ان دراہم کے بارے میں مجھ پر

۱۔ اخراجہ البخاری و اخراجہ ایضا مسلم (ج ۲ ص ۸۶) و ابو داؤد (ج ۲ ص ۱۶) و الترمذی (ج ۱ ص ۲۰۲) و ابن ماجہ (ص ۲۰۹) و البیہقی (ج ۹ ص ۵۰)

غالب آچکے ہیں (یعنی میں کئی مرتبہ ان سے تقاضا کر چکا ہوں لیکن یہ مجھے دیتے نہیں ہیں) حضور ﷺ نے ان سے فرمایا اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھجھا ہے! دینے کی میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس کا حق اسے دو۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! دینے کی بالکل گنجائش نہیں اور میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ ہمیں خیبر بھیجیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمیں کچھ مال غنیمت دیں گے۔ اس لئے وہاں سے واپسی پر اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس کا حق ادا کرو۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کسی بات کو تین دفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ (تین دفعہ فرما دینا پورے اہتمام اور تاکید کی نشانی تھی) چنانچہ حضرت ابن ابی حدردیبار گئے۔ ان کے سر پر پگڑی تھی اور ایک چادر باندھ رکھی تھی۔ انہوں نے سر سے پگڑی اتار کر اسے لٹکی، ہاتھ لیا اور چادر کھول کر اسے یودی سے کہا تم مجھ سے یہ چادر خرید لو۔ چنانچہ وہ چادر اس یودی کے ہاتھ چادر ہم میں بیچ دی۔ اتنے میں ایک بڑھیا کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے یہ حال دیکھ کر کہا اے حضور ﷺ کے صحابی! تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے اسے سارا قصہ سنایا تو اس بڑھیانے اپنے اوپر سے چادر اتار کر ان پر ڈال دی اور کہا یہ چادر لے لو۔

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں انصار کے دو آدمی کسی ایسی میراث کا جھگڑالے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کے نشان مٹ چکے تھے اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑالے لے کر آتے ہو اور جس کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی میں اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں لہذا جس آدمی کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا حق لے رہا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے بھائی کا حق ہرگز نہ لے۔ کیونکہ میں تو اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ ٹکڑا اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا۔ اس پر وہ دونوں حضرات رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ! میں اپنا حق اسے دیتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا جب تم نے یہ ارادہ کر لیا تو جاؤ اور حق پر چلو اور اس میراث کو آپس میں تقسیم کر لو اور تقسیم کرنے کے لئے قرعہ اندازی کر لو اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو اپنا حق معاف کر دے۔

۱۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۱۸۱) و اخرجه احمد ایضا کما فی الاصابہ (ج

۲ ص ۲۹۵) ۲۔ اخرجه ابن ابی شیبہ و ابو سعید النقاش کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۱۸۲)

حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں ایک اعرابی کا حضور ﷺ پر قرضہ تھا وہ آکر حضور ﷺ سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے لگا اور اس نے حضور ﷺ پر بڑی سختی کی یہاں تک کہ یہ کہہ دیا جب تک آپ میرا قرضہ ادا نہیں کریں گے میں آپ کو تنگ کرتا رہوں گا۔ حضور ﷺ کے صحابہؓ نے اسے جھڑکا اور کہا تیرا ناس ہو۔ تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم نے حق والے کے ساتھ کیوں نہ دیا؟ اور پھر آپ نے حضرت خولہ بنت قیسؓ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تمہارے پاس کھجوریں ہوں تو ہمیں ادھا دے دو۔ جب ہمارے پاس آئیں گی تو ہم تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور ﷺ نے ان سے قرض لے کر اس اعرابی کا قرض ادا کر دیا اور جتنا اس کا قرضہ تھا اس سے زیادہ اسے دیا۔ اس اعرابی نے کہا آپ نے قرضہ پورا ادا کر دیا اللہ آپ کو پورا بدلہ دے۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا حق کا ساتھ دینے والے، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں اور وہ امت پاکیزہ نہیں ہو سکتی جس میں کمزور آدمی بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے اپنا حق وصول نہ کر سکے۔

حضرت حمزہ بن عبد المطلبؓ کی اہلیہ حضرت خولہ بنت قیسؓ فرماتی ہیں، عوساعہ کے ایک آدمی کی ایک، وستق کھجوریں حضور ﷺ کے ذمہ قرض تھیں (ایک وستق تقریباً سو پانچ من کا ہوتا ہے) اس آدمی نے آکر حضور ﷺ سے اپنی کھجوروں کا تقاضا کیا۔ حضور ﷺ نے ایک انصاری صحابی سے فرمایا کہ اس کا قرض ادا کر دو۔ انہوں نے اس کی کھجوروں سے گٹھیا تم کی کھجوریں دینی چاہیں۔ اس آدمی نے لینے سے انکار کر دیا۔ ان انصاری نے کہا کیا تم رسول اللہ ﷺ کو ان کی کھجوریں واپس کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا ہاں۔ اور حضور ﷺ سے زیادہ عدل کرنے کا کون حق دار ہے؟ یہ سن کر حضور ﷺ کی آنکھیں ڈبڈبیاں آئیں اور آپ ﷺ نے فرمایا یہ ٹھیک کہتا ہے۔ مجھ سے زیادہ عدل کرنے کا حق دار کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اس امت کو پاک نہیں فرماتے جس کا کمزور آدمی طاقتور سے اپنا حق نہ لے سکے اور نہ اس پر زور دے سکے۔ پھر فرمایا اے خولہ! اسے گن کر ادا کر دو۔ کیونکہ جس مقروض کے پاس سے قرض خواہ خوش ہو کر جائے گا اس کے لئے زمین کے جانور اور سمندروں کی مچھلیاں دعا کریں گی اور جس

۱۔ اخرجہ ابن ماجہ ورواہ البزار من حدیث عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا مختصر او الطبرانی

من حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باسناد جید کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۲۷۱)

۲۔ اخرجہ الطبرانی ورواہ احمد بنحوہ عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا باسناد جید قوی

مقروض کے پاس قرضہ کی ادائیگی کے لئے مال ہے اور وہ ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دن لوہے کے بدلہ میں اس کے لئے ایک گناہ لکھتے ہیں۔ ۱

## حضرت ابو بکر صدیقؓ کا عدل و انصاف

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جمعہ کے دن کھڑے ہو کر فرمایا جب صبح ہو تو تم صدقہ کے لونٹ ہمارے پاس لے آؤ۔ ہم انہیں تقسیم کریں گے۔ اور ہمارے پاس اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا یہ نکیل لے جاؤ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی لونٹ دے دے۔ چنانچہ وہ آدمی گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اونٹوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ داخل ہو گیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے اسے دیکھ کر فرمایا تم ہمارے پاس کیوں آگئے؟ پھر اس کے ہاتھ سے نکیل لے کر اسے ماری۔ جب حضرت ابو بکرؓ اونٹوں کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو اس آدمی کو بلایا اور اسے نکیل دی اور فرمایا تم اپنا بدلہ لے لو۔ تو حضرت عمرؓ نے ان سے کہا اللہ کی قسم! یہ آپ سے بدلہ بالکل نہیں لے گا۔ آپ اسے مستقل عادت نہ بنائیں (کہ امیر تنبیہ کرنے کے لئے کسی کو سزا دے تو اس سے بدلہ لیا جائے) حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا مجھے قیامت کے دن اللہ سے کون بچائے گا؟ (ان حضرات میں اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا) حضرت عمرؓ نے کہا آپ (اسے کچھ دے کر) راضی کر لیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے غلام سے کہا تم میرے پاس ایک اونٹ، اس کا کجاوہ اور ایک کبیل اور پانچ دینار لاؤ۔ چنانچہ یہ سب کچھ اس آدمی کو دے کر اسے راضی کیا۔ ۱

## حضرت عمر فاروقؓ کا عدل و انصاف

حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر اور حضرت اہلی بن کعبؓ کے درمیان (کھجور کے ایک درخت کے بارے میں) جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا آؤ ہم آپس کے فیصلے کے لئے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے حضرت زید بن ثابتؓ کو اپنا ثالث بنا لیا۔ یہ دونوں حضرات زیدؓ کے پاس گئے اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہم آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں (اور امیر المؤمنین ہو کر میں خود آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ) فیصلہ کروانے والے خود ثالث

کے گھر آیا کرتے ہیں۔ جب دونوں حضرات حضرت زیدؓ کے پاس اندر داخل ہوئے تو حضرت زیدؓ نے حضرت عمرؓ کو اپنے بستر کے سر ہانے بٹھانا چاہا اور یوں کہا اے امیر المؤمنین! یہاں تشریف رکھیں۔ حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا یہ پہلا ظلم ہے جو آپ نے اپنے فیصلہ میں کیا ہے۔ میں تو اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھوں گا۔ حضرت ابی نے اپنا دعویٰ پیش کیا جس کا حضرت عمرؓ نے انکار کیا۔ حضرت زیدؓ نے حضرت ابی سے کہا (قاعدہ کے مطابق انکار کرنے پر مدعی علیہ کو قسم کھانی پڑتی ہے لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ) آپ امیر المؤمنین کو قسم کھانے کی زحمت نہ دیں اور میں امیر المؤمنین کے علاوہ کسی اور کیلئے یہ درخواست نہیں کر سکتا۔ حضرت عمرؓ نے (اس رعایت کو قبول نہ کیا بلکہ) قسم کھائی اور انہوں نے قسم کھا کر کہا حضرت زیدؓ صحیح قاضی تب بن سکتے ہیں جب کہ ان کے نزدیک عمرؓ اور ایک عام مسلمان برابر ہو۔ لہٰذا ان عسا کرنے اسی قصہ کو شعبی سے نقل کیا اور اس میں یہ ہے کہ کعبور کے ایک درخت کے کانٹے میں حضرت ابی بن کعب اور حضرت عمر بن خطابؓ میں جھگڑا ہو گیا۔ اس پر حضرت ابیؓ رو پڑے اور فرمایا اے عمرؓ! کیا تمہاری خلافت میں ایسا ہو رہا ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا آؤ آپس کے فیصلے کیلئے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ حضرت ابیؓ نے کہا حضرت زیدؓ کو ثالث بنا لیتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے بھی پسند ہیں۔ چنانچہ دونوں حضرات گئے اور حضرت زیدؓ کے پاس اندر داخل ہوئے آگے پیچھے جیسی حدیث ذکر کی۔

حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلبؓ کا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد (نبوی) کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمرؓ نے اسے مسجد میں شامل کرنا چاہا تو حضرت عباسؓ سے فرمایا آپ یہ گھر میرے ہاتھ بیچ دیں۔ حضرت عباسؓ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے کہا آپ یہ گھر مجھے ہدیہ ہی کر دیں۔ وہ یہ بھی نہ مانے پھر حضرت عمرؓ نے کہا آپ خود ہی یہ گھر مسجد میں شامل کر دیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے کہا آپ کو ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا لیکن حضرت عباسؓ پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اچھا پھر کسی کو آپ ثالث مقرر کر لیں جو ہمارا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعبؓ کو مقرر کیا۔ یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ ان کے پاس لے گئے۔ حضرت ابی نے حضرت عمرؓ سے کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان سے یہ گھر نہیں لے سکتے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا آپ کو یہ فیصلہ اللہ کی کتاب

۱ اخراجہ ابن عساکر و سعید بن منصور و البیہقی

۲ کما فی کنز العمال (ج ۳ ص ۱۷۴ ج ۳ ص ۱۸۱)



یعنی قرآن میں ملا ہے یا حضور ﷺ کی حدیث میں؟ انہوں نے کہا حضور ﷺ کی حدیث میں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابی نے کہا میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہا السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جب بھی وہ کوئی دیوار بناتے تو صبح کو وہ گری ہوئی ہوتی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی کہ اگر آپ کسی کی زمین میں بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے راضی کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت عباسؓ نے اپنی خوشی سے اس گھر کو مسجد میں شامل کر دیا۔

حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت عباس بن عبد المطلبؓ کا گھر لے کر مسجد (نبوی) میں شامل کر دیں۔ حضرت عباس نے انہیں گھر دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے کہا میں تو یہ گھر ضرور لوں گا۔ حضرت عباس نے کہا حضرت ابی بن کعبؓ سے فیصلہ کروالو۔ حضرت عمرؓ نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات حضرت ابی کے پاس آئے اور ان سے سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت ابی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہا السلام کی طرف وحی بھیجی کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر کریں۔ وہ زمین ایک آدمی کی تھی۔ حضرت سلیمان نے اس سے وہ زمین خریدی۔ جب اسے قیمت ادا کرنے لگے تو اس آدمی نے کہا جو قیمت تم مجھے دے رہے ہو وہ زیادہ بہتر ہے یا جو زمین تم مجھ سے لے رہے ہو وہ زیادہ بہتر ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا جو زمین میں تم سے لے رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس پر اس آدمی نے کہا تو پھر میں اس قیمت پر راضی نہیں ہوں۔ پھر حضرت سلیمان نے اسے پہلے سے زیادہ قیمت دے کر خرید لیا۔ اس آدمی نے حضرت سلیمانؓ کے ساتھ دو تین مرتبہ اسی طرح کیا (کہ قیمت مقرر کر کے پھر اس سے زیادہ کا مطالبہ کر دیتا) آخر حضرت سلیمان نے اس پر یہ شرط لگائی کہ تم جتنی قیمت کہہ رہے ہو میں اتنے میں خریدتا ہوں لیکن تم بعد میں یہ نہ پوچھنا کہ زمین اور قیمت میں سے کون سی چیز بہتر ہے۔ چنانچہ اس کی بتائی ہوئی قیمت پر خریدنے لگے تو اس نے بارہ ہزار قطار سونا قیمت لگائی۔ (ایک قطار چار ہزار دینار کو کہتے ہیں) حضرت سلیمان کو یہ قیمت بہت زیادہ معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اگر تم اسے یہ قیمت اپنے پاس سے دے رہے ہو تو پھر تو تم جانو اور اگر تم ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے دے رہے ہو تو پھر اسے اتنا دو کہ وہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے ایسا ہی کیا اور پھر حضرت ابی نے فرمایا میرا

فیصلہ یہ ہے کہ حضرت عباس اپنے گھر کے زیادہ حق دار ہیں اگر ان کا گھر مسجد میں شامل کرنا ہی ہے تو پھر وہ جس طرح راضی ہوں انہیں راضی کیا جائے اس پر حضرت عباس نے کہا جب آپ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تو میں اب یہ گھر مسلمانوں کے لئے صدقہ کرتا ہوں۔

حضرت لحن عمرؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں مصر میں میرے بھائی عبدالرحمن نے اور ان کے ساتھ ابو سروہ عقیہ بن حارث نے نبینڈی (پانی میں کھجوریں ڈال دی جاتی تھیں کچھ دیر کھجوریں پڑی رہتی تھیں۔ جس سے وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ اسے نبینڈ کہا جاتا تھا۔ زیادہ دیر پڑے رہنے سے اس میں نشہ بھی پیدا ہو جاتا تھا) جس سے انہیں نشہ ہو گیا۔ صبح کو یہ دونوں مصر کے امیر حضرت عمرو بن عاصؓ کے پاس گئے اور ان سے کہا (سزا دے کر) ہمیں پاک کر دیں کیونکہ ہم نے ایک مشروب پیا تھا جس سے ہمیں نشہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے بھائی نے کہا مجھے نشہ ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا گھر چلو میں تمہیں (سزا دے کر) پاک کر دوں گا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں حضرات عمرو کے پاس جا چکے ہیں۔ پھر میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ امیر مصر کو یہ بات بتا چکے ہیں تو میں نے کہا تم گھر چلو میں تمہارا سر موٹا دوں گا تاکہ تم لوگوں کے سامنے تمہارا سر نہ موٹا جائے۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ حد لگانے کے ساتھ سر بھی موٹا دیتے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں گھر چلے گئے۔ میں نے اپنے بھائی کا سر اپنے ہاتھ سے موٹا۔ پھر حضرت عمرو نے ان پر شراب کی حد لگائی۔ حضرت عمرؓ کو اس قصہ کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عمرو کو خط لکھا کہ عبدالرحمن کو میرے پاس بغیر کچادہ کے لونٹ پر سوار کر کے بچھ دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسے کوڑے لگائے اور اپنا پیٹا ہونے کی وجہ سے اسے سزا دی پھر اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ ایک مہینہ تو ٹھیک رہے۔ پھر تقدیر الہی غالب آگئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے کوڑے لگانے سے ان کا انتقال ہوا ہے۔ حالانکہ ان کا انتقال حضرت عمرؓ کے کوڑے لگانے سے نہیں ہوا۔

۱۔ اخرجه عبدالرزاق ايضا كذا في كنز العمال (ج ۴ ص ۲۶۰) واخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۱۳) و ابن عساكر عن سالم ابى النفر مطولا جدا وسنده صحيح الا ان سالمالم يدرك عمرو اخرجه ايضا والبيهقي ويعقوب بن سفيان عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مختصر او سنده حسن كما في الكنز (ج ۷ ص ۶۶) واخرجه الحاكم و ابن عساكر من طريق اسلم من وجه آخر مطولا كما في الكنز (ج ۷ ص ۶۵) وفي حديثه حذيفة بدل ابى بن كعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما

(بلکہ طبعی موت مرے ہیں) ۱

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک عورت کا خاوند غائب تھا۔ اس کے پاس کسی کی آمد و رفت تھی۔ حضرت عمرؓ کو اس سے کھٹک ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے بلانے کے لئے اس کے پاس آدمی بھیجا۔ اس آدمی نے اس عورت سے کہا حضرت عمرؓ کے پاس چلو حضرت عمرؓ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا ہائے میری ہلاکت۔ مجھے عمرؓ سے کیا واسطہ۔ وہ گھر سے چلی (وہ حاملہ تھی) ابھی وہ راستہ ہی میں تھی کہ وہ گھبرا گئی جس سے اسے درد زہ شروع ہو گیا۔ وہ ایک گھر میں چلی گئی۔ جمال اس کا چہ پیدا ہوا۔ چہ دو دفعہ رویا اور مر گیا۔ حضرت عمرؓ نے حضور ﷺ کے صحابہؓ سے مشورہ کیا (کہ میرے ڈر کی وجہ وہ عورت گھبرا گئی اور چہ قبل از وقت پیدا ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ چہ مر گیا تو کیا اس چہ کے یوں مر جانے کی وجہ سے مجھ پر کوئی چیز شرعاً لازم آتی ہے؟) بعض صحابہؓ نے کہا آپ پر کچھ لازم نہیں آتا۔ کیونکہ آپ مسلمانوں کے والی ہیں اور (اس وجہ سے) آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ان کو ادب سکھائیں کوئی کمی دیکھیں تو انہیں بلا کر تینہ بہہ کریں۔ حضرت علیؓ خاموش تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا اس بدلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علیؓ نے کہا اگر ان لوگوں نے یہ بات بغیر کسی دلیل کے محض اپنی رائے سے کہی ہے تو ان کی رائے غلط ہے اور اگر انہوں نے آپ کو خوش کرنے کیلئے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس چہ کی دیت یعنی خون بہا آپ کو دینا پڑے گا۔ کیونکہ آپ کے بلانے کی وجہ سے وہ عورت گھبرائی ہے۔ اس لئے یوں بچے کے قبل از وقت پیدا ہو جانے کا سبب آپ ہی ہیں اس پر حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ اس چہ کا خون بہا سارے قریش سے وصول کریں اس لئے کہ یہ قتل ان سے خطا کے طور پر صادر ہوا ہے۔ ۲

حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ اپنے گورنروں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ حج کے موقع پر ان کے پاس آیا کریں۔ جب سارے گورنر آجاتے تو (عام مسلمانوں کو جمع کر کے) فرماتے:

”اے لوگو! میں نے اپنے گورنر تمہارے ہاں اس لئے نہیں بھیجے ہیں کہ وہ تمہاری کھال اڈھیڑیں یا تمہارے مال پر قبضہ کریں یا تمہیں بے عزت کریں بلکہ میں نے تو صرف اس لئے

۱ أخرجه عبدالرزاق والبيهقي كذا في كنز العمال (ج ۷ ص ۳۰۰)

۲ أخرجه عبدالرزاق والبيهقي قال في منتخب كنز العمال (ج ۴ ص ۴۲۲) وسنده صحيح  
وأخرجه ابن سعد عن أسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بطوله كما في منتخب الكنز

ان کو بھجھا ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دیں اور تمہارے درمیان مال غنیمت تقسیم کریں۔ لہذا جس کے ساتھ اس کے خلاف کیا گیا ہو وہ کھڑا ہو جائے (اور اپنی بات بتائے)“

(چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے گورنروں کو جمع کر کے لوگوں میں یہی اعلان کیا تو) صرف ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ کے فلاں گورنر نے مجھے (ظلماً) سو کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے (اس گورنر سے) کہا تم نے اسے کیوں مارا؟ (اور اس آدمی سے کہا) اٹھ اور اس گورنر سے بدلہ لے۔ اس پر حضرت عمرو بن عاصؓ نے کھڑے ہو کر کہا اگر آپ نے اس طرح گورنروں سے بدلہ دلانا شروع کر دیا تو پھر آپ کے پاس بہت زیادہ شکایات آنے لگ جائیں گی اور یہ گورنروں سے بدلہ لینا ایسا دستور بن جائے گا۔ کہ جو بھی آپ کے بعد آئے گا اسے یہ اختیار کرنا پڑے گا (حالانکہ اپنے گورنروں سے بدلہ دلوانا ہر امیر کے بس میں نہیں ہے) حضرت عمرؓ نے فرمایا جب میں نے حضور ﷺ کو اپنی ذات اقدس سے بدلہ دلوانے کے لئے تیار رہتے ہوئے دیکھا ہے تو میں (اپنے گورنر سے) کیوں نہ بدلہ دلواؤں؟ حضرت عمرو نے کہا آپ ہمیں اس آدمی کو راضی کرنے کا موقع دیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا اچھا چلو تم اسے راضی کر لو۔ چنانچہ اس گورنر نے ہر کوڑے کے بدلہ دو دینار کے حساب سے دو سو دینار اس آدمی کو بدلہ میں دیئے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں مصر سے ایک آدمی حضرت عمر بن خطابؓ کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین! مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے کہا ہاں تم میری مضبوط پناہ میں ہو۔ تو اس نے کہا میں نے حضرت عمرو بن عاصؓ کے بیٹے (محمد) سے دوڑنے میں مقابلہ کیا تو میں ان سے آگے نکل گیا تو وہ مجھے کوڑے مارنے لگے اور کہنے لگے میں بڑے اور کریم لوگوں کی اولاد ہوں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے حضرت عمرو کو خط لکھا کہ وہ خود بھی (مصر سے مدینہ منورہ) آئیں اور اپنے ساتھ اپنے اس بیٹے کو بھی لائیں چنانچہ حضرت عمرو (مدینہ) آئے تو حضرت عمرؓ نے کہا وہ (شکایت کرنے والا) مصری کہاں ہے؟ کوڑا لوار اسے مارو۔ وہ مصری کوڑے مارے جا رہا تھا اور حضرت عمرؓ فرماتے جا رہے تھے کمینوں کے بیٹے کو مارو۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں اس مصری نے حضرت عمرو کے بیٹے کو خوب پیٹا اور ہم چاہتے تھے کہ وہ انہیں خوب پیٹے۔ اور اس نے مارنا تب چھوڑا جب

ہمیں بھی تقاضا ہو گیا کہ وہ اب اور نہ مارے۔ یعنی اس نے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر حضرت عمرؓ نے اس مصری سے فرمایا۔ اب حضرت عمرو کی چندیا پر بھی مار (حضرت عمروؓ کا مقصد اس پر تنبیہ کرنا تھا کہ حضرت عمروؓ کو اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کرنی چاہئے تھی جس سے اس میں کسی پر بھی ظلم کرنے کی جرأت پیدا نہ ہوتی) اس مصری نے کہا اے امیر المؤمنین! مجھے تو ان کے بیٹے نے مارا تھا اور میں نے ان سے بدلہ لے لیا ہے (اس لئے میں حضرت عمروؓ کو نہیں ماروں گا) اس پر حضرت عمرؓ نے حضرت عمروؓ سے فرمایا کب سے تم نے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے؟ حالانکہ ان کو ان کی ماؤں نے آزاد بنا ہے۔ حضرت عمروؓ نے کہا مجھے اس قصہ کا بالکل پتہ نہیں چلا اور نہ یہ مصری میرے پاس شکایت لے کر آیا (ورنہ میں اپنے بیٹے کو خود سزا دیتا)۔

حضرت یزید بن ابی منصور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ کو یہ خبر ملی کہ بحرین میں ان کے مقرر کردہ گورنر حضرت لکن جاوود یا لکن ابی جاوود کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کا نام ادریاس تھا اس نے مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ خفیہ خط و کتابت کر رکھی تھی۔ اور ان دشمنوں کے ساتھ مل جانے کا اس کا ارادہ بھی تھا اور اس کے ان جرائم پر گواہ بھی موجود تھے اس پر اس گورنر نے اسے قتل کر دیا۔ وہ شخص قتل ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا اے عمرؓ! میں مظلوم ہوں میری مدد کو آئیں۔ اے عمرؓ! میں مظلوم ہوں میری مدد کو آئیں۔ حضرت عمرؓ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا نیزہ تھا۔ جب وہ حضرت عمرؓ کے پاس اندر آئے تو حضرت عمرؓ نے وہ چھوٹا نیزہ اس کے جڑوں پر مانا چاہا (لیکن مارا نہیں کہ حضرت جاوود نے اجتہادی غلطی کی وجہ سے اس آدمی کو قتل کیا تھا اس لئے چھوڑ دیا) اور حضرت عمرؓ کہتے جا رہے تھے، اے ادریاس! میں تیری مدد کو حاضر ہوں۔ اے ادریاس! میں تیری مدد کو حاضر ہوں اور حضرت جاوود کہنے لگے اے امیر المؤمنین! اس نے مسلمانوں کی خفیہ باتیں دشمن کو لکھی تھیں اور دشمن سے جا ملنے کا اس نے ارادہ بھی کر رکھا تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا صرف برائی کے ارادہ پر ہی تم نے اسے قتل کر دیا۔ ہم میں ایسا کون ہے جس کے دل میں ایسے بے ارادے نہیں آتے؟ اگر گورنروں کے قتل کرنے کا مستقل دستور بن جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہیں اس کے بدلہ میں ضرور قتل کر دیتا۔

حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمرؓ دونوں کانوں میں

۱۔ اخرجه ابن عبدالحکم کذا فی منتخب کنز العمال (ج ۴ ص ۴۲)

۲۔ اخرجه ابن جریر کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۲۹۸)

انگلیاں ڈالے ہوئے باہر نکلے اور آپ کہہ رہے تھے یا لہیکاہ۔ میں مدد کو حاضر ہوں۔ بتایا کہ ان کے مقرر کردہ ایک امیر کی طرف سے قاصد یہ خبر لایا ہے کہ ان کے علاقہ میں مسلمانوں کے راستہ میں ایک نہر پڑتی تھی جسے پار کرنے کے لئے مسلمانوں کو کوئی کشتی نہ مل سکی تو ان کے امیر نے کہا کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو نہر کی گہرائی معلوم کرنا جانتا ہو۔ چنانچہ ان کے پاس ایک بوڑھے کو لایا گیا اس بوڑھے نے کہا مجھے سردی سے ڈر لگتا ہے اور وہ موسم سردی کا تھا۔ لیکن اس امیر نے انہیں مجبور کر کے اس نہر میں داخل کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی اس پر سردی کا بہت زیادہ اثر ہو گیا اور وہ زور زور سے پکارنے لگا۔ اے عمرؓ! میری مدد کو آؤ اور وہ بوڑھا ڈوب گیا اس بوڑھے کی فریاد کے جواب میں حضرت عمرؓ کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے یا لہیکاہ کہتے ہوئے نکلے تھے) چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس امیر کو خط لکھا جس پر وہ مدینہ منورہ آگئے۔ ان کو آئے ہوئے کئی دن ہو گئے لیکن حضرت عمرؓ نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اور یہ حضرت عمرؓ کی عادت شریفہ تھی کہ جب ان کو کسی پر غصہ آتا تھا تو اس سے اعراض فرما لیتے تھے۔ اس کی طرف توجہ نہ فرماتے تھے۔ پھر اس امیر کو کہا جس آدمی کو تم نے مار ڈالا اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا اے امیر المؤمنین! میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ ہمیں نہر پار کرنے کے لئے کوئی بھی چیز نہیں مل رہی تھی۔ ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ یہ پتہ چل جائے کہ نہر کے پانی کی گہرائی کتنی ہے؟ پھر بعد میں ہم نے اللہ کے فضل سے فلاں فلاں علاقے فتح کئے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا تم جو کچھ (فتوحات کی خبر وغیرہ) لے کر آئے ہو مجھے ایک مسلمان اس سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مستقل دستور بن جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تم اس کے رشتہ داروں کو خون بہا دو اور میرے پاس سے چلے جاؤ۔ آئندہ تمہیں کبھی نہ دیکھوں۔!

حضرت جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ کے ساتھ (جماد میں) ایک آدمی تھا (اس لڑائی میں) مسلمانوں کو بڑا مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اسے مال غنیمت میں سے اس کا حصہ تو دیا لیکن پورا نہ دیا۔ اس نے کہا لوں گا تو پورا لوں گا، نہیں تو نہیں لوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اسے بیس کوڑے مارے اور اس کا سر موٹا دیا۔ وہ اپنے بال جمع کر کے حضرت عمرؓ کے پاس لے گیا (وہاں جا کر) اس نے اپنی جیب سے بال نکالے اور حضرت عمرؓ کے سینہ پر دے مارے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا۔ اس نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰ کو یہ خط لکھا:

”سلام علیک! المابعد! فلاں بن فلاں نے مجھے اپنا سارا قصہ اس اس طرح سنایا۔ میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں اگر یہ کام (اس کے ساتھ) آپ نے پھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے کیا ہے تو آپ اس کے لئے پھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے بیٹھ جائیں اور پھر وہ آپ سے اپنبلد لے کر آئے۔“

چنانچہ جب حضرت ابو موسیٰ کو یہ خط ملا تو وہ بدلہ دینے کے لئے (اس آدمی کے سامنے) بیٹھ گئے۔ اس پر اس آدمی نے کہا میں نے ان کو اللہ کے لئے معاف کر دیا۔

حضرت حرمازیؓ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت فیروز دیلمیؓ کو یہ خط لکھا:

”المابعد! مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ میدے کی روٹی شمد کے ساتھ کھانے میں مشغول ہو گئے ہو۔ لہذا جب آپ کے پاس میرا یہ خط پہنچے تو آپ اللہ کا نام لے کر میرے پاس آجائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔“

چنانچہ حضرت فیروز (خط ملتے ہی مدینہ) آگئے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کے پاس اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمرؓ نے ان کو اجازت دے دی۔ (وہ اندر جانے لگے تو) ایک قریشی نوجوان بھی اندر جانے لگا جس سے ان کا راستہ تنگ ہو گیا انہوں نے اس قریشی کی ناک پر (اس زور سے) تھپڑ مارا (کہ خون نکل آیا) وہ قریشی نوجوان اسی حالت میں حضرت عمرؓ کے پاس اندر چلا گیا کہ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس نوجوان سے پوچھا تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت فیروز نے۔ اور وہ اس وقت دروازے پر ہی ہیں۔ حضرت عمرؓ نے حضرت فیروز کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ اندر آگئے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اے فیروز! یہ کیا ہے؟ حضرت فیروز نے کہا اے امیر المؤمنین! ہم نے کچھ عرصہ قبل ہی بادشاہت چھوڑی ہے (جس کا اثر ابھی ہماری طبیعتوں میں باقی ہے) بات یہ ہوئی۔ آپ نے مجھے خط بھیج کر بلوایا۔ اسے آپ نے کوئی خط نہیں لکھا اور (اجازت مانگنے پر) آپ نے مجھے تو اندر آنے کی اجازت دی۔ اس نے نہ اجازت مانگی اور نہ آپ نے اسے اجازت دی۔ اس نے (قاعدہ کے خلاف کرتے ہوئے بلا اجازت) مجھ سے پہلے میری اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہونا چاہا (اس پر مجھے غصہ آگیا) اس لئے مجھ سے وہ حرکت سرزد ہو گئی جو یہ آپ کو بتا رہا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا آپ کو بدلہ دینا ہو گا۔ حضرت فیروز نے پوچھا کیا بدلہ ضرور دینا پڑے گا؟ حضرت عمرؓ نے کہا ہاں ضرور دینا پڑے گا۔ حضرت فیروز گھٹنوں کے قبل

بدلہ دینے کے لئے بیٹھ گئے اور وہ نوجوان بدلہ لینے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے اس سے کہا اے نوجوان! ذرا ٹھہرنا میں تمہیں وہ بات سناتا ہوں جو میں نے حضور ﷺ سے سنی ہے۔ ایک دن صبح کے وقت میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جھوٹے نبی اسود عسیٰ کو آج رات قتل کر دیا گیا ہے اور اس کو اللہ کے نیک بندے فیروز دیلمی نے قتل کیا ہے۔ جب تم نے ان کے بارے میں حضور ﷺ کی یہ حدیث سن لی ہے تو کیا اس کے بعد بھی تم ان سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا جب آپ نے ان کے بارے میں مجھے حضور ﷺ کی یہ حدیث سنائی ہے تو میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت فیروز نے کہا میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اس نے خوشی خوشی مجھے معاف کر دیا تو کیا اس کے بعد میں اپنی اس غلطی پر (اللہ کی پکڑ سے) بچ جاؤں گا؟ حضرت عمرؓ نے کہا ہاں۔ اس پر حضرت فیروز نے کہا میں آپ کو اس بات پر گواہ بنا تا ہوں کہ میری تلوار، میرا گھوڑا اور میرے مال میں سے تیس ہزار اس نوجوان کو ہدیہ ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا اے قریشی! تم نے معاف کر کے ثواب بھی لے لیا اور تم کو اتنا مال بھی مل گیا۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں ایک باندی نے حضرت عمر بن خطابؓ کی خدمت میں آکر کہا میرے آقا نے پہلے مجھے پر تہمت لگائی۔ پھر مجھے آگ پر بٹھایا۔ جس سے میری شرم گاہ جل گئی۔ حضرت عمرؓ نے اس سے پوچھا کیا تمہارے آقا نے تم کو وہ بر اکام کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس باندی نے کہا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کیا تم نے کسی برائی کا اس کے سامنے اقرار کیا تھا؟ اس باندی نے کہا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ (چنانچہ وہ آدمی آیا) جب حضرت عمرؓ نے اس آدمی کو دیکھا تو فرمایا کیا تم انسانوں کو وہ عذاب دیتے ہو جو اللہ کے ساتھ خاص ہے؟ اس آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین! مجھے اس پر شبہ ہوا تھا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کیا تم نے اسے وہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے پھر پوچھا کیا اس باندی نے تمہارے سامنے اس جرم کا اعتراف کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ مالک سے اس کے غلام کو اور والد سے اس کے بیٹے کو بدلہ نہیں دلوا لیا جائے گا تو میں تجھ سے اس باندی کو بدلہ دلواتا اور پھر حضرت عمرؓ نے اس آدمی کو سو کوڑے مارے اور اس باندی سے فرمایا تو جا۔ تو اللہ کے لئے آزاد ہے۔ تو اللہ اور اس کے

۱ اخراجہ ابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۸۳)

۲ اخراجہ الطبرانی فی الاوسط و الحاکم و البیہقی کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۲۹۹)



رسول ﷺ کی آزاد کردہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جسے آگ میں جلایا گیا جس کی شکل آگ سے جلا کر بگاڑی گئی وہ آزاد ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا آزاد کردہ ہے۔

حضرت کھول کتے ہیں حضرت عبادہ بن صامتؓ نے ایک دیہاتی کو بلایا تاکہ وہ بیت المقدس کے پاس ان کی سواری کو پکڑ کر کھڑا رہے اس نے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عبادہ نے اسے مارا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اس نے ان کے خلاف حضرت عمر بن خطابؓ سے مدد طلب کی۔ حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین! میں نے اسے کہا کہ میری سواری پکڑ کر کھڑا رہے لیکن اس نے انکار کر دیا اور مجھ میں ذرا تیزی ہے۔ اس لئے میں نے اسے مار دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا آپ بدلہ دینے کے لئے بیٹھ جائیں۔ حضرت زید بن ثلثؓ نے کہا کیا آپ اپنے غلام کو اپنے بھائی سے بدلہ دلوا رہے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے بدلہ دلوانے کا ارادہ چھوڑ دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عبادہ اسے اس زخم کے بدلہ میں مقررہ رقم دیں۔

حضرت سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت عمرؓ ملک شام تشریف لے گئے تو اہل کتاب میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا سر زخمی تھا اور اس کی پٹائی ہو چکی تھی۔ اس نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ میری جو حالت دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ایک مسلمان نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور حضرت صہیبؓ سے کہا جاؤ اور دیکھو کس نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت صہیبؓ نے جا کر پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ حضرت عوف بن مالک انجلیؓ نے کیا ہے حضرت صہیب نے ان سے کہا امیر المؤمنین کو تم پر بہت غصہ آیا ہوا ہے۔ تم حضرت معاذ بن جبلؓ کے پاس جا کر ان سے کہو کہ وہ حضرت عمرؓ سے تمہارے بارے میں بات کریں اور وہ تمہارے لئے ان سے سفارش کریں (کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ حضرت عمرؓ تمہیں دیکھتے ہی فوراً سزا دینے لگ جائیں گے۔ چنانچہ جب حضرت عمرؓ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا صہیب کہاں ہیں؟ کیا تم اس آدمی کو لے آئے ہو؟ حضرت صہیب نے کہا جی

ہاں۔ حضرت عوف جا کر حضرت معاذ کو اپنا سارا قصہ بتا چکے تھے اور حضرت معاذ اس وقت وہاں آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت معاذ نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر المؤمنین! وہ مارنے والے عوف بن مالک (جیسے قابل اعتماد انسان) ہیں آپ ان کی بات سن لیں اور انہیں سزا دینے

میں جلدی نہ کریں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے حضرت عوف سے کہا تمہیں اس آدمی کے ساتھ کیا بات پیش آئی۔ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین! میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان عورت گدھے پر سوار ہے یہ پیچھے سے اس گدھے کو ہانک رہا ہے۔ اتنے میں اس نے اس عورت کو گرانے کے لئے اسے لکڑی سے چوکا مارا لیکن وہ نہ گری۔ پھر اس نے اسے ہاتھ سے دھکا دیا۔ جس سے وہ عورت گر گئی اور یہ اس کے اوپر چڑھ گیا (اور اس کی عصمت لوٹ لی۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور میں نے اس کے سر پر مار دیا) حضرت عمرؓ نے اس سے کہا تم اس عورت کو لاؤ تاکہ وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے۔ حضرت عوف اس عورت کے پاس گئے تو اس کے باپ اور خاوند نے ان سے کہا تم ہماری عورت کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم نے تو (یہ سارا واقعہ سنا کر) ہمیں رسوا کر دیا۔ لیکن اس عورت نے کہا نہیں۔ میں تو ان کے ساتھ (حضرت عمرؓ کو خود بتانے) ضرور جاؤں گی۔ تو اس کے والد اور خاوند نے کہا (تم ٹھہرو) ہم جا کر تمہاری طرف سے ساری بات پہنچا آتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور بالکل ویسا ہی قصہ بتایا جیسا حضرت عوف نے بتایا تھا چنانچہ حضرت عمرؓ کے حکم دینے پر اس یہودی کو سولی دی گئی اور حضرت عمرؓ نے فرمایا (اے یہودیو!) ہم نے تم سے اس پر صلح نہیں کی تھی (کہ تم ہماری عورتوں کے ساتھ زنا کرو اور ہم کچھ نہ کہیں) پھر فرمایا اے لوگو! حضرت محمد ﷺ کی امان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو لیکن ان میں سے جو کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کریگا اس کیلئے کوئی امان نہیں ہوگی۔ حضرت سوید کہتے ہیں یہ پہلا یہودی ہے جسے میں نے اسلام میں سولی چڑھتے ہوئے دیکھا۔

حضرت عبد المالك بن یعلیٰ لیشی کہتے ہیں حضرت بکیر بن شدانؓ ان صحابہؓ میں سے ہیں جو عجم سے ہی حضور ﷺ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ بالغ ہوئے تو انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں آکر عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کے گھر آتا جاتا تھا لیکن اب میں بالغ ہو گیا ہوں۔ حضور ﷺ نے (خوش ہو کر) یہ دعادی اے اللہ! اس کی بات کو سچا کر دے اور اسے کامیابی نصیب فرما۔ جب حضرت عمرؓ کا زمانہ خلافت آیا تو ایک یہودی مقتول پایا گیا۔ حضرت عمرؓ نے اسے بہت بڑا حادثہ سمجھا اور آپ گھبرا گئے اور منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے تو کیا میرے زمانہ خلافت میں لوگوں کو یوں اچانک قتل کیا جائے گا۔ جس آدمی کو اس قتل کے بارے میں کچھ علم ہے میں اسے اللہ کی یاد دلا کر کہتا ہوں کہ وہ مجھے ضرور بتائے۔ اس پر حضرت بکیر بن شدانؓ نے کھڑے ہو کر کہا میں نے اسے قتل کیا

۱۔ اخرجہ ابو عبیدہ و البیہقی و ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۲۹۹) و اخرجہ الطبرانی عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر اقال الہیثمی (ج ۶ ص ۱۳) و رجالہ رجال الصحیح انتہی۔

ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ اکبر۔ تم نے اس کے قتل کا اقرار کر لیا ہے تو اب ایسی وجہ بتاؤ جس سے تم سزا سے بچ سکو۔ انہوں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں۔ فلاں مسلمان اللہ کے راستہ میں جہاد کیلئے گیا اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال میرے ذمہ کر گیا۔ میں اس کے گھر گیا تو میں نے اس یہودی کو وہاں پایا اور وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

واشعث غره الا سلام حتی

خلوت بعرسه لیل التمام

اشعث (اس عورت کے خاوند کا نام ہے) کو تو اسلام نے دھوکہ میں ڈالا ہوا ہے (وہ اسلامی جذبہ سے گھر چھوڑ کر خدا کے راستہ میں گیا ہوا ہے اور میں نے اس دھوکہ سے یہ فائدہ اٹھایا کہ) میں نے ساری رات اس کی بیوی کے ساتھ تنہائی میں گزاری ہے۔

ایبت علی ترابها ویمسی

علی جرداء لا حقة الحزام

میں تو ساری رات اس کی بیوی کے سینہ پر گزار رہا ہوں اور وہ خود چھوٹے بالوں والی اونٹنی کی پشت پر شام گزارتا ہے جس کا تنگ بندھا ہوا ہے۔

کان مجامع الریلات منها

فنام ینھضون ال فنام

(عربوں کو عورت کا موٹا ہونا اور مرد کا دبلا ہونا پسند تھا اس لئے کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی اتنی موٹی ہے کہ) اس کے رانوں کے ملنے کی جگہ یعنی سرین تہہ بہ تہہ ہے وہاں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں۔

یہ سن کر حضرت عمرؓ نے حضرت بکیر کی بات کو سچا مان لیا اور اس یہودی کے خون کو معاف کر دیا (اور ان سے بدلہ یا خون بہانہ لیا) اور حضرت بکیر کے ساتھ یہ سب کچھ حضور ﷺ کی دعا کی برکت سے ہوا (کہ بغیر گواہ کے ان کی بات سچی مان لی گئی)۔

حضرت قاسم بن ابی بزہ کہتے ہیں شام میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کافر کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ قصہ لکھ کر حضرت عمرؓ کو بھیجا۔ حضرت عمرؓ نے جواب میں یہ لکھا کہ یوں ذمیوں کو قتل کرنا اگر اس مسلمان کی

۱۔ اخرجہ ابن مندہ و ابو نعیم کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۱۳) و اخرجہ ابن ابی شیبہ عن الشعبي بمعناه كما في الاصابة (ج ۱ ص ۵۲) ۲۔ اخرجہ عبدالرزاق و البيهقي كذا في كنز العمال (ج ۷ ص ۲۹۸)

مستقل عادت بن گئی ہے پھر تو اسے آگے کر کے اس کی گردن اڑا دو اور اگر وہ طیش میں آکر اچانک ایسا کر بیٹھا ہے تو اس پر چار ہزار کی دیت کا جرمانہ لگا دو۔ ۱

کوفہ کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک لشکر بھیجا تھا اس کے امیر کو یہ خط لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے کچھ ساتھی کبھی مونے تازے کا فر کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ کا فر دوڑ کر پہاڑ پر چڑھا جاتا ہے اور خود کو محفوظ کر لیتا ہے تو پھر اس سے تمہارا ساتھی (فارسی میں) کہتا ہے مترس یعنی مت ڈرو (یہ کہہ کر اسے امان دے دیتا ہے وہ کا فر خود کو اس مسلمان کے حوالے کر دیتا ہے) پھر یہ مسلمان اس کا فر کو پکڑ کر قتل کر دیتا ہے (یہ قتل دھوکہ دے کر کیا ہے) اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! آئندہ اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے ایسا کیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ۱ حضرت ابو سلمہؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر تم میں سے کسی نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کسی مشرک کو امان دے دی اور وہ مشرک اس وجہ سے اس مسلمان کے پاس آگیا اور پھر مسلمان نے اسے قتل کر دیا تو (یوں دھوکہ سے قتل کرنے پر) اس مسلمان کو ضرور قتل کروں گا۔ ۱

حضرت انسؓ فرماتے ہیں ہم نے تسز کا محاصرہ کیا (آخر محاصرہ اور جنگ سے تنگ آکر تسز کے حاکم) ہر مزان نے اپنے بارے میں حضرت عمرؓ کے فیصلہ پر اترنا قبول کیا۔ میں اس کو لے کر حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب ہم حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے تو آپ نے اس سے کہا کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا زندہ رہنے والے کی طرح بات کروں یا مر جانے والے کی طرح؟ حضرت عمرؓ نے کہا لا باس یعنی تم اپنے بارے میں مت ڈرو۔ بات کرو۔ ہر مزان نے کہا اے قوم عرب! جب تک اللہ تعالیٰ خود تمہارے ساتھ نہ تھے بلکہ اللہ نے معاملہ ہمارے اور تمہارے درمیان چھوڑ رکھا تھا اس وقت تک تو ہم تمہیں اپنا غلام بناتے تھے، تمہیں قتل کرتے تھے اور تم سے سارا مال چھین لیا کرتے تھے لیکن جب سے اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا ہے اس وقت سے ہم میں تم سے مقابلہ کی بھی طاقت باقی نہیں رہی۔ حضرت عمرؓ نے (مجھ سے) پوچھا (اے انس!) تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! میں اپنے پیچھے بڑی تعداد میں دشمن اور ان کا بڑا بدبہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اگر آپ اسے قتل کر دیں گے تو پھر اس کی قوم اپنی زندگی سے ناامید ہو کر مسلمانوں سے لڑنے میں اور زیادہ زور لگائے گی (اس لئے آپ اس کو قتل نہ کریں) حضرت عمرؓ نے کہا میں حضرت براء بن مالک اور ججزاء بن

ٹوڑ (جیسے بہادر صحابہؓ) کے قاتل کو کیسے زندہ چھوڑ دوں؟ (اس نے ان دونوں کو قتل کیا ہے) حضرت انس کہتے ہیں جب مجھے خطرہ ہوا کہ حضرت عمرؓ تو اسے ضرور قتل کر ہی دیں گے تو میں نے ان سے کہا آپ اسے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس سے لباس تم مت ڈرو اور بات کرو کہ چکے ہیں (اور لباس کہنے سے جان کی امان مل جاتی ہے لہذا آپ تو اسے امان دے چکے ہیں) حضرت عمرؓ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے تم نے اس سے کوئی رشوت لی ہے اور اس سے کوئی مفاد حاصل کیا ہے؟ حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس سے نہ رشوت لی ہے اور نہ کوئی مفاد (میں تو ایک حق بات کہہ رہا ہوں) حضرت عمرؓ نے کہا تم اپنے اس دعویٰ (کہ لباس کہنے سے کافر کو امان مل جاتی ہے) کی تصدیق کرنے والا کوئی اور گواہ اپنے علاوہ لاؤ ورنہ میں تم سے ہی سزا کی ابتداء کروں گا۔ چنانچہ میں گیا مجھے حضرت زبیر بن عوامؓ ملے۔ ان کو لے کر آیا انہوں نے میری بات کی تصدیق کی۔ جس پر حضرت عمرؓ ہر مزان کے قتل سے رک گئے اور ہر مزان مسلمان ہو گیا اور حضرت عمرؓ نے اس کے لئے بیت المال میں سے وظیفہ مقرر کیا۔<sup>۱</sup>

حضرت عبداللہ بن ابی حدرد اسلمیؓ فرماتے ہیں جب ہم حضرت عمرؓ کے ساتھ (دمشق کی بستی) جلیہ پہنچے تو آپ نے ایک بوڑھے ذی کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کھانا مانگ رہا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا (کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے) کسی نے کہا یہ ذی آدمی ہے جو کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس کے ذمہ جو جزیہ تھا وہ معاف کر دیا اور فرمایا پہلے تم نے اس پر جزیہ لگایا (جسے وہ دیتا رہا) اب جب وہ کمزور ہو گیا ہے تو تم نے اسے کھانا مانگنے کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے لئے بیت المال میں سے دس درہم وظیفہ مقرر کیا وہ بوڑھا عمیل دار تھا۔<sup>۲</sup> ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کا ایک بوڑھے ذی پر گزر ہوا۔ جو لوگوں سے مسجدوں کے دروازوں پر مانگتا پھر رہا تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا (اے ذی!) ہم نے تم سے انصاف نہیں کیا۔ جوانی میں تو ہم تجھ سے جزیہ لیتے رہے اور بوڑھاپے میں ہم نے تمہارا کوئی خیال نہ رکھا۔ پھر آپ نے اس کے لئے بیت المال میں سے بھر رگزارہ وظیفہ جاری کر دیا۔<sup>۳</sup>

۱۔ اخرجه البيهقي (ج ۹ ص ۹۶) واخرجه ايضا الشافعي بمعناه مختصر الكما في الكنز (ج ۲ ص ۲۹۸) واخرجه البيهقي (ج ۹ ص ۹۶) ايضا من طريق جبرين حية بسياق آخر بطوله و ذكره في البداية (ج ۷ ص ۸۷) مطولا جدا. ۲۔ اخرجه ابن عساكرو الواقدي ۳۔ عند ابی عبید و ابن زنجويه والعقبلي كذا في الكنز (ج ۲ ص ۳۰۲، ۳۰۱)

حضرت یزید بن ابی مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسلمان جاہلیہ بستی میں ٹھہرے ہوئے تھے حضرت عمرؓ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک ذمی نے آکر حضرت عمرؓ کو بتایا کہ لوگ اس کے انگوروں کے باغ میں ٹوٹ پڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ باہر نکلے تو ان کی اپنے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جس نے اپنی ڈھال پر انگور اٹھا رکھے تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا ارے میاں تم بھی۔ اس نے کہا امیر المؤمنین! ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے (کھانے کا اور سامان ہے نہیں) یہ سن کر حضرت عمرؓ واپس آگئے اور یہ حکم دیا کہ اس ذمی کو اس کے انگوروں کی قیمت ادا کی جائے۔<sup>۱</sup>

حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مسلمان اور یہودی اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے حضرت عمرؓ کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس پر اس یہودی نے کہا اللہ کی قسم! آپ نے حق کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے اسے (خوشی سے ہلکا سا) کوڑا مارا اور فرمایا تجھے کس طرح پتہ چلا (کہ حق کیا ہوتا ہے؟) اس یہودی نے کہا اللہ کی قسم! ہمیں تورات میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو قاضی حق کا فیصلہ کرتا ہے اس کے دائیں جانب ایک فرشتہ اور بائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے صحیح راستہ پر چلاتے ہیں اور اسے حق بات کا الہام کرتے ہیں جب تک وہ قاضی حق کا فیصلہ کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ جب وہ یہ عزم چھوڑ دیتا ہے تو دونوں فرشتے اسے چھوڑ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔<sup>۲</sup>

حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد (حضرت سلمہ) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب بازار سے گزرے۔ ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا۔ انہوں نے آہستہ سے وہ کوڑا مجھے مارا جو میرے کپڑے کے کنارے کو لگ گیا اور فرمایا راستہ سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہا اس سلمہ! کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں پھر میرا ہاتھ پکڑا کر اپنے گھر لے گئے اور مجھے چھ سو درہم دیئے اور کہا تمہیں اپنے سفر حج میں کام لے آنا اور یہ اس ہلکے سے کوڑے کے بدلہ میں ہیں جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا امیر المؤمنین! مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا لیکن میں تو اسے نہیں بھولا (یعنی میں نے مار تو دیا لیکن سارا سال کھٹکتا رہا)۔<sup>۳</sup>

۱۔ اخراجہ ابو عبیدہ کذا فی کنز العمال (ج ۲ ص ۲۹۹)

۲۔ اخراجہ مالک کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۴۵۵) ۳۔ اخراجہ الطبرانی (ج ۵ ص ۳۲)

## حضرت عثمان ذوالنورینؓ کا عدل و انصاف

حضرت ابو الفرات رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثمانؓ کا ایک غلام تھا آپ نے اس سے فرمایا میں نے ایک دفعہ تمہارا کان مروڑا تھا ہذا تم مجھ سے بدلہ لے لو چنانچہ اس نے آپ کا کان پکڑ لیا تو آپ نے اس سے فرمایا زور سے مروڑ۔ دنیا میں بدلہ دینا کتنا اچھا ہے۔ اب آخرت میں بدلہ نہیں دینا پڑے گا۔<sup>۱</sup>

حضرت نافع بن عبد الحارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو جمعہ کے دن دار الندوہ تشریف لے گئے (جہاں قریش مشورہ کیا کرتے تھے اور بعد میں یہ جگہ مسجد حرام میں شامل کر دی گئی) آپ کا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا نزدیک پڑے گا۔ آپ نے وہاں کمرے میں ایک کھوٹی پر اپنی چادر لٹکادی۔ اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا۔ آپ نے اسے اڑا دیا تو ایک سانپ اس کی طرف لپکا اور اسے مار ڈالا۔ جب آپ نماز جمعہ سے فارغ ہو گئے تو میں اور حضرت عثمان بن عفانؓ ان کے پاس آئے آپ نے کہا آج مجھ سے ایک کام ہو گیا ہے تم دونوں اس کام کے بارے میں میرے متعلق فیصلہ کرو آج میں اس گھر میں داخل ہوا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا نزدیک پڑے گا۔ میں نے اپنی چادر اس کھوٹی پر لٹکادی تو اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ یہ بیٹ کر کے کہیں چادر کو خراب نہ کر دے۔ اس لئے میں نے اسے اڑا دیا۔ وہ اڑ کر اس دوسری کھوٹی پر آ بیٹھا وہاں لپک کر ایک سانپ نے اسے پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اب میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ پہلے کھوٹی پر محفوظ تھا وہاں سے میں نے اسے اڑا دیا وہ اڑ کر اس دوسری کھوٹی پر آ گیا جہاں اسے موت آگئی یعنی میں ہی اس کے قتل کا سبب بنا ہوں۔ یہ سن کر میں نے حضرت عثمان سے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ امیر المؤمنین پر دو دانت والی سفید بھری دینے کا فیصلہ کر دیں؟ انہوں نے کہا میری بھی یہی رائے ہے چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس طرح کی بھری دینے کا حکم دیا۔<sup>۲</sup>

## حضرت علی مرتضیٰ کا عدل و انصاف

حضرت کلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علیؓ کے پاس اصمہان سے مال آیا آپ

۱۔ اخرجہ السمان فی الموافقة کذا فی الرياض النضرة فی مناقب العشرة للمحب الطبری (ج

۲ ص ۱۱۱) ۲۔ اخرجہ الامام الشافعی فی مسنده (ص ۴۷)

۳۔ اخرجہ البیهقی (ج ۶ ص ۳۴۸) کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۱۶) و اخرجہ ابن عبدالبر فی

الاستیعاب (ج ۳ ص ۴۹)

نے اسے سات حصوں میں تقسیم کیا۔ اس میں آپ کو ایک روٹی بھی ملی۔ آپ نے اس کے سات ٹکڑے کئے اور ہر حصہ پر ایک ٹکڑا رکھ دیا پھر لشکر کے ساتوں حصوں کے امیروں کو بلا دیا اور ان میں قرعہ اندازی کی تاکہ پتہ چلے کہ ان میں سے پہلے کس کو دیا جائے۔<sup>۱</sup>

حضرت عبداللہ ہاشمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں حضرت علیؓ کے پاس دو عورتیں مانگنے کے لئے آئیں ان میں سے ایک عربی تھی اور دوسری اس کی آزاد کردہ باندی تھی آپ نے حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک کُر (تقریباً ۶۳ من) غلہ اور چالیس درہم دیئے جائیں۔ اس آزاد شدہ باندی کو توجو ملا وہ اسے لے کر چلی گئی لیکن عربی عورت نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ نے اس کو جتنا دیا مجھے بھی اتنا ہی دیا حالانکہ میں عربی ہوں اور یہ آزاد کردہ باندی ہے اس سے حضرت علیؓ نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت غور سے دیکھا تو اس میں مجھے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو اولاد اسحاق علیہ السلام پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی۔<sup>۲</sup>

حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت جعدہ بن ہبیرہ نے حضرت علیؓ کی خدمت میں آکر کہا اے امیر المؤمنین! آپ کے پاس دو آدمی آئیں گے۔ ان میں سے ایک کو تو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے یا یوں کہا اپنے اہل عیال اور مال و دولت سے بھی زیادہ محبت ہے اور دوسرے کا بس چلے تو آپ کو ذبح کر دے۔ اس لئے آپ دوسرے کے خلاف پہلے کے حق میں فیصلہ کریں۔ اس پر حضرت علیؓ نے حضرت جعدہ کے سینہ پر مکہ مارا اور فرمایا اگر یہ فیصلے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لئے ہوتے تو میں ضرور ایسا کرتا لیکن یہ فیصلے تو اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہوتے ہیں (اس لئے میں تو حق کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اب وہ فیصلہ جس کے حق میں چاہے ہو جائے)۔<sup>۳</sup>

حضرت اصبح بن نباتہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت علی بن ابی طالبؓ کے ساتھ بازار گیا۔ آپ نے دیکھا کہ بازار والے اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بازار والے اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی جگہ بڑھا لینے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بازار نمازیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مسجد کی طرح ہوتا ہے لہذا جس جگہ کا کوئی مالک نہیں ہے وہاں پہلے آکر جو قبضہ کرے گا وہ جگہ

۱۔ اخراجہ البیہقی (ج ۶ ص ۳۴۹) عن عیسیٰ بن عبداللہ الهاشمی

۲۔ اخراجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۶۶)

۳۔ اخراجہ ابو عبید فی الاموال کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۷۶)



اس دن اسی کی ہوگی ہاں وہ خود اسے چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے تو اس کی مرضی۔ سہ ایک یہودی کے ساتھ حضرت علیؓ کا قصہ جلد اول صفحہ ۲۶۰ پر صحابہ کرامؓ کے ان اخلاق و اعمال کے قصوں میں گزر چکا ہے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔

## حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کا عدل و انصاف

حضرت لئن عمرؓ خیبر کے متعلق لمبی حدیث بیان کرتے ہیں اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ ہر سال اہل خیبر کے پاس جا کر درختوں پر لگی ہوئی کھجوروں اور بیلوں پر لگے ہوئے انگوروں کا اندازہ لگاتے کہ یہ کتنے ہیں؟ پھر جتنے پھل کا ان کو اندازہ ہوتا اس کے آدھے پھل کی ان پر ذمہ داری ڈال دیتے کہ اتنے کا آدھا پھل تمہیں دینا ہوگا۔ خیبر والوں نے حضور ﷺ سے ان کے اندازہ لگانے میں سختی کرنے کی شکایت کی اور وہ لوگ ان کو رشوت دینے لگے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے دشمنو! مجھے حرام کھلاتے ہو۔ اللہ کی قسم! میں تمہارے پاس اس آدمی کی طرف سے آیا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم لوگ مجھے بندروں اور خزیروں سے بھی زیادہ ہرے لگتے ہو لیکن تمہاری نفرت اور حضور ﷺ کی محبت مجھے تمہارے ساتھ نا انصافی کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں نے کہا اسی انصاف کی ہر گت سے زمین آسمان قائم ہیں۔

## حضرت مقداد بن اسودؓ کا عدل و انصاف

حضرت حارث بن سویدؓ فرماتے ہیں حضرت مقداد بن اسودؓ ایک لشکر میں گئے ہوئے تھے۔ دشمن نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ لشکر کے امیر نے حکم دیا کہ کوئی بھی اپنی سواری چرانے کے لئے لے کر نہ جائے۔ ایک آدمی کو امیر کے اس حکم کا پتہ نہ چلا وہ اپنی سواری لے کر چلا گیا جس پر امیر نے اسے مارا۔ وہ امیر کے پاس سے واپس آ کر کہنے لگا۔ جو سلوک آج میرے ساتھ ہوا ہے ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت مقدادؓ اس آدمی کے پاس سے واپس گزرے تو اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے اپنا قصہ سنایا۔ اس پر حضرت مقدادؓ نے تلوار گلے میں ڈالی اور اس کے ساتھ چل پڑے اور امیر کے پاس پہنچ کر اس سے کہا (آپ نے اسے بلا وجہ مارا ہے اس لئے) آپ اسے اپنی جان سے بدلہ دلوائیں وہ امیر بدلہ دینے کے لئے تیار ہو گئے۔ اس پر اس آدمی نے امیر کو معاف کر دیا۔ حضرت مقدادؓ یہ کہتے ہوئے واپس آئے

۱۔ اخرجه البيهقي كذا في البداية (ج ۴ ص ۱۹۹)

۲۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۷۶)

میں انشاء اللہ اس حال میں مروں گا کہ اسلام غالب ہوگا (کہ کمزور کو طاقتور سے بدلہ دلویا جا رہا ہوگا) ۱

## حضرات خلفاء کرامؓ کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا

حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک مرتبہ ایک پرندہ درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو (پرندے کو مخاطب کر کے) کہنے لگے اے پرندے! تمہیں خوشخبری ہو (تم کس قدر مزے میں ہو) اللہ کی قسم! میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح ہوتا۔ تم درختوں پر بیٹھے ہو۔ پھل کھاتے ہو۔ پھر اڑ جاتے ہو اور (قیامت کے دن) نہ تمہارا حساب ہوگا اور نہ تم پر کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم! میں چاہتا ہوں کہ میں راستہ کے کنارے کا ایک درخت ہوتا۔ میرے پاس سے کوئی لونٹ گزرتا مجھے پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا پھر وہ مجھے چباتا اور جلدی سے نکل لیتا اور پھر مجھے میٹگی بنا کر نکال دیتا اور میں انسان نہ ہوتا کہ حضرت ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک چڑیا کو دیکھا تو فرمانے لگے اے چڑیا! تجھے خوشخبری ہو۔ تو پھل کھاتی ہے اور درختوں پر اڑتی پھرتی ہے اور نہ تجھے حساب دینا پڑے گا اور نہ تجھے عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم! میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی دنبہ ہوتا۔ میرے گھر والے مجھے کھلا پلا کر موٹا کرتے اور جب میں خوب موٹا ہو جاتا تو وہ مجھے ذبح کرتے اور میرا کچھ حصہ بھون کر اور کچھ حصہ کی بوٹیاں بنا کر کھا جاتے اور پھر مجھے پاخانہ بنا کر بیت الخلاء میں پھینک دیتے اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ امام احمد نے کتاب زہد میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک مرتبہ فرمایا اے کاش! میں کسی مومن بندے کے پلو میں کوئی بال ہوتا۔ ۲

حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کاش میں اپنے گھر والوں کا دنبہ ہوتا۔ وہ مجھے کچھ عرصہ تک کھلا پلا کر موٹا کرتے رہتے۔ جب میں خوب موٹا ہو جاتا اور ان کا محبوب دوست ان کو ملنے آتا وہ (اس کی مہمانی کے لئے مجھے ذبح کرتے اور) میرے کچھ حصہ کو بھون کر اور کچھ حصہ کی بوٹیاں بنا کر کھا جاتے اور پھر مجھے پاخانہ بنا کر نکال

۱ اخراجہ ابن ابی شیبہ و ہناد و البیہقی ۱ عند ابن فتحویہ فی الوجہ

۲ کذا فی منتخب الکنز (ج ۴ ص ۳۶۱)

۳ اخراجہ ہناد و ابو نعیم فی الجلیبۃ (ج ۱ ص ۵۲)

دیئے اور میں انسان نہ ہوتا۔ ۴

حضرت عامر بن ربیعہؓ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطابؓ کو دیکھا کہ انہوں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا اے کاش! میں یہ تنکا ہوتا۔ کاش میں پیدا نہ ہوتا۔ کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ کاش میری ماں مجھے نہ جنتی اور کاش میں بالکل بھولا ہوا ہوتا۔

حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ فرمایا اگر آسمان سے کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ لوگو! ایک آدمی کے علاوہ باقی تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے تو مجھے (اپنے اعمال کی وجہ سے) ڈر ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا اور اگر کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگو! ایک آدمی کے علاوہ باقی تم سب کے سب دوزخ میں جاؤ گے تو مجھے (اللہ کے فضل سے) امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا (ایمان اسی خوف امید کے درمیان کی حالت کا نام ہے) ۵

حضرت لنن عمرؓ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمرؓ کی حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا اے ابو موسیٰ! کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تم نے حضور ﷺ کے ساتھ رہ کر جو عمل کئے ہیں وہ عمل تو تمہارے لئے صحیح سالم اور ٹھیک رہیں۔ (کہ ان کا اچھا بدلہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملے) اور تم نے حضور ﷺ کے بعد (خصوصاً امارت کے زمانہ میں) جو عمل کئے ہیں ان سے تم برابر برابر پر چھوٹ جاؤ۔ اس زمانہ کا خیر شر کے بدلہ میں اور شر خیر کے بدلہ میں ہو جائے۔ نہ کسی نیکی پر تمہیں ثواب ملے اور نہ کسی گناہ پر تمہاری پکڑ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا اے امیر المؤمنین! نہیں (بعد والے زمانہ کے اعمال سے برابر برابر پر چھوٹنے کے لئے میں تیار نہیں ہوں بلکہ مجھے تو اس زمانہ کے اچھے اعمال پر بڑے ثواب کی امید ہے کیونکہ اللہ کی قسم! جب میں بصرہ آیا تھا تو بصرہ والوں میں بد سلوکی اور اجڈ پن عام تھا۔ پھر میں نے ان کو قرآن اور سنت سکھایا۔ ان کو ساتھ لے کر اللہ کے راستہ میں جہاد کیا ان تمام اعمال کی وجہ سے مجھے اللہ کے فضل کی امید ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ حضور ﷺ کے بعد والے زمانہ (خصوصاً خلافت کے زمانہ) کے اعمال سے برابر برابر پر چھوٹ جاؤں اور اس زمانہ کا خیر شر کے بدلہ میں اور شر خیر کے بدلہ میں ہو جائے۔ نہ کسی عمل پر مجھے ثواب ملے اور نہ کسی گناہ پر سزا اور حضور ﷺ کے ساتھ

۴ ابن المبارک و ابن سعد و ابن ابی شیبہ و مسد ابن عساکر

۵ عند ابی نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۵۳)

رہ کر میں نے جو عمل کئے ہیں وہ میرے لئے صحیح سالم رہیں (ان کا اچھلدا لہ طے۔) ۱

حضرت لئن عباسؓ فرماتے ہیں جب حضرت عمرؓ پر نیزہ سے حملہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا اے امیر المؤمنین! آپ کو خوشخبری ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ کئی شہروں کو آباد کیا۔ نفاق کو ختم کیا اور آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لئے روزی کی خوب فراوانی کی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے لئن عباس! کیا امارت کے بارے میں تم میری تعریف کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو دوسرے کاموں میں بھی آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں تو یہ چاہتا ہوں کہ امارت میں جیسا داخل ہوا تھا اس میں سے ویسا ہی نکل آؤں۔ نہ کسی اچھے عمل پر مجھے ثواب ملے اور نہ کسی برے عمل پر سزا لہ لئن سعد نے حضرت لئن عباسؓ سے یہی حدیث ایک اور سند سے نقل کی ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے حضرت عمرؓ سے کہا آپ کو جنت کی بھارت ہو۔ آپ حضور ﷺ کی صحبت میں رہے اور بڑے لمبے عرصہ تک ان کی صحبت میں رہے اور پھر آپ مسلمانوں کے امیر بنائے گئے تو آپ نے مسلمانوں کو خوب قوت پہنچائی اور امانت صحیح طور سے ادا کی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم نے مجھے جنت کی بھارت دی ہے تو اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے! اگر ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب مجھے مل جائے تو اس وقت میرے سامنے آخرت کا جو وہشت ناگ منظر ہے اس سے بچنے کے لئے میں وہ سب کچھ یہ جاننے سے پہلے ہی فدیہ میں دے دوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تم نے مسلمانوں کے امیر بننے کا بھی ذکر کیا ہے تو اللہ کی قسم! میں یہ چاہتا ہوں کہ امارت برابر برابر رہے نہ ثواب ملے اور نہ سزا۔ اور تم نے حضور ﷺ کی صحبت کا بھی ذکر کیا ہے تو یہ ہے امید کی چیز لہ لئن سعد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ۔ جب بیٹھ گئے تو حضرت لئن عباسؓ سے فرمایا اپنی بات دوبارہ کہو۔ انہوں نے دوبارہ کہی تو فرمایا اللہ سے ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن کیا تم اللہ کے سامنے ان تمام باتوں کی گواہی دے دو گے؟ حضرت لئن عباسؓ نے عرض کیا جی ہاں۔ اس سے حضرت عمرؓ خوش ہو گئے اور ان کو یہ بات بہت پسند آئی۔ ۲

۱ عبد ابن عسا کر کذا فی منتخب الكنز (ج ۴ ص ۴۰۱)

۲ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۵۲) واخرجه الطبرانی من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی حدیث طویل و ابو یعلیٰ كذلك عن ابی رافع کما فی المجمع (ج ۹ ص ۷۶) واخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۲۵۴) عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بنحوہ  
 ۳ اخرجه ابن سعد ایضا (ج ۳ ص ۲۵۶) من طریق آخر عنہ  
 ۴ اخرجه ابن سعد ایضا (ج ۳ ص ۲۵۷) من حدیث عبد اللہ بن عبید بن عمیر مطولا .

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں مرض الوفا میں حضرت عمرؓ کا سر میری ران پر رکھا ہوا تھا تو مجھ سے انہوں نے کہا میرا سر زمین پر رکھ دو۔ میں نے کہا آپ کا سر میری ران پر رہے یا زمین پر۔ اس میں آپ کا کیا حرج ہے؟ فرمایا نہیں۔ زمین پر رکھ دو۔ چنانچہ میں نے زمین پر رکھ دیا تو فرمایا اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میری بھی ہلاکت ہے اور میری ماں کی بھی، اور حضرت مسور کہتے ہیں جب حضرت عمرؓ کو نیزہ مارا گیا تو فرمایا اگر مجھے اتنا سونا مل جائے جس سے ساری زمین بھر جائے تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے ہی اس سے بچنے کے لئے وہ سارا سونا فدیہ میں دے دوں۔<sup>۱</sup>

### کیا امیر کسی کی ملامت سے ڈرے؟

حضرت سائب بن یزیدؓ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطابؓ سے پوچھا کہ میرے لئے اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا بہتر ہے یا اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ رہنا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جو مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا ہو اسے تو اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہئے۔ اور جو اجتماعی ذمہ داری سے فارغ ہو اسے اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ رہنا چاہئے۔ البتہ اپنے امیر کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھے۔<sup>۲</sup>

### حضرات خلفاء کرام کا دیگر خلفاء و امراء کو وصیت کرنا

#### حضرت ابو بکرؓ کا حضرت عمرؓ کو وصیت کرنا

حضرت اغر۔ اغر بنی مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو خلیفہ بنانا چاہا تو انہوں نے آدمی بھیج کر حضرت عمرؓ کو بلایا۔ جب وہ آگے تو ان سے فرمایا:

”میں تمہیں ایک ایسے کام کی طرف بلانے لگا ہوں کہ جو بھی اس کی ذمہ داری اٹھائے گا یہ کام اسے تمہا دے گا لہذا اے عمر! اللہ کی اطاعت کے ذریعہ تم اس سے ڈرو اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرو۔ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا ہی (ہر خوف سے) امن میں ہوتا ہے اور (ہر شر اور مصیبت سے) محفوظ ہوتا ہے۔ پھر اس امر خلافت کا حساب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہو گا اور اس کام کا مستحق صرف وہی ہے جو اس کا حق ادا کر سکے اور جو دوسروں کو حق کا

۱ عند ابی نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۵۲)

۲ اخرجه البیهقی کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۶۴)

حکم دے اور خود باطل پر عمل کرے اور نیکی کا حکم کرے اور خود برائی پر عمل کرے اس کی کوئی امید پوری نہ ہو سکے گی اور اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے (وہ اعمال آخرت میں اس کے نکلنے آئیں گے) لہذا اگر تم پر مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری ڈال دی جائے تو پھر تم اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے دور رکھ سکو اور اپنے پیٹ کو ان کے مال سے خالی رکھ سکو اور ان کی آبروریزی سے اپنی زبان کو چھاسکو تو ضرور ایسے کرنا اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی سے ملتی ہے“

حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکرؓ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ وصیت نامہ لکھوایا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”یہ ابو بکر صدیقؓ کی طرف سے وصیت ہے (اور وہ یہ وصیت نامہ اس وقت کر رہے ہیں) جب کہ ان کا اس دنیا میں آخری وقت آ گیا ہے اور وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کی آخرت شروع ہو رہی ہے جس میں وہ داخل ہو رہے ہیں اور یہ موت کا وقت ایسا ہے کہ جس وقت کافر بھی غیب پر ایمان لے آتا ہے اور فاسق و فاجر بھی متقی بن جاتا ہے اور جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگ جاتا ہے۔ میں نے اپنے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ بنا دیا ہے۔ اگر وہ عدل و انصاف سے کام لیں تو ان کے بادے میں میرا گمان یہی ہے۔ اور اگر وہ ظلم کریں اور بدل جائیں تو (اس کا وبال ان پر ہی ہو گا اور ان کو خلیفہ بنانے سے) میرا ارادہ خیر کا ہی ہے اور مجھے غیب کا علم نہیں۔ ظالموں کو عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ظلم کا انجام کیا ہو گا اور وہ کس برسے ٹھکانہ کی طرف لوٹنے والے ہیں؟“

پھر انہوں نے آدمی بھیج کر حضرت عمرؓ کو بلایا اور ان کو زبانی یہ وصیت فرمائی:

”اے عمرؓ! کچھ لوگ تم سے بغض رکھتے ہیں اور کچھ تم سے محبت کرتے ہیں پر انے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ خیر کو برا سمجھا جاتا ہے اور شر کو پسند کیا جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا پھر تو مجھے خلافت کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا لیکن خلافت کو تمہاری ضرورت ہے۔ کیونکہ تم نے حضور ﷺ کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ رہے ہو۔ اور تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حضور ﷺ ہمیں اپنی ذات پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ حضور ﷺ کی

۱۔ أخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۵ ص ۱۹۸) والا غرلم یدرك ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
وبقوله رجاله ثقات انتهى وقال الحافظ المنذرى فى الترغیب (ج ۴ ص ۱۵) ورواه ثقات الا ان  
فيه انقطاعا انتهى.

طرف سے ہمیں جو ملتا تھا ہم اسے استعمال کرتے اور پھر اس میں سے جو بچ جاتا وہ ہم حضور ﷺ کے گھر والوں کو بھیج دیا کرتے (یعنی حضور ﷺ اپنے گھر والوں کو پہلے نہ دیتے بلکہ ان پر ترجیح دیتے ہوئے پہلے ہمیں دیتے) اور پھر تم نے مجھے بھی دیکھا ہے اور میرے ساتھ بھی رہے ہو، اور میں نے اپنے سے پہلے والے کی یعنی حضور ﷺ کی اتباع کی ہے۔ اللہ کی قسم! یہ بات نہیں ہے کہ میں سو رہا ہوں اور خواب میں تم سے باتیں کر رہا ہوں یا کسی وہم کے طور پر تمہارے سامنے شہادتیں دے رہا ہوں اور میں نے (سوچ سمجھ کر) جو راستہ اختیار کیا ہے اس سے اوھر اوھر نہیں ہٹا ہوں۔“

”اے عمر! اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ رات میں اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ایسے ہیں جنہیں وہ دن میں قبول نہیں کرتے ہیں اور دن میں کچھ حقوق اللہ کے ایسے ہیں جن کو وہ رات میں قبول نہیں کرتے ہیں (یعنی انسان دن میں انسانوں پر محنت کرے اور مسلمانوں کے اجتماعی کام میں لگا رہے اور رات کو کچھ وقت اللہ کی عبادت ذکر و تلاوت اور دعائیں مشغول رہے۔ دن و رات کی یہ ترتیب اللہ نے مقرر فرمائی ہے) اور قیامت کے دن صرف حق کے اتباع کرنے کی وجہ سے ہی اعمال کا ترازو بھاری ہو گا اور جس ترازو میں صرف حق ہی ہو اس کا بھاری ہونا ضروری ہے اور قیامت کے دن صرف باطل کے اتباع کرنے کی وجہ سے ہی ترازو ہلکا ہو گا اور جس ترازو میں صرف باطل ہی ہو اس کا ہلکا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تمہیں تمہارے اپنے نفس سے ڈرنا ہوں۔ پھر لوگوں سے ڈرنا ہوں۔ کیونکہ لوگوں کی نگاہیں (لاج کی وجہ سے) جھانکنے لگ گئی ہیں اور ان کی نفسانی خواہشات پھول گئی ہیں۔ یعنی زور پکڑ چکی ہیں لیکن جب ان خرابیوں کی وجہ سے انہیں ذلت اٹھانی پڑے گی تو اس وقت وہ حیران و پریشان ہوں گے۔ کیونکہ جب تک تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اس وقت تک وہ لوگ تم سے ڈرتے رہیں گے۔ یہ میری وصیت ہے میری طرف سے تمہیں سلام“

حضرت عبدالرحمن بن سابط، حضرت زید بن زید بن حارث اور حضرت مجاہدؓ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکرؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمرؓ کو بلا کر ان سے یہ فرمایا:

”اے عمر! اللہ سے ڈرتے رہنا اور تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے (انسانوں کے ذمہ) دن میں کچھ ایسے عمل ہیں جن کو وہ رات کو قبول نہیں کرتے ہیں اور ایسے ہی اللہ کی طرف سے (انسانوں کے ذمہ) رات میں کچھ عمل ایسے ہیں جن کو وہ دن میں

قبول نہیں کرتے اور جب تک فرض ادا نہ کیا جائے اس وقت تک اللہ نفل قبول نہیں کرتے۔ دنیا میں حق کا اتباع کرنے اور حق کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ہی قیامت کے دن اعمال کا ترازو بھاری ہوگا۔ کل جس ترازو میں حق رکھا جائے اسے بھاری ہونا ہی چاہئے اور دنیا میں باطل کا اتباع کرنے اور باطل کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے ہی قیامت کے دن ترازو ہلکا ہوگا اور کل جس ترازو میں باطل رکھا جائے اسے ہلکا ہونا ہی چاہئے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت والوں کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے سب سے اچھے اعمال کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان کے برے اعمال سے درگزر فرمایا ہے۔ میں جب بھی جنت والوں کا ذکر کرتا ہوں تو کہتا ہوں مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید میں ان میں شامل نہ ہو سکوں اور اللہ تعالیٰ نے جہاں دوزخ والوں کو ذکر کیا ہے وہاں ان کو سب سے برے اعمال کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور ان کے اچھے اعمال کو ان پر رد کر دیا ہے۔ یعنی ان کو قبول نہیں فرمایا۔ میں جب بھی دوزخ والوں کا ذکر کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید میں ان ہی کے ساتھ ہوں گا اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی آیت بھی ذکر فرمائی ہے اور عذاب کی آیت بھی۔ لہذا بندے کو رحمت کا شوق اور عذاب کا ڈر ہونا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے غلط امیدیں نہ باندھے (کہ عمل تو اچھے نہ کرے اور امید جنت کی رکھے) اور اس کی رحمت سے اتنا امید بھی نہ ہو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اگر تم نے میری یہ وصیت یاد رکھی (اور اس پر اچھی طرح عمل کیا) تو کوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ محبوب نہ ہوگی اور تمہیں موت آکر رہے گی اور اگر تم نے میری وصیت ضائع کر دی (اور اس پر عمل نہ کیا) تو کوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ بری نہیں لگے گی اور وہ موت تمہیں پکڑ کر رہے گی۔ تم اس سے بچ نہیں سکتے“

## حضرت ابو بکرؓ کا حضرت عمرو بن عاصؓ

### اور دیگر صحابہ کرام کو وصیت کرنا

حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزمؓ کہتے ہیں حضرت ابو بکرؓ نے شام بھجے کیلئے لشکروں کو جمع کرنے کا ارادہ فرمایا (چنانچہ لشکر جمع ہو گئے اور) ان کے مقرر کردہ امیروں میں



سب سے پہلے حضرت عمرو بن عاصؓ روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکرؓ نے ان کو حکم دیا کہ فلسطین جانے کے ارادے سے وہ ایلیہ شہر سے گزریں اور حضرت عمرؓ کا لشکر جو مدینہ سے چلا تھا اس کی تعداد تین ہزار تھی۔ اس میں حضرات مہاجرین اور انصار کی بڑی تعداد تھی۔ (جب یہ لشکر روانہ ہوا تو ان کو رخصت کرنے کیلئے) حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرو بن عاصؓ کی سواری کے ساتھ چل رہے تھے اور ان کو ہدایت دیتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے:

”اے عمرؓ! اپنے ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہے وہ کام چھپ کر کرو یا سب کے سامنے، اور اللہ سے شرم کرنا کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے تمام کاموں کو دیکھتا ہے اور تم دیکھ چکے ہو کہ میں نے تم کو (امیر بنا کر) ان لوگوں سے آگے کر دیا ہے جو تم سے زیادہ پرانے ہیں اور تم سے پہلے اسلام لائے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے لئے تم سے زیادہ مفید ہیں۔ تم آخرت کے لئے کام کرنے والے ہو اور تم جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کی نیت سے کرو اور جو مسلمان تمہارے ساتھ جا رہے ہیں تم ان کے ساتھ والد کی طرح شفقت کا معاملہ کرنا۔ لوگوں کی اندر کی باتوں کو ہرگز نہ کھولنا بلکہ ان کے ظاہری اعمال پر اکتفاء کر لینا اور اپنے کام میں پوری محنت کرنا اور دشمن سے مقابلہ کے وقت جم کر لڑنا۔ اور بزدل نہ بننا اور مال غنیمت میں اگر خیانت ہونے لگے تو اس (خیانت کو جلدی سے آگے بڑھ کر روک دینا۔ اور اس پر سزا دینا اور جب تم اپنے ساتھیوں میں بیان کرو تو مختصر کرنا۔ تم اپنے آپ کو ٹھیک رکھو تو تمہارے سارے مامور تمہارے ساتھ ٹھیک چلیں گے“

حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ اور حضرت ولید بن عقبہؓ کو خط لکھا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک قبیلہ قضاہ کے آدھے صدقات وصول کرنے پر مقرر تھا۔ جب حضرت ابو بکرؓ نے صدقات وصول کرنے کے لئے ان دونوں حضرات کو بھیجا تھا تو ان دونوں کو رخصت کرنے کے لئے ان کے ساتھ باہر آئے تھے اور ان دونوں کو ایک ہی وصیت فرمائی تھی کہ:

”ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے (ہر) مشکل اور پریشانی اور سختی سے) نکلنے کا راستہ ضرور بنا دے گا اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے روزی ملنے کا گمان بھی نہ ہو گا۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ اللہ کے بندے جس اعمال کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں ان

میں سب سے بہترین اللہ کا ڈر ہے۔ تم اس وقت اللہ کے راستوں میں سے ایک راستہ میں ہو۔ تمہارے اس کام میں حق کی کسی بات پر چشم پوشی کرنے کی اور کسی کام میں کوتاہی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جس کام میں تمہارے دین کی درستگی ہے اور تمہارے کام کی ہر طرح حفاظت ہے اس کام سے غفلت برتنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا است نہ پڑنا اور کوتاہی نہ کرنا“<sup>۱</sup>

حضرت مطلب بن سائب بن ابی وداعہؓ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت عمرو بن عاصؓ کو یہ خط لکھا:

”میں نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو خط لکھا ہے کہ وہ تمہاری مدد کیلئے تمہارے پاس چلے جائیں۔ جب وہ تمہارے پاس آجائیں تو تم ان کے ساتھ اچھی طرح رہنا۔ اور ان سے بڑے بیٹے کی کوشش نہ کرنا چونکہ میں نے تم کو (امیر بنا کر) حضرت خالد بن ولید اور دیگر حضرات سے آگے کر دیا ہے اسلئے تم ان (کے مشورہ) کے بغیر کسی کام میں فیصلہ نہ کرنا اور ان سے مشورہ لیتے رہنا اور ان کی مخالفت نہ کرنا۔“<sup>۲</sup>

حضرت عبدالحمید جعفر اپنے والد جعفر سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرو بن عاصؓ سے فرمایا:

”قبیلہ بلی، قبیلہ عذرہ اور قبیلہ قضاعہ کی دوسری شاخوں کے جن لوگوں کے پاس سے تم گزرو اور وہاں جو عرب آباد ہیں میں نے تم کو ان سب کا امیر بنایا ہے۔ ان سب کو اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کی دعوت دینا اور اسکی خوب ترغیب دینا۔ لہذا ان میں سے جو تمہارے ساتھ چل پڑے اسے سواری اور توشہ دینا اور ان کا آپس میں جوڑ قائم رکھنا ہر قبیلہ کو الگ رکھنا اور ہر قبیلہ کو اس کے درجہ پر رکھنا۔“<sup>۳</sup>

## حضرت ابو بکر صدیقؓ کا

### حضرت شمر حبیل بن حسنہؓ کو وصیت کرنا

حضرت محمد بن ابی ہریرہؓ نے فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکرؓ نے حضرت خالد بن سعید بن عاصؓ کو امارت سے معزول کیا تو انہوں نے حضرت شمر حبیل بن حسنہؓ کو حضرت خالد

<sup>۱</sup> اخراجہ بن جریر الطبری (ج ۴ ص ۲۹) و اخراجہ ایضا ابن عساکر (ج ۱ ص ۱۳۲)

<sup>۲</sup> عن القاسم بنحوہ <sup>۳</sup> اخراجہ ابن سعد کذا فی کنز العمال (ج ۳ ص ۱۳۳)

<sup>۳</sup> اخراجہ ابن سعد کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۱۳۳) و اخراجہ ابن عساکر (ج ۱ ص ۱۲۹)

بن سعید کے بارے میں یہ وصیت فرمائی اور شرح جلیل بھی (حضرت ابو بکرؓ کے) ایک امیر تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا:

”حضرت خالد بن سعید کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان کا اپنے لو پر اسی طرح حق پہچانا جس طرح ان کے امیر ہونے کی صورت میں تم ان سے اپنے حق کے پہچاننے کو پسند کرتے اور تم ان کا اسلام میں مرتبہ پہچان ہی چکے ہو اور جب حضور ﷺ کا انتقال ہوا اس وقت وہ حضور ﷺ کی طرف سے (فلاں قبیلہ کے) گورنر تھے اور میں نے بھی ان کو امیر بنایا تھا۔ پھر میں نے ان کو اس ذمہ داری سے ہٹانا مناسب سمجھا اور غالباً یہی دینی اعتبار سے ان کے لئے زیادہ بہتر ہوگا۔ میں کسی کی امداد پر حسد نہیں کرتا۔ میں نے ان کو لشکروں کے امیروں کے بارے میں اختیار دیا تھا (کہ وہ جس امیر کو چاہیں اپنے لئے پسند کر لیں) انہوں نے دوسرے امیروں کو اور اپنے چچا زاد بھائی کو چھوڑ کر تمہیں اختیار کیا ہے۔ جب تمہیں کوئی ایسا کام پیش آئے جس میں کسی متقی اور خیر خواہ آدمی کی رائے کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل سے مشورہ لینا اور ان دو کے بعد تیسرے حضرت خالد بن سعید ہوں کیونکہ تمہیں ان تینوں حضرات کے پاس خیر خوانی اور خیر ہی ملے گی اور ان حضرات سے مشورہ کے بغیر صرف اپنی رائے پر عمل نہ کرنا اور ان سے کچھ بھی نہ چھپانا“

## حضرت ابو بکر صدیقؓ کا

### حضرت یزید بن ابی سفیانؓ کو وصیت کرنا

حضرت حارث بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکرؓ نے حضرت یزید بن ابی سفیانؓ کو لشکر کا جھنڈا دیا یعنی ان کو لشکر کا امیر بنایا تو ان سے فرمایا:

”اے یزید! تم جو ان ہو۔ ایک نیک عمل کی وجہ سے تمہارا ذکر خیر ہوتا ہے جو لوگوں نے تمہیں کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ ایک انفرادی عمل ہے جو تم نے تمہاری میں کیا تھا اور میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ میں تمہیں (امیر بنا کر) آزماؤں اور تمہیں گھر والوں سے نکال کر باہر بھجوں اور دیکھوں کہ تم کیسے ہو؟ اور تمہاری امداد کیسی ہے؟ بہر حال میں تمہیں آزمانے لگا ہوں۔ اگر تم نے (امداد کو) اچھی طرح سنبھالا تو تمہیں ترقی دوں گا اور اگر تم ٹھیک طرح نہ سنبھال سکے تو میں تمہیں معزول کر دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید والے کام کا میں نے تم کو ذمہ دار بنا دیا ہے۔“

پھر اس سفر میں حضرت یزید نے جو کچھ کرنا تھا اس کے بارے میں حضرت ابو بکر نے ان کو ہدایت دیں اور یوں فرمایا۔

”میں تمہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کرتا ہوں کیونکہ تم جانتے ہو کہ اسلام میں ان کا بڑا مقام ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ان کے فضائل اور دینی سبقت کا لحاظ رکھنا اور ایسے ہی حضرت معاذ بن جبل کا بھی خیال رکھنا۔ تم جانتے ہو کہ وہ حضور ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ہیں اور حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ (قیامت کے دن) حضرت معاذ بن جبل علماء کے آگے ایک اونچی جگہ پر چلتے ہوئے آئیں گے یعنی اس دن علمی فضیلت کی وجہ سے ان کی ایک امتیازی شان ہوگی۔ ان دونوں کے مشورہ کے بغیر کسی کام کا فیصلہ نہ کرنا اور یہ دونوں بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرنے میں ہرگز کوئی کمی نہیں کریں گے۔“

حضرت یزید نے کہا اے رسول اللہ کے خلیفہ! جیسے آپ نے مجھے ان دونوں کے بارے میں تاکید فرمائی ہے ایسے ہی ان دونوں کو میرے بارے میں تاکید فرمادیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں ان دونوں کو تمہارے بارے میں ضرور تاکید کروں گا۔ حضرت یزید نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے اور اسلام کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔

حضرت یزید بن ابی سفیان فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر نے مجھے ملک شام بھیجا تو یوں فرمایا:

”اے یزید! تمہارے بہت سے رشتہ دار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم امیر بنانے میں ان رشتہ داروں کو دوسروں پر ترجیح دے دو۔ مجھے تم سے سب سے زیادہ اسی بات کا ڈر ہے لیکن غور سے سنو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنا اور پھر اس نے ذاتی میدان کی وجہ سے کسی غیر مستحق کو مسلمانوں کا امیر بنا دیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس سے نہ کوئی نفل عبادت قبول فرمائیں گے اور نہ فرض بلکہ اسے جہنم میں داخل کریں گے اور جس نے ذاتی تعلق کی وجہ سے کسی غیر مستحق کو اپنے بھائی کا مال دے دیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی یا فرمایا! اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ اللہ کی حمایت اور حفاظت میں آجائیں۔ اب جو اللہ کی حمایت اور حفاظت میں آچکا ہے اس کو جو ناحق بے عزت کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی

فرمایا اللہ کا ذمہ اس سے سہی ہو جائے گا۔“ ل

## حضرت عمر بن خطابؓ کا اپنے بعد

### ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرنا

حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کا حق پہچانے اور ان کی عزت و احترام کا خیال کرے اور جو انصار دار ہجرت اور دار ایمان یعنی مدینہ منورہ میں مہاجرین سے پہلے رہتے تھے ان کے بارے میں بھی اسے وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے نیک آدمیوں سے قبول کرتا رہے اور ان کے بدوں کو معاف کرتا رہے اور میں اسے شہریوں کے بارے میں بھی بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ اسلام کے مددگار لوگوں سے (فرض زکوٰۃ و صدقات کا) مال جمع کرنے والے (اور امیر کو لا کر دینے والے) اور دشمن کے غصہ کا سبب بننے والے ہیں ایسے شہریوں سے صرف (ضرورت سے) زائد مال ان کی رضامندی سے لیا جائے اور میں اسے دیہاتیوں کے بارے میں بھی بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ عرب کا اصل اور اسلام کی جڑ ہیں۔ وہ خلیفہ ایسے دیہاتیوں کے جانوروں میں صرف کم عمر کے جانور لے اور ان سے لے کر ان کے فقیروں میں تقسیم کر دے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے ان دیہاتیوں کے لئے جو عہد اور ذمہ داری خلیفہ پر عائد ہوتی ہے وہ اسے پوری طرح سے ادا کرے اور ان دیہاتیوں کے بعد والے علاقہ میں جو (دشمن اور کافر) رہتے ہیں ان سے یہ خلیفہ جنگ کرے اور ان دیہاتیوں کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مکلف نہ بنائے۔“ ل

حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا:

”میرے بعد جو اس امر خلافت کا والی بنے اسے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ میرے بعد بہت سے دور اور نزدیک کے لوگ اس سے خلافت لینا چاہیں گے (میرے بعد والے زمانہ میں

ل اخرجہ احمد و الحاکم و منصور بن شعبۃ البغدادی فی الاربعین وقال حسن المتن غریب لا سناد قال ابن کثیر لیس بهذا الحدیث فی شی من الکتب الستة و کانہم اعرضوا عنه لجهالة شیخ بقیة قال و الذی یقع فی القلب صحة هذا الحدیث فان الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ كذلك فعل ولی علی المسلمین خیر ہم بعدہ کذا فی کنز العمال (۳ ص ۱۲۳) وقال الہیثمی (ج ۵

ص ۲۳۲) رواہ احمد و فیہ رجل لم یسم انتہی.

ل اخرجہ ابن ابی شیبۃ و ابو عبید فی الاموال و ابو یعلیٰ و النسائی و ابن حبان و البیہقی

لوگوں میں امارت کی طلب پیدا ہو جائے گی میرے زمانہ میں لوگوں میں یہ امارت کی طلب بالکل نہیں ہے اس لئے) میں تو لوگوں سے اس بات پر بہت جھگڑتا ہوں کہ وہ کسی اور کو خلیفہ بنا کر مجھے اس سے نجات دے دیں (اور میں صرف اس وجہ سے خلیفہ بنا ہوا ہوں کہ مجھے اپنے سے زیادہ مضبوطی اور قوت سے امر خلافت کو سنبھالنے والا کوئی نظر نہیں آتا) اگر میرے علم میں کوئی آدمی ایسا ہو جو اس امر خلافت کو مجھ سے زیادہ مضبوطی اور قوت سے سنبھال سکے تو (میں ایک لمحہ کے لئے خلیفہ نہ ہوں بلکہ اسے ہی بنا دوں کیونکہ) ایسے آدمی کی موجودگی میں خلیفہ بننے سے مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ آگے کر کے میری گردن اڑا دی جائے۔“۱

## حضرت عمر بن خطابؓ کا

### حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کو وصیت کرنا

حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمرؓ نے پہلا خط جو حضرت ابو عبیدہؓ کو لکھا جس میں انہوں نے حضرت ابو عبیدہؓ کو حضرت خالدؓ کے لشکر کا امیر بنایا اس میں یہ مضمون تھا:

”میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو کہ باقی رہے گا اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی اور اسی نے ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت دی اور وہی اندھیروں سے نکال کر ہمیں نور کی طرف لے آیا۔ میں نے تمہیں خالد بن ولید کے لشکر کا امیر بنادیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے جو کام تمہارے ذمہ ہیں ان کو تم پورا کرو اور مال غنیمت کی امید میں مسلمانوں کو ہلاکت کی جگہ نہ لے جاؤ۔ کسی جگہ پڑاؤ کرنے سے پہلے آدمی بھج کر مسلمانوں کے لئے مناسب جگہ تلاش کر لو اور یہ بھی معلوم کر لو کہ اس جگہ پہنچنے کا راستہ کیسا ہے؟ اور جب بھی کوئی جماعت بھجے تو پھر پور جماعت بنا کر بھجے (تھوڑے آدمی نہ بھجے) اور مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ذریعہ اور مجھے تمہارے ذریعہ سے آزما رہے ہیں۔ اپنی آنکھیں دنیا سے بند رکھو اور اپنا دل اس سے ہٹالو۔ اس کا خیال رکھو کہ کہیں دنیا (کی محبت) تمہیں ہلاک نہ کر دے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر چکی ہے اور تم ان لوگوں کی ہلاکت کی جگہیں دیکھ چکے ہو۔“۲

۱۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۹۷) و ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۴۷)

۲۔ اخراجہ ابن جریر (ج ۳ ص ۹۲)

## حضرت عمر بن خطابؓ کا

### حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو وصیت کرنا

حضرت محمد اور حضرت طلحہ رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے پیغام بھیج کر حضرت سعدؓ کو بلا لیا۔ جب وہ آگئے تو حضرت عمرؓ نے ان کو عراق کی لڑائی کا امیر بنایا اور ان کو یہ وصیت فرمائی:

”اے سعد! اے قبیلہ بنو وہیب کے سعد! تم اللہ سے اس بات سے دھوکہ میں نہ پڑ جانا کہ لوگ تمہیں رسول اللہ ﷺ کا ماموں اور صحابی کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کو اچھائی سے مٹاتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کے علاوہ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بڑے خاندان کے لوگ اور چھوٹے خاندان کے لوگ سب برابر ہیں۔ اللہ ان سب کے رب ہیں اور وہ سب اس کے بندے ہیں جو عافیت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے نظر آتے ہیں لیکن یہ بندے اللہ کے انعامات اطاعت سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تم نے حضور ﷺ کو بعثت سے لے کر ہم سے جدا ہونے تک جس کام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کام کو غور سے دیکھنا اور اس کی پابندی کرنا کیونکہ یہی اصل کام ہے یہ میری تمہیں خاص نصیحت ہے۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی طرف توجہ نہ دی تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔“

”میں نے تمہیں عراق کی لڑائی کا امیر بنایا ہے لہذا تم میری وصیت یاد رکھو تم ایسے کام کے لئے آگے جا رہے ہو جو سخت دشوار بھی ہے اور طبیعت کے خلاف بھی ہے۔ حق پر چل کر ہی تم اس سے خلاصی پاسکتے ہو۔ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بھلائی کا عادی بناؤ اور بھلائی کے ذریعہ ہی مدد طلب کرو۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ہر اچھی عادت حاصل کرنے کیلئے کوئی چیز ذریعہ بنا کر کرنی ہے۔ بھلائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ صبر ہے۔ ہر مصیبت اور ہر مشکل میں ضرور صبر کرنا اس طرح تمہیں اللہ کا خوف حاصل ہو گا اور تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ کا خوف دوباتوں سے حاصل ہوتا ہے ایک اللہ کی اطاعت سے دوسرے اس کی نافرمانی سے چھنے سے جس کو دنیا سے نفرت ہو اور آخرت سے محبت ہو وہی آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جسے دنیا سے محبت اور آخرت سے نفرت ہو وہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کچھ حقیقتیں پیدا کرتے ہیں ان میں سے بعض چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض ظاہر ایک

ظاہری حقیقت یہ ہے کہ حق بات کے بارے میں اس کی تعریف کرنے والا اور اسے برا کہنے والا دونوں اس کے نزدیک برابر ہوں (کہ حق بات پر چلنے سے مقصود اللہ کا راضی ہونا ہے۔ لوگ چاہے برا کہیں یا تعریف کریں اس سے کوئی اثر نہ لے) اور چھپی ہوئی حقیقتیں دو نشانیوں سے پہچانی جاتی ہیں ایک یہ ہے کہ حکمت و معرفت کی باتیں اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہونے لگیں۔ دوسری یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگیں۔ لہذا لوگوں کے محبوب بننے سے بے رغبتی اختیار نہ کرو (بلکہ اسے اپنے لئے اچھی چیز سمجھو) کیونکہ انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کی محبت اللہ سے مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ جب بندہ سے محبت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور جب کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا فرما دیتے ہیں۔ لہذا جو لوگ تمہارے ساتھ دن رات بیٹھتے ہیں ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں (محبت یا نفرت کا) جو جذبہ ہے تم اللہ کے ہاں بھی اپنے لئے وہی سمجھ لو۔“

## حضرت عمر بن خطابؓ کا حضرت

### عتبہ بن غزو انؓ کو وصیت کرنا

حضرت عمیر بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمرؓ نے حضرت عتبہ بن غزو انؓ کو بصرہ بھیجا تو ان سے فرمایا:

”اے عتبہ! میں نے تمہیں ہند کی زمین کا گورنر بنا دیا ہے (چونکہ بصرہ خلیج کے ساحل پر واقع ہے اور یہ خلیج ہند کی زمین تک پہنچ جاتی ہے اس وجہ سے بصرہ کو ہند کی زمین کہہ دیا) اور یہ دشمن کی سخت جگہوں میں سے ایک سخت جگہ ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ارد گرد کے علاقہ سے تمہاری کفایت فرمائے گا اور وہاں والوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ میں نے حضرت علاء بن حضرمی کو خط لکھا ہے کہ وہ تمہاری مدد کے لئے حضرت عرفجہ بن ہرثمہ کو بھیج دیں۔ یہ دشمن سے سخت جنگ کرنے والے اور اس کے خلاف زبردست تدبیریں کرنے والے ہیں۔ جب وہ تمہارے پاس آجائیں تو تم ان سے مشورہ کرنا اور ان کو اپنے قریب کرنا۔ پھر (بصرہ والوں کو) اللہ کی طرف دعوت دینا۔ جو تمہاری دعوت کو قبول کر لے تم اس سے اس کے اسلام کو قبول کر لینا اور جو (اسلام کی دعوت سے) انکار کرے تو اسے ذلیل اور چھوٹا



بن کر جزیہ ادا کرنے کی دعوت دینا۔ اگر وہ اسے بھی نہ مانے تو پھر تلوار لے کر اس سے لڑنا اور اس کے ساتھ نرمی نہ برتنا اور جس کام کی ذمہ داری تمہیں دی گئی اس میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس بات سے بچتے رہنا کہ کہیں تمہارا نفس تمہیں تکبر کی طرف نہ لے جائے۔ کیونکہ تکبر تمہاری آخرت خراب کر دے گا۔ تم حضور ﷺ کی صحبت میں رہے ہو تم ذلیل تھے حضور ﷺ کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے۔ تم کمزور تھے۔ حضور ﷺ کی وجہ سے تمہیں طاقت ملی ہے اور اب تم لوگوں پر امیر اور ان کے بادشاہ بن گئے ہو۔ جو تم کہو گے اسے سنا جائے گا اور جو تم حکم دو گے اسے پورا کیا جائے گا۔ یہ امارت بہت بڑی نعمت ہے بشرطیکہ امارت کی وجہ سے تم اپنے آپ کو اپنے درجہ سے اونچا نہ سمجھنے لگ جاؤ اور نیچے والوں پر تم اڑنے نہ لگ جاؤ۔ اس نعمت سے ایسے بچو جیسے تم گناہوں سے بچتے ہو اور مجھے نعمت امارت اور گناہ سے نعمت امارت کے نقصان کا تم پر زیادہ خطرہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ تمہیں دھوکہ دے گی (اور تمہیں تکبر اور تحقیر مسلم میں مبتلا کر دے گی) اور پھر تم ایسے کرو گے کہ سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ میں تمہیں اور اپنے آپ کو امارت کے ان نقصانات سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں (یعنی مجھے اور تمہیں اللہ امارت کے شر سے بچا کر رکھے) لوگ اللہ کی طرف تیزی سے چلے (خوب دین کا کام کیا) جب (دین کا کام کرنے کے نتیجے میں) کوئی ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اسے ہی اپنا مقصد بنا لیا۔ لہذا تم اللہ کو ہی مقصد بنانا۔ دنیا کو نہ بنانا اور ظالموں کے گرنے کی جگہ یعنی دوزخ سے ڈرتے رہنا۔“

## حضرت عمر بن خطابؓ کا حضرت علاء بن

### حضرمیؓ کو وصیت کرنا

حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ”حضرت علاء بن حضرمیؓ بحرین میں تھے وہاں حضرت عمرؓ نے ان کو یہ خط لکھا:

”تم حضرت عتبہ بن غزو ان کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے تم کو ان کے کام کا ذمہ دار بنایا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ تم ایسے آدمی کے پاس جا رہے ہو جو ان مہاجرین اولین میں سے ہے جن کے لئے اللہ کی طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے۔ میں نے ان کو امارت

سے اس لئے نہیں ہٹایا کہ وہ پاک دامن، قوی اور سخت لڑائی لڑنے والے نہیں تھے (بلکہ یہ تمام خوبیاں ان میں ہیں) بلکہ میں نے ان کو اس لئے ہٹایا ہے کہ میرے خیال میں تم اس علاقہ کے مسلمانوں کے لئے ان سے زیادہ مفید رہو گے۔ لہذا تم ان کا حق پہچانا۔ تم سے پہلے میں نے ایک آدمی کو امیر بنایا تھا لیکن وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ اگر اللہ چاہیں گے تو تم وہاں کے امیر بن سکو گے اور اللہ یہ چاہیں کہ عقبہ ہی امیر رہے (اور تمہیں موت آجائے) تو پھر ایسا ہی ہو گا کیونکہ پیدا کرنا اور حکم دینا اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ ہی آسمان سے کوئی فیصلہ اتارتے ہیں اور پھر اپنی صفت حفاظت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں (اسے ضائع نہیں ہونے دیتے بلکہ وہ فیصلہ پورا ہو کر رہتا ہے) اور تم تو صرف اس کام کو دیکھو جس کے لئے تم پیدا کئے گئے ہو۔ اس کے لئے پوری محبت و کوشش کرو اور اس کے علاوہ اور تمام کاموں کو چھوڑ دو کیونکہ دنیا کے ختم ہونے کا وقت مقرر ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے تم دنیا کی ان نعمتوں میں مشغول ہو کر جو کہ ختم ہونے والی ہیں آخرت کے اس عذاب سے غافل نہ ہو جانا جو باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے غصہ سے بھاگ کر اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہیں اس کے حکم میں پوری فضیلت جمع فرما دیں۔ ہم اللہ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے اس کی اطاعت کرنے پر مدد اور اس کے عذاب سے نجات مانگتے ہیں“

## حضرت عمر بن خطابؓ کا

### حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو وصیت کرنا

حضرت ضہب بن محسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو یہ خط لکھا: ”اما بعد! بعض دفعہ لوگوں کو اپنے بادشاہ سے نفرت ہو جایا کرتی ہے میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت کا جذبہ پیدا ہو (اگر سارا دن حدود شرعیہ قائم نہ کر سکو تو دن میں ایک گھڑی ہی حدود قائم کرو لیکن روزانہ ضرور قائم کرو۔ جب دو کام ایسے پیش آجائیں کہ ان میں سے ایک اللہ کے لئے ہو اور دوسرا دنیا کے لئے تو دنیا والے کام پر اللہ والے کو ترجیح دینا کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی اور آخرت باقی رہے گی اور بدکاروں کو ڈراتے رہو اور ان کو ایک جگہ نہ رہنے دو بلکہ

انہیں بکھیر دو (ورنہ اکٹھے ہو کر بدکاری کے منصوبے بناتے رہیں گے) یہ سارے مسلمان کی عیادت کرو اور ان کے جنازے میں شرکت کرو اور اپنا دروازہ کھلا رکھو اور مسلمانوں کے کام خود کرو کیونکہ تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ نے تم پر ان سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم نے اور تمہارے گھر والوں نے لباس، کھانے اور سواری میں ایک خاص طرز اختیار کر لیا ہے جو عام مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اے عبد اللہ! تم اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کہ تم اس جانور کی طرح سے ہو جاؤ جس کا سر سبز وادی پر گزر رہا ہو اور اسے زیادہ سے زیادہ گھاس کھا کر موٹا ہو جانے کے علاوہ اور کوئی فکر نہ تھا۔ وہ زیادہ کھا کر موٹا تو ہو گیا لیکن اسی میں مر گیا اور تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ امیر جب ٹیڑھا ہو جائے گا تو اس کے مامور بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بد بخت وہ ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایا بد بخت ہو جائے۔“

حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت ابو موسیٰؓ کو یہ خط لکھا:

”لما بعد! عمل میں قوت اور پختگی اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ تم آج کا کام کل پر نہ چھوڑو کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام جمع ہو جائیں گے پھر تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا کام کرو اور کون سا نہ کرو اور یوں بہت سارے کام رہ جائیں گے۔ اگر تمہیں دو کاموں میں اختیار دیا جائے جن میں سے ایک کام دنیا کا ہو اور دوسرا آخرت کا تو آخرت والے کام کو دنیا والے کام پر ترجیح دو کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور اللہ کی کتاب سیکھتے رہو کیونکہ اس میں علوم کے چشمے اور دلوں کی بہار ہے (یعنی قرآن سے دل کو راحت ملتی ہے۔“

## حضرت عثمانؓ ذوالنورینؓ کا وصیت کرنا

حضرت علاء بن فضل کی والدہ کہتی ہیں حضرت عثمانؓ کے شہید ہونے کے بعد لوگوں نے ان کے خزانے کی تلاشی لی تو اس میں ایک صندوق ملا جسے تالا لگا ہوا تھا جب لوگوں نے اسے کھولا تو اس میں ایک کاغذ ملا جس میں یہ وصیت لکھی ہوئی تھی۔

۱۔ اخراجہ الدنیوری کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۴۹) و اخراجہ ابن ابی شیبہ و ابو نعیم فی

الحلیة عن سعید بن ابی بودة مختصر اکما فی الكنز (ج ۸ ص ۲۰۹)

۲۔ اخراجہ ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۰۸)

یہ عثمانؓ کی وصیت ہے : بسم اللہ الرحمن الرحیم . عثمان بن عفان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ﷺ ہیں۔ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے اور اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اسی شہادت پر عثمان زندہ رہا اسی پر مرے گا۔ اور اسی پر انشاء اللہ (قیامت کے دن) اٹھایا جائے گا۔<sup>۱</sup>

نظام الملک نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ لوگوں نے اس کاغذ کی پشت پر یہ لکھا ہوا دیکھا۔

غنی النفس یعنی النفس حتی یجلها  
وان غضها حتی یضربها الفقر،  
دل کا غنا آدمی کو غنی بنا دیتا ہے حتیٰ کہ اسے بڑے مرتبے والا بنا دیتا ہے۔ اگرچہ یہ غنا سے اتنا نقصان پہنچائے کہ فقر اسے ستانے لگے۔

وما عسرة فاصبر لها ان لقیها  
بکائنة الا سیتبعها یسر،  
اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم اس پر صبر کرو کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔

ومن لم یقاس الدهر لم یعرف الاسی  
وفی غیر الايام ما وعد الدهر،  
جو زمانہ کی سختیاں برداشت نہیں کرتا اسے کبھی غم خواری کے مزے کا پتہ نہیں چل سکتا۔

زمانے کے حوادث ہی پر اللہ نے سب کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔<sup>۲</sup>

حضرت شداد بن اوسؓ فرماتے ہیں جب حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ سخت ہو گیا تو آپ نے لوگوں کی طرف جھانک کر فرمایا اے اللہ کے بندو! راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ گھر سے باہر آ رہے ہیں۔ انہوں نے حضور ﷺ کا عمامہ باندھا ہوا ہے۔ اپنی تلوار گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ ان سے آگے حضرات مہاجرین و انصار کی ایک

۱۔ اخرجه الفضائل الرازی عن العلاء بن الفضل

۲۔ کذا فی الریاض النضرۃ فی مناقب العشرۃ للمحب الطبری (ج ۲ ص ۱۲۳)

جماعت ہے جن میں حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی ہیں۔ ان حضرات نے باغیوں پر حملہ کر کے انہیں بھاگا دیا اور پھر یہ سب حضرت عثمان بن عفان کے پاس ان کے گھر گئے تو ان سے حضرت علیؓ نے عرض کیا السلام علیک یا امیر المؤمنین! حضور ﷺ کو دین کی بلندی اور مضبوطی اس وقت حاصل ہوئی جب آپ نے ماننے والوں کے ساتھ لے کر نہ ماننے والوں کو مارنا شروع کر دیا اور اللہ کی قسم! مجھے تو یہی نظر آرہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ لہذا آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان سے جنگ کریں۔ اور اس پر حضرت عثمانؓ نے فرمایا:

”جو آدمی اپنے لو پر اللہ کا حق مانتا ہے اور اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ میرا اس پر حق ہے اس کو میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ میری وجہ سے کسی کا ایک سینگ بھی بھر بھی خون نہ بہائے اور نہ اپنا خون بہائے۔“

حضرت علیؓ نے اپنی بات دوبارہ عرض کی حضرت عثمانؓ نے وہی جواب دیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان کے دروازے سے نکلتے ہوئے یہ فرما رہے تھے۔ اے اللہ! آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا سارا زور لگا لیا ہے۔ پھر حضرت علیؓ مسجد میں داخل ہوئے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت علیؓ سے کہا اے ابو الحسن! آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا امام کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ میں اس حال میں تم لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا میں تو اکیلے نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ اکیلے نماز پڑھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ پیچھے سے ان کے بیٹے نے آکر خبر دی۔ اے اباجان! اللہ کی قسم! وہ باغی لوگ ان کے گھر میں زبردستی گھس گئے ہیں۔ حضرت علیؓ نے کہا ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ کی قسم! وہ لوگ تو ان کو قتل کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو الحسن! شہید ہو کر حضرت عثمانؓ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا جنت میں اللہ کا قرب خاص پائیں گے۔ پھر انہوں نے پوچھا اے ابو الحسن! یہ قاتل لوگ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے تین دفعہ کہا اللہ کی قسم! دوزخ میں جائیں گے۔

حضرت ابو سلمہ بن عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثمانؓ کا باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا اتنے میں حضرت ابو قتادہؓ اور ایک اور صاحب ان کے ساتھ حضرت عثمانؓ کے پاس ان کے گھر گئے۔ دونوں نے حضرت عثمانؓ سے حج کی اجازت مانگی انہوں نے حج کی اجازت دے دی۔ ان دونوں نے حضرت عثمانؓ سے پوچھا کہ اگر یہ باغی غالب آگئے تو ہم کس کا ساتھ

دیں؟ حضرت عثمانؓ نے فرمایا مسلمانوں کی عام جماعت کا ساتھ دینا۔ انہوں نے پوچھا اگر غالب آکر یہ باغی ہی مسلمانوں کی جماعت بنالیں تو پھر ہم کس کا ساتھ دیں؟ حضرت عثمانؓ نے کہا مسلمانوں کی عام جماعت کا ہی ساتھ دینا وہ جماعت جن کی بھی ہو۔ راوی کہتے ہیں۔ ہم باہر نکلنے لگے تو ہمیں گھر کے دروازے پر حضرت حسن بن علیؓ سامنے سے آتے ہوئے ملے جو حضرت عثمانؓ کے پاس جا رہے تھے تو ہم ان کے ساتھ واپس ہو گئے کہ سنیں کہ یہ حضرت عثمانؓ سے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے حضرت عثمانؓ کو سلام کر کے کہا اے امیر المؤمنین! آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ اس پر حضرت عثمانؓ نے فرمایا:

”اے میرے بھتیجے! واپس چلے جاؤ اور اپنے گھر بیٹھ جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اسے وجود میں لے آئیں۔“

چنانچہ حضرت حسن بھی اور ہم بھی حضرت عثمانؓ کے پاس سے باہر آگئے تو ہمیں سامنے سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ آتے ہوئے ملے وہ حضرت عثمانؓ کے پاس جا رہے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ واپس ہو گئے کہ سنیں یہ کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے جا کر حضرت عثمانؓ کو سلام کیا اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! میں رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں رہا اور ان کی ہر بات مانتا رہا۔ پھر میں حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ رہا اور ان کی پوری طرح فرمانبرداری کی۔ پھر میں حضرت عمرؓ کے ساتھ رہا اور ان کی ہر بات مانتا رہا اور میں ان کا اپنے اوپر دوہرا حق سمجھتا تھا۔ ایک والد ہونے کی وجہ سے اور ایک خلیفہ ہونے کی وجہ سے اور اب میں آپ کا پوری طرح فرمانبردار ہوں۔ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں (میں اسے انشاء اللہ پورا کروں گا۔ اس پر حضرت عثمانؓ نے فرمایا:

”اے آل عمرؓ! اللہ تعالیٰ تمہیں دگنی جزائے خیر عطا فرمائے مجھے کسی کے خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کسی کا خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں میں بھی حضرت عثمانؓ کے ساتھ گھر میں محصور تھا۔ ہمارے ایک آدمی کو (باغیوں کی طرف سے) تیر مارا گیا۔ اس پر میں نے کہا اے امیر المؤمنین! چونکہ انہوں نے ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا ہے اس لئے اب ان سے جنگ کرنا ہمارے لئے جائز ہو گیا ہے۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا:

”اے ابو ہریرہ! میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اپنی تلوار پھینک دو۔ وہ لوگ تو میری

۱۔ اخرجه ابو احمد كذا في الرياض النضرة في مناقب العشرة (ج ۲ ص ۱۶۹)

۲۔ اخرجه ابو عمر كذا في الرياض النضرة في مناقب العشرة (ج ۲ ص ۱۲۹)

جان لینا چاہتے ہیں اس لئے میں اپنی جان دے کر دوسرے مسلمانوں کی جان بچانا چاہتا ہوں۔“  
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں (حضرت عثمان کے اس فرمان پر) میں نے اپنی تلوار پھینک دی  
اور اب تک مجھے خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے؟

## حضرت علی بن ابی طالبؓ کا اپنے امیروں کو وصیت کرنا

حضرت مہاجر عامری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالبؓ نے اپنے ایک  
ساتھی کو ایک شہر کا گورنر بنا رکھا تھا۔ اسے یہ خط لکھا:

”المبعد! تم اپنی رعایا سے زیادہ دیر غائب نہ رہو (جب کسی ضرورت کی وجہ سے ان سے الگ  
ہونا پڑے تو ان کے پاس جلدی واپس آ جاؤ) کیونکہ امیر کے رعایا سے الگ رہنے کی وجہ سے  
لوگ تنگ ہوں گے اور خود امیر کو لوگوں کے حالات تھوڑے معلوم ہو سکیں گے بلکہ جن  
سے الگ رہے گا ان کے حالات بالکل معلوم نہ ہو سکیں گے (جب امیر لوگوں کے ساتھ  
میل جول نہیں رکھے گا بلکہ الگ رہے گا تو اسے سنی سنائی باتوں پر ہی کام چلانا پڑے گا اس  
طرح سارا درود ارسنانے والوں پر آجائے گا اور سنانے والوں میں غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں  
جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ) پھر اس کے سامنے بڑی چیز کو چھوٹا اور چھوٹی چیز کو بڑا اور اچھی چیز کو  
بر اور بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کیا جائے گا اور یوں حق باطل کے ساتھ خلط ملط ہو جائے گا اور  
امیر بھی انسان ہی ہے۔ لوگ اس سے چھپ کر جو کام کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں جانتا ہے اور  
انسان کی ہر بات پر ایسی نشانیاں نہیں پائی جاتی ہیں جن سے پتہ چل سکے کہ اس کی یہ بات سچی  
ہے یا جھوٹی۔ لہذا اب اس کا حل یہی ہے کہ امیر اپنے پاس لوگوں کی آمد و رفت کو آسان اور عام  
رکھے (جب لوگ اس کے پاس زیادہ آئیں گے تو اسے حالات زیادہ معلوم ہو سکیں گے اور پھر  
یہ فیصلہ صحیح کر سکے گا) اور اس طرح یہ امیر ہر ایک کو اس کا حق دے سکے گا اور ایک کا  
دوسرے کو دینے سے محفوظ رہے گا لہذا تم ان دو قسم کے آدمیوں میں سے ایک قسم کے ضرور  
ہو گے۔ یا تو تم سخی آدمی ہو گے اور حق میں خرچ کرنے میں تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہوگا اگر تم  
ایسے ہو اور تم نے لوگوں کو دینا ہی ہے اور ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہی ہے تو پھر تمہیں  
لوگوں سے الگ رہنے کی کیا ضرورت؟ اور اگر تم کجوس ہو۔ اپنا سب کچھ روک کر رکھنے کی  
طبیعت رکھتے ہو تو پھر لوگ چند دن تمہارے پاس آئیں گے اور جب انہیں تم سے کچھ ملے گا

نہیں تو وہ خود ہی مایوس ہو کر تمہارے پاس آنا چھوڑ دیں گے۔ اس صورت میں بھی تمہیں ان سے الگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی لوگ تمہارے پاس اپنی ضرورت میں ہی لے کر آتے ہیں کہ یا تو کسی ظالم کی شکایت کریں گے یا تم سے انصاف کے طالب ہوں گے اور یہ ضرورتیں ایسی ہیں کہ ان کے پورا کرنے میں تم پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا (لہذا لوگوں سے الگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے) اس لئے میں نے جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کر کے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور میں تمہیں صرف وہی باتیں لکھ رہا ہوں جن میں تمہارا فائدہ ہے اور جن سے تمہیں ہدایت ملے گی انشاء اللہ۔<sup>۱</sup>

حضرت مدائنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالبؓ نے اپنے ایک امیر کو یہ خط لکھا:

”ٹھہر و اور یوں سمجھو کہ تم زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ گئے ہو۔ تمہاری موت کا وقت آگیا ہے اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے اس جگہ پیش کئے جا رہے ہیں جہاں دنیا کے دھوکے میں پڑا ہوا ہائے حسرت پکارے گا اور زندگی ضائع کرنے والا تمنا کرے گا کہ کاش میں توبہ کر لیتا اور ظالم تمنا کرے گا سے (ایک دفعہ پھر دنیا میں) واپس بھیج دیا جائے (تا کہ وہ نیک عمل کر کے آئے اور یہ جگہ میدان حشر ہے)“<sup>۲</sup>

قبیلہ ثقیف کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ نے مجھے عجمرا شہر کا گورنر بنایا اور وہاں کے مقامی لوگ جو کہ ذمی تھے وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت علیؓ نے مجھ سے فرمایا:

”عراق کے دیرمائی لوگ دھوکہ باز ہوتے ہیں خیال رکھنا کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دیں۔ لہذا ان کے ذمہ جو حق ہے وہ ان سے پورا وصول کرنا۔“

پھر مجھ سے فرمایا شام کو میرے پاس آنا۔ چنانچہ جب میں شام کو خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا:

”میں نے صبح تم کو جو کہا تھا وہ ان لوگوں کو سنانے کے لئے کہا تھا۔ رقم کی وصولی کے لئے ان میں سے کسی کو کوڑا نہ مارنا اور نہ (دھوپ میں) کھڑا کرنا اور ان سے (شرعی حق کے بغیر اپنے لئے) بکری اور گائے نہ لینا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے غنولیں اور جانتے ہو

۱۔ اخرجہ الدینوری و ابن عساکر کذا فی منتخب الكنز (ج ۵ ص ۵۸)

۲۔ اخرجہ الدینوری و ابن عساکر کذا فی منتخب الكنز (ج ۵ ص ۵۸)

۳۔ اخرجہ ابن زنجویہ کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۶۶)



کہ عفو کسے کہتے ہیں؟ جسے وہ آسانی سے دے سکے (اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہو)۔<sup>۱</sup> اور بھتی کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ ان کا غلہ اور گرمی سردی کے کپڑے اور ان کے کھیتی اور بار برداری کے کام آنے والے جانور نہ پچتا اور پیسوں کی وصولی کے لئے کسی کو (دھوپ میں) کھڑا نہ کرنا۔ اس امیر نے کہا پھر تو میں جیسا آپ کے پاس سے جا رہا ہوں ایسا ہی خالی ہاتھ واپس آجاؤں گا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا (کوئی بات نہیں) چاہے تم جیسے جا رہے ہو ویسے ہی واپس آجاؤ۔ تیرا اس ہو! ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے ضرورت سے زائد مال ہی لیں۔<sup>۲</sup>

### رعایا کا اپنے امام کو نصیحت کرنا

حضرت مکحول رحمۃ اللہ کہتے ہیں حضرت سعید بن عامر بن حدیم محمّد بنی کریم ﷺ کے صحابہؓ میں سے ہیں انہوں نے حضرت عمر بن خطابؓ سے کہا اے عمر! میں آپ کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں ضرور وصیت کرو (امیر کو غلطی پر متنبہ نہ کرنا خیانت ہے اور بھرے مجمع میں متنبہ کرنا گستاخی ہے اور تمہائی میں متوجہ کرنا نصیحت ہے) ”میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈریں اور اللہ کے بارے میں لوگوں سے نہ ڈریں اور آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہئے کہ کیونکہ بہترین قول وہ ہے جس کی تصدیق عمل کرے۔ ایک ہی معاملہ میں دو متضاد فیصلے نہ کرنا اور نہ آپ کے کام میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور آپ کو حق سے ہٹنا پڑے گا۔ دلیل والے پہلو کو اختیار کریں اس طرح آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اور اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے ہاتھوں آپ کی رعایا کی اصلاح کرے گا اور دور و نزدیک کے جن مسلمانوں کا اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے ان کی طرف اپنی توجہ پوری رکھیں اور ان کے فیصلے خود کریں اور جو کچھ اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے پسند کرتے ہیں وہ تمام مسلمانوں کے لئے پسند کریں اور جو کچھ اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے ناپسند سمجھتے ہیں وہ ان کے لئے ناپسند سمجھیں اور حق تک پہنچنے کے لئے مشکلات میں گھس جائیں (اور ان سے نہ گھبرائیں) اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈریں“

حضرت عمرؓ نے کہا یہ کام کون کر سکتا ہے؟ حضرت سعید نے کہا آپ جیسے کر سکتے ہیں

۱۔ اخرجہ البیہقی (ج ۹ ص ۲۰۵) ایضاً

۲۔ اخرجہ ابن سعد و ابن عساکر کذا فی منتخب الکبیر (ج ۴ ص ۳۹۰)

جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کی امت کا ذمہ دار بنایا ہے اور (وہ ایسے بہادر ہیں کہ) ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہ ہو سکا۔ ۱۷

حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک وفد کے آنے پر لوگوں کو جمع فرمانا چاہا تو اپنے اجازت دینے والے حضرت لکن ارقم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا حضرت محمد ﷺ کے صحابہؓ کو خاص طور سے دیکھو اور انہیں دوسرے لوگوں سے پہلے اندر آنے کی اجازت دو۔ پھر ان کے بعد والے لوگوں (یعنی حضرات تابعین) کو اجازت دو۔ چنانچہ یہ حضرات اندر آئے اور انہوں نے حضرت عمرؓ کے سامنے صفیں بنالیں۔ حضرت عمرؓ نے ان حضرات کو دیکھا تو انہیں ایک صاحب بھاری بھر کم نظر آئے جنہوں نے متش چادریں اوڑھی ہوئی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے ان کی طرف اشارہ کیا جس پر وہ حضرت عمرؓ کے پاس آئے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے تین مرتبہ کہا تم مجھے کچھ بات کہو۔ انہوں نے بھی تین مرتبہ یہ کہا۔ نہیں، آپ کچھ فرمائیں۔ حضرت عمرؓ نے (کچھ ناگواری کا اظہار فرماتے ہوئے) فرمایا لو ہو، آپ کھڑے ہو جائیں چنانچہ وہ کھڑے ہو کر چلے گئے۔ حضرت عمرؓ نے دوبارہ ان حاضرین پر نظر ڈالی تو انہیں ایک اشعری نظر آئے جن کا رنگ سفید، جسم ہلکا، قد چھوٹا اور حال کمزور تھا۔ حضرت عمرؓ نے ان کی طرف اشارہ کیا جس پر وہ حضرت عمرؓ کے پاس آگئے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے کہا۔ آپ مجھ سے کچھ بات کریں۔ اس اشعری نے کہا نہیں۔ آپ کچھ فرمائیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا۔ آپ کچھ بات کریں۔ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ پہلے کچھ بات شروع کریں۔ بعد میں ہم بھی کچھ کہہ لیں گے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا لو ہو، آپ بھی کھڑے ہو جائیں (میں تو بحریاں چرانے والا انسان ہوں) بحریاں چرانے والے (کی بات) سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ (چنانچہ وہ چلے گئے) حضرت عمرؓ نے پھر نظر ڈالی تو انہیں ایک سفید اور ہلکے جسم والا آدمی نظر آیا۔ حضرت عمرؓ نے اسے اشارہ سے بلایا۔ وہ آگئے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے کہا آپ مجھے کچھ کہیں۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور خوب اللہ سے ڈر لیا اور پھر کہا:

”آپ کو اس امت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ لہذا آپ کو اس امت کے جن امور کا ذمہ دار بنایا گیا ہے ان میں اور اپنی رعایا کے بارے میں خصوصاً اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈریں کیونکہ (قیامت کے دن) آپ سے (ان سب کا) حساب لیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کو امین بنایا گیا ہے لہذا آپ پر لازم ہے کہ آپ لمانت کی اس ذمہ داری کو پورے اہتمام سے ادا کریں اور آپ کو آپ کے اعمال کے مطلق (اللہ کی طرف سے) اجر دیا جائے گا۔“

حضرت عمرؓ نے کہا جب سے میں خلیفہ بنا ہوں۔ تمہارے علاوہ کسی نے بھی مجھے ایسی صاف اور صحیح بات نہیں کہی ہے تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں ربیع بن زیاد ہوں۔ حضرت عمرؓ نے کہا حضرت ماجر بن زیاد کے بھائی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت عمرؓ نے ایک لشکر تیار کیا اور حضرت (لاہ موسیٰ) اشعریؓ کو اس کا امیر بنایا اور ان سے فرمایا کہ ربیع بن زیاد کو اہتمام سے دیکھنا اگر یہ اپنی بات میں سچا نکلا (اس پر خود بھی عمل کیا) گو وہ اس المارت کی ذمہ داریوں میں تمہاری خوب مدد کرے گا اس لئے انہیں (بوقت ضرورت کسی جماعت کا) امیر بنا دینا۔ پھر ہر دس دن کے بعد ان کے کام کی دیکھ بھال کرتے رہنا اور ان کے کام کرنے کے طریقے کو مجھے اس تفصیل سے لکھنا کہ مجھے یوں لگے کہ جیسے میں نے خود ان کو امیر بنایا ہو۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا حضور ﷺ نے ہمیں نصیحت کی تھی اور فرمایا تھا:

”مجھے اپنے بعد تم پر سب سے زیادہ خوف اس منافق کا ہے جو باتیں کرنے کا خوب ماہر ہو (یعنی دل تو کھوٹا ہو لیکن زبان سے بڑی اچھی باتیں خوب بناتا ہو)۔“  
حضرت محمد بن سووقہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت نعیم بن اہلی ہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ انہوں نے ایک پرچہ مجھے نکال کر دیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا:

”ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل کی طرف سے عمر بن خطاب کے نام سلام علیک! الملاحظ! ہم تو شروع سے ہی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نفس کی اصلاح کا بہت اہتمام ہے اور اب تو آپ پر کالے اور گورے یعنی عرب و عجم تمام افراد امت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ آپ کی مجلس میں بڑے مرتبہ والے اور کم مرتبہ والے، دوست و دشمن ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو عدل میں سے اس کا حصہ ملنا چاہئے۔ اے عمرؓ! آپ دیکھ لیں کہ آپ ان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں؟ ہم آپ کو اس دن سے ڈراتے ہیں جس دن تمام چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اور دل (خوف کے مارے) خشک ہو جائیں گے اور اس بادشاہ کی دلیل کے سامنے تمام (انسانوں کی) دلیلیں فیل ہو جائیں گی۔ جو اپنی کبریائی کی وجہ سے ان پر غالب اور زور آور ہو گا اور ساری مخلوق اس کے سامنے ذلیل ہوگی۔ بس اس کی رحمت کی امید کر رہے ہوں گے اور اس کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے۔ ہم آپس میں یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ اس امت کا آخر زمانہ میں اتنا ہر حال ہو جائے گا کہ لوگ لو پر سے دوست ہوں گے اور اندر سے دشمن۔ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ خط جس دلی ہمدردی کے ساتھ لکھا آپ اس کے علاوہ کچھ اور سمجھیں کیونکہ ہم نے یہ خط صرف آپ کی

خیر خواہی کے جذبہ سے لکھا ہے۔ والسلام علیک۔“

”عمر بن خطاب کی طرف سے ابو عبیدہ اور معاذ کے نام۔ سلام علیہما! المابعد! مجھے آپ دونوں کا خط ملا جس میں آپ نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اپنے نفس کی اصلاح کا بہت اہتمام ہے اور اب مجھ پر کالے اور گورے یعنی عرب و عجم تمام افراد امت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ میری مجلس میں بڑے مرتبے والے اور کم مرتبے والے دوست دشمن ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو عدل میں سے اس اُ حصہ ملنا چاہئے۔ آپ دونوں نے یہ بھی لکھا کہ اے عمر! آپ دیکھ لیں کہ آپ ان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ عزوجل کی مدد سے ہی عمر صحیح چل سکتا ہے اور غلط سے بچ سکتا ہے اور آپ دونوں نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس دن سے ڈرا رہے ہیں جو جر دن سے ہم سے پہلے کی تمام امتیں ڈرائی گئی ہیں اور بہت پہلے سے یہ بات چلی آرہی ہے کہ دن رات کا بدلتے رہنا اور دن رات میں وقت مقرر کے آنے پر لوگوں کا دنیا سے جاتے رہنا ہر دور کو نزدیک کر رہا ہے اور ہر نئے کو پرانا کر رہا ہے اور ہر وعدہ کو لارہا ہے اور یہ سلسلہ یوں ہو چلتا رہے گا یہاں تک کہ سارے لوگ جنت اور دوزخ میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے۔ آپ دونوں نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ اس امت کا آخر زمانہ میں از براہ حال ہو جائے گا کہ لوگ اوپر سے دوست ہوں گے اور اندر سے دشمن لیکن نہ تو آپ از برے لوگوں میں سے ہیں اور نہ یہ وہہر زمانہ ہے اور یہ تو اس زمانہ میں ہو گا جس میں لوگوں میں شوق اور خوف تو خوب ہو گا لیکن ایک دوسرے سے ملنے کا شوق صرف دنیاوی اغراض کی وجہ سے ہو گا۔ آپ دونوں نے مجھے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس بات سے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں کہ آپ دونوں نے مجھے یہ خط جس دلی ہمدردی کے ساتھ لکھا ہے میں اس کے علاوہ کچھ اور سمجھوں اور یہ کہ آپ دونوں نے یہ خط صرف میری خیر خواہی کے جذبہ سے لکھا ہے آپ دونوں نے یہ بات ٹھیک لکھی ہے۔ لہذا مجھے خط لکھنا نہ چھوڑیں کیونکہ میں آپ دونوں (کو نصیحتوں کا محتاج ہوں، آپ لوگوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا والسلام علیہما۔“

## حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا وصیت کرنا

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۳۸) واخرجه ايضا ابن ابی شیبہ وھنا دیمثله کما فی الکنز (ج ۸ ص ۲۰۹) والطبرانی کما فی المجموع (ج ۵ ص ۲۱۴) وقال وزجالہ نقات الم هذا لصحیفة.

حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت ابو عبیدہؓ اردن میں طاعون میں مبتلا ہوئے تو جتنے مسلمان وہاں تھے ان کو بلا کر ان سے فرمایا:

”میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں اگر تم نے اسے مان لیا تو ہمیشہ خیر پر رہو گے اور وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج و عمرہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو (نیکی کی) تاکید کرتے رہو اور اپنے امیروں کے ساتھ خیر خواہی کرو اور ان کو چھو کہ مت دو اور دنیا تمہیں (آخرت سے) غافل نہ کرنے پائے۔ کیونکہ اگر انسان کی عمر ہزار سال بھی ہو جائے تو بھی اسے (ایک نہ ایک دن) اس ٹھکانے یعنی موت کی طرف آنا پڑے۔ جسے تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کے لئے مرنا طے کر دیا ہے لہذا وہ سب ضرور مریں گے اور بنی آدم میں سب سے زیادہ سمجھ دار وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ طاعت کرے اور اپنی آخرت کے لئے سب سے زیادہ عمل کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ! عے معاذ بن جبل! آپ لوگوں کو (میری جگہ) نماز پڑھاؤ۔

اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت معاذؓ نے لوگوں میں کھڑے ہو

ریہ بیان کیا:

”اے لوگو! تم اللہ کے آگے اپنے گناہوں سے توبہ کرو کیونکہ جو بندہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے (قیامت کے دن) اللہ سے ملے گا تو اللہ کے ذمہ اس کا حق ہو گا کہ اللہ اس کی مغفرت فرمادیں اور جس کے ذمہ قرضہ ہے اسے چاہئے کہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے کیونکہ بندہ اپنے قرضہ کی وجہ سے بندھا رہے گا (جب تک اسے ادا نہیں کرے گا اللہ کے ہاں اسے بھوت نہیں ملے گی) اور جس کسی نے اپنے (مسلمان) بھائی سے قطع تعلق کر رکھا ہو اسے اپنے کہ وہ اس سے مل کر صلح کر لے۔ اے مسلمانو! تمہیں ایک ایسے آدمی کی موت کا صدمہ پہنچا ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ ان سے زیادہ نیک دل، ان سے زیادہ شرف و فساد سے دور رہنے والا، ان سے زیادہ عوام سے محبت کرنے والا اور ان سے زیادہ خیر خواہی کرنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا لہذا ان کے لئے نزول رحمت کی دعا کرو اور ان کی نماز جنازہ میں رکعت کرو۔“

## حضرات خلفاء و امراء کی طرز زندگی

### حضرت ابو بکرؓ کی طرز زندگی

حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ اور حضرت ابن مسیب وغیرہ حضرات سے مروی ہے

لیکن ان کی حدیثیں آپس میں مل گئی ہیں۔ بہر حال یہ حضرات فرماتے ہیں، ہجرت کے گیارہویں سال ۱۲۔ ربیع الاول کو پیر کے دن حضور ﷺ کا انتقال ہوا۔ اسی دن لوگ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے بیعت ہوئے۔ آپ کا قیام اپنی بیوی حضرت حبیبہ بنت خاریجہ بن زید بن ابی زبیر کے ہاں سبخ محلہ میں تھا جو کہ قبیلہ بنو حارث بن خزرج میں سے تھیں۔ اپنے لئے بالوں کا ایک خیمہ ڈال رکھا تھا۔ اس میں انہوں نے کوئی اضافہ نہیں کیا یہاں تک کہ اپنے مدینہ والے گھر منتقل ہو گئے۔ بیعت کے بعد چھ ماہ تک سبخ ہی ٹھہرے رہے۔ اکثر صبح پیدل مدینہ منورہ جاتے۔ کبھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے اور ان کے جسم پر ایک لنگی اور گیر دے رنگ سے رنگی ہوئی ایک چادر ہوتی۔ چنانچہ مدینہ آتے اور لوگوں کو نمازیں پڑھاتے۔ جب عشاء کی نماز پڑھا لیتے تو سبخ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتے۔ جب حضرت ابو بکر خود (مدینہ) ہوتے تو خود لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ جب خود نہ ہوتے تو حضرت عمر بن خطابؓ نماز پڑھاتے۔ جمعہ کے دن، دن کے شروع میں سبخ ہی رہتے۔ اپنے سر اور داڑھی پر مہندی لگاتے۔ پھر جمعہ کے وقت تشریف لے جاتے اور لوگوں کو جمعہ پڑھاتے۔ حضرت ابو بکرؓ تاجر آدمی تھے، روزانہ صبح بازار جا کر خرید و فروخت کرتے۔ ان کا بکریوں کا ایک ریوڑ بھی تھا۔ جو شام کو ان کے پاس واپس آتا کبھی ان کو چرانے خود جاتے اور کبھی کوئی اور چرانے جاتا۔ اپنے محلہ والوں کی بکریوں کا دودھ بھی نکال دیا کرتے۔ جب یہ خلیفہ بنے تو محلہ کی ایک لڑکی نے کہا (اب تو حضرت ابو بکرؓ خلیفہ بن گئے ہیں لہذا) ہمارے گھر کی بکریوں کا دودھ اب تو کوئی نہیں نکالا کرے گا۔ حضرت ابو بکرؓ نے یہ سن کر فرمایا نہیں۔ میری عمر کی قسم! میں آپ لوگوں کے لئے دودھ ضرور نکالا کروں گا اور مجھے امید ہے کہ خلافت کی ذمہ داری جو میں نے اٹھائی ہے یہ مجھے ان اخلاق کریمانہ سے نہیں ہٹائے گی جو پہلے سے مجھ میں ہیں۔ چنانچہ خلافت کے بعد بھی محلہ والوں کا دودھ نکالا کرتے اور بعض دفعہ ازراہ مذاق محلہ کی لڑکی سے کہتے اے لڑکی! تم کیسا دودھ نکلوانا چاہتی ہو؟ جھاگ والا نکالوں یا بغیر جھاگ کے۔ کبھی وہ کہتی جھاگ والا اور کبھی کہتی بغیر جھاگ کے۔ بہر حال جیسے وہ کہتی ویسے یہ کرتے۔ چنانچہ سبخ محلہ میں چھ ماہ ایسے ہی ٹھہرے رہے پھر مدینہ آگئے اور وہاں مستقل قیام کر لیا پھر اپنی خلافت کے بارے میں غور کیا تو فرمایا اللہ کی قسم! تجارت میں لگے رہنے سے تو لوگوں کے کام ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکیں گے۔ ان کے کام تو تب ہی ٹھیک ہو سکیں گے جب کہ میں تجارت سے فارغ ہو کر مسلمانوں کے کام میں پورے طور سے لگ جاؤں اور ان کو

دیکھ بھال کروں لیکن میرے اہل و عیال کے لئے گزارہ کے قابل خرچہ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے تجارت چھوڑ دی اور مسلمانوں کے بیت المال میں سے روزانہ اتنا وظیفہ لینے لگے جس سے ان کا اور ان کے اہل و عیال کا ایک دن کا گزارہ ہو جائے اور اس وظیفہ سے حج اور عمرہ بھی کر سکیں۔ چنانچہ شوری والوں نے ان کی ان تمام ضرورتوں کے لئے سالانہ چھ ہزار درہم مقرر کئے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو فرمایا ہمارے پاس مسلمانوں کے بیت المال میں سے جو کچھ (چاہو) ہے وہ واپس کر دو کیونکہ میں اس مال سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا اور میں مسلمانوں کا جتنا مال استعمال کر چکا ہوں اس کے بدلہ میں نے اپنی فلاں علاقے والی زمین مسلمانوں (کے بیت المال) کو دے دی۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد وہ زمین اور ایک دودھ والی اونٹنی اور تلواروں کو تیز کرنے والا غلام اور ایک چادر جس کی قیمت پانچ درہم تھی حضرت عمرؓ کو یہ سب چیزیں دی گئیں تو حضرت عمرؓ نے فرمایا وہ اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال گئے (کہ ان کی طرح کون کر سکے گا کہ ساری زندگی اپنا سارا مال اور ساری جان اسلام پر لگائی اور جب مجبوری میں لینا پڑا تو کم سے کم لیا اور دنیا سے جاتے وقت وہ بھی واپس کر گئے) حضرت ابو بکرؓ نے سن ۱۱ھ میں حضرت عمر بن خطاب کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ پھر جب سن ۱۲ھ میں خود عمرے کے لئے تشریف لے گئے۔ چاشت کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے (حضرت ابو بکرؓ کے والد) حضرت ابو قحافہؓ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے جن سے وہ باتیں کر رہے تھے کسی نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے آگئے ہیں تو وہ کھڑے ہو گئے لیکن حضرت ابو بکرؓ اونٹنی بٹھائے بغیر جلدی سے اونٹنی سے نیچے اتر گئے اور کہنے لگے اے با جان! آپ کھڑے نہ ہوں۔ پھر ان سے مل کر ان سے چٹ گئے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بڑے میاں یعنی حضرت ابو قحافہؓ حضرت ابو بکرؓ کے آنے کی خوشی میں رو پڑے۔ مکہ کے ذمہ دار اور سردار حضرات حضرت عتاب بن اسید، حضرت سہیل بن عمرو، حضرت عکرمہ بن ابی جہل، حضرت حارث بن ہشامؓ ملنے آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کو سلام کیا اور یوں کہا سلام علیک اے خلیفہ رسول اللہ! اور سب نے ان سے مصافحہ کیا۔ پھر جب انہوں نے حضور ﷺ کا تذکرہ شروع کیا تو حضرت ابو بکرؓ رونے لگے۔ پھر ان سب نے حضرت ابو قحافہؓ کو سلام کیا۔ حضرت قحافہؓ نے (حضرت ابو بکرؓ کا نام لے کر) کہا اے عتیق! یہ لوگ مکہ کے سردار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا اے با جان! اللہ کی مدد سے ہی انسان نیکی کر سکتا ہے اور برائی سے بچ سکتا ہے اور مجھ پر (خلافت کے) بہت بڑے کام کی ذمہ

داری ڈال دی گئی ہے جسے ادا کرنے کی مجھ میں بالکل طاقت نہیں ہے۔ ہاں اللہ مدد فرمائے تو پھر یہ ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت ابو بکرؓ گھر گئے اور غسل کیا اور باہر آئے۔ آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے چلنے لگے۔ آپ نے ان کو ہٹا دیا اور فرمایا آرام سے چلو (میرے پیچھے بھیڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے) راستہ میں لوگ حضرت ابو بکرؓ کو ملتے ان کے ساتھ چلتے اور ان سے حضور ﷺ کی تعزیت کرتے اور حضرت ابو بکرؓ روتے جا رہے تھے یہاں تک کہ بیت اللہ تک پہنچ گئے۔ پھر آپ نے طواف کیلئے اضطباع کیا (یعنی دائیں کندھے کے نیچے سے احرام کی چادر نکال کر اس کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر ڈال دیئے) پھر حجر اسود کا بوسہ لے کر سات چکر لگائے پھر دو رکعت نماز پڑھی پھر اپنے گھر واپس آگئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو گھر سے باہر آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا پھر دار الندوة کے قریب بیٹھ گئے اور فرمایا کوئی آدمی ایسا ہے جو کسی ظلم کی شکایت لایا ہو یا کسی حق کا مطالبہ کر رہا ہو؟ اس پر کوئی نہ آیا تو لوگوں نے اپنے امیر (حضرت عتاب بن اسید) کی تعریف کی۔ پھر عصر کی نماز پڑھائی اور بیٹھ گئے۔ پھر لوگوں نے ان کو رخصت کیا اور یہ مدینہ منورہ کو واپس ہو گئے۔ سن ۱۲ھ میں لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ نے خود حج کیا اور صرف حج کا احرام باندھا جسے افراہ کہا جاتا ہے اور مدینہ میں حضرت عثمان بن عفانؓ کو اپنا نائب بنایا۔

### حضرت عمیر بن سعد انصاریؓ کا قصہ

حضرت عمرؓ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمیر بن سعد انصاریؓ کو حضرت عمر بن خطابؓ نے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ یہ وہاں ایک سال رہے لیکن اس عرصہ میں ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ حضرت عمرؓ نے اپنے کاتب سے فرمایا۔ عمیرؓ کو خط لکھو۔ اللہ کی قسم! میرا تو یہی خیال ہے کہ عمیرؓ نے ہم سے خیانت کی ہے۔ (خط کا مضمون یہ تھا)

”جو ننھی میرا یہ خط تمہیں ملے میرے پاس آ جاؤ اور میرا خط پڑھتے ہی تو وہ سارا مال ساتھ لے کر آؤ جو تم نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے جمع کر رکھا ہے۔“

(خط پڑھتے ہی حضرت عمیرؓ چل پڑے اور) حضرت عمیرؓ نے اپنا چمڑے کا تھیلا لیا اور اس میں اپنا توشہ اور پیالہ رکھا اور اپنا چمڑے کا لوٹا (غالبا تھیلے سے باندھ کر) لٹکایا اور اپنی لاشمی اور حمص سے پیدل چل کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو رنگ بدلہ ہوا تھا، چہرہ غبار آلود تھا

۱۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۱۳۱) قال ابن كثير هذا سياق حسن وله شواهد من وجوه

اخره مثل هذا قبله النفوس و تلقاء بالقبول.



اور بال بے ہو چکے تھے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں گئے اور کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین! اور حمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت عمرؓ نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت عمیرؓ نے کہا میرا کیا حال دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ میں صحت مند پاک خون والا ہوں اور میرے ساتھ دنیا ہے جس کی باگ پٹا کر میں اسے کھینچ کر لایا ہوں۔ حضرت عمرؓ سمجھے کہ یہ بہت سامان لائے ہوں گے اس لئے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ حضرت عمیرؓ نے کہا میرے ساتھ میرا تھیلا ہے جس میں اپنا توشہ اور پیالہ رکھتا ہوں۔ پیالہ میں کھا بھی لیتا ہوں اور اسی میں اپنا سر اور اپنے کپڑے دھو لیتا ہوں اور ایک لوٹا ہے جس میں وضو اور پینے کا پانی رکھتا ہوں اور میری ایک لاشھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اگر کوئی دشمن سامنے آجائے تو اسی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم! دنیا میرے اس سامان کے پیچھے ہے (یعنی میری ساری ضروریات اسی سامان سے پوری ہو جاتی ہیں) پھر حضرت عمرؓ نے پوچھا تم وہاں سے پیدل چل کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کیا تمہارا وہاں (تعلق والا) کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو تمہیں سواری کے لئے کوئی جانور دے دیتا؟ انہوں نے کہا وہاں والوں نے مجھے سواری دی نہیں اور میں نے ان سے مانگی نہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا وہ برے مسلمان ہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو (کہ انہوں نے اپنے گورنر کا ذرا خیال نہیں کیا) حضرت عمیرؓ نے کہا اے عمرؓ! آپ اللہ سے ڈریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت سے منع کیا ہے اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے (اور جو صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آجاتا ہے) حضرت عمرؓ نے کہا میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا؟ اور طبرانی کی روایت میں یوں ہے میں نے تم کو جس چیز کی وصولی کے لئے بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ اور وہاں تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ کیا پوچھ رہے ہیں (میں سمجھ نہیں سکا) حضرت عمرؓ نے (تعجب سے) کہا سبحان اللہ! (سوال تو بالکل واضح ہے) حضرت عمیرؓ نے کہا اگر یہ ڈرنہ ہو تاکہ نہ بتانے سے آپ غمگین ہو جائیں گے تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ آپ نے مجھے وہاں بھیجا۔ وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے نیک لوگوں کو جمع کیا اور مسلمانوں سے مال غنیمت جمع کرنے کا ان کو ذمہ دار بنا دیا۔ جب وہ جمع کر کے لے آئے تو میں نے وہ سارا مال صحیح مصرف پر خرچ کر دیا۔ اگر اس میں شرعاً آپ کا حصہ بھی ہوتا تو میں وہ آپ کے پاس ضرور لے کر آتا۔ حضرت عمرؓ نے کہا تو کیا تم ہمارے پاس کچھ نہیں لائے؟ حضرت عمیرؓ نے فرمایا نہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا حضرت عمیرؓ کے لئے (گورنری حمص کا) عہد نامہ پھر لکھ دو۔ حضرت عمیرؓ نے کہا اب میں نہ آپ کی طرف سے گورنری کے لئے تیار ہوں اور نہ آپ کے

بعد کسی اور کی طرف سے۔ کیونکہ اللہ کی قسم! میں (اس گورنری میں خرابی سے) بچ نہ سکا۔ میں نے ایک نصرانی سے (امارت کے زعم میں) کہا تھا اے فلانے! اللہ تجھے رسوا کرے (اور ذمی کو تکلیف پہنچانا برا کام ہے) اے عمرؓ! آپ نے مجھے گورنر بنا کر ایسی خرابیوں میں مبتلا ہونے کے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اے عمرؓ! میری زندگی کے سب سے برے دن وہ ہیں جن میں میں آپ کے ساتھ پیچھے رہ گیا (اور دنیا سے چلا نہیں گیا) پھر انہوں نے حضرت عمرؓ سے اجازت مانگی۔ حضرت عمرؓ نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ اپنے گھر واپس آگئے۔ ان کا گھر مدینہ سے چند میل کے فاصلہ پر تھا۔ جب حضرت عمیرؓ چلے گئے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا میرا تو یہی خیال ہے کہ عمیرؓ نے ہم سے خیانت کی ہے (یہ حمص سے ضرور مال لے کر آئے ہیں جسے اپنے ساتھ میرے پاس نہیں لائے بلکہ سیدھے اپنے گھر پہنچ دیا ہے) حارث نامی ایک آدمی کو سو دینار دے کر حضرت عمرؓ نے کہا یہ دینار لے جاؤ۔ جا کر عمیرؓ کے ہاں اجنبی مہمان بن کر ٹھہرو۔ اگر ان کے گھر میں خرابی دیکھو تو ایسے ہی میرے پاس واپس آ جاؤ اور اگر تنگی کی سخت حالت دیکھو تو انہیں یہ سو دینار دے دینا۔ حضرت حارث گئے وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عمیرؓ دیوار کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھے اپنی قمیض سے جو میں نکال رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر حضرت عمیرؓ کو سلام کیا۔ حضرت عمیرؓ نے (سلام کا جواب دیا اور) کہا اللہ آپ پر رحم کرے۔ آ جاؤ ہمارے مہمان بن جاؤ۔ چنانچہ وہ سواری سے اتر کر ان کے ہاں ٹھہر گئے۔ پھر حضرت عمیرؓ نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ سے حضرت عمیرؓ نے پوچھا آپ نے امیر المؤمنین کو کس حال میں چھوڑا؟ انہوں نے کہا اچھے حال میں تھے۔ حضرت عمیرؓ نے پوچھا مسلمانوں کو کس حال میں چھوڑا؟ انہوں نے کہا وہ بھی ٹھیک تھے۔ حضرت عمیرؓ نے پوچھا کیا امیر المؤمنین شرعی حدود قائم نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے سے ایک گناہ کبیرہ ہو گیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس پر حد شرعی قائم کی تھی اور اسے کوڑے لگائے تھے جس سے اس کا انتقال ہو گیا تھا (لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ اس واقعہ کے ایک ماہ بعد طبعی موت سے ان کا انتقال ہوا) حضرت عمیرؓ نے کہا اے اللہ! عمرؓ کی مدد فرما جہاں تک میں جانتا ہوں وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت عمیرؓ کے ہاں تین دن مہمان رہے۔ ان کے ہاں صرف جو کی ایک روٹی ہوتی تھی جسے وہ حضرت حارث کو کھلا دیا کرتے اور خود بھوکے رہتے۔ آخر جب فاقہ بہت زیادہ ہو گیا تو انہوں نے حضرت حارث سے کہا تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کو فاقہ پر فاقے آگئے اگر تم مناسب سمجھو تو کہیں اور چلے جاؤ۔ اس پر حضرت حارث نے وہ دینار نکال کر ان کو

دیئے اور کہا میرا المؤمنین نے یہ دینار آپ کے لئے بھیجے ہیں آپ انہیں اپنے کام میں لائیں۔ بس دینار دیکھتے ہی ان کی چیخ نکل گئی اور انہوں نے کہا مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں واپس لے جاؤ۔ ان کی بیوی نے کہا واپس نہ کرو لے لو۔ آپ کو ضرورت پڑے گی تو اس میں خرچ کر لینا اور نہ مناسب جگہ خرچ کر دینا (ضرورت مندوں کو دے دینا) حضرت عمیرؓ نے کہا اللہ کی قسم! میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں میں ان کو رکھ لوں۔ اس پر ان کی بیوی نے اپنی قمیض کے نیچے کا داامن پھاڑ کر انہیں ایک ٹکڑا دیا جس میں انہوں نے وہ دینار رکھ لئے اور فوراً گھر سے باہر گئے اور شہداء اور فقراء میں سب تقسیم کر دیئے اور گھر واپس آگئے۔ حضرت عمرؓ کے قاصد یعنی حضرت حارث کا خیال تھا کہ حضرت عمیرؓ ان کو بھی دیناروں میں سے کچھ دیں گے (لیکن ان کو کچھ نہ دیا) اور ان سے کہا میرا المؤمنین کو میرا سلام کہنا۔ چنانچہ حضرت حارث حضرت عمرؓ کے پاس واپس آئے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ حضرت حارث نے کہا میں نے بڑا سخت حال دیکھا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا انہوں نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حضرت حارث نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے حضرت عمیرؓ کو خط لکھا کہ جو نہیں تمہیں میرا یہ خط ملے ہی خط رکھنے سے پہلے ہی میری طرف چلے آؤ۔

چنانچہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس آئے تو حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا آپ نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے جو مرضی آئی کیا۔ آپ ان دیناروں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے کہا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم مجھے ضرورتاً دو کہ تم نے ان کا کیا کیا ہے؟ حضرت عمیرؓ نے کہا میں نے ان کو اپنے لئے اگلے جہاں میں بھیج دیا ہے (یعنی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیئے ہیں) حضرت عمرؓ نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے اور حکم دیا کہ حضرت عمیرؓ کو ایک دستق (یعنی پانچ من دس سیر) غلہ اور دو کپڑے دیئے جائیں۔ حضرت عمیرؓ نے کہا غلہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں گھر میں دو صاع (یعنی سات سیر) جو چھوڑ کر آیا ہوں اور ان دو صاع کے کھانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اور رزق پہنچا دیں گے۔ چنانچہ غلہ تو لیا نہیں۔ الغبہ دونوں کپڑے ملے آئے اور یوں کہا فلائی ام فلاں کے پاس کپڑے نہیں ہیں (اسے دے دوں گا) اور اپنے گھر واپس آگئے اور تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ جب حضرت عمرؓ کو ان کے انتقال کی خبر ملی تو ان کو بہت رنج و صدمہ ہوا اور ان کے لئے خوب دعائے رحمت و مغفرت کی۔ پھر (ان کو دفن کرنے) حضرت عمرؓ پیدل (مدینہ کے قبرستان) جنت البقیع گئے اور آپ کے ساتھ اور

لوگ بھی پیدل چل رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم میں سے ہر آدمی اپنی آرزو اور تمنا ظاہر کرے۔ چنانچہ ایک آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین! میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سامان ہو اور میں اس سے خرید خرید کر اتنے اتنے غلام اللہ کے لئے آزاد کروں۔ دوسرے نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سامان ہو جسے میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تیسرے نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اتنی جسمانی طاقت مل جائے کہ میں خود زمزم سے ڈول نکال نکال کر بیت اللہ کے حاجیوں کو زمزم پلاؤں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس عمیر بن سعد جیسا آدمی ہو جسے میں مسلمانوں کے مختلف کاموں میں اطمینان سے لگا سکوں۔!

### حضرت سعید بن عامر بن جذیم نجفی کا قصہ

حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت سعید بن عامر بن جذیم نجفیؓ کو حمص پر ہمارا گورنر بنایا۔ جب حضرت عمرؓ نے خطاب حمص تشریف لائے تو فرمایا اے حمص والو! تم نے اپنے گورنر کو کیا پایا؟ اس پر انہوں نے حضرت عمرؓ سے اپنے گورنر کی شکایتیں کیں چونکہ حمص والے بھی اپنے گورنر کی ہمیشہ شکایت کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے حمص کو چھوٹا کوفہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں ان سے چار شکایتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جب تک اچھی طرح دن نہیں چڑھ جاتا اس وقت تک یہ ہمارے پاس گھر سے باہر نہیں آتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا واقعی یہ تو بہت بڑی شکایت ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا؟ انہوں نے کہا یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ بھی بڑی شکایت ہے اس کے علاوہ اور کیا؟ انہوں نے کہا مہینے میں ایک دن گھر میں ہی رہتے ہیں ہمارے پاس باہر آتے ہی نہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ بھی بڑی شکایت ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا؟ انہوں نے کہا کبھی کبھی ان کو موت جیسی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے حمص والوں کو اور ان کے گورنر کو ایک جگہ جمع کیا اور یہ دعانا لگی اے اللہ! سعید بن عامر کے بارے میں (اچھے ہونے کا) میرا جو اندازہ تھا آج اسے غلط نہ ہونے دے۔ اس کے بعد حمص والوں سے فرمایا

۱- اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۴۷) عن عبد الملک بن ہارون بن عنترۃ عن ابیہ عن جدہ و اخرجہ الطبرانی ایضاً مثله عن عمیر بن سعد قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۸۴) وفیہ عبد الملک بن ابراہیم بن عنترۃ و هو متروک انتھی ہکذا و قع عن الہیثمی و الذی یتظہران الصواب عبد الملک بن ہارون بن عنترۃ کما فی کتب اسماء الرجال و قد اخرجہ ابن عساکر من طریق محمد بن مزاحم بطولہ بمعناہ مع زیادات کما فی الكنز (ج ۷ ص ۷۹)

تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا جب تک اچھی طرح دن نہیں چڑھ جاتا اس وقت تک یہ گھر سے ہمارے پاس باہر نہیں آتے۔ حضرت سعید نے کہا اللہ کی قسم! اس کی وجہ بتانا مجھے پسند نہیں تھی لیکن اب میں مجبور ہوتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر والوں کا کوئی خادم نہیں ہے اس لئے میں خود آنا گوندھتا ہوں پھر اس انتظار میں بیٹھتا ہوں کہ آئے میں خمیر پیدا ہو جائے۔ پھر میں روٹی پکاتا ہوں۔ پھر وضو کر کے گھر سے باہر ان لوگوں کے پاس آتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمرؓ نے کہا (اے سعید!) آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید نے کہا اس کی وجہ بتانا بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے دن اور رات کو تقسیم کیا ہے دن لور لوگوں کو دیا ہے اور رات اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا مینے میں ایک دن یہ ہمارے پاس باہر نہیں آتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید نے کہا نہ تو میرے پاس کوئی خادم ہے جو میرے کپڑے دھو دے اور نہ میرے پاس اور کپڑے ہیں جنہیں پن کر میں باہر آسکوں۔ اس لئے میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں پھر ان کو سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں۔ جب سوکھ جاتے ہیں تو وہ موٹے ہونے کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں اس لئے میں ان کو رگڑ رگڑ کر نرم کرتا ہوں۔ سارا دن اسی میں گزار جاتا ہے پھر انہیں پن کر شام کو ان لوگوں کے پاس باہر آتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا انہیں کبھی کبھی بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید نے کہا حضرت خیب انصاریؓ کی شہادت کے وقت میں مکہ میں موجود تھا۔

پہلے قریش نے ان کے گوشت کو جگہ جگہ سے کاٹا پھر ان کو سولی پر لٹکایا اور کہا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد (ﷺ) ہوں (تمہاری جگہ ان کو سولی دے دی جائے) حضرت خیب نے کہا اللہ کی قسم! مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوں اور (اس کے بدلہ میں) حضرت محمد (ﷺ) کو ایک کاٹنا چھ لور پھر (حضور ﷺ کی محبت کے جوش میں آکر) زور سے پکار لیا محمد (ﷺ) جب بھی مجھے وہ دن یاد آتا ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اس حالت میں ان کی مدد نہیں کی اور میں اس وقت مشرک تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا تو میرے دل میں زور سے یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے بس اس خیال سے مجھے بے ہوشی کا وہ دورہ پڑ جاتا ہے حضرت عمرؓ نے یہ جو بات سن کر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں آپ کی خدمت سے بے

نیاز کر دیا۔ حضرت سعید نے کہا کیا تم اس سے بہتر بات چاہتے ہو؟ کہ ہم یہ دینار اسے دے دیتے ہیں جو ہمیں سخت ضرورت کے وقت دے دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جس پر انہیں اعتماد تھا اور ان دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں ڈال کر اس سے کہا جا کر یہ دینار فلاں خاندان کی بیویوں، فلاں خاندان کے یتیموں، فلاں خاندان کے مسکینوں اور فلاں خاندان کے مصیبت زدہ لوگوں کو دے آؤ۔ تھوڑے سے دینار بچ گئے تو اپنی بیوی سے کہا لو یہ خرچ کر لو۔ پھر اپنے گورنری کے کام میں مشغول ہو گئے۔ چند دن بعد ان کی بیوی نے کہا کیا آپ ہمارے لئے کوئی خادم نہیں خرید لیتے؟ اس مال کا کیا ہوا؟ حضرت سعید نے کہا وہ مال تمہیں سخت ضرورت کے وقت ملے گا۔

### حضرت ابو ہریرہؓ کا قصہ

حضرت شعبہ بن ابی مالک قرظی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ مروان کی جگہ مدینہ کے گورنر تھے ایک دن لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھائے ہوئے بازار میں آئے اور بطور مزاح فرمایا اے ابن ابی مالک! امیر کے لئے راستہ کشادہ کر دو۔ میں نے ان سے کہا یہ راستہ تو امیر کے لئے کافی ہے۔ انہوں نے کہا اے امیر کے سر پر لکڑیوں کا گٹھڑا بھی ہے۔ اس لئے ان کے لئے یہ راستہ کافی نہیں ہے۔ اس لئے امیر کے لئے راستہ کشادہ کر دو۔

### باب

نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرامؓ کس طرح اللہ کے راستہ میں اور اللہ کی رضامندی کی جگہوں میں مال کو اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو خرچ کیا کرتے تھے اور یہ خرچ کرنا ان کو کس طرح اپنے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ محبوب تھا چنانچہ یہ حضرات فاقد کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر

۱۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۴۵)

۲۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۸۵)

مقدم رکھتے تھے۔

## نبی کریم ﷺ کا خرچ کرنے کی ترغیب دینا

حضرت جریرؓ فرماتے ہیں ہم لوگ دن کے شروع حصہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ آئے جو ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور دھاریدار لوہی چادریں اور عبا پہنے ہوئے تھے اور تلواریں گردنوں میں لٹکا رکھی تھیں۔ ان میں سے اکثر لوگ قبیلہ مضر کے تھے بلکہ سارے ہی لوگ مضر کے تھے۔ ان کے فاقہ کی حالت دیکھ کر آپ کا چہرہ مبارک بدل گیا۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے (کہ شاید وہاں ان کے لئے کچھ مل جائے لیکن وہاں بھی کچھ نہ ملایا آپ نماز کی تیاری کرنے گئے ہوں گے) پھر باہر تشریف لا کر حضرت بلالؓ کو حکم فرمایا۔ انہوں نے پہلے اذان دی (ظہر یا جمعہ کی نماز تھی) پھر اقامت کہی۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر بیان فرمایا اور یہ آیت تلاوت فرمائی: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ سَلِّمُوا لَكَ (سورۃ نساء، آیت: ۱)

ترجمہ: اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں اور تم خدائے تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو اور قربت سے بھی ڈرو بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں اور سورۃ حشر میں ہے:

اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرَ نَفْسًا مَّا قَلَّمْتُمْ لِغَيْبٍ (سورۃ حشر آیت: ۱۸)

ترجمہ: اور اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل (قیامت) کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھجا ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ اپنے دینار، درہم، کپڑے، ایک صاع گندم اور ایک صاع کھجور میں سے کچھ ضرور صدقہ کرے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو تو اسے ہی صدقہ کر دے (یعنی یہ ضروری ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہو صرف وہی صدقہ کرے بلکہ جس کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی اس میں سے خرچ کرے) راوی کہتے ہیں چنانچہ ایک انصاری ایک تھیلی لے کر آئے (وہ اتنی وزنی تھی کہ) ان کا ہاتھ اسے اٹھانے سے عاجز ہونے لگا بلکہ عاجز ہو ہی گیا تھا۔ پھر تو لوگوں کا اتنا تباہ ہوا گیا (اور لوگ بہت سامان لائے) حتیٰ کہ میں نے غلہ اور کپڑے (اور درہم دینار) کے دو بوسے ڈھیر دیکھے۔ یہاں تک کہ میں نے

دیکھا کہ حضور ﷺ کا چہرہ انور (خوشی سے) ایسا چمک رہا ہے کہ گویا کہ آپ کے چہرے پر سونے کا پانی پھیرا ہوا ہے (اس کام کی فضیلت سناتے ہوئے) حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اسے اپنا اجر ملے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ اس طریقہ پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے اجر ملے گا اور ان کے اجر میں سے کچھ کم نہیں ہوگا اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرتا ہے تو اسے اپنا گناہ ملے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ اس طریقہ پر عمل کریں گے ان سب کے برابر گناہ اسے ملے گا اور ان کے گناہ میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے بارے میں حضور ﷺ کے ترغیب دینے کی حدیث گزر چکی ہے۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ یدھ کے دن قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر انہوں نے مزید حدیث ذکر کی۔ اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ آپ نے فرمایا اے جماعت انصار! انہوں نے عرض کیا لیک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں تم لوگ اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے لیکن اس زمانہ میں تم میں یہ خوبیاں تھیں کہ تم یتیموں کا بوجھ اٹھاتے تھے، اپنا مال دوسروں پر خرچ کرتے تھے اور مسافروں کی ہر طرح کی خدمت کرتے تھے یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرما کر اور اپنے نبی کو بھیج کر تم پر بہت بڑا احسان کیا تو اب تم اپنے مال سنبھال کر رکھنے لگ گئے ہو (حالانکہ مسلمان ہونے کے بعد اور زیادہ خرچ کرنا چاہئے تھا کیونکہ اسلام تو دوسروں پر خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے) لہذا انسان جو کچھ کھاتا ہے اس پر اجر ملتا ہے بلکہ درندے اور پرندے جو کچھ (بانگوں کھیتوں وغیرہ میں سے) کھا جاتے ہیں اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے (بس یہ فضیلت سننے کی دیر تھی کہ وہ حضرات انصار ایک دم (اپنے بانگوں کو) واپس گئے اور ہر ایک نے اپنے باغ کی دیوار میں تیس تیس دروازے کھول دیئے۔ تاکہ ہر ایک آئے اور کھائے)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے سب سے پہلے جو بیان فرمایا اس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ منبر پر تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا:

”اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اسلام کو بطور دین کے پسند فرمایا ہے لہذا اسلام میں سخاوت اور حسن اخلاق کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ غور سے سنو! سخاوت جنت کا ایک



درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں دنیا میں جھکی ہوئی ہیں لہذا تم میں سے جو آدمی سخی ہو گا وہ اس درخت کی ایک ٹہنی کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہو گا اور وہ یونہی اسے پکڑے رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہنچادیں گے۔ غور سے سنو! کجوسی دوزخ کا ایک درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں دنیا میں جھکی ہوئی ہیں لہذا تم میں سے جو آدمی کجوس ہو گا وہ اس درخت کی ایک ٹہنی کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہو گا اور وہ یونہی اسے پکڑے رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں پہنچادیں گے۔ پھر آپ نے دو مرتبہ فرمایا تم لوگ اللہ کی وجہ سے سخاوت کو اختیار کرو۔ اللہ کی وجہ سے نجات کو اختیار کرو۔“

نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرامؓ

### کامال خرچ کرنے کا شوق

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ آپ اسے کچھ عطا فرمادیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں دینے کے لئے اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تم ایسا کرو کہ میری طرف سے کوئی چیز اودھار پر خرید لو۔ جب میرے پاس کچھ آئے گا تو وہ اودھار ادا کر دوں گا (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کو دوسروں کو دینے کا بہت زیادہ شوق تھا) اس پر حضرت عمرؓ نے (ازراہ شفقت) کہا یا رسول اللہ! آپ اسے پہلے دے چکے ہیں (اب مزید دینے کے لئے کیوں اس کا اودھار اپنے ذمہ لے رہے ہیں) جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا۔ آپ کو حضرت عمرؓ کی یہ بات پسند نہ آئی۔ ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ خرچ کریں اور عرش والے سے کمی کا ڈر نہ رکھیں اس پر حضور ﷺ مسکرائے۔ انصاری کی اس بات پر خوشی اور مسکراہٹ کے آثار حضور ﷺ کے چہرے پر نظر آنے لگے اور حضور ﷺ نے فرمایا اسی کا مجھے (اللہ کی طرف سے) حکم دیا گیا ہے۔

حضرت جہدؓ فرماتے ہیں ایک آدمی حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور ﷺ سے مانگا حضور ﷺ نے اسے دے دیا۔ پھر ایک اور آدمی نے آکر حضور ﷺ سے مانگا حضور

۱۱ اخرجہ الترمذی کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۵۶) و اخرجہ ایضا البزار وابن جریر و الخرائطی فی مکارم الاخلاق و سعید بن منصور کما فی الکنز (ج ۴ ص ۴۲) قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۲۴۲) رواہ البزار و فیہ اسحاق بن ابراہیم الحنینی و قد ضعفہ الجمهور و ثقہ ابن حبان و قال یحییٰ.

ﷺ نے اس سے وعدہ فرمایا (کیونکہ دینے کے لئے حضور ﷺ کے پاس کچھ تھا نہیں) اس پر حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر (ازراہ شفقت) عرض کیا یا رسول اللہ! آپ سے فلاں نے مانگا آپ نے اسے دیا پھر فلاں نے مانگا آپ نے اسے بھی دیا (پھر دینے کو کچھ نہ رہا) پھر فلاں نے مانگا آپ نے اس سے دینے کا وعدہ فرمایا۔ پھر فلاں نے مانگا آپ نے اس سے بھی وعدہ فرمایا (مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس ہو کرے تو ضرور دیا کریں اور نہ ہو کرے تو انکار فرما دیا کریں اس سے آئندہ دینے کا وعدہ نہ کیا کریں) ایسا معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کو حضرت عمرؓ کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمیؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ خرچ کریں اور عرش والے سے کمی کا ڈر نہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ حضرت بلالؓ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ

ان کے پاس کھجور کے چند ڈھیر ہیں۔ آپ نے پوچھا اے بلال! یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ کے مہمانوں کیلئے یہ انتظام کیا ہے (کہ جب بھی وہ آئیں تو ان کے کھلانے کا سامان پہلے سے موجود ہو) آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ دوزخ کی آگ کا دھواں تم تک پہنچ جائے؟ (یعنی اگر تم ان کے خرچ کرنے سے پہلے ہی مر گئے تو پھر ان کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہو گا) اے بلال! خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کا ڈر نہ رکھو۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے پاس تین پرندے ہدیہ میں آئے۔ آپ نے ایک پرندہ اپنی خادمہ کو دیا۔ اگلے دن وہ پرندہ لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں آئی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ اگلے دن کے لئے کچھ نہ رکھا کرو۔ جب اگلا دن آئے گا تو اس دن کی روزی بھی اللہ پہنچائے گا (لہذا آج جو کچھ پاس ہے وہ سارا ہی آج خرچ کر دیا کرو)۔ آئے والے دنوں کے لئے ذخیرہ کر کے رکھنا جائز ہے لیکن جو کچھ پاس ہے اسے فوراً خرچ کر دینا اور آئندہ کے لئے اللہ پر توکل کرنا درجہ کمال ہے) حضرت علیؓ

۱۔ اخرجہ ابن جریر کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۳۱۱) ۲۔ اخرجہ البزار باسناد حسن و الطبرانی و اخرجہ ابو نعیم فی التحلیہ (ج ۱ ص ۱۴۹) عن عبد اللہ نحوه و رواہ ابو یعلیٰ و الطبرانی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنحوہ باسناد حسن کما فی الترتیب (ج ۲ ص ۱۷۴) ۳۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۲۴۱) و رجالہ ثقات.

فرماتے ہیں حضرت عمرؓ نے لوگوں سے کہا ہمارے پاس اس مال میں سے کچھ بچ گیا ہے (میں اسے کہاں خرچ کر دوں؟) لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین!

آپ ہمارے اجتماعی کاموں میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دیکھنے کی اور اپنے پیشہ اور کاروبار میں لگنے کی فرصت نہیں ملتی اس لئے یہ مال آپ لے لیں۔ حضرت عمرؓ نے مجھ سے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا لوگوں نے آپ کو مشورہ دے ہی دیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ اپنے دل کی بات کہیں۔ اس پر میں نے کہا آپ اپنے یقین کو گمان میں کیوں بدلتے ہیں؟ (آپ کو یقین ہے کہ مال آپ کا نہیں ہے تو پھر آپ کیوں لوگوں سے مشورہ لے کر اور مسلمانوں کا یہ مال خود لے کر اپنے یقین کو گمان میں بدل رہے ہیں؟) حضرت عمرؓ نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کو اس کی دلیل دینی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں میں اس کی دلیل ضرور دوں گا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے آپ کو لوگوں سے زکوٰۃ لینے کے لئے بھیجا تھا۔ جب آپ حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کے پاس زکوٰۃ لینے گئے تھے تو انہوں نے آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا جس پر آپ دونوں میں کچھ بات ہوئی تھی۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا تھا میرے ساتھ حضور ﷺ کے پاس چلو تاکہ ہم حضور ﷺ کو بتائیں کہ حضرت عباس نے ایسے کیا ہے۔ چنانچہ ہم دونوں حضور ﷺ کی خدمت میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی طبیعت پر گرانی ہے تو ہم واپس آگئے۔ اگلے دن ہم پھر آپ کی خدمت میں گئے تو آپ ہشاش بھاش تھے۔ آپ نے حضور ﷺ کو بتایا کہ حضرت عباس نے اس طرح کیا ہے اس پر حضور ﷺ نے آپ کو کہا تھا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے؟ اور ہم نے حضور ﷺ کو بتایا کہ ہم پہلے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو آپ کی طبیعت پر گرانی تھی اور اگلے دن حاضر ہوئے تو آپ ہشاش بھاش تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم پہلے دن جب میرے پاس آئے تھے تو میرے پاس صدقہ کے دو دینار بچے ہوئے تھے اس وجہ سے تمہیں میری طبیعت پر گرانی نظر آئی اور اگلے دن جب تم میرے پاس آئے تو میں وہ دینار خرچ کر چکا تھا اس وجہ سے تم نے مجھے ہشاش بھاش پایا۔ حضرت عمرؓ نے کہا (اے علیؓ!) تم نے ٹھیک کہا اللہ کی قسم! تم نے پہلے مجھے کہا اپنے یقین کو گمان میں

۱) اخرجہ احمد عن ابی البختری و اخرجہ ایضا ابو یعلیٰ و الدورقی و البیهقی و ابو داؤد و فیہ ارسال بین ابی البختری و علی کذا فی الکنز (ج ۴ ص ۳۹) و اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۴ ص ۳۸۲) عن ابی البختری قال قال عمر فذکر بمعناہ وقال البیهقی (ج ۱۰ ص ۲۳۸) رواہ احمد و رجالہ رجال الصحیح و كذلك ابو یعلیٰ و البزار الا ان ابی البختری لم یسمع من علی ولا عمر لہو مرسل صحیح انتہی۔

کیوں بدلتے ہو؟ اور پھر مجھے یہ سارا قصہ سنایا میں ان دونوں باتوں پر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ فرماتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کے پاس مال آیا آپ نے اسے مسلمانوں میں تقسیم کیا لیکن اس میں سے کچھ مال بچ گیا۔ آپ نے اس کے بارے میں لوگوں سے مشورہ لیا۔ لوگوں نے کہا اگر آپ اسے آئندہ پیش آنے والی ضرورت کے لئے رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت علیؓ بالکل خاموش تھے انہوں نے کچھ نہ کہا۔ حضرت عمرؓ نے کہا اے ابوالحسن! کیا ہوا آپ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لوگوں نے اپنی رائے بتا تو دی ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا نہیں آپ کو بھی اپنا مشورہ ضرور دینا ہوگا۔ حضرت علیؓ نے کہا اللہ تعالیٰ (قرآن مجید میں خیر کرنے کی جگہیں بتا کر) اس مال کی تقسیم (بتانے) سے فارغ ہو چکے ہیں (آپ کو یہ بچا ہوا مال بھی وہاں ہی خرچ کرنا چاہئے) پھر حضرت علیؓ نے یہ قصہ بیان کیا کہ حضور اقدس ﷺ کے پاس بحرین سے مال آیا تھا (حضور ﷺ نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا لیکن) ابھی آپ اس کی تقسیم سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رات آگئی (تو آپ نے وہ رات مسجد میں گزار لی اور) ساری نمازیں مسجد میں پڑھائیں (یعنی سارا دن مسجد میں بیٹھ کر تقسیم کرتے رہے گھر نہ گئے) میں نے دیکھا کہ جب تک آپ نے یہ سارا مال تقسیم نہیں کر لیا آپ کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اب تو یہ بقیہ مال آپ کو ہی تقسیم کرنا ہوگا چنانچہ حضرت علیؓ نے اسے تقسیم کیا۔ حضرت طلحہؓ فرماتے ہیں مجھے اس میں سے آٹھ سو درہم ملے۔

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدلا ہوا تھا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ کسی درد کی وجہ سے نہ ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے چہرہ کا رنگ بدلا ہوا ہے آپ نے فرمایا ان سات دینار کی وجہ سے جو کل ہمارے پاس آئے ہیں اور آج شام ہو گئی ہے اور وہ ابھی تک بسترے کے کنارے پر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ سات دینار ہمارے پاس آئے اور ہم ابھی تک ان کو خرچ نہیں کر سکے۔

حضرت سہیل بن سعدؓ فرماتے ہیں حضور اقدس ﷺ کے پاس سات دینار تھے جو آپ نے حضرت عائشہؓ کے پاس رکھوائے ہوئے تھے۔ جب آپ زیادہ ہمارے ہوئے تو آپ نے فرمایا

۱۔ أخرجه الزوار قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۲۳۹) وفيه الحجاج بن اوطاة و هو مدلس

۲۔ أخرجه احمد و ابو یعلی قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۲۳۸) رجال ہمار رجال الصحیح

عائشہ! یہ سونا علیؑ کے پاس بھجوادو۔ اس کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے تو حضرت عائشہؓ آپ کے سنبھالنے میں ایسی مشغول ہوئیں کہ وہ دینار بھجوانہ سکیں۔ یہ بات حضور ﷺ نے کئی مرتبہ ارشاد فرمائی لیکن ہر مرتبہ آپ فرمانے کے بعد بے ہوش ہو جاتے۔ اور حضرت عائشہؓ آپ کے سنبھالنے میں مشغول ہو جاتیں اور وہ دینار بھجواتیں۔ آخر حضور ﷺ نے وہ دینار خود حضرت علیؑ کو بھجوائے اور انہوں نے انہیں صدقہ کر دیا۔ پیر کی رات کو شام کے وقت حضور ﷺ پر نزع کی کیفیت طاری ہونے لگی تو حضرت عائشہؓ نے اپنا چراغ اپنے پڑوس کی ایک عورت کے پاس بھجیا (جو کہ حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ تھیں) اور ان سے کہا ہمارے اس چراغ میں اپنے گھی کے ڈبے میں سے کچھ گھی ڈال دو۔ کیونکہ حضور پر نزع کی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ نے اپنے مرض الوفا میں مجھے حکم دیا کہ جو سونا ہمارے پاس ہے میں اسے صدقہ کر دوں (لیکن میں حضور ﷺ کی خدمت میں مشغول رہی اور صدقہ نہ کر سکی) پھر آپ ﷺ کو افاقہ ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم نے اس سونے کا کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ ہنسا ہو گئے ہیں اس لئے میں آپ کی خدمت میں ایسے لگی کہ بھول گئی۔ حضور ﷺ نے فرمایا وہ سونا لے آؤ۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ حضور ﷺ کی خدمت میں سات یا نو دینار لائیں۔ ابو حازم رلوئی کو شک ہوا کہ دینار کتنے تھے؟ جب حضرت عائشہؓ لے آئیں تو حضور ﷺ نے فرمایا اگر محمد (علیہ السلام) کی اللہ سے ملاقات اس حال میں وتی (یعنی اگر ان کا انتقال اس حال میں ہوتا) کہ یہ دینار ان کے پاس ہوتے تو محمد (علیہ السلام) کیا گمان کر سکتے؟ (یعنی ان کو بہت ندامت ہوتی) اگر محمد (علیہ السلام) کی اللہ سے ملاقات اس حال میں ہوتی کہ یہ دینار ان کے پاس ہوتے تو یہ دینار محمد (علیہ السلام) کے رو سے کو اللہ پر نہ رہنے دیتے۔

حضرت عبید اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں مجھ سے حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا اے میرے بھتیجے! حضور اقدس ﷺ کے ساتھ آپ کا دست مبارک پکڑے ہوئے تھا۔ آپ نے مجھ سے

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر ورواہ ثقافت محتج بهم فی الصحیح ورواہ ابن خبان فی حیجہ من حدیث عائشہ بمعناہ کذا فی الترغیب (ج ۲ ص ۱۷۸) ۲۔ اخرجہ احمد قال بشمی (ج ۱۰ ص ۲۴۰) رواہ احمد باسانید ورجال احدھا رجال الصحیح و اخرجہ البیهقی ۳۔ من حدیث عائشہ بنحوہ ۴۔ اخرجہ البزار و اخرجہ الطبرانی بنحوہ قال بشمی (ج ۲۰ ص ۲۳۹) یاسناد البزار حسن

فرمایا اے ابو ذر! مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی مل جائے اور میں اسے اللہ کے راستہ میں خرچ کر دوں اور مرتے وقت میرے پاس اس میں سے ایک قیراط (دینار کا پانسواں حصہ) ہی بچا ہوا ہو۔ (یعنی میں چاہتا ہوں کہ مرتے دم میرے پاس دینار اور درہم میں سے کچھ بھی نہ ہو) میں نے کہا (آپ قیراط فرما رہے ہیں) یا ہتھار (یعنی چار ہزار دینار) آپ نے فرمایا میں کم مقدار کہنا چاہتا ہوں اور تم زیادہ کہہ رہے ہو۔ میں آخرت چاہتا ہوں اور تم دنیا۔ ایک قیراط (یعنی ہتھار نہیں بلکہ قیراط) یہ بات آپ نے مجھ سے تین بار فرمائی۔ ۳

حضرت ابو ذرؓ حضرت عثمان بن عفان کے پاس آئے (اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی) حضرت عثمانؓ نے ان کو اجازت دی (وہ اندر آگئے) ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ حضرت عثمانؓ نے کہا اے کعب! حضرت عبدالرحمنؓ (بن عوف) کا انتقال ہوا ہے اور وہ بہت سامان چھوڑ کر گئے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت کعب نے کہا اگر وہ اس مال کے بارے میں اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کرتے رہے ہیں تو ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر نے اپنی لاٹھی اٹھا کر حضرت کعب کو ماری اور کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس پہاڑ کے برابر مجھے سونا مل جائے اور میرے خرچ کر دوں اور وہ خرچ کرنا اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے اور میں اپنے پیچھے چھ اوقیہ یعنی دو سو چالیس درہم چھوڑ جاؤں۔ پھر انہوں نے حضرت عثمانؓ کو مخاطب کر کے تین مرتبہ فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ حدیث حضور ﷺ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں سنی ہے۔ حضرت غزو ان بن ابی حاتم سے بھی یہ واقعہ بہت لمبے منقول ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت عثمانؓ نے حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا اے ابو اسحاق! آپ ذرا یہ بتائیں کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے (اور وہ مال آدمی کے پاس ہو دوسروں پر خرچ نہ کیا ہو تو کیا) اس مال والے پر اس مال کے بارے میں جرمائے اور ہر کا خطرہ ہے؟ حضرت کعب نے کہا نہیں۔ حضرت ابو ذرؓ کے پاس ایک لاٹھی تھی۔ انہوں نے کھڑے ہو کر وہ لاٹھی حضرت کعب کے دونوں کانوں کے درمیان سر پر ماری اور پھر فرمائی اے یہودی عورت کے بیٹے! آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اب اس مال میں کسی کا کوئی حق باقی نہ رہا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ

خَصَاصَةً. (سورة حشر آیت ۹)

ترجمہ: اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں: وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حِدِّهِمْ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. (سورة دھر آیت ۸)

ترجمہ: اور وہ لوگ محض خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلْمَسْأَلِ وَالْمَحْرُومِ (سورة معارج آیت ۲۵-۲۴)

ترجمہ: اور جن کے مالوں میں سوالی اور بے سوالی سب کا حق ہے۔ اس طرح کی اور آیات حضرت ابو ذر ذکر کرتے رہے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ نے ہمیں (اللہ کے راستہ میں) صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس دن میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا اگر میں (نیکی میں) حضرت ابو بکرؓ سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج کے دن ہی بڑھ سکتا ہوں (یعنی میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش تو بہت مرتبہ کر چکا ہوں لیکن کبھی ان سے آگے بڑھ نہیں سکا آج بڑھ سکتا ہوں) چنانچہ میں نے اپنا آدھا مال لا کر حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور ﷺ نے پوچھا تم اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے کہا میں ان کے لئے بھی کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ حضور ﷺ نے پھر فرمایا ان کے لئے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا جتنا میں لایا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکرؓ کے پاس (گھر میں) جو کچھ تھا وہ سب کچھ لے آئے حضور ﷺ نے ان سے پوچھا اب ابو بکرؓ! تم اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا میں ان کے لئے اللہ و رسول ﷺ (کی رضامندی) چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ جواب سن کر میں نے اپنے دل میں کہا میں کبھی بھی کسی چیز میں حضرت ابو بکرؓ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضرت عثمانؓ سے کہا ارے مال والو! نیکیاں تو تم لے گئے ہو کہ تم لوگ صدقہ کرتے ہو، غلاموں کو آزاد کرتے ہو، حج کرتے ہو اور اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرتے ہو۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا اور تم لوگ ہم پر رشک کرتے ہو اس

۱ اخراجه البيهقي عن غزوان بن ابي حاتم نحوه كما في الكنز (ج ۳ ص ۳۱۰)

۲ اخراجه ابو داؤد والترمذی وقال حسن صحيح والدارمی والحاکم والبيهقي و ابو نعیم

فی الحلیة وغيرهم كما في منتخب الكنز (ج ۴ ص ۳۴۷)

۳ اخراجه البيهقي في شعب الايمان كذا في الكنز (ج ۳ ص ۳۲۰)

آدمی نے کہا ہم لوگ آپ لوگوں پر رشک کرتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! کوئی آدمی تنگ دستی کی حالت میں ایک درہم خرچ کرے وہ ہم مالداروں کے دس ہزار سے بہتر ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ میں سے تھوڑا سادے رہے ہیں۔

حضرت عبید اللہ بن محمد بن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک سائل امیر المؤمنین حضرت علیؓ کے پاس آکر کھڑا ہوا حضرت علیؓ نے حضرت حسنؓ یا حضرت حسینؓ سے کہا اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میں نے آپ کے پاس چھ درہم رکھوائے تھے ان میں سے ایک درہم دے دو۔ وہ گئے اور انہوں نے واپس آکر کہا امی جان کہہ رہی ہیں وہ چھ درہم تو آپ نے آئے کے لئے رکھوائے تھے۔ حضرت علیؓ نے کہا کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اپنی والدہ سے کہو کہ چھ درہم بھیج دیں چنانچہ انہوں نے چھ درہم حضرت علیؓ کو بھیجا دیئے جو حضرت علیؓ نے اس سائل کو دے دیئے راوی کہتے ہیں حضرت علیؓ نے اپنی نشست بھی نہیں بدلی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس سے ایک اونٹ لئے گزر اچھے وہ پہچنا چاہتا تھا۔ حضرت علیؓ نے کہا یہ اونٹ کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا ایک سو چالیس درہم میں۔ حضرت علیؓ نے کہا اسے یہاں باندھ دو۔ البتہ اس کی قیمت کچھ عرصہ کے بعد دیں گے وہ آدمی اونٹ وہاں باندھ کر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علیؓ نے کہا میرا۔ اس آدمی نے کہا کیا آپ اسے بیچیں گے؟ حضرت علیؓ نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا کتنے میں؟ حضرت علیؓ نے کہا دو سو درہم میں۔ اس نے کہا میں نے اس قیمت میں یہ اونٹ خرید لیا اور حضرت علیؓ کو دو سو درہم دے کر وہ اونٹ لے گیا حضرت علیؓ نے جس آدمی سے اونٹ ادھار خریدا تھا اسے ایک سو چالیس درہم دیئے اور باقی ساٹھ درہم لا کر حضرت فاطمہؓ کو دیئے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت علیؓ نے کہا یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے مَنْ جَاءَنَا بِالْحَسَنَةِ

فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَلِهَا (سورہ انعام آیت ۱۶۰)

ترجمہ: جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس حصے ملیں گے۔

حضرت اہلؓ فرماتے ہیں حضور اقدس ﷺ نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا۔ جب اس نے اپنے سارے جانور جمع کر دیئے تو میں نے دیکھا کہ ان



جانوروں میں اس پر صرف ایک سالہ اونٹنی واجب ہوتی ہے میں نے کہا تم ایک سالہ اونٹنی دے دو۔ کیونکہ زکوٰۃ پر اتنی ہی بنتی ہے۔ اس اونٹنی نے کہا یہ کم عمر اونٹنی نہ تو دودھ دے سکتی ہے اور نہ سواری کے کام آسکتی ہے۔ البتہ یہ اونٹنی جوان اور خوب موٹی تازی ہے تم اسے لے لو۔ میں نے کہا جس جانور کے لینے کا مجھے حکم نہیں ملا میں اسے نہیں لے سکتا البتہ حضور ﷺ تمہارے قریب ہی ہیں اگر تم مناسب سمجھو تو تم مجھے جو دینا چاہتے ہو وہ خود جا کر حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر دو، اگر وہ قبول فرمائیں گے تو میں بھی قبول کر لوں گا، اگر انہوں نے قبول نہ فرمایا تو پھر میں نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا چلو ایسے کر لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ چل پڑا اور اپنے ساتھ وہ اونٹنی بھی لے لی جو مجھے پیش کی تھی پھر ہم لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچ گئے اس نے کہا اے اللہ کے نبی (ﷺ)! آپ کا قاصد مجھ سے میرے جانوروں کی زکوٰۃ لینے آیا تھا اور اللہ کی قسم! اس سے پہلے نہ تو حضور ﷺ (میرے جانوروں کی زکوٰۃ لینے) آئے اور نہ حضور ﷺ کا قاصد۔ چنانچہ آپ (ﷺ) کے قاصد کے سامنے میں نے اپنے سارے جانور جمع کر دیئے آپ (ﷺ) کے قاصد نے بتایا کہ مجھ پر زکوٰۃ میں صرف ایک سالہ اونٹنی واجب ہے جو کہ نہ دودھ دیتی ہے اور نہ سواری کے کام آسکتی ہے۔ اس لئے میں نے آپ کے قاصد کے سامنے ایک جوان موٹی تازی اونٹنی پیش کی کہ اسے لے لے لیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا یا رسول اللہ! وہ اونٹنی یہ ہے میں اسے لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں تو حضور ﷺ نے اس سے فرمایا واجب تو تم پر وہی ایک سالہ اونٹنی ہے تم اپنی مرضی سے اس سے بہتر جانور دینا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بہتر جزا عطا فرمائے ہم اسے قبول کرتے ہیں اس نے (خوشی میں) دوبارہ کہا یا رسول اللہ! وہ اونٹنی یہ ہے میں آپ کے پاس اسے لایا ہوں آپ اسے لے لیں۔ چنانچہ حضور ﷺ نے اسے لینے کا حکم فرما دیا اور اس کے لئے اس کے جانوروں میں برکت کی دعا فرمائی۔ ۱۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہؓ اور حضرت اسماءؓ سے زیادہ سخی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ البتہ ان دونوں کی سخاوت کا طریقہ الگ الگ تھا۔ حضرت عائشہؓ تھوڑی تھوڑی چیز جمع کرتی رہتیں۔ جب کافی چیزیں جمع ہو جاتیں تو پھر ان کو تقسیم فرما دیتیں۔ اور حضرت اسماءؓ تو اگلے دن کے لئے کوئی چیز نہ رکھتیں یعنی جو کچھ تھوڑا بہت آتا اسی دن تقسیم کر دیتیں۔ ۲۔

۱۔ اخرجه احمد و ابو داؤد و ابو یعلیٰ و ابن خزيمة و غیر ہم کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۳۰۹)

۲۔ اخرجه البخاری فی الادب المفرد (ص ۴۳)

حضرت عبدالرحمن بن کعب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبلؓ بہت سخی، نوجوان اور بہت خوبصورت تھے اور اپنی قوم کے نوجوان میں سب سے زیادہ فضیلت والے تھے۔ وہ کوئی چیز چاکر نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ قرض لیتے رہے (اور دوسروں پر خرچ کرتے رہے) یہاں تک کہ سارا مال قرضہ میں گھر گیا۔ اس پر وہ حضور ﷺ کی خدمت میں گئے اور حضور ﷺ سے عرض کیا کہ وہ قرض خواہوں سے کہیں کہ وہ میرا قرض معاف کر دیں۔ (چنانچہ حضور ﷺ نے ان کی سفارش فرمائی) لیکن قرض خواہوں نے انکار کر دیا۔ اگر یہ قرض خواہ کسی کے کہنے کی وجہ سے کسی کا قرضہ معاف کرنے والے ہوتے تو حضور ﷺ کی وجہ سے ضرور معاف کر دیتے آخر حضور ﷺ نے ان کا قرض ادا کرنے کے لئے ان کا سارا مال بیچ دیا یہاں تک کہ حضرت معاذؓ وہاں سے خالی ہاتھ اٹھے ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ جب فتح مکہ کا سال آیا تو حضور ﷺ نے ان کو یمن کے ایک حصہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا تاکہ ان کے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ حضرت معاذ یمن میں گورنر بن کر ٹھہرے رہے اور وہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ کے مال سے یعنی زکوٰۃ کے مال سے تجارت کی۔ چنانچہ یہ یمن میں ٹھہر کر تجارت کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس مال جمع ہو گیا اور اتنے عرصہ میں حضور ﷺ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب یہ (مدینہ کو) واپس آئے تو حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا اس آدمی یعنی حضرت معاذؓ کے پاس قاصد بھیجیں اور جتنے مال سے ان کا گزر اوقات ہو سکے اتنا مال ان کے پاس رہنے دیں، باقی سارا مال ان سے لے لیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا حضور ﷺ نے ان کو (یمن) بھیجا ہی اس لئے تھا تاکہ ان کے نقصان کی تلافی ہو جائے لہذا میں تو ان سے از خود کچھ نہیں لوں گا، ہاں اگر یہ خود کچھ دیں تو لے لوں گا۔ جب حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کی بات نہ مانی تو حضرت عمرؓ حضرت معاذؓ کے پاس خود چلے گئے۔ ان سے اپنی اس بات کا تذکرہ کیا۔ حضرت معاذؓ نے کہا حضورؓ نے مجھے تو اپنے نقصان کی تلافی کے لئے ہی بھیجا تھا لہذا میں تو آپ کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں (زکوٰۃ کا مال لے کر انہوں نے تجارت کی تھی اس سے جو نفع ہوا وہ انہوں نے رکھ لیا اور اصل زکوٰۃ کا مال واپس کر دیا۔ اس لئے یہ نفع ان کا ہی تھا لیکن حضرت عمرؓ کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ اجتماعی مال اس نفع کا ذریعہ بنا ہے اس لئے سارا نفع نہ رکھیں بلکہ بقدر ضرورت رکھ کر باقی نفع بیت المال میں جمع کرادیں یہ فضیلت کی بات تھی کچھ عرصہ کے بعد) حضرت معاذؓ کی حضرت عمرؓ سے ملاقات ہوئی تو ان سے حضرت معاذؓ نے کہا میں نے آپ کی بات مان لی جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں ویسے کر لیتا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت زیادہ پانی میں ہوں اور ڈوبنے سے ڈر رہا ہوں اور اے عمرؓ! پھر آپ نے مجھے ڈوبنے سے چلایا۔ پھر حضرت معاذؓ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور ان کو سارا قصہ سنایا (اور اپنا سارا مال لا کر ان کو دے دیا) اور قسم کھا کر ان سے کہا کہ

نہوں نے ان سے کچھ نہیں چھپایا چنانچہ اپنا کوڑا بھی سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا اللہ کی قسم! میں تم سے یہ مال نہیں لوں گا۔ میں نے تم کو یہ ہدیہ کر دیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اب حضرت معاذؓ کا یہ مال لینا ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے تو یہ سارا مال بیت المال کو دے دیا جس سے یہ مال ان کے لئے حلال اور پاکیزہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے ان کو ہدیہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت معاذؓ ملک شام چلے گئے۔

حضرت لکن کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبلؓ ایک جوان، نہایت خوبصورت، بہت سخی آدمی تھے۔ اپنی قوم کے بہترین نوجوانوں میں سے تھے جو آدمی بھی ان سے کوئی چیز مانگتا وہ فوراً سے دے دیتے اسی وجہ سے (کہ وہ قرضہ لے کر دوسروں کو دے دیتے) ان پر اتنا قرضہ ہو گیا کہ ان کا سارا مال قرضہ میں گھر گیا۔ آگے پچھلی حدیث جیسی ذکر کی۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبلؓ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے اور سب سے زیادہ کھلے ہاتھ والے یعنی سخی تھے۔ اسی سخاوت کی وجہ سے بہت سا قرضہ اٹھالیا (چونکہ سارا دوسروں پر خرچ کر دیتے تھے اس لئے قرض ادا کرنے کیلئے ان کے پاس کچھ تھا نہیں) آخر قرض خواہ ان کے پیچھے بڑ گئے تو یہ ان سے چھپ کر کئی دن اپنے گھر بیٹھے رہے (تھک ہار کر) ان کے قرض خواہ مد لینے کیلئے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور ﷺ نے قاصد بھیج کر حضرت معاذؓ کو بلایا۔ حضرت معاذؓ حضور کے پاس آئے تو وہ قرض خواہ بھی ان کے ساتھ آگئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہمیں ان سے ہمارا حق دلوا دیں۔ حضور ﷺ نے (قرض معاف کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے) فرمایا جو معاذؓ کا قرضہ معاف کرے اللہ اس پر رحم فرمائے۔ یہ دعائیں کر کچھ قرض خواہوں نے قرضہ معاف کر دیا لیکن باقی قرض خواہوں نے معاف کرنے سے انکار کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے معاذ! ان (کا قرض ادا کرنے) کے لئے تو صبر سے کام لو۔ یعنی سارا مال بھی دینا پڑے تو تم دے دو اور صبر سے کام لو۔ آخر حضور ﷺ نے حضرت معاذؓ کا سارا مال لے کر ان کے قرض خواہوں کو دے دیا۔ انہوں نے آپس میں تقسیم کیا تو ہر ایک کو اس کے سات حصوں میں سے پانچ حصے ملے۔ اس پر ان قرض خواہوں نے حضور ﷺ سے کہا (ہمارا باقی قرضہ ادا کرنے کے لئے) انہیں (غلام بنا کر) بیچ دیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ اب انہیں چھوڑ دو۔ اب ان سے باقی قرضہ وصول کرنے کے لئے تمہارے پاس کوئی

۱۔ اخرجه عبدالرزاق وابن راهويه عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك عن ابيه كذا في الكنز (ج ۳ ص ۱۲۶) ۲۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۳۱) من طریق عبدالرزاق باسنادہ و اخرجه الحاكم عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه فذكره مختصرا قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

راستہ نہیں رہا اس کے بعد حضرت معاذؓ وسلمہ کے ہاں چلے گئے۔ وہاں ان سے ایک آدمی نے کہا ہے ابو عبد الرحمن! چونکہ تمہارا نکل فقیر ہو گئے ہو اس لئے تم جا کر حضور ﷺ سے کچھ مانگ لو۔ انہوں نے کہا میں حضور ﷺ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ حضرت معاذؓ کچھ دن اسی طرح رہے پھر حضور ﷺ نے ان کو بلا کر یمن بھیج دیا اور فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نقصان کی تلافی کر دے اور تمہارے قرض کو ادا کروادے چنانچہ حضرت معاذؓ یمن چلے گئے اور وہیں رہے یہاں تک کہ حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا جس سال حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمر بن خطابؓ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اس سال حضرت معاذؓ بھی حج کے لئے آئے۔ آٹھ ذی الحجہ کو دونوں کی حج پر ملاقات ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے سے حضور ﷺ کے بارے میں تعزیت کی پھر دونوں زمین پر بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے اور پھر حضرت عمرؓ نے حضرت معاذؓ کے پاس چند غلام دیکھے۔

حضرت عبداللہ (بن مسعود) فرماتے ہیں جب حضور اقدس ﷺ کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے حضرت ابو بکرؓ کو خلیفہ بنا لیا اور حضور ﷺ نے (اپنی زندگی میں) حضرت معاذؓ کو یمن بھیجا تھا تو حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ وہاں مکہ میں حضرت عمرؓ کی حضرت معاذؓ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت معاذؓ کے ساتھ بہت سے غلام تھے حضرت عمرؓ نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت معاذؓ نے کہا یہ یمن والوں نے مجھے ہدیہ کئے ہیں اور یہ حضرت ابو بکرؓ کے لئے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے ان سے کہا تمہارے لئے میری رائے یہ ہے کہ تم ان سب غلاموں کو حضرت ابو بکرؓ کے پاس لے جاؤ۔ رومی کہتے ہیں حضرت معاذؓ کی اگلے دن حضرت عمرؓ سے پھر ملاقات ہوئی تو حضرت معاذؓ نے ان سے کہا اے ابن الخطاب! آج رات میں نے خواب دیکھا کہ میں آگ میں کودنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے کمر سے پکڑے ہوئے ہیں۔ اس لئے اب تو میری یہی رائے ہے کہ میں آپ کی بات مان لوں۔ چنانچہ ان غلاموں کو لے کر حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا یہ غلام تو مجھے ہدیہ میں ملے ہیں اور یہ غلام آپ کے لئے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا ہم تمہارے ہدیہ کی تمہارے لئے منظوری دیتے ہیں اور پھر حضرت معاذؓ وہاں سے نماز کے لئے باہر نکلے (اور انہوں نے نماز پڑھائی) تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت معاذؓ نے پوچھا تم کس لئے نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے لئے۔ اس پر حضرت معاذؓ نے کہا اب تو تم لوگ بھی اللہ کے ہو گئے ہو اور یہ کہہ کر ان سب کو آزاد کر دیا۔

۱۔ اخرجه الحاكم ايضا فذکر نحو حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه و هكذا اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۲۲۳) عن جابر رضى الله تعالى عنه بنحوه. ۲۔ اخرجه الحاكم من طريق ابى وائل قال الحاكم (ج ۳ ص ۲۷۲) و وافقه الذهبي صحيح على شرط الصحيحين ولم يخترجاه

## اپنی پیاری چیزوں کو خرچ کرنا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی۔ انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے ایک ایسی زمین ملی ہے کہ اس سے زیادہ عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ حضور ﷺ نے فرمایا اگر تم چاہو تو زمین کو وقف کر دو اور اس کی آمدنی کو صدقہ کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شرائط پر اس زمین کی آمدنی کو صدقہ کیا کہ نہ تو یہ زمین بیچی جاسکے گی، نہ کسی کو ہدیہ کی جاسکے گی اور نہ کسی کو وراثت میں مل سکے گی اور اس کی آمدنی فقیروں، رشتہ داروں، غلاموں کے آزاد کرانے، جہاد فی سبیل اللہ میں مہمانوں پر خرچ کی جائے گی اور جو اس زمین کا متولی بنے اس کیلئے اجازت ہے کہ وہ عام دستور کے مطابق اس کی آمدنی میں سے خود کھالے اور اپنے دوست کو کھلا دے لیکن اسے اپنے لئے اس میں سے مال جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو خط لکھا کہ وہ ان کے لئے جلواء (خراسان کے راستہ میں ایک شہر ہے سن ۱۶ھ میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا تھا) کے قیدیوں میں سے ایک باندی خرید لیں (چنانچہ انہوں نے ایک باندی خرید کر حضرت عمرؓ کے پاس بھیج دی وہ حضرت عمرؓ کو بہت اچھی لگی) حضرت عمرؓ نے اس باندی کو بلایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (سورۃ آل عمران آیت ۹۲)

ترجمہ: ”تم خیر کامل کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے۔ یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ اور اس باندی کو آزاد کر دیا۔“<sup>۲</sup>

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی ایک باندی تھی۔ جب وہ (اپنے اخلاق و عادات اور حسن و جمال کی وجہ سے) انہیں زیادہ پسند آنے لگی تو اسے آزاد کر کے اپنے ایک آزاد کردہ غلام سے اس کی شادی کر دی۔ پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا تو حضرت نافع کہتے ہیں میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کو دیکھا کہ وہ اس بچے کو اٹھا کر اس کا بوسہ لیتے اور کہتے واہ واہ! فلانی کی کتنی اچھی خوشبو اس میں سے آرہی ہے ان کی مراد وہی آزاد کردہ باندی تھی۔<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup> اخراجہ ابن سعد ج ۴ ص ۱۲۳

<sup>۲</sup> اخراجہ الاثمة الستہ کذا فی نصب الرایة (ج ۳ ص ۴۷۶)

<sup>۳</sup> اخراجہ عبد بن حمید و ابن جریر و ابن المنذر کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۳۱۴)

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں مجھے ایک مرتبہ لَبْنٌ تَنَاوُ الْبُرِّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ والی آیت یاد آئی (آیت کا ترجمہ دو حدیث پہلے گزر چکا ہے) تو میں نے ان تمام چیزوں میں غور کیا جو اللہ نے مجھے دے رکھی تھیں (کہ ان میں سے کون سی چیز مجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے) تو مجھے اپنی روئی باندھی مر جانہ سے کوئی چیز زیادہ پیاری نظر نہ آئی۔ اس لئے میں نے کہا یہ مر جانہ اللہ کیلئے آزاد ہے (آزاد کرنے کے بعد بھی دل میں اس سے تعلق باقی رہا جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں) کہ اللہ کو دینے کے بعد چیز کو واپس لینا لازم نہ آتا تو میں اس سے ضرور شادی کر لیتا۔

حاکم کی روایت میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ پھر میں نے اس کی شادی نافع سے کر دی چنانچہ اب وہ نافع کی اولاد کی ماں ہے۔

ابو نعیم نے حلیہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عمرؓ کی یہ عادت تھی کہ جب انہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز زیادہ پسند آئے لگتی تو اسے فوراً اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے اور یوں اللہ کا قرب حاصل کر لیتے اور ان کے غلام بھی ان کی اس عادت شریفہ سے واقف ہو گئے تھے۔ چنانچہ بعض دفعہ ان کے بعض غلام نیک اعمال میں خوب زور دکھاتے اور ہر وقت مسجد میں اعمال میں لگے رہتے۔ جب حضرت ابن عمرؓ ان کو اس اچھی حالت پر دیکھتے تو ان کو آزاد کر دیتے۔ اس پر ان کے ساتھی ان سے کہتے اے ابو عبد الرحمن اللہ کی قسم! یہ لوگ تو اس طرح آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں (انہیں مسجد سے اور مسجد والے اعمال سے دلی لگاؤ کوئی نہیں ہے صرف آپ کو دکھانے کے لئے یہ کرتے ہیں تاکہ آپ خوش ہو کر انہیں آزاد کر دیں) تو یہ جواب دیتے کہ ہمیں جو اللہ کے اعمال میں لگ کر دھوکہ دے گا ہم اللہ کے لئے اس سے دھوکہ کھا جائیں گے چنانچہ میں نے ایک دن شام کو دیکھا کہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ ایک عمدہ اونٹ پر جا رہے ہیں جسے انہوں نے بہت زیادہ قیمت دے کر خریدا تھا۔ چلتے چلتے انہیں اس کی چال بڑی پسند آئی وہیں اونٹ کو بٹھایا اور اس سے نیچے اتر کر فرمایا اے نافع! اس کی نکیل نکال دو اور اس کا کبادہ اتار دو اور اس پر جھول ڈال دو اور اس کے کوہان کے ایک طرف زخم کر دو (اس زمانے میں یہ زخم اس بات کی نشانی تھا کہ یہ جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جائے گا) اور پھر اسے قربانی کے جانوروں میں شامل

۱ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۶ ص ۳۲۶) رواہ البزار وفیہ من لم اعرفہ اہ

۲ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۵۶۱) واخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۹۵) من

کر دو۔ ابو نعیم کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت لئن عمرؓ اپنی اونٹنی پر جا رہے تھے کہ وہ اونٹنی انہیں اچھی لگنے لگی تو فوراً اسے (ٹھانے کے لئے) فرمایا انخ (اس زمانے میں اس کو از سے عرب اونٹ کو بٹھایا کرتے تھے) اور اسے بٹھا کر فرمایا اے نافع! اس سے کجاوہ اتار لو۔ میں یہ سمجھا کہ وہ مجھے کجاوہ اتارنے کو جو فرما رہے ہیں یا تو اپنی کوئی ضرورت اس کجاوہ سے پوری کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو اس اونٹنی کے بدلے میں کوئی شک گزرا ہے (کہ کہیں اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے) چنانچہ میں نے اس سے کجاوہ اتار دیا تو مجھ سے فرمایا دیکھو اس پر جو سامان ہے کیا اس سے دوسری اونٹنی خریدی جاسکتی ہے؟ (یعنی اسے تو اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے کیونکہ یہ پسند آگئی ہے اور پسندیدہ مال اللہ کے نام پر قربان کر دینا چاہئے اور اس کے سامان کو بیچ کر اس سے سفر کے لئے دوسری اونٹنی خرید لی جائے) میں نے کہا میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو اسے بیچ کر اس کی قیمت سے دوسری اونٹنی خرید سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس اونٹنی کو جھول پہنائی اور اس کی گردن میں جوتے کا ہڈا ڈالا (یہ ہار بھی اس بات کی نشانی تھی کہ اس جانور کو حرم شریف میں لے جا کر قربان کیا جائے گا) اور اسے اپنے قربانی کے اونٹوں میں شامل کر دیا اور ان کو جب بھی اپنی کوئی چیز اچھی لگنے لگتی تو اسے فوراً آگے بھیج دیتے۔ (یعنی اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے تاکہ کل قیامت کو کام آئے) ابو نعیم کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا مستقل معمول یہ تھا کہ جب بھی انہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز پسند آجاتی تو فوراً اسے اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے اور اس کی ملکیت سے دست بردار ہو جاتے اور بعض مرتبہ ایک ہی مجلس میں تیس ہزار اللہ کے لئے دے دیتے اور دوسرے دن کو لئن عامر نے تیس ہزار دیئے تو انہوں نے (مجھ سے) فرمایا اے نافع! میں ڈرتا ہوں کہ کہیں لئن عامر کے درہم مجھے فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں۔ جا تو آزاد ہے۔ سفر اور رمضان شریف کے علاوہ کبھی بھی پورے مہینے مسلسل گوشت نہیں کھاتے تھے۔ بعض دفعہ پورا مہینہ گزر جاتا اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ چکھتے۔ ۱

حضرت سعید بن ابی ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جعقہ مقام پر قیام فرمایا اور وہ دم مار بھی تھے۔ انہوں نے کہا چھلی کھانے کو میرا دل چاہ رہا ہے

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ - ج ۱ ص ۲۹۴

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۹۴) و اخرجہ الطبرانی مختصراً كما فی المجموع

(ج ۹ ص ۳۴۷) و اخرجہ ابن سعد عن نافع مختصراً (ج ۴ ص ۱۳۲)

ان کے ساتھیوں نے بہت تلاش کیا بس صرف ایک مچھلی ملی۔ ان کی بیوی حضرت صفیہ بنت ابی عبید نے اس مچھلی کو لیا اور اسے تیار کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اتنے میں ایک مسکین ان کے پاس آکر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اس مسکین سے کہا تم یہ مچھلی لے لو۔ اس پر ان کی بیوی نے کہا سبحان اللہ! ہم نے آپ کی خاطر بڑی مشقت اٹھا کر یہ مچھلی خاص طور پر آپ کے لئے تیار کی ہے (اس لئے اسے تو آپ خود کھائیں) ہمارے پاس سامان سفر ہے اس میں سے اس مسکین کو دے دیں گے۔ انہوں نے (اپنا نام لے کر) کہا عبد اللہ کو یہ مچھلی بہت پسند آرہی ہے (اس لئے اس مسکین کو یہی مچھلی دینی ہے۔ لہٰذا لئن سعد نے اس جیسی روایت ذکر کی ہے اس میں یہ ہے کہ ان کی بیوی نے کہا ہم اس مسکین کو ایک درہم دے دیتے ہیں، یہ درہم اس مچھلی سے زیادہ اس کے کام آئے گا، آپ یہ مچھلی کھائیں اور اپنی چاہت پوری کریں۔ انہوں نے کہا میری چاہت وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں انصار میں سب سے زیادہ کھجوروں کے باغات حضرت ابو طلحہؓ کے پاس تھے اور انہیں اپنے باغوں میں سے سب سے زیادہ محبوب بیر جاہلغ تھا جو کہ بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا اس کا پانی بہت عمدہ تھا حضور ﷺ بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب لَنْ تَأْتُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (سورت آل عمران آیت ۹۲) آیت نازل ہوئی۔

ترجمہ: تم خیر کامل کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ تو حضرت ابو طلحہؓ نے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنی پیاری چیز خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے اور مجھے اپنے سارے مال میں سے سب سے زیادہ محبوب بیر جاہلغ ہے، میں اسے اللہ کیلئے صدقہ کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی پر مجھے جنت عطا فرمائیں گے اور اس کے اجر کو میرے لئے ذخیرہ بنا کر رکھیں گے جو مجھے قیامت کے دن کام آئے گا۔ یا رسول اللہ! آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے خرچ فرمادیں۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا واہ! یہ بڑے نفع والا مال ہے۔ یہ بڑے نفع والا مال ہے۔ سہ خطاری میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں نے تمہاری بات سن لی ہے۔ میری رائے

۱) اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۹۷) ۲) اخرجه ايضا من طریق عمر ابن سعد

بنحوہ واخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۱۲۲) عن حبيب بن ابی مرزوق مع زیادة بمعناه۔

۳) اخرجه الشيخان کذا فی الترغیب (ج ۲ ص ۱۴۰)



یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایسے ہی کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہؓ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔

حضرت محمد بن معمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تو حضرت زید بن حارثہؓ اپنی ایک گھوڑی لے کر حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کا نام شبلیہ تھا اور انہیں اپنے مال میں سے کوئی چیز اس گھوڑی سے زیادہ محبوب نہیں تھی اور عرض کیا کہ یہ گھوڑی اللہ کیلئے صدقہ ہے حضور ﷺ نے اسے قبول فرما کر ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زیدؓ کو سواری کے لئے دے دی (حضرت زید بن حارثہ کو یہ اچھا نہ لگا کہ ان کی صدقہ کی ہوئی گھوڑی ان کے ہی بیٹے کو مل گئی۔ یوں صدقہ کی ہوئی چیز اپنے ہی گھر (واپس آگئی) حضور ﷺ نے اس ناگواری کا اثر ان کے چہرے میں محسوس فرمایا تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اس صدقہ کو قبول کر چکے ہیں (لہذا اب یہ گھوڑی جسے بھی مل جائے تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی) حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں ہر مال میں تین شریک ہوتے ہیں ایک تو تقدیر ہے جو مال کے ہلاک ہونے اور جانوروں کے مر جانے کی صوت میں تیرا مال لے جاتی ہے اور تجھ سے پوچھتی بھی نہیں ہے کہ وہ تیرا عمدہ مال لے جائے یا گھٹیا۔ دوسرا شریک وارث ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے کہ تو (قبر میں) سر رکھے یعنی تو مر جائے اور وہ تیرا مال لے جائے۔ وہ تیرا مال بھی لے جائے گا اور تو اس کی نگاہ میں برا بھی ہو گا اور تیسرا شریک خود ہے۔ لہذا تم اس بات کی پوری کوشش کرو کہ تم ان تینوں شریکوں میں سے سب سے کمزور شریک نہ ہو (یعنی تم ان دونوں سے زیادہ مال اللہ کے راستہ میں خرچ کر لو) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔

غور سے سنو! یہ اونٹ مجھے اپنے مال میں سے بہت اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے چاہا کہ میں اسے اپنے (کام آنے کے) لئے آگے (آخرت میں) بھیج دوں۔

۱۔ اخرجہ سعید بن منصور و عبد بن حمید و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و اخرجہ ابن جریر عن عمرو بن دینار مثله و عبدالرزاق و ابن جریر عن ایوب بمعناه كما في الدر المنثور (ج ۲ ص ۵۰)

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۶۳)

## اپنی ضرورت کے باوجود مال دوسروں پر خرچ کرنا

حضرت سہیل بن سعدؓ فرماتے ہیں ایک عورت حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں ایک چادر لے کر آئی جو کہ بنی ہوئی تھی اور اس کا کنارہ بھی اسی کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ (یعنی وہ چادر کسی اور کپڑے سے کاٹ کر نہیں بنائی گئی تھی بلکہ کنارے سمیت بطور چادر کے ہی وہ بنی گئی تھی) اور اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں یہ چادر اس لئے لائی ہوں تاکہ آپ اسے پہن لیں۔ آپ نے اس عورت سے چادر لے لی اور چونکہ آپ کو اس چادر کی واقعی ضرورت تھی اس لئے آپ نے اسے پہن لیا۔ آپ کے صحابہؓ میں سے ایک صاحب نے حضور ﷺ پر وہ چادر دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو بہت اچھی چادر ہے، یہ تو آپ مجھے پہننے کو دے دیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا بہت اچھا (اور یہ کہہ کر چادر اسے دے دی حالانکہ آپ کو خود اس کی ضرورت تھی) جب حضور ﷺ وہاں سے کھڑے ہو کر تشریف لے گئے تو آپ کے صحابہؓ نے ان صاحب کو بہت ملامت کی اور یوں کہا تم نے اچھا نہیں کیا، تم خود دیکھ رہے ہو کہ حضور ﷺ کو خود اس چادر کی ضرورت تھی اسی وجہ سے حضور ﷺ نے اسے لے کر پہن لیا۔ پھر تم نے حضور ﷺ سے وہ چادر مانگ لی اور تمہیں معلوم ہے کہ حضور ﷺ سے جب بھی کوئی چیز مانگی جائے تو حضور ﷺ اس کا انکار نہیں فرماتے بلکہ دے دیتے ہیں۔ ان صحابی نے کہا میں نے تو صرف اس لئے مانگی ہے کہ حضور ﷺ کے پہننے سے چادر بدلت ہو گئی ہے۔ میں نے حضور ﷺ سے لے کر اسے ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھوں گا تاکہ مجھے اس میں کفن دیا جائے۔

حضرت سہیلؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کے لئے ایک دھاری دار لونیا کالے رنگ کا جوڑا بن کر تیار کیا گیا۔ اس کا کنارہ سفید کیا گیا۔ حضور ﷺ اسے پہن کر اپنے صحابہؓ کے پاس باہر تشریف لائے آپ نے اپنی ران پر (ازراہ خوشی) ہاتھ مار کر فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں یہ جوڑا کتنا اچھا ہے۔ ایک اعرابی نے کہا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ تو آپ مجھے دے دیں۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی آپ سے کوئی چیز مانگی جاتی تھی آپ اس کے جواب میں ”نہیں“ نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا! تم لے لو اور یہ کہہ کر وہ جوڑا اسے دے دیا اور اپنے پرانے دو کپڑے منگوا کر پہن لئے اور پھر آپ نے اسی طرح کا جوڑا بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ جوڑا بننا شروع ہو گیا لیکن ابھی وہ بن ہی رہا تھا اور کھڑی پر چڑھا

ہوا تھا کہ حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا۔

## حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ کے خرچ کرنے کا قصہ

حضرت ابو عقیلؓ فرماتے ہیں وہ ساری رات (دو صاع) سات سیر) کھجوروں کے عوض اپنی کمر پر سی باندھ کر کنویں میں سے پانی نکالتے رہے پھر ایک صاع کھجور لا کر اپنے گھر والوں کو دی تاکہ وہ اسے اپنے کام میں لائیں اور دوسرا صاع قرب خداوندی حاصل کرنے کے لئے حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کیا اور حضور ﷺ کو بتلادیا کہ یہ صاع محنت کر کے حاصل کیا ہے حضور ﷺ نے فرمایا اسے صدقہ کے مال میں رکھ دو (چونکہ یہ خود غریب اور محتاج تھے اور اس ایک صاع کھجور کی خود ان کو ضرورت تھی اس وجہ سے) منافقوں نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ کو اس کے صاع کی کیا ضرورت تھی یہ تو خود اس صاع کا محتاج تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں: **الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ** (سورۃ توبہ آیت ۷۹)

ترجمہ: ”یہ (منافقین) ایسے ہیں کہ نقلی صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں اور (خصوص) ان لوگوں پر (اور زیادہ) جن کو بجز محنت مزدوری کی آمدنی کے اور کچھ میسر نہیں ہوتا۔ یعنی ان سے تمسخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس تمسخر کا (تو خاص) بدلہ دے گا اور (مطلق طعن کا یہ بدلہ ملے ہی گا) کہ ان کے لئے آخرت میں درد ناک سزا ہوگی۔“

حضرت ابو سلمہ اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے اعلان فرمایا صدقہ کرو کیونکہ میں ایک جماعت بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس چار ہزار درہم ہیں ان میں سے دو ہزار تو میں اپنے رب کو ادھار دے رہا ہوں (اللہ کو ادھار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں یہ مال ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتا ہوں اور آخرت میں اس کا بدلہ لوں گا) اور دو ہزار میں اپنے اہل و عیال کو دے رہا ہوں۔ حضور ﷺ نے (خوش ہو کر) ان کو عادی اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے جو تم دے رہے ہو اور اس میں بھی برکت دے جو تم (گھر والوں کیلئے) رکھ رہے ہو اور ایک انصاری نے رات بھر مزدوری کر کے دو صاع کھجوریں جمع کیں۔

۱ عند ابن جریر کذا فی کثر العمال (ج ۴ ص ۴۲) ۲ اخراجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج

انہوں نے خدمت میں آکر عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے (مزدوری کر کے) دو صاع کھجوریں جمع کی ہیں ایک صاع میں اپنے رب کو دے رہا ہوں اور ایک صاع میں اپنے اہل و عیال کیلئے رکھ رہا ہوں۔ اس پر منافقوں نے (زیادہ دینے والے اور کم دینے والے) دونوں قسم کے حضرات میں عیب نکالنے شروع کر دیئے اور کہنے لگے عبدالرحمن بن عوف جیسے زیادہ خرچ کرنے والے تو صرف ریا اور دکھاوے کی وجہ سے اتنا خرچ کر رہے ہیں اور یہ غریب اور ضرورت مند آدمی جو ایک صاع کھجور دے رہا ہے اللہ اور رسول ﷺ کو اس کے صاع کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے الذین یلمزون والی آیت نازل فرمائی: ۱۰۰

### حضرت عبداللہ بن زیدؓ کے خرچ کرنے کا قصہ

حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہؓ جنہوں نے خواب میں (فرشتے کو) اذان (دیتے ہوئے) دیکھا تھا وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میرا یہ باغ صدقہ ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو دے رہا ہوں وہ جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ جب ان کے والدین کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارا گزارہ تو اسی باغ پر ہو رہا تھا (ہمارے بیٹے نے اسے صدقہ کر دیا حضور ﷺ نے وہ باغ ان دونوں کو دے دیا۔ پھر جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو وہ باغ ان کے بیٹے (حضرت عبداللہ بن زید) کو وراثت میں مل گیا (اور وارث بن کر اس باغ کے مالک ہو گئے) ۱۰۱

### ایک انصاری کے خرچ کرنے کا قصہ

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے بھوک نے پریشان کر رکھا ہے۔ حضور ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس آدمی بھیجا (کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو بھیج دیں) انہوں نے جواب دیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! میرے پاس پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پھر آپ نے دوسری ازواج کے پاس باری باری پیغام بھیجا تو سب نے

۱۰ عندا لیزار قال البزار لم نسمع اصا اسندہ من حدیث عمر بن ابی سلمة الا ظالوت بن عبادو قال الہیثمی (ج ۷ ص ۳۶) وفیہ عمر بن ابی سلمة وثقہ العجلی و ابو خنیمة و ابن حبان و ضعفہ شعبہ وغیرہ و بقیة رجا لہما ثقات انتہی ۱۰۱ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۳۳۶) قال الذہبی فیہ ارسال

یہی جواب دیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! میرے پاس پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پھر آپ نے (صحابہؓ سے) فرمایا سے آج رات کون اپنا مہمان بنا تا ہے؟ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں تیار ہوں۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں صرف بچوں کے لئے کچھ کھانے کو ہے۔ اس انصاری نے کہا بچوں کو کسی چیز سے بھلا دینا اور جب وہ کھانا مانگیں تو انہیں سلا دینا اور جب ہمارا مہمان اندر آئے تو چراغ بجھا دینا اور اس کے سامنے ایسے ظاہر کرنا کہ جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب وہ مہمان کھانا کھانے لگے تو کھڑی ہو کر (ٹھیک کرنے کے بہانے سے) چراغ بجھا دینا۔ چنانچہ وہ سب کھانے کے لئے بیٹھے لیکن صرف مہمان نے کھایا اور انصاری اور ان کی بیوی دونوں نے بھوکے ہی رات گزار دی۔ جب وہ صبح کو حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور ﷺ نے فرمایا تم دونوں نے آج رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اللہ کو بہت پسند آیا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (سورۃ الحشر آیت ۹)

ترجمہ: ”اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔“

## سات گھروں کا قصہ

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں بجزی کی ایک سری سات گھروں میں گھومتی رہی ہر ایک دوسرے کو اپنے پر ترجیح دیتا رہا۔ حالانکہ ان میں سے ہر ایک کو اس سری کی ضرورت تھی یہاں تک کہ سات گھروں کا چکر کاٹ کر آخر وہ سری اسی پہلے گھر میں واپس آئی جہاں سے وہ چلی تھی۔

## اللہ تعالیٰ کو قرضِ حسنہ دینے والے

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول

۱۔ اخروجه مسلم وغيره كذا في الترغيب (ج ۴ ص ۱۴۷) واخروجه ايضا البخاري والنسائي وفي رواية لمسلم تسمية هذا لا نصارى بابي طلحة كما في التفسير لابن كثير (ج ۴ ص ۳۳۸) وفي رواية الطبراني تسمية هذا الرجل الذي جاء بابي هريرة كما ذكره الحافظ الفتح (ج ۸ ص ۴۴۶)

۲۔ اخروجه ابن جرير كذا في الكنز (ج ۳ ص ۱۷۶)

اللہ! فلاں آدمی کا کھجور کا ایک درخت ہے اور مجھے اپنی دیوار کی اصلاح کے لئے اس کی ضرورت ہے آپ اسے حکم فرمادیں کہ وہ درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار کو اس کے ذریعہ درست کر سکوں۔ حضور ﷺ نے اس آدمی کو فرمایا تم کھجور کا یہ درخت اسے دے دو، تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اس آدمی نے انکار کر دیا (حضرت ابو الدرداءؓ کو پتہ چلا کہ حضور ﷺ اس آدمی سے کھجور کا یہ درخت جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے میں لے کر اس دوسرے آدمی کو دینا چاہتے ہیں تو) حضرت ابو الدرداءؓ اس کھجور والے کے پاس گئے اور اس سے کہا تم میرے اس باغ کے بدلے میں اپنا کھجور کا درخت میرے ہاتھ بیچ دو۔ وہ راضی ہو گیا۔ پھر حضرت ابو الدرداءؓ نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اپنا باغ دے کر کھجور کا وہ درخت خرید لیا ہے اور اب آپ کو دے رہا ہوں آپ اس آدمی کو وہ درخت دے دیں۔ حضور ﷺ نے (خوش ہو کر) کئی بار فرمایا ابو الدرداءؓ کو جنت میں کھجور کے پھلدار اور بڑے بڑے درخت بہت سے ملیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی کے پاس آکر کہا اے ام دحداح! تم اس باغ سے باہر آؤ میں نے اسے جنت کے کھجور کے ایک درخت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ ان کی بیوی (بھی) ان کی طرح جنت کی طالب تھیں اس لئے انہوں نے کہا بڑے نفع کا سودا کیا یا اس جیسا جملہ کہا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی: مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللہَ قرضاً حسناً (سورۃ بقرہ آیت ۲۴۵)

ترجمہ: کون شخص ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اچھے طور پر قرض دینا پھر اللہ تعالیٰ اس (کے ثواب) کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دیوے تو حضرت ابو الدرداءؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے قرض لینا چاہتے ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو الدرداءؓ نے کہا آپ اپنا ہاتھ ذرا مجھے عنایت فرمائیں۔ آپ نے دست مبارک ان کی طرف بڑھادیا۔ انہوں نے (حضور ﷺ کا دست مبارک پکڑ کر) عرض کیا میرا ایک باغ ہے جس میں کھجور کے چھ سو درخت ہیں میں نے اپنا وہ باغ اپنے رب کو بطور قرض دے دیا۔ پھر وہاں سے چل کر اپنے باغ میں پہنچے۔ ان کی بیوی حضرت ام دحداح اور ان کے بچے اس باغ میں تھے۔ انہوں نے آواز دی اے ام دحداح! ان کی بیوی نے کہا لیک۔ انہوں نے کہا باغ سے باہر

آجاؤ کیونکہ میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا ہے۔ اور اسی جلد کے صفحہ ۱۹۵ پر گزر چکا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس چار ہزار درہم ہیں ان میں سے دو ہزار تو میں اپنے رب کو ادھار دے رہا ہوں۔

## لوگوں میں اسلام کا شوق پیدا کرنے کیلئے مال خرچ کرنا

حضرت انسؓ فرماتے ہیں جب بھی حضور اقدس ﷺ سے اسلام (میں داخل کرنے اور اس پر جانے) کے لئے کوئی چیز مانگی جاتی تو حضور ﷺ وہ چیز ضرور دے دیتے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں ایک آدمی آیا آپ نے حکم دیا کہ اسے صدقہ کی بحر یوں میں سے اتنی زیادہ بحر یوں دی جائیں جو دو پہاڑوں کے درمیان کی ساری وادی کو بھر دیں وہ بحر یوں لے کر اپنی قوم کے پاس واپس گیا اور ان سے کہا اے میری قوم! تم اسلام لے آؤ کیونکہ حضرت محمد ﷺ اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ انہیں اپنے اوپر فاقہ کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی آدمی حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں صرف دنیا لینے کے ہی ارادے سے آتا لیکن شام ہونے سے پہلے ہی اس کا ایمان (حضور ﷺ کی صحبت اور حسن تربیت اور آپ والی محنت کی برکت سے) اتنا مضبوط ہو جاتا کہ حضور ﷺ کا دین اس کی نگاہ میں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہو جاتا۔ حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں ایک عربی آدمی نے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے دو پہاڑوں کے درمیان کی زمین مانگی آپ نے وہ زمین اس کے نام لکھ دی اس پر وہ مسلمان ہو گیا پھر اس نے اپنی قوم کو جا کر کہا تم اسلام لے آؤ میں تمہارے پاس اس آدمی کے ہاں سے آ رہا ہوں جو اس آدمی کی طرح دل کھول کر دیتا ہے جسے فاقہ کا کوئی ڈر نہ ہو۔ صفوان بن امیہ کے اسلام لانے کے قصے میں گزر چکا ہے کہ حضور ﷺ چل پھر کر مال غنیمت دیکھ رہے تھے۔ صفوان بن امیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صفوان بن امیہ نے بھی دیکھا شروع کیا کہ جہزہ کی تمام گھائی جانوروں بحر یوں

۱ عند ابی یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۲۴) رواہ ابو یعلیٰ و الطبرانی و رجالہما ثقات و رجال ابی یعلیٰ رجال الصحیح انتہی و اخرجه البزار عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحوه باسناہ ضعیف کما فی المجمع (ج ۳ ص ۱۱۳) و اخرجه ایضا ابن مندۃ کما فی الاصابۃ (ج ۴ ص ۵۹) و ابن ابی حاتم کما فی التفسیر لابن کثیر (ج ۱ ص ۲۹۹) و اخرجه عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمعناہ باسناہ ضعیف کما فی المجمع (ج ۳ ص ۱۱۳)

۲ اخرجه احمد کذا فی البدایۃ (ج ۶ ص ۴۲) و اخرجه مسلم ایضا نحوه عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ (ج ۲ ص ۲۵۳) عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۳) و فیہ عبدالرحمن بن یحییٰ العذری و قبل فیہ مجهول و بقیۃ رجالہ و ثقوا انتہی

اور چرواہوں سے بھری ہوئی ہے اور بڑی دیر تک غور سے دیکھتے رہے۔ حضور ﷺ بھی ان کو نکلیوں سے دیکھتے رہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو وہب! (یہ صفوان کی کنیت ہے) کیا یہ (مال غنیمت سے بھری ہوئی) گھائی تمہیں پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ ساری گھائی تمہاری ہے اور اس میں جتنا مال غنیمت ہے وہ بھی تمہارا ہے یہ سن کر صفوان نے کہا اتنی بڑی سخاوت کی ہمت صرف نبی ہی کر سکتا ہے اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمداً عبده ورسوله، پڑھ کر وہیں مسلمان ہو گئے۔

## جمادنی سبیل اللہ میں مال خرچ کرنا

### حضرت ابو بکرؓ کا مال خرچ کرنا

حضرت اسماءؓ فرماتی ہیں جب حضور اقدس ﷺ (کہہ سے ہجرت کے لئے) روانہ ہوئے اور حضرت ابو بکرؓ بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے تو حضرت ابو بکرؓ نے اپنے ساتھ اپنا سارا مال پانچ ہزار یا چھ ہزار درہم جتنا بھی تھا، سارا لے لیا اور لے کر حضور ﷺ کے ساتھ چلے گئے۔ پھر ہمارے دادا حضرت ابو قحافہؓ ہمارے گھر آئے ان کی بیٹائی جا چکی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم! میرے خیال میں تو ابو بکرؓ تم لوگوں کو جانے کے صدمہ کے ساتھ مال کا صدمہ بھی پہنچا گئے ہیں یعنی خود تو وہ گئے ہی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ وہ مال بھی سارا لے گئے ہیں اور تمہارے لئے کچھ نہیں چھوڑا ہے میں نے کہا دادا جان! ہرگز نہیں۔ وہ تو ہمارے لئے ہمت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں اور میں نے (چھوٹی چھوٹی) پتھریاں لے کر گھر کے اس طاق میں رکھ دیں جس میں حضرت ابو بکرؓ اپنا مال رکھا کرتے تھے (اس زمانے میں درہم و دینار چھوٹی پتھریوں کی طرح کے ہوتے تھے لہذا درہم و دینار کے سائز کی پتھریاں رکھی ہوں گی) پھر میں نے ان پتھریوں پر ایک کپڑا ڈال دیا پھر میں نے اپنے دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا اے دادا جان! اپنا ہاتھ اس مال پر رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا (وہ یہ سمجھے کہ یہ درہم و دینار ہی ہیں) تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں اگر وہ تمہارے لئے اتنا مال چھوڑ گئے ہیں تو انہوں نے اچھا کیا۔ اس سے تمہارا گزارہ ہو جائے گا۔ حضرت اسماءؓ کہتی ہیں اللہ کی قسم! انہوں نے ہمارے لئے کچھ نہیں چھوڑا تھا لیکن میں نے یہ کام بڑے میاں (دادا جان) کی تسلی کے لئے



کیا تھا اور یہ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے غزوہ تبوک میں اپنا سارا مال جو کہ چار ہزار درہم تھا خرچ کیا تھا۔

## حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مال خرچ کرنا

حضرت عبدالرحمن بن خباب سلمیؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے میان فرمایا اور جمیع عمرہ (غزوہ تبوک میں جانے والے لشکر) پر خرچ کرنے کی ترغیب دی تو حضرت عثمان بن عفانؓ نے کہا کجاوے اور پالان سمیت سولونٹ میرے ذمہ ہیں یعنی میں دوں گا۔ پھر حضور ﷺ منبر سے ایک سیڑھی نیچے تشریف لائے اور پھر (خرچ کرنے کی) ترغیب دی تو حضرت عثمانؓ نے پھر کہا کجاوے اور پالان سمیت سولونٹ میرے ذمہ ہیں۔ حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو دیکھا کہ (حضرت عثمانؓ کے اتنا زیادہ خرچ کرنے پر بہت خوش ہیں اور خوشی کی وجہ سے) ہاتھ کو ایسے ہلارہے ہیں جیسے تعجب و حیرانی میں انسان ہلایا کرتا ہے۔ اس موقع پر عبدالصمد رومی نے سمجھانے کے لئے اپنا ہاتھ باہر نکال کر ہلا کر دکھایا اور حضور ﷺ فرما رہے تھے اگر اتنا زیادہ خرچ کرنے کے بعد عثمانؓ کوئی بھی (نفل) عمل نہ کرے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہی روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے تین مرتبہ ترغیب دی اور حضرت عثمانؓ نے کجاوے اور پالان سمیت تین سولونٹ اپنے ذمہ لئے حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں میں اس وقت موجود تھا جب حضور ﷺ منبر پر یہ فرما رہے تھے اتنا خرچ کرنے کے بعد یا فرمایا آج کے بعد عثمانؓ کا کسی گناہ سے نقصان نہیں ہوگا۔

حضرت عبدالرحمن بن سمرہؓ فرماتے ہیں جب حضور اقدس ﷺ جمیع عمرہ (یعنی غزوہ تبوک کے لشکر) کو تیار کر رہے تھے تو حضرت عثمانؓ حضور ﷺ کے پاس ایک ہزار دینار لے کر آئے اور لاکر حضور ﷺ کی جھولی میں ڈال دیئے۔ حضور ﷺ ان دیناروں کو لٹتے پلٹتے جارہے تھے اور یہ کہتے جارہے تھے آج کے بعد عثمانؓ جو بھی (گناہ صغیرہ یا خلاف اولیٰ) کام کریں گے تو اس سے ان کا نقصان نہیں ہوگا یہ بات آپ نے کئی مرتبہ فرمائی۔ ابو نعیم نے

۱۔ اخرجه ابن اسحاق كذا في البداية (ج ۳ ص ۱۷۹) و اخرجه احمد و الطبرانی نحوه قال الهيثمي (ج ۶ ص ۵۹) رجال احمد رجال الصحيح غير ابن اسحاق و قد صرح بالسماع انتهى.  
 ۲۔ اخرجه احمد كذا في البداية (ج ۵ ص ۴) و اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ۱ ص ۵۹) بنحوه  
 ۳۔ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۱۰۲) قال الحاكم هذا حديث صحيح الا سناد ولم يخبر جاه و قال الذهبي صحيح و اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ۱ ص ۵۹) نحوه عن عبدالرحمن و عن ابن عمر.

یہی روایت حضرت ابن عمرؓ سے نقل کی ہے اس میں یہ مضمون ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اے اللہ! عثمانؓ کے اس کارنامے کو نہ بھولنا اور اس کے بعد عثمانؓ کوئی نیکی کا کام نہ کریں تو اس سے ان کا نقصان نہیں ہوگا۔

حضرت حذیفہ بن یمانؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت عثمانؓ کے پاس عیشِ عمرہ کی مدد کرنے کے لئے پیغام بھیجا تو حضرت عثمانؓ نے دس ہزار دینار حضور ﷺ کے پاس بھیجے۔ لانے والے نے وہ دینار حضور ﷺ کے سامنے ڈال دیئے۔ حضور ﷺ اپنے سامنے ان دیناروں کو اوپر نیچے الٹنے پلٹنے لگے اور حضرت عثمانؓ کے لئے دعا کرنے لگے۔ اے عثمانؓ! اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور جو گناہ تم نے چھپ کر کئے اور علی الاعلان کئے اور جو تم نے مخفی رکھے اور جو گناہ تم سے قیامت تک ہوں گے اللہ ان سب کو معاف فرمائے۔ اس عمل کے بعد عثمانؓ کوئی بھی نیک عمل نہ کریں تو کوئی پرواہ نہیں۔ (انسان جب مرتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اس لئے مطلب یہ ہے کہ عثمانؓ سے مرتے دم تک جتنے گناہ ہوں اللہ انہیں معاف کرے)

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان بن عفانؓ نے حضور اقدسؐ کو عیشِ عمرہ کی تیاری کے لئے سامان دیا اور سات سو لوقیہ سونا لاکر دیا اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں حضرت عثمانؓ نے غزوہ تبوک میں ہزار سواریاں دیں جن میں پچاس گھوڑے تھے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غزوہ تبوک میں حضرت عثمانؓ نے ساڑھے نو سو اونٹیاں اور پچاس گھوڑے دیئے تھے یا یہ کہا نو سو ستر اونٹیاں اور تیس گھوڑے دیئے تھے۔ اور یہ پہلے گزر چکا کہ غزوہ تبوک میں حضرت عثمانؓ نے ایک تہائی لشکر کو ان کی ضرورت کا سامان دیا تھا یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ ایک تہائی لشکر کی ضرورت کی ہر چیز انہوں نے مہیا کی تھی۔

## حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا مال خرچ کرنا

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ اپنے گھر میں تھیں کہ انہوں نے مدینہ میں ایک شورش انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبدالرحمن بن عوفؓ کا تجارتی

۱ عند ابی عدی و الدار قطنی و ابی نعیم و ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۲)

۲ اخرجہ ابو یعلیٰ و الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۸۵) وفيہ ابراہیم بن عمر بن ابان وهو ضعيف انتهى

۳ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۵۹)

۴ عند ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۳)

قافلہ ملک شام سے ضرورت کی ہر چیز لے کر آرہا ہے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں (اس قافلہ میں) سات سو اونٹ تھے اور سارا مدینہ اس شور کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ عبدالرحمن بن عوف گھنٹوں کے بل گھسٹتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بات حضرت عبدالرحمن بن عوف کو پہنچی تو انہوں نے کہا میں پوی کو شش کروں گا کہ میں جنت میں (قدموں پر) چل کر داخل ہوں اور یہ کہہ کر اپنا سارا قافلہ مع سارے سامان تجارت اور کجاووں کے، اللہ کے راستہ میں صدقہ کر دیا۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے حضور ﷺ کے زمانے میں اپنا آدھا مال چار ہزار درہم اللہ کے راستہ میں صدقہ کئے۔ پھر چالیس ہزار صدقہ کئے۔ پھر چالیس ہزار دینار صدقہ کئے۔ پھر پانچ سو گھوڑے اللہ کے راستے میں دیئے۔ پھر ڈیڑھ ہزار اونٹ اللہ کے راستہ میں دیئے ان کا اکثر مال تجارت کے ذریعہ کمایا ہوا تھا۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے حضور ﷺ کے زمانے میں اپنا آدھا مال صدقہ کیا پھر بعد میں چالیس ہزار دینار صدقہ کئے پھر پانچ سو گھوڑے اور پانچ سو اونٹ صدقہ کئے ان کا اکثر مال تجارت کے ذریعہ کمایا ہوا تھا۔ حصہ اول جہاد کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے غزوہ تبوک میں دو سو اوقیہ صدقہ کئے۔

## حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا مال خرچ کرنا

حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے مدینہ میں کسی کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ اس نے حضرت حکیم بن حزامؓ سے زیادہ سواریاں اللہ کے راستہ میں دی ہوں۔ ایک مرتبہ دو دیہاتی آدمی مدینہ آکر یہ سوال کرنے لگے کہ کون اللہ کے راستہ میں سواری دے گا؟ لوگوں نے ان کو حضرت حکیم بن حزامؓ کے بارے میں بتایا کہ وہ سواری کا انتظام کر دیں گے۔ وہ دونوں حضرت حکیم کے پاس ان کے گھر آگئے۔ حضرت حکیمؓ نے دونوں سے پوچھا کہ وہ

۱۔ اخرجہ احمد و اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۹۸) عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنحوہ و ابن سعد (ج ۳ ص ۹۲) عن حبيب بن ابی مرزوق بمعناه قال البداية (ج ۷ ص ۱۶۴) فی سند احمد تفرد بہ عمارۃ بن زاذان الصیدلانی و هو ضعیف

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۹۹) وھكذا ذكره فی البداية (ج ۷ ص ۱۶۳) عن معمر عن الزھری الا انه قال ثم حمل علی خمس مائة راحلة فی سبیل اللہ

۳۔ اخرجہ ایضا ابن المبارک عن معمر کذا فی الاصابة (ج ۲ ص ۴۶۶)

دونوں کیا چاہتے ہیں؟ جو وہ چاہتے تھے وہ انہوں نے حضرت حکیمؓ کو بتایا۔ حضرت حکیمؓ نے ان دونوں سے کہا تم جلدی نہ کرو (کچھ دیر ٹھہرو) میں ابھی تم دونوں کے پاس باہر آتا ہوں (جب حضرت حکیمؓ باہر آئے تو) حضرت حکیمؓ وہ کپڑا پہنے ہوئے تھے جو مصر سے لایا گیا تھا اور جال کی طرح پتلا اور سستا تھا اور اس کی قیمت چار درہم تھی۔ ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ان کے غلام بھی باہر آئے (اور دونوں دیہاتیوں کو لے کر بازار کی طرف چل دیئے) چلتے چلتے جب وہ کسی کوڑے کرکٹ کے پاس سے گزرتے اور اس میں ان کو کپڑے کا کوئی ایسا ٹکڑا نظر آتا جو اللہ کے راستہ میں دیئے جانے والے اونٹوں کے سامان کی مرمت میں کام آسکتا ہو تو اسے اپنی لاٹھی کے کنارے سے اٹھاتے اور اسے جھاڑتے پھر اپنے غلاموں سے کہتے اونٹوں کے سامان کی مرمت کے لئے اسے رکھ لو۔ حضرت حکیمؓ اس طرح ایک کپڑا اٹھا رہے تھے کہ ان میں سے ایک دیہاتی نے اپنے ساتھی سے کہا تیرا ناس ہو۔ ان سے ہماری جان چھڑو! اللہ کی قسم! ان کے پاس تو صرف کوڑے سے اٹھائے ہوئے چھتھرے ہی ہیں (یہ ہمیں سواری کے جانور کیسے دے سکیں گے؟) اس کے ساتھی نے کہا ارے میاں! جلدی نہ کرو۔ ابھی ذرا اور دیکھتے ہیں۔ پھر حضرت حکیمؓ ان دونوں کو بازار لے گئے۔ وہاں انہیں دو موٹی تازی، خوب بڑی اور گا بھن اونٹنیاں نظر آئیں انہوں نے ان دونوں کو خرید اور ان کا سامان بھی خریدا۔ پھر اپنے غلاموں سے کہا جس سامان کی مرمت کی ضرورت ہو اس کی مرمت کپڑے کے ان ٹکڑوں سے کر لو۔ پھر دونوں اونٹنیوں پر کھانا، گندم اور چربی رکھ دی اور ان دونوں دیہاتیوں کو خرچہ بھی دیا۔ پھر ان کو وہ دونوں اونٹنیاں دے دیں۔ جب اتنا کچھ حضرت حکیمؓ نے دیا تو ایک دیہاتی نے اپنے ساتھی سے کہا میں نے آج ان سے بہتر (خنی) کوئی کپڑے کے ٹکڑے اٹھانے والا نہیں دیکھا۔

حضرت حکیم بن حزامؓ نے اپنا گھر حضرت معاویہؓ کے ہاتھ ساٹھ ہزار میں بیچا۔ لوگوں نے حضرت حکیمؓ سے کہا اللہ کی قسم! حضرت معاویہؓ نے (ستا خرید کر) آپ کو قیمت میں نقصان پہنچایا ہے۔ حضرت حکیمؓ نے کہا (کوئی بات نہیں) اللہ کی قسم! میں نے بھی یہ گھر زمانہ جاہلیت میں صرف ایک منگ شراب میں (ستے داموں) خریدا تھا (اس حساب سے مجھے تو بہت زیادہ قیمت مل گئی ہے) میں آپ لوگوں کو گواہ بنا تا ہوں کہ اس کی ساری قیمت اللہ کے راستہ میں، مسکینوں کی امداد میں اور غلاموں کے آزاد کرانے میں ہی خرچ ہوگی۔ اب بتاؤ ہم دونوں میں سے کون کھائے ہیں رہا؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے وہ گھر ایک لاکھ

میں بچا تھا۔ لہ

## حضرت ابن عمر اور دیگر صحابہ کرامؓ کا مال خرچ کرنا

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ نے اپنی ایک زمین دو سو اونٹنیوں کے بدلہ میں بیچی۔ پھر ان میں سے سو اونٹنیاں اللہ کے راستہ میں جانے والوں کو دے دیں اور ان کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ لوگ وادی قری سے گزرنے سے پہلے ان میں سے کوئی بھی اونٹنی نہ بچیں لہ حصہ اول صفحہ ۴۴۸ پر حضور ﷺ کے جہاد کی اور مال خرچ کرنے کی ترغیب دینے کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک سو لوقیہ یعنی چار ہزار درہم دیئے اور حضرت عاصم بن عدیؓ نے نوے و سق (تقریباً پونے پانچ سو من) کھجور دی اور حضرت عباسؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت محمد بن مسلمہؓ نے حضور ﷺ کو بہت زیادہ مال لاکر دیا اور حصہ اول ہی میں گزر چکا ہے کہ ایک صحابی نے ایک اونٹنی اللہ کے راستہ میں دی تھی اور حضرت قیس بن سلح انصاریؓ نے جہاد میں بہت سا مال خرچ کیا تھا۔

## حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اور دیگر

### صحابی عورتوں کا مال خرچ کرنا

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور اقدس ﷺ نے (اپنی ازواج مطہرات سے) فرمایا کہ (میرے دنیا سے جانے کے بعد) تم میں سے سب سے جلدی مجھے وہ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہو گا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں اس کے بعد ازواج مطہرات آپس میں مقابلہ کیا کرتیں کہ کس کا ہاتھ سب سے لمبا (ہم تو ہاتھ کی لمبائی ہی سمجھتی رہیں) لیکن ہاتھ کے لمبے ہونے سے حضور ﷺ کی مراد سخاوت اور زیادہ مال خرچ کرنا تھا اس وجہ سے) ہم میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی حضرت زینبؓ نکلیں کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھیں اور (اس کی آمدنی) صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ کی وفات کے بعد ہم جب اپنے میں سے کسی کے گھر جمع ہو جاتیں تو اپنے ہاتھ دیوار کے ساتھ لمبے کر کے ناپا کرتی تھیں کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے؟ ہم ایسا ہی کرتی رہیں یہاں

۱ اخراجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۸۴) رواہ الطبرانی باسنان دین احمد ہما حسن انتہی

۲ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۹۶)

تک کہ (سب سے پہلے) حضرت زینبؓ بہت جوش کا انتقال ہوا۔ حضرت زینبؓ چھوٹے قدم کی عورت تھیں اور ہم میں سب سے لمبی نہیں تھیں۔ حضرت زینبؓ کے سب سے پہلے وفات پانے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہاتھ کی لمبائی سے حضور ﷺ کی مراد (کثرت سے) صدقہ کرنا ہے۔ حضرت زینبؓ دستکاری اور ہاتھوں کے ہنر کی ماہر تھیں وہ کھال رنگا کرتیں اور کھال سیا کرتیں (سی کر فروخت کر دیتیں اور اس کی قیمت) اللہ کے راستہ میں صدقہ کر دیا کرتیں۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت زینبؓ سوت کا تارتی تھیں اور حضور ﷺ کے لشکروں کو دے دیا کرتیں۔ وہ لوگ اس سوت سے سیا کرتے اور اپنے سفر میں دوسرے کاموں میں لاتے۔

حصہ اول صفحہ ۴۵۳ پر یہ مضمون گزر چکا ہے کہ غزوہ تبوک کی تیاری میں مسلمانوں کی مدد کے لئے عورتوں نے کنگن، بازو بند، پازیب، بالیاں اور انگوٹھیاں پہنیں۔

## فقراء مساکین اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا

حضرت عمیر بن سلمہؓ دوٹی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کو ایک درخت کے سائے میں سو رہے تھے ایک دیہاتی عورت مدینہ آئی اور لوگوں کو بڑے غور سے دیکھتی رہی (کہ ان میں سے کون میرا کام کر سکتا ہے) اور دیکھتے دیکھتے وہ حضرت عمرؓ تک پہنچ گئی (انہیں دیکھ کر اسے یہ اطمینان ہوا کہ یہ آدمی میرا کام کر اے گا) اس نے حضرت عمرؓ سے کہا میں ایک مسکین عورت ہوں اور میرے بہت سے بچے ہیں اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت محمد بن مسلمہؓ کو (ہمارے علاقہ میں) صدقات وصول کرنے بھیجا تھا (وہ صدقات وصول کر کے واپس آگئے) اور انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ ہماری ان سے سفارش کر دیں (شاید وہ آپ کی بات مان لیں) تو حضرت عمرؓ نے اپنے دربان (یرفا کو پکار کر کہا حضرت محمد بن مسلمہؓ کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ اس عورت نے کہا میری ضرورت کے پورا ہونے کی زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ان کے پاس جائیں (اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا مخاطب آدمی خود امیر المومنین ہے) حضرت عمرؓ نے کہا (میرے بلانے پر) انشاء اللہ وہ تمہارا کام کر دے گا۔ حضرت یرفانے جا کر حضرت محمد بن مسلمہؓ سے کہا چلیں آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد بن

۱۔ اخرجه الشيخان و اللفظ لمسلم كذا في الاصابة (ج ۴ ص ۳۱۴)

۲۔ اخرجه الطبرانی في الاوسط قال الهيثمي (ج ۸ ص ۲۸۹) و رجاله و تقوا و في بعضهم ضعف ۵۱

مسلمہ آئے اور انہوں نے کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین! اب اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں تو وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے حضرت محمد بن مسلمہ سے فرمایا اللہ کی قسم! میں تو تم میں سے بہترین آدمی منتخب کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ تم سے اس عورت کے بارے میں پوچھیں گے تو تم کیا کہو گے؟ یہ سن کر حضرت محمد بن مسلمہؓ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو ہمارے پاس بھیجا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان کا اتباع کیا۔ اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کو جو حکم دیتے حضور ﷺ اس پر عمل کرتے۔ حضور ﷺ صدقات (وصول کر کے) اس کے حق دار مساکین کو دیا کرتے اور حضور ﷺ کا معمول یونہی چلتا رہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکرؓ کو حضور ﷺ کا خلیفہ بنایا تو وہ بھی حضور ﷺ کے طریقہ پر ہی عمل کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا خلیفہ بنا دیا اور میں نے تم میں سے بہترین آدمی کو منتخب کرنے میں کبھی کمی نہیں کی۔ اب اگر میں تمہیں بھیجوں تو اس عورت کو اس سال کا اور گزشتہ سال کا اس کا حصہ (صدقات میں سے) دے دینا اور مجھے معلوم نہیں شاید اب میں تمہیں (صدقات وصول کرنے) نہ بھیجوں۔ پھر حضرت عمرؓ نے اس عورت کے لئے ایک اونٹ منگوا لیا اور اس عورت کو آٹا اور تیل دیا اور فرمایا یہ لے لو۔ پھر ہمارے پاس خیبر آجانا کیوں کہ اب ہمارا خیبر جانے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ وہ عورت خیبر حضرت عمرؓ کے پاس آئی اور حضرت عمرؓ نے دو اونٹ اور منگوائے اور اس عورت سے کہا یہ لے لو۔ حضرت محمد کے تمہارے ہاں آنے تک یہ تمہارے لئے کافی ہو جائیں گے اور میں نے حضرت محمد کو حکم کر دیا ہے کہ وہ تمہیں تمہارا اس سال کا اور گزشتہ سال کا حصہ دے دیں۔

حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطابؓ کے ساتھ بازار گیا۔ حضرت عمرؓ کو ایک جوان عورت ملی اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین! میرا خاوند فوت ہو گیا ہے اور اس نے اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں اور وہ اللہ کی قسم! (فقرو فاقہ کی وجہ سے) پائے بھی نہیں پکا سکتے (ملک عرب میں پائے مفت ملتے تھے پکا نہیں کرتے تھے) نہ ان کے پاس کوئی کھیتی ہے اور نہ کوئی دودھ کا جانور اور مجھے ڈر ہے کہ قحط سالی سے کہیں وہ مر نہ جائیں اور میں حضرت خفاف بن ایماء غفاریؓ کی بیٹی ہوں۔ میرے والد حضور ﷺ کے ساتھ حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت عمرؓ اس عورت کے پاس کھڑے

(باتیں سنتے) رہے اور آگے نہیں گئے۔ پھر فرمایا خوش آمدید ہو قریبی رشتہ داری نکل آئی (یعنی تمہارے قبیلہ غفار کا ہمارے قبیلہ قریش سے قریبی رشتہ ہے یا تم ایک مشہور صحابی کے خاندان میں سے ہو) پھر حضرت عمرؓ وہاں سے گھر واپس گئے، ان کے گھر میں ایک خوب بوجھ اٹھانے والا لونٹ بندھا ہوا تھا دوپورے غلہ سے بھر کر اس پر رکھ دیئے اور ان دونوں پوروں کے درمیان خرچے کے پیسے اور کپڑے رکھ دیئے اور پھر اس لونٹ کی ٹیکل اس عورت کو پکڑا کر کہا یہ لونٹ لے جاؤ۔ انشاء اللہ ان چیزوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بہتر انتظام فرمادیں گے۔ ایک آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ نے اس عورت کو بہت زیادہ دیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا تیری ماں تجھے گم کرے۔ اس عورت کا باپ حضور ﷺ کے ساتھ حدیبیہ میں شریک ہوا تھا اور اللہ کی قسم! میں نے اس عورت کے باپ اور بھائی کو دیکھا ہے کہ ایک عرصہ تک انہوں نے ایک قلعہ کا محاصرہ کئے رکھا۔ پھر انہوں نے اس قلعہ کو فتح کر لیا اور ہم اس میں سے اپنے حصے خوب وصول کر رہے ہیں (چونکہ یہ بہت زیادہ دینی فصائل والے خاندان کی عورت ہے اس وجہ سے میں نے اسے زیادہ دیا ہے)۔

### حضرت سعید بن عامر بن حدیمؓ کی کمال خرچ کرنا

حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت معاویہؓ کو ملک شام کی گورنری سے معزول کیا تو ان کی جگہ حضرت سعدی بن عامر بن حدیمؓ ججی کو بھیجا۔ وہ اپنی نوجوان بیوی کو بھی ساتھ لے گئے جس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا اور وہ قریش قبیلہ کی تھی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ فاقہ اور سخت تنگی کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت عمرؓ کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے ان کے پاس ایک ہزار دینار بھیجے وہ ہزار دینار لے کر اپنی بیوی کے پاس گھر گئے اور اس سے کہا تم جو یہ دینار دیکھ رہی ہو یہ حضرت عمرؓ نے بھیجے ہیں۔ اس نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمارے لئے سالن کا سامان اور غلہ خرید لیں اور باقی دینار سنبھال کر رکھ لیں آئندہ کام آئیں گے۔ حضرت سعیدؓ نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر صورت نہ بتا دوں؟ کہ ہم یہ مال ایک تاجر کو دے دیتے ہیں جو اس سے ہمارے لئے تجارت کرتا ہے۔ ہم اس کا نفع کھاتے رہیں اور ہمارے اس سرمائے کی ذمہ داری بھی اس پر ہوگی۔ ان کی بیوی نے کہا پھر تو یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے سالن اور غلہ خرید اور دو اونٹ اور دو غلام خریدے۔ غلاموں نے ان اونٹوں پر ضرورت کا سارا سامان اکٹھا کر لیا



اور انہوں نے یہ سب کچھ مسکینوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد ان کی بیوی نے ان سے کہا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا آپ اس تاجر کے پاس جائیں اور جو نفع ہوا ہے اس میں سے کچھ لے کر ہمارے لئے کھانے پینے کا سامان خرید لیں۔ حضرت سعیدؓ خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کہا یہ پھر خاموش رہے آخر اس نے تنگ آکر ان کو ستانا شروع کیا اس پر انہوں نے دن میں گھر آنا چھوڑ دیا صرف رات کو گھر آتے۔ ان کے گھر والوں میں ایک آدمی تھا جو ان کے ساتھ گھر آیا کرتا تھا۔ اس نے ان کی بیوی سے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ تم ان کو بہت تکلیف پہنچا چکی ہو وہ تو سارا مال صدقہ کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سعیدؓ کی بیوی کو سارے مال کے صدقہ کرنے پر اتنا افسوس ہوا کہ وہ رونے لگی۔ ایک دن حضرت سعیدؓ اپنی بیوی کے پاس گھر آئے اور اس سے کہا ایسے ہی آرام سے بیٹھی رہو۔ میرے کچھ ساٹھی تھے جو تھوڑا عرصہ پہلے مجھ سے جدا ہو گئے ہیں (اس دنیا میں چلے گئے ہیں) اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو بھی مجھے ان کا راستہ چھوڑنا پسند نہیں ہے۔ اگر جنت کی خوبصورت حوروں میں سے ایک حور آسمان دنیا سے جھانک لے تو ساری زمین اس کے نور سے روشن ہو جائے اور اس کے چہرے کا نور چاند و سورج کی روشنی پر غالب آجائے اور جو دوپٹہ اسے پہنایا جاتا ہے وہ دنیا اور مافیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب میرے لئے یہ تو آسمان ہے کہ ان حوروں کی خاطر تجھے چھوڑ دوں لیکن تیری خاطر ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر وہ نرم پڑ گئی اور راضی ہو گئی۔

ابو نعیم نے ہی اسی واقعہ کو حضرت عبدالرحمن بن سابطؓ حجی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ جب حضرت سعید بن عامرؓ کو تنخواہ ملتی تو گھر والوں کے گزارے کا سامان خرید لیتے اور باقی کو صدقہ کر دیتے تو ان کی بیوی ان سے کہتی آپ کی باقی تنخواہ کہاں ہے؟ وہ کہتے میں نے وہ قرض دے۔ بردی ہے (ان کا یہ طرز عمل دیکھ کر) کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے انہوں نے کہا آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے، آپ کے سسرال والوں کا آپ پر حق ہے تو حضرت سعید نے کہا میں نے ان کو حقوق کی ادائیگی میں کبھی کسی کو ان پر ترجیح نہیں دی ہے۔ میں موٹی آنکھوں والی حوریں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں کسی بھی انسان کو اس طرح خوش کرنا نہیں چاہتا کہ اس سے حوروں کے ملنے میں کسی آئے یا وہ نہ مل سکیں کیونکہ اگر جنت کی ایک بھی حور جھانک لے تو اس کی وجہ سے ساری زمین ایسے چمکنے لگے گی جیسے سورج چمکتا ہے۔ میں جنت میں سب سے پہلے جانے والی جماعت سے پیچھے رہ جانے کے

لئے بالکل تیار نہیں ہوں کیونکہ حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو حساب کے لئے جمع فرمائیں گے تو فقراء مومنین جنت کی طرف ایسے تیزی سے جائیں گے جیسے کبوتر اپنے گھونسلے کی طرف تیزی سے پر پھلا کر اترتا ہے۔ فرشتے ان سے کہیں گے ٹھہرو حساب دے کر جاؤ وہ کہیں گے ہمارے پاس حساب کیلئے کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں دیا ہی کیا تھا جس کا ہم حساب دیں۔ اس پر ان کا رب فرمائے گا میرے بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر ان کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں سے ستر سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے اور اسی حصہ دوم کے صفحہ ۲۷۲ پر ان ہی حضرت سعید بن عامرؓ کا یہ قصہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کیا تم اس سے بہتر بات چاہتی ہو؟ کہ ہم یہ دینار اسے دے دیتے ہیں جو ہمیں سخت ضرورت کے وقت دے دے۔ ان کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جس پر انہیں اعتماد تھا اور ان دیناروں کو بہت سی تھیلوں میں ڈال کر اس سے کہا، جا کر یہ دینار فلاں خاندان کی بیواؤں، فلاں خاندان کے یتیموں، فلاں خاندان کے مسکینوں اور فلاں خاندان کے مصیبت زدہ لوگوں کو دے آؤ۔ تھوڑے سنے دینار چ گئے تو اپنی بیوی سے کہا لو یہ خرچ کر لو۔ پھر اپنے گورنری کے کام میں مشغول ہو گئے۔ چند دن بعد ان کی بیوی نے کہا کیا آپ ہمارے لئے کوئی خادم نہیں خرید لیتے؟ اس مال کا کیا ہوا؟ حضرت سعیدؓ نے کہا وہ مال تمہیں سخت ضرورت کے وقت ملے گا۔

## حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا مال خرچ کرنا

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ بیمار ہو گئے۔ ان کیلئے ایک درہم میں انگور کا ایک خوشہ خرید گیا (جب وہ خوشہ ان کے سامنے رکھا گیا تو) اس وقت ایک مسکین نے آکر سوال کیا۔ انہوں نے کہا یہ خوشہ اسے دے دو (گھر والوں نے وہ خوشہ ایک درہم میں خرید لیا) کیونکہ بازار میں اس وقت انگور نایاب تھا۔ اس لئے اس سے خریدا اور حضرت ابن عمرؓ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس مسکین نے آکر پھر سوال کیا آپ نے فرمایا یہ اسے دے دو (گھر والوں نے اسے دے دیا وہ لے کر چل دیا) گھر کے ایک آدمی نے جا کر اس مسکین سے وہ خوشہ پھر ایک درہم میں خرید لیا اور لا کر پھر حضرت ابن عمرؓ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس مسکین نے آکر پھر سوال کیا آپ نے فرمایا یہ اسے دے دو (گھر

والوں نے اسے دے دیا وہ لے کر چل دیا) پھر گھر کے ایک آدمی نے جا کر اس مسکین سے وہ خوشہ پھر ایک درہم میں خرید لیا (اور لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا) اس مسکین نے پھر واپس آ کر مانگنے کا ارادہ کیا تو گھر والوں نے اسے روک دیا لیکن اگر حضرت لئن عمرؓ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ خوشہ اس مسکین سے خرید آ گیا ہے اور اسے سوال کرنے سے بھی روکا گیا ہے تو وہ اسے بالکل نہ چکھتے۔

ابو نعیم نے ہی یہ قصہ ایک اور سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت لئن عمرؓ ایک مرتبہ بیمار ہوئے ان کا انگور کھانے کو دل چاہا۔ میں نے ان کے لئے انگور کا ایک خوشہ ایک درہم میں خرید اور لا کر وہ خوشہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ آگے حدیث کا مضمون کچھلی حدیث کی طرح ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ وہ ساکل بار بار آتا اور وہ ہر دفعہ اسے خوشہ دینے کا حکم فرما دیتے (اور ہم اسے دے دیتے اور پھر اس سے خرید کر لے آتے) یہاں تک کہ میں نے ساکل کو تیسری یا چوتھی مرتبہ کہا تیرا اس ہو۔ تجھے شرم نہیں آتی (ہر دفعہ واپس آ کر پھر مانگ لیتا ہے) چنانچہ میں نے اس سے ایک درہم میں خرید کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا (اور وہ ساکل منع کر دینے پر اس دفعہ نہ آیا) تو آخر انہوں نے وہ خوشہ کھا لیا۔

### حضرت عثمان بن ابی العاصؓ کا مال خرچ کرنا

حضرت ابو نضرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ذی الحجۃ کے پہلے عشرہ میں حضرت عثمان بن ابی العاصؓ کے پاس آیا۔ انہوں نے ایک کمرہ (مہانوں سے) بات چیت کے لئے خالی رکھا ہوا تھا ایک آدمی ان کے پاس سے مینڈھا لے کر گزرا۔ انہوں نے مینڈھے والے سے پوچھا کہ تم نے یہ مینڈھا کتنے میں خرید ہے؟ اس نے کہا بارہ درہم میں۔ میں نے (دل میں) کہا کاش کہ میرے پاس بھی بارہ درہم ہوتے تو میں بھی ایک مینڈھا خرید کر (عید پر) قربان کر تا اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتا۔ جب میں ان کے پاس سے کھڑا ہو کر اپنے گھر آیا تو انہوں نے میرے پیچھے ایک تھیلی بھجی جس میں پچاس درہم تھے۔ میں نے ان سے زیادہ برکت والے درہم کبھی نہیں دیکھے۔ انہوں نے مجھے وہ درہم ثواب کی نیت سے دیئے اور مجھے ان دنوں ان درہم کی

۱۔ اخبرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۹۷)

۲۔ و اخبرجہ ایضا نحو السیاق الا اول مختصر ابن المبارک کما فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۲۴۸) والطیرانی کما فی المجمع (ج ۹ ص ۳۴۷) و ابن سعد (ج ۴ ص ۱۱۷) قال الہیثمی رجال الطیرانی رجال الصحیح غیر نعیم بن حماد و ہوثقہ.

شدید ضرورت تھی۔

## حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مال خرچ کرنا

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہؓ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک مسکین نے سوال کیا۔ ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ باندی نے ان سے کہا (اس روٹی کے علاوہ) آپ کی افطاری کے لئے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا (کوئی بات نہیں) تم پھر بھی اسے یہ روٹی دے دو۔ چنانچہ باندی کہتی ہے کہ میں نے اس مسکین کو وہ روٹی دے دی۔ جب شام ہوئی تو ایک ایسے گھر والے نے یا ایک ایسے آدمی نے جو کہ ہمیں بدیہ نہیں دیا کرتا تھا ہمیں ایک (پکی ہوئی) بجزی اور اس کے ساتھ بہت سی روٹیاں بدیہ میں بیچیں۔ حضرت عائشہ نے مجھے بلا کر فرمایا اس میں سے کھاؤ یہ تمہاری (روٹی کی) نکیہ سے بہتر ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک مسکین نے حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہؓ سے کھانا مانگا۔ حضرت عائشہؓ کے سامنے انگور رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی سے کہا انگور کا ایک دانہ لے کر اسے دے دو۔ وہ حضرت عائشہؓ کی طرف (یا اس دانے کی طرف) تعجب سے دیکھنے لگا تو حضرت عائشہؓ نے کہا کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے اس دانے میں تمہیں کتنے ذرے نظر آ رہے ہیں؟ (یہ فرما کر انہوں نے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ترجمہ: سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا)

## اپنے ہاتھ سے مسکین کو دینا

حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حارث بن نعمانؓ کی بینائی جا چکی تھی انہوں نے اپنی نماز کی جگہ سے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی جب دروازے پر کوئی مسکین آتا تو اپنے ٹوکے میں سے کچھ لینے اور رسی کو پکڑ کر (دروازے تک جاتے اور) خود اپنے ہاتھ سے اس مسکین کو دیتے۔ گھر والے ان سے کہتے آپ کی جگہ ہم جا کر

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۹ ص ۳۷۱) رجالہ رجال الصحیح

۲۔ اخرجه مالک فی الموطا (ص ۳۹۰) از بلغه عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

مسکین کو دے آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بڑی موت سے بچاتا ہے۔

حضرت عمرو لیشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم حضرت واہلہ بن اسحق کے پاس تھے ان کے پاس ایک مانگنے والا آیا انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، اس پر ایک پیسہ رکھا اور خود جا کر روٹی کا وہ ٹکڑا اس کے ہاتھ پر رکھا میں نے ان سے کہا اے ابو الاسحق! کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو آپ کی جگہ یہ کام کر دے؟ انہوں نے کہا آدمی تو ہے لیکن جب کوئی آدمی مسکین کو صدقہ دینے کے لئے چل کر جائے تو اس کے ہر قدم کے بدلہ میں ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور جب جا کر وہ چیز اس مسکین کے ہاتھ میں رکھ دے تو ہر قدم کے بدلہ میں دس گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت لنن عمرؓ روزانہ رات کو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور سب ان کے بڑے پیالے میں سے کھاتے (کھانے کے دوران) بعض دفعہ وہ کسی مسکین کی آواز سنتے تو اپنے حصہ کا گوشت اور روٹی جا کر اسے دے دیتے جتنی دیر میں وہ مسکین کو دے کر واپس آتے اتنی دیر میں گھر والے پیالہ ختم کر چکے ہوتے۔ اگر مجھے اس پیالہ میں کچھ مل جاتا تو ان کو بھی مل جاتا۔ پھر اسی حال میں حضرت لنن عمرؓ صبح روزہ رکھ لیتے۔

## مانگنے والوں پر مال خرچ کرنا

حضرت انسؓ فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ مسجد میں تشریف لائے آپ کے اوپر نجران (یمن کا ایک شہر) کی بنی ہوئی ایک چادر تھی جس کا کنارہ موٹا تھا۔ آپ کے پیچھے سے ایک دیہاتی آیا۔ اس نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر اس موٹے کنارے کا نشان پڑ گیا اور اس نے کہا اے محمد! اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے ہمیں بھی دو۔ حضور ﷺ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر تبسم فرمایا اور فرمایا اسے ضرور کچھ دو۔

۱۔ اخروہ الطبرانی و الحسن بن سفیان عن محمد بن عثمان کذا فی الاصابۃ (ج ۱ ص ۲۹۹) و اخروہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۵۶) و ابن سعد (ج ۳ ص ۵۲) عن محمد بن عثمان عن ابیہ نحوہ  
 ۲۔ اخروہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۳۱۵) ۳۔ اخروہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۲۲)  
 ۴۔ اخروہ ابن جریر کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۴۳) و اخروہ ایضاً الشیخان عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنحوہ کما فی البدایۃ (ج ۶ ص ۳۸)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ صبح کو مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ جب حضور ﷺ گھر جانے کیلئے کھڑے ہوتے تو ہم لوگ آپ کے گھر میں داخل ہونے تک کھڑے رہتے۔ چنانچہ ایک دن حضور ﷺ گھر جانے کے لئے کھڑے ہوئے۔ جب آپ مسجد کے درمیان میں پہنچے تو ایک دیہاتی آپ کے پاس پہنچا اور اس نے اس زور سے آپ کی چادر چھینچی کہ آپ کہ گردن مبارک سرخ ہو گئی اور اس نے کہا اے محمد (ﷺ) مجھے دو اونٹ دیں کیونکہ یہ دو اونٹ نہ تو آپ اپنے مال میں سے دیں گے اور نہ اپنے والد کے مال میں سے۔ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں۔ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ جب تک تم مجھے اس کا بدلہ نہیں دو گے میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا۔ یہ بات حضور ﷺ نے تین مرتبہ فرمائی (پھر حضور ﷺ نے اسے معاف فرمادیا بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمایا) اور پھر ایک آدمی کو بلا کر کہا اسے دو اونٹ دے دو۔ ایک اونٹ جو کا اور دوسرا کھجور کا۔

حضرت نعمان بن مقرنؓ فرماتے ہیں ہم قبیلہ مزینہ کے چار سو آدمی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور ﷺ نے ہمیں اپنے دین کے احکام بتائے (جب ہم حضور ﷺ سے فارغ ہو کر واپس جانے لگے تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ! راستہ کے لئے ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا انہیں راستہ کیلئے توشہ دے دو۔ حضرت عمرؓ نے کہا میرے پاس تو بس تھوڑی سی مٹی ہوئی کھجوریں ہیں میرے خیال میں تو وہ کھجوریں ان کی ضرورت کچھ بھی پوری نہ کر سکیں گی۔ حضور ﷺ نے فرمایا جاؤ اور انہیں راستہ کے لئے توشہ دے دو۔ چنانچہ حضرت عمرؓ ہمیں ایک بالا خانے میں لے گئے۔ وہاں ایک خاکستری جو ان اونٹ جتنی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں (یعنی بیٹھے ہوئے ایک اونٹ جتنا اونچا کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا) حضرت عمرؓ نے کہا آپ یہ کھجوریں لے لیں۔ ہمارے تمام قافلہ والوں نے اپنی ضرورت کے مطابق کھجوریں لے لیں اور میں سب سے آخر میں لینے گیا میں نے دیکھا تو نظر آیا کہ (کھجوریں شروع میں جتنی تھیں اب بھی اتنی ہی ہیں) ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی تھی حالانکہ اس ڈھیر میں سے چار سو آدمی کھجوریں لے چکے تھے۔ (یہ حضور ﷺ کے فرمان کی برکت تھی)۔

حضرت دیکین بن سعیدؓ فرماتے ہیں ہم چار سو چالیس آدمی حضور ﷺ کے پاس (سفر کے

۱۔ اخرجہ ابن جریر ایضاً کذا فی الکنز (ج ۴ ص ۴۷) و اخرجہ ایضاً احمد و الاربعة الا  
 الترمذی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنحوہ کما فی البدایۃ (ج ۶ ص ۳۸)  
 ۲۔ اخرجہ احمد و الطبرانی قال المہتمی (ج ۸ ص ۳۰۴) رجال احمد رجال الصحیح ۵۱۔

لئے) کھانے کی چیز مانگنے گئے۔ حضور ﷺ نے حضرت عمرؓ کو فرمایا جاؤ اور انہیں سفر کے لئے کچھ دو۔ حضرت عمرؓ نے کہا میرے پاس تو صرف اتنا ہے جس سے میرے اور میرے بچوں کے گرمی کے چار مینے گزر سکیں (اس سے ان کا کام نہیں چل سکے گا) حضور ﷺ نے فرمایا نہیں، جاؤ اور جو ہے وہ انہیں دے دو۔ حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ! بہت اچھا جیسے آپ فرمائیں۔ میں تو آپ کی ہر بات سنوں گا اور مانوں گا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ وہاں سے کھڑے ہوئے اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمرؓ ہمیں اوپر اپنے ایک بالا خانے میں لے گئے اور اپنے زینہ میں سے چائی نکال کر بالا خانے کا دروازہ کھولا تو بالا خانے میں بیٹھے ہوئے اونٹ کے بچے کے برابر کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا۔ حضرت عمرؓ نے کہا آپ لوگ اس میں سے جتنا چاہیں لے لیں۔ چنانچہ ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی ضرورت کے لئے کھجوریں اپنی مرضی کے مطابق لیں۔ میں سب سے آخر میں لینے گیا تو میں نے دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم نے اس ڈھیر میں سے ایک بھی کھجور نہ لی ہو۔<sup>۱</sup>

حضرت دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ہم چار سو سوار حضور ﷺ کے پاس کھانے کی کوئی چیز مانگنے آئے۔ پھر آگے بچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے عرض کیا میرے پاس تو صرف چند صاع کھجوریں ہیں جو شاید مجھے اور میری اہل و عیال کو گرمیوں کے لئے کافی نہ ہوں۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا ارے حضور ﷺ کی بات سنو اور مانو! حضرت عمرؓ نے کہا اچھا۔ میں حضور ﷺ کی بات سنتا اور مانتا ہوں۔<sup>۲</sup>

حضرت ابن فلحن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ کسی بھی مانگنے والے کو واپس نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ کوڑھی آدمی بھی ان کے ساتھ ان کے پیالہ میں کھانا کھاتا تھا اور اس کی انگلیوں میں سے خون ٹپک رہا ہوتا تھا۔<sup>۳</sup>

### صحابہ کرام کا صدقہ کرنا

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ حضور ﷺ کے پاس اپنا صدقہ لائے اور چپکے سے حضور ﷺ کو دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ میری طرف سے صدقہ ہے اور آئندہ جب بھی اللہ تعالیٰ مطالبہ فرمائیں گے میں ضرور صدقہ کروں گا۔ پھر

۱۔ اخرجه احمد و الطبرانی قال الهیثمی (ج ۸ ص ۳۰۴) رجالہما رجال الصحیح و روی ابو دائر د منہ طرفا انتہی . ۲۔ اخرجه ایضا ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۶۵) ابو نعیم ہذا حدیث صحیح و ہوا حد دلانل النبی ﷺ . ۳۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۰۰)

حضرت عمرؓ اپنا صدقہ لائے اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے حضور ﷺ کو دیا اور عرض کیا یہ میری طرف سے صدقہ ہے اور مجھے اللہ کے ہاں لوٹ کر جانا ہے (میں وہاں اللہ سے اس کا بدلہ لوں گا) حضور ﷺ نے فرمایا تم نے اپنی کمان میں تانت کے علاوہ کچھ اور لگایا (یعنی تم ابو بکرؓ سے پیچھے رہ گئے کہ ان کا جذبہ اللہ کو اور دینے کا ہے اور تمہارا جذبہ اللہ سے بدلہ لینے کا ہے۔ ابو بکرؓ کا جذبہ اعلیٰ و افضل ہے) جو تم دونوں کے بدلوں میں فرق ہے وہی تم دونوں کے صدقوں میں فرق ہے (قبول تو دونوں ہوئے لیکن ابو بکرؓ کا صدقہ زیادہ اخلاص اور قربانی والا ہے کہ ان کی توجہ اللہ کو اور دینے کی طرف ہے)۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے فرمایا کون ہے جو بیر رومہ (مدینہ کے ایک کنویں کا نام) خرید کر مسلمانوں کے لئے صدقہ کر دے؟ قیامت کے دن سخت پیاس کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو پانی پلائیں گے۔ چنانچہ یہ فضیلت سن کر حضرت عثمان بن عفانؓ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لئے صدقہ کر دیا۔

حضرت بشیر اسلمیؓ فرماتے ہیں جب مہاجرین مدینہ آئے تو ان کو یہاں کا پانی موافق نہ آیا، غفار کے ایک آدمی کا کنواں تھا جس کا نام رومہ تھا وہ اس کنویں کے پانی کی ایک مشک ایک مد (تقریباً ۱۳ اچھٹانک) میں پچھتا تھا۔ حضور ﷺ نے اس کنویں والے سے فرمایا تم میرے ہاتھ یہ کنواں بیچ دو تمہیں اس کے بدلہ میں جنت میں ایک چشمہ ملے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! میرے اور میرے اہل و عیال کے لئے اس کی علاوہ اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے اس لئے میں نہیں دے سکتا۔ یہ بات حضرت عثمانؓ کو پہنچی تو انہوں نے وہ کنواں پینتیس ہزار درہم میں خرید لیا پھر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! جیسے آپ کس سے جنت کے چشمے کا وعدہ فرمایا تو کیا اگر میں اس کنویں کو خرید لوں تو مجھے بھی جنت میں وہ چشمہ ملے گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں بالکل ملے گا۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لئے صدقہ کر دیا ہے۔

حضرت طلحہؓ کی بیوی حضرت سعدیؓ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت طلحہؓ نے ایک لاکھ درہم صدقہ کئے۔ پھر اس دن ان کو مسجد میں جانے سے صرف اس وجہ سے دیر ہو گئی کہ میں نے ان کے کپڑے کے دونوں کناروں کو ملا کر سیا (لاکھ درہم سب دوسروں کو دے دیئے،

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۲) قال ابن کثیر اسنادہ جید و بعد من المرسلات کذا فی المنتخب (ج ۴ ص ۳۴۸) ۲۔ اخرجہ ابن عدی وابن عساکر ۳۔ عند الطبرانی وابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۱)



اپنے پر کچھ نہ لگایا بلکہ اور حصہ دوئم صفحہ ۲۰۳ پر گزر چکا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ حضور ﷺ کے زمانے میں اپنا ادھامال چار ہزار (درہم) صدقہ کئے پھر چالیس ہزار صدقہ کئے۔ پھر چالیس ہزار دینا صدقہ کئے۔

حضرت ابو لبابہؓ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی (ان سے غزوہ ہجو قریظہ یا غزوہ تبوک کے وقت غلطی سرزد ہوئی تھی) تو میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی قوم کا وہ گھر چھوڑنا چاہتا ہوں جس میں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے ابو لبابہ! تمہاری مال کا صدقہ تمہارے لئے کافی ہے۔ چنانچہ میں نے تمہاری مال صدقہ کر دیا۔ ۱

حضرت نعمان بن حمیدؓ فرماتے ہیں میں اپنے ماموں کے ساتھ مدائن شہر میں حضرت سلمانؓ کے پاس گیا وہ کھجور کے پتوں سے کچھ بنا رہے تھے۔ میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک درہم کے کھجور کے پتے خریدتا ہوں پھر ان کا کچھ بنا کر تین درہم میں بیچ دیتا ہوں اور پھر ایک درہم کے دوبارہ پتے خریدتا ہوں اور ایک درہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیتا ہوں اور ایک درہم صدقہ کر دیتا ہوں۔ اگر (امیر المؤمنین) حضرت عمر بن خطابؓ بھی مجھے اس سے روکیں گے تو میں نہیں رگوں گا (حضرت سلمان حضرت عمرؓ کی طرف سے مدائن کے گورنر تھے) ۲

### صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہدیہ دینا

حضرت ابو مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ لوگوں کو (سخت بھوک کی) مشقت اٹھانی پڑی (جس کی وجہ سے) میں نے مسلمانوں کے چروں پر غم اور پریشانی کے آثار اور منافقوں کے چروں پر خوشی کے آثار دیکھے۔ جب حضور ﷺ نے بھی یہ بات دیکھی تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم! سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے رزق بھیج دیں گے۔ جب حضرت عثمانؓ نے یہ سنا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی بات ضرور پوری ہوگی۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ نے چودہ اونٹنیاں کھانے کے سامان سے لدی ہوئی خریدیں اور ان میں سے نو اونٹنیاں حضور ﷺ کی

۱ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۸۸) ۲ اخراجہ الحاکم (ج ۳ ص ۶۳۲)

۳ اخراجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۶۴)

خدمت میں بھیج دیں۔ جب حضور ﷺ نے یہ اونٹنیاں دیکھیں تو فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا یہ حضرت عثمانؓ نے آپ کو ہدیہ میں بھیجی ہیں۔ اس پر حضور ﷺ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر محسوس ہونے لگے اور منافقوں کے چہروں پر غم اور پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ میں نے حضور ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اتنے اوپر اٹھائے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی اور حضرت عثمانؓ کے لئے ایسی زبردست دعا کی کہ میں نے حضور ﷺ کو نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی کے لئے ایسی دعا کرتے ہوئے سنا۔ اے اللہ! عثمانؓ کو (یہ اور یہ) عطا فرما اور عثمانؓ کے ساتھ (ایسا اور ایسا) معاملہ فرما۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک مہینہ یا ایک ہفتہ یا جتنا اللہ چاہیں اس وقت تک مسلمانوں کے کسی ایک گھرانہ کی ضروریات زندگی پوری کروں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ حج پر حج کروں اور ایک دانق (یعنی درہم کے چھٹے حصے) کا طباق (خرید کر) اللہ کی نسبت پر تعلق رکھنے والے اپنے بھائی کو ہدیہ کر دوں یہ مجھے ایک دینار اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے (حالانکہ ایک دینار ایک دانق سے بہت زیادہ ہوتا ہے)۔

## کھانا کھلانا

حضرت علیؓ فرماتے ہیں میں اپنے کچھ ساتھیوں کو ایک صاع کھانے پر جمع کر لوں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں بازار جاؤں اور ایک غلام خرید کر آزاد کر دوں (حالانکہ ایک غلام کی قیمت ایک صاع کھانے سے بہت زیادہ ہے)۔

حضرت عبد الواحد بن ایمن اپنے والد حضرت ایمن رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابرؓ کے ہاں کچھ مہمان آئے۔ حضرت جابر ان کے لئے روٹی اور سرکہ لے کر آئے اور فرمایا کھاؤ کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ مہمانوں کے سامنے جو کچھ پیش کیا جائے وہ اسے حقیر سمجھیں اس سے یہ مہمان تباہ و برباد ہو جائیں گے اور میزبان کے گھر میں جو کچھ ہے اسے مہمانوں کے سامنے پیش کرنے میں

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۸۵) رواہ الطبرانی وفيہ سعید بن محمد الوراق و

هو ضعيف و اخرجہ ابن عساکر عن ابی مسعود نحوه کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۲)

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۲۸)

۳۔ اخرجہ البخاری فی الادب و ابن زنجويه کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۶۵)

حقارت سمجھے تو اس سے یہ میزبان تباہ و برباد ہو جائے گا۔<sup>۱</sup>  
حضرت انس بن مالکؓ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کچھ لوگ ان کی عیادت کرنے آئے انہوں  
نے (اپنی باندی سے) کہا اے باندی! ہمارے ساتھیوں کیلئے کچھ لاؤ چاہے روٹی کے ٹکڑے ہی  
ہوں کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اچھے اخلاق جنت کے اعمال  
میں سے ہیں۔<sup>۲</sup>

حضرت شقیق بن سلمہؓ فرماتے ہیں میں اور میرا ایک ساتھی ہم دونوں حضرت سلمان  
فارسیؓ کے پاس گئے۔ انہوں نے فرمایا اگر حضور ﷺ نے (مہمان کے لئے کھانے میں)  
تکلف کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں آپ لوگوں کے لئے ضرور تکلف کرتا اور پھر روٹی اور  
نمک لے آئے (گھر میں اور کچھ تھا نہیں) میرے ساتھی نے کہا اگر نمک کے ساتھ پودینہ  
ہو جائے (تو بہتر ہے چونکہ حضرت سلمانؓ کے پاس پودینہ خریدنے کے لئے بھی پیسے نہیں  
تھے اس لئے) انہوں نے اپنا لوٹا بیچ کر گروی رکھ لیا اور اس کے بدلہ میں پودینہ لے کر آئے۔  
جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے ساتھی نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے  
ہمیں دی ہوئی روزی پر قناعت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سن کر حضرت سلمانؓ نے فرمایا اگر دی  
ہوئی روزی پر قناعت کرتے تو میرا لوٹا گروی رکھا ہوتا تو اسے طبرانی کی ایک روایت میں یہ  
ہے کہ حضور ﷺ نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم مہمان کے لئے اس چیز کا تکلف  
کریں جو ہمارے پاس نہ ہو۔

حضرت حمزہ بن صہیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت صہیبؓ (لوگوں کو) بہت زیادہ کھانا  
کھلایا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا اے صہیب! تم بہت زیادہ کھانا کھلاتے ہو  
حالانکہ یہ مال کی فضول خرچی ہے۔ حضرت صہیب نے کہا حضور اقدس ﷺ فرمایا کرتے تھے  
تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ حضور ﷺ کے اس

۱۔ اخرجه البيهقي في الشعب كذا في الكنز (ج ۵ ص ۶۶) واخرجه احمد والطبراني عن عبد الله  
بن عبيد بن عمير بنحوه قال الهيثمي (ج ۸ ص ۱۸۰) رواه احمد والطبراني في الاوسط و ابو يعلى  
الا انه قال وكفى بالمرء شر ان يحقر ما قرب اليه وفي اسناد ابي يعلى ابو طالب القاص ولم اعرفه بقية  
رجال ابي يعلى وثقوا وهو في الصحيح باختصار انتهى . ۲۔ اخرجه الطبراني في الاوسط باسناد  
جيد عن حميد الطويل كذا في الترغيب (ج ۴ ص ۱۵۲) وقال الهيثمي (ج ۸ ص ۱۷۷) بعد  
ما ذكره عن الطبراني و اسناده جيد واخرجه ابن عساكر (ج ۱ ص ۴۳۸) بنحوه  
۳۔ اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ۸ ص ۱۷۹) رواه الطبراني و رجاله رجال الصحيح غير  
محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة

فرمان کی وجہ سے میں لوگوں کو خوب کھانا کھلاتا ہوں۔

### حضور ﷺ کا کھانا کھلانا

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضور ﷺ میرے پاس سے گزرے تو آپ نے مجھے اشارہ کیا میں اٹھ کر آپ کے پاس چلا گیا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا پھر ہم دونوں چلنے لگے۔ یہاں تک کہ آپ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے حجرے تک پہنچ گئے اور خود حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں اندر پردہ والے حصہ میں داخل ہو گیا (بظاہر حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ ان سے پردہ میں تھیں اور یہ حجرے کے اس پردہ والے حصہ میں چلے گئے تھے جہاں عام لوگ اجازت سے ہی اندر آسکتے تھے) پھر آپ نے فرمایا دو پیر کا کھانا ہے؟ گھر والوں نے کہا ہاں ہے۔ چنانچہ روٹی کی تین ٹکیاں آپ کے پاس لائی گئیں جن کو (ایک اونچی جگہ پر یا) کھجور کے پتوں کے دسترخوان پر رکھ دیا گیا۔ حضور ﷺ نے ایک ٹکیہ اٹھا کر اس کے دو حصے کئے اور پھر آدھی ٹکیہ اپنے سامنے رکھی اور آدھی میرے سامنے۔ پھر (گھر والوں سے) فرمایا۔ کوئی سالن ہے؟ تو گھر والوں نے کہا اور تو کچھ ہے نہیں۔ بس تھوڑا سا سرکہ ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہی سرکہ لے آؤ کیونکہ سرکہ تو بہترین سالن ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت عبد اللہ بن سلامؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے دیکھا کہ حضرت عثمانؓ ایک اونٹنی لے کر آ رہے ہیں جس پر آٹا، گھی اور شہد ہے۔ آپ نے فرمایا اونٹنی کو بٹھاؤ۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ نے اونٹنی بٹھا دی۔ پھر آپ نے پتھر کی ایک ہانڈی منگوائی اور اس میں کچھ گھی، شہد اور آٹا ڈالا۔ پھر آپ نے حکم دیا تو اس کے نیچے آگ جلائی گئی یہاں تک وہ پک گیا۔ پھر آپ نے (صحابہؓ سے) فرمایا کھاؤ اور آپ نے خود بھی اس میں سے کھایا پھر آپ نے فرمایا اسے اہل فارس خیمیں کہتے ہیں۔<sup>۲</sup>

حضرت عبد اللہ بن بسرؓ فرماتے ہیں حضور اقدس ﷺ کا اتنا دوا پیالہ تھا جسے چار آدمی اٹھاتے تھے اور اس کو غراء کہا جاتا تھا۔ جب چاشت کا وقت ہو جاتا اور صحابہ کرام چاشت کی نماز پڑھ لیتے تو وہ پیالہ لایا جاتا۔ اس میں ٹرید بنی ہوئی ہوتی۔ سب اس پر جمع ہو جاتے جب لوگ

۱۔ اخرجه مسلم (ج ۲ ص ۱۸۲) واخرجه ايضا اصحاب السنن كما في جمع الفوائد (ج ۱ ص ۲۹۵)  
 ۲۔ اخرجه الطبراني كذا في جمع الفوائد (ج ۱ ص ۲۹۷) قال الهشمي (ج ۵ ص ۳۸) رواه الطبراني في الثلاثة ورجال الصغير والوسط ثقافت

زیادہ ہو جاتے تو حضور ﷺ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے (چنانچہ ایک مرتبہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے تو) ایک دیہاتی نے کہا یہ کیسا بیٹھنا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے متواضع غلام اور سخی آدمی بنایا ہے (اور اس طرح بیٹھنا تواضع کے زیادہ قریب ہے) اور مجھے متکبر اور جان بوجھ کر حق سے ضد رکھنے والا نہیں بنایا پھر آپ نے فرمایا پیالے کے کناروں سے کھاؤ، درمیان کو چھوڑ دو۔ اس پر برکت نازل ہوتی ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ فرماتے ہیں ہمارے ہاں کچھ مہمان آئے۔ میرے والد رات دیر تک حضور ﷺ سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ وہ حضور ﷺ کی خدمت میں چلے گئے اور جاتے وقت کہہ گئے اے عبدالرحمن! اپنے مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلا کر فارغ ہو جانا (اور میرا انتظار نہ کرنا) جب شام ہو گئی تو ہم مہمانوں کے لئے کھانا لے آئے۔ انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا جب تک صاحب خانہ یعنی حضرت ابو بکرؓ آکر ہمارے ساتھ کھانا نہ کھائیں (اس وقت تک ہم بھی نہیں کھائیں گے) میں نے کہا وہ بہت غصہ والے آدمی ہیں اگر آپ لوگ نہیں کھائیں گے تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھ سے سخت ناراض ہوں گے۔ وہ لوگ پھر بھی نہ مانے۔ جب حضرت ابو بکرؓ آئے تو سب سے پہلے انہوں نے مہمانوں کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ لوگ اپنے مہمانوں سے فارغ ہو چکے ہو؟ گھر والوں نے کہا نہیں۔ اللہ کی قسم! ہم تو ان سے ابھی فارغ نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا کیا میں نے عبدالرحمن کو نہیں کہا تھا (کہ مہمانوں سے فارغ ہو جانا)؟ اس پر میں چُھپ گیا۔ انہوں نے کہا اے عبدالرحمن! میں اور زیادہ چُھپ گیا۔ انہوں نے کہا او غنڈ! یعنی اے بے وقوف! میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر تم میری آواز سن رہے ہو تو ضرور میرے پاس آؤ۔ چنانچہ میں آ گیا اور میں نے کہا میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ آپ کے مہمان ہیں آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں ان کے پاس کھانا لے کر گیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ جب تک آپ نہیں آجاتے وہ کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابو بکرؓ نے ان مہمانوں سے کہا آپ لوگوں کو کیا ہوا۔ آپ لوگ ہماری مہمانی کیوں نہیں قبول کرتے؟ اللہ کی قسم! جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے (مہمانوں نے بھی قسم کھالی) حضرت ابو بکرؓ نے کہا آج رات جیسا شرتو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ لوگوں کا بھلا ہوا! آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ لوگ ہماری مہمانی قبول نہیں کرتے ہیں؟ پھر (جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو) حضرت ابو بکرؓ نے کہا پہلی قسم یعنی میری قسم تو شیطان کی طرف سے تھی، آؤ اپنی مہمانی کھاؤ۔ چنانچہ کھانا لایا گیا اور آپ نے بسم

اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تو مہمانوں نے بھی کھا لیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو بکر و حضور ﷺ کی خدمت میں گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے مہمانوں کی قسم تو پوری ہو گئی لیکن میری قسم پوری نہ ہو سکی اور رات کا سارا واقعہ حضور ﷺ کو بتایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا بلکہ تم ان سے زیادہ قسم پوری کرنے والے ہو اور ان سے زیادہ اچھے ہو۔ راوی کہتے ہیں مجھ تک یہ بات نہیں پہنچی کہ حضرت ابو بکرؓ (قسم پوری نہ کرنے کا) کفارہ دیا یا نہیں (حضرت ابو بکرؓ نے کفارہ ضرور دیا ہو گا کیونکہ اس صورت میں کفارہ بالافتاق لازم آتا ہے)۔

### حضرت عمر بن خطابؓ کا کھانا کھلانا

حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمرؓ سے کہا سواری اور مال برداری کے اونٹوں میں ایک اندھی اونٹنی ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا وہ اونٹنی کسی کو دے دو۔ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ میں نے کہا وہ تو اندھی ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا وہ اسے اونٹوں کی قطار میں باندھ لیں گے (ان کے ساتھ پھرتی رہے گی) میں نے کہا وہ زمین سے (گھاس وغیرہ) کیسے کھائے گی؟ حضرت عمرؓ نے پوچھا وہ جزیہ کے جانوروں میں سے ہے یا صدقہ کے؟ (یہ اس وجہ سے پوچھا کہ جزیہ کا جانور مالدار اور فقیر دونوں کھا سکتے ہیں اور صدقہ کا جانور صرف فقیر ہی کھا سکتا ہے) میں نے کہا نہیں۔ وہ تو جزیہ کے جانوروں میں سے ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اللہ کی قسم! آپ لوگوں نے تو اسے کھانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ میں نے کہا (میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ) اس پر جزیہ کے جانوروں کی نشانی لگی ہوئی ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے اسے ذبح کرنے کا حکم دیا چنانچہ اسے ذبح کیا گیا۔ حضرت عمرؓ کے پاس نو جوڑے پیالے تھے (حضور ﷺ کی ازواج مطہرات چونکہ نو تھیں اس وجہ سے ان کی تعداد کے مطابق پیالے بھی نو بنا رکھے تھے تاکہ ان سب کو چیز ہدیہ میں بھیجی جاسکے) جب بھی حضرت عمرؓ کے پاس کوئی پھل یا کوئی نادر اور پسندیدہ میوہ آتا تو اسے ان پیالوں میں ڈال کر حضور ﷺ کی ازواج مطہرات کے پاس بھیج دیتے اور اپنی بیٹی حضرت حصہؓ کے پاس سب سے آخر میں بھیجتے تاکہ اگر کسی آئے تو حضرت حصہؓ کے حصہ میں آئے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس اونٹنی کا گوشت ان پیالوں میں ڈالا اور پھر حضور ﷺ کی ازواج مطہرات کے پاس بھیج دیا اور اونٹنی کا جو گوشت بچ گیا اسے پکانے کا حکم دیا۔ جب وہ پک گیا تو حضرات مہاجرین و انصار کو بلا کر انہیں کھلا دیا۔

## حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ کا کھانا کھلانا

حضرت سلمہ بن اکوعؓ فرماتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ نے پہاڑ کے کنارے ایک کنواں خرید اور (اس کی خوشی میں) لوگوں کو کھانا کھلایا تو حضور ﷺ نے فرمایا اے طلحہ! تم بڑے فیاض اور بہت سخی آدمی ہو۔

## حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کا کھانا کھلانا

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالبؓ غریبوں مسکینوں کے حق میں سب سے اچھے آدمی تھے۔ وہ ہمیں (اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ گھر میں ہوتا وہ ہمیں کھلا دیتے یہاں تک کہ بعض دفعہ تو گھی کی خالی کپی ہمارے پاس لے آتے جس میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ اسے پھاڑ دیتے اور جو کچھ اس میں ہوتا ہم اسے چاٹ لیتے۔

## حضرت صہیب رومیؓ کا کھانا کھلانا

حضرت صہیبؓ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کے لئے کچھ کھانا تیار کیا۔ میں آپ کے پاس آیا۔ آپ کچھ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آپ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے آپ کو اشارہ کیا (کہ کھانے کیلئے تشریف لے چلیں) تو حضور ﷺ نے مجھے اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ لوگ بھی (کھانے کیلئے ساتھ چلیں) میں نے کہا نہیں۔ حضور ﷺ خاموش ہو گئے۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ حضور ﷺ نے جب دوبارہ مجھے دیکھا تو میں نے حضور ﷺ کو اشارہ کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا اور یہ لوگ بھی۔ میں نے کہا نہیں حضور ﷺ نے اس طرح دو یا تین مرتبہ فرمایا تو میں نے کہا اچھا۔ یہ لوگ بھی (آجائیں) وہ تھوڑا سا کھانا تھا جسے میں نے حضور ﷺ کے لئے تیار کیا تھا۔ چنانچہ حضور ﷺ بھی تشریف لائے اور آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی آئے اور ان سب نے کھایا (اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ) کھانا پھر بھی بچ گیا۔

## حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا کھانا کھلانا

حضرت محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ صرف غریبوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے (اور ان کا کھانا اکثر غریب لوگ ہی کھا جایا کرتے اور یہ بھوکے رہ

۱۔ اخرجه الحسن بن سفیان و ابو نعیم فی المعرفة کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۷)

۲۔ اخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۴۱) ۳۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۵۴)

جاتے) اس کی وجہ سے ان کا جسم کمزور ہو گیا تھا تو ان کی بیوی نے ان کے لئے کھجوروں کا کوئی شربت تیار کیا۔ جب یہ کھانے سے فارغ ہو جاتے تو وہ ان کو یہ شربت پلا دیتیں اور حضرت ابو بکر بن حفص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کھانا تب کھاتے جب ان کے دسترخون پر کوئی یتیم ہوتا۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت لنن عمرؓ جب بھی دوپہر کا یارات کا کھانا کھاتے تو اپنے آس پاس کے یتیموں کو بلا لیتے۔ ایک دن دوپہر کا کھانا کھانے لگے تو ایک یتیم کو بلانے کے لئے آدمی بھیجا لیکن وہ یتیم ملا نہیں (اس لئے یتیم کے بغیر کھانا شروع کر دیا) حضرت لنن عمرؓ کے لئے بیٹھے ستو تیار کئے جاتے تھے جسے وہ کھانے کے بعد پیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ یتیم آگیا اور یہ حضرات کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ حضرت لنن عمرؓ نے اپنے ہاتھ میں پینے کے لئے ستو (کا پیالہ) پکڑا ہوا تھا تو وہ پیالہ اس یتیم کو دے دیا اور فرمایا یہ لو۔ میرا خیال ہے تم نقصان میں نہیں رہے۔

حضرت میمون بن مهران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت لنن عمرؓ کی بیوی پر کچھ لوگ حضرت لنن عمرؓ کے بارے میں ناراض ہوئے اور ان سے کہا کہ کیا تم ان بڑے میاں پر ترس نہیں کھاتی ہو کہ یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں انہیں کچھ کھلایا پلایا کرو) تو انہوں نے کہا میں ان کا کیا کروں؟ جب بھی ہم ان کے لئے کھانا تیار کرتے ہیں تو وہ ضرور اور لوگوں کو بلا لیتے ہیں جو سارا کھانا کھا جاتے ہیں (یوں دوسروں کو کھلا دیتے ہیں خود کھاتے نہیں) حضرت لنن عمرؓ جب مسجد سے نکلتے تو کچھ غریب لوگ ان کے راستہ میں بیٹھ جاتے تھے (جن کو حضرت لنن عمرؓ ساتھ گھر لے آتے اور ان کو اپنے کھانے میں شریک کر لیتے) ان کی بیوی نے ان غریبوں کے پاس مستقل کھانا پہلے سے بچھ دیا اور ان سے کہلا بھیجا کہ تم یہ کھانا کھا لو اور چلے جاؤ اور حضرت لنن عمرؓ کے راستہ میں نہ بیٹھو۔ حضرت لنن عمرؓ مسجد سے گھر آگئے (انہیں راستہ میں کوئی غریب بیٹھا ہوا نہ ملا) تو فرمایا فلاں اور فلاں کے پاس آدمی بچھو (تاکہ وہ کھانے کے لئے آجائیں آدمی ان کو بلانے گئے لیکن ان میں سے کوئی نہ آیا کیونکہ) ان کی بیوی نے ان غریبوں کو کھانے کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ اگر تمہیں حضرت لنن عمرؓ میں تو مت آنا (جب کوئی نہ آیا) تو حضرت لنن عمرؓ نے کہا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں آج رات کھانا نہ کھاؤں چنانچہ اس رات کھانا نہ کھایا۔

۱ اخراجہ ابو نعیم (ج ۱ ص ۲۹۸)

۲ اخراجہ ابو نعیم (ج ۱ ص ۲۹۸) ایضاً و اخراجہ ابن سعد (۴ ص ۱۲۲) بنحوہ.



حضرت ابو جعفر قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے میرے مالک (عبداللہ بن عیاش بن ابی ریحۃ الخزومی) نے کہا تم حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ سفر میں جاؤ اور ان کی خدمت کرو (چنانچہ میں ان کے ساتھ سفر میں گیا) وہ جب بھی کسی چشمہ پر پڑاؤ ڈالتے تو چشمہ والوں کو اپنے ساتھ کھانے کے لئے بلاتے اور ان کے بڑے بیٹے بھی ان کے پاس آکر کھانا کھاتے (تو کھانا کم اور آدمی زیادہ ہونے کی وجہ سے) ہر آدمی کو دو یا تین لقمے ملتے تھے۔ چنانچہ مجھے مقام پر بھی ان کا قیام ہوا تو وہاں کے لوگ بھی (ان کے بلانے پر) کھانے کے لئے آگئے۔ اتنے میں کالے رنگ کا ایک بچکا لڑکا بھی آگیا۔ حضرت لن عمرؓ نے اس کو بھی بلایا اس نے کہا مجھے تو بیٹھنے کی جگہ نظر نہیں آرہی ہے۔ یہ سب لوگ بہت مل مل کر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت لن عمرؓ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گئے اور اس لڑکے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بیٹھا لیا۔

حضرت ابو جعفر قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت لن عمرؓ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو چلا۔ ان کے پاس بہت بڑا پیالہ تھا جس میں ٹرید تیار کیا جاتا تھا پھر ان کے بیٹے، ان کے برائے اور جو بھی وہاں آجاتا وہ سب اکٹھے ہو کر اس پیالہ میں سے کھاتے اور بعض دفعہ اتنے آدمی اکٹھے ہو جاتے کہ کچھ آدمیوں کو کھڑے ہو کر کھانا پڑتا۔ ان کے ساتھ ان کا ایک لونٹ تھا جس پر نیبذ (وہ پانی جس میں کھجور کچھ دیر ڈال کر اسے میٹھا بنا لیا جائے) اور سادہ پانی سے بھرے ہوئے دو مشکیزے ہوتے تھے۔ کھانے کے بعد ہر آدمی کو ستوا اور نیبذ سے بھر اہوا ایک پیالہ ملتا جس کے پینے سے خوب اچھی طرح پیرینہ بھر جاتا۔

حضرت معن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت لن عمرؓ جب کھانا تیار کر لیتے اور ان کے پاس سے کوئی اچھی وضع قطع والا آدمی گزرتا تو حضرت لن عمرؓ اسے نہ بلاتے لیکن ان کے بیٹے یا بچے اسے بلا لیتے اور جب کوئی غریب آدمی گزرتا تو حضرت لن عمرؓ اسے بلا لیتے لیکن ان کے بیٹے یا بچے اسے نہ بلاتے تو حضرت لن عمرؓ فرماتے جو کھانا کھانا نہیں چاہتا اسے یہ لوگ بلاتے ہیں اور جو کھانا چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔

۱۔ اخراجہ ابو نعیم (ج ۴ ص ۱۹) فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۰۲)

۲۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۰۹) ۳۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۰۹)

## حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کا کھانا کھانا

حضرت سلیمان بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہؓ کے زمانہ خلافت میں حج کیا۔ ان کے ساتھ بصرہ کے علماء کی ایک جماعت بھی تھی جن میں مضر بن حارث ضبی بھی تھے۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم! جب تک ہم حضرت محمد ﷺ کے صحابہؓ میں سے کسی ایسے ممتاز اور پسندیدہ صحابی سے نہ مل لیں جو ہمیں حدیثیں سنائے اس وقت تک ہم لوگ (بصرہ) واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ہم لوگوں سے پوچھتے رہے تو ہمیں بتایا گیا کہ ممتاز صحابہؓ میں سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ مکہ کے قبیلہ ثقیف میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے تو ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی مقدار میں سامان لے کر لوگ جا رہے ہیں۔ تین سو اونٹوں کا قافلہ ہے جن میں سو اونٹ تو سواری کے لئے ہیں اور دو سو اونٹوں پر سامان لدا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا یہ سامان کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو کا ہے۔ ہم نے حیران ہو کر کہا کیا یہ سارا انہی کا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ متواضع انسان ہیں (اور یہاں نقشہ اور ہی طرح کا نظر آ رہا ہے) لوگوں نے بتایا کہ (یہ سارا سامان ہے تو ان کا ہی لیکن اپنے پر خرچ کرنے کیلئے نہیں ہے بلکہ دوسروں پر خرچ کرنے کیلئے ہے) یہ سو اونٹ تو ان کے مسلمان بھائیوں کے لئے ہیں جن کو یہ سواری کے لئے دیں گے اور ان دو سو اونٹوں کا سامان ان کے پاس مختلف شہروں سے آنے والے مہمانوں کے لئے ہے۔ یہ سن کر ہمیں بہت زیادہ تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا تم تعجب نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ مالدار آدمی ہیں اور وہ اپنے پاس آنے والے ہر مہمان (کی مہمانی بھی کرتے ہیں اور جاتے وقت اسے) زور اور دینا اپنے ذمہ مستقل حق سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا وہ اس وقت مسجد حرام میں ہیں چنانچہ ہم انہیں ڈھونڈنے گئے تو دیکھا کہ کعبہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے قد کے ہیں، آنکھوں میں نمی ہے۔ دو چادریں اوڑھی ہوئی ہیں اور سر پر عمامہ باندھا ہوا ہے اور ان پر قمیض نہیں ہے اور اپنے دونوں جوتے بائیں طرف لٹکائے ہوئے ہیں۔

۱ اخراجہ ابو یوسف فی الجلیۃ (ج ۱ ص ۲۹۱) واخراجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۲) عن سلیمان

بن الربیع بمعناہ مع زیادۃ.

## حضرت سعد بن عبادہؓ کا کھانا کھلانا

ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہؓ مغز سے بھر اہو ایک بڑا پیالہ حضور ﷺ کی خدمت میں لائے۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا اے ابو ثعلبہ! یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! میں نے چالیس لونٹ ذبح کئے تھے تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو پیٹ بھر کر مغز کھلاؤں چنانچہ حضور ﷺ نے اسے نوش فرمایا اور حضرت سعدؓ کیلئے عائے خیر فرمائی۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضرت سعد بن عبادہؓ نے حضور ﷺ کو (اپنے گھر آنے کی) دعوت دی (جب حضور ﷺ ان کے گھر تشریف لے آئے تو وہ حضور ﷺ کی خدمت میں بھجوریں اور کچھ روٹی کے ٹکڑے لائے جنہیں حضور ﷺ نے نوش فرمایا پھر دودھ کا ایک پیالہ لائے جسے حضور ﷺ نے پی لیا اور پھر ان کیلئے یہ دعا فرمائی تمہارا کھانا نیک آدمی کھائیں اور روزہ دار تمہارے یہاں افطار کریں اور فرشتے تمہارے لئے دعائے رحمت کریں۔ اے اللہ! سعد بن عبادہؓ کی اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔<sup>۱</sup> دوسری لمبی حدیث میں حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضرت سعد بن عبادہؓ نے حضور ﷺ کے سامنے کچھ تل اور کچھ بھجوریں پیش کیں۔<sup>۲</sup> حضرت عمرو بن حمزہ اللہ علیہ کتے ہیں میں نے حضرت سعد بن عبادہؓ کو دیکھا کہ وہ اپنے قلعہ پر کھڑے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو چربی یا گوشت کھانا چاہتا ہے وہ سعد بن عبادہؓ کے ہاں آجائے۔ پھر میں نے (ان کے انتقال کے بعد) ان کے بیٹے کو اسی طرح اعلان کرتے ہوئے دیکھا (پھر ان دونوں باپ بیٹے کے انتقال کے بعد) ایک دن میں مدینہ کے راستہ پر جا رہا تھا اس وقت میں نوجوان تھا کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ عالیہ محلہ میں اپنی زمین پر جاتے ہوئے میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا اے جوان! جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ سعد بن عبادہؓ کے قلعہ پر کیا کوئی آدمی کھانے پر بلانے کے لئے اعلان کر رہا ہے؟ میں نے دیکھ کر انہیں بتایا کہ کوئی نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا تم نے سچ کہا (اتنی زیادہ سخاوت تو ان اپنی بیٹے کی ہی خصوصیت تھی اب وہ بات نہ رہی)۔<sup>۳</sup>

۱۔ اخراجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۴۰)

۲۔ اخراجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۶۶)

۳۔ اخراجہ ابن عساکر ایضاً من وجہ آخر عن انس مطولاً بمعناہ کما فی الكنز (ج ۵ ص ۶۶)

۴۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۴۲)

## حضرت ابو شعیب انصاریؓ کا کھانا کھلانا

امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاریؓ فرماتے ہیں۔ انصار میں ایک آدمی تھے جن کو ابو شعیبؓ کہا جاتا تھا۔ ان کا ایک غلام گوشت بنانے کا ماہر تھا انہوں نے اس غلام سے کہا تم میرے لئے کھانا تیار کرو۔ میں حضور ﷺ کو اور مزید چار آدمیوں کو بلانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضور ﷺ کو جمع چار اور آدمیوں کے کھانے کی دعوت دی۔ حضور ﷺ چار آدمیوں کو ساتھ لے کر چلے تو ایک آدمی خود ہی ان حضرات کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ حضور ﷺ نے حضرت ابو شعیبؓ سے فرمایا تم نے ہم پانچ آدمیوں کو دعوت دی تھی یہ آدمی از خود ہمارے پیچھے آ رہا ہے اب اگر تم چاہو تو اسے بھی اجازت دے دو ورنہ رہنے دو۔ حضرت ابو شعیبؓ نے کہا نہیں اسے بھی اجازت ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو مسعودؓ سے ایسی ہی روایت نقل کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو شعیبؓ نے حضور ﷺ کو دیکھا تو حضور کے چہرہ مبارک پر بھوک کے آثار محسوس کئے تو اپنے غلام سے کہا تمہارا بھلا ہو تم ہمارے لئے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔

## ایک درزی کا کھانا کھلانا

حضرت انسؓ فرماتے ہیں ایک درزی نے کھانا تیار کر کے حضور ﷺ کو کھانے کے لئے بلایا۔ میں بھی حضور ﷺ کے ساتھ اس دعوت میں چلا گیا تو اس نے حضور ﷺ کے سامنے جو کی روٹی اور شوربا پیش کیا جس میں کدو اور گوشت کی بوٹیاں تھیں میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ پیالہ کے کناروں سے کدو تلاش کر رہے تھے۔ اس دن سے مجھے بھی کدو بہت مرغوب ہو گیا ہے۔

## حضرت جابر بن عبد اللہؓ کا کھانا کھلانا

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ اتنے میں ایک سخت چٹان ظاہر ہوئی (جو صحابہؓ سے ٹوٹ نہ سکی) صحابہؓ نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ خندق میں ایک سخت چٹان ظاہر ہوئی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں خود اترتا ہوں۔ پھر

۱۔ اخرجه مسلم (ج ۲ ص ۱۷۶)

۲۔ اخرجه مسلم (ج ۲ ص ۱۸۰) واللفظ له. والبخاری

اُپ کھڑے ہوئے تو آپ کے پیٹ مبارک پر (بھوک کی وجہ سے) پتھر بندھا ہوا تھا۔ کیونکہ نین دن سے ہم لوگوں نے کوئی چیز نہیں چکھی تھی۔ پھر آپ نے کدال لے کر اس زور سے اس چٹان پر ماری کہ وہ ریت کے ڈھیر کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے گھر جانے کی اجازت دیں (آپ نے اجازت دے دی) میں نے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا میں نے حضور ﷺ کی شدید بھوک کی ایسی حالت دیکھی ہے کہ جس کے بعد بس رہ نہیں سکا۔ کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ جو اور بحری کا ایک چوہ ہے۔ میں نے بحری کا وہ چوہ ذبح کیا اور اس کا گوشت تیار کیا۔ اس نے جو چیس کر اس کا آٹا گوندھا پھر ہم نے گوشت ہانڈی میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا۔ اتنے میں آٹا بھی خمیر ہو کر روٹی پکنے کے قابل ہو گیا اور ہانڈی بھی چولہے پر پکنے والی ہو گئی۔ پھر میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں جا کر عرض کیا میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے یا رسول اللہ! آپ تشریف لے چلیں اور ایک دو اور آدمی بھی ساتھ ہو جائیں۔ حضور ﷺ نے پوچھا کھانا کتنا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ نے فرمایا بڑا عمدہ کھانا ہے اور بہت زیادہ ہے اور اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب تک اس آٹے جاؤں نہ وہ ہانڈی چولہے سے اتارے اور نہ روٹی تنور سے نکالے۔ پھر آپ نے صحابہؓ سے فرمایا اٹھو (کھانے کے لئے چلو) چنانچہ مہاجرین اور انصار کھڑے ہو کر حضور ﷺ کے ساتھ چل پڑے۔ میں جب گھر پہنچا تو میں نے بیوی سے کہا تیرا بھلا ہو حضور ﷺ اپنے ساتھ مہاجرین و انصار اور دوسرے حضرات کو لے کر تشریف لارہے ہیں۔ میری بیوی نے کہا کیا تم سے حضور ﷺ نے پوچھا تھا (کہ کھانا کتنا ہے؟) میں نے کہا ہاں (پھر حضور ﷺ نے سب کو لارہے ہیں تو اب وہ ہی سب کے کھانے کا انتظام کریں گے جب حضور ﷺ ان کے پہنچ گئے تو صحابہؓ سے) حضور ﷺ نے فرمایا اندر آ جاؤ اور بھیڑ نہ کرو اور حضور ﷺ روٹی کے ٹکڑے کر کے اس پر گوشت رکھ کر صحابہؓ کو دیتے جاتے۔ حضور ﷺ جب ہانڈی سے رشت اور تنور سے روٹی لیتے تو انہیں ڈھانک دیتے۔ اسی طرح آپ صحابہؓ کو گوشت ہانڈی سے نکال کر اور روٹی توڑ توڑ کر دیتے رہے یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور کھانا پھر بھی بچ گیا (میری بیوی سے) حضور ﷺ نے فرمایا اب تم بھی کھا لو اور دوسروں کے گھروں میں بھی بچ دو۔ کیونکہ تمام لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ امام شافعی نے دلائل میں حضرت جلد سے یہی حدیث اس سے زیادہ مکمل طور پر نقل کی ہے اس میں مضمون اس طرح سے ہے کہ حضور ﷺ کو کھانے کی مقدار کا علم ہوا تو تمام مسلمانوں کو کھا اٹھو اور جلد کے ہاں چلو۔

حضرت جلد کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کا یہ اعلان سن کر اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے کتنی شرم آئی اور میں نے دل میں کہا کہ میں نے تو صرف ایک صاع جو اور ایک بھری کے بچے سے کھانے کا انتظام کیا ہے اور حضور ﷺ ہمارے ہاں اتنی ساری مخلوق کو لے کر آرہے ہیں۔ پھر میرے گھر جا کر بیوی سے کہا آج تو تم رسوا ہو گئی ہو کیونکہ حضور ﷺ تمام خندق والوں کو لے کر آرہے ہیں۔ میری بیوی نے کہا تم سے حضور ﷺ نے پوچھا تھا کہ کھانا کتنا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میری بیوی نے کہا اب تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی جانیں (ہمیں فکر مت ہونے کی ضرورت نہیں) بیوی نے اس بات سے میری بیوی پریشانی دور ہو گئی۔ پھر حضور ﷺ گھر تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا تم کام کرتی رہو اور گوشت میرے حوالے کرو۔ حضور ﷺ روٹی کا خریدنا کر اس پر گوشت ڈالتے جاتے اور اسے بھی ڈھانک دیتے اور اسے بھی (یعنی روٹیوں اور گوشت دونوں کو ڈھانک دیتے) آپ اسی طرح لوگوں کے سامنے رکھ رہے یہاں تک کہ تمام حضرات سیر ہو گئے اور تنور اور ہانڈی اب بھی پورے بھرے ہوئے تھے۔ پھر حضور ﷺ نے میری بیوی سے فرمایا اب تم خود بھی کھاؤ اور دوسرے گھروں میں بھی بھجو۔ چنانچہ وہ خود بھی کھاتی رہی اور سارا دن گھروں میں بھجی جتنی رہی لکن اہل شیعہ نے اس روایت کو اور زیادہ تفصیل سے نقل کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جلد نے مجھے بتایا کہ کھانا کھانے والوں کی تعداد آٹھ سو تھی یا فرمایا تین سو تھی۔

امام بخاری نے ایک اور سند سے اسی طرح کی حدیث حضرت جلد سے نقل کی ہے جس میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے اونچی آواز سے یہ اعلان فرمایا کہ اے خندق والو! جلد نے دعوت کا کھانا تیار کیا ہے لہذا تم سب جلدی سے چلو اور حضور ﷺ نے (مجھ سے) فرمایا جب تک میرا آنہ جاؤں تم اپنی ہانڈی کو (چولہے سے) نہ اتارنا اور نہ اپنے آنے کی روٹیاں پکانا شروع کرنا چنانچہ میں (خندق سے) گھر آیا اور (تھوڑی ہی دیر بعد) حضور ﷺ بھی تشریف لے آئے آپ لوگوں سے آگے آگے تشریف لارہے تھے یہاں تک کہ گھر پہنچ کر میں نے بیوی کو بتایا کہ حضور ﷺ سب خندق والوں کو لارہے ہیں اس نے مجھے بہت کچھ کہا کہ آج تو تم رہو جاؤ گے اور سب تمہیں برا کہیں گے (کہ کھانا تو تھوڑا سا ہے اور کھانے والے بہت زیادہ ہیں جب سب کو کھانا نہیں ملے گا تو سوائی اور شرمندگی ہوگی) میں نے اس سے کہا تم نے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا۔ حضور ﷺ کے تشریف لانے پر میری بیوی نے حضور ﷺ سے

سامنے آثار کھا حضور ﷺ نے اس میں لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ ہماری ہانڈی کے پاس تشریف لے گئے اور اس میں بھی لعاب مبارک ڈال کر برکت کی دعا فرمائی۔ پھر فرمایا ایک اور روٹی پکانے والی کو بلا لو تاکہ وہ تمہارے ساتھ روٹی پکائے اور اپنی ہانڈی سے پیالے بھر بھر کر دیتی جاؤ لیکن اسے چولہے سے مت اتارنا (بچھلی حدیث میں یہ گزر رہے کہ حضور ﷺ ہانڈی سے گوشت نکال رہے تھے اس لئے بظاہر یہ بھی حضور ﷺ کے ساتھ نکال رہی ہوں گی) یہ کھانے کیلئے آئے ایک ہزار تھے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ حضرات کھانا کھا کر واپس چلے گئے اور کھانا بچا ہوا تھا اور ہماری ہانڈی اسی طرح جوش کھا رہی تھی اور آٹے کی اسی طرح روٹیاں پک رہی تھیں۔

حضرت جلدؓ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک مرتبہ کھانا تیار کیا اور مجھ سے کہا جاؤ حضور ﷺ کو کھانے کے لئے بلا لاؤ۔ چنانچہ میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر چپکے سے عرض کیا کہ میری والدہ نے کچھ کھانا تیار کیا ہے حضور ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کے ساتھ پچاس آدمی کھڑے ہو کر چل پڑے (آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے) اور آپ دروازے پر بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمایا دس کو اندر بھجئے جاؤ۔ چنانچہ سب نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا جتنا پہلے تھا اتنا ہی بچ گیا۔ (دس کا اس لئے فرمایا کہ اندر اس سے زیادہ کے بیٹھنے کی جگہ نہ ہوگی)۔

## حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کا کھانا کھلانا

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہؓ نے حضرت ام سلیمؓ سے کہا میں نے حضور ﷺ کی آواز سنی، بہت کمزور ہو رہی تھی اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کمزوری بھوک کی وجہ سے ہے۔ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ پھر انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالیں اور اپنی اوڑھنی کے ایک حصہ میں لپیٹ کر میرے کپڑے کے نیچے چھپادیں اور اوڑھنی کا باقی حصہ مجھے اوڑھادیا۔ پھر مجھے حضور ﷺ کی خدمت میں بھیج دیا۔ میں یہ لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے آپ کو مسجد میں بیٹھا ہوا پایا۔ آپ کے پاس اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان لوگوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تمہیں ابو طلحہؓ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا کھانے کے لئے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی

ہاں (یہ تمام باتیں حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں) آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا چلو اٹھو پھر آپ (ان تمام صحابہؓ کو لیکر) چل پڑے۔ میں ان حضرات کے آگے آگے چل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے گھر پہنچ کر حضرت ابو طلحہؓ کو بتایا (کہ حضور ﷺ صحابہؓ کو ساتھ لے کر کھانے کے لئے تشریف لارہے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لئے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا) جب حضور ﷺ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنا کھانا ہے اور پھر اتنے سارے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں تو اب تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی جانیں (ہمیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں) چنانچہ حضرت ابو طلحہؓ نے آگے بڑھ کر حضور ﷺ کا راستہ ہی میں استقبال کیا۔ پھر حضور ﷺ حضرت ابو طلحہؓ کے ساتھ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور فرمایا اے ام سلیم! تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ جو کی روٹیاں لے آئیں۔ حضور ﷺ نے ان کے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا تو ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیئے گئے۔ پھر حضرت ام سلیم نے ان پر کئی سے گھی نچوڑ کر سالن بنا دیا۔ پھر حضور ﷺ اس کھانے پر تھوڑی دیر کچھ پڑھتے رہے (یعنی برکت کی دعا فرمائی) پھر فرمایا دس آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہؓ نے دس آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب انہوں نے خوب سیر ہو کر کھالیا اور باہر چلے گئے تو آپ نے فرمایا اب اور دس آدمیوں کو اجازت دے دو۔ انہوں نے دس کو اجازت دے دی۔ جب ان دس آدمیوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھالیا اور باہر چلے گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا اب اور دس آدمیوں کو اجازت دے دو۔ اس طرح سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھالیا۔ ان حضرات کی تعداد ستر یا اسی تھی۔ طبرانی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ حضرات سو کے قریب تھے۔

### حضرت اشعث بن قیس کندیؓ کا کھانا کھانا

حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت اشعثؓ (حضور ﷺ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تھے اور ان) کو قید کر کے حضرت ابو بکرؓ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے ان کی بیڑیاں کھول دیں (اور انہیں اسلام لے آنے کی وجہ سے آزاد کر دیا) اور اپنی بہن سے ان کی شادی کر دی۔ یہ اپنی تلوار سونت کر لوٹوں کے

۱) اخرجہ مسلم (ج ۲ ص ۱۷۸) واخرجہ ایضا البخاری عن انس بنحوہ کما فی البدایۃ (ج ۹ ص ۱۰۵) والامام احمد و ابو یعلیٰ و البغوی کما بسط طرق احادیثہم و الفاظہم فی البدایۃ و اخرجہ الطبرانی ایضا کما فی المجمع (ج ۸ ص ۳۰۶) وقال رواہ ابو یعلیٰ و الطبرانی و زادہم



بازار میں داخل ہو گئے اور جس اونٹ یا اونٹنی پر نظر پڑتی اس کی کوچیں کاٹ ڈالتے۔ لوگوں نے شور مچادیا کہ اشعث تو کافر ہو گیا۔ جب یہ فارغ ہوئے تو اپنی تلوار پھینک کر فرمایا اللہ کی قسم! میں نے کفر اختیار نہیں کیا لیکن اس شخص نے یعنی حضرت ابو بکرؓ نے اپنی بہن سے میری شادی کی ہے۔ اگر ہم اپنے علاقہ میں ہوتے تو ہمارا ولیمہ کچھ اور طرح کا ہوتا یعنی بہت اچھا ہوتا۔ اے مدینہ والو! تم ان تمام اونٹوں کو ذبح کر کے کھا لو اور اے اونٹوں والو! آؤ اور اپنے اونٹوں کی قیمت لے لو۔

### حضرت ابو بزرہؓ کا کھانا کھلانا

حضرت حسین بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بزرہؓ کے ہاں صبح و شام شریک کا ایک بڑا پیالہ بیو اوس، یتیموں اور مسکینوں کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔

### مدینہ طیبہ میں آنے والے مہمانوں کی مہمانی کا بیان

حضرت طلحہ بن عمروؓ فرماتے ہیں جب بھی کوئی آدمی مدینہ منورہ حضور ﷺ کی خدمت میں آتا اور مدینہ میں اس کا کوئی جاننے والا ہوتا تو وہ اس کا مہمان بن جاتا اور اگر کوئی جاننے والا نہ ہوتا تو وہ حضرات اہل صفہ کے ساتھ ٹھہر جاتا۔ چنانچہ میں بھی صفہ میں ٹھہرا ہوا تھا اور میں نے وہاں ایک آدمی کے ساتھ جوڑی بنالی۔ حضور ﷺ کی طرف سے روزانہ دو آدمیوں کو ایک مد یعنی چودہ چھٹانک کھجوریں ملا کرتی تھیں (اس طرح فی کس سات چھٹانک کھجوریں ملا کرتیں) ایک دن حضور ﷺ نے نماز سے سلام پھیرا۔ تو ہم اہل صفہ میں سے ایک آدمی نے پکار کر کہا یا رسول اللہ! ان کھجوروں نے ہمارے پیٹ جلا ڈالے اور ہماری چادریں پھٹ گئیں۔ یہ سن کر حضور ﷺ منبر کی طرف چلے اور اس پر چڑھ کر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی۔ پھر آپ کو اپنی قوم قریش کی طرف سے جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھ پر اور میرے ساتھی پر دس سے زیادہ راتیں ایسی گزریں کہ ہمارے پاس پیلو کے پھل کے علاوہ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ پھر ہم ہجرت کر کے اپنے انصاری بھائیوں کے پاس آئے۔ ان کے ہاں عام غذا کھجور ہے اور وہی زیادہ کھائی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ کھجوریں کھلا کر ہی ہمارے ساتھ عم خواری کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم! اگر میرے پاس روٹی اور

گوشت ہوتا تو میں تمہیں ضرور کھلاتا (آج تم تنگی سے گزارا کر رہے ہو) لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم کعبہ کے پردوں جیسے قیمتی کپڑے پہنو گے اور صبح اور شام تمہارے سامنے کھانے کے بڑے بڑے پیالے لائے جائیں گے۔<sup>۱</sup>

حضرت فضالہ لیثیؓ فرماتے ہیں ہم حضور ﷺ کی خدمت میں (مدینہ منورہ) حاضر ہوئے وہاں کا دستور یہ تھا کہ جس آنے والے کا وہاں کوئی جاننے والا ہوتا وہ اس کا مہمان بن جاتا اور اس کے ہاں ٹھہر جاتا اور جس کا کوئی جاننے والا نہ ہوتا تو وہ صفہ میں ٹھہر جاتا۔ چونکہ میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا اس لئے میں صفہ میں ٹھہر گیا (صفہ میں اور حضرات مہاجرین بھی تھے) ایک دفعہ جمعہ کے دن ایک آدمی نے پکار کر کہا یا رسول اللہ! کھجوروں نے ہمارے پیٹ جلا ڈالے۔ حضور ﷺ نے فرمایا عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ تم میں سے جو زندہ رہا اس کے سامنے صبح اور شام کھانے کے بڑے بڑے پیالے لائے جائیں گے اور جیسے کعبہ پر پردے ڈالے جاتے ہیں ایسے قیمتی کپڑے تم پہنو گے۔<sup>۲</sup>

حضرت سلمہ بن اکوعؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ اپنے صحابہؓ کو نماز پڑھاتے اور نماز سے فارغ ہو کر اپنے صحابہؓ سے فرماتے ہر آدمی کے پاس جتنے کھانے کا انتظام ہے اتنے مہمان اپنے ساتھ لے جائے۔ چنانچہ کوئی آدمی ایک مہمان لے جاتا کوئی دو اور کوئی تین اور جتنے مہمان بچ جاتے ان کو حضور ﷺ اپنے ساتھ لے جاتے۔<sup>۳</sup>

حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب شام ہو جاتی تو حضور ﷺ صحابہ صفہ کو اپنے صحابہؓ میں تقسیم فرمادیتے۔ کوئی ایک آدمی لے جاتا کوئی دو اور کوئی تین۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی دس مہمان لے جاتا اور حضرت سعد بن عبادہؓ ہر رات اپنے گھر اسی مہمان لے جاتے اور انہیں کھانا کھلاتے۔<sup>۴</sup>

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ کا میرے پاس سے گزر ہوا آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا البیک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۷۴) واخرجه ایضا الطبرانی و البزار بنحوہ قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۳۲۳) رجال البزار رجال الصحیح غیر محمد بن عثمان العقیلی و هو ثقة انتہی و اخرجه ابن جریر کما فی الكنز (ج ۴ ص ۴۱) و احمد و الحاکم و ابن حبان کما فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۲۳۱) ۲۔ اخرجہ الطبرانی و فیہ المقدم بن داؤد و هو ضعیف و قد وثق و بقیۃ رجالہ ثقات کما قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۳۲۳)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۴۱) واخرجه ایضا ابن ابی الدنیا و ابن عساکر نحوہ مختصراً کما فی منتخب الكنز (ج ۵ ص ۱۹۰)

اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے نہ ان کے اہل و عیال تھے اور نہ ان کے پاس مال تھا۔ جب حضور ﷺ کے پاس صدقہ آتا تو وہ سارا ان کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے خود کچھ بھی استعمال نہ فرماتے اور جب آپ کے پاس ہدیہ آتا تو اسے خود بھی استعمال فرماتے اور ان کو بھی اس میں اپنے ساتھ شریک فرما لیتے اور ہدیہ میں سے کچھ ان کے پاس بھی بھیج دیتے۔

حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں اہل صفہ میں سے تھا جب شام ہوتی تو ہم لوگ حضور ﷺ کے دروازے پر حاضر ہو جاتے۔ آپ صحابہ کرامؓ کو فرماتے تو ہر آدمی اپنے ساتھ ہم میں سے ایک آدمی اپنے گھر لے جاتا۔ آخر میں اہل صفہ میں سے دس یا کم و بیش آدمی بھیج جاتے۔ پھر حضور ﷺ کے کارات کا کھانا آتا تو ہم (باقی بھیج جانے والے) حضور ﷺ کے ساتھ کھانا کھاتے جب ہم کھانے سے فارغ ہو جاتے تو حضور ﷺ فرماتے جاؤ مسجد (نبوی) میں سو جاؤ۔ ایک دن حضور ﷺ میرے پاس سے گزرے۔ میں چہرے کے بل سو رہا تھا آپ نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر مار کر فرمایا اے جناب! یہ کیسے لیٹے ہو؟ اس طرح تو شیطان لیٹتا ہے۔

حضرت طخفہ بن قیسؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے اپنے صحابہؓ سے (اہل صفہ کو اپنے ساتھ لے جانے کے بارے میں) فرمایا کوئی ایک آدمی لے گیا اور کوئی دو۔ آخر میں ہم پانچ آدمی بھیج گئے۔ میرے علاوہ چار آدمی اور تھے حضور ﷺ نے ہم سے فرمایا چلو۔ چنانچہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ حضرت عائشہؓ کے ہاں گئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے عائشہ! ہمیں کھلاؤ اور بلاؤ تو حضرت عائشہؓ گندم کا گوشت والا دلایا لے آئیں ہم نے وہ کھالیا تو پھر کھجور کا حلوہ لے آئیں جس کا رنگ فاختہ جیسا تھا ہم نے وہ بھی کھالیا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ! ہمیں کچھ بلاؤ تو حضرت عائشہؓ دودھ کا ایک چھوٹا پیالہ لے آئیں۔ ہم نے وہ دودھ بھی پی لیا۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہاں ہی رات گزار لو اور اگر چاہو تو مسجد میں چلے جاؤ۔ ہم نے کہا ہم مسجد جانا چاہتے ہیں (چنانچہ ہم لوگ مسجد جا کر سو گئے) میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور کہا کہ اس طرح لیٹنا تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ حضور ﷺ تھے۔

حضرت حجاجہ غفاریؓ فرماتے ہیں میں اپنی قوم کے چند لوگوں کے ساتھ (مدینہ منورہ) آیا ہمارا ارادہ اسلام لانے کا تھا۔ ہم لوگوں نے مغرب کی نماز حضور ﷺ کے ساتھ پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا ہر آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا ہاتھ پکڑ لے (اور اسے اپنے گھر کھانے کے لئے لے جائے۔ چنانچہ تمام لوگوں کو صحابہؓ لے گئے) اور مسجد میں میرے اور

حضور ﷺ کے علاوہ اور کوئی نہ بچا۔ چونکہ میں لمبا ترنگا آدمی تھا اس لئے مجھے کوئی نہ لے گیا اور حضور ﷺ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ پھر حضور ﷺ میرے لئے ایک بخری کا دودھ نکال کر لائے میں وہ دودھ سارا پی گیا۔ یہاں تک کہ حضور ﷺ سات بخریوں کا دودھ نکال کر لائے اور میں وہ سارا پی گیا۔ پھر حضور ﷺ پھر کی ایک ہنڈیا میں سالن لائے میں وہ بھی سارا کھا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ام ایمنؓ نے کہا (یہ آدمی تو سب کچھ کھاپی گیا۔ حضور ﷺ بھوکے رہ گئے اس لئے) جو آج رات حضور ﷺ کے بھوکا رہ جانے کا ذریعہ بنا ہے اللہ اسے بھوکا رکھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے ام ایمن! خاموش رہو۔ اس نے اپنی روزی کھائی ہے اور ہماری روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ صبح کو حضور ﷺ کے صحابہؓ اور یہ باہر سے آئے ہوئے مہمان سب اکٹھے ہو گئے اور ہر مہمان کے پاس رات جو کھانا لایا گیا وہ بتانے لگا۔ میں نے کہا مجھے سات بخریوں کا دودھ لا کر دیا گیا میں وہ سارا پی گیا۔ پھر ایک ہنڈیا میں سالن لایا گیا میں وہ بھی سارا کھا گیا۔ ان سب نے پھر حضور ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی (نماز کے بعد) پھر حضور ﷺ نے فرمایا ہر آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا ہاتھ پکڑ لے (اور اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا دے) آج بھی مسجد میں میرے اور حضور ﷺ کے علاوہ اور کوئی نہ بچا۔ میں لمبا ترنگا آدمی تھا اس لئے مجھے کوئی نہ لے گیا۔ چنانچہ حضور ﷺ مجھے لے گئے اور مجھے ایک بخری کا دودھ نکال کر دیا۔ آج میں اسی سے سیراب ہو گیا اور میرا پیٹ بھر گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ام ایمنؓ نے کہا یا رسول اللہ! کیا یہ ہمارا اکل والا مہمان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہی ہے لیکن آج رات اس نے مومن کی آنت میں کھایا ہے اور اس سے پہلے یہ کافر کی آنت میں کھاتا تھا۔ کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے (یعنی مومن کو زیادہ کھانے پینے کا فکر اور شوق نہیں ہوتا اور کافر کو ہوتا ہے۔)

حضرت وائلہ بن اسحقؓ فرماتے ہیں ہم اہل صفہ میں تھے۔ رمضان کا مہینہ آگیا ہم نے روزے رکھنے شروع کر دیئے۔ جب ہم افطار کر لیتے تو جن لوگوں نے حضور ﷺ سے بیعت کی ہوئی تھی وہ لوگ آتے اور ان میں سے ہر آدمی ہم میں سے ایک آدمی کو اسے ساتھ لے جاتا اور اسے رات کا کھانا کھلاتا۔ ایک رات ہمیں لینے کوئی نہ آیا پھر صبح ہو گئی۔ پھر اگلی رات آگئی اور ہمیں لینے کوئی نہ آیا۔ پھر ہم لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت

۱۔ اخرجه الطبرانی و ابو نعیم و کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۹۳) و اخرجه ايضا ابن ابی شیبہ نحوہ کما فی الاصابہ (ج ۱ ص ۳۵۳) و البزار و ابو یعلیٰ کما فی المجموع (ج ۵ ص ۳۱)

حضور ﷺ کو بتائی حضور ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے پاس آدمی بھیجا کہ ان سے پوچھ کر آئے کہ ان کے پاس کچھ ہے؟ تو ان میں سے ہر ایک نے قسم کھا کر یہی جواب بھیجا کہ اس کے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے کوئی جاندار کھا سکے۔ حضور ﷺ نے ان اصحاب صفہ سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ۔ جب وہ لوگ جمع ہو گئے تو حضور ﷺ نے ان کے لئے یہ دعا فرمائی اے اللہ! میں تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت مانگتا ہوں۔ اس لئے کہ تیری رحمت تیرے ہی قبضہ میں ہے تیرے علاوہ کوئی اور اس کا مالک نہیں ہے۔ ابھی آپ نے یہ دعا مانگی ہی تھی کہ ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی (آپ نے اسے اجازت دی) تو وہ ایک بھنی ہوئی بھری اور روٹیاں لے کر آیا۔ حضور ﷺ کے فرمانے پر وہ بھری ہمارے سامنے رکھ دی گئی۔ ہم نے اس میں سے کھایا اور خوب سیر ہو گئے تو حضور ﷺ نے ہم سے فرمایا ہم نے اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رحمت مانگی تھی تو یہ کھانا اللہ کا فضل ہے اور اللہ نے اپنی رحمت ہمارے لئے ذخیرہ کر کے (آخرت کے لئے) رکھ لی ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ فرماتے ہیں اصحابہ صفہ غریب فقیر لوگ تھے۔ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہے تو وہ (اصحاب صفہ میں سے) تیسرے کو لے جائے اور جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہے وہ پانچویں یا چھٹے کو لے جائے۔ چنانچہ حضور ﷺ خود دس آدمیوں کو لے گئے اور (میرے والد) حضرت ابو بکرؓ تین آدمی گھر لے آئے اور گھر میں خود میں تھا اور میرے والد اور والدہ تھیں۔ رلوی کہتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بھی کہا تھا کہ اور میری بیوی تھی اور مزید ایک خادم تھا جو ہمارے اور حضرت ابو بکرؓ دونوں کے گھروں میں کام کرتا تھا (گھر کے افراد کل چار یا پانچ تھے۔ حضور ﷺ نے تو فرمایا تھا کہ چار ہوں تو ایک یا دو لے جانا لیکن حضرت ابو بکرؓ شوق میں تین آدمی لے آئے) خود حضرت ابو بکرؓ نے حضور ﷺ کے ہاں رات کا کھانا کھایا اور پھر عشاء تک وہاں ہی ٹھہرے رہے۔ پھر نماز عشاء کے بعد اور ٹھہر گئے یہاں تک کہ حضور ﷺ نے کھالیا۔ رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد حضرت ابو بکرؓ گھر آئے (وہ سمجھے کہ مہمانوں نے کھانا کھالیا ہوگا) ان کی بیوی نے ان سے کہا آپ اپنے مہمانوں کے پاس کیوں نہیں آئے؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا کیا تم نے ان مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو ان سے کہا تھا کہ کھانا کھالو لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب ابو بکرؓ آئیں گے تب کھائیں گے۔ ہم نے بہت زور لگایا لیکن بالکل نہ مانے اور ہم پر غالب آگئے۔ میں یہ سن کر اندر جا کر چھپ گیا۔ (کہ مجھے سکاراض

ہوں گے) حضرت ابو بکرؓ نے مجھے ناراض ہوتے ہوئے کہا ابو بکر قوف! (تم نے ان کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟) اور مجھے خوب اہلا کہا (پھر حضرت ابو بکرؓ نے غصہ میں قسم کھالی کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے) اور حضرت ابو بکرؓ نے مہمانوں سے کہا تم کھانا کھاؤ میں یہ کھانا کبھی نہیں کھاؤں گا (اس پر مہمانوں نے بھی قسم کھالی کہ اگر ابو بکرؓ نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ آخر حضرت ابو بکرؓ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ انہوں نے اپنی قسم توڑی اور مہمانوں کے ساتھ کھانا شروع کر دیا اس پر) حضرت عبدالرحمنؓ کہتے ہیں ہم کھانا کھا رہے تھے۔ اللہ کی قسم! ہم جو لقمہ بھی اٹھاتے اس کے نیچے کھانا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا یہاں تک کہ سب مہمان سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے جب دیکھا کہ کھانا پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے تو اپنی بیوی سے کہا اے قبیلہ بنو فراس والی خاتون! (دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے) بیوی نے کہا کوئی بات نہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم! یہ کھانا تو پہلے سے تین گنا ہو گیا ہے۔ پھر حضرت ابو بکرؓ نے بھی وہ کھانا کھایا اور کہا میری (نہ کھانے کی) قسم تو شیطان کی طرف سے تھی۔ پھر انہوں نے اس میں سے ایک لقمہ اور کھایا پھر وہ اٹھا کر یہ کھانا حضور ﷺ کی خدمت میں لے گئے۔ ہم مسلمانوں کا ایک قوم سے معاہدہ ہوا تھا جس کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں نے ان کی طرف بھیجنے کے لئے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں بارہ آدمیوں کو ذمہ دار بنا کر ہر ایک کے ساتھ بہت سے مسلمان کر دیئے تھے۔ ذمہ داروں کی تعداد تو معلوم ہے کہ بارہ تھے لیکن ہر ایک کے ساتھ کتنے مسلمان تھے؟ یہ تعداد اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہر حال اس سارے لشکر نے اس کھانے میں سے کھایا تھا۔ بعض راولیوں نے بارہ ذمہ دار بنانے کے بجائے بارہ جماعتیں بنانے کا تذکرہ کیا ہے۔

حضرت یحییٰ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک سال حضرت سعد بن عبادہؓ غزوہ میں جاتے اور ایک سال ان کے بیٹے حضرت قیسؓ جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سعد مسلمانوں کے ہمراہ غزوہ میں گئے ہوئے تھے ان کے پیچھے مدینہ میں حضور ﷺ کے پاس بہت سے مسلمان مہمان آگئے۔ حضرت سعد کو وہاں لشکر میں یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا اگر قیس میرا بیٹا ہو تو وہ (میرے غلام لسطاس سے) کئے گا لے لسطاس! چلیاں لاؤ تاکہ میں حضور ﷺ کے لئے ان کی ضرورت کی چیزیں (اپنے والد کے گودام میں سے) نکال لوں۔ اس پر لسطاس کہے گا اپنے والد کی طرف سے اجازت کی کوئی تحریر لاؤ تو میرا بیٹا قیس مار

کر اس کی ناک توڑ دے گا اور اس سے زبردستی چلیاں لے کر حضور ﷺ کی ضرورت کا سامان نکال لے گا۔ چنانچہ پیچھے مدینہ میں ایسے ہی ہوا اور حضرت قیس نے حضور ﷺ کو سووسق (تقریباً پانچ سو پچیس من) لاکر دیئے۔

حضرت میمونہ بنت الحارثؓ فرماتی ہیں ایک سال قحط پڑا تو دیرماتی لوگ مدینہ منورہ آنے لگے۔ حضور ﷺ کے فرمانے پر ہر صحابی ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا اور اسے اپنا مہمان بنا لیتا اور اسے رات کا کھانا کھلاتا۔ چنانچہ ایک رات ایک دیرماتی آیا (اسے حضور ﷺ اپنے ہاں لے آئے) حضور ﷺ کے پاس تھوڑا سا کھانا اور کچھ دودھ تھا۔ وہ دیرماتی یہ سب کچھ کھانی گیا اور اس نے حضور ﷺ کے لئے کچھ نہ چھوڑا۔ حضور ﷺ ایک یا دو راتیں اور اس کو ساتھ لاتے رہے اور وہ ہر روز سب کچھ کھا جاتا۔ اس پر میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا اے اللہ! اس دیرماتی میں برکت نہ کر کیونکہ یہ حضور ﷺ کا سارا کھانا کھا جاتا ہے اور حضور ﷺ کے لئے کچھ نہیں چھوڑتا پھر وہ مسلمان ہو گیا اور اسے پھر حضور ﷺ ایک رات ساتھ لے کر آئے اس رات اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا یہ وہی آدمی ہے؟ (جو پہلے سارا کھانا کھا لیا کرتا تھا) حضور ﷺ نے فرمایا (ہاں یہ وہی ہے لیکن پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو گیا ہے) کافر سات آنٹوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے۔

حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب (حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں) سخت قحط پڑا جسے عام الرمادہ کہا جاتا ہے (رمادہ کے معنی ہلاکت ہیں یا راکھ۔ یعنی ہلاکت کا سال یا وہ سال جس میں لوگوں کے رنگ قحط کی وجہ سے راکھ جیسے ہو گئے تھے) تو ہر طرف سے عرب کھج کر مدینہ منورہ آگئے۔ حضرت عمرؓ نے کچھ لوگوں کو ان کے انتظام اور ان میں کھانا اور سالن تقسیم کرنے کیلئے مقرر کیا۔ ان لوگوں میں حضرت یزید بن اخت نمر، حضرت مسور بن مخزومہ حضرت عبدالرحمن بن عبید قاری اور حضرت عبداللہ بن عقبہ بن مسعود تھے۔ شام کو یہ حضرات حضرت عمرؓ کے پاس جمع ہوتے اور دن بھر کی ساری کارگزاری سناتے۔ ان میں سے ہر ایک آدمی مدینہ کے ایک کنارے پر مقرر تھا اور یہ دیرماتی لوگ شینۃ الوداع کے شروع سے لے کر رانج قلعہ، ابو حارثہ، ابو عبد اللہ شہل بقیع اور ابو قریظہ تک ٹھہرے ہوئے تھے اور ان میں

۱۔ اخرجہ الدارقطنی فی کتاب الاسخياء کذا فی الاصابۃ (ج ۳ ص ۵۵۳)

۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۵ ص ۳۳) رواہ الطبرانی بتمامہ وردی احمد آخرہ

ورجال الطبرانی رجال الصحیح النہی .

سے کچھ ہو سلمہ کے علاقہ میں بھی ٹھہرے ہوئے تھے بہر حال یہ لوگ مدینہ منورہ کے باہر چاروں طرف ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک رات جب یہ دیہاتی لوگ حضرت عمرؓ کے ہاں کھانا کھا چکے تو میں نے حضرت عمرؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے ہاں جو رات کا کھانا کھاتے ہیں ان کی گنتی کرو۔ چنانچہ اگلی رات گنتی کی تو ان کی تعداد سات ہزار تھی۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا وہ گھرانے جو یہاں نہیں آتے ہیں ان کی لوریہ ساروں لوریہ جوں کی بھی گنتی کرو۔ ان کو گنا تو ان کی تعداد چالیس ہزار تھی۔ پھر چند راتیں اور گزریں تو لوگ اور زیادہ ہو گئے تو حضرت عمرؓ کے فرمانے پر دوبارہ گنا تو جن لوگوں نے حضرت عمرؓ کے ہاں رات کا کھانا کھایا تھا وہ دس ہزار تھے اور دوسرے لوگ پچاس ہزار تھے۔ یہ سلسلہ یونہی چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی اور قحط دور فرمادیا۔ جب خوب بارش ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ نے ان انتظامی لوگوں میں سے ہر ایک کی قوم کے ذمہ یہ کام لگایا کہ ان آنے والے لوگوں میں سے جو ان کے علاقے میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو ان کے دیہات کی طرف واپس بھیج دیں اور انہیں زادراہ اور دیہات تک جانے کے لئے سواریاں بھی دیں اور میں نے دیکھا کہ خود حضرت عمرؓ بھی انہیں بھیجنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان قحط زدہ لوگوں میں موتیں بھی بہت ہوئی تھیں۔ میرے خیال میں ان میں سے دو تہائی لوگ مر گئے ہوں گے اور ایک تہائی بچے ہوں گے۔ حضرت عمرؓ کی بہت ساری دیکیں تھیں پکانے والے لوگ صبح تہجد میں اٹھ کر ان دیگوں میں کرکور (ایک قسم کا دلہا) پکاتے پھر صبح یہ دلیلہ ساروں کو کھلا دیتے۔ پھر آٹے میں گھی ملا کر ایک قسم کا کھانا پکاتے۔ حضرت عمرؓ کے کمنے پر بڑی بڑی دیگوں میں تیل ڈال کر آگ پر اتنا جوش دیا جاتا کہ تیل کی گرمی اور تیزی چلی جاتی۔ پھر روٹی کا ٹریدنا کر اس میں یہ تیل بطور سالن کے ڈال دیا جاتا (چونکہ عرب تیل استعمال کرنے کے عادی نہیں تھے) اس لئے تیل استعمال کرنے سے ان کو مختار ہو جاتا تھا۔ قحط سالی کے تمام عرصے میں حضرت عمرؓ نے نہ اپنے کسی بیٹے کے ہاں کھانا کھلایا اور نہ اپنی کسی بیوی کے ہاں بلکہ ان قحط زدہ لوگوں کے ساتھ ہی رات کا کھانا کھاتے رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے (بارش بھیج کر) انسانوں کو زندگی عطا فرمائی۔

حضرت فراس دلیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرو بن عاصؓ نے مصر سے جو لونٹ بچے تھے ان میں سے حضرت عمرو بن زانہؓ بیس لونٹ ذبح کر کے اپنے دسترخوان پر (لوگوں کو)

۱ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۳۱۶)

۲ اخراجہ ابن سعد کذا فی منتخب الکنز (ج ۴ ص ۳۸۷)



کھلاتے تھے۔ ۲

حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ ایک رات گشت کر رہے تھے تو وہ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے گھر کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد بچے رو رہے تھے اور ایک دیگی پانی سے بھر کر آگ پر رکھی ہوئی تھی حضرت عمرؓ نے دروازے کے قریب آکر کہا اے اللہ کی ہدی! یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا یہ دیگی آگ پر کیسے رکھی ہوئی ہے؟ اس عورت نے کہا بچوں کو بہلانے کے لئے پانی بھر کر رکھی ہوئی ہے تاکہ بچے سو جائیں اور میں نے بچوں کو کہہ رکھا ہے کہ اس میں کچھ ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ رونے لگے۔ پھر جس گھر میں صدقے کا مال رکھا ہوا تھا وہاں آئے اور ایک بورالے کو اس میں کچھ آنا، چربی، گھی، کھجوریں، کچھ کپڑے اور درہم ڈالے یہاں تک کہ وہ بورا بھر گیا پھر کہا اے اسلم! یہ بورا اٹھا کر میرے اوپر رکھ دو۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ کی جگہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے مجھ سے کہا اے اسلم! تیری ماں مرے! میں ہی اسے اٹھاؤں گا کیونکہ آخرت میں ان کے بارے میں مجھ سے ہی پوچھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ خود ہی اسے اٹھا کر اس عورت کے گھر لائے اور دیگی لے کر اس میں آنا اور چربی اور کھجوریں ڈالیں پھر (آگ پر اسے رکھ کر) خود ہی اسے اپنے ہاتھ سے ہلانے لگ گئے اور دیگی کے نیچے (آگ کو) پھونک مارنے لگ گئے۔ میں کتنی دیر دیکھتا رہا کہ دھواں حضرت عمرؓ کی داڑھی کے درمیان سے نکل رہا ہے یہاں تک کہ ان کے لئے کھانا پک گیا۔ پھر اپنے ہاتھ سے کھانا ڈال کر ان بچوں کو کھلانے لگے۔ یہاں تک کہ بچوں کا پیٹ بھر گیا۔ پھر گھر سے باہر آکر گھٹنوں کے بل تواضع سے بیٹھ گئے لیکن مجھ پر ایسا رب طاری ہوا کہ میں ڈر کے مارے ان سے بات نہ کر سکا۔ حضرت عمرؓ ایسے ہی بیٹھے رہے یہاں تک کہ سچ کھیل کود میں لگ کر ہنسنے لگے تو حضرت عمرؓ اٹھے اور کہنے لگے اے اسلم! تم جانتے ہو میں بچوں کے سامنے کیوں بیٹھا؟ میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں ان بچوں کو ہنستے ہوئے دیکھے بغیر ہی چھوڑ کر چلا جاؤں۔ جب وہ ہنسنے لگے تو میرا جی خوش ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ایک رات میں حضرت عمرؓ کے ساتھ حرہ و اقم (مدینہ کے ایک علاقہ کا نام ہے) کی طرف نکلا۔ جب ہم صرار مقام پر پہنچے تو ہمیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو حضرت عمرؓ نے

کہاے اسلم! یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے یہیں ٹھہر گیا ہے چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ ہم ان کے پاس گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں آگے بچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔<sup>۱</sup>

### کھانا تقسیم کرنا

حضرت انسؓ فرماتے ہیں (دومۃ الجندل مقام کے بادشاہ) اگیدر نے حلوے کا بھر اہو ایک گھڑا حضور ﷺ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ ان میں سے ہر ایک کو حلوے کا ٹکڑا دیتے جا رہے تھے چنانچہ حضرت جلدؓ کو بھی ایک ٹکڑا دیا۔ پھر ان کے پاس واپس آکر ان کو ایک اور ٹکڑا دیا۔ حضرت جلدؓ نے عرض کیا آپ مجھے ایک دفعہ تو دے چکے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا یہ دوسرا ٹکڑا حضرت عبداللہؓ کی بیٹیوں یعنی تمہاری بہوں کے لئے دیا ہے۔<sup>۲</sup>

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں دومۃ الجندل کے بادشاہ اگیدر نے حضور ﷺ کی خدمت میں حلوے کا ایک گھڑا ہدیہ میں بھیجا جسے تم نے دیکھا تھا اور اللہ کی قسم! اس دن خود حضور ﷺ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس گھڑے کی ضرورت تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے ایک آدمی سے فرمایا تو وہ اس گھڑے کو لے کر حضور ﷺ کے صحابہؓ کے پاس گیا۔ وہ جس آدمی کے پاس پہنچا وہ گھڑے میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے حلوہ نکال لیتا اور پھر اسے کھا لیتا چنانچہ وہ حضرت خالد بن ولیدؓ کے پاس پہنچا تو انہوں نے ہاتھ ڈالا (اور اس میں سے دو مرتبہ لیا) اور عرض کیا یا رسول اللہ! اور لوگوں نے ایک مرتبہ لیا ہے اور میں نے دو مرتبہ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا (کوئی بات نہیں) تم خود بھی کھا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھاؤ۔<sup>۳</sup>

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ نے اپنے صحابہؓ میں کھجوریں تقسیم فرمائیں اور ہر ایک کو سات سات کھجوریں دیں اور مجھے بھی آپ نے سات کھجوریں دیں جن میں ایک بغیر گٹھلی والی کھجور بھی تھی جو مجھے ان تمام کھجوروں سے زیادہ اچھی لگی کیونکہ وہ سخت تھی۔ اس لئے اس کے چبانے میں دیر لگی اور میں اسے کافی دیر تک چباتا رہا۔<sup>۴</sup> حضرت

۱ ذکرہ البدایۃ (ج ۷ ص ۱۳۶) و اخرجہ الطبری (ج ۵ ص ۲۰) بمعناہ مع زیادات

۲ اخرجہ احمد کذا فی جمع الفوائد (ج ۱ ص ۲۹۷) قال الہیثمی (ج ۵ ص ۴۴) وفیہ علی

بن زید وفیہ ضعف و مع ذلك محلیتہ حسن ۳ عند ابن جریر کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۴۷)

۴ اخرجہ البخاری

انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کی خدمت میں کچھ کھجوریں لائی گئیں۔ آپ انہیں صحابہؓ میں تقسیم فرمانے لگے اور آپ اس طرح بیٹھ کر وہ کھجوریں جلدی جلدی کھا رہے تھے جیسے کہ ابھی اٹھنے والے ہوں (کسی ضروری کام سے کہیں جانا ہو گا اس لئے اطمینان سے بیٹھ کر نہ کھائیں)۔

حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ کے زمانہ خلافت میں رماہ والے سال میں مدینہ منورہ میں لوگوں کو شدید قحط سالی کی وجہ سے بڑی مشقت اٹھانی پڑی چنانچہ انہوں نے مصر حضرت عمرو بن عاصؓ کو یہ خط لکھا:

”اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے نافرمان کی طرف جو عاص کے بیٹے ہیں سلام ہو۔ لہذا اے عمرو! میری جان کی قسم! جب تم خود اور تمہارے ساتھی سیر ہو کر کھا رہے ہوں تو پھر تمہیں اس کی کیا پرواہ کہ میں اور میرے ساتھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہماری مدد کرو! ہماری مدد کرو!“ (چونکہ حضرت عمرؓ کا لہجہ تنبیہ اور عتاب کا ہے۔ اس لئے حضرت عمرو کو نافرمان سے خطاب کیا اور اپنی جان کی قسم کھانے کا اہل عرب میں عام رواج تھا لیکن اس سے قسم مراد نہیں ہوتی تھی بلکہ تاکید مقصود ہوتی تھی)

حضرت عمرؓ اپنے آخری جملے کو بار بار دہراتے رہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے جواب میں یہ مضمون لکھا:

”اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی خدمت میں عمرو بن عاص کی طرف سے۔ لہذا! میں مدد کے لئے حاضر ہوں! میں مدد کے لئے حاضر ہوں! میں آپ کی خدمت میں غلہ کا اتنا بڑا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا پہلا لونٹ آپ کے پاس مدینہ میں ہو گا اور اس کا آخری لونٹ میرے پاس مصر میں ہو گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“

چنانچہ حضرت عمرو نے بہت بڑا قافلہ بھیجا جس کا پہلا لونٹ مدینہ میں تھا اور آخری مصر میں اور لونٹ کے پیچھے لونٹ چل رہا تھا۔ جب یہ قافلہ حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا تو آپ نے خوب دل کھول کر لوگوں میں تقسیم کیا اور یہ طے کیا کہ مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کے ہر گھر میں ایک اونٹ مع اس پر لدے ہوئے سارے غلہ کے دیا جائے اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت زبیر بن عوامؓ اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو لوگوں میں سامان تقسیم کرنے کے لئے بھیجا۔ چنانچہ ان حضرات نے ہر گھر میں ایک اونٹ مع اس پر لدے ہوئے غلہ کے دیا تاکہ وہ غلہ بھی استعمال کریں اور لونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں اور

اس کی چرٹی کا سالن بنا لیں اور اس کی کھال سے جوتے بنا لیں اور جس پوری میں غلہ ہے اسے اپنی ضرورت میں لحاف وغیرہ بنا کر استعمال کر لیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خوب وسعت عطا فرمائی۔ اس کے بعد راوی نے مزید لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ تک غلہ پہنچانے کے لئے دریائے نیل سے بحر قلزم تک ایک نہر کھودی گئی۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ اسی واقعہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے رامادہ والے (قطیف کے) سال میں حضرت عمرو بن عاصؓ کو خط لکھا۔ پھر اس قصہ کو بیان کرنے کے بعد حضرت اسلمؓ کہتے ہیں جب اس قافلہ کا پہلا حصہ مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت زبیرؓ کو بلا کر فرمایا یہ اونٹ لے کر تم جلد چلے جاؤ اور وہاں کے رہنے والوں میں سے جنتوں کو تم میرے پاس سواری پر لا سکو ان کو میرے پاس لے آؤ اور جن کو نہ لا سکو ان میں ہر گھر کو ایک اونٹ مع اس پر لدے ہوئے غلہ کے دے دو اور ان سے کہہ دو کہ دو چادریں تو پہن لیں اور اونٹ کو ذبح کر کے اس کی چرٹی کو پگھلا کر تیل بنا لیں اور گوشت کو کاٹ کر خشک کر لیں اور اس کی کھال سے جوتی بنا لیں اور پھر کچھ گوشت، کچھ چرٹی اور مٹھی بھر آٹا لے کر اسے پکالیں اور اسے کھالیں۔ اس طرح گزارہ کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے مزید روزی کا انتظام فرمادیں لیکن حضرت زبیرؓ نے اس کام کے لئے جانے سے معذرت کر دی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! تم کو پھر موت تک اتنے بڑے ثواب والے کام کا موقع نہیں مل سکے گا۔ پھر حضرت عمرؓ نے ایک اور آدمی غالباً حضرت طلحہؓ کو بلا لیا لیکن انہوں نے بھی جانے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کو بلا لیا (وہ جانے کے لئے تیار ہو گئے) اور چلے گئے۔ آگے انہوں نے حدیث ذکر کی جس میں یہ ہے کہ حضرت عمرؓ حضرت ابو عبیدہؓ کو ہزار دینار دیئے جو انہوں نے واپس کر دیئے لیکن حضرت عمرؓ کے کچھ کہنے پر آخر حضرت ابو عبیدہؓ نے قبول کر لئے۔ اے حضرات انصار کے اکرام اور خدمت کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ حضورؐ نے انصار میں اور بو ظفر میں غلہ تقسیم فرمایا۔

### جوڑے پہنانا اور ان کی تقسیم

حضرت حبان بن جزء سلمی اپنے والد حضرت جزی سلمیؓ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اس (صحابی) قیدی کو لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے (جیسے ان کی قوم نے قید کر

۱ اخراجہ ابن عبدالحکم . ۲ اخراجہ ایضاً ابن خزیمہ و ابو عبیدہ و الحاکم و البیہقی

رکھا تھا) حضرت جزی وہاں حضور ﷺ کے ہاں مسلمان ہو گئے تو حضور ﷺ نے ان کو دو چادریں پہنانے کا ارادہ فرمایا تو ان سے فرمایا کہ تم عائشہؓ کے پاس جاؤ جو چادریں ان کے پاس ہیں ان میں سے وہ تم کو دو چادریں دے دیں گی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سر سبز و شاداب رکھے! آپ کے پاس جو چادریں ہیں ان میں سے دو چادریں پسند کر کے مجھے دے دیں کیونکہ حضور ﷺ نے ان میں سے دو چادریں مجھے دینے کا حکم فرمایا ہے حضرت عائشہؓ نے پیلو کی لمبی مسواک بڑھاتے ہوئے فرمایا یہ اور یہ لے لو اور عرب عورتیں نظر نہیں آتی تھیں (کیونکہ وہ پردہ کرتی تھیں اور اسی وجہ سے حضرت عائشہؓ نے مسواک سے اشارہ کیا)

حضرت جعفر بن محمد اپنے والد حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے پاس یمن سے جوڑے آئے جو انہوں نے لوگوں کو پہنادیئے۔ شام کو لوگ وہ جوڑے پہن کر آئے اس وقت حضرت عمرؓ قبر اطہر اور منبر شریف کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے پاس آکر ان کو سلام کرتے اور ان کو دعائیں دیتے۔ اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسینؓ اپنی والدہ حضرت فاطمہؓ کے گھر سے نکلے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے جسم پر ان جوڑوں میں سے کوئی جوڑا نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر آپ غمگین اور پریشان ہو گئے اور آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور فرمایا اللہ کی قسم! تم لوگوں کو جوڑے پہنا کر مجھے خوشی نہیں ہوئی (کیونکہ حضور ﷺ کے نواسوں کو تو پہنا نہیں سکا) لوگوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ نے اپنی رعایا کو جوڑے پہنا کر اچھا کیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ یہ دوڑے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آرہے تھے اور ان کے جسم پر ان جوڑوں میں سے کوئی جوڑا نہیں ہے۔ یہ جوڑے ان دونوں سے بڑے ہیں اور یہ دونوں ان جوڑوں سے چھوٹے ہیں (اس وجہ سے ان کو جوڑے نہیں دیئے) پھر انہوں نے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے لئے جلدی سے دو جوڑے بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے دو جوڑے بھیجے جو حضرت عمرؓ نے ان دونوں حضرات کو پہنادیئے اور انصار کے اکرام کے باب میں لوگوں میں جوڑے تقسیم کرنے کے بارے میں حضرت عمرؓ کے ساتھ حضرت اسید بن خنیس اور حضرت محمد بن مسلمہؓ کا قصہ گزر چکا ہے اور عورتوں کے جنگ کرنے کے باب میں یہ بھی گزر چکا ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ام عمارہؓ کو اس لئے

۱۔ اخرجه ابو نعیم كذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۵۳)

۲۔ اخرجه ابن سعد كذا فی كنز العمال (ج ۷ ص ۱۰۶)

ایک بڑی چادر دی تھی کہ انہوں نے جنگ احد کے دن جنگ کی تھی۔

حضرت محمد بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت شفاء بنت عبد اللہ عدویہؓ کو پیغام بھیجا کہ صبح کے وقت میرے پاس آنا۔ وہ فرماتی ہیں میں صبح کے وقت حضرت عمرؓ کے ہاں گئی تو مجھے ان کے دروازے پر حضرت عاتکہ بنت اسید بن ابی العیصؓ ملیں۔ پھر ہم دونوں اندر گئیں۔ وہاں ہم نے کچھ دیر بات کی۔ پھر حضرت عمرؓ نے ایک چادر منگوا کر حضرت عاتکہ کو دی۔ پھر ایک اور چادر منگوائی جو پہلی سے کم درجہ کی تھی۔ وہ مجھے دی۔ میں نے کہا اے عمرؓ! میں ان سے پہلے اسلام لائی ہوں اور میں آپ کی چچا زویہ بن ہوں اور یہ نہیں ہیں اور آپ نے مجھے پیغام بھیج کر بلایا ہے اور یہ خود آئی ہیں (ان تمام باتوں کی وجہ سے بڑھیا چادر مجھے ملنی چاہئے) حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے یہ چادر تمہارے لئے ہی اٹھا کر رکھی تھی لیکن جب تم دونوں اکٹھی ہوئیں تو مجھے یہ یاد آیا کہ ان کی حضور ﷺ سے رشتہ داری تم سے زیادہ قریب کی ہے (اور حضور ﷺ کی رشتہ داری میری رشتہ داری سے زیادہ درجہ رکھتی ہے اس لئے میں نے انہیں بڑھیا چادر دی)۔

حضرت اصغ بن نباتہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے امیر المؤمنین! مجھے آپ سے ایک کام ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اگر میرا وہ کام کر دیں گے تو میں اللہ کی بھی تعریف کروں گا اور آپ کا بھی شکر یہ ادا کروں گا اور اگر آپ نے وہ کام نہ کیا تو بھی میں اللہ کی تعریف کروں گا اور آپ کو معذور سمجھوں گا کہ یہ کام آپ کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا تم اپنا کام زمین پر لکھ کر مجھے بتا دو کیونکہ زبان سے مانگنے کی ذلت میں تمہارے چہرے پر دیکھنا پسند نہیں کرتا چنانچہ اس نے زمین پر لکھا کہ میں ضرورت مند ہوں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا ایک جوڑا میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ جوڑا حضرت علیؓ نے اس آدمی کو دے دیا۔ اس آدمی نے لے کر وہ جوڑا پہن لیا۔ پھر وہ حضرت علیؓ کی تعریف میں یہ اشعار پڑھنے لگا۔

کسوئی حلة تبلی محاسنہا

فسوف اکسوك من حسن الثنا حلالا

آپ نے تو مجھے ایک ایسا جوڑا پہنایا ہے جس کی خوبیاں پرانی ہو کر ختم ہو جائیں گی اور میں آپ کو عمدہ تعریف کے (ایسے) جوڑے پہناؤں گا (جن کی خوبیاں ختم نہ ہوں گی)

ان نلت حسن ثنائی نلت مکرمۃ

ولست تبغی بما قد قلته بدلاً  
آپ کو میری عمدہ تعریف سے بڑی عزت حاصل ہوگی اور میں نے جو کچھ کہا ہے آپ اس  
کے بدلہ میں کچھ نہیں چاہتے ہیں۔

ان الثناء لیحیی ذکر صاحبہ

کالغیث یحیی نداه السهل و الجبلا

تعریف تعریف والے کے تذکرے کو اس طرح زندہ رکھتی ہے جس طرح بارش کی تری  
میدانی اور پہاڑی علاقوں کو زندہ کرتی ہے۔

لا تزهد الدهر فی خیر توفقه

فکل عبد سیجزی بالذی عملا

جس خیر کے کام کی اللہ تمہیں توفیق دے تم زندگی بھر اسے کرتے رہو اور بے رغبتی سے  
اسے مت چھوڑو کیونکہ ہر بندے کو اپنے کئے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا۔

(یہ اشعار سن کر) حضرت علیؓ نے فرمایا میرے پاس دینار لاؤ۔ چنانچہ آپ کے پاس سو  
اشرفیاں لائی گئیں۔ آپ نے وہ اشرفیاں اس آدمی کو دے دیں۔ حضرت اصحیح کہتے ہیں میں  
نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ اسے ایک جوڑا اور سو دینار دے رہے ہیں حضرت علیؓ نے  
فرمایا ہاں، میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے درجے  
کے مطابق معاملہ کرو اور اس آدمی کا میرے نزدیک یہی درجہ ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کے پاس ایک سائل آیا (اور اس نے کچھ مانگا) حضرت ابن عباسؓ نے  
اس سے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد ﷺ اللہ  
کے رسول (ﷺ) ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، حضرت ابن عباسؓ نے پوچھا مضان کے روزے  
رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابن عباسؓ نے کہا تم نے مانگا ہے اور مانگنے والے کا حق  
ہوتا ہے اور یہ ہم پر حق ہے کہ ہم تمہارے ساتھ احسان کریں۔ پھر حضرت ابن عباسؓ نے  
اسے ایک کپڑا دیا اور فرمایا میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان بھی کسی  
مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک اس کے جسم پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا رہے گا اس وقت  
تک وہ پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔

## مجاہدین کو کھانا کھلانا

حضرت جلد بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک لشکر روانہ فرمایا جس کے امیر حضرت قیس بن سعد بن عبادہؓ تھے۔ سفر میں ان حضرات پر فاقہ آیا تو حضرت قیس نے اپنے ساتھیوں کے لئے نوانٹ ذبح کر دیئے۔ جب یہ حضرات مدینہ منورہ واپس آئے تو انہوں نے حضور ﷺ کو یہ قصہ سنایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا سخاوت تو اس گھرانہ کی خاص صفت ہے لہٰذا حضرت رافع بن خدیجؓ فرماتے ہیں (جب حضرت قیس بن سعدؓ نوانٹ ذبح کرنے لگے تو) حضرت ابو عبیدہؓ حضرت عمرؓ کو ساتھ لے کر حضرت قیس کے پاس آئے اور ان سے کہا میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ نوانٹ ذبح نہ کریں (اس سے نوانٹ کم ہو جائیں گے اور سفر میں دقت ہوگی) لیکن پھر بھی انہوں نے ذبح کر دیئے۔ حضور ﷺ کو یہ سارا قصہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا ارے یہ تو سخی گھر کا آدمی ہے اور یہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے جس میں صحابہؓ نے خیبر یعنی درختوں کے پتے کھائے تھے لہٰذا حضرت جلد بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہؓ گزرے۔ اس وقت ہمیں سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمارے لئے سات نوانٹ ذبح کئے (پھر ہم نے سفر کیا) اور سمندر کے کنارے ہم نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں ہمیں ایک بہت بڑی مچھلی ملی۔ ہم تین دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے۔ ہم نے اس میں سے اپنی مرضی کے مطابق بہت ساری چربی نکالی اور اپنے مشکیزوں اور یوروں میں بھر لی اور ہم وہاں سے چل کر حضور ﷺ کی خدمت میں واپس پہنچے اور آپ کو یہ قصہ سنایا اور یہ بھی ساتھیوں نے کہا اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ مچھلی کا گوشت حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچنے تک خراب نہیں ہوگا تو ہم اپنے ساتھ ضرور لاتے۔ ۳

حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمرؓ ملک شام تشریف لے گئے تو ان کے پاس حضرت بلالؓ آئے۔ اس وقت حضرت عمرؓ کے پاس لشکروں کے امیر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت بلالؓ نے کہا اے عمرؓ! اے عمرؓ! حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ عمرؓ حاضر ہے (کو کیا کہتے ہو؟) حضرت بلالؓ نے کہا آپ ان لوگوں کے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں لیکن

۱۔ اخرجه ابو بکر فی الغیالیات و ابن عساکر

۲۔ عند ابن ابی الدنیا و ابن عساکر کذا فی منتخب الکنز (ج ۵ ص ۲۶۰)

۳۔ عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۵ ص ۳۷) وفيه عبد اللہ بن صالح کاتب اللیث قال عبد الملک بن شعیب بن اللیث ثقة مامون وضعفه احمد وغيره و ابو حمزة النخولانی لم اعرفه وبقية رجاله ثقات انتهى



آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اور دائیں بائیں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو اچھی طرح دیکھیں کیونکہ اللہ کی قسم! یہ سب جتنے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں یہ صرف پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے اور جب تک یہ لوگ مجھے اس بات کی ضمانت نہیں دیں گے کہ وہ (اپنے لشکر کے) ہر مسلمان کو دو مد (پونے دو سیر) گندم اور اس کے مناسب مقدار میں سرکہ اور تیل دیا کریں گے اس وقت تک میں اس جگہ سے نہیں اٹھوں گا۔ سب نے کہا اے امیر المؤمنین! ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ذمہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال میں بڑی کثرت اور وسعت عطا فرما رکھی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے (اب میں مجلس سے اٹھتا ہوں اور آپ لوگ جاسکتے ہیں)۔

## نبی کریم ﷺ کے خرچ اخراجات کی کیا صورت تھی؟

حضرت عبداللہ ہوزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ﷺ کے مؤذن حضرت بلالؓ سے حلب میں میری ملاقات ہوئی میں نے عرض کیا اے بلالؓ! آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ حضور ﷺ کے اخراجات کی کیا صورت تھی؟ انہوں نے فرمایا حضور ﷺ کے پاس کچھ ہوتا تو تھا نہیں۔ آپ کی بعثت کے وقت سے لے کر آپ کی وفات تک یہ خدمت میرے سپرد رہی جس کی صورت یہ تھی کہ جب کوئی مسلمان آپ کے پاس آتا اور آپ اسے ضرورت مند سمجھتے تو آپ ارشاد فرمادیتے۔ میں جا کر کہیں سے قرض لے کر چادر اور کھانے کی کوئی چیز خرید لاتا اور چادر اسے پسند دیتا اور کھانا کھلا دیتا۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے سامنے سے آتا ہوا ملا۔ اس نے کہا اے بلالؓ! مجھے خوب وسعت حاصل ہے تم کسی سے قرض نہ لیا کرو، جب ضرورت ہو مجھ سے ہی لیا کرو۔ میں نے اسی سے قرض لینا شروع کر دیا۔ ایک دن میں وضو کر کے اذان دینے کے لئے کھڑا ہوا وہی تھا کہ وہ مشرک تاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ آیا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا وحشی! میں نے کہا میں حاضر ہوں (کیا کہتے ہو؟) وہ بڑی ترش روئی کے ساتھ پیش آیا اور بہت برا بھلا کہنے لگا اور کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا عنقریب ختم ہونے والا ہے۔ اس نے کہا چار دن باقی ہیں۔ اگر تو نے اس مدت میں قرضہ ادا نہ کیا تو میں تجھے اس کے عوض غلام ہنالوں گا۔ میں نے تم کو یہ قرضہ جو

دیا ہے وہ تمہاری یا تمہارے ساتھی کی بزرگی کی وجہ سے نہیں دیا ہے بلکہ اس لئے دیا ہے کہ تاکہ تم میرے غلام بن جاؤ پھر تم پہلے جس طرح بحریاں چرایا کرتے تھے اسی طرح تمہیں بحریاں چرانے میں لگا دوں۔ (یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا) اور ایسی باتیں سن کر لوگوں کے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ سب میرے دل میں بھی پیدا ہوئے۔ پھر میں نے جا کر اذان دی جب میں عشاء کی نماز پڑھ چکا اور حضور ﷺ بھی اپنے گھر تشریف لے گئے تو میں نے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمادی۔ میں نے اندر جا کر عرض کیا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جس مشرک کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ میں اس سے قرضہ لیتا رہتا ہوں آج اس نے آکر مجھے بہت برا بھلا کہا ہے اور اس وقت نہ آپ کے پاس اس کے قرضے کی ادائیگی کا فوری انتظام ہے اور نہ میرے پاس ہے اور وہ مجھے ضرور رسوا کرے گا اس لئے آپ مجھے اجازت دے دیں میں ان مسلمان قبیلوں میں سے کسی قبیلہ میں چلا جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ کو اتادے دیں گے جس سے میرا یہ قرضہ ادا ہو سکے تو پھر میں آجاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں اپنے گھر آیا اور اپنی تلوار، تھیلا، نیزہ اور جوتی اپنے سر ہانے رکھ کر مشرق کی طرف منہ کر کے صبح کے انتظار میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر نیند آئی۔ پھر فکر کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ ابھی رات باقی ہے تو میں دوبارہ سو جاتا۔ جب صبح کا ڈب ہو گئی تو میں نے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اتنے میں ایک صاحب نے آکر آواز دی اے بلال! حضور ﷺ کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں فوراً چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ چار اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی بیٹھی ہیں میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضری کی اجازت مانگی تو حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا خوش ہو جاؤ! اللہ نے تمہارے قرضہ کی ادائیگی کا انتظام کر دیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر آپ نے فرمایا کیا تمہارا گزر بیٹھی ہوئی چار اونٹیوں پر نہیں ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سامان سمیت تمہارے حوالے ہیں تم یہ لے لو اور اپنا قرضہ ادا کر لو میں نے دیکھا تو ان پر کپڑے اور غلہ لد اہوا تھا جو فدک کے رئیس نے حضور ﷺ کی خدمت میں ہدیہ میں بھیجا تھا۔ چنانچہ میں نے وہ اونٹنیاں لیں اور ان کا سارا سامان اتار اور ان کے سامنے چارہ ڈالا۔ پھر میں نے حجر کی اذان دی۔ جب حضور ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو میں بیچ چلا گیا اور وہاں جا کر دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے یہ اعلان کیا کہ جس کا بھی اللہ کے رسول ﷺ کے ذمہ قرضہ ہے وہ آجائے۔ چنانچہ وہ کپڑے اور غلہ خریداروں کے سامنے پیش کرتا اور اسے بیچ کر قرضہ ادا کرتا رہا۔ یہاں تک کہ حضور ﷺ پر روئے زمین میں کچھ بھی قرضہ باقی نہ

رہلکھ دویا ڈیڑھ اوقیہ چاندی بچ گئی۔ یعنی اسی یا ساٹھ درہم۔ اسی میں دن کا اکثر حصہ گزر چکا تھا پھر میں مسجد گیا تو آپ وہاں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا جو کام تمہارے ذمہ تھا اس کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ﷺ کے ذمہ جتنا قرض تھا وہ سب اللہ نے اتروادیا۔ اب کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ بچا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں دو دینار بچے ہیں (قرض ادا کرنے کے بعد دویا ڈیڑھ اوقیہ چاندی بھی تھی لیکن وہاں سے مسجد تک آتے آتے حضرت بلالؓ لوگوں کو دیتے چلے آئے ہوں گے اس لئے جب مسجد میں پہنچے تو صرف دو دینار باقی رہ گئے) آپ نے فرمایا انہیں بھی تقسیم کر دو تاکہ مجھے راحت حاصل ہو۔ جب تک تم انہیں خرچ کر کے مجھے راحت نہیں پہنچا دیتے میں اس وقت تک اپنے کسی گھر میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اس دن ہمارے پاس کوئی نہیں آیا (اور وہ خرچ نہ ہو سکے) تو حضور ﷺ نے وہ رات مسجد میں گزاری اور اگلے دن بھی سارا مسجد میں ہی گزارا شام کو دو سوار آئے۔ میں ان دونوں کو لے گیا اور ان دونوں کو کپڑے پہنائے اور غلہ بھی دیا۔ جب آپ عشاء سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا جو تمہارے پاس چاہتا تھا اس کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے خرچ کرنے کی صورت بنا کر آپ کی راحت کی صورت پیدا کر دی ہے۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا اللہ اکبر اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو موت آجائے اور یہ بچا ہو اسامان آپ کے پاس ہی ہو۔ پھر وہاں سے آپ چلے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک ایک اہلیہ محترمہ کے پاس گئے اور ہر ایک کو الگ الگ سلام کیا اور پھر جس گھر میں رات گزارنی تھی وہاں تشریف لے گئے۔ یہ تھی حضور ﷺ کے خرچ اخراجات کی صورت جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا۔

## نبی کریم ﷺ کے خود مال تقسیم کرنے کا اور

### تقسیم کرنے کی صورت کا بیان

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں میں خوب جانتی ہوں کہ حضور ﷺ وصال تک کی مبارک زندگی میں (آپ کے گھر میں) سب سے زیادہ مال کب آیا؟ ایک مرتبہ رات کے پہلے حصہ

۱۔ اخراجہ البیہقی کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۵۵) واخراجہ الطبرانی ایضا عن عبد اللہ نحوہ

میں آپ کے پاس ایک تھیلی آئی جس میں آٹھ سو درہم اور ایک پرچہ تھا وہ تھیلی آپ نے میرے پاس بھیج دی۔ اس رات میری باری تھی آپ عشاء کے بعد گھر واپس تشریف لائے اور حجرہ شریف میں اپنی نماز کی جگہ میں نماز شروع کر دی۔ میں نے آپ کے لئے اور اپنے لئے بستر پچھایا ہوا تھا۔ میں آپ کا انتظار کرنے لگی لیکن آپ بہت دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد آپ اپنی نماز کی جگہ سے باہر تشریف لائے اور پھر وہیں واپس چلے گئے اور نماز شروع کر دی۔ اسی طرح بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ آپ نے مسجد میں جا کر نماز پڑھائی اور پھر گھر واپس تشریف لائے اور فرمایا وہ تھیلی کہاں ہے جس نے آج ساری رات مجھے پریشان کئے رکھا؟ چنانچہ وہ تھیلی منگوائی اور اس میں جو کچھ تھا وہ سب تقسیم فرمادیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آج رات آپ نے ایسا کام کیا جو آپ کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھتا تھا تو پھر مجھے اس تھیلی کا خیال آجاتا۔ میں جا کر اسے دیکھتا اور پھر واپس آکر نماز شروع کر دیتا (ساری رات اس وجہ سے نہ سو سکا کہ اتنا زیادہ مال میرے پاس ہے تو میں کیسے سو جاؤں۔ جب مال تقسیم ہو گیا تب مجھے چین آیا)۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں حضرت علاء بن حضرمیؓ نے بحرین سے حضور ﷺ کی خدمت میں اسی ہزار بھجے۔ آپ کے پاس اس سے زیادہ مال نہ اس سے پہلے کبھی آیا اور نہ کبھی اس کے بعد۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو وہ اسی ہزار چٹائی پر پھیلا دیئے گئے۔ اس کے بعد نماز کے لئے اذان ہو گئی (نماز سے فارغ ہو کر) آپ اس مال کے پاس جھک کر کھڑے ہو گئے لوگ آنے لگے اور حضور ﷺ ان کو دینے لگے اس دن نہ آپ گن کر دے رہے تھے اور نہ تول کر بلکہ مٹھیاں بھر کر دے رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عباسؓ آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے جنگ بدر کے دن اپنا فدیہ بھی دیا تھا اور عقیل کا بھی دیا تھا کیونکہ اس دن عقیل کے پاس کچھ مال نہیں تھا اس لئے آپ مجھے اس مال میں سے کچھ عنایت فرمائیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا لے لو۔ چنانچہ حضرت عباسؓ پر کالے رنگ کی منقش چادر تھی۔ انہوں نے اسے پچھایا اور خوب لپ بھر کر اس میں مال ڈالا پھر اٹھا کر لے جانے لگے تو اٹھانہ سکے تو انہوں نے سر اٹھا کر عرض کیا یا رسول اللہ! یہ اٹھا کر مجھ پر رکھ دیں۔ اس پر حضور ﷺ مسکرائے۔ یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ نے فرمایا تم نے جتنا مال لیا ہے اس میں سے کچھ واپس کر دو اور جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا لے لو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور جتنا مال اٹھا سکتے تھے اتنا لے گئے اور جاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دو

وعدے فرمائے تھے ان میں سے ایک تو اللہ نے پورا فرما دیا اور دوسرے وعدے کا مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہو گا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں ہے: قُلْ لِّمَنْ فِيْ اَيْدِيْكُمْ مِنَ الْاَسْرَىٰ اِنَّ يَّعْلَمَ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا اُخِذْتُمْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ . (سورۃ انفال آیت ۷۰)

ترجمہ: ”آپ کے قبضہ میں جو قیدی ہیں آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے قلب میں ایمان معلوم ہو گا تو جو کچھ (فدیہ میں) تم سے لیا گیا ہے (دنیا میں) اس سے بہتر تم کو دے دے گا اور (آخرت میں) تم کو بخش دے گا۔“ اور واقعی یہ مال اس مال سے بہتر ہے جو (بدر کے موقع پر) مجھ سے (فدیہ میں) لیا گیا تھا لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کا کیا کریں گے؟

### حضرت ابو بکر صدیقؓ کا مال تقسیم کرنا اور سب کو برابر برابر دینا

حضرت سل بن ابی حثمہؓ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ کا بیت المال (مدینہ کے محلہ) خ میں تھا جو کہ لوگوں میں مشہور و معروف تھا اور کوئی آدمی اس کا پہرہ نہیں دیا کرتا تھا تو ان سے عرض کیا گیا اے خلیفہ رسول اللہ! کیا آپ بیت المال کے پہرے کے لئے کسی کو مقرر نہیں فرماتے؟ انہوں نے فرمایا بیت المال کے بارے میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے (اس لئے پہرہ دار مقرر کرنے کی ضرورت نہیں) میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا اسے تالا لگا ہوا ہے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جو کچھ اس بیت المال میں آتا وہ سارے لوگوں کو دے دیتے۔ یہاں تک کہ بیت المال میں کچھ نہ بچتا۔ پھر جب حضرت ابو بکرؓ محلہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو گئے تو انہوں نے وہاں اس گھر میں اپنا بیت المال بھی منتقل کر لیا جس میں وہ رہا کرتے تھے۔ ان کے پاس قبیلہ بنو سلیم کی کان بھی کھل گئی تھی وہاں سے بھی زکوٰۃ کا مال آنے لگا تھا یہ سب کچھ بیت المال میں رکھا جاتا تھا اور حضرت ابو بکرؓ سونے چاندی کے ٹکڑے کروا کر لوگوں میں وہ مال برابر تقسیم فرماتے۔ آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے سب کو برابر حصہ ملا کرتا تھا اور بعض دفعہ اس مال سے لونٹ، گھوڑے اور ہتھیار خرید کر اللہ کے راستہ میں جانے والوں کو دے دیا کرتے۔ ایک سال گرم لونی چادریں خریدی تھیں جو دیہات سے

۱۔ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۳۲۹) عن حميد بن هلال عن ابي بردة قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه وقال الذهبي على شرط مسلم و اخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۹) عن حميد بن هلال بمعناه و لم يذكره بابرودة ولا ابا موسى .

لائی گئی تھیں اور سردی کے موسم میں مدینہ کی بیوہ عورتوں میں انہوں نے یہ چادریں تقسیم کی تھیں جب حضرت ابو بکرؓ کا انتقال ہوا اور وہ دفن ہو گئے تو حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کے مقرر کردہ بیت المال کے نگرانوں کو بلایا اور ان کو لے کر حضرت ابو بکرؓ کے بیت المال میں گئے۔ ان کے ساتھ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفانؓ اور دیگر حضرات بھی تھے۔ ان حضرات نے جا کر بیت المال کو کھولا تو اس میں نہ کوئی دینار ملا اور نہ کوئی درہم۔ البتہ مال رکھنے کا ایک موٹا کھر دراکپر املا سے جھاڑا تو اس میں سے ایک درہم ملا۔ یہ دیکھ کر ان حضرات نے حضرت ابو بکرؓ کے لئے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے اور مدینہ منورہ میں درہم و دینار تولنے والا ایک آدمی تھا جو حضور ﷺ کے زمانے میں تولنے کا کام کیا کرتا تھا اور حضرت ابو بکرؓ کے پاس مال آتا تھا وہ اسے بھی تولتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس جو مال آیا اس کی کل مقدار کتنی ہوگی؟ اس نے کہا دو لاکھ لہ

حضرت اسماعیل بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکرؓ نے ایک مرتبہ کچھ مال لوگوں میں تقسیم کیا اور سب کو برابر حصہ دیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا اے خلیفہ رسول اللہ! آپ اہل بدر اور دوسرے لوگوں کو برابر رکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا دنیا تو گزارے کی چیز ہے اور بہترین گزارے کی چیز وہ ہے جو درمیانی درجہ کی ہو (لہذا اس دنیا میں تو میں نے سب کو برابر رکھا ہے) اور اہل بدر کو دوسرے لوگوں پر جو فضیلت حاصل ہے اس کا اثر اجر و ثواب میں ظاہر ہوگا (کہ آخرت میں ان کا اجر و ثواب برابر نہیں ہوگا بلکہ اہل بدر کا اجر و ثواب دوسروں سے زیادہ ہوگا) ۱ حضرت لئن ابی حبیبؓ اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ وہ (سب میں مال برابر تقسیم نہ کریں بلکہ) مال کی تقسیم میں لوگوں میں درجات مقرر کریں (اور جس کے دینی فضائل جتنے زیادہ ہوں اس کو اتنا زیادہ مال دیں) اس پر انہوں نے فرمایا لوگوں کے دینی فضائل کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) عطا فرمائیں گے۔ دنیاوی ضروریات میں سب کے درمیان برابر کیا کرنا ہی بہتر ہے۔ ۲ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکرؓ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے لوگوں میں مال برابر تقسیم کیا تو ان سے بعض صحابہؓ نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ! اگر آپ حضرات مہاجرین اور انصار کو دوسروں پر فضیلت دیں (اور ان کو دوسروں سے زیادہ

۱ اخراجہ ابن سعد کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۳۶)

۲ اخراجہ احمد فی الزهد ۲ عند ابی عبید کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۳۰۶)

دیں) تو یہ زیادہ اچھا ہو گا۔ انہوں نے فرمایا تم لوگ چاہتے ہو کہ مال زیادہ دے کر ان کے دینی فضائل ان سے خرید لوں (یہ ہرگز مناسب نہیں ہے) مال کی تقسیم میں ان سب کو برابر رکھنا ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے سے بہتر ہے۔ حضرت غفرہ رحمۃ اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکرؓ پہلی مرتبہ مال تقسیم کرنے لگے تو ان سے حضرت عمر بن خطابؓ نے کہا حضرات مہاجرین اولین اور اسلام میں سبقت رکھنے والوں کو زیادہ دیں تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کیا میں ان سے ان کے اسلام میں پہل کرنے کی نیکی کو (دنیا کے بدلے میں) خرید لوں؟ (نہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا) چنانچہ انہوں نے مال تقسیم کیا اور سب کو برابر دیا۔

حضرت غفرہ رحمۃ اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا تو بحرین سے مال آیا تو حضرت ابو بکرؓ نے اعلان فرمایا کہ جس آدمی کا حضور ﷺ کے ذمہ قرضہ ہو یا حضور ﷺ نے اسے کچھ دینے کا وعدہ فرما رکھا ہو وہ کھڑا ہو کر لے لے۔ چنانچہ حضرت جلدؓ نے کھڑے ہو کر کہا حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھا اگر میرے پاس بحرین سے مال آئے گا تو میں تمہیں تین مرتبہ اتادوں گا اور دونوں ہاتھوں سے لپ بھر کر اشارہ فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے ان سے فرمایا اٹھو اور خود اپنے ہاتھ سے لے لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ لپ بھر کر لیا اسے گنا گیا تو وہ پانچ سو درہم تھے حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا انہیں مزید ایک ہزار گن کر دے دو (تاکہ تین لیں ہو جائیں) اس کے بعد لوگوں میں دس درہم تقسیم کئے اور فرمایا یہ تو وہ وعدے پورے ہو رہے ہیں جو حضور ﷺ نے لوگوں سے کئے تھے۔ اگلے سال اس سے بھی زیادہ مال آیا تو لوگوں میں بیس بیس درہم تقسیم کئے اور پھر بھی کچھ مال بچ گیا تو غلاموں میں پانچ پانچ درہم تقسیم کئے اور فرمایا یہ تمہارے غلام تمہاری خدمت کرتے ہیں اور تمہارے کام کرتے ہیں اس لئے ہم نے ان کو بھی کچھ دے دیا ہے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا اگر آپ حضرات مہاجرین و انصار کو دوسروں سے زیادہ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہو گا کیونکہ یہ پرانے ہیں اور حضور ﷺ کے ہاں ان حضرات کا خاص مقام تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا ان لوگوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو دیں گے۔ یہ مال و متاع تو بس گزارے کی چیز ہے اسے برابر تقسیم کرنا کم زیادہ دینے سے بہتر ہے۔ آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں اسی اصول پر عمل فرمایا۔ آگے اسی طرح کی حدیث ذکر کی جیسے آگے آئے گی (صفحہ ۲۶۵ پر) حضرت علیؓ کا عدل و انصاف اور برابر تقسیم کرنا گزر چکا ہے۔ اس میں

یہ بھی گزر چکا ہے کہ حضرت علیؑ نے ایک عربی عورت اور ایک آزاد کردہ باندی کو برابر دیا۔ اس پر اس عربی عورت نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ نے اس کو جتنا دیا ہے مجھے بھی اتنا ہی دیا ہے حالانکہ میں عربی ہوں اور یہ آزاد کردہ باندی ہے حضرت علیؑ نے فرمایا میں نے اللہ کی کتاب میں بہت غور سے دیکھا تو اس میں مجھے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو اولاد اسحاق علیہ السلام پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی۔

## حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مال تقسیم کرنا اور پرانوں

### اور حضور ﷺ کے رشتہ داروں کو زیادہ دینا

حضرت غفرہ رحمۃ اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کچھلی حدیث جیسا مضمون بیان کرتے ہیں اور اس میں مزید یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمرؓ کو خلیفہ بنایا گیا اور اللہ نے ان کے لئے فتوحات کے بڑے دروازے کھولے اور ان کے پاس حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ سے بھی زیادہ مال آیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا اس مال کی تقسیم میں حضرت ابو بکرؓ کی اور رائے تھی اور میری اور رائے ہے اور وہ یہ ہے کہ جس نے (حالت کفر میں) حضور ﷺ سے جنگ کی اور جس نے حضور ﷺ کا ساتھ دے کر (کافروں سے) جنگ کی ان دونوں کو میں برابر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے حضرات مہاجرین و انصار کو دوسروں سے زیادہ دینے کا فیصلہ کیا اور جو صحابہؓ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے لئے پانچ پانچ ہزار مقرر کئے اور جو بدر سے پہلے اسلام لائے (لیکن جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے) ان کے لئے چار چار ہزار مقرر کئے اور حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات کے لئے بارہ بارہ ہزار مقرر کئے اور ان دونوں کے لئے چھ ہزار ہزار مقرر کئے (کیونکہ باقی تمام ازواج مطہرات تو ہمیشہ آزاد ہی رہیں کبھی باندی نہ بننا پڑا اور ان دونوں کو کچھ تھوڑے سے عرصے کے لئے باندی بننا پڑا تھا) ان دونوں نے چھ ہزار لینے سے انکار کر دیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے باقی ازواج مطہرات کے لئے بارہ بارہ ہزار اس لئے مقرر کئے ہیں کہ ان سب نے ہجرت کی ہے (اور آپ دونوں نے نہیں کی ہے) ان دونوں نے کہا نہیں آپ نے ان کے لئے ہجرت کی وجہ سے مقرر نہیں کئے ہیں بلکہ ان کے حضور ﷺ سے تعلق کی وجہ سے اتنے مقرر کئے ہیں اور ہمارا بھی حضور ﷺ سے ان جیسا ہی تعلق ہے۔



حضرت عمرؓ نے ان دونوں کی بات کو منظور فرمایا اور تمام ازواج مطہرات کو برابر کر دیا۔ (یعنی ان دونوں کے لئے بھی بارہ بارہ ہزار مقرر کر دیئے) اور حضرت عباسؓ بن عبدالمطلبؓ کی حضور ﷺ سے خاص رشتہ داری تھی اس وجہ سے ان کے لئے بارہ ہزار مقرر کئے۔ حضرت اسامہ بن زیدؓ کے لئے چار ہزار اور حضرت حسن و حضرت حسینؓ کے لئے پانچ پانچ ہزار مقرر کئے۔ حضور ﷺ (کے نواسہ ہونے) کی رشتہ داری کی وجہ سے حضرت عمرؓ نے ان دونوں کو ان کے والد (حضرت علیؓ) کے برابر دیا اور (اپنے بیٹے) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے لئے تین ہزار مقرر کئے۔ انہوں نے عرض کیا لاجان! آپ نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کے لئے چار ہزار مقرر کئے ہیں اور میرے لئے تین ہزار۔ حالانکہ ان کے والد (حضرت زید بن حارثہؓ) کو ایسی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے جو آپ کو حاصل نہ ہو (لہذا مجھے بھی ان کے برابر دیں) حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں (اسے اور اس کے والد کو ایسی فضیلت حاصل ہے جو تجھے اور تیرے والد کو حاصل نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ) اس کے والد تمہارے والد سے زیادہ حضور ﷺ کے محبوب تھے اور وہ خود تم سے زیادہ حضور ﷺ کے محبوب تھے اور جو مہاجرین جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے بیٹوں کے لئے دو دو ہزار مقرر کئے۔ حضرت عمرؓ کے پاس سے حضرت عمر بن ابی سلمہؓ گزرے تو فرمایا انہیں ایک ہزار اور دے دو تو حضرت محمد بن عبداللہ (بن حشام) نے عرض کیا آپ انہیں ہم سے زیادہ کیوں دینے لگے ہیں؟ جو فضیلت ہمارے والدوں کو حاصل ہے وہی ان کے والد کو حاصل ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے ان کے لئے دو ہزار (ان کے والد) حضرت ابو سلمہؓ کی وجہ سے مقرر کئے ہیں اور مزید ایک ہزار ان کو (ان کی والدہ) حضرت ام سلمہؓ کی وجہ سے دینا چاہتا ہوں (کیونکہ وہ بعد میں حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ بن گئی تھیں) اگر حضرت ام سلمہؓ جیسی تیری بھی ماں ہے تو تمہیں بھی ایک ہزار اور دے دوں گا۔ حضرت عثمان بن عبید اللہ بن عثمانؓ کے لئے آٹھ سو مقرر کئے۔ یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی ہیں اور حضرت نصر بن انسؓ کے لئے دو ہزار مقرر کئے تو حضرت عمرؓ سے حضرت طلحہؓ نے کہا کہ آپ کے پاس اسی جیسے حضرت (عثمان بن عبید اللہ) بن عثمانؓ آئے تو اس کے لئے آپ نے آٹھ سو مقرر کئے اور آپ کے پاس انصار کا ایک لڑکا یعنی حضرت نصر بن انس آیا اس کے لئے آپ نے دو ہزار مقرر کر دیئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس لڑکے یعنی حضرت نصر کے والد سے میری ملاقات جنگ احد کے دن ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے حضور ﷺ کے بارے میں پوچھا میں نے کہا میرا تو خیال یہی ہے کہ حضور ﷺ کو (نعوذ باللہ من ذلک) شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے بازوؤں چڑھائے اور اپنی تلوار سونت لی اور

کہا اگر حضور ﷺ کو شہید کر دیا گیا ہے تو کیا بات ہے اللہ تعالیٰ تو زندہ ہیں، ان پر تو موت طاری نہیں ہو سکتی (اور ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ اللہ کی وجہ سے کر رہے تھے) یہ کہہ کر انہوں نے جنگ شروع کر دی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے اور یہ یعنی حضرت عثمان بن عبید اللہ کے والد حضرت عبید اللہ اس وقت بحریاں چرا رہے تھے۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں دونوں کو برابر کر دوں؟ حضرت عمرؓ زندگی بھر اسی اصول پر عمل کیا آگے اور مضمون ذکر کیا جس میں سے کچھ مضمون عنقریب آگے آئے گا۔

حضرت انس بن مالکؓ اور حضرت ابن مسیبؓ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے مہاجرین کو پانچ ہزار والوں میں اور انصار کو چار ہزار والوں میں لکھا اور مہاجرین کے جو بیٹے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کو چار ہزار والوں میں لکھا۔ ان میں حضرت عمر بن ابی سلمہ بن عبدالاسد مخزومی، حضرت اسامہ بن زیدؓ، حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش اسدی اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی تھے۔ اس پر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کہا حضرت ابن عمرؓ ان میں سے نہیں ہیں اور ان کے یہ یہ فضائل ہیں (یہ ان سب سے پہلے اسلام لائے ہیں اور یہ ان سے افضل ہیں لہذا ان کو ان سے زیادہ دیا جائے) حضرت ابن عمرؓ نے کہا اگر میرا حق بتانا ہے تو مجھے دیں ورنہ نہ دیں۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابن عوفؓ سے کہا ان کو پانچ ہزار والوں میں لکھ دو اور مجھے چار ہزار والوں میں۔ اس پر حضرت عبداللہ نے کہا میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! میں اور تم دونوں پانچ ہزار والوں میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔

حضرت زید بن اسلمؓ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر بن خطابؓ نے لوگوں کے لئے وظیفہ مقرر کیا تو حضرت عبداللہ بن حنظلہؓ کے لئے دو ہزار وظیفہ مقرر کیا۔ پھر حضرت طلحہؓ اپنے بچے کو حضرت عمرؓ کے پاس لائے تو حضرت عمرؓ نے اس کے لئے اس سے کم وظیفہ مقرر کیا۔ اور یوں اس انصاری کو میرے بچے پر فضیلت دے دی؟ (حالانکہ میرا بھتیجا تو مہاجرین میں سے ہے) حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں۔ کیونکہ میں نے اس انصاری کے والد (حضرت حنظلہؓ) کو دیکھا ہے کہ وہ جنگ احد کے دن اپنی تلوار سے ہی اپنا چاؤ کر رہے تھے اور

۱۔ اخرجه بن ابی شیبۃ والبیہقی واللفظ للبخاری كما فی المجموع (ج ۶ ص ۴) وقال  
وفیہ ابو معشر نجیع ضعیف یعتبر بتحدیثہ ۵۱

۲۔ عندالبیہقی (ج ۶ ص ۳۵۰) واخرجه ابن ابی شیبۃ نحوه كما فی الكنز (ج ۲ ص ۳۱۵)

تلوار دائیں بائیں اوپر نیچے اس طرح تیزی سے ہلار ہے تھی جیسے لونٹ اپنی دم ہلاتا ہے (ان کے پاس سچاؤ کے لئے ڈھال بھی نہ تھی تلوار سے ہی ڈھال کا کام لے رہے تھے) ۱۔

حضرت ناشرہ بن سہمی یزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جلیہ کے دن میں نے حضرت عمرؓ کو لوگوں میں یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ اللہ عزوجل نے مجھے اس مال کا خزانچی اور اسے تقسیم کرنے والا بنایا ہے بلکہ اصل میں تو خود اللہ تعالیٰ ہی تقسیم فرمانے والے ہیں (اب مال تقسیم کرنے میں میرے ذہن میں یہ ترتیب ہے کہ) میں حضور ﷺ کی ازواج مطہرات سے تقسیم شروع کروں گا اور پھر ان کے بعد لوگوں میں جو زیادہ بزرگ ہیں ان کو دوں گا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے حضرت جویریہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہؓ کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات کے لئے دس دس ہزار مقرر کئے۔ اس پر حضرت عائشہؓ نے کہا حضور ﷺ ہم ازواج مطہرات کے درمیان ہر چیز میں برابری کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت عمرؓ نے تمام ازواج مطہرات کا وظیفہ ایک جیسا کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ان کے بعد میں اپنے مہاجرین اولین ساتھیوں کو دوں گا کیونکہ ہمیں اپنے گھروں سے ظلم اور زبردستی نکالا گیا۔ پھر ان کے بعد جو زیادہ بزرگ ہوں گے ان کو دوں گا۔ چنانچہ مہاجرین میں سے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کے لئے پانچ ہزار مقرر کئے اور جو انصاری جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کے لئے چار ہزار مقرر کئے اور جنگ احد میں شریک ہونے والوں کے لئے تین ہزار مقرر کئے اور فرمایا جس نے پہلے ہجرت کی اسے پہلے دوں گا اور جس نے بعد میں ہجرت کی اسے بعد میں دوں گا (لہذا جسے بعد میں ملے وہ دینے والے کو ملامت نہ کرے بلکہ) اپنے آپ کو اس بات پر ملامت کرے کہ اس نے اپنی سواری کیوں بٹھائے رکھی (اور جلدی ہجرت کیوں نہیں کی) اور میں تمہیں حضرت خالد بن ولیدؓ کو معزول کرنے کے اسباب بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ مال صرف کمزور مہاجرین کو دیں لیکن انہوں نے طاقتور، باحیثیت اور زیادہ باتیں کرنے والوں کو سارا مال دے دیا اس لئے میں نے انہیں ہٹا کر ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہؓ کو امیر بنا دیا ہے۔ اس پر حضرت ابو عمرو بن حفصؓ نے کہا اللہ کی قسم! اے عمر بن خطاب! آپ نے معزول کرنے کا جو سبب بتایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اس شخص کو معزول کیا ہے جسے حضور ﷺ نے امیر بنایا تھا اور آپ نے اس تلوار کو نیام میں رکھ دیا جسے حضور ﷺ نے سونپا تھا اور آپ نے وہ جھنڈا اتار دیا جسے حضور ﷺ نے گاڑا تھا اور آپ کے دل میں چچا زاد بھائی سے حسد پیدا ہو گیا

ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تمہاری ان سے قریبی رشتہ داری ہے اور ابھی تم نو عمر ہو اور اپنے چچا زاد بھائی کی خاطر ناراض ہو رہے ہو۔

## حضرت عمرؓ کا لوگوں کو وظیفے دینے کیلئے رجسٹر بنانا

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے ہاں سے آٹھ لاکھ درہم لے کر حضرت عمر بن خطابؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمرؓ نے مجھ سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا آٹھ لاکھ درہم۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا تیرا بھلا ہو کیا یہ پاکیزہ مال ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمرؓ نے یہ ساری رات جاگ کر گزاری۔ جب فجر کی اذان ہو گئی تو ان سے ان کی بیوی نے کہا آپ آج رات کیوں نہیں سوئے؟ حضرت عمرؓ نے کہا عمر بن خطاب کیسے سو سکتا ہے جب کہ اس کے پاس لوگوں کے لئے اتنا زیادہ مال آیا ہے کہ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک کبھی اتنا نہیں آیا۔ اگر عمرؓ کو اس حال میں موت آجائے کہ یہ مال اس کے پاس رکھا ہوا ہو، اور اس نے اسے صحیح مصرف میں خرچ نہ کیا ہو تو وہ کیسے اللہ کی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے پاس حضور ﷺ کے چند صحابہ جمع ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا آج رات لوگوں کے لئے اتنا زیادہ مال آیا ہے کہ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک کبھی اتنا نہیں آیا۔ اس مال کے تقسیم کرنے کے بارے میں ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ آپ لوگ بھی مجھے اس بارے میں مشورہ دیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں لوگوں میں ناپ کر تقسیم کروں۔ ان حضرات نے کہا اے امیر المؤمنین! ایسا نہ کریں کیونکہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور آنے والا مال ہندرتج زیادہ ہوتا جائے گا (اس لئے یہ یاد رکھنا مشکل ہو گا کہ کس کو دیا ہے اور کس کو نہیں دیا ہے بلکہ آپ ایک رجسٹر میں لوگوں کے نام لکھ لیں اور اس کے مطابق لوگوں کو مال دیتے رہیں پھر جب بھی لوگوں کی تعداد بڑھی اور مال کی مقدار بھی زیادہ ہوئی تو آپ اس رجسٹر کے مطابق لوگوں کو دیتے رہنا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا (اچھا چلو رجسٹر بنا لیتے ہیں لیکن) اس کا مشورہ ددو کہ کس سے دینا شروع کروں۔ ان حضرات نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ اپنے آپ سے شروع کریں کیونکہ آپ ہی خلیفہ اور متولی ہیں اور ان میں سے بعض حضرات نے کہا امیر المؤمنین ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا نہیں۔ ایسے نہیں۔ بلکہ میں تو حضور ﷺ سے شروع کروں گا پھر جو حضور ﷺ کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دوں گا پھر ان کے بعد

۱۔ اخرجه احمد قال الهیثمی (ج ۶ ص ۳) رواہ احمد ورجالہ ثقات ۵۶ و اخرجه البیہقی

(ج ۶ ص ۳۴۹) عن ناشرة بن سمي البیرونی نحوه الا انه لم يذكر معذرة عزل خالد و ما بعده

جو رشتہ دار ہیں ان کو دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی ترتیب پر رجسٹر ہو لیا۔ پہلے ہو ہاشم اور ہو مطلب کے نام لکھوائے اور ان سب کو دیا۔ پھر ہو عبد شمس کو دیا پھر ہو نوفل بن عبد مناف کو دیا۔ ہو عبد شمس کو پہلے اس لئے دیا کیونکہ عبد شمس ہاشم کے ماں جائے بھائی تھے (اور نوفل نہیں تھا اس لئے عبد شمس زیادہ قریبی ہوا)۔

حضرت جبیر بن حویرثؓ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے مسلمانوں سے رجسٹر بنانے کے بارے میں مشورہ کیا تو ان سے حضرت علی بن ابی طالبؓ نے کہا (آپ رجسٹر نہ بنائیں بلکہ) ہر سال جتنا مال اکٹھا ہو جایا کرے وہ سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کریں اور اس میں سے کچھ نہ چھایا کریں۔ حضرت عثمان بن عفانؓ نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ مال آرہا ہے جو تمام لوگوں کو دیا جاسکتا ہے اگر لینے والوں کی تعداد کو شمار نہیں کیا جائے گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے لیا اور کس نے نہیں لیا اور مجھے ڈر ہے کہ اس طرح تقسیم کا معاملہ بے قابو ہو جائے گا۔ حضرت ولید بن ہشام بن مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں شام گیا ہوں۔ میں نے وہاں کے بادشاہوں کو دیکھا ہے انہوں نے رجسٹر بھی بنائے ہوئے ہیں اور اپنی فوج بھی باقاعدہ مرتب و منظم بنا رکھی ہے۔ آپ بھی رجسٹر بنالیں اور باقاعدہ فوج تیار کر لیں۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ولیدؓ کی اس رائے کو قبول فرمایا اور حضرت عقیل بن ابی طالبؓ، حضرت مخرمہ بن نوفل اور حضرت جبیر بن مطعمؓ کو حضرت عمرؓ نے بلا کر ان سے فرمایا رجسٹر میں لوگوں کے نام ان کے درجوں کے مطابق لکھ دو۔ یہ تینوں حضرات قریش کے نسب کو اچھی طرح جانتے تھے چنانچہ انہوں نے رجسٹر میں نام لکھنے شروع کئے۔ پہلے ہو ہاشم کا نام لکھا۔ پھر حضرت ابو بکرؓ اور ان کی قوم کا نام لکھا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ اور ان کی قوم کا نام لکھا۔ انہوں نے خلافت کی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے ایسا کیا۔ جب حضرت عمرؓ نے رجسٹر دیکھا تو فرمایا اللہ کی قسم! دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ ترتیب یہی ہوتی لیکن تم لوگ حضور ﷺ کے رشتہ داروں سے شروع کرو اور جو رشتہ میں حضور ﷺ سے جتنا زیادہ قریب ہو اس کا نام اتنا پہلے لکھو۔ بس اس رشتہ میں حضور ﷺ سے جتنا زیادہ قریب ہو اس کا نام اتنا پہلے لکھو۔ بس اس رشتہ داری کے لحاظ سے تم لوگ نام لکھتے جاؤ اس میں جہاں عمر کا نام آجائے وہاں اس کا بھی نام لکھ دو۔

۱۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۱۶) والبیہقی (ج ۶ ص ۳۵۰) کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۳۱۵)

۲۔ عند ابن سعد (ج ۳ ص ۲۱۲) والطبری (ج ۳ ص ۲۷۸) من طریقہ کذا فی الکنز الجدید (ج ۴

حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں (جب تینوں حضرات نے ہو ہاشم کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور ان کی قوم اور پھر حضرت عمرؓ اور ان کی قوم کے نام رجسٹر میں لکھے اور اس پر حضرت عمرؓ نے انکار فرمایا تو حضرت عمرؓ کی قوم) ہو عدی حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ حضور ﷺ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں بلکہ یوں کہو کہ آپ ابو بکرؓ کے خلیفہ ہیں اور ابو بکرؓ حضور ﷺ کے خلیفہ ہیں۔ ہو عدی نے کہا اچھا یونہی سہی لیکن آپ اپنا نام وہاں ہی رہنے دیں جہاں ان تینوں حضرات نے لکھا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا واہ واہ اے ہو عدی! تم یہ چاہتے ہو کہ میری پیٹھ پر سوار ہو کر (دوسروں سے پہلے) کھالو اور یوں میں اپنی نیکیاں تم لوگوں کی وجہ سے برباد کر دوں۔ نہیں، اللہ کی قسم، ایسے نہیں ہوگا (بلکہ حضور ﷺ کی رشتہ داری کو بنیاد بنا کر مال تقسیم کیا جائے گا) چاہے تمہارے نام لکھنے کی باری رجسٹر میں سب سے اخیر میں آئے۔ میرے دو ساتھی (یعنی حضور ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ) ایک راستے پر چلے ہیں۔ اگر میں ان کا راستہ چھوڑ دوں گا تو میں ان دونوں کی منزل پر نہیں پہنچ سکوں گا (آخرت میں وہ دونوں کہیں اور ہوں گے اور میں کہیں اور) اللہ کی قسم! ہمیں دنیا میں جو عزت ملی ہے اور آخرت میں ہمیں اپنے اعمال پر اللہ سے ثواب ملنے کی جو امید ہے یہ سب کچھ حضرت محمد ﷺ کی برکت سے ہے، وہی ہمارے لئے باعث شرف ہیں۔ آپ کی قوم تمام عرب میں سب سے زیادہ عزت والی ہے، پھر آپ کے بعد جو رشتہ میں آپ سے جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنی ہی زیادہ عزت والا ہے اور حضور ﷺ ہی کی برکت سے آج تمام عربوں کو عزت ملی ہے۔ اب اگر ہم میں سے کسی کا رشتہ بہت سی پشتوں کے بعد آپ سے ملے اور اس ملنے میں حضرت آدم علیہ السلام تک چند پشتیں باقی رہ جائیں تو بھی اسی کی رعایت کی جائے گی لیکن اس خاندانی شرافت اور حضور ﷺ کے رشتہ کی وجہ سے اس دنیاوی اعزاز کے باوجود اللہ کی قسم! اگر عجمی لوگ قیامت کے دن نیک اعمال لے کر آئیں اور ہم نیک اعمال کے بغیر پہنچیں تو وہ عجمی لوگ ہم سے زیادہ حضور ﷺ کے قریب ہوں گے لہذا کوئی بھی آدمی صرف رشتہ داری پر نگاہ نہ رکھے بلکہ اللہ کے ہاں جو اچور و درجات ہیں انہیں حاصل کرنے کیلئے نیک عمل کرے کیونکہ جو اپنے اعمال میں پیچھے رہ گیا وہ اپنے نسب کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔

## مال کی تقسیم میں حضرت عمرؓ کا حضرت ابو بکرؓ

### اور حضرت علیؓ کی رائے کی طرف رجوع کرنا

حضرت غفرہ، رحمۃ اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس بحرین سے مال آیا پھر آگے لمبی حدیث بیان کی جیسے کہ پہلے گزر چکی ہے اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ جمعہ کے دن حضرت عمرؓ باہر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے کہ جب عمرؓ کا انتقال ہو جائے گا (یا یوں) کہا جب امیر المؤمنین کا انتقال ہو جائے گا تو ہم فلاں کو کھڑا کر کے اس سے ایک دم اچانک بیعت ہو جائیں گے۔ آخر حضرت ابو بکرؓ کی (بیعت) خلافت بھی تو اچانک ہی ہوئی تھی۔ ہاں اللہ کی قسم یہ ٹھیک ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی (بیعت) خلافت اچانک ہی ہوئی تھی لیکن اب ہمیں حضرت ابو بکرؓ جیسا آدمی کہاں سے مل سکتا ہے جس کا احترام اور جس کی اطاعت ہم اس طرح کرتے ہوں جس طرح ابو بکرؓ کی کرتے تھے اور حضرت ابو بکرؓ کی رائے یہ تھی کہ مال تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کیا جائے اور میری رائے یہ تھی کہ دینی فضائل کے لحاظ سے مسلمانوں کو مال کم یا زیادہ دیا جائے (اور میں نے اپنے زمانہ خلافت میں اسی پر عمل کیا لیکن اب) اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو حضرت ابو بکرؓ کی رائے پر عمل کروں گا (اور سب کو برابر مال دوں گا) ان کی رائے میری رائے سے بہتر تھی۔ آگے اور بھی حدیث ذکر کی ہے۔

## حضرت عمرؓ کا مال دینا

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے لوگوں میں مال تقسیم کیا تو بیت المال میں تھوڑا سا مال بچ گیا۔ حضرت عباسؓ نے حضرت عمرؓ اور دوسرے لوگوں سے کہا ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم لوگوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا ہوتے تو کیا تم ان کا اکرام کرتے؟ سب نے کہا جی ہاں کرتے۔ حضرت عباسؓ نے کہا میں اکرام کا ان سے زیادہ مستحق ہوں کیونکہ میں تمہارے نبی کریم ﷺ کا چچا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے لوگوں سے

(حضرت عباسؓ کو یہ چچا ہو اماں دینے کے بارے میں) بات کی۔ سب نے راضی ہو کر وہ مال حضرت عباسؓ کو دے دیا۔<sup>۱</sup>

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک زمانہ عطر دان حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس آیا۔ آپ کے ساتھی اسے دیکھنے لگے کہ یہ کسے دیا جائے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا آپ لوگ اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ عطر دان حضرت عائشہؓ کے پاس بھجوا دوں کیونکہ حضور ﷺ کو ان سے بہت محبت تھی؟ سب نے کہا جی ہاں اجازت ہے۔ چنانچہ جب وہ عطر دان حضرت عائشہؓ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے کھولا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر بن خطابؓ نے آپ کے لئے بھجوا ہے۔ حضرت عائشہؓ نے کہا حضور ﷺ کے بعد (حضرت عمرؓ) انکے خطاب پر کتنی زیادہ فتوحات ہو رہی ہیں؟ اے اللہ! مجھے حضرت عمرؓ کے عطایا کے لئے اگلے سال تک زندہ نہ رکھیو۔<sup>۲</sup>

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں حضرت ابو بکرؓ نے مجھے صدقات وصول کرنے کا عامل بنا کر ایک علاقہ میں بھیجا۔ جب میں واپس آیا تو حضرت ابو بکرؓ انتقال فرما چکے تھے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے انسؓ! کیا تم ہمارے پاس (صدقات کے) جانور لائے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا وہ جانور تو ہمارے پاس لے آؤ اور (جو) مال (تم لائے ہو وہ) تمہارا ہے۔ میں نے کہا وہ مال تو بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا چاہے بہت زیادہ ہو وہ تمہارا اور وہ چار ہزار تھے۔ چنانچہ میں نے وہ مال لے لیا اور اس طرح میں مدینہ والوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو گیا۔<sup>۳</sup>

حضرت عبد اللہ بن عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ لوگ حضرت عمرؓ کے سامنے عطایا لے رہے تھے (عطایا وہ مال ہے جس کی نہ مقدر مقرر ہو اور نہ اس کے دینے کا وقت) کہ اتنے میں حضرت عمرؓ نے اپنا سر اٹھایا تو ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس کے چہرے پر تلوار کے زخم کا نشان تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس نشان کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک غزوہ میں گیا تھا وہاں اسے دشمن کی تلوار سے یہ زخم لگا تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اسے ایک ہزار گن کر دے دو۔ چنانچہ اسے ایک ہزار درہم دے دیئے گئے۔ پھر حضرت عمرؓ اس مال کو تھوڑی دیر لٹتے پلٹتے رہے اس کے بعد فرمایا اسے ایک ہزار درہم اور گن کر دے دو۔ چنانچہ اس آدمی کو ایک ہزار درہم اور دے دیئے گئے۔ یہ بات حضرت عمرؓ نے چار مرتبہ

<sup>۱</sup> اخراجہ ابن سعد <sup>۲</sup> اخراجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۶ ص ۶) رجالہ رجال الصحیح

<sup>۳</sup> اخراجہ ابن سعد کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۴۸)



فرمائی اور ہر مرتبہ اسے ایک ہزار دیئے گئے۔ حضرت عمرؓ کی اس کثرت عطا سے اس آدمی کو ایسی شرم آئی کہ وہ باہر چلا گیا۔ حضرت عمرؓ نے اس کے بارے میں پوچھا (کہ وہ کیوں چلا گیا؟) تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ کثرت عطاء کی وجہ سے شرمناک چلا گیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! اگر وہ ٹھہرا رہتا تو جب تک ایک درہم باقی رہتا میں اسے دیتا ہی رہتا کیونکہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جسے اللہ کے راستہ میں تلوار کا ایسا وار لگا ہے جس سے اس کے چہرے پر کالا نشان پڑ گیا ہے۔<sup>۱</sup>

## حضرت علی بن ابی طالبؓ کا مال تقسیم کرنا

حضرت علیؓ نے ایک سال تین مرتبہ لوگوں میں مال تقسیم کیا۔ اس کے بعد ان کے پاس اصہبان سے اور مال آگیا تو آپ نے اعلان فرمایا (اے لوگو!) صبح آکر چوتھی مرتبہ مال پھر لے جاؤ۔ میں تمہارا خزانچی نہیں ہوں (کہ یہ مال جمع کر کے رکھوں) چنانچہ وہ سارا مال تقسیم کر دیا یہاں تک کہ رسیاں بھی تقسیم کر دیں۔ کچھ لوگوں نے تو رسیاں لے لیں اور کچھ نے واپس کر دیں۔<sup>۲</sup>

## حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا

### بیت المال کے سارے مال کو تقسیم کرنا

حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے (بیت المال کے خزانچی) حضرت عبد اللہ بن ارقمؓ کو فرمایا ہر مہینہ ایک مرتبہ بیت المال کا سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرو (اس کے کچھ عرصہ بعد فرمایا) نہیں۔ ہر ہفتہ بیت المال کا سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرو۔ اس کے کچھ عرصہ بعد فرمایا روزانہ بیت المال کا سارا مال تقسیم کر دیا کرو۔ اس پر ایک آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین! اگر آپ بیت المال میں کچھ مال رہنے دیں تو اچھا ہے مسلمانوں کو اچانک کوئی ضرورت پیش آجاتی ہے اس میں کام آجائے گا یا بیرون والے کسی وقت مدد مانگ لیتے ہیں تو ان کو دیا جاسکتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس سے فرمایا تمہاری زبان پر یہ شیطان بول رہا ہے اور اس کا جواب اللہ مجھے سکھلا رہا ہے اور اس کے شر سے مجھے بچا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے ان تمام ضرورتوں کے لئے وہی سب کچھ تیار کیا ہوا ہے جو حضور ﷺ

۱۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۳ ص ۳۵۵)

۲۔ اخراجہ ابو عبیدہ فی الاموال کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۳۲۰)

نے تیار کیا ہوا تھا اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت (ہر مصیبت کا علاج اور ہر ضرورت کا انتظام اللہ و رسول ﷺ کی ماننا ہے)۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ کے پاس عراق سے مال آیا۔ حضرت عمرؓ اسے تقسیم فرمانے لگے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر المؤمنین! ہو سکتا ہے کبھی دشمن حملہ آور ہو جائے یا مسلمانوں پر اچانک کوئی مصیبت آپڑے تو ان ضرورتوں کے لئے اگر آپ اس مال میں سے کچھ چا کر رکھ لیں تو اچھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا۔ اللہ تمہیں مارے! یہ بات تمہاری زبان سے شیطان نے کہلوائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب مجھے بتایا ہے۔ اللہ کی قسم! کل کو پیش آنے والی ضرورت کے لئے میں آج اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ نہیں (میں مال جمع کر کے نہیں رکھ سکتا بلکہ) میں تو مسلمانوں (کی ضرورتوں) کے لئے وہ کچھ تیار کر کے رکھوں گا جو حضور ﷺ نے تیار کیا تھا (اور وہ ہے اللہ و رسول ﷺ کی اطاعت اور تقویٰ، اور تقویٰ مال جمع کرنا نہیں ہے بلکہ دوسروں پر خرچ کرنا ہے)۔

حضرت سلمہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس بہت سا مال لایا گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر المؤمنین! مسلمانوں پر کوئی ناگہانی مصیبت آجاتی ہے یا اچانک کوئی ضرورت پیش آجاتی ہے اس کے لئے اس مال میں سے کچھ چا کر آپ بیت المال میں رکھ لیں تو بہت اچھا ہو گا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی ہے جو شیطان ہی سامنے لاسکتا ہے۔ اللہ نے مجھے اس کا جواب سمجھایا ہے اور اس کے فتنہ سے بچا لیا ہے۔ آئندہ سال (کی ضروریات) کے ڈر سے میں اس سال اللہ کی نافرمانی کروں۔ میں نے مسلمانوں (کی ضروریات) کے لئے اللہ کا تقویٰ تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (سورۃ طلاق

آیت ۳۹)

ترجمہ: ”اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے (مضر توں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔“  
البتہ شیطان کی یہ بات میرے بعد والوں کے لئے فتنہ بن جائے گی۔ ۳  
حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت ابو موسیٰؓ کو یہ

۱ اخراجہ البیہقی (ج ۶ ص ۳۵۷) عن یحییٰ بن سعید بن ابیہ

۲ عند ابی نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۴۵)

۳ عند ابن عساکر کذا فی منتخب الکنز (ج ۴ ص ۳۹۱)

خط لکھا:

”لما بعد! میں یہ چاہتا ہوں کہ سال میں ایک دن ایسا بھی ہو کہ بیت المال میں ایک درہم بھی باقی نہ رہے اور اس میں سے سارا مال نکال کر تقسیم کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کھل کر آجائے کہ میں نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے۔“<sup>۱</sup>

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت حذیفہؓ کو یہ لکھا ہے کہ لوگوں کو ان کے عطایا اور ان کے مقررہ وظیفے سب دے دو۔ حضرت حذیفہؓ نے جواب میں لکھا ہم سب کچھ دے چکے ہیں لیکن پھر بھی بہت مال بچا ہوا ہے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں جواب میں لکھا یہ مال غنیمت مسلمانوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے یہ عمرؓ یا اس کی آل اولاد کا نہیں ہے اس لئے اسے بھی مسلمانوں میں ہی تقسیم کر دو۔<sup>۲</sup>

حضرت علی بن ربیعہؓ والبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابن نباج نے حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے امیر المؤمنین! مسلمانوں کا بیت المال سونے چاندی سے بھر گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت علیؓ نے کہا اللہ اکبر! اور ابن نباج پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کے بیت المال پر پہنچے اور یہ شعر پڑھا۔

هذا جنای وخیارہ فیہ

وکل جان یدہ الی فیہ

یہ میرے چنے ہوئے پھل ہیں اور جو پھل عمدہ تھے وہ انہی میں ہیں (میں نے انہیں نہیں کھایا اور میرے علاوہ) ہر پھل چننے والے کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف جا رہا تھا یعنی میں نے اس بیت المال میں سے کچھ نہیں لیا ہے۔

اے ابن نباج! کوفہ والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ لوگوں کو اعلان کر کے بلایا گیا (جب لوگ آگئے تو) حضرت علیؓ نے بیت المال کا سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا اور تقسیم کرتے ہوئے وہ یوں فرما رہے تھے اے سونے! اے چاندی! میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دو۔ (اور لوگوں سے کہہ رہے تھے) لے لو۔ لے لو اور یونہی تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ نہ کوئی دینار بچا اور نہ کوئی درہم۔ پھر ابن نباج سے فرمایا اس بیت المال میں پانی چھڑک دو (اس نے پانی چھڑک دیا) پھر آپ نے اس میں دو رکعت نماز پڑھی<sup>۳</sup>

۱- اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۱۸) و ابن عساکر کما فی الکتب (ج ۲ ص ۲۱۷)

۲- اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۱۵)

۳- اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۸۱)

حضرت مجب تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علیؓ بیت المال (کاسارا مال تقسیم کر کے اس) میں جھاڑ دیا کرتے تھے اور اس میں نماز پڑھا کرتے اور وہاں سجدہ اس لئے کیا کرتے تھے تاکہ یہ بیت المال قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے۔<sup>۱</sup>

حضرت علاء کے والد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی بن ابی طالبؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں نے تمہارے مال غنیمت میں سے کھجوروں کے اس برتن کے علاوہ اور کچھ نہیں لیا اور یہ بھی مجھے دیہات کے ایک چودھری نے ہدیہ میں دیا تھا۔ پھر حضرت علیؓ بیت المال تشریف لے گئے اور جتنا مال اس میں تھا وہ سارا تقسیم کر دیا اور پھر وہ یہ شعر پڑھنے لگے۔

افلح من كانت له قوصره

یاکل منها کل یوم مره

وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کے پاس ایک ٹوکرا ہو جس میں سے وہ روزانہ ایک مرتبہ کھالے (کامیابی کے لئے تھوڑی دنیا بھی کافی ہے)

حضرت عنترہ شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علیؓ ہر صنعت والے سے اس کی صنعت کاری اور دستکاری میں سے جزیہ اور خراج وصول کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سوئی والوں سے سویاں، سونے، دھاگے اور رسیاں لیا کرتے تھے۔ پھر اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے اور روزانہ بیت المال کاسارا مال شام تک تقسیم کر دیا کرتے اور رات کو اس میں کچھ نہ ہوتا۔ البتہ اگر کسی ضروری کام میں مشغول ہو جاتے اور مال تقسیم کرنے کی اس دن فرصت نہ ملتی تو پھر وہ مال بیت المال میں رات بھر رہ جاتا لیکن اگلے دن صبح صبح جا کر اسے تقسیم کر دیتے اور فرمایا کرتے اے دنیا! مجھے دھوکہ نہ دے، جا کسی اور کو جا کر دھوکہ دے اور یہ شعر پڑھا کرتے:

هذا جنای وخیاره فیہ

وکل جان یدہ الی فیہ

یہ میرے پنے ہوئے پھل ہیں اور جو عمدہ پھل تھے وہ ان ہی میں ہیں (میرے علاوہ) ہر پھل چننے والے کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف جا رہا تھا۔

حضرت عنترہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک دن حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تھوڑی دیر میں ان کا غلام قہر آیا اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ (سارا ہی تقسیم کر

دیتے ہیں اور) کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتے حالانکہ اس مال میں آپ کے گھر والوں کا بھی حصہ ہے۔ اس لئے میں نے آپ کے لئے کچھ بہت عمدہ مال چھپا کر رکھا ہے۔ حضرت علیؑ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ قنبر نے کہا آپ چل کر خود ہی دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے؟ چنانچہ حضرت علیؑ چلے اور قنبر ان کو ایک کمرے میں لے گیا وہاں ایک بڑا بڑا تن رکھا ہوا تھا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اور وہ سونے چاندی کے برتنوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب حضرت علیؑ نے اسے دیکھا تو فرمایا، تیری ماں تجھے گم کرے! تم میرے گھر میں بہت بڑی آگ داخل کرنا چاہتے ہو۔ پھر حضرت علیؑ نے تول تول کر ہر قوم کی سردار کو اس کی حصہ کے مطابق دینا شروع کیا اور پھر یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ ابھی گزرا ہے۔

ہذا جنای و خیارہ فیہ وکل جان یدہ الی فیہ

اور فرمایا (اے دنیا!) مجھے دھوکہ مت دے، جا سکی اور کو جا کر دھوکہ دے۔

## مسلمانوں کے مالی حقوق کے بارے میں حضرت عمرؓ کی رائے

حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عمرؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس مال کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے جمع ہو جاؤ اور غور کرو کہ یہ مال کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے (جب مطلوبہ حضرات جمع ہو گئے تو) فرمایا، میں نے ان لوگوں کو اس لئے جمع کیا ہے تاکہ اس مال کے بارے میں مشورہ کر لیا جائے اور غور کر لیا جائے کہ یہ مال کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ میں نے اللہ کی کتاب (قرآن مجید) کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے سنا ہے:

(۱) مَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِينَ قَرَّبُوا إِلَيْهِ وَالْمَسْكِينِ وَالسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.

(سورت حشر آیت ۷، ۸)

ترجمہ: ”جو کچھ اللہ تعالیٰ (اس طور پر) اپنے رسول ﷺ کو دوسری بستیوں کے (کافر) لوگوں سے دلوادے (جیسے فدک اور ایک حصہ خیبر کا) سو وہ بھی اللہ کا حق ہے اور رسول ﷺ

کا اور (آپ کے) قربت داروں کا اور یتیموں کا اور غریبوں کا اور مسافروں کا تاکہ وہ (مال فتنے) تمہارے تو نگرہوں کے قبضہ میں نہ آجائے اور رسول ﷺ تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس چیز (کے لینے) سے تم کو روک دیں (اور لعموم الفاظ یہی حکم ہے افعال اور احکام میں بھی) تم رک جلیا کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ (مخالفت کرنے پر) سخت سزا دینے والا ہے اور ان حاجت مند مہاجرین کا (بالخصوص) حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے (جبراً و ظلماً) جدا کر دیئے گئے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل (یعنی جنت) اور رضامندی کے طالب ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ (کے دین) کی مدد کرتے ہیں (اور) یہی لوگ (ایمان کے) سچے ہیں۔ اللہ کی قسم! یہ مال صرف انہی لوگوں کے لئے نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

(۲) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ الْآيَةَ (سورت حشر آیت ۹)

ترجمہ: اور (نیز) ان لوگوں کا (بھی حق ہے) جو دارالاسلام (یعنی مدینہ) میں ان (مہاجرین) کے (آنے کے) قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ (انصار) اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو اور (واقعی) جو شخص اپنی طبیعت کے محل سے محفوظ رکھا جاوے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کی قسم! یہ مال صرف ان ہی لوگوں کے لئے نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

(۳) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ الْآيَةَ. (سورت حشر آیت ۱۰)

اور ان لوگوں کا (بھی اس مال فتنے میں حق ہے) جو ان کے بعد آئے جو (ان مذکورین کے حق میں) دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو خوش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو (بھی) جو ہم سے پہلے ایمان لایچکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے۔ اے ہمارے رب! آپ بڑے شفیق (اور) کریم ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم! اس مال میں ہر مسلمان کا حق معلوم ہوتا ہے چاہے وہ عدنان میں بحریاں چرا رہا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے مال دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ لہٰذا حضرت مالک بن اوس بن حدثان اسی قصہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت عمرؓ نے یہ آیت آخر تک پڑھی۔

(۴) اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ (سورت توبہ آیت ۶۰)

ترجمہ: ”صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا اور جو کارکن ان صدقات پر متعین ہیں اور جن کی دل جوئی کرنا (منظور) ہے اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرضہ میں اور جہاد میں اور مسافروں میں۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں“ اور فرمایا یہ زکوٰۃ و صدقات تو ان ہی لوگوں کے لئے ہیں (جن کا اس آیت میں ذکر ہے) پھر یہ آیت آخر تک پڑھی۔

(۵) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ (سورت انفال آیت ۴۱)

ترجمہ: ”اور اس بات کو جان لو کہ جو شے (کفار سے) بطور غنیمت تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل کا پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول ﷺ کا ہے اور (ایک حصہ) آپ کے قرابت والوں کا ہے اور (ایک حصہ) یتیموں کا ہے اور (ایک حصہ) غریبوں کا ہے اور (ایک حصہ) مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر جس کو ہم نے اپنے بندہ (محمد ﷺ) پر فیصلہ کے دن، یعنی جس دن کہ دونوں جماعتیں (مومنین و کفار کی) باہم مقابل ہوئی تھیں، نازل فرمایا تھا اور اللہ (ہی) ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں“ پھر فرمایا یہ مال غنیمت ان ہی لوگوں کے لئے ہے (جن کا اس آیت میں ذکر ہے) پھر یہ آیت آخر تک پڑھی للفقراء المهاجرین . جس کا ترجمہ (۱) میں گزر چکا ہے اور فرمایا یہ مهاجرین لوگ ہیں پھر یہ آیت آخر تک پڑھی والذین تبوء الدار والایمان من قبلہم جس کا ترجمہ (۲) میں گزر چکا ہے اور فرمایا اس آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ انصار ہیں پھر یہ آیت آخر تک پڑھی۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ جس کا ترجمہ (۳) میں گزر چکا ہے اور فرمایا اس آیت میں تو سب لوگ آگئے لہذا ہر مسلمان کا اس مال میں حق ہے۔ البتہ تمہارے غلاموں کا اس مال میں کوئی حق نہیں۔ اگر میں زندہ رہا تو انشاء اللہ ہر مسلمان کو اس کا حق پہنچ جائے گا یہاں تک کہ حمیر وادی (جو کہ یمن میں ہے) کے بالائی حصہ کے چرواہے کو بھی اس کا حصہ پہنچ کر رہے گا اور اس مال کو حاصل کرنے میں اس کی پیشانی پر ذرہ برابر پسینہ نہیں آئے گا یعنی اس کے لئے اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ کا مال تقسیم کرنا

حضرت سُعدیؓ فرماتی ہیں ایک دن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ کے پاس گئی تو میں نے ان کی طبیعت پر گرانی محسوس کی۔ میں نے ان سے کہا آپ کو کیا ہوا؟ کیا ہماری طرف سے آپ کو کوئی ناگواری بات پیش آئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس ناگواری بات کو دور کر کے آپ کو راضی کریں گے۔ حضرت طلحہؓ نے کہا نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم تو مسلمان مرد کی بہت اچھی بیوی ہو۔ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میرے پاس مال جمع ہو گیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا کیا کروں؟ میں نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے آپ اپنی قوم کو بلا لیں اور یہ مال ان میں تقسیم کر دیں۔ حضرت طلحہؓ نے فرمایا اے لڑکے! میری قوم کو میرے پاس لے آؤ (چنانچہ ان کی قوم والے آگئے تو سارا مال ان میں تقسیم کر دیا) میں نے خزاہی سے پوچھا کہ انہوں نے کتنا مال تقسیم کیا۔ خزاہی نے کہا چار لاکھ۔<sup>۱</sup>

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت طلحہؓ نے اپنی ایک زمین سات لاکھ میں بیچی تو یہ رقم ایک رات ان کے پاس رہ گئی تو انہوں نے وہ ساری رات اس مال کے ڈر سے جاگ کر گزار دی۔ صبح ہوتے ہی وہ ساری رقم تقسیم کر دی۔<sup>۲</sup>

حضرت طلحہؓ کی بیوی حضرت سُعدیؓ فرماتی ہیں ایک دن حضرت طلحہؓ میرے پاس آئے وہ مجھے بڑے غمگین نظر آئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے مجھے آپ کا چہرہ بڑا پریشان نظر آ رہا ہے۔ کیا ہماری طرف سے کوئی ناگواری بات پیش آئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ کی قسم! تمہاری طرف سے کوئی ناگواری بات پیش نہیں آئی ہے۔ تم تو بہت اچھی بیوی ہو میں اس وجہ سے غمگین و پریشان ہوں کہ میرے پاس بہت مال جمع ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ آدمی بیچ کر اپنے رشتہ داروں اور اپنی قوم کو بلا لیں اور ان میں یہ مال تقسیم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے بلا کر ان میں سارا مال تقسیم کر دیا پھر میں نے خزاہی سے پوچھا کہ انہوں نے کتنا مال تقسیم کیا ہے۔ اس نے بتایا چار لاکھ۔ ان کی روزانہ آمدن ایک ہزار وانی تھی (ایک وانی ایک درہم اور چار دانق کا ہوتا ہے اور ایک درہم میں چھ دانق ہوتے ہیں لہذا ہزار وانی کے ایک ہزار چھ سو چھیاسٹھ درہم اور چار دانق ہوتے) اسی سخاوت کی وجہ سے انہیں طلحہؓ فیاض کہا جاتا تھا۔ یعنی بہت زیادہ سخی۔<sup>۳</sup>

۱۔ اخرجہ الطبرانی باسناد حسن عن طلحہ بن یحییٰ عن جدته سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کذا فی الترغیب (ج ۲ ص ۱۷۶) وقال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۴۸) رجالہ ثقات و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۵۷) و ابو نعیم (ج ۱ ص ۸۸) بنحوہ۔ ۲۔ اخرجہ ابو نعیم ایضاً فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۸۹) و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۵۷) اطول منہ۔ ۳۔ اخرجہ الحاکم (ایضاً) (ج ۳ ص ۳۷۸)



## حضرت زبیر بن عوامؓ کا مال تقسیم کرنا

حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت زبیر بن عوامؓ کے ہزار غلام تھے جو انہیں مال کما کر دیا کرتے تھے۔ وہ روزانہ شام کو ان سے مال لے کر رات ہی کو سارا تقسیم کر دیتے اور جب گھر واپس جاتے تو اس میں سے کچھ بھی چاہا ہونہ ہوتا۔

حضرت مغیث بن کمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت زبیرؓ کے ایک ہزار غلام تھے جو انہیں مال کما کر دیا کرتے تھے۔ وہ ان غلاموں کی آمدن میں سے ایک درہم بھی گھر نہیں لے جاتے تھے (بلکہ ساری آمدن دوسروں میں تقسیم کر دیتے تھے)۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں جنگ جمل کے دن (میرے والد) حضرت زبیرؓ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا میں ان کے پہلو میں آکر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے! آج جو بھی قتل ہو گا اسے فریق مخالف ظالم سمجھے گا اور وہ خود اپنے آپ کو مظلوم سمجھے گا اور مجھے ایسا نظر آرہا ہے کہ میں بھی آج ظلماً قتل ہو جاؤں گا اور مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے قرضے کی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے قرضہ ادا کرنے کے بعد ہمارے مال میں سے کچھ بچے گا! اے میرے بیٹے! ہمارا مال بچ کر قرضہ ادا کر دینا پھر حضرت زبیرؓ نے یہ وصیت فرمائی کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد جو مال بچے اس کا ایک تہائی (در ثناء کے علاوہ) دوسروں کو دے دیا جائے اور اس ایک تہائی کا ایک تہائی (یعنی بچے ہوئے مال کا نواں حصہ) حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی اولاد کو دے دیا جائے (کیونکہ حضرت عبداللہ کے بچے بڑے تھے بلکہ ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں) چنانچہ حضرت عبداللہ کے کچھ بیٹے حضرت خبیب اور حضرت عباد (عمر میں یا مال کے حصہ میں) حضرت زبیرؓ کے بعض بیٹوں کے برابر تھے اور خود حضرت زبیرؓ کے نو بیٹے اور نو بیٹیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضرت زبیرؓ نے مجھے اپنے قرضہ کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے! اگر میرے قرض کی ادائیگی میں کچھ مشکل پیش آئے تو میرے مولیٰ سے مدد لے لینا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم! میں سمجھ نہ سکا کہ مولیٰ سے ان کی مراد کون ہے؟ اس لئے میں نے پوچھا اباجان! آپ کے مولیٰ کون ہیں؟

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۹۰) ۲۔ واخرجه البيهقي (ج ۸ ص ۹) عن مغیث مثله  
واخرجه يعقوب بن سفيان نحوه كما في الاصابة (ج ۱ ص ۵۶۶)

انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب بھی مجھے ان کے قرضے کے بارے میں کوئی مشکل پیش آتی تو میں کہتا اے زبیرؓ کے مولیٰ! زبیرؓ کا قرضہ ادا کرادیں۔ اللہ تعالیٰ فوراً اس کا انتظام فرمادیتے۔ چنانچہ حضرت زبیرؓ اس دن شہید ہو گئے انہوں نے ترکہ میں کوئی دینار یا زرہم نہ چھوڑا۔ البتہ چند زمینیں، مدینہ میں گیارہ گھر، بصرہ میں دو گھر، کوفہ میں ایک گھر اور مصر میں ایک گھر چھوڑا۔ ان چند زمینوں میں سے ایک زمین (مدینہ سے چند میل دور) غابہ کی تھی۔ حضرت زبیرؓ پر اتنا قرضہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس جو آدمی اپنا مال بطور امانت رکھوانے آتا اس سے فرماتے میرے پاس امانت نہ رکھو! مجھے ڈر ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے اس لئے مجھے قرض دے دو (جب ضرورت ہو لے لینا اور لوگوں سے لے کر دوسروں پر خرچ کر دیتے) حضرت زبیرؓ نہ کبھی امیر بنے اور نہ کبھی خراج زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے کی ذمہ داری لی۔ البتہ حضور ﷺ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمانؓ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے رہے (اور ان غزوات سے جو مال غنیمت ملا اس سے ان کی اتنی جائیداد ہو گئی تھی) بہر حال میں نے اپنے والد کے قرض کا حساب لگایا تو وہ بائیس لاکھ نکلا۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزامؓ مجھ سے ملے۔ انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے! میرے بھائی (حضرت زبیرؓ) پر کتنا قرض ہے؟ میں نے چھپاتے ہوئے کہا ایک لاکھ (جتنا بتایا اس میں تو سچے ہیں) حضرت حکیم نے کہا اللہ کی قسم! میرے خیال میں تو تمہارا سارا مال اس قرضہ کی ادائیگی کے لئے کافی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اگر بائیس لاکھ قرض ہو تو پھر؟ انہوں نے کہا میرے خیال میں تو تم اسے ادا نہیں کر سکتے۔ اس لئے اگر تمہیں قرضہ کی ادائیگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ سے مدد لے لینا حضرت زبیرؓ نے غابہ کی زمین ایک لاکھ ستر ہزار میں خریدی تھی۔ میں نے اس کی قیمت لگوائی تو سولہ لاکھ قیمت لگی (میں نے اس زمین کے سولہ حصے بنائے تھے ایک حصہ کی قیمت ایک لاکھ لگی) پھر میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا جس کا حضرت زبیرؓ کے ذمہ کوئی حق ہو وہ ہمیں غابہ میں آکر ملے۔ حضرت عبداللہ بن جعفرؓ کے حضرت زبیرؓ کے ذمہ چار لاکھ زرہم تھے انہوں نے مجھ سے آکر کہا اگر تم کہو تو میں تمہاری خاطر یہ قرضہ چھوڑ دیتا ہوں! میں نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو میرا قرضہ آخر میں ادا کر دینا! میں نے کہا نہیں، آپ ابھی لے لیں انہوں نے کہا اچھا پھر مجھے اس زمین میں سے میرے قرضے کے بھڑکھڑاؤے دو۔ میں نے کہا یہاں سے لے کر وہاں تک آپ کی زمین ہے۔ چنانچہ غابہ کی زمین (اور حضرت زبیرؓ کے گھروں) کو بیچ کر میں قرضہ ادا کر تا رہا یہاں تک کہ سارا قرضہ ادا ہو گیا اور غابہ کی زمین

(کے سولہ حصوں) میں سے ساڑھے چار حصے بچ گئے۔ میں بعد میں حضرت معاویہؓ کے زمانہ خلافت میں ان کے پاس گیا۔ اس وقت ان کے پاس حضرت عمرو بن عثمان، حضرت منذر بن زبیر اور حضرت لادن زمعہؓ بھی تھے۔ حضرت معاویہؓ نے مجھ سے فرمایا تم نے غابہ کی زمین کی کیا قیمت لگائی؟ میں نے کہا (اس کے سولہ حصے کئے تھے لو) ہر حصہ ایک لاکھ کہتا تھا۔ حضرت معاویہؓ نے پوچھا اب کتنے حصے باقی ہیں؟ میں نے کہا ساڑھے چار حصے۔ حضرت منذر بن زبیرؓ نے کہا ایک حصہ میں نے ایک میں خرید لیا پھر حضرت عمرو بن عثمانؓ نے کہا ایک حصہ میں نے ایک لاکھ میں خرید لیا پھر حضرت لادن زمعہؓ نے کہا ایک حصہ میں نے ایک لاکھ میں خرید لیا۔ حضرت معاویہؓ نے پوچھا اب کتنے حصے رہ گئے؟ میں نے کہا ڈیڑھ۔ انہوں نے کہا ڈیڑھ لاکھ میں میں نے اسے خرید لیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ حضرت معاویہ کے ہاتھ چھ لاکھ میں بیچا۔ جب میں حضرت زبیرؓ کے قرضے کی ادائیگی سے فارغ ہوا تو حضرت زبیر کی اولاد یعنی میرے بہن بھائیوں نے کہا اب میراث ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم! میں تم لوگوں کے درمیان میراث اس وقت تک تقسیم نہیں کروں گا جب تک چار سال موسم حج میں یہ اعلان نہیں کر لیتا کہ جس کا حضرت زبیرؓ کے ذمہ کوئی قرضہ ہو وہ ہمارے پاس آجائے ہم اس کا قرضہ ادا کریں گے۔ چنانچہ میں ہر سال موسم حج میں یہ اعلان کرتا رہا جب چار سال گزر گئے تو پھر میں نے ان کے درمیان میراث تقسیم کی۔ حضرت زبیرؓ کی چار بیویاں تھیں۔ حضرت زبیرؓ نے ایک تمائی مال کی وصیت کی تھی۔ وہ تمائی مال دینے کے بعد ہر بیوی کو بارہ لاکھ ملے۔ لہذا ان کا سارا مال پانچ کروڑ دو لاکھ ہوا۔ البدلیہ میں علامہ لادن کثیر نے فرمایا ہے کہ درءاء میں جو مال تقسیم ہوا وہ تین کروڑ چوراسی لاکھ تھا اور ایک تمائی کی جو وصیت کی تھی وہ ایک کروڑ بانوے لاکھ تھا۔ لہذا یہ میراث اور ایک تمائی مل کر پانچ کروڑ چھتر لاکھ ہوا اور پہلے جو قرضہ ادا کیا گیا وہ بائیس لاکھ تھا۔ اس حساب سے قرض ایک تمائی اور میراث مل کر کل مال پانچ کروڑ اٹھانوے لاکھ ہوا۔ یہ تفصیل ہم نے اس لئے بتائی ہے کہ بخاری میں جو مال کی تفصیل ہے اس میں اشکال ہے اس لئے اس کی تفصیل بتانا مناسب نظر آیا۔

## حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا مال تقسیم کرنا

حضرت ام بکر بنت مسور رحمۃ اللہ علیہا کہتی ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے اپنی ایک

زمین چالیس ہزار دینار میں بچی اور یہ ساری رقم قبیلہ موزہرہ، غریب مسلمانوں، مہاجرین اور حضور ﷺ کی ازواج مطہرات میں تقسیم کر دی۔ اس میں سے کچھ رقم حضرت عائشہؓ کی خدمت میں بھیجی۔ انہوں نے پوچھا یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے۔ پھر مال لے جانے والے نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے زمین بچنے اور اس کی قیمت ساری تقسیم کر دینے کا قصہ بیان کیا۔ اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم ازواج مطہرات کے ساتھ شفقت کا معاملہ صرف صابر لوگ ہی کریں گے (پھر حضرت عائشہؓ نے دعادی) اللہ تعالیٰ عبدالرحمن بن عوف کو جنت کے سلسیل چشتے سے پلائے۔

حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے تیس ہزار گھرانے آزاد کئے ۲۔ (ایک روایت یہ ہے کہ تیس ہزار باندیاں آزاد کیں)

## حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ

### حضرت حذیفہؓ کا مال تقسیم کرنا

حضرت مالک الدارؓ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے چار سو دینار لے کر ایک تھیلے میں ڈالے اور غلام سے کہا یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کے پاس لے جاؤ اور انہیں دینے کے بعد گھر میں تھوڑی دیر کے لئے کسی کام میں مشغول ہو جانا اور دیکھنا کہ وہ ان دیناروں کا کر کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ غلام اس تھیلی کو ان کے پاس لے گیا اور ان سے عرض کیا کہ امیر المؤمنین آپ سے فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دینار اپنی ضرورت میں خرچ کر لیں۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں اس کا صلہ عطا فرمائے اور ان پر رحم فرمائے پھر فرمایا۔ باندی! اوھر آؤ۔ یہ سات دینار فلاں کے پاس لے جاؤ، یہ پانچ دینار فلاں کے پاس اور یہ پار دینار فلاں کے پاس لے جاؤ۔ اس طرح انہوں نے سارے دینار ختم کر دیئے۔ اس غلام۔ واپس آکر حضرت عمرؓ کو ساری بات بتائی۔ حضرت عمرؓ نے اتنے ہی دینار تیار کر کے حضرت

۱۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۳۱۰) قال الحاکم هذا حديث صحيح الا سنادو لم يخرجاه و قد اخبره ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۹۸) و ابن سعد (ج ۳ ص ۹۴) : المسور بن مخرمة بنحوه الا ان فی رواية نعیم لن یجنو علیکم بعدی الا الصالحون .

۲۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۳۰۸) و ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۹۹)

معاذ بن جبلؓ کے لئے رکھے ہوئے تھے تو حضرت عمرؓ نے اس غلام سے فرمایا یہ دینار حضرت معاذ بن جبلؓ کے پاس لے جاؤ اور انہیں دینے کے بعد گھر میں کسی کام میں مشغول ہو جانا اور دیکھنا کہ وہ ان دیناروں کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ غلام دینار لے کر حضرت معاذؓ کی خدمت میں پہنچا اور ان سے عرض کیا کہ امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دینار اپنی ضرورت میں خرچ کر لیں۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور انہیں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ پھر فرمایا اے باندی! ادھر آؤ! فلاں کے گھر میں اتنے لے جاؤ، فلاں کے گھر میں اتنے اور فلاں کے گھر میں اتنے لے جاؤ۔ اتنے میں ان کی بیوی آگئی اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم! ہم بھی مسکین ہیں ہمیں بھی کچھ دیں تھیلی میں صرف دو دینار بچے ہوئے تھے۔ حضرت معاذؓ نے وہ دینار ان کی طرف لڑھکائے غلام نے واپس آکر حضرت معاذؓ کی تقسیم کا سارا قصہ سنایا۔ اس سے حضرت عمرؓ بہت خوش ہوئے اور فرمایا یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور (دوسروں پر سارا مال خرچ کرنے میں) یہ سب ایک جیسے مزاج کے ہیں۔

حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطابؓ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اپنی اپنی تمنا کا اظہار کرو۔ ایک صاحب نے کہا میری دلی تمنا یہ ہے کہ یہ گھر درہموں سے بھر جائے اور میں ان سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ حضرت عمرؓ نے پھر فرمایا اپنی اپنی تمنا کا اظہار کرو، تو دوسرے صاحب نے کہا میری دلی تمنا یہ ہے کہ یہ گھر سونے سے مہر اہوا مجھے مل جائے اور میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ حضرت عمرؓ نے پھر فرمایا اپنی اپنی تمنا کا اظہار کرو۔ اس پر تیسرے صاحب نے کہا میری دلی تمنا یہ ہے کہ یہ گھر واپرات سے مہر اہوا ہو اور میں ان سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ حضرت عمرؓ نے پھر فرمایا اپنی اپنی تمنا کا اظہار کرو۔ لوگوں نے کہا اتنی بڑی تمناؤں کے بعد اور تمنا کیا ہو سکتی ہے

۱۔ اخرجه الطبرانی ورواته الى مالك الدار ثقات مشهورون و مالك الدار لا اعرفه كذا في ترغيب (ج ۲ ص ۱۷۷) وقال الهيثمي (ج ۳ ص ۱۲۵) رواه الطبرانی في الكبير و مالك الدار لم يرفه و بقية رجاله ثقات انتهى قلت ذكره الحافظ في الاصابة (ج ۳ ص ۴۸۴) وقال مالك بن يياض مولى عمرو هو الذى يقال له مالك الدار له ادراك وسمع من ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه روى عن الشيخين و معاذ و ابى عبيدة ، روى عنه ابنه عون و عبدالله و ابو صالح السمان و كره ابن سعد في الطبقة الاولى من التابعين في اهل المدينة وقال كان معروفا وقال على بن حذيفة كان مالك الدار حازنا لعمر انتهى وقال في الاصابة وردنا في فوائد داؤد بن عمرو والنسبى نعم البغوى من طريق عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع الخزومى عن مالك الدار فذكر لقصة ۱۰ هـ اخرجه ابونعيم في الحلية (ج ۱ ص ۲۳۷) عن مالك الدار فذكر مثله و اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۳۰۰) عن معن بن عيسى قال عرضنا على مالك بن انس . فذكره مختصرا .

حضرت عمرؓ نے فرمایا میری دلی تمنا یہ ہے کہ یہ گھر حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت حذیفہ بن یمانؓ جیسے آدمیوں سے بھرا ہوا ہو اور میں انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مختلف کاموں میں استعمال کروں (کام کے آدمیوں کی زیادہ ضرورت ہے) پھر حضرت عمرؓ نے (ان سب لوگوں کی موجودگی میں) کچھ مال حضرت حذیفہؓ کے پاس بھیجا اور (لے جانے والے سے) فرمایا دیکھنا وہ اس مال کا کیا کرتے ہیں۔ جب حضرت حذیفہؓ کے پاس وہ مال پہنچا تو انہوں نے سارا تقسیم کر دیا۔ پھر حضرت معاذ بن جبلؓ کے پاس کچھ مال بھیجا انہوں نے بھی اسے تقسیم کر دیا۔ پھر حضرت ابو عبیدہؓ کے پاس کچھ مال بھیجا اور (لے جانے والے سے) فرمایا دیکھنا وہ اس مال کا کیا کرتے ہیں (انہوں نے بھی سارا تقسیم کر دیا) پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے تم سے پہلے کہہ دیا تھا (کہ یہ تینوں کام کے آدمی ہیں اور ان کی ایک خولی یہ ہے کہ مال دوسروں پر خرچ کرتے ہیں)۔

### حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا مال تقسیم کرنا

حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عمرؓ کے پاس ایک مجلس میں بائیس ہزار درہم آئے انہوں نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی سارے تقسیم کر دیئے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاویہؓ نے حضرت ابن عمرؓ کے پاس ایک لاکھ بچھے۔ سال گزرنے سے پہلے ہی انہوں نے سارے خرچ کر دیئے اور ان میں سے کچھ باقی رہا۔ حضرت ایوب بن وائل راہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا تو مجھے حضرت ابن عمرؓ کے ایک پڑوسی نے یہ قصہ سنایا کہ حضرت ابن عمرؓ کے پاس حضرت معاویہؓ کی طرف سے چار ہزار، ایک اور آدمی کی طرف سے چار ہزار اور ایک اور آدمی کی طرف سے دو ہزار (کل درہم ہزار) اور ایک جھالروالی چادر آئی۔ پھر وہ بازار گئے اور اپنی سواری کے لئے ایک درہم کا چار ادھار خریدا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس اتنا مال آیا ہے (اس لئے میں بوا حیران ہوا کہ ان کے پاس اتنا مال آیا ہے اور یہ ایک درہم کا چارہ ادھار خرید رہے ہیں اس لئے) میں ان کی باند کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم سچ بچھتا نا۔ کیا حضرت ابو عبد الرحمنؓ (یہ حضرت ابن عمرؓ کی کنیت ہے) کے پاس حضرت معاویہؓ کی طرف سے چار ہزار اور ایک اور آدمی کی طرف سے چار ہزار اور ایک اور آدمی کی طرف سے دو ہزار اور ایک چادر نہیں آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں آئی ہے۔ میں نے کہا میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ ایک

درہم کا چارہ ادھار خرید رہے تھے (تو یہ کیابات ہے؟ اتنے مال کے ہوتے ہوئے وہ ادھار کیوں خرید رہے تھے؟) اس باندی نے کمالات سونے سے پہلے ہی انہوں نے وہ دس ہزار تقسیم کر دیئے تھے اور پھر وہ چادر اپنی کمر پر ڈال کر باہر چلے گئے تھے اور وہ بھی کسی کو دے دی۔ پھر گھر واپس آئے چنانچہ میں نے (بازار میں جا کر) اعلان کیا اے تاجروں کی جماعت! تم اتنی دنیا کمایا کیا کرو گے؟ (حضرت لئن عمر کی طرح دوسروں پر سالہ مال خرچ کر دو) کل رات حضرت لئن عمر کے پاس دس ہزار کھرے درہم آئے تھے وہ (انہوں نے رات ہی سارے خرچ کر دیئے اس لئے) آج اپنی سواری کے لئے وہ ایک درہم کا ادھار چارہ خرید رہے تھے۔

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت لئن عمر کے پاس ایک مجلس میں بیس ہزار سے زیادہ درہم آئے تو انہوں نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ سب تقسیم کر دیئے اور مزید ان کے پاس جو پہلے سے تھے وہ بھی سب دے دیئے اور جو کچھ پاس تھا وہ سب ختم کر دیا تو ایک صاحب آئے جن کو دینے کا ان کا پرانا معمول تھا۔ (اب اپنے پاس تو دینے کے لئے کچھ بچا نہیں تھا اس لئے) جن کو دیا تھا ان میں سے ایک آدمی سے ادھار لے کر ان صاحب کو دیئے۔ حضرت میمون کہتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت لئن عمر کنجوس ہیں۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم! جہاں خرچ کرنے سے (آخرت کا) نفع ہوتا ہے وہاں خرچ کرنے میں وہ بالکل کنجوس نہیں ہیں (ہاں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے اور خواہ مخواہ نہیں دیتے)

### حضرت اشعث بن قیس کا مال تقسیم کرنا

حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قبیلہ کندہ کے ایک آدمی پر میرا قرض تھا۔ میں اس کے پاس (قرض وصول کرنے کے لئے) فجر سے پہلے آخر رات میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں حضرت اشعث بن قیس کی مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے وہیں نماز پڑھی۔ جب امام نے سلام پھیرا تو امام نے ہر آدمی کے سامنے کپڑوں کا ایک جوڑا، جوتی اور ایک جوڑا اور پانچ سو درہم رکھے۔ میں نے کہا میں اس مسجد والوں میں سے نہیں ہوں (لہذا مجھے نہ دو) پھر میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ (یہ لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں؟) لوگوں نے بتایا حضرت اشعث بن قیس مکہ مکرمہ سے آئے ہیں (اس خوشی میں وہ ہر نمازی کو

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۹۶)

۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۰۹) ۳۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص

۴۱۵) وفيہ ابو اسرائیل الملائی وقد اختلف فیہ وبقیۃ رجالہ رجال الصحیح . انتھی

دے رہے ہیں) ۳

## حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کامال تقسیم کرنا

حضرت ام درہ رحمۃ اللہ علیہا کہتی ہیں حضرت عائشہؓ کے پاس ایک لاکھ آئے۔ انہوں نے اسی وقت وہ سارے تقسیم کر دیئے۔ اس دن ان کا روزہ تھا میں نے ان سے کہا آپ نے اتنا خرچ کیا ہے تو کیا آپ اپنے لئے اتنا بھی نہیں کر سکتیں کہ افطار کے لئے ایک درہم کا گوشت منگالیتیں؟ انہوں نے کہا (مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے) اگر تو مجھے پہلے یاد کرا دیتی تو میں گوشت منگالیتی۔ ۱

## ام المومنین حضرت سووہ بنت زمعہؓ کامال تقسیم کرنا

حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے حضرت سووہؓ کے پاس درہموں سے بھرا ہوا تھیلا بھجا۔ حضرت سووہؓ نے پوچھا کیا ہے؟ لانے والوں نے بتایا یہ درہم ہیں تو (حیران ہو کر تعجب سے) فرمایا ارے کھجوروں کی طرح تھیلے ہیں درہم (یعنی اتنے بڑے تھیلے میں تو کھجوریں ڈالی جاتی ہیں درہم تو تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے بہت زیادہ درہم بھج دیئے ہیں) اور پھر انہوں نے وہ سارے درہم تقسیم کر دیئے۔ ۲

## ام المومنین حضرت زینب بنت جحشؓ کامال تقسیم کرنا

حضرت برہ بنت رافع رحمۃ اللہ علیہا کہتی ہیں جب حضرت عمرؓ نے لوگوں میں عطایا تقسیم کیں تو حضرت زینب بنت جحشؓ کے پاس ان کا حصہ بھجا۔ جب وہ مال ان کے پاس پہنچا تو فرمانے لگیں اللہ تعالیٰ حضرت عمرؓ کی مغفرت فرمائے۔ میری دوسری بہنیں اس مال کو مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے تقسیم کر سکتی ہیں (اس لئے ان کے پاس لے جاؤ) لانے والوں نے کہا یہ سارا مال آپ کا ہی ہے۔ فرمانے لگیں سبحان اللہ! اور ایک کپڑے سے پردہ کر لیا اور فرمایا اچھا رکھ دو اور اس پر کپڑا ڈال دو۔ پھر مجھ سے فرمایا اس کپڑے میں ہاتھ ڈال کر ایک منھی بھر کر ہو فلاں کو اور ہو فلاں کو دے آؤ۔ یہ سب ان کے رشتہ دار تھے اور یتیم تھے یوں ہی

۱ اخراجہ ابن سعد کذا فی الاصابۃ (ج ۴ ص ۳۵۰)

۲ اخراجہ ابن سعد بسند صحیح کذا فی الاصابۃ (ج ۴ ص ۳۳۹)



تقسیم فرماتی رہیں یہاں تک کہ کپڑے کے نیچے تھوڑے سے درہم بچ گئے تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا اے ام المؤمنین! اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کی قسم! اس مال میں ہمارا بھی تو حق ہے فرمایا اچھا کپڑے کے نیچے جتنے درہم ہیں وہ سب تمہارے۔ ہمیں کپڑے کے نیچے پچاسی درہم ملے۔ اس کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر حضرت زینبؓ نے یہ دعا مانگی اے اللہ! اس سال کے بعد مجھے حضرت عمرؓ کی عطمانہ ملے۔ چنانچہ (ان کی دعا قبول ہو گئی اور) ان کا انتقال ہو گیا۔

حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت زینب بنت جحشؓ کا سالانہ وظیفہ بارہ ہزار تھا اور وہ بھی انہوں نے صرف ایک سال لیا اور لینے کے بعد یہ دعا فرمائی اے اللہ! آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے کیونکہ یہ فتنہ ہی ہے (آئندہ سال سے پہلے ہی مجھے اٹھالے) پھر اپنے رشتہ داروں اور ضرورت مندوں میں سارا تقسیم کر دیا۔ حضرت عمرؓ کو پتہ چلا کہ انہوں نے سارا مال خرچ کر دیا ہے تو انہوں نے فرمایا یہ ایسی (بلند مرتبہ) خاتون ہیں جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ہی ارادہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ گئے اور ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر سلام بھجوا اور کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے سارا مال تقسیم کر دیا ہے یہ میں ایک ہزار اور بچ رہا ہوں، اسے آپ اپنے پاس رکھیں (ایک دم خرچ نہ کر دیں) لیکن جب یہ ایک ہزار درہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کو بھی پہلے کی طرح تقسیم کر دیا۔

### دودھ پیتے بچوں کے لئے وظیفہ مقرر کرنا

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں ایک تجارتی قافلہ مدینہ منورہ آیا اور انہوں نے عید گاہ میں قیام کیا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے فرمایا کیا تم اس بات کے لئے تیار ہو کہ ہم دونوں اس قافلہ کا چوروں سے پرہیز کریں؟ (انہوں نے کہا ٹھیک ہے) چنانچہ یہ دونوں حضرات رات بھر قافلہ کا پرہیز بھی دیتے رہے اور باری باری نماز بھی پڑھتے رہے۔ حضرت عمرؓ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو انہوں نے جا کر اس کی ماں سے کہا اللہ سے ڈر اور اپنے بچے کا خیال کر اور پھر حضرت عمرؓ اپنی جگہ واپس آگئے۔ پھر بچے کو رونے کی آواز سنی تو حضرت عمرؓ نے جا کر دوبارہ اس کی ماں کو وہی بات کہی اور اپنی جگہ واپس آگئے۔ جب آخر رات ہوئی تو پھر انہوں نے اس بچے کے رونے کی آواز سنی تو جا کر اس کی ماں سے کہا تیرا بھلا ہوا!

میرا خیال ہے کہ تو بچے کے حق میں بری ماں ہے، کیا بات ہے کہ تیرا بیٹا آج ساری رات آرام نہ کر سکا؟ اس عورت نے کہا اے اللہ کے بندے! آج رات تو (بار بار آکر) تم نے مجھے تنگ کر دیا۔ میں بہلا پھسلا کر اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں لیکن یہ ماننا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا تو اس کا دودھ کیوں چھڑانا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا کیونکہ حضرت عمرؓ صرف اس بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جو دودھ چھوڑ چکا ہو۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا اس بچے کی عمر کیا ہے؟ اس عورت نے کہا اتنے مہینے کا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا تیرا بھلا ہو! اس کا دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کر (پھر آپ وہاں سے واپس آئے) اور فجر کی نماز پڑھائی اور نماز میں بہت روئے، زیادہ رونے کی وجہ سے ان کا قرآن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا عمرؓ کے لئے ہلاکت ہو! اس نے مسلمانوں کے کتنے بچے مار ڈالے (کہ عمرؓ نے اصول یہ بنایا کہ دودھ چھڑانے کے بعد بچے کو وظیفہ ملے گا اس وجہ سے نہ معلوم کتنے بچوں کا دودھ قبل از وقت چھڑا دیا گیا ہو گا اور بچوں کو تکلیف ہوئی ہو گی) پھر اپنے منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے کہ خبردار! تم اپنے بچوں کا جلدی دودھ نہ چھڑاؤ کیونکہ ہم ہر دودھ پیتے مسلمان بچے کا بھی وظیفہ مقرر کریں گے اور تمام علاقوں میں بھی (اپنے گورنروں کو) یہ لکھوا بھیجا کہ ہم ہر دودھ پیتے مسلمان بچے کا بھی وظیفہ مقرر کریں گے۔

## بیت المال میں سے اپنے اوپر اور اپنے رشتہ داروں

### پر خرچ کرنے میں احتیاط برتنا

حضرت عمرؓ نے فرمایا میں اللہ کے مال کو (یعنی مسلمانوں کے اجتماعی مال کو جو بیت المال میں ہوتا ہے) اپنے لئے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے ضرورت نہ ہو تو میں اس کے استعمال سے بچتا ہوں اور اگر مجھے ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں اس سے لیتا ہوں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں اللہ کے مال کو اپنے لئے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے: مَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (سورۃ نساء آیت ۶)

ترجمہ: اور جو شخص مالدار ہو سو وہ تو اپنے کو بالکل چھائے اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ

۱۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۲۱۷) ابو عبید و ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۳۱۷)

۲۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۱۹۸)

مناسب مقدار سے کھالے۔ ۱

حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس اجتماعی مال میں سے مجھے صرف اتنا لینا جائز ہے جتنا میں اپنی ذاتی کمائی میں سے خرچ کرتا (یہ نہیں کہ بیت المال میں بے احتیاطی اور فضول خرچی کروں)۔ ۱

حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمرؓ کو ضرورت پیش آتی تو بیت المال کے نگران کے پاس آتے اور اس سے ادھار لے لیتے۔ بعض دفعہ آپ تنگ دست ہوتے (اور قرض واپس کرنے کا وقت آجاتا) تو بیت المال کا نگران آکر ان سے قرض ادا کرنے کا تقاضا کرتا اور ان کے پیچھے پڑ جاتا۔ آخر حضرت عمرؓ قرض کی ادائیگی کی کہیں سے کوئی صورت بناتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ کو وظیفہ ملتا تو اس سے قرض ادا کرتے۔ ۱

حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ زمانہ خلافت میں بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ایک تجارتی قافلہ ملک شام بھجنے کا ارادہ کیا تو آپ نے چار ہزار قرض لینے کے لئے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے پاس آدمی بھیجا۔ حضرت عبدالرحمن نے اس قاصد سے کہا جا کر امیر المومنین سے کہہ دو کہ وہ اب بیت المال سے چار ہزار ادھالے لیں۔ بعد میں بیت المال میں واپس کر دیں۔ جب قاصد نے واپس آکر حضرت عمرؓ کو ان کا جواب بتایا تو حضرت عمرؓ کو اس سے بڑی گرانی ہوئی۔ پھر جب حضرت عمرؓ کی حضرت عبدالرحمنؓ سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا تم نے ہی کہا تھا کہ عمرؓ چار ہزار بیت المال سے ادھالے لے۔ اگر (بیت المال سے ادھار لے کر تجارتی قافلہ کے ساتھ بیچ دوں اور پھر) تجارتی قافلہ کی واپسی سے پہلے ہی مر جاؤں تو تم لوگ کہو گے کہ امیر المومنین نے چار ہزار لئے تھے اب ان کا انتقال ہو گیا ہے اس لئے یہ ان کے چار ہزار چھوڑ دو (تم لوگ تو چھوڑ دو گے) اور میں ان کے بدلے میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا۔ نہیں، میں بیت المال سے بالکل نہیں لوں گا بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم جیسے لالچی اور کنجوس آدمی سے ادھار لوں تاکہ اگر میں مر جاؤں تو وہ میرے مال میں سے اپنا ادھار وصول کر لے۔ ۱

حضرت ابراہیمؓ معروف کے ایک بیٹے کہتے ہیں حضرت عمرؓ ایک مرتبہ بیمار ہوئے۔ ان کیلئے علاج میں شہد تجویز کیا گیا اور اس وقت بیت المال میں شہد کی ایک کچی موجود تھی (انہوں نے

۱ عند ابن سعد ایضاً کما فی منتخب الکنز (ج ۴ ص ۴۱۸)

۲ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۱۹۸) ۳ اخرجه ابن سعد ایضاً (ج ۳ ص ۱۹۹) واخرجه ایضاً

ابو عبیدة فی الاموال و ابن عساکر عن ابراهیم نحوه کما فی المنتخب (ج ۴ ص ۴۱۸)

خود اس شہد کو نہ لیلیکھ مسجد میں جا کر منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا مجھے علاج کے لئے شہد کی ضرورت ہے اور شہدیت المال میں موجود ہے۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اسے لے لوں ورنہ وہ میرے لئے حرام ہے۔ چنانچہ لوگوں نے خوشی سے ان کو اجازت دے دی۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے مال آیا تو ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حصہؓ کو اس کی اطلاع پہنچی۔ انہوں نے آکر حضرت عمرؓ سے کہا اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اس لئے اس مال میں آپ کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ نرت عمرؓ نے ان سے فرمایا اے میری بیٹی! میرے رشتہ داروں کا حق میرے مال میں ہے اور یہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت ہے، تم اپنے باپ کو دھوکہ دینا چاہتی ہو، جاؤ تشریف لے جاؤ! چنانچہ حضرت حصہؓ کھڑی ہوئیں اور چادر کا دامن گھسیٹی ہوئی واپس چلی گئیں۔

حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن ارقمؓ کو دیکھا کہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! ہمارے پاس جلولاء شہر کے (مال غنیمت کے) کچھ زیورات اور کچھ چاندی کے برتن ہیں آپ دیکھ لیں جس دن آپ فارغ ہوں اس دن آپ ان زیورات اور برتنوں کو دیکھ لیں اور پھر ان کے بارے میں آپ جو ارشاد فرمائیں ہم ویسے کریں گے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا جس دن تم مجھے فارغ دیکھو، یاد کرو دینا چنانچہ ایک دن حضرت عبداللہ بن ارقمؓ نے آکر عرض کیا آج آپ فارغ نظر آ رہے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں۔ میرے سامنے چڑے کا دسترخوان بچھا کر اس پر وہ زیورات اور چاندی کے برتن ڈال دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ارقمؓ نے دسترخوان بچھا کر وہ سارا مال اس پر ڈال دیا۔ پھر حضرت عمرؓ اس مال کے پاس آکر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے اللہ! آپ نے اس مال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے اور یہ آیت آخر تک تلاوت فرمائی۔ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ - (سورت آل عمران: آیت ۱۴)

ترجمہ: ”خوش نما معلوم ہوتی ہے (اکثر) لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی (مثلاً) عورتیں ہوئیں بیٹے ہونے، لگے ہوئے ڈھیر، سونے اور چاندی کے نمبر (یعنی شان) لگے ہوئے گھوڑے ہوئے (یاد دوسرے) مواثی ہوئے اور زراعت ہوئی (لیکن) یہ سب استعالیٰ

چیزیں ہیں دنیوی زندگی کی اور لہذا جام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور (اے اللہ!) آپ نے یہ بھی فرمایا ہے "لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ" (سورۃ حدید: آیت

۲۳)

ترجمہ: "تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پر رنج (اتنا) نہ کرو اور تاکہ جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے اس پر اتراؤ نہیں۔ (اے اللہ!) جن مرغوب چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں بھلی اور خوشنما کر دی گئی ہے ان سے خوش ہونے کو چھوڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اے اللہ! ہمیں ان چیزوں کے حق میں صحیح جگہ خرچ کرنے والا بنا اور میں ان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اتنے میں ایک صاحب حضرت عمرؓ کے بیٹے عبدالرحمن بن بہیہ کو اٹھا کر لائے (بہیہ حضرت عمرؓ کی باندی تھیں جن سے عبدالرحمن پیدا ہوئے تھے بعض حضرات اس باندی کا نام لہیہ بتاتے ہیں) اس بچے نے کہا بابا جان! مجھے ایک انگوٹھی دے دیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ اپنی ماں کے پاس جا! وہ تجھے ستو پلائے گی۔ راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم! حضرت عمرؓ نے اپنے اس بیٹے کو کچھ نہیں دیا۔

حضرت اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمرؓ کے پاس بحرین سے مشک اور عنبر آیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی عورت مل جائے جو تو لٹا اچھی طرح جانتی ہو اور وہ مجھے یہ خوشبو تول دے تاکہ میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر سکوں۔ ان کی بیوی حضرت عاتکہ بنت زید بن عمرو بن نفیلؓ نے کہا میں تولنے میں بوی ماہر ہوں، ملایئے میں تول دیتی ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں۔ تم سے نہیں تولوانا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تو اسے اپنے ہاتھوں سے تازد میں رکھے گی (یوں کچھ نہ کچھ خوشبو تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گی اور کپٹی اور گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) اور یوں تو اپنی کپٹی اور گردن پر اپنے ہاتھ پھیرے گی اس طرح تجھے مسلمانوں سے کچھ زیادہ خوشبو مل جائے گی۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک لڑکی کو دیکھا جو کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ تو (ان کے بیٹے) حضرت عبداللہؓ نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا یہ میری کون

۱۔ اخرجه ابن ابی شیبۃ واحمد و ابن ابی الدنیاء و ابن ابی حاتم و ابن عساکر کذا فی منتخب

الکنز (ج ۴ ص ۴۱۲) ۲۔ اخرجه احمد فی الزهد کذا فی منتخب الکنز (ج ۴ ص ۴۱۳)

سی بیٹی ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا یہ میری بیٹی ہے حضرت عمرؓ نے پوچھا یہ اتنی کمزور کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا آپ کی وجہ سے کیونکہ آپ اسے کچھ نہیں دیتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے آدمی اللہ کی قسم! میں تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں دھوکہ میں نہیں رکھنا چاہتا۔ (خود کما کر) تم اپنی اولاد پر خوب خرچ کرو (میں بیت المال میں سے نہیں دوں گا)۔

حضرت عاصم بن عمرؓ فرماتے ہیں جب حضرت عمرؓ نے میری شادی کی تو ایک مہینہ تک اللہ کے مال میں سے (یعنی بیت المال میں سے) مجھے خرچ دیتے رہے پھر اس کے بعد حضرت عمرؓ نے (اپنے دربان) ریفاکو مجھے بلانے بھیجا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا میں خلیفہ بننے سے پہلے بھی یہی سمجھتا تھا کہ میرے لئے بیت المال سے اپنے حق سے زیادہ لینا جائز نہیں اور اب خلیفہ بننے کے بعد یہ مال میرے لئے اور زیادہ حرام ہو گیا ہے کیونکہ اب یہ میرے پاس بطور امانت ہے اور میں تمہیں اللہ کے مال میں سے ایک مہینہ خرچ دے چکا ہوں۔ اب تمہیں اس میں سے اور نہیں دے سکتا ہوں۔ ہاں میں تمہاری مدد اس طرح کر سکتا ہوں کہ غائبہ میں میرا جو باغ ہے۔ تم اس کا پھل کاٹ کر بیچ دو۔ پھر (اس کے پیسے لے کر) اپنی قوم کے کسی تاجر کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو جب وہ کوئی چیز خریدنے لگے تو تم اس کے ساتھ شراکت کر لو (اس سے جو نفع ہو، اس سے) خرچ لے کر اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے رہو۔ ۱

حضرت مالک بن اوس بن حدثان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس روم کے بادشاہ کا قاصد آیا۔ حضرت عمرؓ کی بیوی نے ایک دینار ادھار لے کر عطر خرید اور شیشیوں میں ڈال کر وہ عطر اس قاصد کے ہاتھ روم کے بادشاہ کی بیوی کو ہدیہ میں بھیج دیا۔ جب یہ قاصد بادشاہ کی بیوی کے پاس پہنچا اور اسے وہ عطر دیا تو اس نے وہ شیشیاں خالی کر کے جواہرات سے بھر دیں اور قاصد سے کہا جاؤ یہ حضرت عمر بن خطابؓ کی بیوی کو دے آؤ۔ جب یہ شیشیاں حضرت عمرؓ کی بیوی کے پاس پہنچیں تو انہوں نے شیشیوں سے وہ جواہرات نکال کر ایک چھوٹے پر رکھ دیئے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطابؓ گھر آگئے اور انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان کی بیوی نے ان کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمرؓ نے وہ تمام جواہرات لے کر

۱ اخراجہ ابن سعد و ابن شیبہ و ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۴ ص ۶۸)

۲ اخراجہ ابن سعد و ابو عبید فی الا موال کذا فی المنتخب (ج ۴ ص ۶۸)

بیچ دیئے اور ان کی قیمت میں سے صرف ایک دینار اپنی بیوی کو دیا اور باقی ساری رقم مسلمانوں کے لئے بیت المال میں جمع کرا دی۔ ۱

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے کچھ لونٹ خریدے اور ان کو بیت المال کی چراگاہ میں چھوڑ آیا۔ جب وہ خوب موٹے ہو گئے تو میں انہیں (بیچنے کے لئے بازار) لے آیا۔ اتنے میں حضرت عمرؓ بھی بازار تشریف لے آئے اور انہیں موٹے موٹے لونٹ نظر آئے تو انہوں نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں۔ لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ہیں تو فرمانے لگے اے عبداللہ بن عمر! واہ واہ! امیر المؤمنین کے بیٹے کے کیا کہنے! میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! کیا بات ہے آپ نے فرمایا یہ لونٹ کیسے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نے یہ لونٹ خریدے تھے اور بیت المال کی چراگاہ میں چرنے کے لئے بھیجے تھے۔ (اب میں ان کو بازار لے آیا ہوں) تاکہ میں دوسرے مسلمانوں کی طرح انہیں بیچ کر نفع حاصل کروں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں بیت المال کی چراگاہ میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے امیر المؤمنین کے بیٹے کے لونٹوں کو چراؤ اور امیر المؤمنین کے بیٹے کے لونٹوں کو پانی پلاؤ (میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے تمہارے لونٹوں کی زیادہ رعایت کی ہوگی اس لئے) اے عبداللہ بن عمرؓ! ان لونٹوں کو بچھو اور تم نے جتنی رقم میں خریدے تھے وہ تو تم لے لو اور باقی زائد رقم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دو۔ ۲

حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ کے سسرال والوں میں سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت عمرؓ سے اشارہ کنایہ میں یہ بات کہی کہ حضرت عمرؓ ان کو بیت المال میں سے کچھ دے دیں تو حضرت عمرؓ نے انہیں ڈانٹ دیا اور فرمایا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سامنے خائن بادشاہ بن کر پیش ہوں اور اس کے بعد انہیں اپنے ذالی مال میں سے دس ہزار درہم دیئے۔ ۳

حضرت عتھرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں (کوفہ کے محلہ) خورنق میں حضرت علی بن ابی طالبؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ایک پرانی چادر لوڑھ رکھی تھی اور آپ سردی کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ نے (بیت المال کے) اس مال میں آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا بھی حصہ رکھا ہے (پھر بھی آپ کے پاس

۱ اخرجہ الدینوری فی المجالسة کذا فی منتخب الکنز (ج ۴ ص ۴۲۲)

۲ اخرجہ سعید بن منصور و ابن ابی شیبہ والبیہقی کذا فی المنتخب (ج ۴ ص ۴۱۹)

۳ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۱۹) کذا فی کنز العمال (ج ۲ ص ۳۱۷)

سردی سے چنے کا کوئی انتظام نہیں ہے) اور آپ سردی سے کانپ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم! میں تمہارے مال میں سے کچھ نہیں لینا چاہتا ہوں اور یہ پرانی چادر بھی وہ ہے جو میں اپنے گھر مدینہ منورہ سے لایا تھا۔

## مال واپس کرنا

حضور ﷺ کا اس مال کو قبول نہ کرنا جو آپ کو پیش کیا گیا

حضرت لمن عباسؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اپنے نبی ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ اس فرشتے کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ اس فرشتہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو دو باتوں میں اختیار دے رہے ہیں چاہے آپ ہندگی والی نبوت اختیار فرمائیں چاہے بادشاہت والی۔ حضور ﷺ حضرت جبرائیل کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے گویا کہ آپ ان سے مشورہ لے رہے ہیں تو انہوں نے تواضع اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا میں تو ہندگی والی نبوت چاہتا ہوں۔ حضرت لمن عباسؓ فرماتے ہیں اس کے بعد حضور ﷺ نے وفات تک کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔

حضرت لمن عباسؓ فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام صفا پہاڑی پر تھے آپ نے فرمایا اے جبرائیل! اس ذات کی قسم جس نے تمہیں حق دے کر بھیجا ہے! شام کو محمد ﷺ کے اہل و عیال کے پاس نہ ایک پھسکی آنا تھا اور نہ ایک مٹھی ستو۔ آپ کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے آسمان سے دھماکہ کی ایسی زور دار آواز سنی جس سے آپ گھبرا گئے۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کیا اللہ نے قیامت قائم ہونے کا حکم دے دیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سنتے ہی اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور وہ اتر کر آپ کے پاس آئے ہیں چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا آپ نے جو بات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہی وہ اللہ تعالیٰ نے سنی اور اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چلیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں کہ آپ اگر کہیں تو میں

۱) اخرجہ ابو عبیدہ کذا فی البدایة (ج ۸ ص ۳) واخرجه ايضا ابو نعيم في الحلية (ج ۱ ص

۸۲) عن هارون بن عنترة عن ابيه نحوه ۲) اخرجه يعقوب بن سفيان وهكذا

رواه البخاری فی التاريخ والنسائی کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۴۸)



تمامہ کے پہاڑوں کو زبرد، یا قوت، سونے اور چاندی کا بنا دوں اور یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلا کریں۔ اب آپ فرمائیں آپ باو شاہت والی نبوت چاہتے ہیں یا بندگی والی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تواضع اختیار کرنے کا اشارہ کیا تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا نہیں میں بندگی والی نبوت چاہتا ہوں۔<sup>۱</sup>

حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میرے رب نے مجھ پر یہ بات پیش فرمائی کہ میرے لئے مکہ کے پتھر لے میدان کو سونے کا بنا دیا جائے۔ میں نے عرض کیا نہیں۔ اے میرے رب! میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا ہوں۔ آپ نے دو تین مرتبہ یہی کلمات ارشاد فرمائے تاکہ جب بھوک لگے تو میں آپ کے سامنے عاجزی کروں اور آپ کو یاد کروں اور جب پیٹ بھر کر کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں اور آپ کی تعریف کروں۔<sup>۲</sup>

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے محمد (ﷺ) آپ کے رب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے پتھر لے میدان آپ کے لئے سونے کے بنا دوں۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں حضور ﷺ نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر عرض کیا نہیں، اے میرے رب! میں یہ نہیں چاہتا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن سیر ہو کر کھاؤں تاکہ آپ کی تعریف کروں اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ آپ سے مانگوں۔<sup>۳</sup>

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں غزوہ اتراب (یعنی غزوہ خندق) میں ایک مشرک مارا گیا تو مشرکین نے حضور ﷺ کو یہ پیغام بھیجا کہ اس کی لاش ہمیں دے دو ہم آپ کو اس کے بدلہ میں بارہ ہزار دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہ اس کی لاش میں خیر ہے اور نہ اس کی قیمت میں (لہذا اس کی لاش کچھ لئے بغیر ہی دے دو) امام احمد نے اس روایت میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا اس کی لاش ان مشرکوں کو دیے ہی دے دو اس لئے کہ اس کی لاش بھی ناپاک ہے اور اس کی قیمت بھی ناپاک ہے۔ چنانچہ آپ نے ان سے کچھ نہیں لیا (اور لاش ان کو ویسے ہی دے دی)۔<sup>۴</sup>

۱۔ عند الطبرانی باسناد حسن و البیہقی کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۵۷) وقال البیہقی (ج ۱۰ ص ۳۱۵) رواہ الطبرانی فی الاوسط و فیہ سعدان بن الولید ولم اعرفہ و بقیۃ رجالہ رجال الصحیح النہی۔  
 ۲۔ عند الترمذی وحسنہ کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۵۰)  
 ۳۔ عند العسکری کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۳۹)  
 ۴۔ اخرجہ البیہقی واخرجہ الترمذی ایضا وقال غریب کذا فی البدایۃ (ج ۴ ص ۱۰۷)

حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غزوہ خندق کے دن نوفل یا فلن نوفل اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ گھوڑا گر پڑا جس سے نوفل مر گیا تو (کافروں کے سردار) ابو سفیان نے حضور ﷺ کی خدمت میں اس کی لاش کے بدلہ میں سوا اونٹ بھیجے۔ آپ نے انکار فرمایا اور فرمایا اس کی لاش لے جاؤ۔ اس کا بدلہ بھی ناپاک ہے اور وہ خود بھی ناپاک ہے۔  
 حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حکیم بن حزامؓ یمن گئے اور انہوں نے وہاں (حیمیر کے نواب) ذوزین کا جوڑا خریدا اور اسے لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں مدینہ آئے اور حضور ﷺ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ حضور ﷺ نے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا ہم کسی مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے (اس وقت تک حضرت حکیم مسلمان نہیں ہوئے تھے) چنانچہ حضرت حکیم اسے فروخت کرنے لگے تو حضور ﷺ نے اسے خرید لینے کا حکم فرمایا تو وہ جوڑا آپ کے لئے خریدا گیا۔ آپ اسے پہن کر مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت حکیم فرماتے ہیں اس جوڑے میں حضور ﷺ بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے اور میں نے اس جوڑے میں حضور ﷺ سے زیادہ خوبصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے چودھویں کا چاند! دیکھتے ہی بے اختیار یہ اشعار میری زبان پر آ گئے۔

مانظر الحکام بالحکم بعدما

بدا واصنع و غرة وحجول

جب ایک روشن اور چمکدار ایسی ہستی (یعنی رسول پاک علیہ السلام) ظاہر ہو گئی ہے جس کا چہرہ، ہاتھ اور پیر سبھی چمک رہے ہیں تو اب اس کے بعد حکام حکم دینے کے بارے میں سوچ کر کیا کریں گے؟ (یعنی اب تو حضور ﷺ کی مائی جائے گی ان حاکموں کی نہیں)

اذا قابسوه المجد اری علیہم

کمستفرغ ما الذناب سجیل

جب یہ حکام بزرگی اور شرافت میں ان کا مقابلہ کریں گے تو یہ ان سے بڑھ جائیں گے کیونکہ ان پر بزرگی اور شرافت ایسے کثرت سے بہائی گئی ہے جیسے کسی پر پانی سے بھرے ہوئے بڑے بڑے ڈول ڈالے گئے ہوں۔

یہ سن کر حضور ﷺ مسکرانے لگے۔

۱ عند ابن ابی شیبۃ کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۸۱) ۲ اخرجہ ابن جریر کذا فی الكنز (ج

۳ ص ۱۷۷) و اخرجہ الطبرانی عن حکیم بن حزم بنحوہ کما فی المجموع (ج ۸ ص ۲۷۸)

وقال وفيه يعقوب بن محمد الزهري وضعفه الجمهور وقد وثق. انتهى

حضرت حکیم بن حزامؓ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ہی مجھے حضرت نبی کریم ﷺ سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ پھر آپ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور مدینہ تشریف لے گئے تو میں موسم حج میں یمن گیا وہاں مجھے (حمیر کے نواب) ذی یزن کا جوڑا پچاس درہم میں بچتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اسے حضور ﷺ کو ہدیہ دینے کی نیت سے خرید لیا اور میں وہ جوڑا لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں (مدینہ منورہ) حاضر ہوا اور میں نے بہت کوشش کی کہ آپ اسے لے لیں لیکن آپ نے انکار کر دیا اور آپ نے فرمایا ہم مشرکوں سے کچھ نہیں لیتے (اور تم مشرک ہو) لیکن اگر تم چاہو تو ہم قیمت دے کر تم سے یہ خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے قیمت لے کر وہ جوڑا حضور ﷺ کو دے دیا۔ پھر میں نے ایک دن دیکھا کہ آپ ﷺ منبر پر تشریف فرما ہیں اور آپ نے وہ جوڑا پہنا ہوا ہے۔ آپ اس جوڑے میں اتنے حسین نظر آرہے تھے کہ میں نے اتنا حسین کبھی کو نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے وہ جوڑا حضرت اسامہ بن زیدؓ کو دے دیا میں نے وہ جوڑا جب اسامہؓ کو پہنے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا اے اسامہؓ! تم نے ذی یزن (نواب) کا جوڑا پہن رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ میں ذی یزن سے بھڑ ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے اور میری ماں اس کی ماں سے بھڑ ہے۔ پھر میں مکہ مکرمہ آ گیا اور انہیں حضرت اسامہؓ کی بات سنائی جس سے وہ سب بڑے حیران ہوئے (کہ غلام کا بیٹا ہو کر بھی خود کو اور اپنے مال باپ کو اسلام کی وجہ سے نوبیوں سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے)۔

حضرت عبداللہ بن بریرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے چچا عامر بن طفیل عامری نے مجھے یہ قصہ سنایا کہ عامر بن مالک نے حضور ﷺ کی خدمت میں ایک گھوڑا ہدیہ میں بھیجا اور یہ لکھا کہ میرے پیٹ میں ایک پھوڑا ہے اپنے پاس سے اس کی دوا بیچ دیں۔

عامر بن طفیل کہتے ہیں حضور ﷺ نے گھوڑا لو اپس کر دیا کیونکہ عامر بن مالک مسلمان نہیں تھے اور ان کو ہدیہ میں شہد کی ایک کپی بھیجی اور فرمایا اس سے اپنا علاج کر لو۔

حضرت کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ملاعب الاسنہ (تیزوں کا کھلاڑی یہ عامر بن مالک کا لقب ہے) حضور ﷺ کی خدمت میں کچھ ہدیہ لے کر آیا۔ حضور ﷺ نے اس پر اسلام پیش کیا لیکن اس نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا تو حضور ﷺ نے فرمایا میں کسی مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کر سکتا۔

۱ عند الخاکم (ج ۳ ص ۸۴) قال الحاکم وهذا حدیث صحیح الا سناد ولم یخرجاه وقال

الذہبی صحیح ۲ اخرجه ابن عساکر

۳ عند ابن عساکر ایضا کذا فی کنز العمال (ج ۳ ص ۱۷۷)

حضرت عیاض بن حمار مجاشعی فرماتے ہیں کہ انہوں نے لونٹنی یا کوئی اور جانور حضور ﷺ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ہدیہ لینے سے منع فرمایا ہے۔

## حضرت ابو بکر صدیق کا مال واپس کرنا

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں میں بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا سب سے بڑی عقل مندی تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ پھر آگے اور حدیث ذکر کی جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ اگلے دن صبح کو حضرت ابو بکر بازار جانے لگے تو ان سے حضرت عمرؓ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بازار۔ حضرت عمرو نے کہا اب آپ پر اتنی بڑی ذمہ داری (خلافت کی وجہ سے) آگئی ہے کہ جس کی وجہ سے اب آپ بازار نہیں جاسکتے (سارا وقت خلافت کی ذمہ داریوں میں لگائیں گے تو پھر یہ ذمہ داریاں پوری ہو سکیں گی) حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا سبحان اللہ! اتنا لگنا پڑے گا کہ اہل و عیال کے لئے کمانے کا وقت نہ بچے (تو پھر انہیں کہاں سے کھلاؤں گا) حضرت عمرؓ نے کہا ہم (آپ کے لئے اور آپ کے اہل و عیال کے لئے بیت المال میں سے) مناسب مقدار میں وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا عمرؓ کا ناس ہو! مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے اس مال میں سے کچھ لینے کی گنجائش نہ ہو۔ چنانچہ (مشورہ سے ان کا وظیفہ مقرر ہو اور) انہوں نے دو سال سے زائد عرصہ (خلافت) میں آٹھ ہزار درہم لئے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو فرمایا میں نے عمرؓ سے کہا تھا مجھے ڈر ہے کہ مجھے اس مال میں سے لینے کی گنجائش بالکل نہیں ہے لیکن عمرؓ اس وقت مجھ پر غالب آگئے اور مجھے ان کی بات مان کر بیت المال میں سے وظیفہ لینا پڑا لہذا جب میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے آٹھ ہزار لے کر بیت المال میں واپس کر دینا۔ چنانچہ جب وہ آٹھ ہزار (حضرت ابو بکرؓ کے انتقال کے بعد) حضرت عمرؓ کے پاس لائے گئے تو آپ نے فرمایا اللہ ابو بکرؓ پر رحم فرمائے! انہوں نے اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال دیا (کہ آوی اپنی ساری جان اور سارا مال دین پر لگا دے اور دنیا میں کچھ نہ لے)۔

حضرت ابو بکر بن حفص بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عائشہؓ حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں آئیں اس وقت آپ کو نزع کی تکلیف ہو رہی تھی اور آپ کا سانس سہنے میں تھا۔

۱۔ اخرجه ابو داؤد و الترمذی و صححه ابن جریر و البيهقي كذا في الكنز (ج ۳ ص ۱۷۷)

۲۔ اخرجه البيهقي (ج ۶ ص ۳۵۳)

یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہؓ نے یہ شعر پڑھا:

لعمرك ما يغني الغراء عن الفتى

اذا حشر جت يوما وضاق بها الصدر

تیری جان کی قسم! مال اور قوم کی کثرت نوجوان کو اس دن کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ جس دن سانس اکھڑنے لگے اور سینہ گھٹنے لگے۔ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عائشہؓ کی طرف غصہ سے دیکھا اور فرمایا اے ام المومنین! یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو وہ حالت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (سورت ق: آیت ۱۹)

ترجمہ: ”اور موت کی سختی (قریب) آ پہنچی۔ یہ (موت) وہ چیز ہے جس سے تو بدگمان تھا۔“ میں نے تمہیں ایک باغ دیا تھا لیکن میرا دل اس سے مطمئن نہیں اس لئے تم اسے میری میراث میں واپس کر دو۔ میں نے کہا بہت اچھا اور پھر میں نے وہ باغ واپس کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا ہم جب سے مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں ہم نے مسلمانوں کا نہ کوئی دینار کھایا ہے اور نہ کوئی درہم۔ البتہ ان کا موٹا جھوٹا کھانا ضرور کھایا ہے اور ایسے ہی ان کے موٹے اور کھر درے کپڑے ضرور پہنے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے اور تو کچھ نہیں ہے البتہ یہ تین چیزیں ہیں ایک حبشی غلام اور دوسرا پانی والا لونٹ اور تیسرے پرانی لوہی چادر۔ جب میں مر جاؤں تو یہ تینوں چیزیں حضرت عمرؓ کے پاس بھیج دینا! اور ان کی ذمہ داری سے مجھے فارغ کر دینا۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ نے ایسا ہی کیا۔ جب قاصد وہ چیزیں لے کر حضرت عمرؓ کے پاس آیا تو وہ رونے لگے اور اتنے روئے کہ ان کے آنسو زمین پر گرنے لگے اور وہ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ ابو بکرؓ پر رحم فرمائے۔ انہوں نے اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ (دنیا میں کچھ نہ لینے کا ایسا اونچا معیار قائم کیا ہے کہ بعد والوں کے لئے اسے اختیار کرنا بہت مشکل ہے) اے غلام! ان چیزوں کو اٹھا کر رکھ لو۔ اس پر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کہا سبحان اللہ! آپ حضرت ابو بکرؓ کے اہل و عیال سے حبشی غلام، پانی والا لونٹ اور پرانی لوہی چادر جس کی قیمت پانچ درہم ہے چھین رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبدالرحمنؓ نے کہا آپ یہ چیزیں ابو بکرؓ کے اہل و عیال کو واپس کر دیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں اس ذات کی قسم ہے جس نے حضرت محمد ﷺ کو حق دے کر بھیجا! یہ میرے زمانہ خلافت میں نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکرؓ تو موت کے وقت ان چیزوں سے جاں چھڑا کر گئے اور میں یہ چیزیں ان کے اہل و عیال کو واپس کروں اور موت اس سے

بھی زیادہ قریب ہے (یعنی میں واپس کروں گا تو یہ خوش ہو جائیں گے لیکن اللہ ناراض ہو جائیں گے اس لئے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مجھے بھی دنیا سے جانا ہے تو وہاں جا کر یو بجز کو کیا منہ دکھاؤں گا!)

## حضرت عمر بن خطابؓ کا مال واپس کرنا

حضرت عطاء بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور اقدس ﷺ نے حضرت عمر بن خطابؓ کو ایک عطیہ بھیجا۔ حضرت عمرؓ نے اسے واپس کر دیا۔ حضور ﷺ نے ان سے پوچھا تم نے یہ کیوں واپس کیا؟ حضرت عمرؓ نے عرض کیا آپ نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی سے کچھ نہ لیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا میرا مقصد یہ تھا کہ مانگ کر نہ لیا جائے اور جو بغیر مانگے مل رہا ہو تو وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اسے لے لینا چاہئے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! آپ کے بعد میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا اور جو بغیر مانگے آئے گا اسے ضرور لوں گا۔

حضرت لئن عمرؓ فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کی بیوی حضرت عاتکہ بنت زید بن عمرو بن نفیلؓ کو ایک ہتھوٹا ہدیہ میں بھیجا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ لبا لور ایک بالشت چوڑا ہو گا۔ حضرت عمرؓ ان کے پاس آئے اور وہ ہتھوٹا دیکھا تو پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مجھے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے ہدیہ کیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اسے اٹھایا اور اس زور سے ان کے سر پر مارا کہ ان کے سر کے بال کھل گئے اور پھر فرمایا کہ ابو موسیٰ کو فوراً جلدی سے میرے پاس لاؤ (یعنی دوڑاتے ہوئے اتنی جلدی لاؤ کہ وہ تھک جائیں چھٹا نچوڑے وہ بڑی تیزی سے چلتے ہوئے حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور آتے ہی انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ میرے بارے میں جلدی نہ کریں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم میری عورتوں کو ہدیہ کیوں دیتے ہو؟ پھر وہ ہتھوٹا اٹھا کر ان کے سر پر مارا اور فرمایا اسے لے جاؤ ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔

حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں (اسکندر یہ کے بادشاہ) مقوقس نے حضرت عمرو بن عاصؓ سے کہا کہ وہ مقطم پہاڑ کا دامن ستر ہزار دینار میں اسے بیچ دیں۔ اتنی زیادہ قیمت

۱۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۹۶) ۲۔ اخراجہ مالک ہکذا رواہ مالک مرسل اور واہ البیہقی عن زید بن اسلم عن ابیہ قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فذکرہ بنحوہ کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۱۱۸) ۳۔ اخراجہ ابن سعد و ابن عساکر کذا فی منتخب الكنز (ج ۴ ص ۳۸۳)

سن کر حضرت عمرؓ بہت حیران ہوئے اور مقوقس سے کہا میں اس بارے میں امیر المؤمنین کو خط لکھ کر پوچھوں گا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے حضرت عمرؓ کو اس بارے میں خط لکھا۔ حضرت عمرؓ نے جواب میں یہ لکھا کہ اس سے پوچھو وہ تمہیں اتنی زیادہ قیمت کیوں دے رہا ہے حالانکہ وہ زمین نہ کاشت کے قابل ہے اور نہ اس سے پانی نکالا جاسکتا ہے اور نہ وہ کسی اور کام آسکتی ہے؟ حضرت عمرؓ نے مقوقس سے پوچھا تو اس نے کہا ہمیں اپنی آسمانی کتابوں میں اس جگہ کی یہ فضیلت ملی ہے کہ اس میں جنت کے درخت ہیں۔ حضرت عمرؓ نے یہ بات حضرت عمرؓ کو لکھی۔ حضرت عمرؓ نے انہیں جواب میں لکھا ہم تو صرف یہی جانتے ہیں کہ جنت کے درخت صرف مومنوں کو ملیں گے لہذا تم اس زمین میں اپنے ہاں کے مسلمانوں کو دفنایا کرو، اور اسے قبرستان بنا لو اور کسی قیمت پر اسے مت چھو۔

### حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مال واپس کرنا

حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رمادہ والے سال (سن ۸ھ میں حجاز میں زبردست قحط پڑا تھا جو نو ماہ رہا تھا۔ اس سال کو عام الرمادہ یعنی راکھ والا سال کہا جاتا ہے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے مٹی راکھ کی طرح ہو گئی تھی۔ رنگ بھی ایسا ہو گیا تھا اور راکھ کی طرح اڑتی تھی) عربوں کا سارا علاقہ قحط کی لپیٹ میں آ گیا تھا اس وقت حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت عمرو بن عاصؓ کو خط لکھا۔ آگے اور حدیث ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کو بلایا اور قحط زدہ لوگوں میں غلہ وغیرہ تقسیم کرنے کے لئے بھیجا جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آئے تو حضرت عمرؓ نے ان کے پاس ایک ہزار دینار بھیجے۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے کہا اے ابن خطاب! میں نے آپ کے لئے یہ کام نہیں کیا تھا بلکہ صرف اللہ کے لئے کیا تھا اور میں اس کام پر کچھ نہیں لوں گا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا حضور ﷺ ہمیں بہت سے کاموں کے لئے بھیجا کرتے تھے اور واپسی پر ہمیں کچھ دیا کرتے تھے تو ہمارا لینے کو بالکل دل نہیں چاہتا تھا۔ حضور ﷺ ہمیں فرماتے ہیں انکار نہ کرو۔ اے آدمی! اسے لے لو اور اسے اپنے دینی یا دنیاوی کاموں میں خرچ کر لو۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ نے وہ ہزار درہم لے لئے۔

۱۔ اخراجہ ابن عبدالحاکم کذا فی کنز العمال (ج ۳ ص ۱۵۲)

۲۔ اخراجہ البیہقی (ج ۶ ص ۳۵۴) و اخراجہ ایضاً ابن خزیمہ و الحاکم نحوہ عن اسلم کما فی

منتخب الكنز (ج ۴ ص ۳۹۶)

## حضرت سعید بن عامرؓ کا مال واپس کرنا

حضرت عبداللہ بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت سعید بن عامرؓ کو ایک ہزار دینار دیئے چاہے تو حضرت سعید بن عامرؓ نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو اسے دے دیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ذرا ٹھہرو تو سہی (انکار میں جلدی نہ کرو) میں تمہیں اس بارے میں حضور ﷺ کا ارشاد مبارک سناتا ہوں پہلے اسے سن لو۔ پھر دل چاہے تو لے لینا اور نہ نہ لینا۔ حضور ﷺ نے ایک دفعہ مجھے کوئی چیز عنایت فرمائی تو میں نے انکار میں وہی بات کہی جو تم اب کہہ رہے ہو تو حضور ﷺ نے فرمایا جسے کوئی چیز بغیر سوال اور لالچ کے ملے تو یہ اللہ کی عطا ہے اسے چاہئے کہ وہ اسے لے لے اور واپس نہ کرے۔ حضرت سعیدؓ نے کہا کیا آپ نے یہ بات خود حضور ﷺ سے سنی ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت سعیدؓ نے وہ دینار لے لئے حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے حضرت سعید بن عامرؓ کو ہدیہ سے پوچھا کیا بات ہے اہل شام تم سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ (یہ حضرت سعیدؓ شام میں گورنر رہے تھے) حضرت سعیدؓ نے کہا میں ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں اور ان کے ساتھ غم خواری کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمرو نے ان کو دس ہزار دیئے انہوں نے وہ واپس کر دیئے اور یوں کہا میرے پاس بہت سے غلام اور گھوڑے ہیں اور میری حالت اچھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں (گورنری کا) جو کام کر رہا ہوں یہ سب مسلمانوں پر صدقہ ہو یعنی اس کام کو کرنے کے بعد مسلمانوں کے بیت المال میں سے کچھ نہ لوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم ایسا نہ کرو کیونکہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے مجھے دس ہزار سے کم مال دیا تھا جب اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر سوال اور طلب کے دے رہے ہیں تو اسے لے لو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے جو وہ تمہیں دے رہے ہیں حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک صاحب شام والوں کو بہت پسند تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا شام والے تم سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں انہیں ساتھ لے کر غزوہ کرتا ہوں اور ان کے ساتھ غم خواری کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے ان کو دس ہزار پیش کئے اور فرمایا یہ لے لو اور ان کو اپنے غزوہ میں کام لے آنا۔ انہوں نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں اور آگے چھپلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ ۳

۱۔ اخرجه الناشی وابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۳۲۵) ۲۔ عند الحاكم (ج ۳ ص

۲۸۶) ۳۔ عند البيهقي وابن عساکر کما فی الکنز (ج ۳ ص ۳۲۵)



## حضرت عبداللہ بن سعدؓ کا مال واپس کرنا

حضرت عبداللہ بن سعدؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطابؓ کے زمانہ خلافت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھ سے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ تم پر مسلمانوں کے بہت سے اجتماعی کاموں کی ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں۔ تم وہ کام کر دیتے ہو لیکن بعد میں جب ان کاموں پر تمہیں کچھ دیا جاتا ہے تو تم برا مناتے ہو اور نہیں لیتے ہو۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہ لینے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس بہت سے گھوڑے اور غلام ہیں اور میری معاشی حالت اچھی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں میری خدمات کا معاوضہ مسلمانوں پر صدقہ ہو اور میں انکے مال میں سے کچھ نہ لوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ایسا مت کرو کیونکہ شروع میں میری بھی یہی نیت تھی جو تم نے کر رکھی ہے۔ اور حضور ﷺ مجھے کچھ عطا فرمایا کرتے تو میں کہہ دیا کرتا تھا مجھ سے زیادہ ضرورت مند کو دے دیں چنانچہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے مجھے کچھ دینا چاہا۔ میں نے اپنے معمول کے مطابق کہہ دیا مجھ سے زیادہ ضرورت مند کو دے دیں تو آپ نے فرمایا ارے میاں یہ لے لو۔ پھر چاہے اپنے پاس رکھ لینا یا صدقہ کر دینا کیونکہ جو مال از خود آئے نہ تم نے اسے مانگا ہو اور نہ طبیعت میں اس کی طلب ہو تو اسے لے لیا کرو اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو اپنے آپ کو اس کے پیچھے مت لگاؤ (یعنی زبان سے مانگو مت۔ اور دل میں اس کی طلب ہو اور وہ آئے تو اسے لومت)۔ حضرت عبداللہ بن سعدؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ نے مجھے صدقات وصول کرنے پر مقرر کیا۔ میں نے صدقات وصول کر کے حضرت عمرؓ کو دے دیئے تو انہوں نے مجھے میری اس خدمت کا معاوضہ دینا چاہا۔ اس پر میں نے کہا میں نے تو یہ کام صرف اللہ کے لئے کیا ہے اور اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا جو میں تمہیں دے رہا ہوں اسے لے لو کیونکہ میں بھی حضور ﷺ کے زمانے میں یہ صدقات وصول کرنے کا کام کیا تھا تو آپ نے اس پر مجھے کچھ دینا چاہا۔ میں نے بھی وہی بات کہی تھی جو تم کہہ رہے ہو تو حضور ﷺ نے فرمایا تھا جب میں تمہیں کوئی چیز مانگے بغیر دیا کروں تو اسے لے کر یا خود کھا لیا کرو یا دوسروں پر صدقہ کر دیا کرو (جمع نہ کیا کرو)۔

## حضرت حکیم بن حزام کا مال واپس کرنا

حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ﷺ نے جنگ حنین کے دن حضرت حکیم بن حزام کو کچھ عطا فرمایا انہوں نے اسے کم سمجھا (اور حضور ﷺ سے اور مانگا) حضور ﷺ نے انہیں اور دے دیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے مجھے دوسرے دیا ہے ان دونوں میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا پہلا (جو بن مانگے ملا تھا) اے حکیم بن حزام! یہ مال سر سبز اور میٹھی چیز ہے (جو دیکھنے میں خوش نما اور کھانے میں مزیدار لگتا ہے) جو اسے دل کی سخاوت کے ساتھ لے گا (یعنی دینے والا بھی دل کی خوشی سے دے اور لینے والا بھی لے کر جمع کرنے کی طبیعت والا نہ ہو بلکہ دوسروں کو دینے کا مزاج رکھتا ہو اور استغناء والا ہو) اور اسے اچھے طریقہ سے استعمال کرے گا اس کے لئے اس مال میں برکت دی جائے گی اور جو دل کے لالچ کے ساتھ لے گا اور اسے بری طرح استعمال کرے گا اس کیلئے اس مال میں برکت نہیں ہوگی اور یہ اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جو مسلسل کھاتا جا رہا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اوپر والا ہاتھ (یعنی دینے والا ہاتھ) نیچے والے ہاتھ (یعنی لینے والے ہاتھ) سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ سے مانگنے میں بھی یہی بات ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں۔ مجھ سے مانگنے میں بھی حضرت حکیم نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھجا ہے! اب آپ کے بعد کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں لوں گا۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت حکیم نے نہ تو مقررہ وظیفہ قبول کیا اور نہ عطیہ یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا اور (جب وہ نہ لیا کرتے تو) حضرت عمرؓ فرمایا کرتے اے اللہ! میں تجھے اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ حکیم بن حزام کو بلاتا ہوں تاکہ وہ اس مال سے اپنا حصہ لے لیں لیکن وہ ہمیشہ انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت حکیمؓ حضرت عمرؓ کو یہی کہا کرتے اللہ کی قسم! میں نے نہ آپ سے کچھ لینا ہے اور نہ آپ کے علاوہ کسی اور سے۔

حضرت حکیم بن حزامؓ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ سے مانگا حضور ﷺ نے عطا فرمایا میں نے پھر مانگا حضور ﷺ نے پھر عطا فرمایا میں نے پھر تیسری مرتبہ مانگا۔ حضور ﷺ نے پھر عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا اے حکیم! یہ مال سر سبز اور میٹھی چیز ہے پھر پچھل حدیث جیسا مضمون ذکر کیا اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضرت ابو بکرؓ حضرت حکیمؓ کو کچھ دینے کے لئے بلایا کرتے تو یہ انکار کر دیتے پھر حضرت عمرؓ نے حضرت حکیمؓ کو کچھ دینے کے لئے بلایا تو

انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت! میں آپ لوگوں کو اس بات پر گواہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت میں حضرت حکیمؓ کا جو حصہ مقرر کیا ہے وہ حصہ میں نے ان کو پیش کیا ہے لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے چنانچہ حضرت حکیمؓ نے حضور ﷺ کے بعد اپنی وفات تک کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں لیا۔ حضرت عمروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حکیم بن حزامؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے ان کی وفات تک کچھ قبول نہیں کیا اور ایسے ہی حضرت عمرؓ سے ان کی وفات تک کچھ قبول نہیں کیا اور نہ حضرت عثمانؓ سے کچھ لیا اور نہ حضرت معاویہؓ سے۔ یہاں تک کہ ان کا اسی حال پر انتقال ہو گیا۔ ل

### حضرت عامر بن ربیعہؓ کا زمین واپس کرنا

حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک عربی شخص حضرت عامر بن ربیعہؓ کا مہمان بنا۔ انہوں نے اس کی خوب خاطر تواضع کی اور اکرام کیا اور ان کے بارے میں حضور ﷺ سے (سفر اش کی) بات بھی کی۔ وہ آدمی (حضور ﷺ کے پاس سے) حضرت عامرؓ کے پاس آیا اور کہا میں نے حضور ﷺ سے ایک ایسی وادی بطور جاگیر مانگی تھی کہ پورے عرب میں اس سے اچھی وادی نہیں ہے (حضور ﷺ نے وہ مجھے عطا فرمادی ہے) اب میں چاہتا ہوں کہ اس وادی کا ایک ٹکڑا آپ کو دے دوں جو آپ کی زندگی میں آپ کا ہو اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کا۔ حضرت عامرؓ نے کہا مجھے تمہارے اس ٹکڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جس نے ہمیں دنیا ہی بھلا دی ہے اور وہ سورت یہ ہے: اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ. (سورت انبیاء آیت ۱)

ترجمہ: ”ان (منکر) لوگوں سے ان کا (وقت) حساب نزدیک آپنچا اور یہ (ابھی) غفلت (ہی) میں (پڑے ہیں اور اعراض) کئے ہوئے ہیں۔“ ل

### حضرت ابو ذر غفاریؓ کا مال واپس کرنا

حضرت ابو ذر غفاریؓ کے بھتیجے حضرت عبد اللہ بن صامتؓ فرماتے ہیں میں اپنے چچا (حضرت ابو ذرؓ) کے ساتھ حضرت عثمانؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے چچا نے حضرت

۱۔ عند الشیخین کذا فی الترغیب (ج ۲ ص ۱۰۱) وقال رواہ البخاری و مسلم و الترمذی

و النسائی باختصار اه ۲۔ عند الحاکم (ج ۳ ص ۸۳) ۴۔

۳۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۷۹)

عثمانؓ سے کہا مجھے ربذہ بستی میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے اور ہم آپ کے لئے صدقہ کے کچھ لونٹ مقرر کر دیتے ہیں جو صبح شام آپ کے پاس آجایا کریں گے (آپ ان کا دودھ استعمال کر لیا کریں) میرے چچانے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ ابو ذرؓ کو اس کے لونٹوں کا چھوٹا سا گلہ ہی کافی ہی۔ پھر کھڑے ہو گئے اور یہ کہا تم اپنی دنیا میں خوب لگے رہو اور ہمیں اپنے رب اور دین کے لئے چھوڑ دو۔ اس وقت یہ لوگ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی میراث تقسیم کر رہے تھے اور حضرت عثمانؓ کے پاس حضرت کعبؓ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عثمانؓ نے حضرت کعبؓ سے پوچھا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اتنا مال جمع کیا؟ یہ (عبدالرحمن بن عوف) اس میں سے زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے اور نیکی کے تمام کاموں میں بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت کعبؓ نے کہا مجھے تو اس آدمی کے بارے میں خیر ہی کی امید ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو ذرؓ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے حضرت کعبؓ پر لاٹھی اٹھا کر کہا او یہودی عورت کے بیٹے تھے کیا خبر؟ اس مال والا قیامت کے دن اس بات کی ضرورت تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں مجھو اس کے دل کے نازک ترین حصہ کو ڈنک مار لیتے (اور وہ اتنا مال پیچھے چھوڑ کر نہ مرتابکہ سارا مال صدقہ کر دیتا) حضرت ابو شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی حضرت ابو ذرؓ کے پاس آیا اور انہیں کچھ خرچہ دینا چاہا۔ حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا ہمارے پاس کچھ بخریاں ہیں جن کا دودھ نکال کر ہم استعمال کر لیتے ہیں، اور سواری اور مال برداری کے لئے کچھ گدھے ہیں اور ایک آزاد کردہ باندی ہے جو ہماری خدمت کرتی ہے اور کپڑوں میں ضرورت سے زائد ایک چرخہ بھی ہے مجھے ڈر ہے کہ ضرورت سے زائد رکھنے پر کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ لیا جائے۔

شام کے گورنر حضرت حبیب بن مسلمہؓ نے حضرت ابو ذرؓ کی خدمت میں تین سو دینار بچھے لوریوں کہا کہ انہیں اپنی ضرورت میں خرچ کر لیں۔ حضرت ابو ذرؓ نے لانے والے سے کہا یہ ان ہی کے پاس واپس لے جاؤ کیا انہیں ہمارے علاوہ کوئی اور نہ ملا جو اللہ کے بارے میں ہم سے زیادہ دھوکہ میں پڑا ہو (جو اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اس کے عذاب سے بے خوف ہو کر اس کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہو۔ حضرت ابو ذرؓ ضرورت سے زیادہ مال رکھنے کو بھی غلط سمجھتے تھے) ہمارے پاس سایہ میں بیٹھنے کے لئے ایک مکان ہے اور بخریوں کا ایک ریوڑ ہے جو شام کو آجاتا ہے اور ایک آزاد کردہ باندی ہے جو مفت میں ہماری خدمت کر دیتی ہے بس یہی

۱ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۶۰)

۲ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۶۳)

چیزیں ہمارے پاس ہیں اور کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے ضرورت سے زائد رکھنے کا ڈر لگا رہتا ہے! حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں حضرت حارث قریشی جو کہ شام میں رہا کرتے تھے ان کو یہ خبر پہنچی تو حضرت ابو ذرؓ کی تنگ دستی میں ہیں تو انہوں نے حضرت ابو ذرؓ کی خدمت میں تین سو دینار بیچ دیئے حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا اسے کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں ملا جو اس کے نزدیک مجھ سے زیادہ بے قیمت ہوتا۔ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے پاس چالیس درہم ہیں اور پھر وہ مانگے تو وہ لوگوں سے چٹ کر سوال کرنے والا ہے (اور اس سے اللہ و رسول ﷺ نے منع فرمایا ہے) اور ابو ذرؓ کے پاس چالیس درہم اور چالیس بھریاں اور دو خادم ہیں۔

## حضور ﷺ کے آزاد کردہ غلام

### حضرت ابو رافع کا مال واپس کرنا

نبی کریم ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا اے ابو رافع! تمہارا اس وقت کیا حال ہو گا جب تم فقیر ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا تو میں ابھی صدقہ کر کے اپنی آخرت کے لئے آگے نہ بھج دوں (بعد میں تو فقیر ہو جاؤں گا صدقہ کرنے کے لئے کچھ پاس نہ ہو گا) حضور ﷺ نے فرمایا ضرور۔ لیکن آج کل تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ میں نے کہا چالیس ہزار اور وہ میں سارے اللہ کے لئے صدقہ کرنا چاہتا ہوں حضور ﷺ نے فرمایا سارا نہیں، کچھ صدقہ کر دو، کچھ اپنے پاس رکھ لو، اور اپنی لولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! کیا ان کا بھی ہم پر اسی طرح حق ہے جس طرح ہمارا ان پر ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں۔ والد پر سچے کا حق یہ ہے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید سکھائے اور تیر اندازی اور تیراکی بھی سکھائے اور جب دنیا سے جائے تو ان کے لئے حلال پاکیزہ مال چھوڑ کر جائے۔ میں نے پوچھا میں کس زمانے میں فقیر ہو جاؤں گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا میرے بعد۔ ابو سلیم رلوی کہتے ہیں میں نے انہیں دیکھا کہ وہ حضور ﷺ کے بعد اتنے فقیر ہو گئے تھے کہ وہ بیٹھے ہوئے کہا کرتے تھے کوئی ہے جو بنا بیٹھا ہمارے پر صدقہ کرے۔ کوئی ہے جو اس آدمی پر صدقہ کرے جسے حضور ﷺ نے بتلایا تھا کہ وہ ان کے بعد فقیر ہو جائے گا

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۶۱)

۲۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۳۱) رجالہ رجال الصحیح غیر عبداللہ بن

احمد بن عبداللہ بن یونس و هو ثقة اہ و اخرجه ابو نعیم عن ابن سیرین نحوہ .

کوئی ہے جو صدقہ کرے کیونکہ اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے اور دینے والے کا ہاتھ درمیان میں ہے اور لینے والے کا ہاتھ سب سے نیچے ہے اور جو مالدار ہوتے ہوئے بغیر ضرورت کے سوال کرے گا تو اس کے جسم پر ایک بد نما داغ ہوگا جس سے وہ قیامت کے دن بچنا جائے گا اور مالدار کو اور طاقتور انسان کو جس کے جسم کے اعضاء ٹھیک ہوں صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ان کو چار درہم دیئے تو انہوں نے ان میں سے ایک درہم اسے واپس کر دیا تو اس آدمی نے کہا اے اللہ کے بندے! میرا صدقہ واپس نہ کرو۔ انہوں نے فرمایا میں نے اس لئے ایک درہم واپس کیا ہے کہ حضور ﷺ نے مجھے ضرورت سے زیادہ مال رکھنے سے منع فرمایا ہے (اور مجھے ضرورت تین کی ہے) ابو سلیم راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بعد میں اتنے مالدار ہو گئے تھے کہ عشر و صول کرنے والا ان کے پاس بھی آیا کرتا تھا لیکن وہ فرمایا کرتے کاش ابو رافع فقیری کی حالت میں مر جاتا (دوبارہ مالدار نہ بنتا) اور غلام کو جتنے میں خریدتے اتنے پر ہی اسے مکاتب بنا دیتے (غلام کو مکاتب بنانے کی صورت یہ ہے کہ مالک اپنے غلام سے یوں کہے کہ تم مجھے اتنا مال کما کر لا دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے)۔

### حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر صدیقؓ کا مال واپس کرنا

حضرت عبدالعزیز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کر دیا تو حضرت معاویہؓ نے ان کے پاس ایک لاکھ درہم بھجے حضرت عبدالرحمن نے انہیں واپس کر دیا اور لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں اپنا دین دنیا کے بدلہ میں بیچ دوں؟ اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔

### حضرت عبداللہ بن عمر فاروقؓ کا مال واپس کرنا

حضرت میمونؓ کہتے ہیں حضرت معاویہؓ نے حضرت عمرو بن عاصؓ کو چپکے سے اس ٹوہ میں لگایا کہ وہ یہ پتہ چلائیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے دل میں کیا ارادہ ہے؟ آیا وہ (یزید کی بیعت نہ کرنے اور خود خلیفہ بننے کے لئے) جنگ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو حضرت عمرو بن عاصؓ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کہا اے ابو عبدالرحمن! (یہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۸۴) ۲۔ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۴۷۶)

عن ابراهيم بن محمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابيه

عن جده و اخرجه الزبير بن بكار عن عبدالعزيز بنحوه كما فی الاصابة (ج ۲ ص ۲۰۸)

کنیت ہے) آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی اور امیر المؤمنین (حضرت عمرؓ) کے صاحبزادے ہیں اور آپ خلافت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں۔ آپ خلیفہ وقت کے خلاف کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے؟ اگر آپ ایسا کریں تو ہم آپ سے بیعت ہونے کو تیار ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ نے پوچھا کیا آپ کی اس رائے سے تمام لوگوں کو اتفاق ہے؟ حضرت عمرؓ نے کہا ہاں۔ تھوڑے سے آدمیوں کے علاوہ باقی سب متفق ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ نے کہا اگر سب مسلمان اس رائے سے اتفاق کر لیں لیکن ہجر مقام کے تین آدمی اتفاق نہ کریں تو بھی مجھے اس خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے حضرت عمرو بن عاصؓ سمجھ گئے کہ ان کا جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر حضرت عمرو بن عاصؓ نے پوچھا کیا آپ اس آدمی سے بیعت ہونے کے لئے تیار ہیں جس کی بیعت پر تمام لوگ اتفاق کرنے ہی والے ہیں؟ اور وہ آدمی آپ کے نام اتنی زمین اور اتنا مال لکھ دے گا کہ پھر آپ کو اور آپ کی اولاد کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضرت ابن عمرؓ نے کہا آپ پر سخت حیرت ہے آپ میرے پاس سے تشریف لے جائیں اور آئندہ کبھی (اس کام کے لئے) میرے پاس نہ آئیں۔ آپ کا بھلا ہو۔ میرا دین آپ لوگوں کے دینار و درہم کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے اس طرح سے جاؤں کہ میرا ہاتھ (دنیا کی آلائشوں سے) بالکل پاک صاف ہو۔

حضرت میمون بن مهران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عمرؓ نے اپنے ایک غلام کو مکاتب بنایا (یعنی اسے فرمایا کہ اتنی رقم دے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے) اور مال کی ادائیگی کی قسطیں مقرر کر دیں جب پہلی قسط کی ادائیگی کا وقت آیا تو وہ غلام وہ قسط لے کر ان کے پاس آیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا یہ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ مزدوری کر کے کمایا ہے اور کچھ لوگوں سے مانگ کر لایا ہوں۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا تم مجھے لوگوں کا میل کچیل کھلانا چاہتے ہو؟ جاؤ۔ تم اللہ کے لئے آزاد ہو لو اور مال جو تم لے کر آئے ہو وہ بھی تمہارا ہی ہے۔

## حضرت عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالبؓ کا مال واپس کرنا

حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عراق کے دیہات کے ایک چوہدری نے حضرت ابن جعفرؓ سے کہا کہ وہ اس کی ایک ضرورت کے بارے میں حضرت علیؓ سے سفارش کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علیؓ سے اس کی سفارش کر دی۔ حضرت علیؓ نے اس کی وہ ضرورت پوری کر دی۔ اس پر اس چوہدری نے حضرت ابن جعفرؓ کے پاس چالیس ہزار بھجے لوگوں نے بتایا کہ یہ اس چوہدری نے بھجے ہیں تو انہیں واپس کر دیا اور فرمایا ہم نیکی بچا نہیں کرتے۔<sup>۱</sup>

## حضرت عبد اللہ بن ارقمؓ کا مال واپس کرنا

حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثمانؓ نے حضرت عبد اللہ بن ارقمؓ کو بیت المال کا ذمہ دار و نگران مقرر کیا اور انہیں تین لاکھ اس خدمت کے عوض دینے چاہے تو حضرت عبد اللہ بن ارقمؓ نے لینے سے انکار کر دیا اور حضرت امام ہالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عثمانؓ نے حضرت عبد اللہ بن ارقمؓ کو تیس ہزار بطور معاوضہ کے دینے چاہے لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے تو اللہ کیلئے کام کیا تھا۔<sup>۲</sup>

## حضرت عمرو بن نعمان بن مقرنؓ کا مال واپس کرنا

حضرت معاویہ بن قرہؓ کہتے ہیں میں حضرت عمرو بن نعمان بن مقرنؓ کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا جب رمضان شریف کا مہینہ آیا تو ایک آدمی دراہم کی تھیلی لے کر ان کے پاس آیا اور کہا امیر حضرت مصعب بن زبیرؓ آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کے ہر قاری کی خدمت میں ہماری طرف سے عطیہ ضرور پہنچ گیا ہے (اس لئے آپ کی خدمت میں بھی بھیجا ہے) یہ دراہم اپنی ضرورت میں خرچ کر لیں تو حضرت عمرو بن نعمان نے لانے والے سے کہا جا کر ان سے کہہ دینا اللہ کی قسم! ہم نے قرآن دنیا حاصل کرنے کے لئے نہیں پڑھا اور وہ تھیلی ان کو واپس کر دی۔<sup>۳</sup>

۱۔ اخروجه ابن ابی الدنيا و الخواطی بسند حسن کذا فی الاصابة (ج ۲ ص ۲۹۰)

۲۔ اخروجه البغوی من طریق ابن عیینہ کذا فی الاصابة (ج ۲ ص ۲۷۴)

۳۔ اخروجه ابن ابی شیبہ کذا فی الاصابة (ج ۳ ص ۳۱)



## حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادیوں حضرت اسماء

### اور حضرت عائشہؓ کا مال واپس کرنا

حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں قبیلہ بنت عبد العزی بن عبد اسعد جو کہ ہوا مالک بن حسل قبیلہ میں سے تھیں وہ ابھی مشرک ہی تھیں کہ وہ گوہ، روٹیاں اور گھی ہدیہ میں لے کر اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ کے پاس آئیں تو حضرت اسماءؓ نے ان کا ہدیہ لینے سے انکار کر دیا اور انہیں اپنے گھر آنے سے روک دیا۔ حضرت عائشہؓ نے اس بارے میں حضور ﷺ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ (سورت ممتحنہ آیت ۸)

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔“ چنانچہ حضور ﷺ نے حضرت اسماءؓ کو کہا کہ وہ اپنی والدہ کا ہدیہ قبول کر لیں اور انہیں اپنے گھر آنے دیں۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک مسکین عورت میرے پاس آئی وہ مجھے تھوڑی سی چیز ہدیہ کرنا چاہتی تھی مجھے اس کی غرمت پر ترس آیا اس لئے مجھے اس سے ہدیہ لینا اچھا نہ لگا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ تم اس سے ہدیہ قبول کر لیتیں اور پھر اسے ہدیہ کے بدلے میں کچھ دے دیتیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ تم نے اس عورت کو حقیر سمجھا ہے۔ اے عائشہؓ! تو واضح اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو واضح کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔

## سوال کرنے سے بچنا

حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ بہت زیادہ محتاج اور بد حال ہو گئے تو مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں جا کر کچھ مانگ لوں۔ چنانچہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا وہاں میں نے حضور ﷺ سے سب سے پہلی جو بات سنی

۱۔ اخرجه احمد و البزار قال الهيثمي (ج ۷ ص ۱۲۳) وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح انتهى ۲۔ اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ۴ ص ۲۰۴)

وہ یہ تھی کہ آپ فرما رہے تھے جو اللہ تعالیٰ سے غنا طلب کرے گا (غنا یہ ہے کہ دل میں دنیا کی طلب و حرص نہ رہے) اسے اللہ تعالیٰ غنا عطا فرمادیں گے اور جو عفت طلب کرے گا (عفت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی تمام منح کی ہوئی چیزوں سے اور مانگنے سے رکے اور پاک دامن ہو) اللہ تعالیٰ اسے عفت عطا فرمائیں گے اور جو ہم سے کوئی چیز مانگے گا اور وہ چیز ہمارے پاس موجود ہوئی تو ہم اسے اپنے لئے چاکر نہیں رکھیں گے بلکہ ہم اسے وہ چیز دے دیں گے۔ یہ سن کر میں نے حضور ﷺ سے کچھ نہ مانگا اور ویسے ہی واپس آ گیا (ہم نے فقر و فاقہ اور تکلیفوں کے ساتھ دین کی محنت کی جس کے نتیجہ میں بعد میں دنیا ہم پر ٹوٹ پڑی۔)

حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں ایک دن میں نے صبح کو بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا تو میری بیوی یاباندی نے مجھ سے کہا حضور ﷺ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کچھ مانگ لو۔ فلاں آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں جا کر مانگا تھا حضور ﷺ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں گیا تو آپ بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے بیان میں یہ بھی فرمایا جو اللہ سے عفت و پاک دامنی طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عفت و پاک دامنی عطا فرمائیں گے اور جو اللہ سے غنا طلب کرے گا اللہ اسے غنی بنادیں گے اور جو ہم سے مانگے گا ہم یا تو اسے دے دیں گے یا اس کے ساتھ غم خواری کریں گے اور جو ہم سے غر برتا ہے اور ہم سے مانگتا نہیں ہے وہ ہمیں مانگنے والے سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ سن کر میر واپس آ گیا اور حضور ﷺ سے کچھ نہ مانگا (جب میں نے حضور ﷺ کی بات پر عمل کیا اور مانگا نہیں اور فاقہ پر صبر کیا اور پھر بھی دین کی محنت پوری طرح کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کے ساتھ دین کی محنت کرنے پر جو برکت و رحمت کا وعدہ فرما رکھا ہے وہ پورا فرمایا) اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے رہے یہاں تک کہ اب میرے علم کے مطابق انصار میں کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ مالدار نہیں ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے مجھ سے کچھ وعدہ فرما رکھا تھا جب بنو قریظہ یہودیوں کا علاقہ فتح ہو گیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ اب وعدہ پورا فرمائیں اور مجھے عطا فرمائیں میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے جو اللہ سے غنا طلب کرے گا اللہ اسے غنی بنادیں گے اور جو قناعت اختیار کرے گا اللہ اے قناعت عطا فرمادیں گے (قناعت یہ ہے کہ انسان کو تھوڑی بہت جتنی دنیا ملے اسی پر راضی ہو جائے جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنے دل میں کہا ایسی بات ہے تو پھر حضور ﷺ سے کچھ نہیں

مانگوں گا۔

حضرت ثوبانؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا میں اس کے لئے جنت کا ضامن بناتا ہوں۔ میں نے عرض کیا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ رلوی کہتے ہیں کہ حضرت ثوبانؓ کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگا کرتے تھے۔

لکن ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت ثوبانؓ سے فرمایا لوگوں سے کچھ نہ مانگا کرو۔ چنانچہ حضرت ثوبانؓ سواری پر سوار ہوتے اور ان کے ہاتھ سے ان کا کوڑا گر جاتا تو کسی سے نہ کہتے کہ یہ مجھے اٹھا دو بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر اٹھاتے تھے اور اعمال اسلام پر بیعت ہونے کے باب میں حضرت ابو امامہؓ کی روایت میں گزرا ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت ثوبانؓ کو اس بات پر بیعت کیا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبانؓ کو مکہ مکرمہ میں بھرے مجمع میں دیکھا کہ وہ سواری پر سوار ہوتے تھے ان کا کوڑا گر جاتا اور بعض دفعہ وہ کوڑا کسی کے کندھے پر گر جاتا اور وہ آدمی کوڑا ان کو دینا چاہتا تو وہ اس سے کوڑا نہ لیتے بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر اس کوڑے کو اٹھاتے تھے حضرت ابن ابی ملیحہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بعض دفعہ حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ سے اونٹنی کی تکمیل چھوٹ کر زمین پر گر جاتی تو وہ اونٹنی کی اگلی ٹانگ پر مار کر اسے اٹھاتے اور تکمیل کو خود اٹھاتے۔ لوگ ان سے کہتے آپ ہمیں (اونٹنی کے اوپر سے) فرمادیتے ہم آپ کو تکمیل پکڑا دیتے تو فرماتے میرے محبوب حضور ﷺ نے مجھے علم فرمایا تھا کہ میں لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگوں۔

دنیا کی وسعت اور کثرت سے ڈرنا

حضور ﷺ کا ڈر

حضرت عقبہ بن عامرؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے آٹھ سال کے بعد شہدائے احد پر اس طرح نماز جنازہ پڑھی گویا کہ آپ زندہ اور مردہ لوگوں کو رخصت فرما رہے ہیں (یعنی آپ کو اندازہ تھا کہ دنیا سے جانے کا وقت قریب آگیا ہے اس لئے زندہ لوگوں کو غاص خاص باتوں کی

۱۔ اخرجہ البزار عن ابی سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن ابیہ و ابو سلمة لم یسمع من ابیہ قالہ ابن معین وغیرہ کذا فی الترغیب (ج ۲ ص ۱۰۴)

۲۔ اخرجہ احمد و النسائی و ابن ماجہ و ابو داؤد باسناد صحیح

۳۔ کذا فی الترغیب (ج ۲ ص ۱۰۱) ۴۔ اخرجہ الطبرانی و اخرجہ احمد و النسائی

۵۔ عند احمد ایضا کما فی الكنز (ج ۳ ص ۳۲۱)

عن ثوبان مختصراً

وصیت اور تاکید فرما رہے تھے اور مردہ لوگوں کے لئے بڑے اہتمام سے دعاء و استغفار فرما رہے تھے کہ پھر اس کا موقع تو رہے گا نہیں) پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تم لوگوں سے پہلے آگے جا رہا ہوں اور میں تمہارے حق میں گواہیوں گا اور تم سے وعدہ ہے کہ حوض کوثر پر تم سے ملاقات ہوگی اور میں اپنی اس جگہ سے اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درمیان کے تمام پردے ہٹا دیئے ہیں) مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں یہ حضور ﷺ کی زیارت کا میرے لئے آخری موقع تھا۔

حضرت عقبہ بن عامرؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک دن باہر تشریف لے گئے اور احد والوں کی نماز جنازہ پڑھی پھر بچھلی حدیث والا مضمون بیان فرمایا۔ اس حدیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ کی قسم! میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں (جس کی وجہ سے حضور ﷺ کے بعد قیصر و کسریٰ کے خزانے صحابہؓ کو ملے اور کئی ملک فتح ہوئے) اور اللہ کی قسم! مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا حاصل کرنے کے شوق میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے۔

حضرت عمرو بن عوف انصاریؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کو بحرین جزیہ لانے کے لئے بھیجا۔ چنانچہ وہ بحرین سے بہت سامان (ایک لاکھ اسی ہزار بادو لاکھ درہم) لے کر آئے۔ حضرات انصار نے جب حضرت ابو عبیدہؓ کے واپس آنے کی خبر سنی تو انہوں نے فجر کی نماز حضور ﷺ کے ساتھ پڑھی۔ جب حضور ﷺ نماز کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ سب حضرات آپ کے سامنے آکر بیٹھ گئے۔ حضور ﷺ انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہؓ بحرین سے کچھ لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ! (اپنی اس بات کو چھپایا نہیں) آپ نے فرمایا تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اور خوشی حاصل ہونے کی امید رکھو (یعنی ابو عبیدہ جو مال لائے ہیں اس میں سے تمہیں ضرور کچھ ملے گا) اللہ کی قسم! مجھے تم پر فقر کا ڈر نہیں ہے بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا اس طرح پھیلا دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی اور تم بھی اس کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے

لگو گے جیسے پہلوں نے کی تھی پھر یہ دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے گی جیسے اس نے ان کو ہلاک کیا تھا۔<sup>۱</sup>

حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک دیرمانی کھڑا ہوا جس کی طبیعت میں اجڈ پنا تھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! ہمیں تو قحط نے مار ڈالا۔ آپ نے فرمایا مجھے تم پر قحط کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا خوب پھیلا دی جائے گی۔ کاش میری امت سونانہ پہنتی۔<sup>۲</sup>

حضرت ابو سعید خدریؓ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک مرتبہ منبر پر بیٹھے ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے جن باتوں کا تم پر ڈر ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے دنیا کی زیب و زینت اور سرسبزی و شادابی کھول دیں گے (اور تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے کیونکہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے)۔<sup>۳</sup>

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا مجھے تم پر فقر و فاقہ اور بد حالی کی آزمائش سے زیادہ ڈر خوش حالی اور فرلوانی کی آزمائش کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو فقر و فاقہ اور بد حالی کے ذریعہ آزما چکے ہیں۔ اس میں تم نے صبر سے کام لیا (اور کامیاب ہو گئے) اور دنیا ٹیٹھی اور سرسبز ہے۔ پتہ نہیں اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہو یا نہیں۔<sup>۴</sup>

حضرت عوف بن مالکؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک مرتبہ اپنے صحابہؓ میں کھڑے ہو کر فرمایا تم فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو یا تمہیں دنیا کا فکر و غم لگا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فارس اور روم پر تمہیں فتح دے دیں گے اور تم پر دنیا کی بہت زیادہ فرلوانی ہوگی اور بس دنیا کی وجہ سے ہی تم لوگ صحیح راستے سے ہٹ جاؤ گے۔<sup>۵</sup>

## دنیا کی وسعت سے حضرت عمر بن خطابؓ کا ڈرنا اور رونا

حضرت مسور بن مخرمہؓ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس قادیہ کا کچھ مال غنیمت آیا۔ آپ اس کا جائزہ لے رہے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے اور رورہے تھے ان کے ساتھ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بھی تھے انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین! یہ تو خوشی اور

۱۔ اخرجه الشيخان كذا في الترغيب (ج ۵ ص ۱۴۱)

۲۔ اخرجه احمد و البزار و رواة احمد رواة الصحيح كذا في الترغيب (ج ۵ ص ۱۴۴)

۳۔ اخرجه الشيخان كذا في الترغيب (ج ۵ ص ۱۴۴)

۴۔ اخرجه ابو يعلى و البزار و فيه راو لم يسم رقيقه رواة الصحيح كذا في الترغيب (ج ۵ ص ۱۴۵)

۵۔ اخرجه الطبرانی و في اسنادہ بقیة كذا في الترغيب (ج ۵ ص ۱۴۲)

مسرت کا دن ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا ہاں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس یہ مال آتا ہے ان میں اس کی وجہ سے آپس میں بغض و عداوت بھی ضرور پیدا ہو جاتی ہے لہٰذا حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمرؓ کے پاس کسری کے خزانے آئے تو ان سے حضرت عبد اللہ بن ارقم زہریؓ نے کہا آپ اسے بیت المال میں کیوں نہیں رکھ دیتے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں۔ ہم اسے بیت المال میں نہیں رکھیں گے بلکہ تقسیم کریں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عمرؓ رو پڑے تو ان سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کی قسم! یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے اور خوشی و مسرت کا دن ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی یہ مال دیا ہے اس مال نے ان کے درمیان بغض و عداوت ضرور پیدا کی ہے لہٰذا حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسری کا تاج حضرت عمر بن خطابؓ کی خدمت میں لایا گیا اور ان کے سامنے رکھا گیا (تاج کے ساتھ کسری کی زیب و زینت کا سامان بھی تھا) اس وقت وہاں لوگوں میں حضرت سراقہ بن مالک بن جحشمؓ بھی تھے حضرت عمرؓ نے کسری بن ہرمز کے دونوں کنگن ان کے سامنے رکھ دیئے حضرت سراقہ نے دونوں کنگن اپنے ہاتھوں میں ڈالے تو ان کے کندھوں تک پہنچ گئے۔ جب حضرت عمرؓ نے دونوں کنگن ان کے ہاتھوں میں دیکھے تو فرمایا الحمد للہ! اللہ کی قدرت دیکھو کہ کسری بن ہرمز کے دو کنگن اس وقت بوجہ حج کے ایک دیہاتی سراقہ بن مالک بن جحشمؓ کے دو ہاتھوں میں ہیں۔ پھر فرمایا اے اللہ! مجھے معلوم ہے کہ تیرے رسول حضرت محمد ﷺ یہ چاہتے تھے کہ انہیں کبھی سے مال ملے اور وہ اسے تیرے راستے میں اور تیرے بندوں پر خرچ کریں لیکن تو نے ان پر شفقت فرماتے ہوئے اور ان کے لئے زیادہ خیر والی صورت اختیار کرتے ہوئے ان سے مال کو دور رکھا اور اے اللہ! مجھے معلوم ہے کہ حضرت ابو بکرؓ یہ چاہتے تھے کہ انہیں کبھی سے مال ملے اور وہ اسے تیرے راستے میں اور تیرے بندوں پر خرچ کریں لیکن تو نے ان پر شفقت فرماتے ہوئے اور ان کے لئے زیادہ بہتر والی صورت اختیار کرتے ہوئے ان سے مال کو دور رکھا (اور اب میرے زمانے میں یہ مال بہت زیادہ آ رہا ہے) اے اللہ! میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ مال کا زیادہ آنا کہیں تیری طرف سے عمر

۱۔ اخرجہ البيهقي (ج ۶ ص ۳۵۸) و اخرجہ الخرائطي ايضا عن المسور مثله كما في الكنز (ج ۲ ص ۳۲۱) ۲۔ عند البيهقي ايضا (ج ۶ ص ۳۵۸) و اخرجہ ابن المبارك و عبدالرزاق و ابن ابی شيبه عن ابراهيم مثله كما في الكنز (ج ۲ ص ۳۲۱) و اخرجہ احمد في الزهد و ابن عساكر عن ابراهيم نحوه مختصرا كما في الكنز (ج ۲ ص ۱۴۶)

کے خلاف داؤ نہ ہو۔ (یعنی کہیں اس سے عمرؓ کے دین اور آخرت کا نقصان نہ ہو) پھر حضرت عمرؓ نے یہ آیت پڑھی:

اَيُّحْسِبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِمْ لُحْمٌ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ

(سورت مومنون آیت ۵۵-۵۶)

ترجمہ: ”کیا یہ لوگ یوں گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال و لوالہ دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدہ پہنچا رہے ہیں (یہ بات ہرگز نہیں) بلکہ یہ لوگ (اس کی وجہ) نہیں جانتے“

حضرت ابو سنان دؤلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کی خدمت میں گیا۔ ان کے پاس مہاجرین اولین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے خوشبو وغیرہ رکھنے کا تھیلا یعنی جامہ دان لانے کے لئے ایک آدمی بھیجا۔ وہ تھیلا ٹوکری یا پوری جیسا تھا۔ یہ تھیلا عراق کے ایک قلعہ سے حضرت عمرؓ کے پاس لایا گیا تھا۔ اس میں ایک انگوٹھی بھی تھی جسے حضرت عمرؓ کے ایک بچے نے لے کر منہ میں ڈال لیا۔ حضرت عمرؓ نے اس سے وہ انگوٹھی لے لی اور پھر رو پڑے۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی فتوحات عطا فرما رکھی ہیں اور آپ کو آپ کے دشمن پر غالب کر دیا ہے اور آپ کی آنکھیں (خوشیاں عطا فرما کر) ٹھنڈی کر دی ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جن لوگوں پر دنیا کی فتوحات ہونے لگتی ہیں اور انہیں دنیا بہت مل جاتی ہے تو ان کے درمیان ایسی بغض و عداوت پیدا ہو جاتی ہے جو قیامت تک چلتی رہتی ہے مجھے اس کا ڈر لگ رہا ہے (اس لئے رو رہا ہوں)۔

حضرت لادن عباسؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ کا معمول یہ تھا کہ وہ جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو لوگوں کی خاطر بیٹھ جاتے۔ جس کو کوئی ضرورت ہوتی تو وہ ان سے بات کر لیتا اور اگر کسی کو کوئی ضرورت نہ ہوتی تو کھڑے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے لوگوں کو بہت سی نمازیں پڑھائیں لیکن کسی نماز کے بعد بیٹھے نہیں۔ میں نے (ان کے دربان سے) کہا اے یرقا! کیا امیر المؤمنین کو کوئی تکلیف یا بیماری ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امیر المؤمنین کو کوئی تکلیف یا بیماری نہیں ہے۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت عثمان بن عفانؓ بھی تشریف لے آئے وہ بھی آکر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں یرقا باہر آیا اور اس نے کہا اے لادن عثمانؓ

۱۔ عند البیہقی ایضا (ج ۶ ص ۳۵۸) واخرجه عبد بن حمید و ابن المنذر و ابن عساکر

عن الحسن مثله كما في منتخب الكنز (ج ۴ ص ۴۱۲)

۲۔ اخرجه احمد باسناد حسن و البراز و ابو یعلیٰ کذا في الترغيب (ج ۵ ص ۱۴۴)

اے لئن عباسؓ! آپ دونوں اندر تشریف لے چلیں۔ چنانچہ ہم دونوں حضرت عمرؓ کے پاس اندر گئے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ کے سامنے مال کے بہت سے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں اور ہر ڈھیر پر کندھے کی بڑی رکھی ہوئی تھی (جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں کاغذ کی کمی کی وجہ سے بڑیوں پر بھی لکھا جاتا تھا) حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے تمام اہل مدینہ پر نگاہ ڈالی تو تم دونوں ہی مجھے مدینہ میں سب سے بڑے خاندان والے نظر آئے ہو، یہ مال لے جاؤ اور آپس میں تقسیم کر لو اور جو جگہ جگہ وہ واپس کر دینا۔ حضرت عثمانؓ نے تولپ بھر کر لینا شروع کر دیا لیکن میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا کہ اگر کم پڑ گیا تو آپ ہمیں اور دیں گے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے ناپہاڑ کا ایک ککلا۔ یعنی ہے ناپنے باپ عباس کا پینا (کہ ان کی ہی طرح جری، سمجھ دار اور ہوشیار ہے) کیا یہ مال اس وقت اللہ کے پاس نہیں تھا جب حضرت محمد ﷺ اور ان کے صحابہؓ (فقرو فاقہ کی وجہ سے) کھال کھایا کرتے تھے؟ میں نے کہا تھا اللہ کی قسم! جب حضرت محمد ﷺ زندہ تھے تو یہ سب کچھ اللہ کے پاس تھا۔ لیکن اگر اللہ ان کو یہ سب کچھ دیتے تو وہ کسی اور طرح تقسیم کرتے۔ جس طرح آپ کرتے ہیں اس طرح نہ کرتے۔ اس پر حضرت عمرؓ کو غصہ آ گیا اور فرمایا اچھا۔ کس طرح تقسیم کرتے؟ میں نے کہا خود بھی کھاتے اور ہمیں بھی کھاتے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرؓ اونچی آواز سے رونے لگ پڑے جس سے ان کی پسلیاں زور زور سے ہلنے لگیں پھر فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس خلافت سے برابر سر برابر چھوٹ جاؤں، نہ اس پر مجھے کچھ انعام ملے اور نہ میری پکڑ ہو۔

حضرت لئن عباسؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطابؓ نے مجھے بلایا میں ان کی خدمت میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے چڑے کے دسترخوان پر سونا بکھر پڑا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا آؤ اور یہ سونا اپنی قوم میں تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سونا اور مال اپنے نبی کریم ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ سے دور رکھا اور مجھے دے رہے ہیں اب اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ مجھے یہ مال خیر کی وجہ سے دیا جا رہا ہے یا کہ شر کی وجہ سے۔ پھر فرمایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ سے یہ مال اس وجہ سے دور نہیں رکھا کہ ان دونوں کے ساتھ شر کا ارادہ تھا اور مجھے اس وجہ سے نہیں دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ خیر کا ارادہ ہے (بلکہ معاملہ برعکس معلوم ہوتا ہے)۔

۱۔ اخرجه الحمیدی و ابن سعد (ج ۳ ص ۲۰۷) و البزار و سعید بن منصور و البيهقي (ج ۶ ص ۳۵۸) و غیر ہم کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۳۲۰) و قال البيهقي (ج ۱۱ ص ۲۴۲) روا البزار و اسنادہ جیدہ  
 ۲۔ اخرجه ابو عبید و ابن سعد (ج ۳ ص ۲۱۸) و ابن راهو با و الشاشی و حسن کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۳۱۷)



حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے بلانے کے لئے میرے پاس ایک آدمی بھیجا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے اندر سے ان کے زور سے رونے کی آواز سنی۔ میں نے گھبرا کر کہا۔ اللہ وانا لہ راجعون۔ اللہ کی قسم! امیر المؤمنین کو کوئی زبردست حادثہ پیش آیا ہے، (جس کی وجہ سے اتنے زور سے رورہے ہیں) میں نے اندر جا کر ان کا کندھا پکڑ کر کہا اے امیر المؤمنین! پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پریشان ہونے کی بہت بڑی بات ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے کے اندر لے گئے میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ اوپر نیچے بہت سے تھیلے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اب خطاب کی اولاد کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو میرے دونوں ساتھیوں یعنی نبی کریم ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کو بھی یہ مال دیتے اور وہ دونوں اسے خرچ کرنے میں جو طریقہ اختیار کرتے میں بھی اسے اختیار کرتا۔ میں نے کہا آئیں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اسے کیسے خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے اہمات المؤمنین (حضور ﷺ کی ازواج مطہرات) کے لئے چار چار ہزار اور مہاجرین کے لئے چار چار ہزار اور باقی لوگوں کے لئے دو دو ہزار درہم تجویز کئے اور یوں وہ سارا مال تقسیم کر دیا۔

### حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا دنیا کی وسعت سے ڈرنا اور رونا

حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے روزہ رکھا ہوا تھا (روزہ کھولنے کے لئے) ان کے پاس کھانا لایا گیا تو اسے دیکھ کر فرمایا حضرت مصعب بن عمیرؓ مجھ سے بہتر تھے۔ انہیں شہید کیا گیا اور پھر انہیں ایسی چادر میں کفن دیا گیا جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر ان کا سر ڈھک دیا جاتا تو ان کے پیر کھل جاتے اور اگر پیر ڈھکے جاتے تو ان کا سر کھل جاتا اور حضرت حمزہؓ مجھ سے بہتر تھے۔ ان کو بھی شہید کیا گیا۔ پھر دنیا کی ہم پر بہت وسعت ہو گئی اور ہمیں اللہ کی طرف سے دنیا بہت زیادہ دی گئی۔ اب ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا گیا پھر رونا شروع کر دیا۔ جس کی وجہ سے وہ کھانا نہ کھا سکے۔

حضرت نوفل بن ایاس ہذلیؓ کہتے ہیں حضرت عبدالرحمنؓ ہمارے ہم مجلس تھے اور بڑے

۱۔ اخرجه ابو عبید و العذنی کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۳۱۸)

۲۔ اخرجه البخاری (ص ۵۷۹) و اخرجه ابو نعیم فی الحلیۃ ایضا (ج ۱ ص ۱۰۰)

اجھے ہم مجلس تھے۔ ایک دن ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ ہم ان کے گھر میں داخل ہو گئے پھر وہ اندر گئے اور غسل کر کے باہر آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر اندر سے ایک پیالہ آیا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ جب وہ پیالہ سامنے رکھا گیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ رو پڑے ہم لوگوں نے ان سے کہا اے ابو محمدؓ! (یہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی کنیت ہے) آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور ﷺ دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی اس لئے میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں جو دنیا میں زندہ رکھا ہے اور دنیا کی وسعت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہماری یہ حالت حضور ﷺ کی حالت سے بہتر ہے اور ہمارے لئے اس میں خیر زیادہ ہو۔

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اماں جان! مجھے ڈر ہے کہ میرا مال مجھے ہلاک کر دے گا کیونکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ میں نے کہا اے میرے بیٹے! تم (اپنا مال دوسروں پر) خوب خرچ کرو کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میرے بعض ساتھی ایسے ہیں جو جدا ہونے کے بعد مجھے دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ وہاں سے چلے گئے اور ان کی حضرت عمرؓ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت عمرؓ کو میری والی حدیث سنائی۔ حدیث سن کر حضرت عمرؓ میرے پاس آئے اور فرمایا میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں ان میں سے ہوں؟ میں نے کہا نہیں آپ ان میں سے نہیں ہیں اور آپ کے اس سوال کا تو میں نے جواب دے دیا لیکن آئندہ آپ کے بعد کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ وہ ان میں سے نہیں ہے۔

### حضرت خباب بن ارتؓ کا دنیا کی وسعت و کثرت سے ڈرنا اور رونا

حضرت یحییٰ بن جعدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ﷺ کے چند صحابہؓ حضرت خبابؓ کی عیادت کرنے آئے۔ انہوں نے ان سے کہا اے ابو عبد اللہ! آپ کو خوشخبری ہو آپ حضرت محمد ﷺ کے پاس حوض کوثر پر جائیں گے تو انہوں نے گھر کے اوپر اور نیچے والے حصہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس گھر کے ہوتے ہوئے میں کیسے (حوض کوثر پر جا سکتا

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۹۹) واخرجه الترمذی و السراج عن نوفل نحوه كما فی الاصابہ (ج ۲ ص ۴۱۷) ۲۔ اخرجه البزار قال الهیثمی (ج ۹ ص ۷۲) رجاله رجال الصحیح

ہوں؟) حالانکہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا تمہیں اتنی دنیا کافی ہے جتنا ایک سوار کے پاس سواری پر توشہ ہوتا ہے (اور میرے پاس توشہ سے کہیں زیادہ ہے)۔

حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ﷺ کے چند صحابہؓ حضرت خبابؓ کی عیادت کرنے گئے تو انہوں نے حضرت خباب سے کہا اے ابو عبد اللہ! (یہ حضرت خباب کی کنیت ہے) آپ کو خوشخبری ہو۔ کل آپ (انتقال کے بعد) اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت خباب رو پڑے اور فرمایا مجھے موت سے گھبراہٹ نہیں ہے لیکن تم نے میرے بھائیوں کا نام لے کر مجھے ان لوگوں کی یاد تازہ کرا دی ہے جو اپنے نیک اعمال اور دینی محنت کا سارا اجر و ثواب ساتھ لے کر آگے چلے گئے (اور دنیا میں انہیں کچھ نہیں ملا) اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے جانے کے بعد ہمیں اللہ نے جو مال و دولت دنیا میں دی ہے وہ کہیں ہمارے ان اعمال کا بدلہ نہ ہو جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو۔

حضرت حارث بن مہرب کہتے ہیں ہم لوگ حضرت خبابؓ کے پاس گئے انہوں نے (اس مانے کے دستور کے مطابق علاج کے لئے) اپنے پیٹ پر گرم لوہے سے سات داغ لگوا کھے تھے۔ انہوں نے کہا اگر حضور ﷺ کا یہ ارشاد نہ ہوتا کہ تم میں سے کوئی بھی ہرگز موت (تمنا نہ کرے تو میں ضرور موت کی تمنا کرتا۔ ایک ساتھی نے عرض کیا (آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟) آپ ذرا خیال فرمائیں دنیا میں آپ کو نبی کریم ﷺ کی صحبت حاصل رہی اور ثناء اللہ (مرنے کے بعد) آپ حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ب جو میرے پاس اتنی دنیا جمع ہو گئی ہے اس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ شاید میں ان کی رحمت میں نہ پہنچ سکوں۔ دیکھو یہ گھر میں چالیس ہزار درہم پڑے ہوئے ہیں۔

حضرت حارثؓ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خبابؓ نے کہا میں نے اپنے آپ کو حضور ﷺ کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے کہ میں ایک درہم کا بھی مالک نہیں تھا اور آج رے گھر کے ایک کونے میں چالیس ہزار درہم پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے لئے جب ن لایا گیا تو اسے دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا (مجھے تو ایسا اچھا اور مکمل کفن مل رہا ہے) اور نمرت حمزہؓ کے کفن کی تو صرف ایک دھاری دار چادر تھی اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ اسے سر پر لا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا آخر سر ڈھک کر

۱۔ اخراجہ ابو یعلیٰ و الطبرانی باسناد جید کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۸۴)

۲۔ عند ابی نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۴۵) و اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۱۸) عن طارق بن حوہ

۳۔ عند ابی نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۴۴)

پیروں پر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ لہ حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت خباب بن ارتؓ ہمارے تھے۔ ہم لوگ ان کی عیادت کرنے گئے تو انہوں نے فرمایا اس صندوق میں اسی ہزار درہم رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کی قسم! (یہ کھلے رکھے ہوئے ہیں) میں نے انہیں کسی تھیلی میں ڈال کر اس کا منہ بند نہیں کیا (انہیں جمع کر کے رکھنے کا میرا ارادہ نہیں ہے) اور نہ میں نے کسی مانگنے والے سے انہیں چا کر رکھا ہے (جو بھی مانگنے والا آیا ہے اسے ضرور دیا ہے) میں تو انہیں خرچ کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا لیکن یہ پھر بھی اتنے بچ گئے (اور اس کے بعد رو دیئے۔ ہم نے عرض کیا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ میرے ساتھی اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ (دین کے زندہ کرنے کی محنت انہوں نے خوب قربانیوں اور مجاہدوں کے ساتھ کی اور) انہیں دنیا کچھ نہ ملی (یونہی فقر و فاقہ میں یہاں سے چلے گئے۔ اس لئے ان کی محنت اور اعمال کا سارا بدلہ انہیں اگلے جہاں میں ملے گا) اور ہم ان کے بعد یہاں دنیا میں رہ گئے اور ہمیں مال و دولت خوب ملی۔ جو ہم نے ساری مٹی گارہ میں یعنی تعمیرات میں لگا دی تھی اور حضرت ابو اسامہؓ نے جو روایت حضرت اور لیسؓ سے کی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت خباب نے یہ بھی فرمایا میرا اول چاہتا ہے کہ یہ دنیا تو میٹگنی وغیرہ ہوتی تھی حضرت قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر حضرت خبابؓ نے فرمایا ہم سے پہلے بہت سے ایسے لوگ آگے چلے گئے ہیں جنہیں دنیا کچھ نہیں ملی اور ہم ان کے بعد اس دنیا میں رہ گئے اور ہمیں بہت زیادہ دنیا ملی ہے جسے تعمیرات میں خرچ کرنے کے علاوہ ہمیں اور کوئی مصرف بھی نظر نہیں آ رہا اور مسلمان کو ہر جگہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور (بلا ضرورت) تعمیر میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا۔

حضرت خبابؓ فرماتے ہیں ہم نے حضور ﷺ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے ہجرت کی۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اب ہمارے کچھ ساتھی تو اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے اپنے اعمال اور اپنی محنت کا بدلہ دنیا میں کچھ نہیں لیا۔ ان میں سے ایک حضرت مصعب بن عمیرؓ ہیں جو جنگ احد کے دن شہید ہوئے وہ صرف ایک دھاری دار چاد ہی چھوڑ کر گئے تھے اور وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب ہم اس سے ان کا سر ڈھانکتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے اور جب اس سے ان کے پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ آخر ہمیں حضور ﷺ

۱۔ اخرجه ابو نعیم (ج ۱ ص ۱۴۵) من طریق آخر عن حارثة نحوه مختصرا واخرجه ابن سعد

۲ ص ۱۱۷) عن حارثة بنحوه ۳ عند ابی نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۴۵)

۴ قاله ابو نعیم ۵ عند ابی نعیم ایضا (ج ۱ ص ۱۴۶)

نے فرمایا اس چادر سے ان کا سر ڈھانک دو لور ان کے پاؤں پر از خر گھاس ڈال دو لور ہمارے بعض ساتھیوں کے پھل پک چکے ہیں جنہیں وہ جن رہے ہیں یعنی اب ان کو دنیا کی مال و دولت خوب مل گئی ہے۔<sup>۱</sup>

## حضرت سلمان فارسیؓ کا دنیا کی کثرت سے ڈرنا اور رونا

قبیلہ بنو عیس کے ایک صاحب کہتے ہیں میں حضرت سلمانؓ کی صحبت میں رہا۔ ایک دفعہ انہوں نے کسری کے ان خزانوں کا تذکرہ کیا جو اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات میں دیئے تھے اور فرمایا جس اللہ نے تمہیں یہ خزانے دیئے اور تمہیں یہ فتوحات عطا فرمائیں اس نے حضرت محمد ﷺ کی زندگی میں یہ سارے خزانے روک رکھے تھے (حالانکہ اللہ نے حضور ﷺ کو تمام خیرات و برکات عطا فرمائی تھیں) اور صحابہؓ اس حال میں صبح کرتے کہ ان کے پاس نہ درہم و دینار ہوتا اور نہ ایک مد (۱۴ چھٹانک) غلہ اے قبیلہ بنو عیس والے! پھر اس کے بعد اب یہ صورت حال ہے۔ پھر ہمارا چند کھلیانوں پر گذر ہوا جہاں اڑا کروانوں سے بھوسہ الگ کیا جا رہا تھا اسے دیکھ کر فرمایا جس اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے اور تمہیں یہ فتوحات عطا فرمائی ہیں اس نے حضرت محمد ﷺ کی زندگی میں یہ تمام خزانے روک رکھے تھے اور صحابہؓ اس حال میں صبح کرتے کہ نہ ان کے پاس دینار و درہم ہوتا اور نہ ایک مد غلہ۔ اے عیسیٰ بھائی! پھر اس کے بعد اب (فراوانی کی) یہ صورت حال ہے۔<sup>۲</sup>

قبیلہ بنو عیس کے ایک صاحب کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت سلمانؓ کے ساتھ دریائے جہلہ کے کنارے چلا جا رہا تھا تو انہوں نے فرمایا اے قبیلہ بنو عیس والے! اتر کر پانی پی لو۔ چنانچہ میں نے اتر کر پانی پی لیا۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہارے اس پینے سے کیا وجہ میں کوئی کمی آئی ہے؟ میں نے کہا میرے خیال میں تو کوئی کمی نہیں آئی ہے تو فرمایا علم بھی اسی طرح سے ہے اس میں سے جتنا بھی لے لیا جائے وہ کم نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ میں سوار ہو گیا پھر گندم لور جو کے کھلیانوں پر ہمارا گزر ہوا۔ انہیں دیکھ کر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ فتوحات عطا فرمائی ہیں اور اللہ نے یہ سب کچھ حضرت محمد ﷺ کے صحابہؓ سے روک رکھا تو کیا یہ فتوحات ہمیں اس لئے دیں کہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ ہے اور ان سے اس لئے روکے رکھیں کہ ان کے ساتھ شرکارا وہ تھا میں نے کہا مجھے

۱۔ عند البخاری و اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۸۵) وابن ابی شیبہ بنسئلہ کما فی الكنز (ج ۷ ص

۸۶) ۲۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۹۹) عن ابی البختری

معلوم نہیں۔ انہوں نے فرمایا میں جانتا ہوں ہمارے ساتھ شرکار ارادہ ہے اور ان کے ساتھ خیر کا تھا اور حضور ﷺ نے آخری دم تک کبھی تین دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔! حضرت ابوسفیان رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلمانؓ یمما تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ان کی عیادت کرنے گئے تو حضرت سلمانؓ رونے لگے پڑے۔ حضرت سعدؓ نے ان سے کہا آپ کیوں رورہے ہیں؟ آپ تو (انتقال کے بعد) اپنے ساتھیوں سے جا ملیں گے اور حضور ﷺ کے پاس حوض کوثر پر جائیں گے اور حضور ﷺ اس حال میں انتقال ہوا کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ حضرت سلمانؓ نے کہا میں نہ تو موت نہ گھبرا کر رورہا ہوں اور نہ دنیا کے لالچ کی وجہ سے۔ بلکہ اس وجہ سے رورہا ہوں کہ حضور ﷺ نے ہمیں یہ وصیت فرمائی تھی کہ گزارے کے لئے تمہارے پاس اتنی دنیا ہونی چاہئے جتنا کہ سوار کے پاس توشہ ہوتا ہے اور (میں اس وصیت کے مطابق عمل نہیں کر سکا کیونکہ) میرا ارد گرد یہ بہت سے کالے سانپ ہیں یعنی دنیا کا بہت سا سامان ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس سامان کیا تھا؟ بس ایک لوٹا اور کپڑے دھونے کا برتن اور اسی طرح کی چند اور چیزیں تھیں حضرت سعدؓ نے ان سے کہا آپ ہمیں کوئی وصیت فرمادیں جس پر ہم آپ کے بعد بھی عمل کریں۔ انہوں نے حضرت سعدؓ سے فرمایا جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنے لگیں اور کوئی فیصلہ کرنے لگیں اور جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز تقسیم کرنے لگیں تو اس وقت اپنے رب کو یاد کر لیا کریں یعنی کوئی بھی کام کرنے لگیں تو اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ اور حاکم اور روایت میں یہ بیحد اس وقت ان کے ارد گرد (صرف تین برتن) کپڑے دھونے کا برتن، ایک لگن اور ایک لوٹا تھا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضرت سلمانؓ یمما ہوئے تو حضرت سعدؓ ان کی عیادت کے لئے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت سلمانؓ رورہے ہیں حضرت سعدؓ نے ان سے پوچھا اے میرے بھائی! آپ کیوں رورہے ہیں؟ کیا آپ حضور ﷺ کی صحبت میں نہیں رہے؟ فلاں فضیلت اور فلاں فضیلت آپ کو حاصل نہیں؟ حضرت سلمانؓ نے کہا میں ان دو باتوں میں سے کسی بات پر نہیں رورہا۔ نہ تو دنیا کے لالچ کی وجہ سے اور نہ آخرت کو برا اور ناگوار سمجھ

۱۔ عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۳۲۴) وفيه راو لم یسم وبقية رجاله و ثقوا

۲۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۹۵) و اخرجه الحاكم و صححه كما فی الترغیب

۵ ص ۱۲۷) و ابن سعد (ج ۴ ص ۶۵) عن ابی سفیان عن اشیاخه نحوه و اخرجه ابن الاعراب

عن ابی سفیان عن اشیاخه مختصر كما فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۷)

کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ حضور ﷺ نے ہمیں ایک وصیت فرمائی تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں اس وصیت کی پابندی نہیں کر سکا۔ حضرت سعدؓ نے پوچھا حضور ﷺ نے آپ کو کیا وصیت فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا حضور ﷺ نے ہمیں یہ وصیت فرمائی تھی کہ تم میں سے ہر ایک کو اتنی دنیا کافی ہے جتنا سوار کا توشہ ہوتا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ میں حضور ﷺ کی مقرر کردہ اس حد سے آگے بڑھ چکا ہوں (سوار کے توشہ سے زیادہ سامان میرے پاس ہے) اور اے سعد! جب تم فیصلہ کرنے لگو اور جب تم تقسیم کرنے لگو اور جب تم کسی کام کا پختہ ارادہ کرنے لگو تو ان تینوں اوقات میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت ثلث کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت سلمانؓ نے ترکہ میں بیس سے کچھ اوپر درہم اور تھوڑا سا خرچہ چھوڑا تھا۔

حضرت عامر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت سلمان الخیرؓ (مدینہ میں شروع زمانے میں اسلام لانے کی وجہ سے یہ الخیر کہلاتے تھے) کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے ان پر کچھ گھبراہٹ محسوس کی تو انہوں نے کہا اے ابو عبد اللہ! (یہ حضرت سلمانؓ کی کنیت ہے) آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو اسلام لانے میں دوسروں پر سبقت حاصل ہے اور آپ حضور ﷺ کے ساتھ اچھی اچھی لڑائیوں میں اور بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس وجہ سے گھبرا رہا ہوں کہ ہمارے حبیب حضور ﷺ نے دنیا سے جاتے وقت ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ تم میں سے ہر آدمی کو سوار کے توشہ جتنا سامان کافی ہونا چاہئے (میں اس وصیت کی پابندی نہیں کر سکا) اس وجہ سے گھبرا رہا ہوں۔ حضرت سلمانؓ کے انتقال کے بعد جب ان کا مال جمع کیا گیا تو اس کی قیمت پندرہ درہم تھی۔ لکن عسا کر میں یہ ہے کہ پندرہ دینار تھی۔ ابو نعیم نے حضرت علی بن بذیمہ سے یوں روایت کی ہے کہ حضرت سلمانؓ کے ترکہ کا سامان بچا گیا تو وہ چودہ درہم میں بکا۔

۱ عند ابن ماجہ ورواہ ثقات کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۲۸)

۲ کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۸۴) واخرجه ابن عساکر عن عامر مثله كما في الكنز (ج ۷ ص ۴۵) الا انه وقع عنده خمسة عشر دينار وهكذا ذكر في الكنز عن ابن حبان وهكذا رواه ابو نعیم في الحلیة (ج ۱ ص ۱۹۷) عن عامر بن عبد اللہ فی هذا الحدیث ثم قال کذا قال عمر بن عبد اللہ دینار واتفق الباقون علی بضعة عشر درهما ثم اخرج عن علی بن بذیمة قال بیع متاع سلمان فبلغ اربعة عشر درهما وهكذا اخرج الطبرانی عن علی قال فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۸۶) واستاده جیدالا ان علیا لم یدرک سلمان

## حضرت ابو ہاشم بن عتبہ بن ربیعہ قرشی کا ڈر

حضرت ابو وائلؓ فرماتے ہیں حضرت ابو ہاشم بن عتبہؓ ہمارے تھے حضرت معاویہؓ ان کی عیادت کرنے آئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو ان سے پوچھا اے ماموں جان! آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا کسی درد نے آپ کو بے چین کر رکھا ہے؟ یا دنیا کے لالچ میں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بات بالکل نہیں ہے بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ حضور ﷺ نے ہمیں ایک وصیت فرمائی تھی۔ ہم اس پر عمل نہیں کر سکے۔ حضرت معاویہؓ نے پوچھا وہ کیا وصیت تھی؟ حضرت ابو ہاشمؓ نے کہا میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نے مال جمع کرنا ہی ہے تو ایک خادم اور جہاد فی سبیل اللہ کے لئے ایک سواری کافی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے آج (اس سے زیادہ) مال جمع کر رکھا ہے۔ لکن ماجہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت سمرہ بن سہم کی قوم کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہاشم بن عتبہؓ کا مہمان بنا تو ان کے پاس حضرت معاویہؓ آئے۔ لکن حبان کی روایت میں ہے کہ حضرت سمرہ بن سہم کہتے ہیں میں حضرت ابو ہاشم بن عتبہؓ کا مہمان بنا تو وہ طاعون کی بیماری میں مبتلا تھے۔ پھر ان کے پاس حضرت معاویہؓ آئے اور رزین کی روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت ابو ہاشمؓ کا انتقال ہو گیا تو ان کے ترکہ کا حساب کیا گیا تو اس کی قیمت تیس درہم بنی تھی اور اس میں وہ پیالہ بھی شمار کیا گیا جس میں وہ آٹا گوندھا کرتے تھے اور اسی میں وہ کھاتے تھے۔

## حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا

### دنیا کی کثرت اور وسعت پر ڈرنا اور رونا

حضرت عبداللہ بن عامر کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو حنہ مسلم بن اکیس رحمۃ اللہ علیہ

ما اخرجہ الترمذی والنسائی و قدر واہ ابن ماجة عن ابی وائل عن سمرة بن سہم عن رجل من قومه لم یسمہ قال نزلت علی ابن ہاشم بن عتبہ فجاءہ معاویہ فذکر الحدیث بنحوہ ورواہ ابن حبان فی صحیحہ عن سمرة بن سہم قال نزلت علی ابی ہاشم بن عتبہ و هو مظعون فأتاہ معاویہ فذکر الحدیث و ذکرہ زرین فزاد فیہ فلما مات حضر ما خلف فبلغ ثلاثین درہما وحسبت فیہ القصة التي كان یعجن فیہا و فیہا یا کل کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۲۸۴) و اخرجہ البغوی و ابن السکن عن ابی وائل عن سمرة بن سہم عن رجل من قومه کما فی الاصابة (ج ۴ ص ۲۰۶) و قال مدوی۔ الترمذی وغیرہ بسند صحیح عن ابی وائل قال جاء معاویہ ابی ہاشم فذکرہ ا و اخرج الحدیث ایضا الحاکم (ج ۳ ص ۶۳۸) عن ابی وائل و ابن عساکر عن طریق سمرة کما فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۹)



کہتے ہیں ایک صاحب حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کی خدمت میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ روز ہے ہیں تو انہوں نے کہا اے ابو عبیدہؓ! آپ کیوں روز ہے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہؓ نے کہا اس وجہ سے روز ہا ہوں کہ ایک دن حضور ﷺ نے ان فتوحات اور مال غنیمت کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے۔ اس میں ملک شام فتح ہونے کا بھی ذکر فرمایا اور فرمایا اے ابو عبیدہؓ! اگر تم (ان فتوحات تک) زندہ رہے تو تمہیں تین خادم کافی ہیں۔ ایک تمہاری روزمرہ کی خدمت کے لئے اور دوسرا تمہارے ساتھ سفر کرنے کے لئے اور تیسرا تمہارے گھر والوں کی خدمت کے لئے۔ جو ان کے کام کرتا رہے اور تین سواریاں تمہیں کافی ہیں۔ ایک سواری تمہارے گھر کے لئے۔ دوسری سواری تمہارے ادھر ادھر آنے جانے کے لئے تیسری سواری تمہارے غلام کے لئے (اب حضور ﷺ نے تو تین خادم اور تین سواریاں رکھنے کو فرمایا تھا) اور میں اپنے گھر کو دیکھتا ہوں تو وہ غلاموں سے بھرا ہوا ہے اور اپنے اصطلبل کو دیکھتا ہوں تو وہ گھوڑوں اور جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ اب میں اس کے بعد حضور ﷺ سے کس منہ سے ملاقات کروں گا۔ جب کہ آپ نے ہمیں یہ تاکید فرمائی تھی کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہو گا جو (قیامت کے دن) مجھے اسی حال میں ملے جس حال میں مجھ سے جدا ہوا تھا۔

نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہؓ کرام کا دنیا سے بے رغبی  
اختیار کرنا اور دنیا کو استعمال کے بغیر اس دنیا سے چلے جانا

### نبی کریم ﷺ کا زہد

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن خطابؓ نے اپنا یہ قصہ سنایا اور فرمایا میں ایک مرتبہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ میں اندر جا کر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے صرف لنگی باندھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جسم پر لور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں اور مٹھی بھر ایک صاع (ساڑھے تین سیر) جو لور کیکر کے پتے (جو کھال رنگنے کے کام آتے ہیں) ایک کوئے میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک بغیر رنگی ہوئی کھال لنگی ہوئی ہے (اتنا کم سامان دیکھ کر

۱۔ اخرجه احمد قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۲۵۳) رواه احمد وفيه راو لم یسم وبقية رجاله

ثقات. انتهى و اخرجه ابن عساکر نحوه كما فی المنتخب (ج ۵ ص ۷۳)

۲۔ اخرجه ابن ماجه باسناد صحیح و اخرجه الحاكم و قال صحیح علی شرط مسلم.

(میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آگئے۔ حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا کیوں روتے ہو؟ اے ابن الخطابؓ! میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ﷺ! میں کیوں نہ روؤں جب کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم اطہر پر پڑے ہوئے ہیں اور گھر کی کل کانات یہ ہے جو مجھے نظر آرہی ہے، اداہر کسریٰ اور قیصر تو پھلوں اور نہروں (دنیا کی فراوانی) میں ہوں اور آپ اللہ کے نبی اور برگزیدہ بندے ہو کر آپ کی یہ حالت۔ آپ نے فرمایا اے ابن الخطابؓ! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لئے آخرت ہو اور ان کے لئے دنیا؟ اور حاکم نے اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں میں اجازت لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں بالا خانے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ایک یورپے پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم مبارک کا کچھ حصہ مٹی پر ہے اور آپ کے سرہانے ایک تکیہ ہے جس میں مجبور کی چھال بھری ہوئی ہے اور آپ کے سرہانے ایک بغیر رنگی ہوئی کھال لٹکی ہوئی ہے اور ایک کونے میں کیکر کے پتے پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں حضور ﷺ کو سلام کر کے بیٹھ گیا اور میں نے عرض کیا آپ اللہ کے نبی ﷺ اور اس کے خاص بندے (اور آپ کا یہ حال) اور کسریٰ اور قیصر سونے کے تختوں پر اور ریشم و دیبا کے پتھروں پر ہوں۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں جلدی دے دی گئی ہیں اور یہ دنیا جلد ختم ہو جانے والی ہے اور ہمیں بعد میں آخرت میں طیبات اور اچھی چیزیں دی جائیں گی۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ حضور ﷺ کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ حضور ﷺ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں تو حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! اگر آپ اس سے زیادہ نرم بستر لے لیتے تو اچھا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے اس دنیا سے کیا واسطہ۔ میری اور دنیا کی مثال اس سواری کی سی ہے جو سخت گرم دن میں چلا۔ پھر اس نے تھوڑی دیر ایک درخت کے نیچے آرام کیا پھر اس درخت کو چھوڑ کر چل دیا۔

لورواہ ابن حبان فی صحیحہ عن انس ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دخل علی النبی ﷺ . فذکر نحوه کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۶۱) وخرج حدیث انس ایضا احمد و ابو یعلیٰ بنحوہ قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۳۲۶) رجال احمد رجال الصحیح غیر مبارک بن فضالہ وقد وثقہ جماعة وضعفہ جماعة انہی . اخرجہ احمد و ابن حبان فی صحیحہ و البیہقی کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۶۰) و اخرجہ الترمذی و صحیحہ و ابن ماجہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحوه و الطبرانی و ابو الشیخ عن ابن مسعود نحوه حدیث عمر کما فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۵۹) و ابن حبان و الطبرانی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کما فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۶۲) و المجمع (ج ۱۰ ص ۳۲۷)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک انصاری عورت میرے پاس آئی اس نے حضور ﷺ کا بستر مبارک دیکھا کہ ایک چادر ہے جسے دوہرا کر کے پھلایا ہوا ہے (پھر وہ چلی گئی) اور اس نے میرے پاس ایک بستر بھجیا جس کے اندر لون بھری ہوئی تھی۔ جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو اسے دیکھ کر فرمایا اے عائشہ! یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی تھی اس نے آپ کا بستر دیکھا تھا۔ پھر اس نے واپس جا کر میرے پاس یہ بستر بھجیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ! یہ واپس کر دو۔ اللہ کی قسم! اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے لون کا کپڑا اپنا اور پیوند والا جو تا استعمال فرمایا اور کھر درے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور بشع کھانا کھایا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بشع کھانا کون سا ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ موٹے پے ہوئے جو۔ جنہیں حضور ﷺ پانی کے گھونٹ کے ذریعہ ہی نگلا کرتے تھے۔

حضرت ام ایمنؓ فرماتی ہیں میں نے آنا چھان کر اس کی حضور ﷺ کے لئے ایک چپاتی پکائی (اور حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کی) حضور ﷺ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کھانے کی ایک قسم ہے جسے ہم اپنے علاقہ (حبشہ) میں پکایا کرتے ہیں تو میرا دل چاہا کہ میں اس میں سے آپ کے لئے ایک چپاتی بناؤں۔ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں چھان بورے کو اسی آٹے میں واپس ملا کر گوندھو (اور پھر اس سے میرے لئے روٹی پکاؤ)۔

حضرت ابو رافعؓ کی بیوی حضرت سلمیٰؓ فرماتی ہیں حضرت حسن بن علی، حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہمارے لئے وہ کھانا تیار کریں جو حضور ﷺ کو پسند تھا۔ میں نے کہا اے میرے بیٹو! میں پکا تو دوں گی لیکن آج تمہیں وہ کھانا اچھا نہیں لگے گا (خیر تم لوگوں کا اصرار ہے تو میں پکارتی ہوں) چنانچہ میں اٹھی اور جو لے کر انہیں پیسا اور پھونک مار کر موٹی موٹی بھوسی اڑوئی پھر اس کی ایک روٹی تیار کی پھر اس روٹی پر تیل لگایا اور اس پر کالی مرچ چھڑکی پھر اسے ان کے سامنے رکھا اور میں نے کہا حضور ﷺ کو یہ کھانا پسند تھا۔

۱۔ اخراجہ البیہقی و اخراجہ ابو الشیخ اطول منہ کما فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۶۳)

۲۔ اخراجہ ابن ماجہ والحاکم وفیہ یوسف بن ابی کلثوم و هو مجهول عن نوح بن ذکوان و هو واہ وقال الحاکم صحیح الاسناد (وعندہ خشنا موضع بشع) کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۲۲)

۳۔ اخراجہ ابن ماجہ و ابن ابی اللیثی کتاب الجوع وغیر ہما کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۵۴)

۴۔ اخراجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۳۲۵) رجالہ رجال الصحیح غیر فاقد مولیٰ ابن ابی رافع و هو ثقہ وقال فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۵۹) ورواہ الطبرانی و اسنادہ جید۔

حضرت لئن عمرؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ باہر نکلے۔ آپ انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور زمین سے کھجوریں چن کر نوش فرمانے لگے اور مجھ سے فرمایا اے لئن عمرؓ! کیا ہوا تم نہیں کھاتے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! ان کھجوروں کے کھانے کو میرا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا لیکن میرا دل تو چاہ رہا ہے اور یہ جو تھی صبح ہے جو میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اگر میں چاہتا تو میں اپنے رب سے دعا کرتا تو وہ مجھے کسرا کی لور قیصر جیسا ملک دے دیتا۔ اے لئن عمرؓ! تمہارا اس وقت کیا حال ہو گا جب تم ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے جو ایک سال کی روزی ذخیرہ کر کے رکھیں گے اور یقین کمزور ہو جائے گا؟ حضرت لئن عمرؓ کہتے ہیں اللہ کی قسم! ہم ابھی وہاں ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی: وَكَانَ حِينَ ذَٰلِكَ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سورة عنكبوت آیت ۶۰)

ترجمہ: ”اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے۔ اللہ ہی ان کو (مقدر) روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی لور وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے“ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ تو دنیا جمع کرنے کا لور نہ خواہشات کے پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ لہذا جو آدمی اس ارادے سے دنیا جمع کرتا ہے کہ بقیہ زندگی میں کام آئے گی تو اسے سمجھ لینا چاہئے کہ زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے (نہ معلوم کتنے دن باقی ہیں) غور سے سنو! میں دینار و درہم بھی جمع نہیں کرتا لور نہ کل کے لئے کچھ بچا کر رکھتا ہوں۔“

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ کی خدمت میں ایک پیالہ لایا گیا جس میں دودھ لور شہد تھا تو حضور ﷺ نے فرمایا پینے کی دو چیزوں کو ایک بنا دیا اور ایک پیالے میں دو سالن جمع کر دیئے (یعنی دودھ لور شہد میں سے ہر ایک پینے لور سالن کے کام آسکتا ہے) مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ غور سے سنو! میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن ضرورت سے زائد چیزوں کے بارے میں پوچھے میں تو اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہوں کیونکہ جو بھی اللہ کے لئے تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلند کریں گے لور جو تکبر کرے گا اللہ اسے گرا میں گے لور جو (خرچ کرنے میں) میانہ روی اختیار کرے گا اللہ اسے غنی کر دیں گے لور جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے ﷺ

۱۔ اخرجه ابو الشيخ ابن حبان في كتاب التواب كذا في الترغيب (ج ۵ ص ۱۴۹) و اخرجه ابن ابي حاتم عن ابن عمر مثله وفيه ابو العطف الجزري وهو ضعيف كما في التفسير لا بن كثير (ج ۳ ص ۴۲۰) ۲۔ اخرجه الطبراني في الاوسط كذا في الترغيب (ج ۵ ص ۱۵۸) وقال الهيثمي (ج ۱ ص ۳۲۵) وفيه نعيم بن مورع العنبري وقد وثقه ابن حبان وضعفه غير واحد و بقیة رجاله ثقات

## حضرت ابو بکر صدیقؓ کا زہد

حضرت زید بن ارقمؓ فرماتے ہیں ہم لوگ حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پینے کے لئے پانی مانگا تو آپ کی خدمت میں شہد ملا ہو پانی پیش کیا گیا جب آپ نے اسے ہاتھ میں لیا تو رونے لگے اور ہچکیاں مار مار کر رونا شروع کر دیا جس سے ہم سمجھے کہ انہیں کچھ ہو گیا ہے لیکن (رعب کی وجہ سے) ہم نے ان سے کچھ نہ پوچھا۔ جب آپ چپ ہو گئے تو ہم نے کہا اے رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ! آپ اتنا زیادہ کیوں روئے؟ انہوں نے فرمایا (شہد ملا ہو پانی دیکھ کر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تھا اس کی وجہ سے رویا تھا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ (میں ایک مرتبہ حضور ﷺ کے ساتھ تھا اتنے میں میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ کسی چیز کو اپنے سے دور کر رہے ہیں لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہیں آرہی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیا چیز ہے جسے آپ دور کر رہے ہیں مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آرہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا میری طرف بڑھی تو میں نے اس سے کہا دور ہو جا تو اس نے کہا آپ تو مجھے لینے والے نہیں ہیں (یعنی یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے نہیں لیں گے میں ویسے ہی زور لگا رہی ہوں) حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا (اس واقعہ کے یاد آنے سے میں رویا تھا) اور شہد ملا ہو پانی پینا میرے لئے مشکل ہو گیا اور مجھے ڈر لگا کہ اسے پی کر کہیں میں حضور ﷺ کے طریقہ سے ہٹ نہ جاؤں اور دنیا مجھ سے چٹ نہ جائے۔

حضرت زید بن ارقمؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکرؓ نے پینے کے لئے پانی مانگا تو ان کی خدمت میں ایک برتن لایا گیا جس میں شہد اور پانی تھا۔ جب اسے اپنے منہ کے قریب لے گئے تو رو پڑے اور اتنا روئے کہ اس پاس والے بھی رونے لگ گئے۔ آخر وہ تو خاموش ہو گئے لیکن اس پاس والے خاموش نہ ہو سکے پھر اسے دوبارہ منہ کے قریب لے گئے تو پھر رونے لگے اور اتنا زیادہ روئے کہ ان سے رونے کا سبب پوچھنے کی کسی میں ہمت نہ ہوئی آخر جب ان کی طبیعت ہلکی ہو گئی اور انہوں نے اپنا منہ پونچھا تو لوگوں نے ان سے پوچھا آپ اتنا زیادہ کیوں روئے؟ اس کے بعد پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضور ﷺ

۱ اخراجہ البزار قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۲۵۴) رواہ البزار وفیہ عبدالواحد بن زید الزاہد وهو ضعیف عند الجمهور و ذکرہ ابن حبان فی الثقات وقال یعتبر حدیثہ اذا کان فوقہ ثقہ ودو نہ ثقہ و بقیۃ رجالہ ثقات . انتہی وقال فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۶۸) رواہ ابن ابی الدنیا والبزار ورواہ ثقات الا عبدالواحد بن زید وقد قال ابن حبان یعتبر حدیثہ اذا کان فوقہ ثقہ و دو نہ ثقہ وهو هنا کذا لک . انتہی

کے دور کرنے سے دنیا ایک طرف کو ہو کر کہنے لگی، اللہ کی قسم! اگر آپ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے ہیں تو (کوئی بات نہیں) آپ کے بعد والے میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکیں گے۔<sup>۱</sup>

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضرت ابو بکرؓ نے انتقال پر کوئی دینار و درہم ترکہ میں نہ چھوڑا بلکہ انہوں نے انتقال سے پہلے ہی اپنا سارا مال بیت المال میں جمع کرادیا تھا۔ حضرت عروہؓ فرماتے ہیں حضرت ابو بکرؓ نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے تمام دینار و درہم بیت المال میں جمع کرا دیئے تھے اور فرمایا میں اپنے اس مال سے تجارت کیا کرتا تھا اور روزی تلاش کیا کرتا تھا اب مسلمانوں کا خلیفہ بن جانے کی وجہ سے تجارت کی اور کسب معاش کی فرصت نہ رہی۔<sup>۲</sup>

حضرت عطاء بن سائب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مسلمان حضرت ابو بکرؓ سے بیعت ہو گئے تو وہ حسب معمول صبح کو بازار پر چادریں ڈال کر بازار جانے لگے۔ ان سے حضرت عمرؓ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کی آپ پر خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ داری آچکی ہے اس کا کیا کریں گے؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ حضرت عمرؓ نے عرض کیا حضرت ابو عبیدہؓ کے پاس چلیں وہ آپ کے لئے بیت المال میں کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجر کو لوہا جو ملتا تھا نہ کم نہ زیادہ، وہ مقرر کر دیا اور یہ بھی ملے گیا کہ ایک جوڑا سردی میں ملا کرے گا اور ایک گرمی میں لیکن پرانا جوڑا واپس کریں گے تو نیا ملے گا اور روزانہ آدھی بھری کا گوشت ملے گا۔ جس میں سری، کٹی، دل، گردے وغیرہ نہیں ہوں گے۔<sup>۳</sup>

حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکرؓ خلیفہ بنائے گئے تو حضور ﷺ کے صحابہؓ نے کہا رسول اللہ کے خلیفہ کیلئے اتنا وظیفہ مقرر کرو جو ان کے لئے کافی ہو۔ چنانچہ مقرر کرنے والوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ ایک تو ان کو (بیت المال سے) پینے کے لئے دو چادریں ملا کریں گی۔ جب وہ پرانی ہو جایا کریں تو انہیں واپس کر کے ان جیسی اور دو نئی چادریں لے لیا کریں اور دوسرے سفر کے لئے ان کو سواری ملا کرے گی اور تیسرے خلیفہ بننے سے پہلے یہ اپنے گھر والوں کو جتنا خرچہ دیا کرتے تھے اتنا خرچہ ان کو ملا کرے گا اس پر

۱۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۰) وھکذا اخراجہ الحاکم والبیہقی کما فی الكنز

(ج ۴ ص ۳۷) ۲۔ اخراجہ احمد فی الزھد کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۳۲)

۳۔ عند ابن سعد کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۲۹)

۴۔ عند ابن سعد ایضا کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۳۰)

حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا میں اس پر راضی ہوں۔

## حضرت عمر بن خطابؓ کا زہد

حضرت سالم بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمرؓ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت ابو بکرؓ والے اسی وظیفہ پر اکتفا کیا جو صحابہؓ نے ان کے لئے مقرر کیا تھا چنانچہ وہ کچھ عرصہ اتنا ہی لیتے رہے لیکن وہ ان کی ضرورت سے کم تھا اس لئے ان کے گزر میں تنگی ہونے لگی تو مہاجرین کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی جن میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیرؓ بھی تھے۔ حضرت زبیرؓ نے کہا اگر ہم حضرت عمرؓ سے کہیں کہ ہم آپ کے وظیفہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسا رہے گا۔ حضرت علیؓ نے کہا ہم تو پہلے سے ان کا وظیفہ بڑھانا چاہتے ہیں چلو چلتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ نے کہا یہ حضرت عمرؓ ہیں پہلے ہمیں ادھر ادھر سے ان کی رائے معلوم کرنی چاہئے (پھر ان سے براہ راست بات کرنی چاہئے) میرا خیال یہ ہے کہ ہم ام المومنین حضرت حصفہؓ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے حضرت عمرؓ کی رائے معلوم کرتے ہیں اور ان سے کہہ دیں گے کہ وہ حضرت عمرؓ کو ہم لوگوں کے نام نہ بتائیں۔ چنانچہ یہ حضرات حضرت حصفہؓ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ یہ بات ایک جماعت کی طرف سے حضرت عمرؓ سے کریں اور انہیں کسی کا نام نہ بتائیں لیکن اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر نام بتانے میں حرج نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ حضرات حضرت حصفہؓ کے پاس سے چلے آئے۔ پھر حضرت حصفہؓ حضرت عمرؓ کی خدمت میں گئیں اور نام لئے بغیر ان کی خدمت میں یہ بات پیش کی تو حضرت عمرؓ کے چہرہ پر غصہ کے آثار ظاہر ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ بات کن لوگوں نے کہی ہے؟ حضرت حصفہؓ نے عرض کیا پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے پھر میں آپ کو ان کے نام بتا سکتی ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو میں انہیں ایسی سخت سزا دیتا جس سے ان کے چہروں پر نشان پڑ جاتے۔ تم ہی میرے اور ان کے درمیان واسطہ بنی ہو اس لئے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں حضور ﷺ کا سب سے عمدہ لباس کون سا تھا؟ انہوں نے کہا گیر و بیرنگ کے دو کپڑے جنہیں کسی وفد کے آنے پر اور جمعہ کے خطبہ کے لئے پہنا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمرؓ نے پوچھا حضور ﷺ نے تمہارے ہاں سب سے عمدہ کھانا کون سا کھلایا؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہم نے جو کی ایک روٹی پکائی پھر اس گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبے کی تلچٹ الٹ کر اسے چبڑ دیا جس سے وہ روٹی خوب پکنی چڑی اور نرم ہو گئی

پھر حضور ﷺ نے خوب مزے لے کر اسے نوش فرمایا اور وہ روٹی آپ کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر حضرت عمرؓ نے پوچھا حضور ﷺ کا تمہارے ہاں سب سے زیادہ نرم بستری کون سا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک موٹا سا کپڑا تھا گرمی میں اس کو چوہرا کر کے پچھالیتے تھے اور سردی میں آدھے کو پچھالیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا اے حصہ! ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دو کہ حضور ﷺ نے اپنے طرز عمل سے ہر چیز میں ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے اور ضرورت سے زائد چیزوں کو اپنی اپنی جگہوں میں رکھا ہے (اور ان میں نہیں لگے) اور کم سے کم پر گزارہ کیا ہے۔ میں نے بھی ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے اور اللہ کی قسم! ضرورت سے زائد چیزوں کو ان کی جگہوں میں رکھوں گا اور میں بھی کم سے کم پر گزارہ کروں گا۔ میری اور میرے دو ساتھیوں کی مثال ان تین آدمیوں کی سی ہے جو ایک راستہ پر چلے ان میں سے پہلا آدمی توشہ لے کر چلا اور منزل مقصود تک پہنچ گیا پھر دوسرے نے بھی اسی کا اتباع کیا اور اسی کے راستہ پر چلا تو وہ بھی اسی منزل تک پہنچ گیا۔ پھر تیسرے آدمی نے بھی اسی پہلے کا اتباع کیا۔ اگر وہ ان دونوں کے راستہ کا خود کو پابند بنائے گا اور ان جیسا توشہ رکھے گا تو ان کے ساتھ جا ملے گا اور ان کے ساتھ رہا کرے گا اور اگر وہ ان دونوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بصرہ کی جامع مسجد میں ایک مجلس لگی ہوئی تھی میں ان کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ حضور ﷺ کے چند صحابہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کے زہد، حسن سیرت، اسلام اور ان دینی فضائل کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ میں ان لوگوں کے بالکل قریب چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت اصف بن قیس تمیمیؓ بھی ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے سنا وہ اپنا قصہ یوں بیان کر رہے تھے کہ ہمیں حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک جماعت کے ساتھ عراق بھیجا۔ اللہ نے ہمیں عراق اور فارس کے مختلف شہروں پر فتح نصیب فرمائی۔ ان علاقوں میں ہمیں فارس اور خراسان کے سفید کپڑے ملے وہ کپڑے ہم نے ساتھ رکھ لئے اور ان کو پہننا شروع کر دیا (ہم لوگ واپس مدینہ منورہ پہنچے) جب ہم لوگ حضرت عمرؓ کی خدمت میں پہنچے تو حضرت عمرؓ نے ہم سے چہرہ پھیر لیا اور ہم سے کوئی بات نہ کی۔ حضور ﷺ کے جو صحابہ ہمارے ساتھ تھے انہیں حضرت عمرؓ کے اس رویے سے سخت پریشانی ہوئی۔ پھر ہم لوگ حضرت عمرؓ کے

۱۔ اخرجه الطبرانی (ج ۴ ص ۱۶۴) واخرجه ايضاً ابن عساكر سالم بن عبدالله فذكر نحوه



صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی خدمت میں گئے اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطابؓ کی بے رخی اور سخت رویے کی ان سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا امیر المومنین نے تم لوگوں سے بے رخی اس وجہ سے کی ہے کہ انہوں نے تم لوگوں پر ایسا لباس دیکھا ہے جو انہوں نے نہ حضور ﷺ کو پہنے ہوئے دیکھا اور نہ ان کے بعد ان کے خلیفہ حضرت ابو بکرؓ کو پہنے ہوئے دیکھا۔ یہ سنتے ہی ہم لوگ اپنے گھر گئے اور وہ کپڑے اتار دیئے اور وہ کپڑے پہنے جو پہلے سے ہم لوگ حضرت عمرؓ کے سامنے پہنا کرتے تھے اور ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اس دفعہ وہ ہمارے استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے اور ایک ایک آدمی کو الگ الگ سلام کیا اور ہر ایک سے معافہ کیا اور ایسے گرم جوشی سے ملے کہ گویا اس سے پہلے انہوں نے ہمیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر ہم نے مال غنیمت آپ کی خدمت میں پیش کیا جسے آپ نے ہمارے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا پھر اس مال غنیمت میں کھجور اور گھی کے سرخ اور زرد رنگ کے حلوے کے ٹوکڑے آپ کے سامنے پیش کئے گئے۔ اس حلوے کو حضرت عمرؓ نے چکھا تو وہ انہیں خوب مزیدار خوشبودار لگا۔ پھر ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے جماعت مہاجرین و انصار! اللہ کی قسم! مجھے نظر آرہا ہے کہ اس کھانے کی وجہ سے تم میں سے بیٹا اپنے باپ کو اور بھائی اپنے بھائی کو ضرور قتل کرے گا۔ پھر آپ نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا اور اسے ان مہاجرین اور انصار کی اولاد میں تقسیم کر دیا گیا جو حضور ﷺ کے سامنے شہید ہوئے تھے پھر حضرت عمرؓ کھڑے ہو کر واپس چل پڑے۔ حضور ﷺ کے صحابہؓ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور کہنے لگے اے جماعت مہاجرین و انصار! تم ان حضرت کے زہد اور ان کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھتے؟ ہمیں تو ان کی وجہ سے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کسریٰ و قیصر کے ملک اور مشرق و مغرب کے علاقے فتح کروائے ہیں اور عرب و عجم کے وفود ان کے پاس آتے ہیں تو وہ ان پر یہ جبہ دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے بارہ پیوند لگا رکھے ہیں۔ لہذا اے محمد ﷺ کے صحابہؓ کی جماعت! آپ لوگ حضور ﷺ کے ساتھ بڑی بڑی جنگوں اور لڑائیوں میں شریک ہونے والوں میں سے بڑے درجے کے ہیں اور مہاجرین و انصار میں سے شروع زمانے کے ہیں۔ اگر آپ لوگ ان سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ یہ جبہ پہننا چھوڑ دیں اور اس کے بجائے کسی نرم کپڑے کا عمدہ جبہ بنالیں جس کے دیکھنے سے لوگوں پر رعب پڑے اور صبح و شام ان کے سامنے کھانے کے بڑے بڑے پیالے لائے جائیں جن میں سے خود بھی کھائیں اور مہاجرین و انصار میں سے جو حاضر ہوں ان کو بھی کھلائیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ سب لوگوں نے کہا حضرت عمرؓ سے یہ بات صرف دو آدمی کر

سکتے ہیں یا تو حضرت علی بن ابی طالبؓ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حضرت عمرؓ کے سامنے سب سے زیادہ جرأت سے بات کرتے ہیں اور پھر وہ حضرت عمرؓ کے خسر بھی ہیں یا پھر ان کی صاحبزادی حضرت حصہؓ کر سکتی ہیں کیونکہ وہ حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ ہیں اور اسی نبوی نسبت کی وجہ سے حضرت عمرؓ ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ ان حضرات نے حضرت علیؓ سے بات کی۔ حضرت علیؓ نے کہا میں حضرت عمرؓ سے یہ بات نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ حضور ﷺ کی ازواج مطہرات کے پاس جاؤ کیونکہ وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں وہ حضرت عمرؓ کے سامنے جرأت سے بات کر سکتی ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت عائشہؓ اور حضرت حصہؓ اکٹھی بیٹھی ہوئی تھیں ان حضرات نے جا کر ان دونوں کی خدمت میں اپنی درخواست پیش کی (کہ حضرت عمرؓ سے یہ بات کریں) اس پر حضرت عائشہؓ نے کہا میں ان کی خدمت میں یہ مطالبہ پیش کرتی ہوں۔ حضرت حصہؓ نے کہا میرے خیال میں تو حضرت عمرؓ کبھی ایسا نہیں کریں گے آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ دونوں امیر المؤمنین کی خدمت میں گئیں تو انہوں نے ان دونوں کو اپنے قریب بٹھایا۔ حضرت عائشہؓ نے کہا اے امیر المؤمنین! اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ بات کروں؟ حضرت عمرؓ نے کہا اے امیر المؤمنین! ضرور کریں حضرت عائشہؓ نے کہا حضور ﷺ اپنے راستے پر چلتے رہے اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی جنت اور خوشنودی ان کو حاصل ہو گئی۔ نہ آپ دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی دنیا آپ کے پاس آئی اور پھر اسی طرح ان کے بعد حضرت ابو بکرؓ ان کے راستے پر چلے اور انہوں نے حضور ﷺ کی سنتوں کو زندہ کیا اور جھٹلانے والوں کو ختم کیا اور اللہ باطل کے تمام دلائل کا منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے تمام رعایا میں انصاف کیا اور مال سب میں برابر تقسیم کیا اور مخلوق کے رب کو راضی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت اور خوشنودی کی طرف اٹھالیا اور رفیقِ اعلیٰ میں اپنے نبی کے پاس پہنچا دیا۔ (رفیقِ اعلیٰ سے مراد حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہے جو اعلیٰ علیین میں رہتے ہیں کہ وہ دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی دنیا ان کے پاس آئی لیکن اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کسری اور قیصر کے خزانے اور ملک فتح کر دئے ہیں اور ان دونوں کے خزانے وہاں سے آپ کی خدمت میں پہنچا دیئے گئے ہیں اور مشرق و مغرب کے آخری علاقے بھی آپ کے ماتحت ہو گئے ہیں بلکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس سلسلہ کو اور بڑھائیں گے اور اسلام کو اور زیادہ مضبوط فرمائیں گے۔ اب عجمی بادشاہوں کے قاصد اور عرب کے وفود آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ نے یہ جبہ پہن رکھا ہے جس میں آپ نے بارہ پونڈ لگا رکھے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے اتار دیں اور

اس کی جگہ نرم کپڑے کا عمدہ جبہ پہن لیں جس کے دیکھنے سے لوگوں پر رعب پڑے اور صبح و شام آپ کے سامنے کھانے کے بڑے بڑے پیالے لائے جائیں جن میں سے آپ بھی کھائیں اور مہاجرین و انصار میں سے جو حاضر ہوں ان کو بھی کھلائیں۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ بہت رونے پھر فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی وفات تک مسلسل دس دن یا پانچ دن یا تین دن گندم کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی ہو یا کسی دن دوپہر کا کھانا بھی کھایا ہو اور رات کا بھی؟ حضرت عائشہؓ نے کہا نہیں۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ کبھی حضور ﷺ کے سامنے زمین سے ایک بالشت اونچے دسترخوان پر کھانا رکھا گیا ہو؟ بلکہ آپ کے فرمانے پر کھانا زمین پر رکھا جاتا تھا اور فارغ ہونے کے بعد دسترخوان اٹھالیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت حصہؓ دونوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہوتا تھا۔ پھر حضرت عمرؓ نے ان دونوں سے فرمایا تم دونوں حضور ﷺ کی بیویاں ہو اور تمام مسلمانوں کی مائیں ہو۔ تم دونوں کا تمام مسلمانوں پر عموماً اور مجھ پر خاص طور سے بڑا حق ہے۔ تم دونوں مجھے دنیا کی ترغیب دینے آئی ہو حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے لون کا جبہ پہنا تھا وہ بہت کھر در اور سخت تھا جس کی رگڑ کی وجہ سے ان کے جسم میں خارش ہونے لگ گئی تھی۔ کیا تمہیں بھی یہ بات معلوم ہے؟ دونوں نے کہا جی ہاں معلوم ہے۔ پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور ﷺ اکہرے چنے پر سویا کرتے تھے؟ اور اے عائشہؓ! تمہارے گھر میں ایک بوری تھا جسے حضور ﷺ دن میں پچھوٹا اور رات کو بستر بنا لیا کرتے تھے۔ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کے جسم پر اس بوری کے نشان ہمیں نظر آیا کرتے تھے اور اے حصہؓ! اب تم سنو! تم نے ہی مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تم نے حضور ﷺ کے لئے ایک رات بستر دوہرا کر کے بچھا دیا تھا جو آپ کو نرم محسوس ہو آپ اس پر سو گئے اور ایسے سوئے کہ حضرت بلالؓ کی اذان پر آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے تم سے فرمایا تھا اے حصہؓ! یہ تم نے کیا کیا؟ آج رات تم نے میرا بستر دوہرا کر کے بچھلایا تھا جس کی وجہ سے میں صبح صادق تک سوتا رہا۔ مجھے دنیا سے کیا واسطہ؟ تم نے نرم بستر میں مجھے لگا دیا (جس کی وجہ سے میں تہجد میں نہ اٹھ سکا) اے حصہؓ! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور ﷺ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے تھے لیکن پھر بھی آپ دن بھر بھوکے رہتے اور رات کا اکثر حصہ سجدہ میں گزار دیتے اور ساری عمر یونہی رکوع اور سجدے میں رونے دھونے اور گڑ گڑانے میں گزار دی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت اور خوشنودی کی طرف اٹھالیا۔ عمرؓ کبھی عمدہ کھانا نہیں کھائے گا اور کبھی نرم کپڑا نہیں

پنپنے گا وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی دو سالن ایک وقت میں نہیں کھائے گا البتہ نمک اور تیل بھی دو سالن ہیں لیکن ان کو ایک وقت میں استعمال کرے گا اور مہینہ میں صرف ایک دن گوشت کھائے گا تاکہ اس کا مہینہ بھی عام لوگوں کی طرح گزرے پھر حضرت عائشہؓ اور حضرت حصہؓ دونوں حضرت عمرؓ کے گھر سے نکلیں اور ان کی ساری بات انہوں نے حضور ﷺ کے صحابہؓ کو بتائی۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے لباس اور کھانے وغیرہ کا معیار بدلا بلکہ اسی زاہدانہ طرز پر زندگی گزار دی یہاں تک کہ اللہ عزوجل سے جا ملے۔<sup>۱</sup>

حضرت عکرمہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حصہؓ، حضرت لئن مطیع اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حضرت عمرؓ سے یہ بات کی کہ اگر آپ اچھا کھانا کھایا کریں تو اس سے آپ کو حق پر چلنے میں زیادہ قوت حاصل ہوگی۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم میں سے ہر آدمی میرا خیر خواہ ہے لیکن میں نے اپنے دونوں ساتھیوں حضور ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کو ایک راستہ پر چلتے ہوئے چھوڑا ہے، اگر میں ان دونوں کا راستہ چھوڑ دوں گا تو منزل مقصود میں ان سے نہیں مل سکوں گا۔ یعنی ان والی منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا۔<sup>۲</sup>

حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیفؓ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک حضرت عمرؓ نے بیت المال سے کچھ نہ لیا (اور مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں مشغولی کی وجہ سے تجارت میں لگنے کی فرصت بھی نہ تھی) اس وجہ سے ان پر تنگی اور فقر و فاقہ کی نوبت آگئی تو انہوں نے حضور ﷺ کے صحابہؓ کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا کہ میں امر خلافت میں بہت مشغول ہو گیا ہوں (کاروبار کی فرصت نہیں ملتی) تو میرے لئے بیت المال میں سے کتنا لینا مناسب ہے؟ حضرت عثمان بن عفانؓ نے کہا آپ بیت المال میں سے خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ یہی بات حضرت سعید بن زید بن عمرو بن قنیل رضی اللہ عنہ نے کہی حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ سے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علیؓ نے کہا آپ دوپہر اور رات کا وقت کا کھانا لے لیا کریں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کے مشورے پر عمل کیا۔<sup>۳</sup>

حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا کہ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہتا تو تم سب سے زیادہ عمدہ کھانا کھاتا اور تم سے زیادہ نرم کپڑے پہنتا، لیکن میں اپنی نیکیوں کا بدلہ

۱ اخراجہ ابن عساکر کذا فی منتخب کنز العمال (ج ۴ ص ۴۰۸)

۲ اخراجہ عبدالرزاق والبیہقی و ابن عساکر کذا فی منتخب کنز (ج ۴ ص ۴۱۱)

۳ اخراجہ ابن سعد کذا فی منتخب کنز (ج ۴ ص ۴۱۱)

یہاں نہیں لینا چاہتا بلکہ آخرت میں لینا چاہتا ہوں اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب حضرت عمرؓ بن خطاب ملک شام آئے تو ان کے لئے ایسا عمدہ کھانا تیار کیا گیا کہ انہوں نے اس جیسا کھانا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تو اسے دیکھ کر فرمایا ہمیں تو یہ کھانا مل گیا لیکن وہ مسلمان فقراء جن کا اس حال میں انتقال ہوا کہ ان کو پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہ ملتی تھی ان کو کیا ملے گا؟ اس پر حضرت عمر بن ولیدؓ نے کہا انہیں جنت ملے گی یہ سن کر حضرت عمرؓ کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور فرمایا اگر ہمارے حصہ میں دنیا کا یہ مال و متاع ہے اور وہ جنت لے جائیں تو وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے اور بڑی فضیلت حاصل کر لی۔

حضرت لئن عمرؓ فرماتے ہیں میں گھر میں اپنے دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا کہ اتنے میں حضرت عمرؓ تشریف لے آئے۔ میں نے ان کے لئے صدر مجلس میں جگہ خالی کر دی (وہ وہاں بیٹھ گئے) پھر انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک لقمہ لیا اور پھر دوسرا لقمہ فرمایا مجھے اس سالن میں چکنائی محسوس ہو رہی ہے جو کہ گوشت کی اپنی نہیں ہے بلکہ الگ سے ڈالی گئی ہے۔ میں نے کہا امیر المؤمنین! میں آج بازار (دودر ہم لے کر) گیا تھا میرا خیال تھا کہ میں عمدہ اور چرٹی والا گوشت خریدوں گا لیکن وہ مہنگا تھا اس لئے میں نے ایک درہم کا کمزور جانور کا گھٹیا گوشت خرید لیا اور ایک درہم کا گھی خرید کر اس میں ڈال دیا (میں نے اپنا خرچہ نہیں بڑھایا) میں نے سوچا اس طرح میرے بیوی بچوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک بڑی تول جائے گی۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے کہا جب بھی حضور ﷺ کے سامنے گوشت اور گھی دونوں آجاتے تو ایک کو نوش فرماتے اور دوسرے کو صدقہ کر دیتے (دونوں کو نوش نہ فرماتے۔ اس لئے میں بھی یہ سالن نہیں کھا سکتا اس میں گوشت بھی ہے اور گھی بھی) میں نے عرض کیا امیر المؤمنین! اس وقت تو آپ یہ سالن کھالیں آئندہ جب بھی گوشت اور گھی مجھے ملے گا میں یہی کروں گا (کہ ایک کو کھالوں گا اور دوسرے کو صدقہ کر دوں گا۔ دونوں کو ملا کر ایک سالن نہیں بناؤں گا) حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں اس سالن کو کھانے کے لئے بالکل تیار نہیں ہوں۔

حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ اپنی بیٹی حضرت حفصہؓ کے ہاں گئے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کے سامنے ٹھنڈا شوربا اور روٹی رکھی اور شوربے پر تیل

۱۔ اخرجه عبد بن حميد و ابن جرير كذا في المنتخب (ج ۴ ص ۱۰۶)۔

۲۔ اخرجه ابن ماجه كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۴۶)۔

۳۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۲۳۰)۔

ڈال دیا تو حضرت عمرؓ نے کہا ایک برتن میں دو سالن (ایک شوربا اور دوسرا تیل) میں مرتے دم تک ایسے سالن کو نہیں چکھ سکتا۔ ۳

حضرت انسؓ فرماتے ہیں میں نے زمانہ خلافت میں حضرت عمرؓ بن خطاب کا یہ معمول دیکھا کہ ان کے سامنے ایک صاع (ساڑھے تین سیر) کھجور رکھی جاتی تو اس میں سے کھاتے رہتے یہاں تک کہ اس میں جو ردی قسم کی ہوتی اسے بھی کھا لیتے۔ حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ حضرت عمر بن خطابؓ کے ہاں رات کا کھانا کھایا۔ وہ گوشت روٹی کھاتے اور پھر اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں پر پھیر کر صاف کر لیتے اور فرماتے یہ عمرؓ اور آل عمر کے ہاتھ صاف کرنے کا تالیہ ہے۔ حضرت ثمت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت جبارودؓ نے حضرت عمر بن خطابؓ کے ہاں ایک مرتبہ کھانا کھایا جب حضرت جبارود کھانے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا اے باندی! ذرا تالیہ لے آنا۔ وہ اس سے ہاتھ صاف کرنا چاہتے تھے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا اپنے سرین سے اپنا ہاتھ صاف کر لو۔ ۴

حضرت عبدالرحمن بن ابولیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے (حضرت عمرؓ نے ان کو کھانا کھلایا تو) حضرت عمرؓ کو ایسے لگا کہ جیسے انہوں نے کم کھایا ہو (وہ لوگ عمدہ کھانا کھانے کے عادی تھے اور حضرت عمرؓ کا کھانا موٹا جھوٹا اور سادہ تھا) حضرت عمرؓ نے کہا اے عراق والو! اگر میں چاہتا تو میرے لئے بھی عمدہ اور نرم کھانے تیار کئے جاتے جیسے تمہارے لئے کئے جاتے ہیں لیکن ہم دنیا کی چیزیں کم سے کم استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا بدلہ آخرت میں مل سکے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک قوم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان سے قیامت کے دن یہ کہہ دیا جائے گا۔

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا. (سورۃ احقاف آیت ۲۰)

ترجمہ: ”تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیوی زندگی میں حاصل کر چکے۔“ ۳

حضرت حبیب بن ابی ثمت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ساتھی سے روایت کرتے ہیں کہ عراق کے کچھ لوگ حضرت عمرؓ کے پاس آئے ان میں حضرت جبر بن عبداللہؓ بھی تھے۔ حضرت عمرؓ ان کے لئے ایک بڑا پیالہ لائے جس میں روٹی اور تیل تھا اور ان سے فرمایا کھاؤ تو انہوں نے تھوڑا سا کھایا (حضرت عمرؓ سمجھ گئے کہ ان کو یہ سادہ کھانا پسند نہیں آیا) اس پر

۳ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۳۰) عند الدینوری

۴ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۴۹)

حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا تم جو کر رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ یہی چاہتے ہونا کہ رنگ برنگے کھٹے بیٹھے گرم اور ٹھنڈے کھانے ہوں اور ان سب کو پیٹ میں ٹھونس دیا جائے (اور میں ایسا کرنے کے لئے بالکل تیار نہیں ہوں)۔

حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حفص بن ابی العاصؓ کھانے کے وقت حضرت عمرؓ کے ہاں حاضر تھے لیکن ان کا کھانا نہ کھایا۔ حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا تم ہمارا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا آپ کا کھانا سخت اور موٹا جھوٹا ہے (میں اسے کھا نہیں سکتا) میرے لئے عمدہ اور نرم کھانا پکایا گیا ہے۔ میں واپس جا کر وہ کھاؤں گا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں تو وہ بحری کے بال صاف کر کے اسے بھون لیں اور وہ آٹے کو کپڑے میں چھان کر اس کی پتلی چپاتیاں پکالیں اور وہ ایک صاع کشمش ڈول میں ڈال کر اس پر پانی ڈال دیں جس سے ہرن کے خون کی طرح سرخ مشروب تیار ہو جائے؟ حضرت حفص نے کہا آپ کی یہ بات سن کر تو پتہ چلا کہ آپ اچھی زندگی کے طریقوں اور کھانے پینے کی قسموں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر میں قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے بدلہ میں کمی کو برداشت نہ سمجھتا تو میں بھی تمہارے ساتھ اس زندگی کے مزوں میں ضرور شریک ہو جاتا۔

حضرت سالم بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے خطاب فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم! ہمیں اس دنیا کی لذتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے کہنے پر لذتوں کے یہ سامان تیار ہو سکتے ہیں۔ جو ان بحروں کے بال صاف کر کے ان کو بھون لیا جائے اور میدے کی عمدہ روٹیاں پکالی جائیں اور ڈول میں کشمش کو پانی ڈال کر اتنی دیر رکھا جائے کہ چکور کی آنکھ جیسے رنگ کا صاف ستھرا مشروب تیار ہو جائے اور پھر ہم ان تمام چیزوں کی کھاپی جائیں۔ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ آخرت میں ملے یہاں نہ ملے کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا لڑ شاد سن رکھا ہے:

ادھم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا (ترجمہ گزر چکا)۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں میں اللہ بصرہ کے وفد کے ساتھ حضرت عمرؓ

۱ عند ابی نعیم ایضاً (ج ۱ ص ۴۹) کذا فی منتخب الكنز (ج ۴ ص ۴۰۵)

۲ أخرجه ابن سعد و عبد بن حمید کذا فی منتخب الكنز (ج ۴ ص ۴۰۳)

۳ عند ابی نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۴۹)

خطابؓ کی خدمت میں آیا۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے (ہم نے دیکھا کہ ان کے لئے روزانہ ایک روٹی توڑ کر لائی جاتی ہے اور وہ اسے کبھی گھی سے کبھی تیل سے اور کبھی دودھ سے کھا لیتے ہیں۔ کبھی دھوپ میں خشک کئے ہوئے گوشت کے ٹکڑے بھی لائے جاتے جو پانی میں لپٹے ہوئے ہوتے تھے۔ کبھی ہم نے تازہ گوشت بھی ان کے سامنے دیکھا لیکن بہت کم (وہ ہمیں یہی کھانے کھلایا کرتے تھے) ایک دن حضرت عمرؓ نے ہم سے فرمایا اللہ کی قسم! میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ میرے کھانے کو گھٹیا سمجھتے ہو اور اچھا نہیں سمجھتے ہو۔ اللہ کی قسم! اگر میں چاہتا تو میں تم سب سے زیادہ عمدہ کھانے والا اور تم سب سے زیادہ ناز و نعمت کی زندگی والا ہوتا۔ غور سے سنو! اللہ کی قسم! میں اونٹ کے سینے اور کوبان کے گوشت (ان دو جگہوں کا گوشت سب سے عمدہ شمار ہوتا ہے) سے بھنے ہوئے گوشت سے چپاتیوں اور رائی کی چٹنی سے ناواقف نہیں ہوں لیکن (میں انہیں قصد استعمال نہیں کرتا کیونکہ) میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنا ہے کہ وہ ایک قوم کو ان کے کئے ہوئے ایک غلط کام پر عار دلاتے ہوئے فرماتے ہیں:

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا.

ترجمہ: ”تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب مدت چکے“ حضرت ابو موسیٰؓ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر تم لوگ امیر المؤمنین سے بات کر لو کہ وہ تمہارے لئے بیت المال سے کچھ کھانا مقرر کر دیں جسے تم کھا لیا کرو تو یہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عمرؓ سے بات کی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا تم لوگ اپنے لئے وہ کھانا پسند نہیں کرتے جو میں اپنے لئے پسند کرتا ہوں؟ تو ان لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین! ہدینہ منورہ ایسا شہر ہے جہاں (ہمارے لئے) زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے اور آپ کا کھانا ایسا عمدہ اور مزیدار نہیں ہے جسے کھانے کے لئے کوئی آئے۔ ہم لوگ سرسبز و شاداب علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے امیر ایسے ہیں کہ لوگ شوق سے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کا کھانا ایسا عمدہ ہوتا ہے کہ خوب کھایا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکایا پھر سر اٹھا کر فرمایا میں تم لوگوں کے لئے بیت المال سے روزانہ دو بکریاں اور دو بکریاں مقرر کر دیتا ہوں۔ صبح کو ایک بکری اور ایک بوری پکالیا کرو پھر خود بھی کھاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاؤ اور پھر حلال مشروب منگا کر پہلے خود پیو پھر اپنے دائیں طرف والے کو پلاؤ پھر اس کے ساتھ والے کو۔ پھر اپنے کام کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور ایسے ہی شام کو دوسری بکری اور دوسری بوری پکاؤ۔ خود بھی کھاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاؤ۔ غور سے سنو! تم لوگ عام



لوگوں کے گھروں میں اتنا بھیجو کہ ان کا پیٹ بھر جائے اور ان کے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ کیونکہ اگر تم لوگ لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش آؤ گے تو اس سے ان لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکیں گے اور ان کے بھوکوں کے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کی قسم! اس سب کے باوجود میرا خیال یہ ہے کہ جس گاؤں سے روزانہ دو بھریاں اور دو بھریاں لی جائیں گی وہ جلد اجڑ جائے گا۔

حضرت عقبہ بن فرقد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں کھجور اور گھی کے حلوے کے ٹوکڑے لے کر حضرت عمرؓ کی خدمت میں آیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کچھ کھانے کی چیز ہے جسے میں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ آپ دن کے شروع میں لوگوں کی ضرورتوں میں لگے رہتے ہیں تو میرا دل چاہا کہ جب آپ اس سے فارغ ہو کر گھر جایا کریں تو اس میں سے کچھ کھالیا کریں اس سے انشاء اللہ آپ کو طاقت حاصل ہو جایا کرے گی اس پر حضرت عمرؓ نے ایک ٹوکڑے کو کھول کر دیکھا اور فرمایا عقبہ! میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے ہر مسلمان کو ایسا ایک ٹوکڑا حلوے کا دے دیا ہے؟ میں نے کہا امیر المؤمنین! میں اگر قبیلہ قیس کا سارا مال بھی خرچ کر دوں تو بھی یہ نہیں ہو سکتا (کہ ہر مسلمان کو حلوے کا ایک ٹوکڑا دے دو) حضرت عمرؓ نے کہا پھر تو مجھے تمہارے اس حلوے کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے ایک بڑا پیالہ منگوا یا جس میں سخت روٹی اور سخت گوشت کے ٹکڑوں سے بنا ہوا اثرید تھا (ہم دونوں اس میں سے کھانے لگے) حضرت عمرؓ میرے ساتھ اسے بڑی رغبت سے کھا رہے تھے۔ میں کوہان کی چربی سمجھ کر ایک سفید ٹکڑے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اسے اٹھانے کے بعد پتہ چلتا کہ یہ تو پٹھے کا ٹکڑا ہے اور میں گوشت کے ٹکڑے کو چباتا رہتا لیکن وہ اتنا سخت ہوتا کہ میں اسے نکل نہ سکتا آخر جب حضرت عمرؓ کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی تو میں گوشت کے اس ٹکڑے کو منہ سے نکال کر پیالے اور دسترخوان کے درمیان چھپا دیتا۔ پھر حضرت عمرؓ نے نبیذ (کھجور یا کشمش کا شربت) ایک بڑے پیالے میں منگایا جو سر کہنے والا تھا (اور خوش ذائقہ نہیں تھا) انہوں نے مجھ سے فرمایا پیالے میں اسے لے کر پینے لگا لیکن حلق سے نیچے بڑی مشکل سے اتارا۔ پھر انہوں نے وہ پیالہ مجھ سے لیا اور اسے پی گئے۔ پھر فرمایا عقبہ! سنو ہم روزانہ ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں اور اس کی چربی اور عمدہ گوشت باہر سے آئیوالے مسلمانوں کو کھلا دیتے ہیں اس کی گردن آل عمرؓ کو ملتی ہے وہ یہ سخت گوشت کھاتے ہیں اور یہ باسی نبیذ اسلئے پیتے ہیں تاکہ یہ نبیذ پیٹ میں جا کر اس گوشت

کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہضم کر دے اور یہ سخت گوشت ہمیں تکلیف نہ دے سکے۔<sup>۱</sup>  
 حضرت حسنؓ کہتے ہیں حضرت عمرؓ ایک آدمی کے گھر تشریف لے گئے آپ کو پیاس لگی  
 ہوئی تھی آپ نے اس آدمی سے پانی مانگا وہ شہد لے آیا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس  
 نے کہا شہد ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم! (شہد پینا انسان کی جیادی ضرورتوں میں سے  
 نہیں ہے بلکہ یہ تو مزے لینے کی چیز ہے اس لئے) شہد ان چیزوں میں سے نہیں ہو گا جن کا  
 مجھ سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ حضرت زید بن اسلمؓ کہتے ہیں ایک مرتبہ  
 حضرت عمرؓ نے پینے کا پانی مانگا۔ ایک صاحب پانی میں شہد ملا کر لے آئے تو حضرت عمرؓ نے  
 فرمایا یہ ہے تو بڑا مزیدار لیکن میں سن رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کی یہ برائی بتا رہے ہیں کہ وہ  
 اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گئے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں:

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبًا تَكُمُ فِي حَيَاةِكُمْ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا چنانچہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں

ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں دے دیا جائے اور اس پانی کو نہ پیا۔<sup>۲</sup>

حضرت عروہؓ فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطابؓ ایلیہ شہر تشریف لے گئے اور ان کے  
 ساتھ مہاجرین و انصار بھی تھے۔ حضرت عمرؓ مدینہ سے کافی لمبا سفر کر کے آئے تھے اس لئے  
 مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے ان کا کھر درے کپڑے والا کرتہ پیچھے سے پھٹ گیا تھا۔ حضرت عمرؓ  
 نے وہ کرتا پادری کو دیا اور فرمایا اسے دھو بھی دو اور اس میں پیوند بھی لگا دو۔ وہ پادری کرتہ لے  
 گیا اور اسے دھو کر اس میں پیوند بھی لگایا اور اس جیسا ایک اور کرتہ سی کر حضرت عمرؓ کی  
 خدمت میں لے آیا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس پادری نے کہا یہ آپ کا کرتہ ہے  
 جسے میں نے دھو کر پیوند لگا دیا ہے اور یہ دوسرا کرتہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں  
 ہدیہ ہے حضرت عمرؓ نے اس نئے کرتے کو دیکھا اور اس پر ہاتھ پھرا (وہ نرم اور باریک تھا) پھر  
 اپنا کرتہ پن لیا اور اس کا واپس کر دیا اور فرمایا (پرانا) کرتہ اس سے زیادہ پسینہ جذب کرتا ہے  
 (کیونکہ یہ موٹا ہے)۔<sup>۳</sup>

حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ زمانہ خلافت میں ایسا اونٹنی جبہ پہنتے تھے جس میں

۱۔ اخراجہ ہناد کذا فی منتخب الكنز (ج ۴ ص ۴۰۴)

۲۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۳۰) و اخراجہ ابن عساکر عن الحسن مثله كما فی المنتخب

(ج ۴ ص ۴۰۴) ۳۔ ذکرہ زین کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۶۸)

۴۔ اخراجہ الطبری (ج ۴ ص ۲۰۳) و اخراجہ ابن المبارک عن عروہ عن عامل العمر رضی اللہ

تعالیٰ عنہ بنحوہ كما فی المنتخب (ج ۴ ص ۴۰۲)

چڑے کے پیوند بھی لگے ہوتے تھے اور کندھے پر کوڑا رکھ کر لوگوں کو اوب اور سلیقہ سکھانے کے لئے بازاروں میں چکر لگایا کرتے تھے اور گرے پڑے ٹوٹے ہوئے دھاگے اور رسیاں اور گٹھلیاں زمین سے اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں ڈال دیتے تاکہ لوگ انہیں اپنے کام میں لے آئیں۔<sup>۱</sup>

حضرت حسنؓ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطابؓ اپنے زمانہ خلافت میں لوگوں میں بیان کر رہے تھے اور انہوں نے ایک لنگی باندھ رکھی تھی جس میں بارہ پیوند تھے۔<sup>۲</sup> حضرت انسؓ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ زمانہ خلافت میں حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اوپر نیچے تین پیوند لگا رکھے تھے۔<sup>۳</sup> حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے گزارہ کے قابل خوراک لیا کرتے تھے۔ گرمیوں میں ایک جوڑا پہنتے۔ بعض دفعہ ان کی لنگی پھٹ جاتی تو اسے پیوند لگا لیتے لیکن (نیا جوڑا لینے کے) وقت آنے سے پہلے اس کی جگہ بیت المال سے اور لنگی نہ لیتے اسی سے کام چلاتے رہتے اور جس سال مال زیادہ آتا اس سال ان کا جوڑا پچھلے سال سے اور گھٹیا ہو جاتا۔ حضرت حصہؓ نے ان سے اس بارے میں بات کی تو فرمایا میں مسلمانوں کے مال میں سے پہننے کے جوڑے لیتا ہوں اور یہ میری ضرورت کے لئے کافی ہیں۔<sup>۴</sup> حضرت محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ روزانہ بیت المال سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے دو درہم خرچہ لیا کرتے تھے۔<sup>۵</sup>

## حضرت عثمان بن عفانؓ کا زہد

حضرت عبدالملک بن شدادؓ کہتے ہیں میں نے جمعہ کے دن حضرت عثمان بن عفانؓ کو منبر پر دیکھا کہ ان پر عدن کی بنی ہوئی موٹی لنگی تھی جس کی قیمت چار پانچ درہم تھی اور گیروے رنگ کی ایک کوئی چادر تھی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جو مسجد میں قیلوہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے حضرت عثمان بن عفانؓ کو دیکھا کہ وہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک دن مسجد میں قیلوہ فرما رہے تھے اور جب وہ سو کر اٹھے تو ان کے جسم پر کنکریوں کے نشان تھے (مسجد میں کنکریاں پھینچی ہوئی تھیں) اور لوگ (ان کی اس سادہ

۱۔ اخروجه الدینوری ابن عساکر ۲۔ عند احمد فی الزهد و ہناد و ابن جریر و ابی

نعیم کذا فی المنتخب (ج ۴ ص ۴۰۵) ۳۔ عند مالک کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۳۹۶)

۴۔ اخروجه ابن سعد کذا فی المنتخب (ج ۴ ص ۴۱۱)

۵۔ اخروجه ابن سعد کذا فی المنتخب (ج ۴ ص ۴۱۱)

اور بے تکلف زندگی پر حیران ہو کر) کہہ رہے تھے یہ امیر المؤمنین ہیں یہ امیر المؤمنین ہیں! حضرت شریک بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفانؓ لوگوں کو خلافت والا عمدہ کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور تیل یعنی سادہ کھانا کھاتے۔

## حضرت علی بن ابی طالبؓ کا زہد

قبیلہ ثقیف کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں حضرت علیؓ نے مجھے عکبر اقبہ کا حاکم بنایا اور عراق کے ان دیہات میں مسلمان نہیں رہا کرتے تھے۔ مجھ سے حضرت علیؓ نے فرمایا ظہر کے وقت میرے پاس آنا میں آپ کی خدمت میں گیا مجھے وہاں کوئی روکنے والا دربان نہ ملا۔ حضرت علیؓ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس پیالہ اور پانی کا ایک کوزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے ایک چھوٹا تھیلا منگوایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ مجھے امانتدار سمجھتے ہیں اس لئے مجھے اس تھیلے میں سے کوئی قیمتی پتھر نکال کر دیں گے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس تھیلے میں کیا ہے؟ اس تھیلے پر مہر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس مہر کو توڑا اور تھیلی کو کھولا تو اس میں ستوتھے۔ چنانچہ اس میں سے ستونکال کر پیالے میں ڈالے اور اس میں پانی ڈالا اور خود بھی پیئے اور مجھے بھی پلائے۔ میں اتنی سادگی دیکھ کر رہ نہ سکا اور میں نے کہا اے امیر المؤمنین آپ عراق میں رہ کر یہ کھا رہے ہیں حالانکہ عراق میں تو اس سے بہت زیادہ کھانے کی چیزیں ہیں (عراق میں رہ کر صرف ستو کھانا ہی حیرانگی کی بات ہے) انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کی قسم! میں غل کی وجہ سے اس پر مہر نہیں لگاتا ہوں بلکہ میں اپنی ضرورت کے مطابق ستو خریدتا ہوں (اور مدینہ سے منگواتا ہوں) ایسے ہی کھلے رہنے والے تو مجھے ڈر ہے کہ (ادھر ادھر گرنے جائیں اور اڑنے جائیں اور یوں) یہ ختم نہ ہو جائیں تو مجھے عراق کے ستو بنانے پڑیں گے۔ اس وجہ سے میں ان ستوؤں کو اتنا سنبھال کر رکھتا ہوں اور میں اپنے پیٹ میں پاک چیز ہی ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علیؓ لوگوں کو دوپہر کا اور رات کا کھانا خوب کھلایا کرتے تھے اور خود صرف وہی چیز کھلایا کرتے تھے جو ان کے پاس مدینہ منورہ سے آیا کرتی تھی۔

حضرت عبداللہ بن شریک رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ کے پاس ایک مرتبہ فالودہ لایا گیا اور ان کے سامنے رکھا گیا تو فالودے کو مخاطب کر کے فرمایا اے فالودے! تیری خوشبو بہت اچھی ہے اور رنگ بہت خوبصورت ہے اور ذائقہ

۱۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۶۰) واخراجہ احمد کما فی صفة الصفوة (ج ۱ ص

۱۱۶) مثله. ۲۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۸۲)

بہت عمدہ ہے لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مجھے جس چیز کی عادت نہیں ہے میں خود کو اس کا عادی بناؤں۔ حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن حضرت علیؓ ہمارے پاس باہر آئے اور انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور لنگی باندھی ہوئی تھی جس پر بیوند لگا رکھا تھا۔ کسی نے ان سے اتنے سادہ کپڑے پہننے کے بارے میں کچھ کہا تو فرمایا میں یہ دو سادہ کپڑے اس لئے پہنتا ہوں کہ میں ان کی وجہ سے اکڑ سے بچا رہوں گا اور ان میں نماز بھی بہتر ہوگی اور مومن بندے کے لئے یہ سنت بھی ہیں (یا عام مسلمان بھی ایسے سادہ کپڑے پہننے لگ جائیں گے)۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ پر ایک موٹی لنگی دیکھی۔ حضرت علیؓ نے فرمایا میں نے اسے پانچ درہم میں خریدا ہے۔ مجھے جو آدمی اس میں ایک درہم نفع دے گا میں اسے اس کے ہاتھ پچ دوں گا۔<sup>۳</sup>

حضرت محمد بن سمعان تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالبؓ اپنی تلوار لے کر بازار گئے اور فرمایا مجھ سے میری یہ تلوار خریدنے کے لئے کون تیار ہے؟ اگر لنگی خریدنے کے لئے میرے پاس چار درہم ہوتے تو میں یہ تلوار نہ پچتا۔ حضرت صالح بن ابی الاسود رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علیؓ کو دیکھا کہ وہ ایک گدھے پر سوار ہیں اور انہوں نے اپنے دونوں پاؤں ایک جانب لٹکا رکھے ہیں اور فرما رہے ہیں میں ہی وہ آدمی ہوں جس نے دنیا کی توہین کر رکھی ہے۔<sup>۴</sup>

حضرت عبداللہ بن زُریر کہتے ہیں میں عید الاضحیٰ کے دن حضرت علی بن ابی طالبؓ کی خدمت میں گیا۔ انہوں نے ہمارے سامنے بھوسی اور گوشت کا حریرہ رکھا۔ ہم نے کہا اللہ آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے اگر آپ ہمیں یہ لٹکھلاتے تو زیادہ اچھا تھا کیونکہ اب تو اللہ نے مال بہت دے رکھا ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا اے ابن زُریر! میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خلیفہ وقت کیلئے اللہ کے مال میں سے صرف دو بڑے پالے لینے حلال ہیں ایک پیالہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کیلئے اور دوسرا پیالہ آبیوالے لوگوں کے سامنے رکھنے کیلئے۔<sup>۵</sup>

۱۔ اخرجہ ابو نعیم ایضا (ج ۱ ص ۸۱) واخرجه ایضا الامام عبداللہ بن الامام احمد فی زوائدہ عن عبداللہ بن شریک مثله کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۵۸)

۲۔ اخرجہ ابن المبارک کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۵۸) ۳۔ اخرجہ البیہقی کذا فی منتخب الكنز (ج ۵ ص ۵۸) ۴۔ اخرجہ یعقوب بن سفیان کذا فی البدایہ (ج ۸ ص ۳)

۵۔ اخرجہ ابو القاسم الغوی کذا فی البدایہ (ج ۸ ص ۵)

۶۔ اخرجہ احمد کذا فی البدایہ (ج ۸ ص ۳)

## حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کا زہد

حضرت عروہؓ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کے ہاں گئے تو وہ کجاوے کی چادر پر لیٹے ہوئے تھے اور گھوڑے کو دانہ کھلانے والے تھیلے کو تکیہ بنایا ہوا تھا ان سے حضرت عمرؓ نے فرمایا آپکے ساتھیوں نے جو مکان اور سامان بنا لئے وہ آپ نے کیوں نہیں بنا لئے؟ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین! قبر تک پہنچنے کیلئے یہ سامان بھی کافی ہے اور حضرت معمر راوی کی حدیث میں یہ ہے کہ جب حضرت عمرؓ ملک شام تشریف لے گئے تو لوگوں نے اور وہاں کے سرداروں نے حضرت عمرؓ کا استقبال کیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت ابو عبیدہؓ لوگوں نے کہا وہ ابھی آپ کے پاس آجائیں گے چنانچہ جب حضرت ابو عبیدہؓ آئے تو سواری سے نیچے اتر کر حضرت عمرؓ نے انہیں گلے لگایا۔ پھر ان کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں گھر میں صرف یہ چیزیں نظر آئیں ایک تلوار، ایک ڈھال اور ایک کجاوہ۔ پھر کچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔

## حضرت مصعب بن عمیرؓ کا زہد

حضرت علیؓ فرماتے ہیں میں سردی کے موسم میں صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلا۔ بھوک بھی لگی ہوئی تھی بھوک کے مارے برحال تھا سردی بھی بہت تنگ کر رہی تھی ہمارے ہاں بغیر رنگی ہوئی کھال پڑی ہوئی تھی جس میں سے کچھ بوبھی آ رہی تھی اسے میں نے کاٹ کر اپنے گلے میں ڈال لیا اور اپنے سینے سے باندھ لیا تاکہ اس کے ذریعہ سے کچھ تو گرمی حاصل ہو۔ اللہ کی قسم! گھر میں میرے کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی اور اگر حضور ﷺ کے گھر میں بھی کوئی چیز ہوتی تو وہ مجھے مل جاتی (وہاں بھی کچھ نہیں تھا) میں مدینہ منورہ کی ایک طرف کو چل پڑا وہاں ایک یہودی اپنے باغ میں تھا میں نے دیوار کے سوراخ سے اس کی طرف جھانکا اس نے کہا اے اعرابی! کیا بات ہے؟ (مزدوری پر کام کرو گے؟) ایک ڈول پانی نکالنے پر ایک کھجور لینے کو تیار ہو؟ میں نے کہا ہاں باغ کا دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گیا اور ڈول نکالنے لگا اور وہ مجھے ہر ڈول پر ایک کھجور دیتا رہا۔ یہاں تک کہ میری مٹھی

۱۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۰۱) و اخراجہ الامام احمد ایضا نحو حدیث معمر کما فی صفة الصفوة (ج ۱ ص ۱۴۳) وابن المبارک فی الزهد من طریق معمر نحوہ کما فی الاصابة (ج ۲ ص ۲۵۳)

کھجوروں سے بھر گئی اور میں نے کہا اب مجھے اتنی کھجوریں کافی ہیں۔ پھر میں نے وہ کھجوریں کھائیں اور بچتے پانی سے منہ لگا کر پیا۔ پھر میں حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور مسجد میں آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ حضور ﷺ اپنے صحابہؓ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے اتنے میں حضرت مصعب بن عمیرؓ اپنی بیوند والی چادر اوڑھے ہوئے آئے۔ جب حضور ﷺ نے انہیں دیکھا تو ان کا ناز و نعمت والا زمانہ یاد آ گیا اور اب ان کی موجودہ حالت فقر و فاقہ والی حالت بھی نظر آرہی تھی اس پر حضور ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور آپ رونے لگے پھر آپ نے فرمایا (آج تو فقر و فاقہ اور تنگی کا زمانہ ہے لیکن) تمہارا اس وقت کیا حال ہو گا جب تم میں ہر آدمی صبح ایک جوڑا پہنے گا اور شام کو دوسرا اور تمہارے گھروں پر ایسے پردے لٹکائے جائیں گے جیسے کعبہ پر لٹکائے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا پھر تو ہم اس زمانے میں زیادہ بہتر ہوں گے۔ ضرورت کے کاموں میں دوسرے لگا کریں گے ہمیں لگنا نہیں پڑے گا اور ہم عبادت کے لئے فارغ ہو جائیں گے۔ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں۔ آج تم اس دن سے زیادہ بہتر ہو (کہ دین کا کام تم تکلیفوں اور مشقت کے ساتھ کر رہے ہو)۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت مصعب بن عمیرؓ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا انہوں نے دنبے کی کھال کو اپنی کمر پر باندھ رکھا تھا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا اس آدمی کی طرف دیکھو جس کے دل کو اللہ نے نورانی بنا رکھا ہے میں نے ان کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں ان کے والدین ان کو سب سے عمدہ کھانا اور سب سے بہتر مشروب پلایا کرتے تھے اور میں نے ان پر وہ جوڑا بھی دیکھا ہے جو انہوں نے دو سو درہم میں خریدا تھا۔ اب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت نے ان کا فقر و فاقہ والا وہ حال کر دیا جو تم لوگ دیکھ رہے ہو۔

حضرت زبیرؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ قباء میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ چند صحابہؓ بھی تھے۔ اتنے میں حضرت مصعب بن عمیرؓ آتے ہوئے دیکھائی دیئے انہوں نے اتنی چھوٹی چادر اوڑھی ہوئی تھی جو ان کے ستر کو پوری طرح ڈھانپ نہیں رہی

۱۔ اخرجه الترمذی وحسنه و ابو یعلیٰ و ابن راہو یہ کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۳۲۱) وقال

الہیثمی (ج ۱۰ ص ۳۱۴) رواہ ابو یعلیٰ وفیہ راو لم یسم وبقیۃ رجالہ ثقات

۲۔ عند الطبرانی و البیہقی کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۳۹۵) و اخرجه ایضاً الحسن بن سفیان

و ابو عبد الرحمن اسلمی و الخاکم کما فی الكنز (ج ۷ ص ۸۶) و ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص

۱۰۸) عن عمر نحو

تھی۔ تمام صحابہؓ نے سر جھکا لئے۔ پاس آکر حضرت مصعبؓ نے سلام کیا۔ صحابہؓ نے انہیں سلام کا جواب دیا۔ حضور ﷺ نے ان کی خوب تعریف کی اور فرمایا میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے کہ ان کے والدین ان کا خوب اکرام کرتے تھے، ان کو ہر طرح کی نعمتیں دیا کرتے تھے اور قریش کا کوئی جوان ان جیسا نہیں تھا لیکن پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے اور اس کے رسول ﷺ کی مدد کرنے کے لئے یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ غور سے سنو! تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح کر کے فارس اور روم دے دیں گے اور دنیا کی فراوانی اتنی ہو جائیگی کہ تم میں سے ہر آدمی ایک جوڑا صبح پینے کا اور ایک جوڑا شام کو اور صبح بڑا پیالہ کھانے کا تمہارے سامنے آئے گا اور شام کو بھی کھانے کا بڑا پیالہ آئے گا۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آج بہتر ہیں یا اس دن بہتر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ آج تم لوگ بہتر ہو۔ غور سے سنو تم لوگ دنیا کے بارے میں وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہاری طبیعتیں دنیا سے بالکل سرد ہو جائیں۔ حضرت خبابؓ فرماتے ہیں حضرت مصعبؓ نے اپنی شہادت پر صرف ایک کپڑا چھوڑا تھا جو اتنا چھوٹا تھا کہ جب اس سے ان کا سر ڈھالتے تھے تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے اور جب پاؤں ڈھالتے تھے تو ان کا سر کھل جاتا تھا آخر حضور ﷺ نے فرمایا کہ ان کے پیروں پر اذخر گھاس ڈال دو۔ ۱

### حضرت عثمان بن مظعونؓ کا زہد

حضرت ابن شہابؓ کہتے ہیں ایک دن حضرت عثمان بن مظعونؓ مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی جس پر انہوں نے کھال کا بیوند لگا رکھا تھا یہ دیکھ کر حضور ﷺ کو ان پر بڑا ترس آیا اور آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ کی وجہ سے صحابہؓ پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اس دن تم لوگوں کا کیا حال ہو گا جس دن تم میں سے ہر آدمی ایک جوڑا صبح پینے کا اور ایک جوڑا شام کو اور کھانے کا ایک بڑا پیالہ اس کے سامنے رکھا جائے گا اور ایک اٹھایا جائے گا اور تم گھروں پر ایسے پردے لٹکاؤ گے جیسے کعبہ پر لٹکائے جاتے ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے اور ہمیں بھی وسعت اور سہولت حاصل ہو جائے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ لیکن آج تم لوگ اس دن سے بہتر ہو (کہ دین کا کام مجاہدوں کے ساتھ کر رہے ہو)۔ ۲

۱ عند الحاکم (ج ۳ ص ۶۲۸) ۲ قال فی الاصابہ (ج ۳ ص ۴۲۱) وفی الصحیح

۳ اخروجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۰۵)



حضرت لئن عباسؓ فرماتے ہیں جس دن حضرت عثمان بن مظعونؓ کا انتقال ہوا اس دن حضور ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عثمانؓ پر ایسے جھکے کہ گویا ان کو وصیت فرما رہے ہیں پھر آپ نے سر اٹھایا تو صحابہؓ نے آپ کی آنکھوں میں رونے کا اثر دیکھا۔ آپ دوبارہ ان پر جھکے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو اس دفعہ آپ روتے ہوئے نظر آئے۔ پھر آپ ان پر تیسری مرتبہ جھکے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو اس دفعہ آپ سسکیاں لے رہے تھے جس سے صحابہؓ سمجھے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہؓ بھی رونے لگے تو حضور ﷺ نے فرمایا ٹھہرو۔ یہ آواز سے رونا شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ سے استغفار کرو پھر حضرت عثمانؓ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ابوسائب! تم غم نہ کرو۔ تم دنیا سے چلے گئے اور تم نے دنیا سے کچھ نہ لیا۔<sup>۱</sup>

ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت عثمانؓ کے انتقال کے بعد ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے عثمانؓ! اللہ تم پر رحم فرمائے نہ تو تم نے دنیا سے کوئی فائدہ اٹھایا اور نہ ہی دنیا تمہارے پاس آئی۔<sup>۲</sup>

## حضرت سلمان فارسیؓ کا زہد

حضرت عطیہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسیؓ کو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے۔ ان سے مزید کھانے کا اصرار کیا گیا تو انہوں نے کہا میرے لئے یہی کافی ہے۔ میرے لئے یہی کافی ہے کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن زیادہ بھوکے ہوں گے اے سلمان! دنیا مومن کے لئے جیل خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت (کہ مومن اللہ تعالیٰ کے احکام کا خود کو پابند کر کے چلتا ہے اور کافر اپنی مرضی پر چلتا ہے)۔<sup>۳</sup>

حضرت حسنؓ کہتے ہیں حضرت سلمانؓ کو بیت المال سے پانچ ہزار وظیفہ ملتا تھا اور وہ تقریباً تیس ہزار مسلمانوں کے امیر تھے۔ ان کا ایک چغہ تھا جس کے کچھ حصہ کو نیچے چمچھا کر باقی کو

۱ اخروجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۰۳) ورواه الطبرانی عن عمر بن عبدالعزیز بن مقلاص عن ابیہ و لم اعرفہما وبقیة رجالہ ثقات انتھی و اخروجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۰۵) و ابن عبد البر فی الاستیعاب (ج ۳ ص ۸۷) عن ابن عباس عن غیر طریق عمر بن عبدالعزیز عن ابیہ نحوہ ۲ اخروجه ابو نعیم ایضا عن عبد ربہ بن سعدی المدنی مختصراً ۳ اخروجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۹۸) و اخروجه العسکری فی الامثال نحوہ کما فی الکنز (ج ۷ ص ۴۵)

اور پاؤں لیا کرتے تھے اور اسی چغہ کو پین کر لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ جب انہیں وظیفہ ملتا تو اسے اسی وقت آگے خرچ کر دیا کرتے اس میں سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بناتے تھے اور اس کی کمائی سے گزارہ کرتے تھے۔<sup>۱</sup>

حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو یہ قصہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت حذیفہؓ نے حضرت سلمانؓ کو یہ فرمایا اے ابو عبید اللہ! (یہ حضرت سلمان کی کنیت ہے) کیا میں تمہارے لئے ایک کمرہ نہ بنا دوں؟ حضرت سلمان کو یہ بات بری لگی تو حضرت حذیفہؓ نے کہا ذرا ٹھہرو تو سہی سن تو لو میں تمہارے لئے کیسا کمرہ بنانا چاہتا ہوں؟ میں تمہارے لئے ایسا کمرہ بنانا چاہتا ہوں کہ جب تم اس میں لیٹو تو تمہارا سر ایک دیوار کو لگے اور پاؤں دوسری دیوار کو اور جب تم کھڑے ہو تو تمہارا سر چھت کو لگے۔ حضرت سلمانؓ نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم تو میرے دل میں رہتے ہو یعنی اب تم نے میرے دل کی بات کہی ہے۔<sup>۲</sup>

حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسیؓ (کسی درخت کے سایہ میں بیٹھا کرتے تھے) اور مسلمانوں کے اجتماعی کاموں کو انجام دیا کرتے تھے) اور سایہ گھوم کر جدھر جاتا خود بھی کھسک کر ادھر ہو جاتے۔ اس کام کے لئے ان کا کوئی گھر نہ تھا۔ ان سے ایک آدمی نے کہا کیا میں آپ کو ایک کمرہ نہ بنا دوں کہ گرمیوں میں اس کے سایہ میں رہا کریں اور سردیوں میں اس میں رہ کر سردی سے بچاؤ کر لیا کریں؟ حضرت سلمانؓ نے اس سے فرمایا ہاں بنا دو۔ جب وہ آدمی پشت پھیر کر چل پڑا تو حضرت سلمانؓ نے اسے زور سے آواز دے کر کہا کیسا کمرہ بناؤ گے؟ اس آدمی نے کہا ایسا کمرہ بناؤں گا کہ اگر آپ اس میں کھڑے ہوں تو آپ کا سر چھت کو لگے اور اگر آپ اس میں لیٹیں تو آپ کے پاؤں دیوار کو لگیں۔ حضرت سلمانؓ نے کہا پھر ٹھیک ہے۔<sup>۳</sup>

## حضرت ابوذر غفاریؓ کا زہد

حضرت ابو اسماءؓ کہتے ہیں میں حضرت ابوذرؓ کے پاس گیا اس وقت وہ ربذہ بستی میں تھے۔ ان کے پاس ایک کالی عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کے بال بھرے ہوئے تھے اس پر نہ خوبصورتی کا کوئی اثر تھا اور نہ ہی خوشبو کا۔ حضرت ابوذرؓ نے کہا کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ

<sup>۱</sup> اخروجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۹۷) واخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۶۲) عن الحسن بنحوہ  
<sup>۲</sup> اخروجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۰۲)  
<sup>۳</sup> عند ابن سعد (ج ۴ ص ۶۳) عن معن

کالی کلوٹی مجھے کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ میں عراق چلا جاؤں (اور وہاں رہا کروں) میں جب عراق چلا جاؤں گا تو وہاں کے لوگ اپنی دنیا لے کر مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے (کیونکہ میں حضور ﷺ کے بڑے صحابہ میں سے ہوں اس لئے وہاں والے مجھے خوب ہدیے دیں گے اور یوں میرے پاس دنیا زیادہ ہو جائے گی اور ان کے کام بھی کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے عبادت اور اعمال کا وقت کم ہو جائے گا) اور میرے گھرے دوست (حضرت محمد ﷺ) نے مجھ سے یہ عہد لیا ہے کہ پل صراط سے پہلے ایک پھسلن والا راستہ ہے جب ہم اس سے گزریں تو ہمارا بوجھ اتنا ہلکا ہو اور ایسا سمٹا ہوا ہو کہ ہم اسے اٹھا سکیں یہ ہماری نجات کیلئے زیادہ بہتر ہے۔ بحسب اس کے کہ ہم اس راستہ پر گزریں اور ہمارا بوجھ بہت زیادہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن خراش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ذرؓ کو ربذہ بستی میں دیکھا کہ وہ اپنے ایک کالے چھپر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی چھپر کے نیچے ان کی کالی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بوری کے ایک ٹکڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے عرض کیا گیا کہ آپ کی اولاد زندہ نہیں رہتی۔ انہوں نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ وہ انہیں اس فانی گھر میں لے لیتا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والے گھر میں بوقت ضرورت ہمیں واپس کر دے گا اور وہ بچے وہاں کام آئیں گے۔ پھر ساتھیوں نے عرض کیا آپ اس عورت کے علاوہ کوئی اور (خوہورت) عورت لے لیتے تو اچھا تھا۔ فرمایا میں ایسی عورت سے شادی کروں جس سے مجھ میں تواضع پیدا ہو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں جس سے مجھ میں لڑائی پیدا ہو۔ پھر ساتھیوں نے کہا آپ اس سے زیادہ نرم بستر لے لیتے۔ فرمایا اے اللہ! مغفرت فرما اور جو تو نے دیا ہے اس میں سے جتنا جی چاہے لے لے۔

حضرت ابراہیم تیمی کے والد محترم کہتے ہیں حضرت ابو ذرؓ سے کسی نے کہا جیسے فلاں فلاں آدمیوں نے جائیداد بتائی ہے آپ بھی اس طرح جائیداد کیوں نہیں بتا لیتے؟ فرمایا میں امیر بن کر کیا کروں گا؟ مجھے تو روزانہ پانی یاد دہ کا ایک گھونٹ اور ہر ہفتہ گندم ایک قفیز (ایک پیانہ کا نام ہے جس کی مقدار ہر علاقہ میں مختلف ہوتی ہے مصر میں قفیز سولہ کلوگرام کا ہوتا ہے) کافی ہے۔ ابو نعیم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا میری روزی حضور ﷺ کے زمانے میں ایک صاع تھی۔ میں مرتے دم تک اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔

۱۔ اخرجه احمد قال في الترغيب (ج ۵ ص ۹۳) رواه احمد ورواه ترواة الصحيح اه وخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۶۱) عن ابی اسماء و ابن سعد (ج ۴ ص ۱۷۴) نحوه  
 ۲۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۶۰) وخرجه الطبرانی عن عبداللہ بن خراش نحوه قال الهیثمی (ج ۹ ص ۳۳۱) وفيه موسى بن عبدة وهو ضعيف اه ۳۔ اخرجه ابو نعیم (ج ۱ ص ۱۶۲)

## حضرت ابو الدرداءؓ کا زہد

حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں میں حضور ﷺ کی بعثت سے پہلے تاجر تھا۔ جب حضور ﷺ مبعوث ہوئے تو میں نے تجارت اور عبادت کو جمع کرنا چاہا لیکن ایسا ٹھیک طور سے ہونہ سکا اس لئے میں نے تجارت چھوڑ دی اور عبادت کی طرف متوجہ ہو گیا۔<sup>۱</sup>

حضرت ابو الدرداءؓ سے کچھلی حدیث جیسی حدیث مروی ہے اور اس میں مزید یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! آج مجھے یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ مسجد کے دروازے پر میری ایک دکان ہو اور مسجد کی نماز باجماعت مجھ سے ایک بھی فوت نہ ہو اور مجھے اس دکان سے روزانہ چالیس دینار نفع ہو جو میں سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیوں ناپسند ہے؟ فرمایا حساب کی سختی کی وجہ سے۔<sup>۲</sup>

حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہو سکتی کہ میں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر خرید و فروخت کروں اور روزانہ مجھے تین سو درہم اس سے نفع ہو اور میں تمام نمازیں مسجد میں جماعت سے ادا کروں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے بچنے کو حلال نہیں کیا اور سود کو حرام کیا ہے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جنہیں تجارت اور پچنا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا۔<sup>۳</sup>

حضرت خالد بن حدیر اسلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت ابو الدرداءؓ کی خدمت میں گیا ان کے نیچے کھال یا اون کا بستہ تھا اور ان کے اوپر اونی چادر تھی، اور کھال کے جوتے تھے اور وہ ہمارے تھے اور انہیں خوب پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا اگر آپ چاہتے تو اپنے بستہ پر چاندی والا غلاف چڑھا لیتے اور زعفرانی چادر لوڑھتے جو کہ امیر المؤمنین آپ کے پاس بھیجا کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہمارا ایک گھر ہے جہاں ہم جا رہے ہیں اور اسی کے لئے ہم عمل کر رہے ہیں (کہ جتنا مال آتا ہے سب دوسروں کو دے دیتے ہیں تاکہ اگلے گھر یعنی آخرت میں کام آئے) حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو الدرداءؓ کے کچھ ساتھی ان کے مہمان بنے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو کھلایا پلایا اور ان کی مہمانی کی لیکن (گھر میں

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۶۷) رجالہ رجال الصحیح اہ

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۰۹) وھکذا اخرجہ ابن عساکر کما فی الكنز

(ج ۲ ص ۱۴۹) ۳۔ عند ابی نعیم ایضا من طریق آخر

سامان اور بستر سے وغیرہ کم تھے جس کی وجہ سے (کچھ ساتھیوں نے گھوڑے کی پشت پر کانٹھی کے نیچے جو چادر ڈالی جاتی ہے اس پر رات گزاری اور کچھ اپنے کپڑے پر جیسے تھے ویسے ہی لیٹے رہے۔ جب صبح کو حضرت ابو الدرداء ان کے پاس آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے یہ مہمان بستروں کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ محسوس کر رہے ہیں تو فرمایا ہمارا ایک گھر ہے ہم اسی کے لئے جمع کر رہے ہیں اور ہم نے لوٹ کر وہیں جانا ہے (اس لئے جتنا مال آتا ہے سب دوسروں پر خرچ کر دیتے ہیں اپنا کچھ نہیں بناتے ہیں)۔

حضرت محمد بن کعبؓ فرماتے ہیں کچھ لوگ سخت سردی کی رات میں حضرت ابو الدرداءؓ کے مہمان بنے۔ حضرت ابو الدرداءؓ نے انکے پاس گرم کھانا تو بھیجا لیکن لحاف نہ بھیجے ان میں سے ایک آدمی نے کہا انہوں نے ہمارے لئے کھانا تو بھیجا لیکن (سردی دور کرنے کا انتظام نہیں کیا اس وجہ سے) اس سخت سردی میں ہمیں کھانا کھانے کا مزاج نہ آیا۔ میں تو حضرت ابو الدرداءؓ کو یہ بات ضرور بتاؤں گا۔ دوسرے نے کہا چھوڑو، نہ بتاؤ لیکن وہ نہ مانا اور حضرت ابو الدرداءؓ کے پاس چلا گیا۔ جب وہ دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت ابو الدرداءؓ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بیوی پر تھوڑے سے ناقابل ذکر کپڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا اور حضرت ابو الدرداءؓ سے کہا میرا خیال ہے یہ رات آپ نے بھی ہماری طرح (لحاف کے بغیر) ہی گزاری ہے۔ حضرت ابو الدرداءؓ نے فرمایا ہمارا ایک گھر ہے جہاں ہم نے جانا ہے ہم نے اپنے سارے بستر اور لحاف وہاں پہلے سے بچھ دیئے ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز تمہیں یہاں ملتی تو ہم اسے تمہارے پاس ضرور بچھ دیتے۔ ہمارے سامنے ایک بہت سخت گھائی ہے جس پر چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ ہلکا بوجھ لے کر اس میں سے گزرنے والا زیادہ بوجھ والے سے بہتر ہے۔ سمجھ گئے میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں سمجھ گیا ہوں۔

امیر کے معیار زندگی بلند کرنے پر تکبر کے باب میں یہ قصہ گزر چکا ہے کہ حضرت عمرؓ حضرت ابو الدرداءؓ کے ہاں جانے لگے تو حضرت عمرؓ نے دروازے کو دھکا دیا تو اس کی کنڈی نہیں تھی۔ ہم اندر گئے تو کمرے میں اندھیرا تھا حضرت عمرؓ ان کو (اندھیرے کی وجہ سے) ٹٹولنے لگے یہاں تک کہ ان کا ہاتھ ابو الدرداءؓ کو لگ گیا پھر ان کے تنکیہ کو ٹٹولا تو وہ پالان کا کبل تھا پھر ان کے چھوڑنے کو ٹٹولا تو وہ کنکریاں تھیں پھر ان کے اوپر کے کپڑے کو ٹٹولا تو وہ

۱ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۲۲)

۲ عند احمد کذا فی صفة الصفوة (ج ۱ ص ۳۶۳)

باریک سی چادر تھی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے کیا میں نے آپ پر وسعت نہیں کی؟ اور کیا میں نے آپ کے ساتھ فلاں فلاں احسان نہیں کئے؟ حضرت ابو الدرداءؓ نے کہا اے عمرؓ! کیا آپ کو وہ حدیث یاد نہیں ہے جو حضور ﷺ نے ہم سے بیان کی تھی؟ حضرت عمرؓ نے پوچھا کون سی حدیث؟ انہوں نے کہا حضور ﷺ نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی کے پاس زندگی گزارنے کا اتنا سامان ہونا چاہئے جتنا سوار کے پاس سفر کا توشہ ہوتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں (یاد ہے) حضرت ابو الدرداءؓ نے کہا اے عمرؓ! حضور ﷺ کے بعد ہم نے کیا کیا؟ پھر دونوں ایک دوسرے کو حضور ﷺ کی باتیں یاد دلا کر صبح تک روتے رہے۔

### حضرت معاذ بن عفر اء کا زہد

حضرت ابو ایوبؓ کے غلام حضرت اُفحؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ حکم دے کر اہل بدر کے لئے خاص طور سے بڑے عمدہ جوڑوں کا کپڑا تیار کرواتے تھے (پھر اس سے جوڑے بنا کر اہل بدر کو بھیجا کرتے تھے) چنانچہ انہوں نے حضرت معاذ بن عفر اءؓ کو ان میں سے ایک جوڑا بھیجا۔ حضرت معاذؓ نے مجھ سے فرمایا اے اُفحؓ! یہ جوڑا بیچ دو۔ میں نے وہ جوڑا ڈیڑھ ہزار درہم میں بیچا تو انہوں نے فرمایا جاؤ اس ڈیڑھ ہزار درہم کے میرے لئے غلام خرید لاؤ۔ میں پانچ غلام خرید لایا۔ انہیں دیکھ کر فرمایا جو آدمی ڈیڑھ ہزار درہم کے پانچ غلام خرید کر انہیں آزاد کر سکتا ہے وہ اس رقم کے دو چھلکے (لنگی اور چادر کے) پہن لے واقعی وہ بہت بے وقوف ہے (اے غلامو!) جاؤ تم سب آزاد ہو حضرت عمرؓ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عمرؓ حضرت معاذؓ کے پاس جو جوڑے بھیجتے ہیں حضرت معاذؓ انہیں پہنتے نہیں ہیں تو حضرت عمرؓ نے ان کے لئے سو درہم کا ایک موٹا جوڑا بنا کر ان کے پاس بھیج دیا۔ جب قاصد وہ جوڑا لے کر ان کے پاس آیا تو حضرت معاذؓ نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ جوڑا دے کر تمہیں میرے پاس نہیں بھیجا۔ اس قاصد نے کہا نہیں، آپ کے پاس ہی بھیجا ہے۔ انہوں نے وہ جوڑا لیا اور لے کر حضرت عمرؓ کی خدمت میں آئے اور کہا اے امیر المومنین! کیا آپ نے یہ جوڑا میرے پاس بھیجا ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں میں نے بھیجا ہے۔ ہم پہلے تمہارے پاس ان (قیمتی) جوڑوں میں سے بھیجوا کرتے تھے جو تمہارے اور تمہارے (بدری) بھائیوں کے لئے ہوایا کرتے تھے لیکن مجھے پتہ چلا کہ تم اسے پہنتے نہیں ہو (اس لئے اس دفعہ میں نے تمہارے پاس یہ معمولی جوڑا بھیج دیا) انہوں نے کہا اے امیر المومنین! میں اگرچہ وہ جوڑا پہنتا نہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بہترین چیز ہے مجھے اس میں سے ملے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ

نے ان کو حسب سابق وہی عمدہ جوڑا دے دیا۔<sup>۱</sup>

## حضرت لجلان غطفانیؓ کا زہد

حضرت لجلان غطفانیؓ فرماتے ہیں جب سے میں حضور ﷺ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہوں کبھی میں نے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا۔ بس بقدر ضرورت کھاتا اور پیتا ہوں امام شہقی نے اس کے بعد مزید روایت کیا ہے کہ وہ ایک سو بیس سال زندہ رہے۔ پچاس سال جاہلیت میں اور ستر سال اسلام میں۔<sup>۲</sup>

## حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا زہد

حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ اس وقت کھانا کھاتے جب ساتھ کھانے والا کوئی اور بھی ہو تا اور جب کھاتے تو چاہے کھانا کتنا زیادہ ہو تا پیٹ بھر کر نہ کھاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابن مطیع رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کرنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جسم بہت دبلا ہو چکا ہے تو انہوں نے (ان کی بیوی) حضرت صفیہ رحمۃ اللہ علیہا سے کہا کیا تم ان کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کرتی ہو؟ اگر تم ان کی دیکھ بھال ٹھیک طرح سے کرو تو ہو سکتا ہے کہ یہ دبلا پن ختم ہو جائے اور کچھ تو جسم ان کا بن جائے اس لئے ان کے لئے عمدہ کھانا خاص طور پر اہتمام سے تیار کیا کرو۔ حضرت صفیہ نے کہا ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں لیکن یہ اپنے کھانے پر تمام گھر والوں کو اور (باہر کے) تمام حاضرین کو بلا لیتے ہیں (اور سارا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے ہیں خود بہت کم کھاتے ہیں) لہذا آپ ہی ان سے اس بارے میں بات کریں تو اس پر حضرت ابن مطیع نے کہا اے عبدالرحمن! (یہ ان کی کنیت ہے) اگر آپ کچھ اچھا کھانا کھالیا کریں تو اس سے آپ کی جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی تو انہوں نے فرمایا آٹھ سال مسلسل ایسے گزرے ہیں کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھلایا صرف ایک مرتبہ ہی پیٹ بھر کر کھلایا ہو گا اب تم چاہتے ہو کہ میں پیٹ بھر کر کھلایا کروں جبکہ گدھے کی پیاس جتنی (تھوڑی سی) زندگی رہ گئی ہے۔<sup>۳</sup>

حضرت عمر بن حمزہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا

۱۔ اخراج عمر بن شبة کذا فی صفة الصفوة (ج ۱ ص ۱۸۸)

۲۔ اخراج الطبرانی باسناد لایاس بہ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۴۲۳) واخراجہ ابو العباس السراج فی تاریخہ و الخطیب فی المتفق کما فی الاصابة (ج ۲ ص ۳۲۸) وابن عساکر کما فی الکنز (ج ۷ ص ۸۶) ۳۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۹۸)

کہ اتنے میں ایک آدمی گزر اور اس نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ جس دن میں نے آپ کو حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے جرف مقام پر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا آپ نے ان کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے ان سے کہا تھا اے ابو عبدالرحمن! آپ کا جسم بہت دبلا ہو گیا اور عمر بہت زیادہ ہو گئی۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے نہ آپ کا حق پہنچاتے ہیں اور نہ آپ کا مقام۔ آپ یہاں سے گھر واپس جا کر اپنے گھر والوں سے کہیں کہ وہ آپ کے لئے خاص طور سے اچھا سا کھانا تیار کر دیا کریں انہوں نے کہا تیرا بھلا ہو۔ اللہ کی قسم! میں نے گیارہ سال سے بلکہ بارہ سال سے بلکہ تیرہ سال سے بلکہ چودہ سال سے ایک دفعہ بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا اب تو گدھے کی پیاس جھنی (تھوڑی سی) زندگی رہ گئی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟

حضرت عبید اللہ بن عدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام تھے وہ عراق سے آئے اور انہوں نے حضرت عبداللہؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں سلام کیا اور عرض کیا میں آپ کے لئے ہدیہ لایا ہوں۔ حضرت عبداللہؓ نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو ارش ہے۔ حضرت عبداللہؓ نے پوچھا جو ارش کیا چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اس سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا میں نے چالیس سال سے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا میں اس جو ارش کا کیا کروں گا؟

حضرت لئن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت لئن عمرؓ سے کہا کیا میں آپ کے لئے جو ارش تیار کر دوں؟ حضرت عمرؓ نے پوچھا جو ارش کیا چیز ہوتی ہے؟ اس آدمی نے کہا اگر آپ کسی دن کھانا اتنا زیادہ کھالیں کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے تو پھر اس جو ارش کو استعمال کر لیں تو اس سے اس کھانے کو ہضم کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت لئن عمرؓ نے فرمایا میں نے تو چار ماہ سے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے کھانا ملتا نہیں ہے۔ کھانا تو بہت ہے لیکن میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں جو ایک وقت پیٹ بھر کر کھاتے تھے اور دوسرے وقت بھوکے رہتے تھے۔

حضرت لئن عمرؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کا انتقال ہوا میں نے نہ اینٹ پر اینٹ رکھی (یعنی کوئی تعمیر نہیں کی) اور نہ ہی کھجور کا کوئی پودا لگایا ہے۔

حضرت جلد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے علاوہ ہم میں سے جس نے بھی دنیا پائی

۱۔ عند ابی نعیم ۲۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۰۰) ۳۔ عند ابی نعیم ایضا  
واخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۱۱۰) عن ابن سیرین مختصرا وکذلک عن نافع مختصرا  
۴۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۰۳) وخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۱۲۵) مثله



دنیا اس کی طرف مائل ہوئی اور وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں صحابہؓ کی ایک جماعت کو دیکھا جو یہ سمجھتے تھے کہ حضور ﷺ صحابہؓ کو (دنیاوی چیزوں کے استعمال میں) جس حالت پر چھوڑ کر گئے تھے اس حالت پر حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے علاوہ اور کوئی نہیں رہا۔ ۱۷

## حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کا زہد

حضرت ساعدہ بن سعد بن حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حذیفہؓ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث اور میرے جی کو سب سے زیادہ محبوب وہ دن ہے جس دن میں اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤں اور مجھے ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ ملے اور وہ یوں کہیں کہ آج ہمارے پاس کھلانے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مریض کو اس کے گھر والے جتنا کھانے سے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن کو اس سے زیادہ دنیا سے بچاتے ہیں اور باپ اپنی اولاد کے لئے خیر کی جتنی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مومن کی آزمائش کا اہتمام کرتے ہیں۔ ۱۸

جو دنیا سے بے رغبتی اختیار نہ کرے اور اس کی لذتوں میں

مشغول ہو جائے اس پر نکیر کرنا اور دنیا سے بچنے کی تاکید کرنا

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے مجھے دیکھا کہ میں نے ایک دن میں دو مرتبہ کھانا کھایا ہے تو مجھ سے فرمایا اے عائشہؓ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ صرف پیٹ بھرنا ہی تمہارا مشغلہ ہو؟ ایک دن میں دو مرتبہ کھانا اسراف ہے اور اسراف والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اے عائشہؓ! کیا تمہیں اس دنیا میں بس پیٹ بھرنے کی ہی فکر ہے؟ اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ ایک دن میں ایک مرتبہ سے زیادہ کھانا اسراف ہے اور اسراف والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ ۱۹

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں حضور ﷺ کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا تم

۱۷. اخرجه ابو سعید بن الاعرابی بسند صحيح

۱۸. فی تاریخ ابی العباس السراج بسند حسن کذا فی الاصابة (ج ۲ ص ۳۴۷)

۱۹. اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ص ۲۷۷) و اخرجه الطبرانی عن ساعدة مبله قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۲۸۵) وفيه من لم اعرفهم ۲۰. اخرجه البيهقي كذا في الترغيب (ج ۳ ص ۴۲۳)

کیوں رو رہی ہو؟ اگر تم مجھ سے (جنت میں) ملنا چاہتی ہو تو تمہیں دنیا کا اتنا سامان کافی ہوتا چاہئے جتنا سوار کا زاد سفر ہوتا ہے اور مال داروں سے میل جول نہ رکھنا۔ ترمذی، حاکم اور بیہقی کی روایت میں مزید الفاظ یہ ہیں اور جب تک کپڑے پر بیوند نہ لگا لو اسے پرانا نہ سمجھنا۔ زین کی روایت میں مزید یہ مضمون ہے کہ حضرت عروہ نے کہا کہ جب تک حضرت عائشہؓ اپنے کپڑے پر بیوند نہ لگائیں اور اسے الٹ نہ لیتیں اس وقت تک نیا کپڑا نہ پہنیں۔ ایک دن ان کے پاس اسی ہزار حضرت معاویہؓ کی طرف سے آئے تو شام تک ان کے پاس اسی ہزار میں سے ایک درہم بھی نہ بچا۔ ان کی باندی نے کہا آپ نے ہمارے لئے ایک درہم کا گوشت کیوں نہیں خرید لیا؟ تو فرمایا اگر تو مجھے پہلے یاد کر ادیتی تو میں خرید لیتی (مجھے تو گوشت خریدنا یاد ہی نہ رہا)۔<sup>۱</sup> حضرت ابو حنیفہؓ فرماتے ہیں میں نے ایک دن چرلی والے گوشت کا ٹرید کھایا پھر میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھے ڈکارا ہے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے ابو حنیفہ! ہمارے سامنے ڈکار نہ لو کیونکہ جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھائیں گے انہیں قیامت کے دن زیادہ بھوک برداشت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابو حنیفہؓ نے آخری دم تک کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا۔ جب دوپہر کو کھانا کھا لیتے تھے تو رات کو نہ کھاتے اور جب رات کو کھا لیتے تو دن کو نہ کھاتے۔<sup>۲</sup>

حضرت جعدہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک بڑے پیٹ والا آدمی دیکھا تو آپ نے اس کے پیٹ میں انگلی مار کر فرمایا اگر یہ کھانا اس پیٹ کے علاوہ کسی اور (فقیر یا ضرورت مند) کے پیٹ میں ہوتا تو تمہارے لئے بہتر تھا ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کے بارے میں خواب دیکھا۔ حضور ﷺ نے آدمی سے پوچھا کہ اس نے حاضر خدمت ہو کر حضور ﷺ کو وہ سارا خواب سنایا۔ اس آدمی کا پیٹ بڑا تھا حضور ﷺ نے اس کے پیٹ میں انگلی مار کر فرمایا اگر یہ کھانا اس پیٹ کے علاوہ کسی اور کے پیٹ میں ہوتا تو تمہارے لئے زیادہ بہتر تھا۔<sup>۳</sup>

حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ راستہ میں حضرت

۱ عند ابن الاعرابی کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۰) ۲ کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۲۶)  
 ۳ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۵ ص ۳۱) ورواه الطبرانی فی الاوسط و الکبیر باسانید فی احد اسانید الکبیر محمد بن خالد الکو فی ولم اعرفه و بقیة رجالہ ثقات انتهى و اخرجه ابن عبد البر فی الاستیعاب (ج ۴ ص ۳۷) نحوه و اخرجه البزار باسنادین نحوه مختصرا و رجال احد ہما ثقات کما قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۳۲۳) و اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۷ ص ۲۵۶) عن ابی جحیفۃ بمعناه ولم یدکر قوله فما اکل الی آخره

جلد بن عبد اللہ سے ملے۔ ان کے ساتھ ایک آدمی نے گوشت اٹھلایا ہوا تھا (یعنی گوشت خرید کر اپنے گھر لے جا رہے تھے) حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے پڑوسی اور چچا زاد بھائی کی وجہ سے اپنے آپ کو بھوکا رکھے؟

(یعنی خود کچھ نہ کھائے اور سارے دوسروں کو کھلا دے) یہ آیت اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا۔ (سورہ احقاف آیت ۲۰) تم لوگوں سے کہاں چلی گئی ہے؟

حضرت جلد بن عبد اللہ فرماتے ہیں میں ایک درہم کا گوشت خرید کر جا رہا تھا۔ راستہ میں مجھے حضرت عمر بن خطابؓ ملے۔ انہوں نے پوچھا اے جلد! یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے گھر والوں کا گوشت کھانے کو بہت دل چاہ رہا تھا اس لئے میں نے ان کیلئے ایک درہم کا گوشت خرید لیا ہے۔ حضرت عمرؓ میرا یہ جملہ بار بار دہراتے رہے میرے گھر والوں کا گوشت کھانے کو بہت دل چاہ رہا تھا۔ اتنی دفعہ دہرایا کہ مجھے یہ تمنا ہونے لگی کہ کاش یہ درہم میرے پاس سے کہیں گر جاتا اور حضرت عمرؓ سے میری ملاقات نہ ہوتی۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ نے حضرت جلدؓ کے ہاتھ میں ایک درہم دیکھا تو ان سے پوچھا یہ درہم کیا ہے؟ حضرت جلدؓ نے کہا میں اس کا اپنے گھر والوں کے لئے گوشت خریدنا چاہتا ہوں ان کا گوشت کو بہت دل چاہ رہا تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا جس چیز کو تم لوگوں کا دل چاہے گا اسے تم ضرور خرید لو گے؟ اذہبتم طیباتکم والی آیت تم لوگوں سے کہاں چلی گئی۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ اپنے بیٹے حضرت عبد اللہ کے ہاں گئے اس وقت حضرت عبد اللہ کے سامنے گوشت رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے؟ حضرت عبد اللہ نے کہا میرا گوشت کھانے کو دل چاہتا تھا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا تمہارا جس چیز کو دل چاہے گا کیا تم اسے ضرور کھاؤ گے؟ آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ اس کا جس چیز کو دل چاہے وہ اسے ضرور کھائے۔

حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت یزید بن ابی سفیانؓ مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں تو حضرت عمرؓ نے اپنے غلام یفا

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۵ ص ۳۶) رواه كلہ الطبرانی ورواه احمد الا انه جعل ان النبی ﷺ هو الذی رای الرؤیا للرجل ورجال الجمع رجال الصحیح غیرابی اسرئیل والجشمی و هو ثقة انتہی

۲۔ اخرجه مالك كذا في الترغيب (ج ۳ ص ۴۲۴) عند البيهقي كذا في الترغيب (ج ۳ ص ۴۲۴) واخرجه ابن جرير عن جابر اطول منه كما في منتخب الكنز (ج ۴ ص ۴۰۷) ۳۔ اخرجه سعید بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و الحاكم و البيهقي كذا في المنتخب (ج ۶ ص ۴۰۶)

۴۔ اخرجه عبدالرزاق و احمد في الزهد و العسكري في المواعظ و ابن عساكر كذا في منتخب الكنز (ج ۴ ص ۴۰۱)

سے فرمایا جب تمہیں پتہ چل جائے کہ ان کارات کا کھانا تیار ہو گیا ہے تو مجھے خبر کر دینا۔ چنانچہ جب حضرت یزید کارات کا کھانا تیار ہو گیا تو حضرت یرفانہ نے حضرت عمرؓ کو خبر کی۔ حضرت عمرؓ تشریف لے گئے اور حضرت یزید کے ہاں پہنچ کر انہیں سلام کیا اور ان سے اندر آنے کی اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دی۔ حضرت عمرؓ اندر تشریف لے گئے تو حضرت یزید کارات کا کھانا لایا گیا اور وہ ٹرید اور گوشت لے کر آئے۔ حضرت عمرؓ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر بھنا ہوا گوشت دسترخوان پر لایا گیا۔ حضرت یزید نے تو اس گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن حضرت عمرؓ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور فرمایا اے یزید بن ابی سفیان! ہائے اللہ۔ کیا ایک کھانے کے بعد دوسرا کھانا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر تم حضور ﷺ اور ان کے صحابہؓ کے طریقہ زندگی سے ہٹ جاؤ گے تو تمہیں بھی ان کے راستہ سے ہٹا دیا جائے گا (جو کہ جنت کے اعلیٰ درجات کو جاتا ہے)۔

حضرت حسنؓ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمرؓ ایک کوڑی کے پاس سے گزرے تو اس کے پاس رک گئے جب آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے ساتھیوں کو اس کی گندگی سے ناگواری ہو رہی ہے تو فرمایا یہ ہے تمہاری وہ دنیا جس کا تم لالچ کرتے ہو یا فرمایا جس پر تم بھروسہ کرتے ہو۔ حضرت سلمہ بن کلثومؓ کہتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداءؓ نے دمشق میں ایک اونچی عمارت بنائی۔ حضرت عمر بن خطابؓ کو مدینہ منورہ میں اس کی اطلاع ملی تو حضرت ابو الدرداءؓ کو یہ خط لکھا اے عویمیر بن ام عویمیر! کیا تمہیں روم و فارس کی عمارتیں کافی نہیں ہیں کہ تم اور نئی عمارتیں بنانے لگ گئے ہو؟ اور اے حضرت محمد ﷺ کے صحابہؓ (ہر کام سوچ سمجھ کر کیا کرو کیونکہ تم دوسروں کیلئے نمونہ ہو) لوگ تمہیں جیسا کرتے ہوئے دیکھیں گے ویسا ہی کرنے لگ جائیں گے)۔ حضرت راشد بن سعدؓ کہتے ہیں حضرت عمرؓ کو خبر ملی کہ حضرت ابو الدرداءؓ نے حمص میں دروازے پر ایک چھتہ بنایا ہے تو حضرت عمرؓ نے انہیں خط لکھا اے عویمیر! روم والوں نے جو تعمیرات کی ہیں کیا وہ دنیا کی زیب و زینت کے لئے تمہیں کافی نہیں تھیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو اجاڑنے یعنی سادگی کا حکم دے رکھا ہے۔ ابو نعیم کی روایت میں مزید یہ ہے کہ روم والوں نے جو تعمیرات کی ہیں کیا وہ دنیا کی زیب و زینت اور نئی عمارتیں بنانے کیلئے کافی نہیں تھیں؟ حالانکہ اللہ نے تو دنیا کے ویران ہونے کا بتایا ہے۔

۱۔ اخرجہ ابن المبارک کذا فی منتخب کنز العمال (ج ۴ ص ۴۰۱)

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۴۸)

۳۔ عند ابن عساکر و ہنادی البیہقی کذا فی العمال (ج ۸ ص ۶۲)

جب تمہیں میرا یہ خط ملے فوراً حمص سے دمشق چلے جانا۔ حضرت سفیان راوی کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے یہ حکم ان کو بطور سزا کے دیا تھا۔<sup>۱</sup>

حضرت یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مصر میں سب سے پہلے حضرت خارجہ بن حذافہؓ نے بالا خانہ بنایا تھا۔ حضرت عمر بن خطابؓ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت عمرو بن عاصؓ کو یہ خط لکھا:

”سلام ہو۔ اباعد! مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حضرت خارجہ بن حذافہ نے بالا خانہ بنایا ہے۔ حضرت خارجہ اپنے پڑوسیوں کے پردے کی چیزوں پر جھانکنا چاہتے ہیں۔ لہذا جوں ہی تمہیں میرا یہ خط ملے اس بالا خانے کو گرا دو فقط والسلام“<sup>۲</sup>

حضرت عبداللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت ام طلحہؓ کے گھر ان کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر کی چھت نیچی ہے۔ میں نے کہا اے ام طلحہ! آپ کی گھر کی چھت بہت ہی نیچی ہے۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے! حضرت عمر بن خطابؓ نے اپنے گورنروں کو یہ خط لکھا کہ تم اپنی عمارتیں اونچی نہ بناؤ کیونکہ تمہارا سب سے بڑا دن وہ ہوگا جس دن تم لوگ اونچی عمارتیں بناؤ گے۔<sup>۳</sup>

حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو فد کے گورنر تھے انہوں نے خط لکھ کر حضرت عمر بن خطابؓ سے رہنے کے لئے گھر بنانے کی اجازت مانگی حضرت عمرؓ نے انہیں جواب میں لکھا کہ ایسا گھر بناؤ جس سے تمہاری دھوپ اور بارش سے بچنے کی ضرورت پوری ہو جائے کیونکہ دنیا تو گزارہ کرنے کی جگہ ہے حضرت عمرو بن عاصؓ مصر کے گورنر تھے انہیں حضرت عمرؓ نے یہ لکھا کہ تم اپنے ساتھ اپنے امیر کا جیسا رویہ پسند کرتے ہو تو ویسا ہی رویہ اپنی رعایا کے ساتھ اختیار کرو۔<sup>۴</sup>

حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ کو خبر ملی کہ ایک آدمی نے بکی اینٹوں سے مکان بنایا ہے تو فرمایا میرا خیال نہیں تھا کہ اس امت میں بھی فرعون جیسے لوگ ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمرؓ فرعون کے اس جملہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے:

فَاَوْقَدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا (سورت قصص آیت ۳۸)

۱۔ اخرجه ابو نعيم الحلي (ج ۷ ص ۳۰۵) عن راشد بن سعد مثله وزاد بعد قوله تزين الدنيا

۲۔ اخرجه ابن عبدالحكم كذا في الكنز (ج ۸ ص ۶۳)

۳۔ اخرجه ابن سعد و البخاري في الادب كذا في الكنز (ج ۸ ص ۶۳)

۴۔ اخرجه ابن ابى الدنيا و الدنيوري كذا في منتخب الكنز (ج ۴ ص ۴۰۶)

ترجمہ: ”تو اے ہامان! تم ہمارے لئے مٹی (کی اینٹیں بھرا کر ان) کو آگ میں (پڑاؤ لگا کر) پکواؤ۔ پھر (ان پختہ اینٹوں سے) میرے واسطے ایک بلند عمارت بھراؤ۔“<sup>۱</sup>

حضرت سالم بن عبد اللہ کہتے ہیں میرے والد کے زمانہ میں میری شادی ہوئی میرے والد نے لوگوں کو (کھانے کیلئے) بلایا اور ان میں حضرت ابو ایوبؓ کو بھی بلایا تھا۔ گھر والوں نے کمرے کی دیواروں پر سبز پردے لٹکادئے۔ حضرت ابو ایوب تشریف لائے۔ انہوں نے اپنا سر جھکایا اور (غور سے) دیکھا تو کمرے پر پردے لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے (میرے والد سے) فرمایا اے عبد اللہ! تم لوگ دیواروں پر پردے لٹکاتے ہو؟ میرے والد نے شرمندہ ہو کر کہا اے ابو ایوب! عورتیں ہم پر غالب آئیں گی۔ حضرت ابو ایوب نے فرمایا دوسروں کے بارے میں تو مجھے ڈر تھا کہ ان پر عورتیں غالب آجائیں گی لیکن تمہارے بارے میں مجھے یہ ڈر بالکل نہیں تھا کہ تم پر بھی غالب آجائیں گی۔ نہ میں تمہارے گھر میں داخل ہوں گا اور نہ تمہارا کھانا کھاؤں گا۔<sup>۲</sup>

حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے کچھ نصیحت کر دیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اے سلمان! اللہ سے ڈرتے رہو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ عنقریب بہت سی فتوحات ہوں گی ان میں سے تمہارا حصہ صرف اتنا ہونا چاہئے کہ بھدر ضرورت کھانا اپنے پیٹ میں ڈال لو اور بھدر ضرورت لباس اپنی پشت پر ڈال لو (اپنی ضرورت میں کم سے کم لگا کر باقی سارا دوسروں پر خرچ کر دینا) اور تم یہ بھی جان لو کہ جو آدمی پانچ نمازیں پڑھتا ہے وہ صبح و شام ہر وقت اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ لہذا تم اہل اللہ میں سے کسی کو ہرگز قتل نہ کرنا کیونکہ تم اس طرح اللہ کی ذمہ داری کو توڑ دو گے اور پھر اللہ تعالیٰ تم کو لوٹھے منہ (جہنم کی) آگ میں ڈال دیں گے۔<sup>۳</sup>

حضرت حسنؓ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسیؓ حضرت ابو بکرؓ کے پاس ان کے مرض الوفا میں گئے اور عرض کیا اے خلیفہ رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت کر دیں حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لئے ساری دنیا کو فتح کر دیں گے (اور خوب مال غنیمت آئے گا) تم میں سے ہر آدمی ان فتوحات میں سے صرف گزارے کے بھدر ہی لے لے۔<sup>۴</sup>

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۷ ص ۳۰۴)

۲۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی کنز العمال (ج ۸ ص ۶۳)

۳۔ اخرجه احمد فی الزهد و ابن سعد (ج ۳ ص ۱۳۷) وغیر ہما کذا فی الکنز (ج ۸ ص

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکرؓ کے پاس ان کے مرض الوفا میں گیا اور انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا سامنے سے آ رہی ہے اگرچہ ابھی تک آئی نہیں ہے لیکن وہ بس آنے ہی والی ہے اور آپ لوگ ریشم کے پردے اور دیباچ کے تکیے بناؤ گے اور آذربلجان کے بنے ہوئے اونی بستروں (جو کہ عمدہ شمار ہوتے ہیں) پر ایسے تکلیف محسوس کرو گے جیسے گویا کہ تم سعدان (بوٹی) کے کانٹوں پر ہو، اللہ کی قسم! تم میں سے کسی ایک کو آگے کر کے بغیر جرم کے اس کی گردن کو اڑا دیا جائے یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ دنیا کی گہرائیوں میں تیرتا رہے۔ ۱

حضرت علی بن رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمرو بن عاصؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم لوگ اس چیز میں رغبت کرنے لگے ہو جس سے حضور اکرم ﷺ بے رغبتی کیا کرتے تھے۔ تم دنیا میں رغبت کرنے لگ گئے ہو اور حضور اس سے بے رغبتی کیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم! ان کی زندگی کی جو رات بھی ان پر آتی تھی اس میں ان پر قرضہ ان کے مال سے ہمیشہ زیادہ ہوا کرتا تھا۔ یہ سن کر حضور ﷺ کے صحابہؓ نے کہا ہم نے حضور ﷺ کو قرض لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ۲ امام احمد نے حضرت عمروؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا تمہارا طریقہ تمہارے نبی ﷺ کے طریقے سے کتنا دور ہو گیا ہے۔ حضور ﷺ تو لوگوں میں دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی والے تھے اور تمام لوگوں میں تم لوگ دنیا کی سب سے زیادہ رغبت رکھنے والے ہو۔ ۳

حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ایک نوجوان بیٹے نے آپ سے لنگی مانگی اور کہا میری لنگی پھٹ گئی ہے۔ حضرت عبداللہؓ نے کہا لنگی جہاں سے پھٹی ہے وہاں سے کاٹ دو اور باقی کو سی کر پہن لو۔ اس نوجوان کو یہ بات اچھی نہ لگی تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس سے کہا تیرا بھلا ہوا اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے رزق کو اپنے پیٹوں میں اور اپنی پشتوں پر ڈال دیتے ہیں یعنی اپنا سارا مال کھانے اور

۱۔ عند الدنیوری کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۶)

۲۔ عند ابی نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۴) و اخرجه الطبرانی ایضا عن عبدالرحمن نحوه کما فی

المنتخب (ج ۴ ص ۳۶۲) وقال وله حکم الرفع لانه من الاخبار عمایاتی او

۳۔ اخرجه احمد قال فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۶۶) رواه احمد ورواته رواة الصحيح

والحاکم الا انه قال عامر به ثلاث من ذہره الا والذی علیہ اکثر من الذی له ورواه ابن حبان فی

صحيحه مختصر انتهى فی قال الهیثمی (ج ۱ ص ۳۱۵) رجال احمد رجال الصحيح او

و اخرجه ابن عساکر و ابن النجار نحوه کما فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۸)

لباس پر خرچ کر دیتے ہیں۔<sup>۱</sup>

حضرت ثابتؓ کہتے ہیں حضرت ابو ذرؓ حضرت ابو الدرداءؓ کے پاس سے گزرے وہ اپنا گھر بنا رہے تھے حضرت ابو ذرؓ نے کہا تم نے بڑے بڑے پتھر لوگوں کے کندھوں پر لاد دیئے ہیں۔ حضرت ابو الدرداءؓ نے کہا میں تو گھر بنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ذرؓ نے پھر وہی پہلا جملہ دہرایا۔ حضرت ابو الدرداءؓ نے کہا اے میرے بھائی! شاید میرے اس کام کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو ذرؓ نے کہا اگر میں آپ کے پاس سے گزرتا اور آپ اپنے گھر والوں کے پاخانے میں مشغول ہوتے تو یہ مجھے اس کام سے زیادہ محبوب تھا جس میں آپ اب مشغول ہیں۔<sup>۲</sup>

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ ایک نئی قمیض پہنی۔ اسے دیکھ کر خوش ہونے لگی وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کیا دیکھ رہی ہو؟ اس وقت اللہ تمہیں (نظرِ رحمت سے) نہیں دیکھ رہے ہیں میں نے کہا یہ کیوں؟ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب دنیا کی زینت کی وجہ سے بندہ میں عجب (خود کو اچھا سمجھنا) پیدا ہو جاتا ہے تو جب تک بندہ وہ زینت چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کا رب اس سے ناراض رہتا ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے وہ قمیض اتار کر اسی وقت صدقہ کر دی تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا شاید یہ صدقہ تمہارے اس عجب کے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔<sup>۳</sup>

حضرت حبیب بن حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ایک بیٹے کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو وہ جو ان تکھیوں سے ایک تکیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا آپ کا بیٹا تکھیوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب لوگوں نے ان کے بیٹے کو اس تکیہ سے اٹھلایا تو اس تکیہ کے نیچے پانچ یا چھ دینار ملے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا اور وہ بار بار انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے رہے اور فرمایا میرے خیال میں تو تمہاری کھال ان دیناروں کی سزا برداشت نہیں کر سکتی (کہ تم نے ان کو جمع کر کے رکھا اور خرچ نہ کیا)۔<sup>۴</sup>

حضرت عبد اللہ بن ابی ہذیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے اپنا گھر بنایا تو حضرت عمارؓ سے کہا آؤ جو گھر میں نے بنایا ہے وہ دیکھ لو۔ چنانچہ حضرت عمار ان کے ساتھ گئے اور گھر دیکھ کر کہنے لگے آپ نے بڑا مضبوط گھر بنایا ہے اور بڑی لمبی اور دور کی

۱۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۰۱) ۲۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۶۳)

۳۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۷) ۴۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۷)



امیدیں لگائی ہیں حالانکہ آپ جلد ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔  
حضرت عطاءؓ کہتے ہیں حضرت ابو سعد خدریؓ کو ایک ولیمہ کی دعوت دی گئی (وہ اس  
میں تشریف لے گئے) اور میں بھی ان کیساتھ تھا وہاں انہوں نے رنگ برنگے کھانے دیکھے  
تو فرمایا کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ حضور اقدس ﷺ جب دوپہر کو کھانا کھالیا  
کرتے تھے تو رات کو کھانا نہیں کھاتے تھے اور جب رات کو کھالیا کرتے تھے تو دوپہر کو  
نہیں کھاتے تھے۔

صحابہ کرامؓ نے اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں بیویوں،  
خاندانوں، مالوں، تجارتوں اور گھروں کے بارے میں کس  
طرح اپنی نفسانی خواہشات اور ذاتی جذبات بالکل ختم کر دیئے  
تھے اور کس طرح اللہ، اس کے رسول ﷺ اور ہر اس  
مسلمان کی محبت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا جسے اللہ و رسول  
ﷺ کی نسبت حاصل تھی اور انہوں نے کس طرح ہر اس  
انسان کا خوب اکرام کیا جسے نسبت محمدی حاصل ہو گئی تھی  
اسلام کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لئے

### جاہلیت کے تعلقات کو بالکل ختم کر دینا

حضرت ابن شوذب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جنگ بدر کے دن حضرت ابو عبیدہ بن جراح  
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کے سامنے آئے، یہ ان کے سامنے سے ہٹ جاتے لیکن جب  
ان کے والد بار بار ان کے سامنے آئے تو انہوں نے بھی ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور آخر  
انہیں قتل کر ہی دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ

ابنائهم أو إخوانهم أو عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (سورت مجادلہ: آیت ۲۲)  
ترجمہ: جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر (پورا پورا) ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ  
دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے  
برخلاف ہیں گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہوں، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ  
تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا۔<sup>۱</sup>

حضرت مالک بن عمیرؓ نے زمانہ جاہلیت بھی دیکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے  
حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میں نے دشمن کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ اس  
لشکر میں میرا باپ بھی تھا۔ میں نے اس سے آپ ﷺ کے بارے میں بڑی سخت بات سنی،  
مجھ سے رہانہ گیا اور میں نے نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ یہ سن کر حضور ﷺ خاموش رہے  
پھر ایک اور آدمی نے آکر عرض کیا کہ لڑائی میں میرا باپ میرے سامنے آ گیا تھا لیکن میں نے  
اس چھوڑ دیا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی اور اسے قتل کرے۔ یہ سن کر بھی حضور ﷺ خاموش  
رہے۔<sup>۲</sup>

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں عبد اللہ بن ابی منافق ایک قلعہ کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا  
حضور ﷺ اس کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا لن ابی کبشہ (ابو کبشہ یا تو حضور ﷺ کے نانا  
کی کنیت ہے یا حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاوند کی کنیت ہے اس لئے لن ابی کبشہ سے حضور ﷺ  
مراد ہیں) نے ہمارے اوپر گردوغبار ڈال دیا ہے اس پر اس کے بیٹے حضرت عبد اللہ رضی اللہ  
تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بزرگی عطا فرمائی ہے! اگر آپ  
چاہیں تو میں اس کا سر آپ کی خدمت میں لے آؤں۔ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اپنے  
باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو اور اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔ حضرت  
عبد اللہ بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم ﷺ سے اپنے باپ کو قتل کرنے کی  
اجازت مانگی حضور ﷺ نے فرمایا اپنے باپ کو مت قتل کرو۔<sup>۳</sup>

حضرت عاصم بن عمر بن قتادہؓ کہتے ہیں حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی بن سلولؓ حضور  
ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کو

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۰۱) و اخرجہ البیہقی (ج ۹ ص ۲۷) و الأحاکم (ج  
۳ ص ۲۶۵) عن عبد اللہ بن شوذب نحوه قال البیہقی هذا منقطع و اخرجہ الطبرانی ایضاً بسند جيد  
عن ابن شوذب نحوه کما فی الاصابة (ج ۲ ص ۲۵۳) ۲۔ اخرجہ البیہقی (ج ۹ ص ۲۷) قال  
البیہقی وهذا مرسل جيد ۳۔ اخرجہ البزار قال الهیثمی (ج ۹ ص ۳۱۸) رواه البزار و رجاله ثقات  
عند الطبرانی.

میرے باپ کی طرف سے جو نازیربا تھیں بچی ہیں ان کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ میرا باپ عبد اللہ بن ابی قتل کر دیا جائے اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ اس کا مجھے حکم فرمائیں میں اس کا سر کاٹ کر آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اللہ کی قسم! تمام قبیلہ خزرج کو خوب معلوم ہے کہ اس قبیلہ میں کوئی آدمی مجھ سے زیادہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں تھا۔ اس لئے اب مجھے یہ پڑ ہے کہ آپ کسی اور کو میرے باپ کے قتل کرنے کا حکم دیں گے اور وہ میرے باپ کو قتل کرے گا پھر وہ مجھے لوگوں میں چلتا ہوا نظر آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفس زور میں آجائے اور میں اسے قتل کر ڈالوں۔ اس طرح میں کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کر بیٹھوں اور یوں میں دوزخ کی آگ میں داخل ہو جاؤں۔ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں۔ ہم تو اس کے ساتھ نرمی برتیں گے اور وہ جب تک ہمارے ساتھ رہے گا ہم اسکے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔

حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں جب حضور اقدس ﷺ غزوہ بنی مصطلق سے واپس تشریف لائے تو حضرت ابن عبد اللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ (ان کا باپ منافقوں کا سردار تھا) پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا میں اللہ کے لئے اپنے پر یہ لازم کرتا ہوں کہ یہ تلوار اس وقت نیام میں ڈالوں گا جب تم کو گے کہ محمد (علیہ السلام) زیادہ عزت والے ہیں اور میں زیادہ ذلت والا ہوں۔ آخر ان کے باپ نے زبان سے کہا تیرا اس ہو! محمد (علیہ السلام) زیادہ عزت والے ہیں اور میں زیادہ ذلت والا ہوں۔ جب حضور ﷺ کو اس واقعہ کی خبر پہنچی تو آپ کو یہ بہت پسند آیا اور آپ نے ان کی تحسین فرمائی۔

حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت حظلہ بن ابی عامر اور حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی بن سلولؓ نے اپنے اپنے والد کو قتل کرنے کی حضور ﷺ سے اجازت مانگی لیکن حضور ﷺ نے منع فرمایا۔

حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرؓ نے (بعد میں اپنے والد) حضرت ابو بکرؓ سے کہا میں نے جنگ احد کے دن آپ کو دیکھ لیا تھا لیکن میں نے آپ سے اپنا منہ پھیر لیا تھا (باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا) حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا لیکن اگر میں تمہیں دیکھ لیتا تو تم سے منہ نہ پھیرتا (بلکہ اللہ کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا اس وقت تک حضرت عبد الرحمن مسلمان نہ ہوئے تھے۔

۱ عند ابن اسحاق کذا فی البدایہ (ج ۴ ص ۱۵۸)

۲ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۹ ص ۳۱۸) وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف

۳ اخرجه ابن شاهين باسناد حسن كذا في الاصابة (ج ۱ ص ۳۶۱)

حضرت واقدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمنؓ نے جنگ بدر کے دن مقابلہ کیلئے لاکارا (اس دن یہ کافروں کے ساتھ تھے) تو ان کے مقابلہ کے لئے ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا (تم مقابلہ کے لئے نہ جاؤ) ہم نے ابھی تم سے بہت کام لینے ہیں۔ ۱۔

حضرت ابو عبیدہ اور غزوات کے خوب جاننے والے دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان سے حضرت عمرؓ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں کچھ ہے۔ میرے خیال میں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے باپ (عاص) کو قتل کیا ہے اگر میں نے اسے قتل کیا ہوتا تو میں اس پر تمہارے سامنے کوئی معذرت پیش نہ کرتا۔ میں نے تو اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا تھا۔ میں تمہارے والد کے پاس سے گزرا تھا وہ (زخمی ہو کر زمین پر پڑا ہوا تھا اور) زمین پر ایسے سر مار رہا تھا جیسے (غصہ میں آکر) ہیل زمین پر سیٹک مارتا ہے۔ بہر حال میں اس سے کتر کر آگے چلا گیا اور اسے اس کے پچازاد بھائی حضرت علیؓ نے قتل کیا ہے۔ اہ اور استیجاب اور اصابہ میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضرت سعید بن عاصؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو (ٹھیک تھا کیونکہ) آپ حق پر تھے اور وہ باطل پر تھا۔ حضرت عمرؓ کو ان کی یہ بات بہت اچھی لگی۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں جنگ بدر کے دن قتل ہونے والے کافروں کے بارے میں نبی اکرم ﷺ نے حکم دیا کہ ان کو گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا جائے چنانچہ انہیں اس کنویں میں پھینک دیا گیا۔ پھر حضور ﷺ نے (اس کنویں کے کنارے پر) کھڑے ہو کر فرمایا اے کنویں والو! کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچایا۔ مجھ سے تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے تو اسے سچایا۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مردہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا اب ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ ان کے رب نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا۔ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہؓ نے دیکھا کہ ان کے والد کو گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا جا رہا ہے تو حضور ﷺ نے ان کے چہرے میں ناگواری کے اثرات محسوس کئے اور فرمایا اے ابو حذیفہ! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنے والد کے متعلق جو منظر دیکھا ہے اس سے تمہیں ناگواری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میرا باپ سردار تھا مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور اسلام کی ہدایت دیں گے لیکن جب اس کا انجام یہ ہوا (کہ کفر پر ذلت کے ساتھ

مارا گیا) تو مجھے اس کا رنج ہو رہا ہے۔ حضور ﷺ نے حضرت ابو حذیفہ کے لئے دعائے خیر فرمائی کہ حضرت ابو الزناد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو حذیفہؓ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے والد عقبہ کو مقابلہ میں لڑنے کی دعوت دی تھی۔ آگے ان اشعار کا تذکرہ کیا ہے جو ان کی بہن حضرت ہند بنت عتبہؓ نے اس بارے میں کہے تھے۔ ۱

ہو عبد الدار قبیلہ کے حضرت نبیہ بن وہبؓ فرماتے ہیں جب حضور اقدس ﷺ بدر کے قیدیوں کو لے کر آئے اور انہیں اپنے صحابہؓ میں تقسیم کر دیا تو فرمایا میں تمہیں پر زور تاکید کرتا ہوں کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت مصعب بن عمیرؓ کے سگے بھائی ابو عزیز بن عمیر بن ہاشم بھی قیدیوں میں تھے حضرت ابو عزیز ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی مجھے قید کر رہے تھے کہ اتنے میں میرے بھائی مصعب بن عمیر میرے پاس سے گزرے تو اس انصاری سے کہنے لگے دونوں ہاتھوں سے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھنا کیونکہ اس کی مال بہت مالدار ہے وہ تمہیں اس کے فدیہ میں خوب دے گی۔ حضرت ابو عزیز کہتے ہیں صحابہؓ جب مجھے بدر سے لے کر چلے تو میں انصاری کی ایک جماعت میں تھا جب بھی وہ دن کو یارات کو کھانا اپنے سامنے رکھتے تو روٹی مجھے کھلا دیتے اور خود کھجور کھا لیتے کیونکہ حضور ﷺ نے انہیں ہمارے بارے میں تاکید فرما رکھی تھی۔ ان میں جسے بھی روٹی کا ٹکڑا ملتا وہ مجھے دے دیتا۔ مجھے شرم آجاتی اور وہ ٹکڑا واپس کر دیتا لیکن وہ انصاری اسے ہاتھ لگائے بغیر پھر مجھے واپس کر دیتا۔ حضرت ابو الیسرؓ نے حضرت ابو عزیز کو قید کیا تھا جب ان سے حضرت مصعب نے وہ بات کہی تھی (کہا اسے مضبوط پکڑو اس کی مال بہت مالدار ہے) تو حضرت مصعب سے حضرت ابو عزیز نے کہا تھا آپ (بھائی ہو کر) میرے بارے میں یہ تاکید کر رہے ہیں؟ تو حضرت مصعبؓ نے ان کو کہا یہ (انصاری حضرت ابو الیسر) میرے بھائی ہیں تم نہیں ہو۔ حضرت ابو عزیز کی والدہ نے پوچھا کہ ان قریبی قیدیوں کا فدیہ سب سے زیادہ کیا دیا گیا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ چار ہزار درہم۔ چنانچہ اس نے حضرت ابو عزیز کے فدیہ میں چار ہزار درہم بھجے۔ ۲

حضرت ایوب بن نعمانؓ کہتے ہیں حضرت مصعب بن عمیرؓ کے سگے بھائی حضرت ابو عزیز بن عمیر جنگ بدر کے دن قید ہوئے تھے اور یہ حضرت محرز بن نضلہؓ کے ہاتھ آئے تھے تو حضرت مصعبؓ نے حضرت محرز سے کہا اسے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑے رکھنا

۱۔ اخرجه ابن جریر کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۶۹) واخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۲۲۴) عن عائشة نحوه وقال صحيح علي شرط مسلم و لم يختره و وافقه الذهبي و ذكره ابن اسحاق نحوه بلا اسناد كذا في البداية (ج ۳ ص ۲۹۴) ۲۔ ذكره الحاكم (ج ۳ ص ۲۲۳) و هكذا استند البيهقي (ج ۸ ص ۱۸۶) ۳۔ اخرجه ابن اسحاق كذا في البداية (ج ۳ ص ۳۰۷)

کیونکہ اس کی ماں مکہ میں رہتی ہے اور وہ بہت مالدار ہے۔ اس پر حضرت ابو عزیز نے حضرت مصعبؓ سے کہا اے میرے بھائی! تم میرے بارے میں یہ تاکید کر رہے ہو؟ حضرت مصعبؓ نے کہا محرز میرا بھائی ہے تم نہیں ہو۔ چنانچہ ان کی والدہ نے ان کے فد یہ میں چار ہزار بچے لے کر حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ﷺ (قریش کی بد عہدی کی وجہ سے) مکہ پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے ان دنوں حضرت ابو سفیان بن حرب مدینہ منورہ آئے اور حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور ﷺ سے صلح حدیبیہ کی مدت بڑھانے کی بات کی۔ حضور ﷺ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ حضرت ابو سفیان وہاں سے کھڑے ہو کر اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہؓ کے گھر گئے اور جب حضور ﷺ کے بستر پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہؓ نے اسے لپیٹ دیا۔ اس پر انہوں نے کہا اے بیٹا! کیا تم مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو یا اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھتی ہو؟ انہوں نے کہا یہ حضور ﷺ کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک انسان ہیں (آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں) حضرت ابو سفیان نے کہا اے بیٹا! میرے بعد تمہارے اخلاق بچو گئے ہیں۔ اے اس کے بعد ابن اسحاق نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ام حبیبہؓ نے کہا میں نہیں چاہتی کہ آپ حضور ﷺ کے بستر پر بیٹھیں۔

حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم لوگ حضرت ابن مسعودؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس دینار جیسے خوبصورت تین پیڑے بیٹھے ہوئے تھے ہم ان تینوں کو دیکھنے لگے تو وہ سمجھ گئے اور فرمایا شاید تم ان پیڑوں کی وجہ سے مجھ پر رشک کر رہے ہو (کہ تمہارے بھی ایسے پیڑے ہوں) ہم نے عرض کیا ایسے پیڑے ہی تو آدمی کے لئے قابل رشک ہو کرتے ہیں اس پر انہوں نے اپنے کمرے کی جھت کی طرف سر اٹھلایا جو بہت نیچی تھی جس میں خطاف (لبیل جیسے پرندے) نے گھونسلا بنا رکھا تھا تو فرمایا میں اپنے ان پیڑوں کو دفن کر کے ان کی قبروں کی مٹی سے اپنے ہاتھوں کی جھاڑوں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ اس پرندے کا انڈا گر کر ٹوٹ جائے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں کوفہ میں حضرت ابن مسعودؓ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا ایک دن وہ اپنے چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے اور فلاں فلاں عورتیں ان کی بیویاں تھیں جو بڑے حسب و نسب اور جمال والی تھیں اور ان کی ان دونوں سے بڑی خوبصورت لولہ تھی کہ استے میں ان کے سر کے لوپر ایک چڑیا لٹنے لگی اور اس نے ان کے سر پر بیٹ کر دی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بیٹ پھیک دی اور فرمایا عبد اللہ کے سارے

۱۔ عند الواقدی کذا فی نصب الرایۃ للزیلعی (ج ۳ ص ۴۰۳) ۲۔ اخرجه ابن سعد (ج

۸ ص ۷۰) و ذکرہ ابن اسحاق نحوہ بلا اسناد کما فی البدایۃ (ج ۴ ص ۲۸۰)

بچے مر جائیں اور ان کے بعد میں بھی مر جاؤں یہ مجھے اس چڑیا کے مرنے سے زیادہ پسند ہے۔  
(صحابہ کرامؓ کے دلوں میں خلق خدا پر اتنی شفقت تھی کہ انہیں جانور بھی اپنے بچوں سے زیادہ  
پیارے لگتے تھے)

حضرات اہل الرائے سے مشورہ کے عنوان کے ذیل میں حضرت عمرؓ کا یہ فرمان گزر چکا  
ہے کہ اللہ کی قسم! (بدر کے قیدیوں کے بارے میں) جو حضرت ابو بکرؓ کی رائے ہے وہ میری  
نہیں ہے بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ فلاں آدمی جو میرا قریبی رشتہ دار ہے وہ میرے حوالہ  
کر دیں میں اس کی گردن اڑا دوں اور عقیل کو حضرت علیؓ کے حوالہ کر دیں۔ وہ عقیل کی  
گردن اڑادیں اور فلاں آدمی جو حضرت حمزہ کے بھائی ہیں یعنی حضرت عباسؓ وہ حضرت حمزہ  
کے حوالہ کر دیں۔ حضرت حمزہ ان کی گردن اڑادیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے کہ  
ہمارے دلوں میں مشرکوں کے بارے میں کسی قسم کی نرمی نہیں ہے۔ حضرات انصار کے  
ایسے ہی تھے (جلد اول میں) انصار کے (اسلام کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لئے)  
جاہلیت کے تعلقات کو قربان کرنے کے باب میں گزر چکے ہیں۔

## حضرات صحابہ کرامؓ کے دلوں میں حضور ﷺ کی محبت

حضرت عبد اللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضرت سعد بن معاذ نے عرض  
کیا یا نبی اللہ! کیا ہم آپ کے لئے ایک چھپرہ نہ بنا دیں جس میں آپ رہیں اور آپ کی سواریاں  
تیار کر کے آپ ﷺ کے پاس کھڑی کر دیں پھر دشمن سے لڑنے چلے جائیں اگر اللہ نے  
ہمیں عزت دے دی اور ہمیں دشمن پر غالب کر دیا تو پھر تو یہ وہ بات ہوگی جو ہمیں پسند ہے  
اور اگر خدا نخواستہ دوسری صورت پیش آگئی (یعنی ہم ہار جائیں) تو آپ سواریوں پر بیٹھ کر  
ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس چلے جائیں جو مدینہ منورہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ کیونکہ مدینہ  
منورہ میں ایسے بہت سے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہمیں ان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے۔  
(بلکہ ہمارے برابر ہی ہے) اگر انہیں ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ آپ کو لڑائی لڑنی پڑے گی تو وہ  
ہر گز مدینہ میں پیچھے نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے وہ آپ  
کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے اور آپ کے ساتھ اللہ کے راستہ میں جہاد کریں گے

یہ سن کر حضور ﷺ نے حضرت سعدؓ کی بڑی تعریف فرمائی اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی اور پھر حضور ﷺ کے لئے ایک چھپر بنایا گیا جس میں آپ رہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے آپ سے اپنی جان سے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے۔ میں بعض دفعہ گھر میں ہوتا ہوں آپ مجھے یاد آجاتے ہیں تو پھر جب تک حاضر خدمت ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں مجھے چین نہیں آتا۔ اب مجھے یہ خیال آیا ہے کہ میرا بھی انتقال ہو جائے گا آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور آپ تو نبیوں کے ساتھ سب سے لو پر کی جنت میں چلے جائیں گے اور میں نیچے کی جنت میں رہ جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا (تو پھر میرا جنت میں کیسے دل لگے گا) ابھی حضور ﷺ نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا تھا کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَالصَّالِحِينَ (سورت نساء آیت ۶۹)

ترجمہ: اور جو شخص اللہ ورسول ﷺ کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہونگے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء۔

حضرت المن عباسؓ فرماتے ہیں ایک آدمی نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے آپ سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ جب آپ مجھے یاد آجاتے ہیں تو اگر میں آکر آپ کی زیارت نہ کر لوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری جان نکل جائے گی۔ اب مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میں جنت میں گیا بھی تو مجھے آپ سے نیچے کی جنت ملے گی (اور میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا) تو مجھے جنت میں بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی اس لئے میں چاہتا ہوں جنت کے درجہ میں میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں (تا کہ جب دل چاہے گا آپ کی زیارت کر لیا کروں گا) حضور ﷺ نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ (سورت نساء آیت ۶۹)

۱ اسندہ ابن اسحاق کذا فی البدایة (ج ۳ ص ۲۶۸)

۲ اخرجه الطبرانی قال الترمذی (ج ۷ ص ۷) رداہ الطبرانی فی الصغیر والا وسط ورجاله رجال الصحیح غیر علیہ السلام من صحابہ العابدی وهو ثقة انتہی واخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۴ ص ۲۴۰) عن عائشہ بہذا السیاق والا سناد نحوہ وقال هذا حدیث غریب من حدیث منصور و ابراہیم تفرد بہ فضیل و عنہ العابدی



اس آدمی کو بلایا اور یہ آیت پڑھ کر سنائی۔

بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آکر حضور اقدسؐ سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضورؐ نے فرمایا تم نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں۔ بس یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت ہے آپ نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہو گے جس سے تمہیں یہاں محبت ہو گی۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضورؐ نے جو یہ فرمایا ہے کہ تم اسی کے ساتھ ہو گے جس سے تمہیں محبت ہو گی اس سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی اور کسی چیز سے نہیں ہوئی اور مجھے نبی کریمؐ اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے محبت ہے اور چونکہ مجھے ان حضرات سے محبت ہے اس وجہ سے مجھے پوری امید ہے کہ میں ان ہی حضرات کے ساتھ ہوں گا۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک دیہاتی آدمی حضور اقدسؐ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! قیامت کب قائم ہو گی؟ حضورؐ نے فرمایا تیرا بھلا ہو! تم نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں تیار کر رکھا ہے۔ بس اتنی بات ضرور ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں جس سے محبت ہو گی تم اسی کے ساتھ ہو گے۔ حضرت انسؓ نے پوچھا یہ بھارت ہمارے لئے بھی ہے (یا صرف اسی دیہاتی کے لئے ہے) حضورؐ نے فرمایا ہاں۔ تمہارے لئے بھی ہے۔ اس پر اس دن ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ترمذی کی روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ میں نے حضورؐ کے صحابہؓ کو اس سے زیادہ کسی اور چیز سے خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ! ایک آدمی دوسرے سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ وہ نیک عمل کرتا ہے لیکن یہ خود وہ نیک عمل نہیں کرتا (تو کیا یہ بھی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہو گا؟) حضورؐ نے فرمایا آدمی جس سے محبت کرے گا۔ اس کے ساتھ ہو گا۔

حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایک آدمی ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکتا (کیا یہ بھی ان کے ساتھ ہو گا) حضورؐ نے فرمایا اے ابو ذر! تم اسی کے ساتھ ہو گے جس سے تم محبت کرو گے میں نے کہا مجھے اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت ہے۔ حضورؐ نے فرمایا تم جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ ہو گے۔ میں نے اپنا جملہ پھر دہرایا تو حضورؐ نے پھر یہی ارشاد فرمایا۔

حضرت لادن عباسؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کو سخت فاقہ کی نوبت آگئی جس کی حضرت علیؓ کو کسی طرح خبر ہو گئی۔ وہ کسی کام کی تلاش میں نکلے تاکہ کھانے کی کسی چیز کا انتظام ہو جائے اور وہ اسے حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر سکیں چنانچہ وہ ایک یہودی کے باغ میں گئے اور پانی کے سترہ ڈول نکالے۔ ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور طے ہوئی تھی۔ یہودی نے اپنی تمام قسم کی کھجوریں حضرت علیؓ کے سامنے رکھ دیں کہ جس میں سے چاہیں لے لیں۔ چنانچہ حضرت علیؓ نے سترہ عجوبہ کھجوریں لے لیں اور جا کر حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیں حضور ﷺ نے پوچھا اے ابو الحسن! تمہیں یہ کھجوریں کہاں سے مل گئیں؟ حضرت علیؓ نے کہا یا نبی اللہ! مجھے آپ کے سخت فاقہ کی خبر ملی تو میں کسی کام کی تلاش میں گیا تاکہ آپ کے لئے کھانے کی کوئی چیز حاصل کر سکوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم نے ایسا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کی وجہ سے کیا ہے؟ حضرت علیؓ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ! حضور ﷺ نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے فقر و فاقہ اس کی طرف اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے پانی کا سیلاب نجان کی طرف جاتا ہے لہذا جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرے اسے چاہئے کہ وہ بلا اور آزمائش کے لئے ڈھال (یعنی صبر، زہد و قناعت) تیار کر لے۔

حضرت کعب بن عجرہؓ فرماتے ہیں میں حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا بات ہے مجھے آپ کا رنگ بدلا ہوا نظر آرہا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا تین دن سے میرے پیٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں گئی جو کسی جاندار کے پیٹ میں جاسکتی ہے۔ یہ سنتے ہی میں وہاں سے چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک یہودی (کنویں سے پانی نکال کر) اپنے اونٹوں کو پلانا چاہتا ہے۔ میں نے ایک ڈول کے بدلہ میں ایک کھجور مزدوری پر اس کے اونٹوں کو پانی پلانا شروع کیا بالآخر کچھ کھجوریں جمع ہو گئیں جو میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں جا کر پیش کر دیں۔ آپ نے پوچھا اے کعب! تمہیں یہ کھجوریں کہاں سے مل گئیں؟ میں نے آپ کو ساری بات بتادی۔ آپ نے فرمایا اے کعب! کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میرا باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے سیلاب نجان کی طرف جاتا ہے۔ اب تم پر اللہ کی طرف سے

۱۔ عندیابی دانود کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۴۲۹، ۴۳۱، ۴۳۳)

۲۔ أخرجه ابن عساکر کذا فی کنز العمال (ج ۳ ص ۳۲۱) وقال وفيه حشش

آزمائش آئے گی اس کے لئے ڈھال تیار کر لو (اس کے بعد میں ہمارا ہو گیا اور حضور ﷺ کی خدمت میں نہ جاسکا تو) جب حضور ﷺ نے مجھے چند دن نہ دیکھا تو صحابہؓ سے پوچھا کعبؓ کو کیا ہوا؟ (نظر نہیں آ رہا) صحابہؓ نے بتایا کہ وہ ہمارے ہیں۔ یہ سن کر آپ پیدل چل کر میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا اے کعبؓ! تمہیں خوشخبری ہو! میری والدہ نے کہا اے کعبؓ! تمہیں جنت میں جانا مبارک ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ اللہ پر قسم کھانے والی عورت کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! یہ میری والدہ ہے حضور ﷺ نے (میری والدہ کو) فرمایا اے ام کعبؓ! تمہیں کیا معلوم؟ شاید کعبؓ نے کوئی بے فائدہ بات کہی ہو اور (مانگنے والے ضرورت مند کو) ایسی چیز نہ دی ہو جس کی خود کعبؓ کو ضرورت نہ ہو لہٰذا کئی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ شاید کعبؓ نے لایعنی بات کہی ہو یا ایسی چیز نہ دی ہو جس کی خود اسے ضرورت نہ ہو۔

حضرت حمین بن وحوشؓ فرماتے ہیں جب حضرت طلحہ بن براءؓ حضور ﷺ کی خدمت میں ملنے گئے تو وہ حضور ﷺ سے چمٹنے لگے اور آپ کے پاؤں مبارک کا بوسہ دینے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت طلحہؓ نو عمر لڑکے تھے اس لئے ان کی اس بات پر حضور ﷺ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس پر آپ نے ان سے فرمایا جاؤ اور جا کر اپنے باپ کو قتل کر دو۔ وہ اپنے باپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے چل پڑے تو حضور ﷺ نے انہیں بلایا اور فرمایا اوہر آ جاؤ۔ مجھے رشتے توڑنے کے لئے نہیں بھیجا گیا اس کے بعد حضرت طلحہؓ ہمارے ہو گئے۔ حضور ﷺ ان کی عیادت کے لئے ان کے گھر گئے۔ سردی کا زمانہ تھا خوب سردی پڑ رہی تھی اور بادل بھی تھے جب آپ واپس آنے لگے تو حضرت طلحہؓ کے گھر والوں سے آپ نے کہا مجھے تو طلحہؓ پر موت کے آثار نظر آ رہے ہیں جب ان کا انتقال ہو تو مجھے خبر کر دینا تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھ سکوں اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا۔ حضور ﷺ ابھی قبیلہ بنو سالم بن عوف تک نہیں پہنچے تھے کہ حضرت طلحہؓ کا انتقال ہو گیا اور رات کا وقت ہو گیا تھا حضرت طلحہؓ نے انتقال سے پہلے جو باتیں کیں ان میں یہ وصیت بھی تھی کہ مجھے جلدی سے دفن کر کے مجھے میرے رب کے پاس پہنچا دینا اور حضور ﷺ کو نہ بلانا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور ﷺ میری وجہ سے رات کو ہی تشریف لائیں اور راستہ میں یہودی حضور ﷺ کو کوئی تکلیف پہنچا دیں۔ چنانچہ (رات کو

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۳۱۴) رواه الطبرانی فی الاوسط واسنادہ جیدہ وکذا قال فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۵۳) عن شیخہ الحافظ ابی الحسن واخرجه ابن عساکر مثله کما فی الكنز (ج ۳ ص ۳۲۰)

حضور ﷺ کو اطلاع دیئے بغیر نماز جنازہ پڑھ کر ان کے گھر والوں نے ان کو دفن دیا اور صبح کو جب حضور ﷺ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ حضرت طلحہؓ کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ ﷺ ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ صف بنا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اے اللہ! تیری ملاقات طلحہؓ سے اس حال میں ہو کہ تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔

حضرت طلحہ بن ابراہیمؓ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اگر میں تمہیں اپنے والدین سے تعلق توڑنے کو کہوں تو بھی تم بیعت ہونے کو تیار ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کس بات پر بیعت ہونا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اسلام پر۔ آپ نے فرمایا اور اگر میں تمہیں والدین سے تعلق توڑنے کو کہوں تو پھر؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے پھر تیسری مرتبہ حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی۔ میری والدہ حیات تھیں اور میں ان کے ساتھ اوروں سے زیادہ حسن سلوک کرتا تھا۔ حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا اے طلحہؓ! ہمارے دین میں رشتہ توڑنا نہیں ہے لیکن میں نے چاہا کہ تمہارے دین میں کسی طرح کا شک نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت طلحہؓ مسلمان ہو گئے اور بڑے اچھے مسلمان بنے۔ اس کے بعد یہ بیمار ہو گئے۔ حضور ﷺ ان کی عبادت کے لئے ان کے گھر تشریف لائے۔ جب حضور ﷺ تشریف لائے تو یہ بے ہوش تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے تو یہی نظر آرہا ہے کہ آج رات ہی ان کا انتقال ہو جائے گا لیکن اگر انہیں افاقہ ہو تو مجھے پیغام بھجوادینا۔ آدھی رات کو کہیں وہ ہوش میں آئے تو پوچھا کیا حضور نبی کریم ﷺ میری عبادت کے لئے تشریف لائے؟ گھر والوں نے کہا آئے تھے اور یہ فرما گئے تھے کہ جب تمہیں ہوش آئے تو ہم انہیں پیغام بھج دیں۔ حضرت طلحہؓ نے کہا اب انہیں پیغام نہ بھجو کیونکہ رات کا وقت ہے کوئی جانور انہیں کاٹ لے گا یا انہیں کوئی اور تکلیف پہنچ جائے گی۔ جب میں مر جاؤں تو حضور ﷺ کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے عرض کر دینا کہ وہ میرے لئے استغفار فرمادیں۔ حضور ﷺ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے بارے میں پوچھا لوگوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے

۱۔ اخرجہ الطبرانی کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۵۰) واخرجه البغوی وابن ابی حشمة وابن ابی عاصم وابن شاہین وابن السکین کما فی الاصابة (ج ۲ ص ۲۲۷) قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۶۵) وقد روی ابو داؤد بعض هذا الحدیث وسکت علیہ فهو حسن انشاء اللہ۔ انتھی۔

اور انتقال سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ (ﷺ) کو نہ بتایا جائے۔ حضور ﷺ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اے اللہ! اس سے تیری ملاقات اس حال میں ہو کہ تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ ۱

حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حضور ﷺ کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن حذافہؓ کی یہ شکایت بیان کی گئی کہ وہ مذاق بہت کرتے ہیں اور بیکار باتیں کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ اس میں ایک چھپی ہوئی خوبی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے۔ ۲

حضرت اورسؓ فرماتے ہیں۔ میں ایک رات آکر حضور ﷺ کا پہرہ دینے لگا تو وہاں ایک آدمی لوہی آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا۔ حضور ﷺ باہر تشریف لے آئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! یہ (لوہی آواز سے قرآن پڑھنے والا) ریاکار ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا (نہیں) یہ تو عبد اللہ ذوالجنادینؓ ہے۔ پھر ان کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ جب صحابہؓ ان کا جنازہ تیار کر کے انہیں اٹھا کر لے چلے تو حضور ﷺ نے فرمایا ان کے ساتھ نرمی کرو اللہ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کیا کرتے تھے۔ جب حضور ﷺ قبرستان پہنچے تو قبر کھودی جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ان کی قبر خوب کھلی اور کشادہ بناؤ۔ اللہ نے ان کے ساتھ کشادگی کا معاملہ کیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو ان کے مرنے کا براغم ہے! آپ نے فرمایا ہاں۔ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتے تھے۔ ۳

حضرت عبدالرحمن بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت ابن عمرؓ کے پاس تھا ان کا پاؤں سو گیا۔ میں نے کہا اے ابو عبدالرحمن! آپ کے پاؤں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہاں سے اس کا پٹھا اکٹھا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام لے کر پکاریں (انشاء اللہ پاؤں ٹھیک ہو جائے گا) انہوں نے کہا اے محمد ﷺ! اور یہ کہتے ہی ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے اسے پھیلایا۔ ۴

صحابہؓ کرام کے اللہ کے راستہ میں شہید ہونے کے شوق کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت زید بن دثنہؓ کو قتل کرتے وقت ان سے حضرت ابو سفیانؓ (یہ اس وقت تک اسلام

۱ اخروجه الطبرانی ایضا عن طلحة بن مسكين قال الهيمى (ج ۹ ص ۳۶۵) رواه الطبرانی مرسلًا و عبدربه بن صالح لم اعرفه وبقية رجاله وثقوا انتهى و اخروجه ابن السكن نحوه كما في الاصابة (ج ۲ ص ۲۲۷) ۲ اخروجه ابن عساكر كذا في المنتخب (ج ۵ ص ۳۲۳)

۳ اخروجه ابن ماجه و البغوی و ابن منده و ابو نعیم كذا في المنتخب (ج ۵ ص ۲۲۴) وقال في

سندہ موسی بن عبیدہ الربدی ضعیف ۴ اخروجه ابن سعد (ج ۴ ص ۱۵۴)

نہیں لائے تھے) نے کہا اے زید! میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم کو یہ پسند ہے کہ محمد (ﷺ) اس وقت ہمارے پاس ہوں اور ہم تمہاری جگہ ان کی گردن مار دیں اور تم اپنے اہل و عیال میں رہو؟ تو حضرت زید نے جواب میں کہا اللہ کی قسم! مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ محمد (ﷺ) اس وقت جہاں ہیں وہاں ہی ان کو ایک کاٹنا جھبے اور اس تکلیف کے بدلہ میں اپنے اہل و عیال میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد (ﷺ) کے صحابہؓ کو محمد (ﷺ) سے ہے، اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ کافر حضرت خیبرؓ کو سولی پر چڑھا کر بلند آواز سے قسم دے کر پوچھ رہے تھے کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ (حضرت) محمد (ﷺ) تمہاری جگہ ہوں (اور ان کو سولی دے دی جائے؟) حضرت خیبرؓ نے فرمایا نہیں۔ عظیم اللہ کی قسم! مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے بدلہ میں ان کے پاؤں میں ایک کاٹنا بھی چبھے۔

### صحابہؓ کرام کا حضور ﷺ کی محبت کو اپنی محبت پر مقدم رکھنا

حضرت انسؓ حضرت ابو قحافہؓ کے اسلام لانے کے قصہ میں بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت ابو قحافہؓ نے حضور ﷺ سے بیعت ہونے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت ابو بکرؓ رو پڑے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا اگر اس وقت میرے والد کے ہاتھ کی جگہ آپ کے چچا کا ہاتھ (بیعت ہونے کے لئے) ہوتا اور وہ مسلمان ہوتے اور اللہ تعالیٰ ان کے اسلام لانے سے آپ کی آنکھ ٹھنڈی کر دیتے تو یہ میرے لئے میرے والد کے مسلمان ہونے سے زیادہ خوشی کا باعث ہوتا اور مجھے زیادہ پسند ہوتا (کیونکہ آپ کو چچا کے اسلام لانے سے زیادہ خوشی ہوتی)۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضرت ابو بکرؓ اپنے والد حضرت ابو قحافہؓ کو فتح مکہ کے دن ہاتھ سے پکڑ کر حضور ﷺ کی خدمت میں لے کر آئے کیونکہ وہ بوڑھے بھی تھے اور نابینا بھی۔ حضور ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا ارے تم نے ان بڑے میاں کو گھر میں کیوں نہ رہنے دیا ہم ان کے پاس چلے جاتے؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا یا رسول اللہ! میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو (خود چل کر حاضر خدمت ہونے کا) اجر عطا فرمائے۔ مجھے اپنے والد کے اسلام لانے سے جتنی خوشی ہو رہی ہے (آپ کے چچا) ابو طالب کے اسلام لانے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی

کیونکہ اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں اور آپ ﷺ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہی میری زندگی کا مقصود ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو (تمہارے دل میں یہی بات ہے) لہ

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں جنگ بدر کے دن دوسرے قیدیوں کے ساتھ حضرت عباسؓ بھی قید ہوئے تھے۔ انہیں ایک انصاری نے قید کیا تھا۔ انصار نے انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ حضور ﷺ کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا آج رات میں اپنے چچا عباسؓ کی وجہ سے سو نہیں سکا کیونکہ انصار کہہ چکے ہیں کہ وہ عباسؓ کو قتل کر دیں گے حضرت عمرؓ نے کہا کیا میں انصار کے پاس جاؤں؟ (اور ان سے عباسؓ کو لے آؤں) حضور ﷺ نے فرمایا ہاں جاؤ۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے جا کر انصار سے کہا عباسؓ کو چھوڑ دو۔ انصار نے کہا نہیں۔ اللہ کی قسم! ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اگر ان کے چھوڑنے سے اللہ کے رسول ﷺ راضی اور خوش ہوں تو پھر؟ انصار نے کہا اگر ان کے چھوڑنے سے اللہ کے رسول ﷺ راضی اور خوش ہیں تو پھر تم ان کو لے لو۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے انصار سے حضرت عباسؓ کو لے لیا۔ جب وہ حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں آگئے تو حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا اے عباسؓ! مسلمان ہو جاؤ اللہ کی قسم! تمہارا مسلمان ہونا مجھے (اپنے باپ) خطاب کے مسلمان ہونے سے زیادہ محبوب ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور ﷺ کو تمہارا مسلمان ہونا بہت زیادہ پسند ہے۔ لہ

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ سے کہا اسلام لے آؤ تمہارا اسلام لانا مجھے (اپنے باپ) خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور ﷺ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام لانے میں سبقت حاصل ہو جائے۔ لہ

حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عباسؓ نے اپنے کسی کام کو کروانے کے لئے حضرت عمرؓ پر بہت زیادہ تقاضا کیا اور ان سے کہا اے امیر المؤمنین! آپ ذرا یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا مسلمان ہو کر آجاتے تو آپ ان کے ساتھ کیا کرتے؟ حضرت عمرؓ نے کہا اللہ کی قسم! میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا حضرت

۱ عند الطبرانی والبیہقی (ج ۶ ص ۱۷۴) وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف

۲ اخرجه ابن مردويه والحاكم كذا في البداية (ج ۳ ص ۲۹۸)

۳ عند ابن عساکر كذا في كنز العمال (ج ۷ ص ۶۹)

عباسؓ نے کہا میں نبی کریم حضرت محمد ﷺ کا چچا ہوں حضرت عمرؓ نے کہا اے ابو الفضل! (یہ حضرت عباس کی کنیت ہے) آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کی قسم! آپ کے والد مجھے اپنے والد سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عباسؓ نے کہا واقعی اللہ کی قسم! حضرت عمرؓ نے کہا ہاں۔ اللہ کی قسم! کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے والد حضور ﷺ کو میرے والد سے زیادہ محبوب ہیں اور میں حضور ﷺ کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دیتا ہوں۔

حضرت ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عباسؓ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور ان سے کہا نبی کریم ﷺ نے مجھے بحرین کا علاقہ بطور جاگیر کے دیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا اس بات کا اور کس کو علم ہے؟ حضرت عباسؓ نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کو۔ چنانچہ حضرت عباسؓ حضرت مغیرہؓ کو لے آئے۔ اور حضرت مغیرہؓ نے ان کے حق میں گواہی دی لیکن حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ کے حق میں فیصلہ نہ کیا گویا کہ انہوں نے حضرت مغیرہؓ کی گواہی کو قبول نہ کیا اس پر حضرت عباسؓ نے حضرت عمرؓ کو سخت بات کہہ دی۔ حضرت عمرؓ نے (حضرت عباسؓ کے بیٹے حضرت عبداللہ سے) کہا اے عبداللہ! اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لو۔ اللہ کی قسم! اے ابو الفضل! اگر میرے والد خطاب مسلمان ہو جاتے تو ان کے اسلام لانے پر مجھے جتنی خوشی ہوتی مجھے آپ کے اسلام لانے پر اس سے زیادہ خوشی ہوئی تھی کیونکہ آپ کا اسلام حضور ﷺ کی خوشی کا باعث تھا۔

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو شروع میں ہمارا دستور یہ تھا کہ جب ہم میں سے کسی کا انتقال ہونے لگتا ہم لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر کرتے۔ حضور ﷺ اس کے پاس تشریف لے جاتے اور اس کے لئے استغفار فرماتے یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہو جاتا تو حضور ﷺ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس تشریف لے آتے اور کبھی اس کے دفنانے تک وہیں تشریف رکھتے اس طرح آپ کو بعض دفعہ وہاں بڑی دیر لگ جاتی۔ جب ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ اس طرح حضور ﷺ کو بڑی مشقت ہوتی ہے تو ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہم حضور ﷺ کو انتقال ہو جانے کے بعد خبر کیا کریں تو اس سے حضور ﷺ کو زیادہ ٹھہرنے کی مشقت نہ ہوگی چنانچہ پھر ہم لوگ ایسے ہی کرنے لگ گئے اور حضور ﷺ کو ساتھی کے انتقال کے بعد خبر کرتے آپ تشریف لا کر اس کی نماز جنازہ پڑھتے۔ اس کے لئے استغفار کرتے۔ کبھی نماز



جنازہ سے فارغ ہو کر آپ واپس تشریف لے جاتے اور کبھی دفن تک ٹھہرے رہتے ایک عرصہ تک ہمارا یہی دستور رہا پھر ہم نے آپس میں کہا اللہ کی قسم! اگر ہم لوگ حضور ﷺ کو تشریف لانے کی زحمت نہ دیا کریں بلکہ ہم جنازہ کو اٹھا کر حضور ﷺ کے گھر کے پاس لے جایا کریں پھر حضور ﷺ کو خبر کیا کریں اور حضور ﷺ اپنے گھر کے پاس ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیا کریں تو اس میں حضور ﷺ کو زیادہ سہولت ہوگی چنانچہ ہم نے پھر ایسا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت محمد بن عمرؓ کہتے ہیں اس وجہ سے اس جگہ کو جنازہ گاہ کہا جاتا ہے کیونکہ جنازے اٹھا کر وہاں لائے جاتے تھے اور پھر اس کے بعد سے آج تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ اپنے جنازے وہاں لاتے ہیں اور وہاں ان پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ حضور ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اے فاطمہ! اللہ کی قسم! میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا جس سے حضور ﷺ کو آپ سے زیادہ محبت ہو۔ اللہ کی قسم! آپ کے والد کے بعد آپ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے۔<sup>۲</sup>

### حضور ﷺ کی عزت اور تعظیم کرنا

حضرت انسؓ فرماتے ہیں صحابہ کرام و مہاجرین اور انصار بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ بھی ہوتے۔ حضور ﷺ ان کے پاس تشریف لے آتے تو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے علاوہ اور کوئی بھی حضور ﷺ کی طرف (عظمت کی وجہ سے) نگاہ نہ اٹھاتا۔ یہ دونوں حضرات آپ کی طرف دیکھتے اور آپ ان دونوں کی طرف دیکھتے دونوں حضور ﷺ کو دیکھ کر مسکراتے اور حضور ﷺ انہیں دیکھ کر مسکراتے (کیونکہ حضور کو ان دونوں حضرات سے بہت تعلق اور بہت زیادہ مناسبت تھی)۔<sup>۳</sup>

حضرت اسامہ بن شریکؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس ایسے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی بالکل حرکت نہیں کر رہے تھے کیونکہ پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی بات نہیں کر رہا تھا اتنے میں کچھ لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا

۱۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۱ ص ۲۵۷)

۲۔ اخراجہ الحاکم کذا فی کنز العمال (ج ۷ ص ۱۱۱)

۳۔ اخراجہ الترمذی کذا فی الشفاء للقاضی عیاض (ج ۲ ص ۳۳)

اللہ کے بندوں میں سے کون اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا ان میں سے سب سے اچھے اخلاق والا۔<sup>۱</sup>

حضرت اسامہ بن شریکؓ فرماتے ہیں میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے صحابہؓ آپ کے ارد گرد ایسے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔<sup>۲</sup>

حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں میں کسی چیز کے بارے میں حضور ﷺ سے پوچھنے کا ارادہ کرتا لیکن حضور ﷺ کی ہیبت کی وجہ سے دو سال بغیر پوچھے گزار دیتا۔<sup>۳</sup>

حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک قابل اعتماد انصاری نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ جب وضو فرماتے یا کھکارتے تو صحابہؓ جھپٹ کر وضو کاپانی اور کھکارتے لیتے اور اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتے۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صحابہؓ نے عرض کیا ہم اس سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا محبوب بننا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ وہ بات سچی کرے، امانت ادا کرے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔<sup>۴</sup>

امام بخاری نے حضرت مسور بن مخرمہ اور مروانؓ سے صلح حدیبیہ کی جو حدیث بیان کی ہے وہ جلد اول میں صفحہ ۱۶۴ پر گزر چکی ہے کہ پھر حضرت عروہ حضور ﷺ کے صحابہؓ کو بڑے غور سے دیکھنے لگے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم! حضور ﷺ جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے لیتا اور اس کو چہرے اور جسم پر مل لیتا اور حضور ﷺ جب انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو صحابہؓ اسے فوراً کرتے اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لئے صحابہؓ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے اور جب آپ گفتگو فرماتے تو صحابہؓ آپ کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے اور صحابہؓ کے دل میں آپ کی اتنی عظمت تھی کہ وہ آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئے اور ان سے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں۔ قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں اللہ کی قسم! میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں

۱ اخراجه الطبرانی و ابن حبان فی صحیحہ کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۱۸۷) وقال زرواء الطبرانی محتج بهم فی الصحیح ۲ اخراجه الاربعة و صححه الترمذی کذا فی ترجمان السنة (ج ۱ ص ۳۶۷) ۳ اخراجه ابو یعلی و کذا فی ترجمان السنة (ج ۱ ص ۳۷۰)

۴ اخراجه البيهقي كذا في الكنز (ج ۸ ص ۲۲۸)

دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنی کرتے ہوں جتنی محمد ﷺ کے صحابہؓ محمد ﷺ کی کرتے ہیں۔

حضرت ابو قراہ سلمیؓ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے وضو کے لئے پانی منگوایا۔ پھر آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر وضو کرنا شروع کیا ہم حضور ﷺ کے وضو کے پانی کو ہاتھوں میں لے کر پیتے جاتے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کی وجہ سے حضور ﷺ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ بھی تم سے محبت کرنے لگیں تو جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اور رکھنے والا مطالبہ کرے تو تم وہ امانت ادا کرو اور جب تمہاں کرو تو جوچو لو اور جو تمہارا پڑوسی بن جائے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

حضرت عامر بن عبد اللہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں کہ ان کے والد (حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ) نے انہیں یہ قصہ سنایا کہ وہ حضور ﷺ کی خدمت میں گئے حضور ﷺ اس وقت کھینچنے لگوا رہے تھے فارغ ہونے کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا اے عبد اللہ! یہ خون لے جاؤ اور ایسی جگہ ڈال کر آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ حضور ﷺ کے گھر سے باہر آ کر میرے والد نے وہ خون پی لیا۔ جب حضور ﷺ کی خدمت میں واپس پہنچے تو حضور ﷺ نے ان سے پوچھا اے عبد اللہ! تم نے خون کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایسی چھپی ہوئی جگہ میں ڈال کر آیا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ لوگوں میں سے کسی کو پتہ نہ چل سکے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا شاید تم نے اسے پی لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم نے خون کیوں پیا؟ لوگوں کو تم سے ہلاکت ہو اور تمہیں لوگوں سے (مروان اور عبد الملک کی طرف سے جو فتنہ پیش آیا اس کی طرف اشارہ ہے) حضرت موسیٰ کہتے ہیں حضرت ابو عاصم نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ میں جو اتنی زیادہ طاقت تھی وہ اس خون کی برکت سے تھی۔ یہ ایک روایت میں یہ ہے لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ میں جو بہت زیادہ طاقت تھی وہ حضور ﷺ کے خون کی قوت کی وجہ سے تھی (حضور ﷺ کے فضلات اور خون سب پاک تھے)

حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ کے غلام حضرت کیران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سلمانؓ

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۷۱) وفيہ عیید بن واقد القیسی وهو ضعیف۔  
 ۲۔ اخرجہ ابو یعلیٰ والبیہقی فی الدلائل کذا فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۳۱۰) و اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۵۵۴) والطبرانی نحوه قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۷۰) رواہ الطبرانی و البزار باختصار و رجال البزار رجال الصحیح غیر ہنید بن القاسم وهو ثقة انتهى و اخرجہ ایضا ابن عساکر نحوه کما فی الكنز (ج ۷ ص ۵۷) مع ذکر قول ابی عاصم

حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے پاس ایک تسلا ہے جس میں سے کچھ پی رہے ہیں اسے پی کر حضرت عبداللہ حضور ﷺ کی خدمت میں آئے حضور ﷺ نے فرمایا کام سے فارغ ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت سلمانؓ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! کیا کام تھا؟ حضور ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے بچپن کا دھون اسے گرانے کیلئے دیا تھا۔ حضرت سلمانؓ نے کہا اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! انہوں نے تو اسے پی لیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم نے اسے پی لیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا جی ہاں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیوں؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں نے چاہا کہ حضور ﷺ کا خون مبارک میرے پیٹ میں چلا جائے۔ حضور ﷺ نے حضرت (عبداللہ) بن زبیرؓ کے سر پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا تمہیں لوگوں سے ہلاکت ہو اور لوگوں کو تم سے۔ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی صرف اللہ تعالیٰ کی قسم پوری کرنے کے لئے بل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔

حضرت سفینہؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے چھپنے لگوائے اور فرمایا یہ خون جاؤ اور اسے ایسی جگہ دفن کر دو جہاں جانوروں، پرندوں اور انسانوں سے محفوظ رہے میں خون لے گیا اور چھپ کر اسے پی لیا پھر آکر میں نے حضور ﷺ کو بتایا تو آپ ہنس پڑے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں جب جنگ احد کے دن حضور ﷺ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو میرے والد حضرت مالک بن سنانؓ نے حضور ﷺ کے خون کو چوس کر نگل لیا۔ لوگوں نے ان سے کہا ارے میاں! کیا تم خون پی رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں حضور ﷺ کا خون مبارک پی رہا ہوں۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا ان کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا ہے لہذا انہیں جنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔

حضرت حکیمہ بنت امیہؓ اپنی والدہ سے نقل کرتی ہیں کہ حضور ﷺ کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جسے آپ اپنے تخت کے نیچے رکھتے تھے اور کبھی (رات کو) اس میں پیشاب کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے کھڑے ہو کر اسے تلاش کیا وہ پیالہ نہ ملا آپ نے پوچھا کہ پیالہ کہاں ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ حضرت ام سلمہؓ کی خادمہ حضرت سرہ جو ان کے ساتھ حبشہ سے آئی ہے اس نے (اس پیالہ کا پیشاب) پی لیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس نے جنم کی آگ

۱۔ عند ابی نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۳۰) واخرجه ابن عساکر عن سلمان نحوه مختصراً اور جالہ ثقات کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۵۶) ۲۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۷۰) رجال الطبرانی ثقات ۳۔ اخرجه الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۷۰) لم ارفی اسنادہ من اجمع علی ضعفہ انتھی

سے بیوی مضبوط آڑ بنائی ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت ابو ایوبؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور ﷺ نے میرے ہاں قیام فرمایا۔ حضور ﷺ نیچے ٹھہرے تھے اور میں (مع اہل و عیال) اوپر کی منزل میں۔ جب رات ہو گئی تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کمرے کی چھت پر ہوں جس میں نیچے حضور ﷺ ہیں اور میں حضور ﷺ کے اور وحی کے درمیان حائل ہو رہا ہوں۔ اس لئے ساری رات مجھے نیند نہ آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سونے کی حالت میں اوپر ہم کچھ بلیں جلیں اور اس سے غبار حضور ﷺ پر گرے جس سے حضور ﷺ کو تکلیف ہو۔ صبح کو میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! آج ساری رات نہ مجھے نیند آئی اور نہ میری بیوی ام ایوب کو۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے ابو ایوب! کیوں؟ میں نے عرض کیا مجھے یہ خیال آ گیا کہ میں اس کمرے کی چھت پر ہوں جس میں آپ مجھ سے نیچے ہیں۔ میں کچھ بلوں گا تو اس سے غبار آپ پر گرے گا جس سے آپ کو تکلیف ہوگی اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کے اور وحی کے درمیان حائل ہو رہا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے ابو ایوب! ایسا نہ کرو کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم انہیں صبح اور شام دس دس مرتبہ کہو گے تو تمہیں دس نیکیاں ملیں گی اور تمہارے دس گناہ مٹا دیئے جائیں گے اور ان کی وجہ سے تمہارے دس درجے بلند کر دیئے جائیں گے اور قیامت کے دن تمہیں دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ له الملك وله الحمد لا شریک له<sup>۲</sup>

حضرت ابو ایوبؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ میرے مہمان بنے تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں اوپر ہوں اور آپ نیچے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہمیں سہولت اسی میں ہے کہ ہم نیچے رہیں کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک رات دیکھا کہ ہمارا گھڑا ٹوٹ گیا اور اس کا پانی فرش پر پھیل گیا۔ میں اور ام ایوب دونوں اپنا کمبل لے کر کھڑے ہو گئے اور اس کمبل سے وہ پانی خشک کرنے لگے ہمیں یہ ڈر تھا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے حضور ﷺ کو تکلیف ہو یعنی چھت سے پانی کہیں حضور ﷺ پر ٹپکنے لگ جائے۔ اس کمبل کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور لحاف بھی نہیں تھا (وہ کمبل گیلا ہو گیا اور ہم نے ساری رات جاگ کر گزارا) ہم کھانا تیار کر کے حضور ﷺ کی خدمت میں پیش دیا کرتے جب آپ چچا ہوا کھانا

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۸ ص ۲۷۱) رجاله رجال الصحیح غیر عبد اللہ بن احمد

بن حنبل وحکیمہ وکلاهما ثقة۔ ۲۔ اخرجه الطبرانی کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۹۴)

واپس کرتے تو ہم اس جگہ سے خاص طور سے کھانا کھاتے جہاں آپ کی مبارک انگلیاں لگی ہو تھیں یوں ہم حضور ﷺ کی برکت حاصل کرنا چاہتے ایک رات آپ نے کھانا واپس کیا ہم نے اس میں لسن یا پیاز ڈالا تھا ہمیں اس میں حضور ﷺ کی انگلیوں کا کوئی نشان نظر نہ آیا میں نے جا کر حضور ﷺ سے عرض کیا کہ ہم آپ کی انگلیوں والی جگہ سے برکت کے لئے کھانا کھایا کرتے تھے لیکن آج آپ نے کھانا ویسے ہی واپس کر دیا ہے اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے اس کھانے سے لسن یا پیاز کی بو محسوس ہوئی اور میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہوں اور فرشتوں سے بھی بات کرتا ہوں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے کسی طرح کی بو آئے لیکن آپ لوگ یہ کھانا کھا لو، ابو نعیم اور ابن عساکر کی روایت میں یہ مضمون یوں ہے :-

”میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر رہوں، آپ بالا خانہ میں تشریف لے چلیں۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ میرا سامان منتقل کر دو۔ چنانچہ آپ کا سامان اوپر منتقل کر دیا گیا اور آپ کا سامان بہت تھوڑا سا تھا۔“<sup>۱</sup>

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں حضرت عباسؓ کے گھر کا پرنا لہ حضرت عمرؓ کے راستہ پر گرتا تھا۔ ایک دفعہ جمعہ کے دن حضرت عمرؓ نے نئے کپڑے پہنے۔ اس دن حضرت عباسؓ کے لئے دو چوزے ذبح کئے گئے تھے جب حضرت عمرؓ پر نالے کے پاس پہنچے تو ان چوزوں کا خون اس پر نالے سے پھینکا گیا جو حضرت عمرؓ پر گرا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس پر نالے کو اکھیڑ دیا جائے اور گھر واپس جا کر وہ کپڑے اتار دیئے اور دوسرے پہنے پھر مسجد میں آکر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت عباسؓ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم! یہی وہ جگہ ہے جہاں حضور ﷺ نے یہ پر نالہ لگایا تھا حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ سے کہا میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ میری کمر پر چڑھ کر یہ پر نالہ وہاں ہی لگائیں جہاں حضور ﷺ نے لگایا تھا چنانچہ حضرت عباسؓ نے ایسا ہی کیا ابن سعدؓ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ کو اپنی گردن پر اٹھایا اور حضرت عباسؓ نے حضرت عمرؓ کے کندھوں پر اپنے پاؤں رکھ کر پر نالہ جہاں تھا

۱ عند الطبرانی ایضاً کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۵۰) وھکذا اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۴۶۱) الا انہ لم یذکر فکننا نضع طعما ما الی آخرہ وقال وھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخر جاہ و وافقہ الذھبی

۲ کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۵۰) وھکذا اخرجہ ابن ابی شیبہ و ابن ابی عاصم عن ابی ایوب کما فی الاصابہ (ج ۱ ص ۴۰۵) اخرجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۲) و احمد و ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۶۶)

وہاں دوبارہ لگا دیا۔<sup>۱</sup>

حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عبد القادری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمرؓ نے اپنا ہاتھ منبر پر اس جگہ رکھا جہاں حضور ﷺ بیٹھا کرتے تھے پھر اسے اپنے چہرے پر رکھ لیا۔<sup>۲</sup> حضرت یزید بن عبد اللہ بن قسیط رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضور ﷺ کے بہت سے صحابہؓ کو دیکھا کہ جب مسجد خالی ہو جاتی تو حضور ﷺ کی قبر اطہر کی جانب منبر کی جو چمکدار اور چکنی مٹی ہے اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے۔<sup>۳</sup>

### حضور ﷺ کے جسم مبارک کا بوسہ لینا

حضرت ابو لیلیٰ کہتے ہیں حضرت اسید بن حفیرؓ بڑے نیک، ہنس مکھ اور خوبصورت آدمی تھے ایک مرتبہ وہ حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر کے لوگوں کو ہنسا رہے تھے کہ اتنے میں حضور ﷺ نے ان کے پہلو میں انگلی ماری۔ انہوں نے کہا آپ کے مارنے سے مجھے درد ہو گیا ہے حضور ﷺ نے فرمایا بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ نے تو شہمض پسنی ہوئی ہے اور میرے جسم پر کوئی قمیض نہیں تھی۔ حضور ﷺ نے اپنی قمیض اوپر اٹھالی۔ یہ (بدلہ لینے کے بجائے) حضور ﷺ کے سینے سے چٹ گئے اور حضور ﷺ کے پہلو کے بوسے لینے شروع کر دیے اور پھر یوں کہا یا رسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ میرا مقصد تو یہ تھا (بدلہ لینے کا تذکرہ تو میں نے ویسے ہی کیا تھا مقصد آپ کا بوسہ لینا تھا)۔<sup>۴</sup>

حضرت حبان بن واسع رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم کے چند عمر رسیدہ لوگوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جنگ بدر کے دن اپنے صحابہؓ کی صفوں کو سیدھا کیا۔ آپ کے ہاتھ میں نوک اور پر کے بغیر کا ایک تیر تھا جس سے آپ لوگوں کو برسر کر رہے تھے۔ آپ حضرت سواد بن غزیہؓ کے پاس سے گزرے۔ یہ بنو عدی بن نجار قبیلہ کے حلیف تھے اور صف سے باہر

۱ أخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۱۳) أيضا عن يعقوب بن زيد بنحوه وقد ذكره الهيثمي في المجمع (ج ۴ ص ۲۰۶) عن عبيد الله بن عباس ووقع في نقله ميراث بدل الميزاب ولعله تصحيف قال رواه احمد ورجاله ثقات الا ان هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله اه.

۲ أخرجه ابن سعد (ج ۱ ص ۲۵۴) عند ابن سعد ايضا.

۳ أخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۲۸۸) قال الحاكم هذا حديث صحيح الا سناد ولم يخبرنا بوافقه الذهبي فقال صحيح و أخرجه ابن عساكر عن ابي ليلي مثله كما في الكنز (ج ۷ ص ۱۳۰) الطبراني عن اسيد بن حضير نحوه كما في الكنز (ج ۴ ص ۴۳)

نکلے ہوئے تھے۔ حضور ﷺ نے ان کے پیٹ میں وہ تیر چھبو کر فرمایا اے سواد! سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے تیر چھبوں سے مجھے درد ہو گیا اور اللہ نے آپ کو حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے لہذا آپ مجھے بدلہ دیں۔ اس پر آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر فرمایا لو بدلہ لے لو۔ وہ حضور ﷺ سے چٹ گئے اور حضور ﷺ کے پیٹ کے پو سے لینے لگے حضور ﷺ نے فرمایا اے سواد! تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ لڑائی کا موقع آگیا ہے (شاید میں اس میں شہید ہو جاؤں) تو میں نے چاہا کہ میری آپ سے آخری ملاقات اس طرح ہو کہ میری کھال آپ کی کھال سے مل جائے۔ اس پر آپ نے ان کے لئے دعائے خیر فرمائی کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس نے (کپڑوں پر) زرد رنگ لگا رکھا تھا۔ حضور ﷺ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی۔ حضور ﷺ نے اس سے فرمایا یہ ورس رنگ اتار دو (ورس یمن کی زرد رنگ کی ایک بوٹی کا نام ہے) پھر آپ نے وہ ٹہنی اس آدمی کے پیٹ میں چھبو کر فرمایا کیا میں نے تم کو اس سے روکا نہیں تھا؟ ٹہنی چھبوں سے اس کے پیٹ پر نشان پڑ گیا لیکن خون نہیں نکلا۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ! بدلہ دینا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کیا تم اللہ کے رسول ﷺ سے بدلہ لو گے؟ اس نے کہا کسی کی کھال میری کھال سے بڑھیا نہیں ہے حضور ﷺ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر فرمایا لو بدلہ لے لو۔ اس آدمی نے حضور ﷺ کے پیٹ کا پوسہ لیا اور کہا میں اپنا بدلہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں۔ ۱

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت سواد بن عمروؓ کو دیکھا کہ انہوں نے خلوق خوشبو لگا رکھی ہے (خلوق ایک قسم کی خوشبو ہے جس کا جزو اعظم زعفران ہوتا ہے) تو حضور ﷺ نے فرمایا اس ورس کو اتار دو۔ پھر آپ نے اس کے پیٹ میں لکڑی یا مسواک چھوئی اور اسے پیٹ پر ڈرا ہلایا جس سے ان کے پیٹ پر نشان پڑ گیا اور آگے چھپلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ ۳

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک انصاری آدمی اتنی زیادہ خلوق خوشبو لگایا کرتے تھے کہ وہ کھجور کے خوشے کی ٹہنی کی طرح زرد نظر آتے تھے انہیں سواد بن عمروؓ کہا جاتا تھا جب حضور ﷺ انہیں دیکھتے تو خوشبو ان کے کپڑوں سے جھاڑتے چنانچہ ایک دن وہ خلوق

۱۔ اخرجہ ابن اسحاق کذا فی البدایہ (ج ۳ ص ۲۷۱) ۲۔ اخرجہ عبدالرزاق کذا فی الكنز

(ج ۷ ص ۳۰۲) ۳۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۷۲)



خوشبو لگائے ہوئے آئے۔ حضور ﷺ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ نے وہ چھڑی ہلکی سی ماری جس سے کچھ زخم ہو گیا تو انہوں نے حضور ﷺ سے کہا یا رسول اللہ! بدلہ دینا ہو گا حضور ﷺ نے وہ چھڑی ان کو دی اور خود حضور ﷺ پر دو کرتے تھے حضور ﷺ انہیں اوپر اٹھانے لگے۔ اس پر لوگوں نے انہیں ڈانٹا اور بدلہ لینے سے روکا۔ لیکن جب حضور ﷺ کے جسم مبارک کا وہ حصہ نظر آیا جہاں خود ان کو زخم لگا تھا تو چھڑی پھینک کر حضور ﷺ کو چمٹ گئے۔ اور حضور ﷺ کو چومنے لگ گئے اور عرض کیا یا نبی اللہ! میں اپنا بدلہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ میری قیامت کے دن سفارش فرمائیں۔<sup>۱</sup>

حضور ﷺ سے صحابہ کرام کی محبت کے عنوان کے ذیل میں حضرت حصین بن وحوح کی روایت گزر چکی ہے کہ حضرت طلحہ بن براہہ جب حضور ﷺ سے ملتے تو آپ سے چمٹ جاتے اور آپ کے دونوں قدموں کے بوسے لینے شروع کر دیتے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضور ﷺ کی وفات کے بعد آپ کی پیشانی کا بوسہ لینے کا تذکرہ غنقریب آئے گا۔

حضور ﷺ کے شہید ہو جانے کی خبر کے مشہور ہونے پر صحابہ کرام کا رونا اور آپ کو بچانے کیلئے ان سے جو کارنامے ظاہر ہوئے ان کا بیان حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جنگ احد کے دن اہل مدینہ کو شکست ہو گئی تو لوگوں نے کہا حضرت محمد ﷺ قتل ہو گئے ہیں (یہ خبر سن کر سب مردوں، عورتوں نے رونا شروع کر دیا) اور مدینہ کے کونے کونے سے رونے والی عورتوں کی آوازیں بہت آنے لگیں چنانچہ ایک انصاری عورت پردے میں مدینہ سے نکلی (اور میدان جنگ کی طرف چل پڑی) ان کے والد، بیٹے، خاوند اور بھائی چاروں اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے یہ ان کے پاس سے گزریں۔ راوی کہتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے پہلے کس کے پاس سے گزریں۔ جب بھی ان میں سے کسی ایک کے پاس سے گزرتیں تو پوچھتیں یہ کون ہے؟ لوگ بتاتے کہ یہ تمہارے والد ہیں بھائی ہیں خاوند ہیں بیٹے ہیں وہ جواب میں یہی کہتیں کہ اللہ کے رسول ﷺ کا کیا ہوا؟ لوگ کہتے حضور ﷺ آگے ہیں یہاں تک کہ وہ حضور ﷺ تک پہنچ گئیں اور حضور ﷺ کے کپڑے کے ایک کونے کو پکڑ کر کہا یا رسول اللہ (ﷺ)! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں! جب آپ صحیح سالم ہیں تو مجھے اپنے مر جانے والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔<sup>۲</sup>

۱۔ اخرجه عبدالرزاق ايضا كما في الكنز (ج ۷ ص ۳۰۲) واخرجه البيهقي كما في الاصابة

(ص ۹۶)

۲۔ اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ۶ ص ۱۱۵) ورواه الطبراني في الاوسط عن شيخه

محمد بن شعيب ولم اعرفه وبقية رجاله ثقات انتهى

حضرت زبیرؓ فرماتے ہیں جنگ احد کے دن میں حضور ﷺ کے ساتھ مدینہ میں رہا اس دن حضور ﷺ کے صحابہؓ میں سے کوئی بھی مدینہ منورہ میں نہیں رہا تھا (سارے ہی جنگ میں شریک تھے جنگ بہت سخت تھی) اور شہداء کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی نے چیخ کر کہا محمد ﷺ شہید ہو گئے ہیں (یہ سن کر) عورتیں رونے لگ گئیں۔ ایک عورت نے کہا رونے میں جلدی نہ کرو میں دیکھ کر آتی ہوں۔ چنانچہ وہ عورت پیدل چل پڑی اور اس کو صرف حضور ﷺ ہی کا غم تھا اور وہ صرف حضور ﷺ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ لہٰذا حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ قبیلہ ہمدان کی ایک عورت کے پاس سے گزرے اس کا خاوند، بھائی اور باپ حضور ﷺ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے جب لوگوں نے اسے ان تینوں کی شہادت کی خبر دی تو (اسے حضور ﷺ کی خیریت معلوم کرنے کی فکر اتنی زیادہ تھی کہ اس خبر کا اس پر کوئی اثر نہ ہو بلکہ) اس نے کہا حضور ﷺ کا کیا ہوا؟ (حضور ﷺ مجھے نظر نہیں آرہے ہیں) لوگوں نے کہا اے ام فلاں! حضور ﷺ خیریت سے ہیں اور الحمد للہ! حضور ﷺ ویسے ہی ہیں جیسا تم چاہتی ہو۔ اس عورت نے کہا حضور ﷺ مجھے دکھاؤ تاکہ میں انہیں (اپنی آنکھوں سے) دیکھ لوں۔ لوگوں نے اس عورت کو حضور ﷺ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہیں۔ جب اس نے حضور ﷺ کو دیکھ لیا تو اس نے کہا آپ (کو صحیح سالم دیکھ لینے) کے بعد اب ہر مصیبت ہلکی اور آسان ہے۔ ۱

حضرت انسؓ فرماتے ہیں جنگ احد کے دن حضرت ابو طلحہؓ حضور ﷺ کے سامنے کھڑے ہو کر (دشمن پر) تیر چلا رہے تھے اور حضور ﷺ ان کے پیچھے تھے اور وہ حضور ﷺ کے لئے ڈھال بنے ہوئے تھے اور وہ بڑے ماہر تیر انداز تھے جب بھی وہ تیر چلاتے حضور ﷺ اوپر ہو کر دیکھتے کہ تیر کہاں گر رہا ہے اور حضرت ابو طلحہؓ اپنا سینہ اوپر کر کے کہتے یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! آپ ایسے ہی نیچے رہیں کہیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے۔ میرا سینہ آپ کے سینے کی حفاظت کے لئے حاضر ہے حضرت ابو طلحہؓ حضور ﷺ کے سامنے خود کو ڈھال بنائے ہوئے تھے اور آپ کی حفاظت کی خاطر خود کو شہید ہونے کے لئے پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ! میں بہت مضبوط اور طاقتور ہوں آپ مجھے اپنی تمام

۱ عند البزار قال الہیثی (ج ۶ ص ۱۱۵) وفيہ عمر بن صفوان وهو معجہول انتہی

۲ عند ابن اسحاق کذا فی البدایة (ج ۴ ص ۴۷)

ضرورتوں میں استعمال فرمائیں اور جو چاہیں مجھے حکم دیں۔<sup>۱</sup>  
 جلد اول میں حضرت قتادہؓ کی بہادری کے باب میں طبرانی کی روایت سے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمانؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو ہدیہ میں ایک کمان ملی آپ نے وہ کمان احد کے دن مجھے دے دی۔ میں اس کمان کو لے کر حضور ﷺ کے سامنے کھڑے ہو کر خوب تیر چلاتا رہا یہاں تک کہ اس کا سر اٹوٹ گیا۔ میں برابر حضور ﷺ کے چہرے کے سامنے کھڑا رہا اور میں اپنے چہرے پر تیروں کو لیتا رہا۔ جب بھی کوئی تیر آپ کے چہرے کی طرف مڑ جاتا تو میں اپنے سر کو گھما کر تیر کے سامنے لے آتا اور حضور ﷺ کے چہرے کو چھایا (چونکہ میری کمان ٹوٹ چکی تھی اس لئے) میں تیر تو چلانے سے باز رہا۔

### حضور ﷺ کی جدائی کے یاد آجانے پر صحابہ کرام کا رونا

حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ مرض الوفا میں ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے، ہم لوگ مسجد میں تھے۔ آپ نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی آپ سیدھے منبر کی طرف تشریف لے گئے اور منبر پر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل کر آپ کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں اس وقت حوض (کوثر) پر کھڑا ہوا ہوں اور یہ بھی فرمایا کہ ایک بندے پر دنیا اور اس کی زینت پیش کی گئی لیکن اس نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے اور تو کوئی نہ سمجھ سکا (کہ اس بندے سے کون مراد ہے؟) البتہ حضرت ابو بکرؓ سمجھ گئے (کہ اس سے مراد خود حضور ﷺ ہیں) اور ان کی دونوں آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ رو پڑے اور یوں کہا میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں! ہم اپنے مال باپ اور اپنا مال اور جان سب آپ پر قربان کرتے ہیں اس کے بعد حضور ﷺ (منبر سے) نیچے تشریف لے آئے اور پھر انتقال تک منبر پر تشریف فرمانہ ہوئے۔<sup>۲</sup>

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب اذاجاء نصر اللہ والفتح سورت نازل ہوئی (اور اس میں بتا دیا گیا کہ آپ جس کام کے لئے آئے تھے وہ پورا ہو گیا ہے) تو حضور ﷺ نے حضرت فاطمہؓ کو بلا کر فرمایا مجھے (اس سورت میں) اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے یہ سن کر وہ رو پڑیں حضور ﷺ نے ان سے فرمایا مت رو کیونکہ میرے خاندان میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے

۱۔ اخرجہ احمد کذا فی البدایة (ج ۴ ص ۲۷) واخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۶۵) عن انس نحوہ.

۲۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ کذا فی کنز العمال (ج ۴ ص ۵۸) واخرجہ ابن سعد (ج ۲ ص ۴۶)

ملوگی۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگیں۔ حضور ﷺ کی ایک زوجہ محترمہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں انہوں نے (بعد میں) حضرت فاطمہؓ سے پوچھا۔ میں نے تمہیں پہلے روتے ہوئے دیکھا پھر ہنسنے ہوئے (اس کی کیا وجہ ہے؟) حضرت فاطمہؓ نے بتایا پہلے حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا مجھے اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے یہ سن کر میں رو پڑی تھی۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا مت رو کیونکہ میرے خاندان میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملوگی تو میں ہنس پڑی تھی۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ کو اپنے مرض الوفات میں بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی جس پر وہ ہنس پڑیں۔ حضور ﷺ نے پھر انہیں بلا کر ان کے کان میں کوئی بات کہی جس پر وہ ہنس پڑیں۔ میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا حضور ﷺ نے پہلے مجھے بتایا کہ اس بیماری میں ان کا انتقال ہو جائے گا تو میں رو پڑی پھر حضور ﷺ نے بتایا کہ میں ان کے خاندان میں سے سب سے پہلے ان سے جا کر ملوں گی تو میں ہنس پڑی۔ لیکن سعد نے اسی جیسی حدیث حضرت ام سلمہؓ سے بھی نقل کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہؓ سے ان کے پہلے رونے اور پھر ہنسنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا حضور ﷺ نے پہلے مجھے بتایا کہ عنقریب ان کا انتقال ہونے والا ہے پھر یہ بتایا کہ میں حضرت مریم بنت عمران علیہا السلام کے بعد جنت کی عورتوں کی سردار ہوں اس پر میں ہنسی تھی۔

حضرت علاءؓ فرماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہؓ رونے لگیں۔ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا اے میری بیٹیا! مت رو۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھنا کیونکہ اناللہ پڑھ لینے سے انسان کو ہر مصیبت کا بدلہ مل جاتا ہے۔ حضرت فاطمہؓ نے کہا یا رسول اللہ! آپ کا بدل بھی مل جائے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا میرا بدل بھی مل جائے گا۔

حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ نے انہیں یمن بھیجا تو حضور ﷺ ان کو ہدایت دینے کے لئے ان کے ساتھ خود بھی (شہر سے) باہر نکلے۔ حضرت معاذؓ سواری پر تھے اور حضور ﷺ ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب حضور ﷺ ہدایات سے فارغ ہو گئے تو فرمایا اے معاذؓ! شاید اس سال کے بعد آئندہ تم مجھ سے نہ مل سکو اور شاید

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۹ ص ۲۳) رجالہ رجال الصحیح غیر حلال بن خیاب وهو ثقة وفيه ضعف انتهى ۲۔ اخرجه ابن سعد (ج ۲ ص ۲۹) واخرجه باسناد آخر عنها باطول منه ۳۔ اخرجه ابن سعد (ج ۲ ص ۳۱۲)

تم میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ یہ سن کر حضرت معاذؓ حضور ﷺ کی جدائی کے غم میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے پھر حضور ﷺ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا (قیامت کے دن) لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہوں گے جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں (اس کے لئے کسی خاص قوم میں سے ہونا میرے شہر میں رہنا ضروری نہیں) لہذا امام احمد نے اسی حدیث کو عاصم بن حمید راوی سے نقل کیا ہے اس میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا اے معاذ! مت رو کیونکہ (پھوٹ پھوٹ کر) دونا شیطان کی طرف سے ہے۔ (اصل رضاہ قضاہے)

### حضور ﷺ کی وفات کے خوف سے صحابہ کرامؓ کا رونا

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ انصار کے مرد اور عورتیں مسجد میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں حضور ﷺ نے پوچھا وہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس ڈر سے رو رہے ہیں کہ کہیں آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس پر حضور ﷺ حجرہ سے باہر تشریف لائے اور اپنے منبر پر بیٹھ گئے۔ آپ ایک کپڑا کوڑھے ہوئے تھے جس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر ڈال رکھے تھے اور آپ سر پر ایک میلی پٹی باندھے ہوئے تھے۔ حمد و ثناء کے بعد آپ نے فرمایا۔

”لما بعد! اے لوگو! آئندہ لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ انصار لوگوں میں ایسے ہو جائیں گے جیسے کھانے میں نمک۔ لہذا جو بھی انصار کے کسی کام کا ذمہ دار بنے اسے چاہئے کہ ان کے بھلا کرنے والے کی بھلائی کو قبول کرے اور ان کے برے سے درگزر کرے“ ۱

حضرت ام فضل بنت حارثؓ فرماتی ہیں میں حضور ﷺ کے مرض الوفا میں حضور ﷺ کی خدمت میں آئی اور میں رونے لگی۔ حضور ﷺ نے سر اٹھا کر فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ کے انتقال کے خوف سے اور اس وجہ سے کہ پتہ نہیں آپ کے

۱۔ أخرجه احمد قال الهيثمي (ج ۹ ص ۲۲) رواه احمد باسنادين ورجال الا سنادين رجال

الصحيح غير راشرين بن سعد و عاصم بن حميد وهما ثقتان انتهى .

۲۔ أخرجه البزار قال الهيثمي في المجمع (ج ۱۰ ص ۳۷) رواه البزار عن ابن كرامة عن ابن موسى

ولم اعرف الآن اسماء هما وبقية رجاله رجال الصحيح وهو في الصحيح خلا اوله الي قوله فخرج

فجلس انتهى وقال في هامشه عن ابن حجر ابن كرامة هو محمد بن عثمان بن كرامة وا بن موسى هو

عبدالله وهما من رجال الصحيح انتهى واخرجه ابن سعد (ج ۲ ص ۲۵۲) عن ابن عباس نحوه

بعد ہمیں لوگوں کی طرف سے کیسا رویہ برداشت کرنا پڑے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تمہیں میرے بعد کمزور سمجھا جائے گا۔

## حضور ﷺ کا (صحابہ کرام اور امت کو) الوداع کہنا

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں ہمارے محبوب نبی کریم ﷺ (میرے والد اور میری جان ان پر قربان ہو) کے انتقال سے چھ دن پہلے ہمیں ان کے انتقال کی خبر ہو گئی تھی۔ جب جدائی کا وقت قریب آیا تو حضور ﷺ نے ہمیں اماں جان حضرت عائشہؓ کے گھر میں جمع فرمایا۔ ہمارے اوپر آپ کی نظر پڑی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور فرمایا مر جا! تمہیں خوش آمدید ہو! اللہ تمہاری عمر دراز کرے! اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اللہ تمہیں ٹھکانہ دے۔ اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ اللہ تمہیں بلند فرمائے! اللہ تمہیں ہدایت دے! اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے! اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے! اللہ تمہیں سلامت رکھے! اللہ تمہیں قبول فرمائے! میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہارا خیال رکھے اور تمہارے کام اسی کے سپرد کرتا ہوں۔ میں تمہیں اس بات سے واضح طور پر ڈراتا ہوں کہ اللہ کے مقابلہ میں اس کے بندوں کے متعلق اس کی زمین پر تکبر نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور تم سے فرمایا ہے:

بَلِّغْ النَّارِ الْآخِرَةَ نَجِّعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُؤَدُّونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

(سورت قصص آیت ۸۳)

ترجمہ: ”یہ عالم آخرت ہم ان ہی لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ برباد بنا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا۔ اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے۔“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الْيَسَّ فِي جَهَنَّمَ مَشْوَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (سورت زمر آیت ۶۰)

ترجمہ: ”کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟“ پھر آپ نے فرمایا اللہ کا مقرر کردہ وقت اور اللہ تعالیٰ، سدرۃ المنتہی (ساتویں آسمان پر بیری کا ایک درخت ہے فرشتوں کے پہنچنے کی حد) ہیں تک ہے اور یہ ایک مرکزی مقام ہے۔ عرش الہی سے احکام ہمیں پہنچتے ہیں (جنت المادوی (متقیوں کی آرام گاہ والی جنت) لبریز پیالے اور سب سے بلند رفیق (یعنی اللہ تعالیٰ) کی طرف واپس جانے کا وقت بالکل قریب آگیا ہے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ! اس وقت آپ کو غسل کون دے؟ آپ نے فرمایا میرے خاندان کے مرد سب سے زیادہ قریب

کے رشتہ والا پھر اس کے بعد والادرجہ بدرجہ۔ پھر ہم نے پوچھا ہم آپ کو کس میں کفن دیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میرے ان ہی کپڑوں میں کفن دے دینا یا مینا جوڑے میں یا مصری کپڑوں میں کفن دے دینا۔ پھر ہم نے کہا ہم میں سے کون آپ کی نماز جنازہ پڑھائے؟ یہ کہہ کر ہم بھی رو پڑے اور حضور ﷺ بھی۔ آپ نے فرمایا ذرا ٹھہرو اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہیں تمہارے نبی ﷺ کی طرف سے بہترین جزاء عطا فرمائے جب تم مجھے غسل دے چکو اور میرے جنازہ کو میرے اس کمرے میں قبر کے کنارے پر رکھ دو تو پھر تم سب تھوڑی دیر باہر چلے جانا کیونکہ سب سے پہلے میرے خلیل اور ہم نشین حضرت جبرائیل علیہ السلام میری نماز جنازہ پڑھیں گے پھر حضرت میکائیل پھر حضرت اسرافیل پھر ملک الموت علیہم السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ پھر سارے فرشتے نماز جنازہ پڑھیں گے پھر تم ایک ایک جماعت بن کر اندر آجانا اور مجھ پر صلوٰۃ و سلام پڑھنا اور کسی عورت کو نوحہ کر کے نہ رونے دینا ورنہ مجھے تکلیف ہوگی پہلے میرے خاندان کے مرد اندر آکر صلوٰۃ و سلام پڑھیں پھر تم لوگ۔ تم میری طرف سے اپنے لئے سلام قبول کر لو اور جتنے میرے بھائی اس وقت غائب ہیں انہیں میرا سلام کہہ دینا اور میں تمہیں اس بات پر گواہ بنا تا ہوں کہ میرے بعد جو بھی تمہارے دین میں داخل ہو میں اسے بھی سلام کہہ رہا ہوں اور آج سے لے کر قیامت تک جو بھی میرے دین کا اتباع کرے گا میں اسے بھی سلام کہہ رہا ہوں پھر ہم نے کہا یا رسول اللہ! ہم میں سے کون آپ کو قبر میں اتارے؟ آپ نے فرمایا میرے خاندان کے مرد اور ان کے ساتھ بہت سے فرشتے ہوں گے وہ فرشتے تو تمہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن تم انہیں نہ دیکھ سکو گے۔

## حضور ﷺ کا وصال مبارک

حضرت یزید بن بلعوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ

۱۔ اخرجه البزار قال الهیثمی (ج ۹ ص ۲۵) رجالہ رجال الصحیح غیر محمد بن اسماعیل بن سمرۃ الاحمسی وهو ثقة ورواه الطبرانی فی الاوسط بنحوہ الا انه قال قبل موته بشہر و ذکر فی اسنادہ ضعفاء منهم اشعث بن طابق قال الازدی لا یصح حدیثہ انتہی و اخرجه ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۴ ص ۱۶۸) عن ابن مسعود بنحوہ مطولا بفرق یسرثم قال هذا حدیث غریب من حدیث مرۃ عن عبد اللہ لم یروہ متصل الا اسناد الا عبد الملک بن عبد الرحمن و هو ابن الاصبہانی و اخرجه ابن سعد (ج ۲ ص ۲۵۶) عن ابن مسعود بنحوہ مطولا و فی اسنادہ الواقدی بمعناہ

حضرت عائشہؓ کی خدمت میں گیا۔ ہم نے ان کی خدمت میں اندر آنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے ہمارے لئے ایک تکلیف رکھ دیا اور درمیان میں اپنی طرف پردہ کھینچ لیا (اور ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دی اندر جا کر) میرے ساتھی نے کہا اے ام المومنین! آپ عراق کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ انہوں نے کہا عراق کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ مارا حضرت عائشہؓ نے کہا ایسے نہ کرو تم نے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائی ہے اچھا عراق کیا ہوتا ہے؟ حیض کو کہتے ہیں (یعنی تم حالت حیض میں بیوی کے جسم کو ہاتھ اور جسم لگانے کے بارے میں پوچھ رہے ہو) اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حیض کے بارے میں فرمایا ہے تم اسی پر عمل کرو (اور اس بارے میں میں اپنا قصہ سناتی ہوں) میں حالت حیض میں ہوتی تھی حضور ﷺ مجھ سے لپٹتے تھے اور میرے سر کاوسہ لیتے تھے لیکن میرے اور آپ کے جسم کے درمیان ایک کپڑا ہوتا تھا۔ حضور ﷺ کا معمول یہ تھا کہ آپ ﷺ جب میرے دروازے کے پاس سے گزرتے تو اکثر ایسی کوئی بات ارشاد فرما جاتے جس سے مجھے فائدہ ہوتا۔ ایک دن آپ میرے دروازے کے پاس سے گزرے لیکن آپ نے کچھ نہ فرمایا اس کے بعد دو تین مرتبہ اور گزرے لیکن کچھ نہ فرمایا۔ میں نے خادمہ سے کہا اے لڑکی! میرے لئے دروازہ پر تکلیف رکھ دو اور میں نے سر پر پٹی باندھ لی (اور حضور ﷺ کو متوجہ کرنے کے لئے ہمارے ہاتھ پر ٹیک لگائی) اتنے میں حضور ﷺ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اے عائشہ تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا سر میں درد ہو رہا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہائے میرے سر میں بھی درد ہے پھر آپ تشریف لے گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آپ کو ایک کمر میں اٹھا کر لایا گیا۔ آپ میرے پاس تشریف لے آئے اور ازواج مطہرات کو یہ پیغام بھیجا کہ میں ہمارا ہو گیا ہوں اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں باری باری تمہارے ہاں جاؤں تم مجھے اجازت دے دو تاکہ میں عائشہؓ کے پاس ٹھہر جاؤں چنانچہ میں آپ کی تیمارداری کرنے لگی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کی تیمارداری نہیں کی تھی۔ ایک دن حضور ﷺ کا سر میرے کندھے پر رکھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضور ﷺ کا سر میرے سر کی طرف جھک گیا میں سمجھی کہ حضور ﷺ میرے سر کاوسہ وغیرہ لینا چاہتے ہیں کہ اتنے میں آپ کے منہ مبارک سے ایک ٹھنڈا قطرہ نکل کر میری ہنسی کے گڑھے میں گرا تو اس سے میرے سارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں یہ سمجھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ ﷺ پر ایک چادر ڈال دی۔ پھر حضرت عمرؓ اور حضرت مغیرہ بن شعبہؓ آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت



چاہی میں نے دونوں کو اجازت دے دی اور اپنی طرف پردہ کھینچ لیا۔ حضرت عمرؓ نے حضور ﷺ کو دیکھ کر کہا ہائے بے ہوشی! حضور ﷺ کی بے ہوشی کتنی زیادہ ہے۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر چل دیئے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو حضرت مغیرہؓ نے کہا حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا ہے حضرت عمرؓ نے کہا نہیں۔ تم غلط کہتے ہو، اور تم ہمیشہ فتنہ والی بات کرتے ہو۔ جب تک اللہ تعالیٰ منافقوں کو بالکل ختم نہیں کر دیں گے حضور ﷺ کا انتقال نہیں ہوگا پھر حضرت ابو بکرؓ آگئے۔ میں نے وہ پردہ ہٹا دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے حضور ﷺ کو دیکھ کر کہا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول ﷺ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضور ﷺ کے سر کی طرف سے انہوں نے اپنا منہ جھکا لیا اور حضور ﷺ کی پیشانی کا بوسہ لے کر کہا ہائے اللہ کے نبی ﷺ! پھر اپنے سر کو اوپر اٹھایا پھر منہ کو جھکا کر دوبارہ پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا ہائے میرے خاص دوست! پھر سر کو اوپر اٹھایا پھر منہ کو جھکا کر تیسری مرتبہ پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا ہائے میرے جگری دوست! حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر وہ مسجد چلے گئے اور حضرت عمرؓ لوگوں میں بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب تک اللہ تعالیٰ منافقوں کو بالکل ختم نہیں کر دے گا اللہ کے رسول ﷺ کا انتقال نہیں ہوگا (حضرت ابو بکرؓ کے آنے پر حضرت عمرؓ رک گئے اور) حضرت ابو بکرؓ نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ (قرآن مجید میں) فرماتے ہیں

(إِنَّكَ مَيِّتٌ وَرَأَيْتَ مَيْتُونَ (سورت زمر آیت ۳۰))

ترجمہ: آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ اور یہ آیت پوری پڑھی اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علیٰ أعقابکم وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰی عَقْبَيْهِ (سورۃ آل عمران آیت ۱۴۳)

ترجمہ: ”اور محمد ﷺ نے رسول ﷺ ہی تو ہیں آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول ﷺ گزر چکے ہیں سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید ہو جاویں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے اور جو شخص الٹا پھر بھی جاوے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا۔“ یہ آیت بھی پوری پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا جو اللہ کو معبود سمجھتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تو زندہ ہیں ان پر موت طاری نہیں ہو سکتی اور جو شخص محمد ﷺ کو معبود سمجھتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد ﷺ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا اچھا کیا یہ آیتیں اللہ کی کتاب (قرآن مجید) میں ہیں؟ (مجھے یہ آیتیں یاد ہی نہ رہیں اب حضرت ابو بکرؓ کے پڑھنے سے یاد آئی ہیں ان میں حضور ﷺ کے انتقال پانے کا ذکر ہے) پھر حضرت عمرؓ نے کہا لوگو! یہ ابو بکرؓ ہیں اور یہ مسلمانوں میں بڑے عمدہ اور اعلیٰ کارناموں والے ہیں لہذا ان سے بیعت ہو جاؤ۔ چنانچہ لوگ ان سے

بیعت ہو گئے۔ ل

## حضور ﷺ کی تجنیز و تکفین

حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں جب ہم لوگ حضور ﷺ کی تجنیز و تکفین کی تیاری کرنے لگے تو باہر لوگ بہت تھے اس لئے ہم نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اس پر انصار نے پکار کر کہا ہم حضور ﷺ کے ماموں ہیں (حضور ﷺ کی والدہ مدینہ کی تھیں) اور ہمیں اسلام میں نمایاں مرتبہ حاصل ہے اور قریش نے پکار کر کہا ہم حضور ﷺ کے والد کے خاندان کے لوگ ہیں (یعنی انصار اور قریش کے لوگ سب ہی اندر جا کر غسل وغیرہ دینے میں شریک ہونا چاہتے تھے) اس پر حضرت ابو بکرؓ نے بلند آواز سے فرمایا اے مسلمانو! ہر خاندان اور قریبی رشتہ دار اپنے جنازہ کے دوسروں سے زیادہ حق دار ہوتے ہیں (لہذا حضور ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ اور چچا زاد بھائی زیادہ حقدار ہیں) اس لئے ہم تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ (تم اندر نہ آؤ کیونکہ) اگر تم سب اندر آؤ گے تو جو زیادہ حق دار ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے اللہ کی قسم! اندر صرف وہی آئے گا جسے بلایا جائے گا۔ حضرت علی بن حسینؓ فرماتے ہیں انصار نے پکار کر کہا (حضور ﷺ کی تجنیز و تکفین میں) ہمارا بھی حق ہے حضور ہمارے بھانجے ہیں اور اسلام میں ہمارا مقام بہت بڑا ہے اور انہوں نے یہ مطالبہ حضرت ابو بکرؓ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے فرمایا قریبی رشتہ دار اور خاندان والے اس کام کے زیادہ حق دار ہیں لہذا تم یہ مطالبہ حضرت علی اور حضرت عباسؓ کے سامنے پیش کرو کیونکہ ان کے پاس اندر وہی جائے گا جسے یہ حضرات چاہیں گے۔ ل

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کی بیماری بڑھ گئی تو آپ کے پاس حضرت عائشہ اور حضرت حصہؓ تھیں۔ اتنے میں حضرت علیؓ داخل ہوئے تو حضور ﷺ نے انہیں دیکھ کر سر اٹھایا اور فرمایا میرے قریب آجاؤ۔ میرے قریب آجاؤ۔ حضرت علیؓ نے قریب جا کر حضور ﷺ کو اپنے سارے سے بٹھا لیا اور حضور ﷺ کے وصال تک ان ہی کے پاس رہے۔ جب حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علیؓ نے کھڑے ہو کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت عباسؓ اور ابو عبد المطلب (حضور ﷺ کے دادا کے خاندان والے) رضی اللہ

۱۔ اخرجہ احمد کذا فی البدایة (ج ۵ ص ۲۴۱) قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۳) رجال احمد ثقات ورواہ ابو یعلیٰ نحوہ مع زیادة باسناد وضعیف انتہی واخرجہ ابن سعد (ج ۲ ص ۲۶۷) عن یزید بن یابنوس نحوہ مختصراً۔ ۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۲ ص ۶۱)

عنعم اکربا ہر دروازہ پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علیؓ کہنے لگے میرے والد آپ پر قربان ہوں! آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور انتقال کے بعد بھی پاک ہیں اور حضور ﷺ کے جسم سے ایسی عمدہ خوشبو مہک رہی تھی کہ لوگوں نے ویسی خوشبو کبھی نہیں دیکھی تھی پھر حضرت عباسؓ نے حضرت علیؓ سے فرمایا عورتوں کی طرح رونا چھوڑ دو اور اپنے حضرت کی تجینز و تفتین کی طرف متوجہ ہو جاؤ اس پر حضرت علیؓ نے فرمایا حضرت فضل بن عباسؓ کو اندر میرے پاس بھیج دو۔ انصار نے کہا ہم تمہیں اللہ کا اور حضور ﷺ سے اپنے تعلق کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے کفن اور غسل میں ہمارا بھی حصہ ہو (اس پر حضرت علیؓ نے کہا اپنا ایک آدمی اندر بھیج دو) چنانچہ انصار نے اپنا ایک آدمی اندر بھیجا جس کا نام اوس بن خوبیؓ تھا وہ ایک ہاتھ میں گھڑا بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ حضرات ابھی اندر ہی تھے غسل شروع نہیں کیا تھا کہ انہیں یہ آواز سنائی دی کہ رسول اللہ ﷺ کے کپڑے مت اتارو۔ اور وہ جیسے ہیں ویسے ہی ان کو قمیص میں غسل دے دو (اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعہ ان حضرات کی اس موقع پر رہبری فرمائی) چنانچہ حضرت علیؓ نے حضور ﷺ کو غسل دیا۔ وہ قمیص کے نیچے ہاتھ ڈال کر جسم کو نہلاتے تھے اور حضرت فضل (پردے کے لئے) چادر تھامے ہوئے تھے اور وہ انصاری پانی لارہے تھے اور حضرت علیؓ نے اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔

### حضور ﷺ پر نماز جنازہ پڑھے جانے کی کیفیت

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا تو پہلے مردوں کو جماعتوں کی صورت میں اندر بھیجا گیا اور انہوں نے امام کے بغیر ہی حضور ﷺ کی نماز جنازہ پڑھی۔ وہ نماز پڑھ کر باہر آگئے پھر عورتوں کو اندر بھیجا گیا اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھی پھر بچوں کو اندر داخل کیا گیا اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ پھر غلاموں کو جماعتوں کی صورت میں اندر بھیجا گیا اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ حضور ﷺ کی نماز جنازہ میں ان سب حضرات کا امام کوئی نہیں تھا۔

حضرت سہل بن سعدؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کو کفن پہنا دیا گیا تو آپ کو چارپائی پر رکھا گیا اور پھر وہ چارپائی حضور ﷺ کی قبر کے کنارے پر رکھ دی گئی پھر لوگ اپنے ساتھیوں کے

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۶) فیہ یزید بن ابی زیاد و هو حسن الحدیث علی ضعفه و بقیة رجالہ ثقات و روی ابن ماجہ بعضہ انتہی و اخرجه ابن سعد (ج ۲ ص ۶۳) عن عبد اللہ بن الحارث بمعناه ۲۔ اخرجه ابن اسحاق.

ساتھ اندر آتے اور اکیلے اکیلے بغیر امام کے نماز پڑھتے۔ حضرت موسیٰ بن محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اپنی والدہ کی لکھی ہوئی یہ تحریر ملی کہ جب حضور ﷺ کو کفن پہنا دیا گیا اور انہیں چارپائی پر رکھ دیا گیا تو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اندر تشریف لائے اور ان کے ساتھ اتنے مہاجرین اور انصار بھی تھے جو اس کمرے میں آسکتے تھے۔ ان دونوں حضرات نے کہا سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته۔ پھر ان ہی الفاظ کے ساتھ مہاجرین اور انصار نے سلام کیا۔ پھر ان سب نے صفیں بنا لیں اور امام کوئی نہ بنا۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ پہلی صف میں حضور ﷺ کے سامنے تھے ان دونوں حضرات نے کہا اے اللہ! ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضور ﷺ پر جو کچھ آسمان سے نازل ہوا تھا حضورؐ نے وہ پہنچا دیا اور انہوں نے اپنی امت کے ساتھ پوری خیر خواہی کی اور اللہ کے راستہ میں انہوں نے خوب محنت کی اور جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت عطا فرمادی اور اللہ کا کلمہ یعنی دین اسلام پورا ہو گیا اور لوگ اللہ وحدہ لا شریک لہ، پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے معبود! ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو اس بات پر عمل کرتے ہیں جو ان پر اتاری گئی اور ہمیں آخرت میں حضور ﷺ کے ساتھ جمع فرما اور ہمارا ان سے تعارف کرا دینا اور ان کا تعارف ہم سے کیونکہ حضور ﷺ مومنوں کے لئے بڑے شفیق اور مہربان تھے۔ ہم حضور ﷺ پر ایمان لانے کا دنیا میں بدلہ نہیں چاہتے اور نہ اس ایمان کو کسی قیمت پر کبھی بچھیں گے لوگ ان کی دعا پر آمین کہتے جاتے اس طرح لوگ فارغ ہو کر نکلتے جاتے اور دوسرے اندر آجاتے یہاں تک کہ تمام مردوں نے نماز پڑھی پھر عورتوں نے پھر چوں نے پڑھی۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کو چارپائی پر رکھ دیا گیا تو میں نے کہا حضور ﷺ کی نماز جنازہ کا کوئی امام نہیں بنے گا کیونکہ حضور ﷺ جیسے زندگی میں تمہارے امام تھے ایسے ہی انتقال کے بعد بھی تمہارے امام ہیں اس پر لوگ جماعتوں کی صورت میں داخل ہوتے اور صفیں بنا کر تکبیریں کہتے اور ان کا کوئی امام نہ ہوتا اور میں حضور ﷺ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتا جاتا السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته۔ اے اللہ! ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو ان پر نازل کیا گیا تھا وہ انہوں نے سارا پہنچا دیا اور اپنی امت کی پوری خیر خواہی کی اور اللہ کے راستہ میں خوب محنت کی اور جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت عطا فرمائی اور اللہ کا کلمہ پورا ہو گیا۔ اے اللہ! ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو اس وحی کا

اتباع کرتے ہیں۔ جو ان پر نازل کی گئی تھی اور آپ کے بعد ہم کو ثابت قدم رکھ اور آخرت میں ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما اور لوگ آمین کہتے جاتے۔ پہلے مردوں نے نماز پڑھی پھر عورتوں نے پھر بچوں نے۔<sup>۱</sup>

## حضور ﷺ کی وفات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم

### کی حالت اور ان کا حضور ﷺ کی جدائی پر رونا

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے دیکھا کہ لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے غلام سے فرمایا جاؤ اور سنو کہ لوگ چپکے چپکے کیا باتیں کر رہے ہیں پھر مجھے آکر بتاؤ اس نے واپس آکر بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ سنتے ہی تیزی سے چلے اور وہ فرما رہے تھے کہ ہائے! میری کمر ٹوٹ رہی ہے۔ انہیں اتنا زیادہ غم تھا کہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ مسجد تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بہر حال وہ ہمت کر کے کسی طرح مسجد پہنچ ہی گئے۔<sup>۲</sup>

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابو بکرؓ حضور ﷺ کے حجرہ سے مسجد میں تشریف لائے اس وقت حضرت عمرؓ مسجد میں لوگوں میں بیان کر رہے تھے حضرت ابو بکرؓ نے کہا اے عمرؓ بیٹھ جاؤ (اس پر حضرت عمرؓ بیٹھ گئے) حضرت ابو بکرؓ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور کلمہ شہادت کے بعد فرمایا:

لما بعد! تم میں سے جو آدمی حضرت محمد ﷺ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہو جانا چاہئے کہ حضرت محمد ﷺ کا انتقال ہو گیا اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اسے یقین ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہیں گے ان کی موت نہیں آسکتی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ

(سورت آل عمران آیت ۱۴۴)

ترجمہ: ”اور محمدؐ نرے رسول ہی تو ہیں آپ سے پہلے اور بہت سے رسول گزر چکے ہیں سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید ہی ہو جاویں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے۔“ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں اللہ کی قسم! ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا لوگ حضرت ابو بکرؓ کی تلاوت سے

<sup>۱</sup> اخرجه ابن سعد (ج ۲ ص ۷۰) ايضاً عن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده كذا في الكنز (ج ۴ ص ۵۵)

<sup>۲</sup> اخرجه ابن خسر و كذا في الكنز (ج ۴ ص ۴۸)

پہلے اس آیت کو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی اتری ہے۔ تمام لوگوں نے حضرت ابو بکرؓ سے اس آیت کو ایک دم لے لیا اور ہر آدمی اسے پڑھنے لگا اور حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! جوں ہی میں نے حضرت ابو بکرؓ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا میں تو دہشت کے مارے کانپنے لگ گیا اور میرے پیروں میں اٹھانے کی سکت نہ رہی اور میں زمین پر گر گیا اور جب میں نے حضرت ابو بکرؓ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تب مجھے پتہ چلا کہ حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت عثمان بن عفانؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کا انتقال ہوا تو حضور ﷺ کے صحابہؓ کو اس کا اتنا زیادہ رنج و صدمہ ہوا کہ بعض صحابہؓ کو تو (یہ وسوسہ بھی آنے لگا گیا کہ اب اسلام مٹ جائے گا) میں بھی ان ہی لوگوں میں تھا۔ ایک دن میں مدینہ کی ایک حویلی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابو بکرؓ کی بیعت ہو چکی تھی کہ اتنے میں حضرت عمرؓ میرے پاس سے گزرے لیکن شدت غم کی وجہ سے مجھے ان کے گزرنے کا بالکل پتہ نہ چلا۔ حضرت عمرؓ سیدھے حضرت ابو بکرؓ کے پاس گئے اور ان سے کہا اے خلیفہ رسول اللہ! کیا میں آپ کو ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں حضرت عثمانؓ کے پاس سے گزرا اور میں نے انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ آگے اور حدیث بھی ہے جیسا کہ سلام کے باب میں آئے گی۔<sup>۲</sup>

حضرت عبدالرحمن بن سعید بن ربیعؓ فرماتے ہیں ایک دن حضرت علی بن ابی طالبؓ آئے انہوں نے سر پر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور بہت غمگین تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے ان سے فرمایا کیا بات ہے؟ بڑے غمگین نظر آرہے ہو۔ حضرت علیؓ نے کہا مجھے وہ زبردست غم پیش آیا ہے جو آپ کو نہیں آیا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں! میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہارے خیال میں کوئی آدمی ایسا ہے جسے مجھ سے زیادہ حضور ﷺ کا غم ہوا ہو؟<sup>۳</sup>

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ (کا انتقال ہو چکا تھا اور ان) کا جنازہ ہمارے گھروں میں رکھا ہوا تھا۔ ہم سب ازواج مطہرات جمع تھیں اور رو رہی تھیں اور اس رات ہم بالکل نہ سوئی تھیں۔ ہم آپ کو چارپائی پر دیکھ کر خود کو تسلی دے رہی تھیں کہ اتنے میں آخر شب میں حضور ﷺ کو دفن کر دیا گیا اور قبر پر مٹی ڈالنے کے لئے ہم نے پھاڑوں کے چلنے کی آواز سنی تو ہماری بھی چیخ نکل گئی اور مسجد والوں کی بھی، اور سارا مدینہ اس چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد

۱۔ اخرجہ عبدالرزاق و ابن سعد و ابن ابی شیبہ و احمد و البخاری و ابن حبان وغیر ہم

کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۴۸) ۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۲۸)

۳۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۲ ص ۸۴)

حضرت بلالؓ نے فجر کی اذان ہی تو جب انہوں نے اذان میں حضور ﷺ کا نام لیا یعنی اشھد ان محمد رسول اللہ کہا تو زور زور سے روپڑے اور اس سے ہمارا غم اور بڑھ گیا۔ تمام لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لئے اندر جانے کی کوشش کرنے لگے اس لئے دروازہ اندر سے بند کرنا پڑا۔ ہائے وہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ اس کے بعد جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آئی تو حضور ﷺ (کے جانے) کی مصیبت کو یاد کرنے سے وہ مصیبت ہلکی ہو گئی۔

حضرت ابو ذؤیبؓ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا تو میں نے دیکھا کہ مدینہ والے اوچی آواز سے ایسے زور زور سے رو رہے ہیں جیسے کہ سارے حاجی احرام کی حالت میں زور سے لبیک کہہ رہے ہوں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا ہے (اس وجہ سے سب لوگ رو رہے ہیں)۔

حضرت عبید اللہ بن عمیرؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کا انتقال ہوا اس وقت مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے علاقہ کے امیر حضرت عتاب بن اسیدؓ تھے۔ جب مکہ والوں کو حضور ﷺ کے انتقال کی خبر ملی تو مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے سارے مسلمان زور زور سے رونے لگ گئے اور شدت غم کی وجہ سے حضرت عتابؓ تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک گھائی میں چلے گئے (تاکہ تنہائی میں بیٹھ کر روتے رہیں) حضرت سہیل بن عمروؓ نے آکر حضرت عتابؓ کو کہا (تنہائی چھوڑو اور) کھڑے ہو کر لوگوں میں بات کرو۔ انہوں نے کہا حضور ﷺ کے انتقال کی وجہ سے مجھ میں بات کرنے کی ہمت نہیں۔ حضرت سہیل نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں آپ کی جگہ میں بات کر لوں گا۔ چنانچہ دونوں اس گھائی سے نکل کر مسجد حرام آئے اور حضرت سہیل نے کھڑے ہو کر بیان کیا انہوں نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد اپنے بیان میں وہ تمام باتیں کہہ دیں جو حضرت ابو بکرؓ نے مدینہ میں فرمائی تھیں ان میں سے ایک بات بھی تو نہ چھوڑی۔ (اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ والوں کے سنبھالنے کا ذریعہ بنالیا) جنگ بدر کے موقع پر حضرت سہیل بن عمروؓ بھی کافر قیدیوں میں تھے۔ حضرت عمرؓ ان کے آگے کے دانت نکالنا چاہتے تھے تو ان سے حضور ﷺ نے فرمایا تھا اے عمرؓ! تم کیوں ان کے آگے دانت نکالنے لگے ہو؟ انہیں چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں (اپنے دین کی خدمت کے لئے) کھڑے ہونے کا ایسا زبردست موقع دے جس سے تمہیں بہت زیادہ خوشی ہو۔ چنانچہ یہ وہی موقع تھا جس کی حضور ﷺ

۱۔ اخرجه الواقدي كذا في البداية (ج ۵ ص ۲۷۱) ورواه ابن سعد مختصرا (ج ۴ ص

۱۲۱) ۲۔ اخرجه ابن منده و ابن عساكر كذا في الكنز (ج ۴ ص ۵۸) ابن

اسحاق بطوله كما سند كذا في ما قالت الصحابة علي وفاته

نے خبر دی تھی اور ان کے اس بیان کا بہت اثر ہوا اور مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے سارے علاقے کے مسلمان سنبھل گئے اور حضرت عتاب کی مارت اور مضبوط ہو گئی۔<sup>۱</sup> حضرت ابو جعفرؓ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ (کے انتقال) کے بعد کبھی حضرت فاطمہؓ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہاں صرف تھوڑا سا مسکرا لیتیں جس سے چہرے کی ایک جانب ذرا لمبی ہو جاتی۔<sup>۲</sup>

### حضور ﷺ کی وفات پر صحابہ کرامؓ نے کیا کیا

حضرت اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ﷺ کے انتقال پر حضرت ابو بکرؓ نے کہا آج ہم وحی سے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے آنے والے کلام سے محروم ہو گئے۔<sup>۳</sup> حضرت انسؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کا انتقال ہوا تو حضرت ام ایمنؓ رونے لگیں تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ حضور ﷺ کے انتقال پر کیوں رورہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا (میں حضور ﷺ کے انتقال پر نہیں رورہی ہوں) کیونکہ مجھے یقین تھا کہ حضور ﷺ کا عنقریب انتقال ہو جائے گا میں تو اس پر رورہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ اب بند ہو گیا۔<sup>۴</sup> حضرت انسؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو فرمایا آؤ۔ حضرت ام ایمنؓ کی زیارت کرنے چلتے ہیں (میں بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ گیا) جب ہم حضرت ام ایمنؓ کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگیں۔ ان حضرات نے ان سے فرمایا آپ کیوں روتی ہیں؟ اللہ کے ہاں جا کر اللہ کے رسول ﷺ کو جو کچھ ملا ہے وہ ان کے لئے یہاں سے (ہزاروں گنا) بہتر ہے۔ حضرت ام ایمنؓ نے کہا اللہ کی قسم! میں اس وجہ سے نہیں رورہی کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں جا کر اللہ کے رسول ﷺ کو جو کچھ ملا ہے وہ ان کے لئے یہاں سے (ہزاروں گنا) بہتر ہے بلکہ میں تو اس وجہ سے رورہی ہوں کہ اب آسمان سے وحی آنے کا سلسلہ رک گیا ہے۔ یہ بات ایسی موثر تھی کہ اسے سن کر وہ دونوں حضرات بھی رونے لگ پڑے۔<sup>۵</sup> حضرت طارقؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کا انتقال ہوا تو حضرت ام ایمنؓ رونے لگیں۔ کسی نے ان سے کہا اے ام ایمنؓ! آپ کیوں روتی ہیں؟ انہوں

۱۔ اخرجہ سیف و ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۴۶)

۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۲ ص ۸۴) ۳۔ اخرجہ ابو اسماعیل الہروی فی دلائل

التوحید عن محمد بن اسحاق عن ابیہ کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۵۰) ۴۔ اخرجہ احمد

یہ عند البیہقی من حدیثہ کذا فی البدایہ (ج ۵ ص ۲۷۴) و اخرجہ ایضا ابن ابی شیبہ و مسلم

و ابو یعلیٰ و ابو عوانہ عن انس مثله کما فی الكنز (ج ۴ ص ۴۸) و ابن سعد (ج ۸ ص ۱۶۴)

عن انس نحوه



نے فرمایا میں اس بات پر رورہی ہوں کہ اب آسمان کی خبریں ہمارے پاس آنی بند ہو گئی ہیں۔ لہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ام ایمن نے فرمایا میں اس بات پر رورہی ہوں کہ دن رات ہمارے پاس آسمان کی خبریں تازہ تازہ آیا کرتی تھیں یہ سلسلہ اب بند ہو گیا ہے میں اس پر رورہی ہوں۔ حضرت ام ایمن کی اس بات پر لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے انتقال پر لوگ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم! ہماری تمنا یہ تھی کہ ہم حضور ﷺ سے پہلے مر جاتے کیونکہ اب ہمیں خطرہ ہے کہ آپ کے بعد کہیں ہم فتنوں میں نہ مبتلا ہو جائیں اس پر حضرت معن بن عدیؓ نے فرمایا لیکن اللہ کی قسم! میری تمنا تو یہ نہیں تھی کہ میں حضور ﷺ سے پہلے مر جاتا بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے حضور ﷺ کی زندگی میں حضور ﷺ کو سچا مانا اور ان کی تصدیق کی ایسے ہی ان کے انتقال کے بعد ان کی تصدیق کروں۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ کی بیماری اور بڑھ گئی اور آپ بہت زیادہ بے چین ہو گئے تو حضرت فاطمہؓ نے کہا ہائے لاجان کی بے چینی! حضور ﷺ نے ان سے فرمایا آج کے بعد تمہارے والد پر کبھی بے چینی نہیں آئے گی۔ پھر جب حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہؓ نے فرمایا ہائے میرے لاجان نے رب کی دعوت قبول کر لی۔ ہائے میرے لاجان کا ٹھکانہ جنت الفردوس بن گیا۔ ہائے میرے لاجان! ان کی موت پر ہم حضرت جبرائیل سے تعزیت کرتے ہیں۔ پھر جب حضور ﷺ دفن ہو گئے تو حضرت فاطمہؓ نے فرمایا اے انس! تمہارے دل حضور ﷺ پر مٹی ڈالنے کے لئے کیسے آمادہ ہو گئے۔

حضرت فاطمہؓ نے فرمایا اے انس! تمہارے دل کیسے آمادہ ہو گئے کہ تم حضور ﷺ کو مٹی میں دفن کروا پس آگئے؟ حضرت حماد کہتے ہیں جب حضرت ثابتؓ یہ حدیث بیان کرتے تو اتنا روتے کہ پسلیاں ہلنے لگتیں۔

حضرت عروہؓ فرماتے ہیں (حضور ﷺ کی پھوپھی) حضرت صفیہ بنت عبدالمطلبؓ نے

۱ عند ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۶۰) وخرجه ایضا ابن سعد

(ج ۸ ص ۱۶۴) بسند صحیح عن طارق نحوه ۲ اخرجہ مالک کذا فی البدایة (ج ۶

ص ۳۳۹) وخرجه ابن عبدالبر فی الاستیعاب (ج ۳ ص ۴۴۶) من طریق مالک نحوه قال فی

الاصابة (ج ۳ ص ۴۵۰) وسعيد بن هاشم ای راوی الحدیث عن مالک ضعیف و المحفوظ مرسل

عروة انتهى وقد اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۴۶۵) عن عروة نحوه ۳ اخرجہ البخاری

۴ اخرجہ البخاری والبیہقی کذا فی الاصابة (ج ۳ ص ۲۶۴) و اخرجہ البزار نحوه قال

الہیثمی (ج ۹ ص ۳۹) رجالہ رجال الصحیح غیر بشر بن آدم وهو ثقة و اخرجہ ابن زیادہ (ج ۷

حضور ﷺ کی وفات پر چند اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے :

۱۔ میرا دل غمگین ہے اور میں نے رات اس آدمی کی طرح گزاری جس کا سب کچھ چھن گیا ہو اور میں نے انتظار میں اس آدمی کی طرح ساری رات جاگ کر گزاری جو لٹ گیا ہو، اور اس کے پاس کچھ نہ بچا ہو۔

۲۔ اور یہ سب کچھ ان غموں اور پریشانیوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے میری نیند اڑا رکھی ہے کاش کہ مجھے موت کا جام اس وقت پلا دیا جاتا۔

۳۔ جب کہ لوگوں نے کہا مقدر میں لکھی ہوئی موت حضور ﷺ پر آگئی ہے۔

۴۔ جب ہم حضرت محمد ﷺ کے گھر والوں کے پاس گئے تو ہماری گردن کے بال غم کی وجہ سے سفید ہو گئے۔

۵۔ جب ہم نے آپ کے گھروں کو دیکھا کہ اب وہ وحشت ناک ہو گئے ہیں اور میرے حبیب ﷺ کے بعد اب ان میں کوئی نہیں رہا۔

۶۔ تو اس سے مجھ پر بہت بڑا غم طاری ہو گیا جو بہت دیر تک رہے گا اور جو میرے دل میں ایسا پیوست ہوا کہ وہ دل رعب زدہ ہو گیا اور یہ اشعار بھی حضرت صفیہؓ نے کہے جن کا ترجمہ یہ ہے :

۱۔ غور سے سنو! یا رسول اللہ! آپ ہمارے ساتھ سہولت کا معاملہ کرنے والے تھے۔ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور سخت معاملہ کرنے والے نہ تھے۔

۲۔ آپ ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والے اور نہایت مہربان اور ہمارے نبی ﷺ تھے اور ہر رونے والے کو آج آپ پر رو لینا چاہئے۔

۳۔ میری زندگی کی قسم! میں نبی کریم ﷺ کی موت کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں بلکہ آپ کے بعد آنے والے فتنوں اور اختلافات کی وجہ سے رو رہی ہوں۔

۴۔ حضرت محمد ﷺ کے تشریف لے جانے اور ان کی محبت کی وجہ سے میرے دل پر گرم لوہے سے داغ لگے ہوئے ہیں۔

۵۔ اے فاطمہ! حضرت محمد ﷺ کا رب اللہ تعالیٰ اس قبر پر رحمت بھیجے جو یشرب میں آپ کا ٹھکانہ بنی ہے۔

۶۔ میں حضرت حسنؓ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے اسے یتیم کر دیا اور اسے اس حال میں

چھوڑ دیا کہ وہ رور و کر دور چلے جانے والے اپنے نانا کو پکار رہا ہے۔

۷۔ میری ماں، خالہ، چچا اور میری جان اور میری آل اولاد سب اللہ کے رسول ﷺ پر قربان ہیں۔

۸۔ آپ نے صبر فرمایا اور انتہائی صداقت کے ساتھ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور آپ کا انتقال اس حال میں ہوا کہ آپ دین میں مضبوط اور آپ کی ملت واضح اور آپ کا دین بالکل صاف ستھرا ہے۔  
۹۔ اگر عرش کا مالک آپ کو ہم میں باقی رکھتا تو ہم بڑے خوش قسمت ہوتے لیکن (آپ کے انتقال فرمانے کا) اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہا۔

۱۰۔ اللہ کی طرف سے آپ پر سلام اور تحیہ ہو اور آپ کو خوشی خوشی جنات عدن میں داخل کیا جائے۔<sup>۱</sup> حضرت محمد بن علی بن الحسینؑ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کا انتقال ہوا تو حضرت صفیہؓ (حضور ﷺ کے سامنے) اپنی چادر سے اشارہ کر کے یہ شعر پڑھ رہی تھیں جس کا ترجمہ یہ ہے:

آپ کے بعد پریشان کن حالات اور سخت مصیبتیں پیش آگئی ہیں اگر آپ اس موقع پر تشریف فرما ہوتے تو یہ حالات اور مصیبتیں اتنی زیادہ نہ ہوتیں۔<sup>۲</sup>  
حضرت نعیم بن قیسؓ فرماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے والد کو سنا کہ وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے:

۱۔ ہوش سے سنو! حضرت محمد ﷺ کے تشریف لے جانے کی وجہ سے میں ہلاک ہو گیا۔ حضور ﷺ کی زندگی میں میرا خاص ٹھکانہ تھا۔  
۲۔ جہاں میں ساری رات صبح تک امن و چین سے گزارتا تھا۔<sup>۳</sup>

## صحابہ کرام کا حضور ﷺ کو یاد کر کے رونا

حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک رات حضرت عمر بن خطابؓ دیکھ بھال

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۹ ص ۳۹) رواه الطبرانی و اسنادہ حسن انتھی

۲۔ عند الطبرانی قال الهیثمی (ج ۹ ص ۳۹) رجاله رجال الصحیح الا ان محمد الم یدرک صفیہ انتھی  
۳۔ اخرجه البخاری و البغوی کذا فی الاصابہ (ج ۳ ص ۲۶۴) و اخرجه

البنار نحوه قال الهیثمی (ج ۹ ص ۳۹) رجاله رجال الصحیح غیر بشر بن آدم و هو ثقة و اخرجه ابن زیادہ (ج ۷ ص ۸۹)

کرنے نکلے تو انہوں نے ایک گھر میں چراغ جلتے ہوئے دیکھا وہ اس گھر کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا کاتنے کے لئے اپنا لون تیر سے دھن رہی ہے اور حضور ﷺ کو یاد کر کے یہ اشعار پڑھ رہی ہے جن کا ترجمہ یہ ہے :

۱۔ حضرت محمد ﷺ پر نیک لوگوں کا درود ہو (یا رسول اللہ!) آپ پر چنے ہوئے بہترین لوگ درود بھیجیں۔

۲۔ آپ راتوں کو خوب عبادت کرنے والے اور صبح سحری کے وقت (اللہ کے سامنے) بہت زیادہ رونے والے تھے۔ موت کے آنے کے بہت سے راستے ہیں۔

۳۔ اور کاش میں جان لیتی کہ کیا میں اور میرے حبیب حضور (ﷺ) کسی گھر میں کبھی اکٹھے ہو سکیں گے؟

یہ (محبت بھرے اشعار) سن کر حضرت عمرؓ بیٹھ کر رونے لگے اور بڑی دیر تک روتے رہے۔ آخر انہوں نے اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا اس بڑھیا نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب۔ اس بڑھیا نے کہا مجھے عمرؓ سے کیا واسطہ اور عمرؓ اس وقت یہاں کس وجہ سے آئے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے! تم دروازہ کھولو تمہارے لئے کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اس بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمرؓ اندر گئے اور فرمایا ابھی تم جو اشعار پڑھ رہی تھی ذرا مجھے دوبارہ سنانا۔ چنانچہ اس نے وہ اشعار دوبارہ حضرت عمرؓ کے سامنے پڑھے۔ جب وہ آخری شعر پر پہنچی تو حضرت عمرؓ نے اس سے کہا تم نے آخری شعر میں اپنا اور حضور ﷺ کا تذکرہ کیا ہے کسی طرح تم مجھے بھی اپنے دونوں کے ساتھ شامل کر لو۔ اس نے یہ شعر پڑھا۔ وعمر فاعقر له یا غفار یعنی اے غفار! عمرؓ کی بھی مغفرت فرما اس پر حضرت عمرؓ خوش ہو گئے اور واپس آگئے۔

حضرت عاصم بن محمدؓ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں جب بھی حضرت ابن عمرؓ حضور ﷺ کا تذکرہ کرتے تو ایک دم بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے تھے حضرت ثنی بن سعید ذارع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالکؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ہر رات اپنے حبیب ﷺ کو خواب میں دیکھتا ہوں اور یہ فرما کر رونے لگ پڑے۔

۱۔ اخراجہ ابن المبارک و ابن عساکر کذا فی منتخب الکنز (۴ ص ۳۸۱)

۲۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۶۸)

## حضور ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے

### کو صحابہؓ کرام کا مارنا

حضرت کعب بن علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت غزفہ بن حارث کنذیؓ حضور ﷺ کے صحبت یافتہ صحابی ہیں۔ انہوں نے سنا کہ ایک نصرانی حضور ﷺ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو انہوں نے اسے ایسا مارا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی۔ یہ معاملہ حضرت عمرو بن عاصؓ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت عمرو نے حضرت غزفہ سے فرمایا ہم تو ان سے امن دینے کا معاہدہ کر چکے ہیں۔ حضرت غزفہ نے کہا اللہ کی پناہ۔ یہ لوگ حضور ﷺ کو برا بھلا کہیں اور ہم ان کے معاہدے کا پھر بھی لحاظ کریں؟ ہم نے تو ان شرطوں پر ان سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم ان کے عبادت خانوں کو کچھ نہیں کہیں گے یہ اپنے عبادت خانوں میں جو چاہیں کہیں اور ہم ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان پر نہیں ڈالیں گے اور اگر کوئی دشمن ان پر حملہ کرے گا تو ہم ان کی طرف سے لڑیں گے اور ان کے احکام میں ہم کوئی دخل نہیں دیں گے ہاں اگر یہ ہمارے احکامات پر راضی ہو کر ہمارے پاس فیصلہ کروانے آئیں گے تو ہم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے اور اگر یہ اپنے معاملات کے بارے میں ہم سے الگ تھلگ رہیں گے تو ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے اس پر حضرت عمرو نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔<sup>۱</sup>

حضرت غزفہ بن حارثؓ کو حضور ﷺ کی صحبت حاصل تھی اور انہوں نے حضرت عکرمہ بن ابی جہلؓ کے ساتھ مرتدوں سے جنگ بھی لڑی تھی وہ مصر کے ایک نصرانی کے پاس سے گزرے جس کو مندقون کہا جاتا تھا۔ حضرت غزفہ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نصرانی نے حضور ﷺ کا تذکرہ بڑے انداز میں کیا انہوں نے اسے مارا۔ پھر یہ معاملہ حضرت عمرو بن عاصؓ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت عمرو نے انہیں بلا کر کہا ہم تو ان سے امن دینے کا معاہدہ کر چکے ہیں اور پھر آگے بچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔<sup>۲</sup>

حضرت کعب بن علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت غزفہ بن حارث کنذیؓ کو نبی کریم

<sup>۱</sup> اخبرہ ابن سعد (ج ۷ ص ۲۰)

<sup>۲</sup> اخبرہ ابن المبارک عن حرملة بن عمران کذا فی الاستیعاب (ج ۳ ص ۱۹۳) و اخبرہ البخاری فی تاریخہ عن نعیم بن حماد عن عبد اللہ بن المبارک عن حرملة باسناده نحوه و اسنادہ صحیح کما فی الاصابة (ج ۳ ص ۱۹۵)

ﷺ کی صحبت حاصل تھی یہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس کے ساتھ امن دینے کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ حضرت غزوان نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نبی کریم ﷺ کو برا بھلا کہہ دیا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت عمرو بن عاصؓ نے ان سے کہا یہ لوگ معاہدے کی پابندی کی وجہ سے ہم سے مطمئن تھے (تم نے قتل کر کے معاہدہ توڑ دیا) حضرت غزوان نے کہا ہم نے ان سے اس بات پر امن کا معاہدہ نہیں کیا کہ یہ اللہ اور رسول ﷺ کے بارے میں (برا بھلا کہہ کر) ہمیں تکلیف پہنچائیں۔ ۱

### حضور ﷺ کا حکم مجالانا

حضرت عروہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن جحشؓ کو (بطن) خلہ مقام پر بھیجا اور ان سے فرمایا تم وہاں جاؤ اور قریش کے بارے میں کچھ خبر لے کر آؤ۔ حضور ﷺ نے انہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا اور یہ اشہر حرم یعنی جن مہینوں میں کافر لوگ آپس میں لڑا نہیں کرتے تھے ان مہینوں کا واقعہ ہے حضور ﷺ نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے بلکہ انہیں ایک خط لکھ کر دیا (جو کہ بند تھا) اور ان سے فرمایا تم اپنے ساتھیوں کو لے کر جاؤ اور جب چلتے چلتے دو دن ہو جائیں تو یہ خط کھول کر دیکھ لینا اور اس میں تمہیں جس چیز کا حکم دیا ہو اس پر عمل کر لینا (خط پڑھنے کے بعد) اپنے کسی ساتھی کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہ کرنا۔ دو دن سفر کرنے کے بعد انہوں نے وہ خط کھولا اور اسے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے چل کر مقام خلہ پر پہنچو اور قریش کے بارے میں جو خبریں تمہیں پہنچیں تم وہ لے کر ہمارے پاس آؤ۔ خط پڑھ کر حضرت عبد اللہ بن جحش نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں تو اللہ کے رسول ﷺ کی بات سنوں گا بھی اور مانوں گا بھی۔ تم میں سے جسے شہادت کا شوق ہو وہ تو میرے ساتھ چلے میں تو وہاں جا رہا ہوں اور حضور ﷺ کے حکم کو پورا کروں گا اور جسے شوق نہ ہو وہ واپس چلا جائے کیونکہ حضور ﷺ نے مجبور کر کے ساتھ لے جانے سے مجھے منع کیا ہے لیکن وہ تمام صحابہؓ ان کے ساتھ آگے خلہ گئے (ان میں سے کوئی واپس نہ گیا) جب یہ حضرات بحر ان پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت عقبہ بن غزوانؓ کا اونٹ تم ہو گیا جس پر یہ دونوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے یہ حضرات اونٹ

۱ اخراجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۶ ص ۱۳) وفيه عبد الله بن صالح كتاب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات واخرجه البيهقي (ج ۹ ص ۲۰۰) نحوه ۲ عند ابن عساکر

ڈھونڈنے کے لئے پیچھے رہ گئے اور باقی لوگ چل کر مقام محلہ پہنچ گئے۔ عمرو بن حضرمی، حکم بن کیسان، عثمان بن عبد اللہ اور مغیرہ بن عبد اللہ ان کے پاس سے گزرے یہ لوگ اپنا تجارتی سامان چمڑا اور کشمش طائف سے لے کر آرہے تھے۔ انہوں نے ان کفار کی طرف جھانکا۔ جب کفار نے دیکھا کہ ان کا سر منڈا ہوا ہے تو انہوں نے کہا یہ عمرہ کر کے آرہے ہیں۔ اس لئے تمہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے (یہ لڑنے نہیں آئے) یہ رجب کا آخری دن تھا (اور رجب اشہر حرم میں داخل ہے یہ بھی ان چار مہینوں میں سے ہے جن میں کفار عرب آپس میں لڑتے نہیں تھے) اس لئے حضور ﷺ کے صحابہؓ نے آپس میں ان کفار کے بارے میں مشورہ کیا کہ اگر ان کافروں کو آج قتل کرو گے تو شہر حرام یعنی رجب میں قتل کرو گے (جو کہ تمام عربوں کے دستور کے خلاف ہو گا) اور اگر انہیں چھوڑ دو گے تو یہ آج حرم میں داخل ہو کر محفوظ ہو جائیں گے (کہ حدود حرم کے اندر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے) اس لئے حضرات صحابہؓ اس پر متفق ہو گئے کہ انہیں آج ہی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبد اللہ نے عمرو بن حضرمی کو تیر مار کر قتل کر دیا اور عثمان بن عبد اللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا۔ مغیرہ بھاگ گیا یہ حضرات اسے پکڑ نہ سکے۔ ان کافروں کے تجارتی قافلہ پر بھی ان حضرات نے قبضہ کر لیا اور دو قیدیوں اور اس تجارتی سامان کو لے کر یہ حضرات حضور ﷺ کی خدمت میں واپس پہنچے حضور ﷺ نے ان سے فرمایا اللہ کی قسم! میں نے تمہیں شہر حرام میں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ پھر حضور ﷺ نے دونوں قیدیوں اور اس تجارتی سامان کو روک دیا اور اس میں سے کوئی چیز نہ لی۔ حضور ﷺ کا یہ فرمان سن کر ان حضرات کو بہت ہی زیادہ ندامت ہوئی اور وہ یوں سمجھے کہ ہم تو اب ہلاک ہو گئے اور ان کو مسلمان بھائیوں نے سختی سے ڈانٹا اور جب قریش کو اس واقعہ کی خبر ملی تو انہوں نے کہا محمد (علیہ السلام) نے شہر حرام میں خون بہایا ہے اور اس مہینے میں مال پر قبضہ کیا ہے اور ہمارے آدمیوں کو قید کیا ہے اور شہر حرام کی بے حرمتی کی ہے اور اسے دوسرے مہینوں کی طرح عام مہینہ بنا دیا ہے۔ اس پر اللہ

تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. (سورۃ بقرہ آیت ۲۱۷)

ترجمہ: ”لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر (یعنی عمداً) قتال کرنا جرم عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام (کعبہ) کے ساتھ اور جو لوگ

مسجد حرام کے اہل تھے ان کو اس سے خارج کر دینا جرم عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور فتنہ پردازی کرنا اس قتل خاص سے بدرجہا بڑھ کر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور ﷺ نے تجارتی سامان تولے لیا لیکن قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا (خلعہ جانے والے) مسلمانوں نے کہا (یا رسول اللہ!) کیا آپ کو امید ہے کہ ہمیں اس غزوہ پر ثواب ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمادی: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا** سے لے کر **وَلَيْتَ كَفُورٌ رَحْمَةً اللَّهِ** آخر آیت تک۔ (سورت بقرہ آیت ۲۱۸)

ترجمہ: ”حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ (اس غلطی) کو معاف کر دیں گے اور تم پر رحمت کریں گے۔ اس غزوہ میں جانے والے آٹھ آدمی تھے اور ان کے امیر حضرت عبد اللہ بن جحشؓ نویں آدمی تھے۔“

حضرت جناب بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک جماعت بھیجی اور ان کا امیر حضرت عبیدہ بن حارثؓ کو بنایا۔ جب حضرت عبیدہؓ چلنے لگے تو حضور ﷺ کی محبت کے غلبہ میں (جدائی کی وجہ سے) رونے لگے۔ حضور ﷺ نے ان کی جگہ دوسرے کو بھیج دیا جن کا نام حضرت عبد اللہ بن جحشؓ تھا اور انہیں ایک خط لکھ کر دیا اور حضور ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ مدینہ سے فلاں جگہ جائیں اور وہاں جا کر یہ خط کھول کر پڑھیں اور پھر اس میں جہاں جانے کو لکھا ہے وہاں چلے جائیں اور اس جگہ پہنچنے سے پہلے یہ خط نہ پڑھیں اور یہ بھی فرمایا اپنے ساتھ کسی کو آگے جانے پر مجبور نہ کرنا۔ چنانچہ جب حضرت عبد اللہ بن جحشؓ اس جگہ پہنچے تو انہوں نے وہ خط پڑھا اور خط پڑھ کر انا لله وانا اليه راجعون پڑھی اور یہ کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی بات سنوں گا اور مانوں گا۔ ان کے ساتھیوں میں سے دو حضرات واپس چلے گئے اور باقی سب ان کے ساتھ آگے گئے۔ ان حضرات کو لندن الحضرمی ملا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ واقعہ رجب کا ہے یا جمادی الثانی کا مشرکوں نے کہا مسلمانوں نے شہر حرام یعنی رجب میں قتل کیا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی: **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ فِيهِ كَبِيرٌ** سے لے کر **وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ** تک۔ اس پر بعض

۱۔ اخرجه البيهقي (ج ۹ ص ۵۸) من طريق ابن اسحاق عن يزيد بن رومان واخرج ابو نعيم هذه القصة من طريق ابى سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس مطولة و كذا اخرجه الطبري من طريق اسباط بن نصر عن السدي كما في الاصابة (ج ۳ ص ۲۷۸)



مسلمانوں نے کہا اگرچہ اس جماعت والوں نے کام تو اچھا کیا ہے لیکن انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يُرْجَوْنَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** ﴿۱۰۰﴾

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا کوئی بھی راستہ میں عصر کی نماز نہ پڑھے بلکہ سب ہو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھیں (چنانچہ صحابہؓ ہو قریظہ کی طرف چل پڑے) بعض صحابہؓ ابھی راستہ میں ہی تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو بعض لوگوں نے کہا ہم تو عصر کی نماز وہاں ہو قریظہ پہنچ کر ہی پڑھیں گے اور بعض لوگوں نے کہا ہم تو یہاں راستہ میں ہی نماز پڑھ لیں گے کیونکہ حضور ﷺ کا مقصد (یہ تھا کہ ہم تیز چلیں) یہ نہیں تھا کہ راستہ میں چاہے وقت ہو جائے پھر بھی ہم نماز نہ پڑھیں۔ اس کا حضور ﷺ سے تذکرہ کیا گیا۔ حضور ﷺ نے ان دونوں قسم کے حضرات میں سے کسی کو بھی کچھ نہ کہا۔ ۱۰۰

حضرت کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ غزوہ خندق سے واپس ہوئے تو آپ نے (تہتیار اتار دیئے تھے پھر) دوبارہ تہتیار لگا لیے اور طہارت فرمائی۔ دجیم راوی کی حدیث میں یہ ہے کہ (حضور ﷺ نے غزوہ خندق سے واپس آکر تہتیار اتار دیئے تھے) پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے حاضر خدمت ہو کر کہا: لڑنے والے دشمن (ہو قریظہ) کے خلاف اپنے مددگار جمع کر لیں۔ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے تہتیار اتار دیئے ہیں حالانکہ ہم (فرشتوں) نے ابھی تک تہتیار نہیں اتارے۔ یہ سنتے ہی حضور ﷺ گھبرا کر اٹھے اور لوگوں کو بڑی تاکید سے یہ حکم دیا کہ وہ سب ہو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں۔ چنانچہ صحابہؓ تہتیار لگا کر چل پڑے اور ہو قریظہ پہنچنے سے پہلے ہی سورج غروب ہونے لگا۔ اس پر صحابہؓ کا نماز عصر کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا نماز پڑھ لو۔ حضور ﷺ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ تم نماز (وقت پر پڑھنا) چھوڑ دو اور کچھ لوگوں نے کہا حضور ﷺ نے ہمیں بہت زور سے یہ تاکید فرمائی تھی کہ ہم ہو قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھیں اس لئے ہم حضور ﷺ کا حکم مان کر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں لہذا ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک جماعت نے راستہ میں عصر کی نماز ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں پڑھ لی اور دوسری جماعت نے نہ پڑھی بلکہ ہو قریظہ پہنچ کر سورج غروب ہونے کے بعد ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں پڑھ لی۔ حضور ﷺ نے (معلوم ہونے پر) دونوں جماعتوں میں سے

کسی کو کچھ نہ کہا۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ نے جنگ حنین کے دن دیکھا کہ لوگ میدان چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فرمایا اے عباسؓ! زور سے یہ آواز لگاؤ اے انصار کی جماعت! اے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت ہونے والو! (چنانچہ حضرت عباسؓ نے زور سے یہ آواز لگائی) جس پر انصار نے فوراً جواب میں کہا لبیک۔ حاضر ہیں لبیک۔ حاضر ہیں (اور آواز کی طرف آنے لگے) بعض صحابہؓ نے اپنی سواری کو آواز کی طرف موڑنا چاہا لیکن گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے وہ سواری نہ مڑ سکی تو وہ اس سواری سے اتر گئے اور سواری کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور زرہ کو اتار پھینکا اور تلوار اور ڈھال لے کر اس آواز کی طرف تیزی سے چل پڑے۔ اس طرح حضور ﷺ کے پاس ان میں سے سو آدمی جمع ہو گئے تو آپ نے دشمن کے حالات کا اندازہ لگائے بغیر ہی ان سے جنگ شروع کر دی اور بڑے گھسان کی لڑائی ہوئی۔ پہلی آواز تو انصار کے لئے لگوائی تھی۔ آخر میں خزرج قبیلہ کے لئے آواز لگوائی کیونکہ یہ لوگ جم کر لڑنے والے تھے پھر حضور ﷺ نے اپنی سواروں کی طرف جھانکا تو آپ کی نظر اس جگہ پڑی جہاں خوب زور شور سے تلواریں چل رہی تھیں اس پر آپ نے فرمایا اب تنور گرم ہوا ہے یعنی خوب گھسان کارن پڑا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں (ان سو آدمیوں نے جنگ کی اور اللہ نے فوراً فتح عطا فرمادی) اللہ کی قسم! بھاگ کر جانے والے لوگ ابھی واپس نہیں آئے تھے کہ کافر قیدی حضور ﷺ کے پاس گرفتار ہو کر پہنچ چکے تھے۔ ان قیدیوں کے ہاتھ پیچھے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ کافروں میں بہت سے قتل ہوئے اور باقی سب شکست کھا کر بھاگ گئے اور ان کافروں کا سارا مال، سامان آل اولاد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو بطور غنیمت کے دے دیا۔

حضرت عباسؓ اسی حدیث کو اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے (مجھ سے) فرمایا اے عباس! کیکر (کے درخت کے نیچے بیعت ہونے والوں کو آواز لگا کر بلاؤ) (چنانچہ میں نے آواز لگائی تو) وہ میری آواز سن کر ایسی تیزی سے مڑے جیسے گائے اپنے مچھرنے کی طرف پلٹی ہے اور وہ سب یا لبیکہا یا لبیکہا کہہ رہے تھے۔

حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ نے (حدیبیہ میں) مکہ والوں سے صلح کی تو

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الہیثمی (ج ۶ ص ۱۴۰) رجالہ رجال الصحیح غیر ابن ابی الہذیل و هو ثقة ۱۵ و اخرجہ البیہقی نحوہ عن عبید اللہ بن کعب بن مالک و من حدیث عائشہ ۱ طول منہ کما فی البدایہ (ج ۴ ص ۱۱۷) ۲۔ اخرجہ البیہقی ۳۔ عند ابن وہب و رواہ مسلم عن ابن وہب کذا فی البدایہ (ج ۴ ص ۲۳۱) وقد اخرج ابن سعد (ج ۴ ص ۱۱) حدیث العباس بطولہ فذکر نحوہ.

قبیلہ خزاعہ والے زمانہ جاہلیت سے ہی حضور ﷺ کے حلیف چلے آ رہے تھے اور قبیلہ بنو بکر والے قریش کے حلیف تھے۔ اس لئے حضور ﷺ کی صلح کے اندر قبیلہ خزاعہ والے بھی آگئے اور قریش کی صلح میں بنو بکر داخل ہو گئے۔ قبیلہ خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان پہلے سے لڑائی چلی آرہی تھی اس صلح کے بعد قریش نے ہتھیار اور غلہ سے بنو بکر کی مدد کی اور بنو بکر نے خزاعہ پر اچانک چڑھائی کر دی اور ان پر غالب آکر ان کے کچھ آدمی قتل کر دیئے اس پر قریش کو یہ ڈر ہوا کہ وہ صلح کو توڑ چکے ہیں اس لئے انہوں نے ابو سفیان سے کہا محمد (ﷺ) کے پاس جاؤ اور پورا زور لگاؤ کہ یہ معاہدہ برقرار رہے اور صلح باقی رہے۔ ابو سفیان مکہ سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ابو سفیان تمہارے پاس آیا ہے اس کا کام بنے گا تو نہیں لیکن یہ خوش ہو کر واپس جائے گا۔ چنانچہ ابو سفیان حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور ان سے کہا اے ابو بکرؓ! آپ اس معاہدہ کو برقرار اور صلح کو باقی رکھیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا اس کا اختیار مجھے نہیں بلکہ اس کا اختیار تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ہے۔ پھر وہ حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس گئے اور ان سے انہوں نے وہی بات کہی جو حضرت ابو بکرؓ سے کہی تھی۔ حضرت عمرؓ نے کہا تم نے تو خود ہی صلح توڑی ہے اور اب جو صلح نبی ہوا سے خدا پرانا کرے اور جو صلح سخت اور پرانی ہو اسے خدا توڑ دے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا میں نے تم جیسا اپنے قبیلہ کا دشمن کوئی نہیں دیکھا۔ پھر وہ حضرت فاطمہؓ کے پاس آئے اور ان سے کہا اے فاطمہؓ! کیا تم ایسا کام کرنے کو خوشی تیار ہو جس سے تم اپنی قوم کی عورتوں کی سردار بن جاؤ پھر ان سے وہی بات کہی جو حضرت ابو بکرؓ سے کہی تھی۔ حضرت فاطمہؓ نے کہا اس کا اختیار مجھے نہیں ہے بلکہ اس کا اختیار تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ہے۔ پھر انہوں نے حضرت علیؓ کے پاس جا کر وہی بات کہی جو حضرت ابو بکرؓ سے کہی تھی۔ حضرت علیؓ نے ان سے کہا میں نے تم سے زیادہ بھڑکا ہوا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ تم تو خود اپنے قبیلہ کے سردار ہو اس لئے تم اس معاہدہ کو برقرار رکھو اور اس صلح کو باقی رکھو (کسی کو مت توڑنے دو) اس پر ابو سفیان نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مار کر کہا میں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے پناہ دی۔ پھر مکہ واپس چلا گیا اور وہاں والوں کو سارا حال بتایا۔ انہوں نے کہا آپ جیسا قوم کا نمائندہ آج تک نہیں دیکھا اللہ کی قسم! آپ نہ تو لڑائی کی خبر لائے ہیں کہ ہم چوکنے ہو کر اس کی تیار کرتے اور نہ صلح کی خبر لائے ہیں کہ ہم جنگ سے مطمئن ہو کر آرام سے بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد آگے فتح مکہ کا قصہ بیان کیا۔

حضرت مصعب بن عمیرؓ کے بھائی حضرت ابو عزیز بن عمیرؓ فرماتے ہیں میں جنگ بدر کے دن کافر قیدیوں میں تھا۔ حضور ﷺ نے صحابہؓ کو فرمایا تم ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کی میری طرف سے تم کو پوری تاکید ہے۔ میں انصار کی جماعت میں تھا۔ وہ جب بھی دن کو یارات کو کھانا سامنے رکھتے تو حضور ﷺ کی تاکید کی وجہ سے مجھے گندم کی روٹی کھلاتے اور خود بھجور کھاتے۔ ۱

حضرت عبدالرحمن بن ابی لہیٰؓ فرماتے ہیں ایک دن حضرت عبداللہ بن رواحہؓ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور ﷺ منبر پر خطبہ دے رہے تھے حضرت عبداللہ نے سنا کہ حضور ﷺ فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ وہیں مسجد سے باہر اسی جگہ بیٹھ گئے اور خطبہ ختم ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ جب حضور ﷺ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول ﷺ کی اطاعت کا شوق تمہیں اور زیادہ نصیب فرمائے۔ ۲

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ جمعہ کے دن منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا سب بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے مسجد کے باہر سے ہی حضور ﷺ کا یہ فرمان سنا کہ سب بیٹھ جاؤ اور وہیں قبیلہ بنو غنم کے محلہ میں ہی بیٹھ گئے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے آپ کو بیٹھ جاؤ فرماتے ہوئے سنا تو وہیں اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ ۳

حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے آپ نے لوگوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس وقت مسجد کی دروازے پر پہنچ چکے تھے یہ سنتے ہی وہیں بیٹھ گئے آپ نے ان سے فرمایا اے عبداللہ! اندر آ جاؤ ۴ حضرت جلد فرماتے ہیں ایک مرتبہ جمعہ کے دن حضور ﷺ جب منبر پر بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابن مسعودؓ یہ سنتے ہی مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ حضور ﷺ نے انہیں دیکھا کہ وہ دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے فرمایا اے عبداللہ بن مسعودؓ! اندر آ جاؤ ۵

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ ایک دن باہر تشریف لائے ہم بھی آپ ﷺ کے

۱ اخراجہ الطبرانی فی الکبیر والصغیر قال الہیثمی (ج ۶ ص ۸۶) اسنادہ حسن

۲ اخراجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۵۲) و اخراجہ البیہقی ایضا نحوہ عن

عبدالرحمن بسند صحیح کما فی الاصابة (ج ۲ ص ۳۰۲)

۳ اخراجہ ابن عساکر ایضا کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۵۱) وھکذا اخراجہ الطبرانی فی الاوسط

والبیہقی من حدیث عائشہ قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۱۶) و فیہ ابراہیم بن اسماعیل بن مجمع

وھو ضعیف وقال فی الاصابة (ج ۲ ص ۳۰۶) والمرسل اصح

۴ اخراجہ ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۵۶)

۵ اخراجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۵۵)

ساتھ تھے۔ آپ ﷺ نے ایک اونچا قبہ دیکھا تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ آپ ﷺ کے صحابہؓ نے عرض کیا فلاں انصاری کا ہے حضور ﷺ سن کر خاموش ہو رہے اور آپ ﷺ نے دل میں یہ بات رکھی کسی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے اور لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے سلام کیا۔ حضور ﷺ نے اعراض فرمایا (اور سلام کا جواب بھی نہ دیا) چند بار ایسے ہی ہوا (کہ وہ سلام کرتے حضور ﷺ اعراض فرما لیتے) آخر وہ سمجھ گئے کہ حضور ﷺ ناراض ہیں اس لئے اعراض فرما رہے ہیں انہوں نے صحابہؓ سے اس کی وجہ پوچھی اور یوں کہا اللہ کی قسم! میں آج اللہ کے رسول ﷺ کی نظروں کو پھر اہوا پاتا ہوں خیر تو ہے۔ صحابہؓ نے بتایا کہ حضور ﷺ باہر تشریف لائے تھے تو تمہارا قبہ دیکھا تھا۔ یہ سن کر وہ انصاری فوراً گئے اور قبہ کو گرا کر بالکل زمین کے برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی نہ رہا۔ (پھر آکر حضور ﷺ سے عرض بھی نہ کیا) ایک دن حضور ﷺ کا اس جگہ گزر ہوا تو آپ کو وہاں وہ قبہ نظر نہ آیا۔ آپ نے پوچھا اس قبہ کا کیا ہوا؟ صحابہؓ نے عرض کیا قبہ والے انصاری نے آپ کے اعراض کا ہم سے ذکر کیا تھا ہم نے اسے بتا دیا تھا انہوں نے آکر اسے بالکل گرا دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر وہ تعمیر جو سخت ضروری اور مجبوری کی ہو۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے اور لن ماجہ میں یہ روایت ذرا مختصر ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد کسی موقع پر حضور ﷺ کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضور ﷺ کو وہ قبہ وہاں نظر نہ آیا حضور ﷺ نے اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہؓ نے بتایا کہ جب ان انصاری کو یہ چلا تو انہوں نے اس قبہ کو گرا دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے۔ اللہ اس پر رحم کرے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں میں حضور ﷺ کے ساتھ قبہ اذخر گیا (یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے) میرے اوپر سرخ رنگ کی ایک چادر تھی۔ حضور ﷺ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ کیسا کپڑا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ حضور ﷺ کو یہ چادر پسند نہیں آئی۔ میں اپنے گھر واپس آیا۔ گھر والے تور میں آگ جلا رہے تھے میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی۔ پھر حضور ﷺ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے پوچھا اس چادر کا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے اسے تور میں ڈال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کیوں نہ دے دی؟ (عورتوں کے لئے اس رنگ کے کپڑے پہننے میں حرج نہیں ہے)۔

حضرت سہل بن حظلہؓ ہمیشگی فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا خیرم اسدی

بہت اچھا آدمی ہے اگر اس میں دو باتیں نہ ہوں ایک تو اس کی سر کے بال بہت بڑے ہیں دوسرے وہ لنگی ٹخنوں کے نیچے باندھتا ہے۔ حضرت خزیم کو حضور ﷺ کا یہ ارشاد پہنچا تو فوراً چاقولے کربال کو کانوں کے نیچے سے کاٹ دیئے اور لنگی آدھی پنڈلی تک باندھنا شروع کر دی۔ ۱

حضرت جثامہ بن مساق بن ربیع بن قیس کنانی حضرت عمرؓ کی طرف سے ہر قل کے پاس قاصد بن کر گئے تھے وہ فرماتے ہیں میں ہر قل کے پاس جا کر بیٹھ گیا میں نے خیال نہ کیا کہ میرے نیچے کیا ہے؟ میں کس پر بیٹھ رہا ہوں؟ وہ سونے کی کرسی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو فوراً اس سے اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا تو ہر قل ہنس پڑا اور اس نے مجھ سے پوچھا ہم نے یہ کرسی تمہارے اکرام کے لئے رکھی تھی تم اس سے کیوں اٹھ گئے؟ میں نے کہا میں نے حضور ﷺ کو اس جیسی چیزوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے۔ ۲

حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں ایک دن میرے ماموں جان میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہمیں آج حضور ﷺ نے ایک کام سے منع فرمایا ہے جو تمہارے نفع کا تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی بات ماننے میں ہمارا تمہارا زیادہ نفع ہے۔ پھر آگے زمین اجرت پر دینے کے بارے میں حدیث بیان فرمائی۔ ۳

قبیلہ بؤ حارث بن خزرج کے حضرت محمد بن مسلم بن بجرہؓ عمر رسیدہ بڑے میاں تھے وہ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ (اپنے گاؤں سے) مدینہ منورہ کسی کام سے جاتے اور بازار میں اپنا کام پورا کر کے اپنے گاؤں واپس آجاتے۔ جب اپنی چادر اتار کر رکھ دیتے تو انہیں یاد آتا کہ انہوں نے حضور ﷺ کی مسجد میں دو رکعت نماز نہیں پڑھی ہے حالانکہ حضور ﷺ نے ہم سے فرمایا تھا (اے قریب کے دیہات والو!) تم میں سے جو اس بستی (یعنی مدینہ منورہ) میں آئے وہ جب تک اس مسجد (نبوی) میں دو رکعت نماز نہ پڑھ لے اسے اپنے گاؤں واپس نہیں جانا چاہئے۔ چنانچہ یہ اپنی چادر لیتے اور مدینہ واپس جاتے اور حضور ﷺ کی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھتے۔ ۴

۱ اخراجه احمد و البخاری فی التاریخ و ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۵۹)

۲ اخراجه ابو نعیم کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۱۵) و اخراجه ابن مندہ نحوہ کما فی الاصابۃ (ج

۱ ص ۲۲۷) ۳ اخراجه عبدالرزاق کما فی کنز العمال (ج ۸ ص ۷۳)

۴ اخراجه الحسن بن سفیان و ابو نعیم فی المعرفة عن عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو

بن حزم کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۳۴۶) و اخراجه ابن مندہ وقال غریب و الطبرانی الا انه سماه

مسلم بن اسلم کما فی الاصابۃ (ج ۳ ص ۴۱۴)

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ فرماتے ہیں میں نے انصار کی ایک لڑکی سے منگنی کی اور پھر حضور ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اسے دیکھ لو۔ اس سے تم دونوں کے درمیان محبت اور جوڑ بڑھے گا۔ میں نے اس لڑکی کے گھر جا کر اس کے والدین سے اس کا تذکرہ کیا۔ وہ دونوں (حیران ہو کر) ایک دوسرے کو دیکھنے لگے (اور لڑکی دکھانے میں شرم محسوس کرنے لگے) اس لئے میں کھڑا ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ اس پر اس لڑکی نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ اور وہ خود پردے کے ایک طرف کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا اگر حضور ﷺ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ مجھے دیکھیں تو ضرور دیکھ لیں ورنہ میری طرف سے دیکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اسے دیکھا اور پھر میں نے اس سے شادی کی۔ میں نے جتنی عورتوں سے شادی کی ان میں سے سب سے زیادہ مجھے اسی سے محبت تھی اور اس کی قدر میری نگاہ میں سب سے زیادہ تھی، حالانکہ میں نے ستر عورتوں سے شادی کی ہے (ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں نہیں ہوتی تھیں) ۱۔

ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ربذہ بستنی میں حضرت ابو ذرؓ کو دیکھا کہ ان کے جسم پر ایک موٹی چادر تھی اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ویسی ہی موٹی چادر تھی۔ لوگوں نے کہا اے ابو ذرؓ! اگر آپ اپنے غلام والی چادر لے کر اپنی اس چادر کے ساتھ ملا کر خود پہن لیتے تو آپ کا جوڑا پورا ہو جاتا اور اپنے غلام کو کوئی اور کپڑا پہننے کو دے دیتے تو حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا ایک مرتبہ میں نے ایک آدمی کو گالی دی اور اس کی ماں عجمی تھی میں نے اسے ماں کے نام سے عار دلائی (یہ دوسرے آدمی حضرت بلالؓ تھے تو ان سے کہہ دیا کہ ہے نا جشن کا بیٹا) اس نے جا کر حضور ﷺ سے میری شکایت کر دی۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے ابو ذرؓ! تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت والی باتیں ہیں یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے تمہیں ان پر فضیلت دی ہے۔ لہذا جس غلام سے تمہاری طبیعت کا جوڑ نہ بیٹھے تم اسے بیچ دو اور اللہ کی مخلوق کو مت ستاؤ۔ بخاری، مسلم اور ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں اللہ نے انہیں تمہارا ماتحت بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کے بھائی کو اس کا ماتحت بنائیں تو اسے چاہئے کہ جو وہ خود کھاتا ہے اسی میں سے

اپنے ماتحت بھائی کو کھلائے اور جو وہ خود پہنتا ہے اسی میں سے اپنے بھائی کو پہنائے اور اسے ایسا کام نہ کہے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو اور اگر اسے ایسا کام کہہ دے تو پھر اس کی اس کام میں مدد کرے۔<sup>۱</sup>

## حضور ﷺ کے حکم کی خلاف کر نیوالے پر صحابہ کرامؓ کی سختی

حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں (میرے والد) حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ نے حضور ﷺ کی خدمت میں جا کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے جو کیں بہت پڑ جاتی ہیں اس لئے کیا آپ مجھے ریشم کا کرتہ پہننے کی اجازت دیتے ہیں؟ حضور ﷺ نے انہیں اجازت دے دی۔ جب حضور ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمرؓ خلیفہ بن گئے تو حضرت عبد الرحمنؓ اپنے بیٹے ابو سلمہ کو لے کر سامنے سے آئے ان کے بیٹے نے ریشم کا کرتہ پہنا ہوا تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اور اپنا ہاتھ کرتے کے گریبان میں ڈال کر اسے نیچے تک پھاڑ دیا۔ حضرت عبد الرحمنؓ نے ان سے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور ﷺ نے مجھے ریشم کی اجازت دے دی تھی؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا حضور ﷺ نے تمہیں اس لئے اجازت دی تھی کہ تم نے حضور ﷺ سے جوڑوں کی شکایت کی تھی۔ اب یہ اجازت صرف تمہارے لئے ہے تمہارے علاوہ اور کسی کے لئے نہیں ہے۔<sup>۲</sup>

حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ حضرت عمرؓ کے پاس آئے ان کے ساتھ ان کا بیٹا محمد بھی تھا جس نے ریشم کا کرتہ پہن رکھا تھا۔ حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر اس کرتے کے گریبان کو پکڑا اور اسے پھاڑ ڈالا۔ حضرت عبد الرحمنؓ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے آپ نے تو بچے کو ڈرا دیا اور اس کا دل اڑا دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا آپ بچوں کو ریشم پہناتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمنؓ نے کہا اس لئے کہ میں خود ریشم پہنتا ہوں حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا یہ بچے آپ کی طرح (جوڑوں کی کثرت کا شکار) ہیں؟<sup>۳</sup>

لین عسا کر اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولیدؓ حضرت عمرؓ کے پاس گئے۔ حضرت خالد نے ریشم کا کرتہ پہنا ہوا تھا۔ حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا اے خالد! یہ کیا پہن رکھا ہے؟ حضرت خالد نے کہا امیر المؤمنین! اس میں کیا حرج

۱ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۴۹۵) و آخرجہ البیہقی (ج ۸ ص ۷) عن المعورود نحوہ و ابن سعد (ج ۴ ص ۲۳۷) عن عون بن عبد اللہ مختصراً ۲ آخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۹۲) و ابن منیع ۳ عند ابن عیینہ فی جامعہ و مسدد و ابن جریر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۵۷)



ہے؟ کیا ان عوفؓ ریشم نہیں پہنتے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا تم ابن عوف کی طرح (جوڑوں کی کثرت میں مبتلا) ہو اور تمہیں بھی وہ فضائل حاصل ہیں جو ابن عوف کو حاصل ہیں؟ اس وقت اس گھر میں جتنے آدمی ہیں ان سب کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس کے سامنے اس کرتے کا جو نسا بھی حصہ ہے وہ اسے پکڑ کر پھاڑ ڈالے۔ چنانچہ سب نے اس کرتے کو اس طرح پھاڑ ڈالا کہ حضرت خالد کے جسم پر اس کا ایک ٹکڑا بھی نہ چلا۔

”حضرات صحابہ کرامؓ کا امر خلافت میں حضرت ابو بکرؓ کو مقدم سمجھنا عنوان کے ذیل میں حضرت صحیحہؓ کی حدیث گزر چکی ہے جس میں یہ ہے کہ حضور ﷺ کے انتقال کے ایک ماہ بعد حضرت خالد بن سعیدؓ (مدینہ منورہ) آئے۔ انہوں نے دیباچہ کار ریشمی جبہ پہن رکھا تھا ان کی حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے اس پاس کے لوگوں کو بلند آواز سے کہا اس کے جبہ کو پھاڑ دو کیا یہ ریشم پہن رہا ہے حالانکہ زمانہ امن میں ہمارے مردوں کے لئے اس کا استعمال درست نہیں ہے؟ چنانچہ لوگوں نے ان کا جبہ پھاڑ دیا۔

حضرت عبدہ بن لہبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطابؓ مسجد نبوی میں سے گزر رہے تھے۔ مسجد میں ایک صاحب کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے جنہوں نے سبز رنگ کی ایک چادر پہن رکھی تھی جس کی گھنٹیاں ریشم کی تھیں۔ آپ اس کے پہلو میں کھڑے ہو گئے اور اس سے فرمایا ارے میاں! جتنی چاہو لمبی نماز پڑھ لو جب تک تمہاری نماز ختم نہیں ہو جائے گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب اس آدمی نے یہ دیکھا تو نماز سے فارغ ہو کر حضرت عمرؓ کے پاس آیا تو حضرت عمرؓ نے اس سے فرمایا ذرا اپنا یہ کپڑا مجھے دکھاؤ اور پھر وہ کپڑا پکڑ کر اس کی ریشم والی تمام گھنٹیاں کاٹ دیں۔ پھر فرمایا لو اپنا کپڑا لے لو۔ ۱

حضرت سعید بن سفیان قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس نے وصیت کی کہ سو دینار اللہ کے راستہ میں خرچ کئے جائیں۔ میں حضرت عثمان بن عفانؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک قبائلی پہن رکھی تھی جس کے گریبان اور کالر پر ریشم کی کناری سلی ہوئی تھی جوں ہی ان صاحب نے مجھے دیکھا تو پھاڑنے کے لئے مجھ سے قبائلی پہن لگے۔ جب حضرت عثمانؓ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا اس آدمی کو چھوڑ دو۔ اس پر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر حضرت عثمانؓ نے فرمایا تم لوگوں

۱ کذا فی کنز العمال (ج ۸ ص ۵۷)

۲ اخرجہ ابن جریر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۵۷)

نے (قبائلی کھینچ کر) جلدی کی (یا تم لوگوں نے دنیا میں ریشم استعمال کر کے جلدی کی) پھر حضرت عثمانؓ سے میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس نے وصیت کی کہ اللہ کے راستہ میں سو دینار خرچ کئے جائیں۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ میں اس کی وصیت کس طرح پوری کروں؟ حضرت عثمانؓ نے فرمایا کیا تم نے مجھ سے پہلے کسی اور سے یہ بات پوچھی ہے؟ میں نے کہا نہیں تو انہوں نے فرمایا اگر تم مجھ سے پہلے کسی اور سے یہ بات پوچھتے اور وہ یہ جواب نہ دیتا جو میں دینے لگا ہوں تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا (کہ تم نے اس جاہل سے کیوں پوچھا) اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا حکم دیا تو ہم سب اسلام لے آئے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا تو ہم نے ہجرت کی چنانچہ ہم اہل مدینہ ہماجر ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا تو (اس زمانے میں) تم نے جہاد کیا تو تم اہل شام مجاہد ہو۔ تم یہ سو دینار اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر اور آس پاس کے ضرورت مندوں پر خرچ کر لو۔ کیونکہ اگر تم ایک درہم لے کر گھر سے نکلو اور پھر اس کا گوشت خریدو اور پھر اسے تم بھی کھا لو اور تمہارے گھر والے بھی کھالیں تو تمہارے لئے سات سو درہم کا ثواب لکھا جائے گا۔ (ضرورت کے وقت گھر والوں پر خرچ کرنے پر صدقہ کا ثواب ملتا ہے اسراف پر پکڑ ہوگی) پھر میں نے حضرت عثمانؓ کے پاس سے باہر آکر لوگوں سے پوچھا کہ وہ آدمی جو میرا جبہ کھینچ رہا تھا وہ کون تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالبؓ تھے میں ان کے گھر ان کی خدمت میں گیا اور میں نے عرض کیا آپ نے مجھ میں کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب میری امت عورتوں کی شرمگاہوں کو (یعنی زنا کو) اور ریشم کو حلال سمجھنے لگ جائے گی اور یہ پہلا ریشم ہے جو میں نے کسی مسلمان پر دیکھا ہے پھر میں نے ان کے پاس سے باہر آکر اس قبائلی کو پکڑ دیا۔<sup>۱</sup>

حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت قدامہ بن مظعونؓ کو بحرین کا گورنر بنایا۔ یہ حضرت عمرؓ کی صاحبزادی حضرت حصہؓ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہؓ کے ماموں تھے۔ بحرین سے قبیلہ عبدالمہس کے سردار حضرت جاردؓ حضرت عمرؓ کی خدمت میں آئے اور کہا اے امیر المؤمنین! حضرت قدامہ نے کچھ پی لیا جس سے انہیں نشہ ہو گیا۔ میں نے ایسا کام دیکھا ہے جس پر اللہ کی حد لازمی آتی ہے اسے آپ تک پہنچانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تمہارے ساتھ اور کون گواہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہؓ۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو بلایا اور ان سے فرمایا

تم کیا گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے ان کو پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا البتہ نشہ میں دیکھا کہ تے کر رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا آپ نے گواہی دینے میں بہت باریکی سے کام لیا ہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے خط لکھ کر حضرت قدامہ کو عرین سے مدینہ بلایا۔ چنانچہ وہ مدینہ آگئے تو حضرت جارود نے حضرت عمرؓ سے کہا ان پر کتاب اللہ کا حکم جاری کریں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا آپ مدعی ہیں یا گواہ؟ حضرت جارود نے کہا گواہ ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تو آپ گواہی دے چکے ہیں (اس لئے سزا دینے کا مطالبہ آپ نہیں کر سکتے ہیں) اس پر حضرت جارود خاموش ہو گئے لیکن اگلے دن صبح کو حضرت عمرؓ کے پاس آکر پھر ان سے کہا ان پر اللہ کی حد جاری کریں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا (آپ بار بار سزا کا تقاضا کر رہے ہیں اس لئے) میرے خیال میں آپ خود مدعی ہیں (گواہ نہیں ہیں) اور آپ کے ساتھ صرف ایک ہی گواہ ہے یعنی حضرت ابو ہریرہؓ (اور ایک گواہ سے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا) حضرت جارود نے کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں (کہ ان پر حد قائم کریں) حضرت عمرؓ نے فرمایا آپ اپنی زبان روک کر رکھیں نہیں تو (مار مار کر) آپ کا ہر حال کر دوں گا۔ حضرت جارود نے کہا اے عمرؓ! یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ شراب تو آپ کا چچا زاد بھائی ہے اور آپ سزا مجھے دیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا اے امیر المؤمنین! اگر آپ کو ہماری گواہی میں شک ہے تو آپ حضرت قدامہ کی بیوی حضرت بنت الولیدؓ کے پاس آوی بھج کر ان سے پوچھ لیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے حضرت بنت الولیدؓ کے پاس آوی بھجا اور قسم دے کر انہیں کہا کہ وہ ٹھیک بتائیں چنانچہ انہوں نے اپنے خاوند کے خلاف گواہی دی۔ حضرت عمرؓ نے حضرت قدامہ سے کہا اب تو میں آپ پر حد ضرور جاری کروں گا۔ حضرت قدامہ نے کہا اگر میں نے پی بھی ہے تو بھی آپ لوگ مجھ پر حد جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیوں؟ حضرت قدامہ نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا (سورت مائدہ آیت ۹۳)

ترجمہ: ”ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں جب کہ وہ لوگ پرہیز رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں، اور خوب نیک عمل کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کاروں سے محبت رکھتے ہیں۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا آپ اس آیت کا مطلب غلط سمجھے ہیں (اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ شراب حرام ہونے سے پہلے مسلمانوں نے جو شراب پی ہے اس میں گناہ نہیں ہے کیونکہ اس

زمانہ میں شراب حلال تھی لیکن اب تو شراب حرام ہو چکی ہے اس لئے اگر آپ اللہ سے ڈرتے تو اس کی حرام کردہ چیز یعنی شراب سے بچتے۔ پھر حضرت عمرؓ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا قدمہ کو کوڑے لگانے کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ جب تک یہ ہمارا ہیں انہیں کوڑے نہ لگائے جائیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے چند دن سکوت فرمایا۔ پھر ایک دن حضرت عمرؓ نے ان کو کوڑے لگانے کا پختہ ارادہ کر لیا تو پھر لوگوں سے پوچھا کہ اب قدمہ کو کوڑے لگانے کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا ہماری رائے اب بھی یہی ہے کہ جب تک یہ ہمارا ہیں انہیں کوڑے نہ لگائے جائیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ان کوڑوں کے لگنے سے اگر یہ مر جائیں تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ مجھے اس حال میں موت آئے کہ یہ حد میری گردن میں پڑی ہو۔ میرے پاس پورا اور مضبوط کوڑا لاؤ۔ (چنانچہ کوڑا لایا گیا) اور حضرت عمرؓ کے فرمان کے مطابق حضرت قدمہ کو کوڑے مارے گئے۔ اس پر حضرت قدمہ حضرت عمرؓ سے ناراض ہو گئے اور ان سے بات چیت چھوڑ دی۔ پھر حضرت عمرؓ حج کو گئے اور حضرت قدمہ بھی اس حج میں تھے اور وہ حضرت عمرؓ سے ناراض ہی تھے۔ یہ دونوں حضرات جب حج سے واپس ہوئے اور حضرت عمرؓ سقیانہ منزل پر اترے تو وہاں انہوں نے آرام فرمایا۔ جب نیند سے اٹھے تو فرمایا قدمہ کو جلدی سے میرے پاس لاؤ۔ اللہ کی قسم! میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جو مجھ سے کہہ رہا ہے قدمہ سے صلح کر لو کیونکہ وہ آپ کے بھائی ہیں اس لئے انہیں جلدی سے میرے پاس لاؤ۔ جب لوگ انہیں بلانے گئے تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا وہ جیسے بھی آتے ہیں انہیں لے کر آؤ (چنانچہ وہ آئے تو) حضرت عمرؓ نے ان سے گفتگو فرمائی (انہیں راضی کیا) اور ان کے لئے استغفار کیا۔

حضرت یزید بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعض ساتھیوں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جنازے کے ساتھ جا بھی رہا ہے اور ہنس بھی رہا ہے تو فرمایا کہ تم جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے بھی ہنس رہے ہو۔ اللہ کی قسم! میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔

ارشاد نبوی کینخلاف سرزد ہو جانے پر صحابہ کرام کا خوف و ہراس

۱۔ اخرجہ عبدالرزاق و اخرجہ ابو علی بن المسکن کذا فی الاصابۃ (ج ۳ ص ۲۲۹)

۲۔ اخرجہ البیہقی کذا فی الكنز (۸ ص ۱۱۶)

حضرت لمن عباسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے جنگ بدر کے دن اپنے صحابہؓ سے فرمایا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ بنو ہاشم اور بعض دوسرے قبیلوں کے لوگوں کو یہاں زبردستی لایا گیا ہے وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے لہذا تم میں سے جس کے سامنے بنو ہاشم کا کوئی آدمی آجائے تو وہ اسے قتل نہ کرے اور جس کے سامنے ابو العتری بن ہشام بن حارث بن اسد آجائے وہ اسے قتل نہ کرے اور جس کے سامنے عباس بن عبدالمطلب حضور ﷺ کے چچا آجائیں وہ انہیں قتل نہ کرے کیونکہ وہ بھی مجبور آئے ہیں۔ اس پر حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہؓ نے کہا ہم تو اپنے باپ بیٹوں اور بھائیوں کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں؟ اللہ کی قسم! اگر عباس میرے سامنے آگئے تو میں تو تلوار سے ان کے گلے کر دوں گا۔ حضور ﷺ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا ابو حفصؓ! حضرت عمرؓ کہتے ہیں اللہ کی قسم! یہ پہلا دن تھا جس دن حضور ﷺ نے میری کنیت ابو حفص رکھی (کنیت سے پکارنے کے بعد آپ نے فرمایا) کیا رسول اللہ کے چچا کے چہرے پر تلوار کا وار کیا جائے گا؟ حضرت عمرؓ نے کہا کیا رسول اللہ! مجھے اجازت دیں میں تلوار سے ابو حذیفہ کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کی قسم! وہ تو منافق ہو گیا ہے۔ (اس وقت جوش میں حضرت ابو حذیفہ یہ بات کہہ بیٹھے لیکن بعد میں) حضرت ابو حذیفہ نے کہا میں اس دن جو (غلط) بات کہہ بیٹھا تھا میں اب تک اپنے کو (عذاب خداوندی کے) خطرے میں محسوس کر رہا ہوں اور مجھ پر خوف طاری ہے اور میرے اس گناہ کا کفارہ صرف اللہ کے راستے کی شہادت ہی ہو سکتی ہے چنانچہ وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔

حضرت معبد بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے بنو قریظہ (کے یہودیوں) کا پیچس دن تک محاصرہ فرمایا یہاں تک کہ اس محاصرے سے وہ سخت پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تو ان کے سردار کعب بن اسد نے بنو قریظہ پر تین باتیں پیش کیں یا تو ایمان لے آؤ یا اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے اپنی موت کی تلاش میں قلعہ سے باہر نکل کر مسلمانوں سے میدان جنگ میں لڑو یا ہفتہ کی رات میں مسلمانوں پر شیخون مارو، بنو قریظہ نے (سردار کی تینوں باتوں سے انکار کرتے ہوئے) کہا ہم ایمان بھی نہیں لا سکتے اور (چونکہ ہفتہ کی رات میں دشمن پر حملہ کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے اس لئے) ہم ہفتہ کی رات میں لڑائی کو حلال قرار نہیں دے سکتے اور بچوں اور عورتوں کو خود قتل کر دینے کے بعد

۱۔ اخوجه ابن اسحاق کذا فی البدایة (ج ۳ ص ۲۸۴) و اخوجه ابن سعد (ج ۴ ص ۵) والحاکم (ج ۳ ص ۲۲۳) عن ابن عباس نحوه قال الحاکم صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجه۔

ہماری کیا زندگی ہوگی؟ یہ یہودی (زمانہ جاہلیت میں) حضرت ابو لبابہ بن عبد المذزر کے حلیف تھے۔ اس لئے انہوں نے ان کے پاس آدمی بھیج کر ان سے حضور ﷺ کے فیصلے پر اترنے کے بارے میں مشورہ مانگا۔ انہوں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ حضور ﷺ تمہارے ذبح کئے جانے کا فیصلہ کریں گے (اس وقت تو وہ حضور ﷺ کی بات بتا گئے لیکن بعد میں ان کو ندامت ہوئی جس پر وہ حضور ﷺ کی مسجد نبوی میں گئے اپنے آپ کو مسجد (کے ستون) سے باندھ دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یو قریظہ نے کہا اے ابو لبابہ! آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم کیا کریں؟ کیونکہ (حضور ﷺ سے) جنگ کرنے کی تو ہم میں طاقت نہیں ہے تو حضرت ابو لبابہ نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا اور حلق پر انگلیاں پھیر کر انہیں بتا دیا کہ مسلمان انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں (اس وقت تو وہ حضور ﷺ کا راز بتا گئے لیکن) جب حضرت ابو لبابہ وہاں سے واپس ہوئے تو انہیں بہت ندامت ہوئی اور وہ سمجھ گئے کہ وہ بڑی آزمائش میں آگئے اس لئے انہوں نے کہا میں اس وقت تک حضور ﷺ کے چہرہ انور کی زیارت نہیں کروں گا جب تک میں اللہ کے سامنے ایسی سچی توبہ نہ کر لوں کہ اللہ تعالیٰ بھی فرمادیں کہ واقعی یہ دل سے توبہ کر رہا ہے اور مدینہ واپس جا کر اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ لوگ بتلاتے ہیں کہ وہ تقریباً بیس دن بندھے رہے۔ جب حضرت ابو لبابہ حضور ﷺ کو کچھ عرصہ نظر نہ آئے تو حضور ﷺ نے فرمایا کیا ابو لبابہ ابھی تک اپنے حلیفوں (کے مشورے) سے فارغ نہیں ہوئے؟ اس پر لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے تو سزا کے طور پر خود کو مسجد کے ستون سے باندھ رکھا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ تو میرے بعد آزمائش میں آگئے اگر یہ (غلطی سرزد ہو جانے کے بعد) میرے پاس آجاتے تو میں ان کے لئے (اللہ سے) استغفار کرتا لیکن جب وہ خود کو سزا کے طور پر ستون سے باندھ چکے ہیں تو اب میں بھی انہیں نہیں کھول سکتا، اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت ثابت بن قیسؓ کو چند دن نہ دیکھا تو ان کے بارے میں دریافت فرمایا (کہ وہ کہاں ہیں؟) تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ابھی اس کا پتہ کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی حضرت ثابت کے پاس گئے تو دیکھا کہ

۱۔ اخروجه ابن اسحاق عن ابيه كذا في فتح الباري (ج ۷ ص ۲۹۱)

۲۔ ذكر في البداية (ج ۴ ص ۱۱۹) عن موسى بن عقبه وفي سيقاه قال ابن كثير و هكذا رواه ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروة و كذا ذكره محمد بن اسحاق في مغازيه.

وہ اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ ابرا  
 حال ہے۔ کیونکہ مجھے اونچی آواز سے یونے کی عادت ہے اور میری آواز حضور ﷺ کی آواز سے  
 اونچی ہو جاتی تھی (اور اب اس بارے میں قرآن کی آیات نازل ہو چکی ہیں جن کے مطابق)  
 میرے پہلے تمام اعمال برباد ہو چکے ہیں اور میں دوزخ والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ ان صحابی  
 نے حاضر خدمت ہو کر حضور ﷺ کو بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ بن انس راوی  
 کہتے ہیں حضور ﷺ نے ان صحابی سے فرمایا جا کہ حضرت ثلاث سے کہہ دو کہ تم جہنم والوں  
 میں سے نہیں ہو بلکہ جنت والوں میں سے ہو چنانچہ انہوں نے جا کر حضرت ثلاث کو یہ  
 زبردست بشارت سنائی۔

حضرت بنت ثلاث بن قیس بن شماسؓ فرماتی ہیں میں نے اپنے والد (حضرت ثلاث) کو یہ  
 فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضور ﷺ پر یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ  
 (سورۃ لقمان آیت ۱۸)

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے“ تو  
 اس آیت کے مضمون کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہو گئے اور دروازہ بند کر کے رونے لگے۔  
 جب حضور ﷺ کو اس کا پتہ چلا تو حضور ﷺ نے ان کے پاس آدمی بھیج کر اس کا سبب پوچھا۔  
 انہوں نے کہا کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو اللہ پسند  
 نہیں فرماتے ہیں (اور یہ خرابیاں مجھ میں ہیں کیونکہ) مجھے خوبصورتی اور جمال پسند ہے اور میں  
 چاہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں تم ان لوگوں میں سے  
 نہیں ہو (جن کو اللہ پسند نہیں کرتے) بلکہ تمہاری زندگی بھی اچھی ہوگی اور تمہیں موت بھی  
 اچھی حالت پر آئے گی اور تمہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے  
 رسولؐ پر یہ آیت نازل فرمائی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا  
 تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ (سورۃ الحجرات آیت ۲)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے  
 ایسے کھل کر بولا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو کبھی تمہارے  
 اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔“ تو پھر یہ پہلے کی طرح بہت پریشان ہوئے اور  
 دروازہ بند کر کے رونے لگ گئے۔ جب حضور ﷺ کو اس کا پتہ چلا تو حضور ﷺ نے ان کے  
 پاس آدمی بھیج کر اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی آواز اونچی ہے اور انہیں اس آیت

کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں ان کے اعمال برباد نہ ہو گئے ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں۔ تمہاری زندگی قابل تعریف ہوگی اور تمہیں شہادت کا مرتبہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔

حضرت محمد بن ثلث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضرت ثلث بن قیسؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو گیا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے روکا ہے کہ جو کام ہم نے نہیں کئے ان پر تعریف کئے جانے کو ہم پسند کریں اور میرا حال یہ ہے کہ میں اپنی تعریف کو بہت پسند کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکبر اور عجب سے منع فرمایا ہے اور میرا حال یہ ہے کہ مجھے خوبصورتی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی آواز سے اپنی آواز کو لوٹنا کرنے سے روکا ہے اور میری آواز بہت اونچی ہے (جو آپ کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے) حضور ﷺ نے فرمایا اے ثلث! کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ قابل تعریف زندگی گزارو اور تمہیں شہادت کا مرتبہ ملے اور اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! حضرت محمد بن ثلث کہتے ہیں حضور ﷺ کا فرمان پورا ہوا اور حضرت ثلث نے واقعی قابل تعریف زندگی گزار لی اور میلہ کذاب سے جنگ میں شہادت کا مرتبہ پایا۔

## صحابہ کرامؓ کا نبی کریم ﷺ کا اتباع کرنا

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ کا ایک بوریہ تھا جس کا رات کو حجرہ سبنا کر اس میں آپ نماز پڑھا کرتے اور دن کو اسے نکھا کر اس پر بیٹھ جاتے۔ آہستہ آہستہ لوگ بھی حضور ﷺ کے پاس آکر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے (یہ تراویح کی نماز تھی) جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے لوگو! تم اعمال اتنے اختیار کرو جتنے اعمال کی پابندی تمہارے بس میں ہے کیونکہ جب تک تم (عمل کرنے سے) نہیں اکتاؤ گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ (ثواب دینے کا سلسلہ نہیں روکیں گے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جو ہمیشہ ہو چاہے تھوڑا ہو اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت محمد ﷺ کے گھر والے

۱ عند الطبرانی عن عطاء الخراسانی قال الهیثمی (ج ۹ ص ۳۲۲) وبت ثابت بن قیس لم اعرفها وبقیة رجالہ رجال الصحیح و الظاهر ان بنت ثابت بن قیس صحابیة فانہا قالت سمعت ابی انتہی واخرجه الحاکم (ج ۳ ص ۲۳۵) عن عطاء عن ابنة ثابت بن قیس نحوه مختصرا .  
۲ قال الحاکم صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه بہذہ السیاقۃ وافقہ الذہبی



اور خصوصی تعلق والے جب کوئی عمل شروع کرتے ہیں تو پوری پابندی اور اہتمام سے اسے کرتے۔

حضرت انس بن مالکؓ نے حضور ﷺ کے ہاتھ میں ایک دن چاندی کی انگوٹھی دیکھی (اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھی) تو لوگوں نے انگوٹھیاں ہوا کر پہن لیں۔ بعد میں حضور ﷺ نے وہ انگوٹھی اتار دی تو لوگوں نے بھی اتار دیں۔ حضرت لحن عمرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ سونے کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے وہ اتار دی اور فرمایا آئندہ میں یہ انگوٹھی کبھی نہیں پہنوں گا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار دیں۔

حضرت سلمہؓ فرماتے ہیں (صلح حدیبیہ کے موقع پر) قریش نے خارجہ بن کرز کو مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لئے بھیجا تو اس نے واپس آکر مسلمانوں کی بڑی تعریف کی۔ اس پر قریش نے کہا تم دیہاتی آدمی ہو مسلمانوں نے تمہارے سامنے اپنے ہتھیاروں کو ذرا زور سے ہلایا جن کی آواز سے تمہار دل اڑ گیا (یعنی مرعوب ہو گیا) تو پھر مسلمانوں نے تم سے کیا کہا اور تم نے ان کو کیا کہا اس سب کا تم کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ پھر قریش نے عروہ بن مسعودؓ کو بھیجا (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) انہوں نے آکر کہا اے محمد ﷺ! یہ کیا بات ہے؟ آپ اللہ کی ذات کی طرف دعوت دیتے ہو اور مختلف قبیلوں کے گروے بڑے لوگوں کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئے ہو اور آپ ان میں سے بہت سوں کو جانتے ہو اور بہت سوں کو جانتے بھی نہیں ہو اور آپ ان لوگوں کے ذریعہ اپنی قوم سے قطع رحمی کرنا چاہتے ہو اور ان کی بے عزتی کر کے ان کا خون بہانا چاہتے ہو اور ان کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں تو اپنی قوم کے ساتھ صرف صلہ رحمی کرنے آیا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دین سے بہترین اور ان کی زندگی سے بہتر زندگی ان کو عطا فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے بھی واپس جا کر قریش کے سامنے مسلمانوں کی بڑی تعریف کی تو مشرکین کے ہاتھوں میں جو مسلمان قیدی تھے انہیں مشرکوں نے اور زیادہ تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں۔ حضور ﷺ نے حضرت عمرؓ کو بلا کر فرمایا اے عمرؓ! کیا (مکہ جا کر) تم اپنے مسلمان قیدی بھائیوں کو میرا پیغام پہنچانے کیلئے تیار ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! کیونکہ اللہ کی قسم! مکہ میں اب میرے خاندان کا کوئی آدمی باقی نہیں رہا۔ اس مجمع میں اور بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کا مکہ میں کافی

۱۔ اخرجه الشيخان كذا في الترغيب (ج ۵ ص ۸۹)

۲۔ اخرجه ابو داؤد و اخرجه البخاري بنحوه

۳۔ في الصحيحين كذا في البداية (ج ۶ ص ۳)

بڑا خاندان موجود ہے (اور خاندان والے اپنے آدمی کی حفاظت و حمایت کریں گے) چنانچہ حضور ﷺ نے حضرت عثمانؓ کو بلا کر مکہ مکرمہ پہنچ دیا۔ حضرت عثمانؓ اپنی سواری پر سوار ہو کر چلے اور مشرکوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مشرکوں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان سے برا سلوک کیا۔ پھر حضرت عثمانؓ کے چچا زاد بھائی لبان بن سعید بن عاص نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اپنے پیچھے زین پر بٹھالیا۔ جب حضرت عثمانؓ ان کے پاس پہنچے تو لبان نے ان سے کہا اے میرے چچا زاد بھائی! یہ کیا بات ہے؟ آپ مجھے بہت تواضع اور عاجزی والی شکل و صورت میں نظر آرہے ہو۔ ذرا لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکاؤ (تاکہ کچھ متکبرانہ شان پیدا ہو) انہوں نے آدمی پنڈلیوں تک لنگی باندھ رکھی تھی۔ حضرت عثمانؓ نے ان سے فرمایا (میں لنگی نیچے نہیں کر سکتا کیونکہ) ہمارے حضرت کا لنگی باندھنے کا یہی طریقہ ہے چنانچہ انہوں نے مکہ میں جا کر ہر مسلمان قیدی کو حضور ﷺ کا پیغام پہنچا دیا۔ ادھر ہم لوگ (حدیبیہ میں) دو پہر کو قیلولہ کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور ﷺ کے منادی نے زور سے اعلان کیا کہ بیعت ہونے کے لئے آجاؤ! بیعت ہونے کے لئے آجاؤ! روح القدس (حضرت جبرائیل علیہ السلام) آسمان سے تشریف لائے ہیں چنانچہ ہم سب لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اس وقت آپ کیکر کے درخت کے نیچے تھے اور ہم آپ سے بیعت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی واقعہ کا تذکرہ فرمایا: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبُوءُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

(سورت فتح: آیت ۱۸)

ترجمہ: ”بالتحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جب کہ یہ لوگ آپ سے درخت (سمرہ) کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔“ چونکہ اس وقت حضرت عثمانؓ مکہ میں تھے اور یہاں موجود نہیں تھے اس لئے حضور ﷺ نے ان کی بیعت کے لئے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا کہ یہ عثمانؓ کی بیعت ہو گئی۔ اس پر لوگوں نے کہا (حضرت عثمانؓ) ابو عبد اللہ کو مبارک ہو (کہ ان کے بغیر ہی ان کی بیعت ہو گئی اور ادھر) وہ بیعت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ہم یہاں ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں ہر گز نہیں چاہے کتنے سال گزر جائیں جب تک میں طواف نہیں کروں گا عثمانؓ ہر گز طواف نہیں کرے گا۔

لن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ لبان نے حضرت عثمانؓ سے کہا اے میرے چچا زاد بھائی!

۱۔ اخرجه ابن ابی شیبہ عن ایاس بن سلمة كذا في الكنز (ج ۱ ص ۸۴) واخرجه الروياني و ابو يعلى و ابن عساكر عن ایاس بن سلمة عن ابيه مختصرا كما في الكنز (ج ۸ ص ۵۶) واخرجه ابن سعد (ج ۱ ص ۴۶۱) عن ایاس بن سلمة عن ابيه مختصرا.

آپ نے بہت تو واضح والی شکل و صورت بنا رکھی ہے ذرا لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکاؤ جیسے کہ آپ کی قوم کا طریقہ ہے۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا نہیں۔ ہمارے حضرت اسی طرح آدھی پنڈلیوں تک لنگی باندھتے ہیں۔ بان نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی! بیت اللہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا جب تک ہمارے حضرت کوئی کام نہ کر لیں اس وقت تک ہم وہ کام نہیں کرتے۔ ہم تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں (اس لئے میں طواف نہیں کروں گا)

حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں جنگ یمامہ میں مسیلہ کذاب مارا گیا اور اس کا فتنہ اور اس کا لشکر ختم ہو گیا لیکن اس جنگ میں صحابہ کرامؓ بڑی تعداد میں شہید ہو گئے بالخصوص قرآن پاک کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی تو اس جنگ کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے مجھے بلایا۔ میں ان کی خدمت میں گیا تو وہاں ان کے پاس حضرت عمر بن خطابؓ بھی تھے حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا یہ (یعنی حضرت عمرؓ) میرے پاس آئے اور یوں کہا اس جنگ یمامہ میں قرآن کے حافظ بہت زیادہ تعداد میں شہید ہو گئے ہیں (ایک روایت کے مطابق اس جنگ میں چودہ سو صحابہؓ شہید ہوئے جن میں سے سات سو صحابہؓ حافظ تھے) مجھے یہ ڈر ہو رہا ہے کہ اگر آئندہ لڑائیوں میں یوں ہی قرآن کے حافظ بڑی تعداد میں شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن مجید کا اکثر حصہ جاتا رہے گا اس لئے میرا خیال یہ ہے کہ آپ سارا قرآن ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کر لیں (اس سے پہلے سارا قرآن حضور ﷺ کے زمانہ میں ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا بلکہ متفرق صحابہؓ کے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے لکھا ہوا تھا) میں نے حضرت عمرؓ سے کہا ہم اس کام کی جرات کیسے کریں جسے حضور ﷺ نے نہیں کیا ہے؟ حضرت عمرؓ نے مجھ سے کہا یہ کام سراسر خیر ہی خیر ہے۔ حضرت عمرؓ مجھ پر اصرار کرتے رہے اور ضرورت کا اظہار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی اس کام کے لئے شرح صدر کر دیا جس کے لئے حضرت عمرؓ کا شرح صدر کیا تھا اور میری رائے بھی حضرت عمرؓ کے موافق ہو گئی۔ حضرت زید کہتے ہیں اس وقت حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ کے پاس خاموش بیٹھے ہوئے تھے کچھ بات نہیں فرما رہے تھے پھر حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا تم جوان ہو سمجھدار ہو، تم پر کسی قسم کی بدگمانی بھی ہمیں نہیں اور تم حضور ﷺ کے فرمانے پر وحی لکھا کرتے تھے اس لئے تم ہی سارے قرآن کو ایک جگہ جمع کرو۔ حضرت زید کہتے ہیں اللہ کی قسم! اگر حضرت ابو بکرؓ مجھے کسی پہاڑ کے پتھر ادھر سے ادھر منتقل کرنے کا حکم دیتے تو یہ کام میرے لئے قرآن ایک جگہ جمع کرنے سے زیادہ بھاری اور مشکل نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا آپ حضرات ایسا کام کس طرح کر رہے ہیں جسے حضور ﷺ نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا یہ کام سراسر خیر ہی خیر ہے اور حضرت ابو بکرؓ بار بار

مجھے فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی اس بارے میں شرح صدر فرما دیا جس بارے میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کا فرمایا تھا اور میری رائے بھی ان دونوں حضرات کے موافق ہو گئی۔ پھر میں نے قرآن کو تلاش کرنا شروع کیا اور کاغذوں پر، سفید پتھروں پر، چوڑی ہڈیوں پر اور کھجور کی ٹہنیوں پر جو قرآن لکھا ہوا تھا اور جو قرآن حضرات صحابہؓ کے سینوں میں محفوظ تھا اس سب کو جمع کر دیا یہاں تک کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ سَلَّمَ لے کر سورت برأت کے آخر تک کی آیات مجھے صرف حضرت خزیمہ بن ثابتؓ کے پاس لکھی ہوئی ملیں اور کسی کے پاس نہ مل سکیں (یہ آیات زبانی تو بہت سے صحابہؓ کو یاد تھیں لیکن لکھی ہوئی کسی اور کے پاس نہیں تھیں۔ باقی قرآن کی ہر آیت کئی صحابہؓ کے پاس لکھی ہوئی ملی) پھر یہ صحیفے جن میں سارا قرآن ایک جگہ لکھا گیا تھا حضرت ابو بکرؓ کی زندگی میں ان کے پاس رہے پھر ان کی وفات کے بعد یہ صحیفے حضرت عمرؓ کے پاس ان کی زندگی میں رہے۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت حصہ بنت عمرؓ کے پاس رہے۔

پہلے حضرت ابو بکرؓ کا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! جس چیز پر حضور ﷺ نے جنگ کی ہے میں اسے چھوڑ دوں اس سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں آسمان سے (زمین پر) گر پڑوں۔ لہذا میں تو اس چیز پر ضرور جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے (زکوٰۃ دینے پر) عربوں سے جنگ کی یہاں تک کہ وہ پورے اسلام کی طرف واپس آگئے۔ بخاری، مسلم اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! جو آدمی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا (یعنی نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے) میں اس سے ضرور جنگ کروں گا کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے (جیسے کہ نماز جان کا حق ہے) اللہ کی قسم! اگر یہ لوگ ایک رسی حضور ﷺ کو دیا کرتے تھے اور اب مجھے نہیں دیں گے تو میں اس رسی کی وجہ سے بھی ان سے جنگ کروں گا (دین میں ایک رسی کے برابر کسی بھی برداشت نہیں کر سکتا) اور حضرت ابو بکرؓ کا یہ ارشاد بھی گزر چکا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں! اگر کتے، حضور ﷺ کی ازواج مطہرات کی ٹانگوں کو گھسیٹتے پھریں تو بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا جسے حضورؐ نے روانہ فرمایا تھا اور میں اس جھنڈے کو نہیں کھول سکتا جسے حضور ﷺ نے باندھا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت اسامہؓ کا لشکر روانہ فرمایا کہ حضرت عروہ کی روایت میں یہ بھی گزر چکا ہے کہ حضرت

۱ أخرجه الطيالسي و ابن سعد و حامد و البخاري و الترمذي و النسائي و ابن حبان وغيرهم

كذافي كنز العمال (ج ۱ ص ۲۷۹) ۲ رواه العدني عن عمر

ابو بکرؓ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر مجھے یقین ہو جائے کہ درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے تو بھی میں حضور ﷺ کے حکم کے مطابق اسامہؓ کے لشکر کو ضرور روانہ کروں گا چاہے آبادی میں میرے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے تو بھی میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا اور ایک روایت میں لئن عسا کرنے حضرت عروہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کیا میں اس لشکر کو روک لوں جسے حضور ﷺ نے بھیجا تھا؟ اگر میں ایسا کروں تو یہ میری بہت بڑی جسارت ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! سارے عرب مجھ پر ٹوٹ پڑیں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس لشکر کو جانے سے روک دوں جسے حضور ﷺ نے روانہ فرمایا تھا اے اسامہؓ! تم اپنے لشکر کو لے کر وہاں جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم ہوا تھا اور فلسطین کے جس علاقہ میں جا کر لڑنے کا حضور ﷺ نے تمہیں حکم دیا تھا وہاں جا کر اہل موتہ سے لڑو تم جنہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو اللہ ان کے لئے کافی ہیں۔ حضرت سیف نے حضرت حسنؓ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کی ڈاڑھی پکڑ کر کہا اے لئن خطاب! تیری ماں تجھے گم کرے حضور ﷺ نے تو انہیں امیر بنایا ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان کو ہٹا دوں یہ سب روایتیں (جلد اول میں) تفصیل سے گزر چکی ہیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں حضرت حصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عمرؓ سے کہا اے امیر المؤمنین! کیا یہی اچھا ہوتا اگر آپ اپنے ان (کھر درے) کپڑوں سے زیادہ نرم کپڑے پہنتے اور اپنے کھانے سے زیادہ عمدہ کھانا کھاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں بڑی وسعت عطا فرمادی ہے اور مال بھی پہلے سے زیادہ عطا فرمادیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تمہارے خلاف دلیل تم سے ہی مہیا کرتا ہوں۔ کیا تمہیں حضور ﷺ کی مشقت اور سختی والی زندگی یاد نہیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ ان کو حضور ﷺ کی تنگی کے واقعات یاد دلاتے رہے یہاں تک کہ وہ رونے لگیں پھر ان سے فرمایا مجھے یہ کہا ہے لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ جہاں تک میرا بس چلے گا میں مشقت اور تنگی والی حضور ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ دونوں حضرات جیسی زندگی گزاروں گا تاکہ مجھے آخرت میں نعمتوں اور راحتوں والی ان دونوں حضرات جیسی زندگی مل سکے۔ حضرت عمرؓ کے زہد کے باب میں اس بارے میں بہت سی مختصر اور لمبی روایتیں گزر چکی ہیں۔

۳۔ اخرجہ البیهقی عن ابی ہریرۃ۔

۴۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۴۸) و

اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۹۹) عن مصعب بن سعد بنحوہ۔

حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں ایک دن حضرت عمر بن خطابؓ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کھر درا کر تا پہننے لگے۔ جوں ہی وہ کرتا ہنسی کی ہڈی سے نیچے ہوا تو انہوں نے فوراً یہ دعا پڑھی: الحمد لله الذی کسانى ما اوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى. پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے یہ دعائیں پڑھی؟ ساتھیوں نے کہا نہیں۔ آپ بتائیں تو ہمیں پتہ چلے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ایک دن میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا آپ کے پاس نئے کپڑے لائے گئے جنہیں آپ نے پہنا پھر یہ دعا پڑھی: الحمد لله الذی کسانى ما اوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى. پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا! جس مسلمان بندے کو اللہ تعالیٰ نئے کپڑے پہنائیں اور وہ اپنے پرانے کپڑے کسی مسکین مسلمان بندے کو صرف اللہ کے لئے پہنادے تو جب تک اس مسکین بندے پر ان کپڑوں کا ایک دھاگہ بھی باقی رہے گا اس وقت تک یہ پہنانے والا اللہ کی حفاظت، پناہ اور ضمانت میں رہے گا چاہے زندہ ہو یا مر کر قبر میں پہنچ جائے۔ پھر حضرت عمرؓ نے اپنے کرتے کو پھیلا کر دیکھا تو آستین انگلیوں سے لمبی تھی تو حضرت عبد اللہؓ سے فرمایا اے میرے بیٹے! ذرا چوڑی چھری لانا وہ کھڑے ہوئے اور چھری لے آئے۔ حضرت عمرؓ نے آستین کو اپنی انگلیوں پر پھیلا کر دیکھا تو جو حصہ انگلیوں سے آگے تھا اسے اس چھری سے کاٹ دیا۔ ہم نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! کیا ہم کوئی درزی نہ لے آئیں جو آستین کا کنارہ سی دے۔ حضرت عمرؓ نے کہا نہیں۔ حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں بعد میں میں نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ کی اس آستین کے دھاگے ان کی انگلیوں پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ انہیں روک نہیں رہے تھے۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے نیا کرتا پہنا پھر مجھ سے چھری منگو کر فرمایا اے میرے بیٹے! میرے کرتے کی آستین کو پھیلاؤ اور میری انگلیوں کے کنارے پر دونوں ہاتھ رکھ کر جو انگلیوں سے زائد کپڑا ہے اسے کاٹ دو۔ چنانچہ میں نے چھری سے دونوں آستینوں کا زائد کپڑا کاٹ دیا (وہ چھری سے سیدھا نہ کٹ سکا اس لئے) آستین کا کنارہ ناہموار لوٹنا چھا ہوا گیا۔ میں نے ان سے عرض کیا اے لبا جان! اگر آپ اجازت دیں تو میں قینچی سے سر ہر کر دوں۔ انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے! ایسے ہی رہنے دو۔ میں نے حضور ﷺ کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ چنانچہ وہ کرتا حضرت عمرؓ کے بدن پر اسی طرح رہا یہاں تک کہ وہ پھٹ گیا اور میں نے کئی دفعہ اس کے دھاگے پاؤں پر گرتے ہوئے دیکھے۔

حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا سن لے اللہ کی قسم! مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں نے حضور ﷺ کو تیرا استلام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا استلام نہ کرتا (استلام یہ ہے کہ حجر اسود کو آدمی چومے یا اسے ہاتھ یا لکڑی لگا کر اسے چومے) پھر حجر اسود کا استلام کیا۔ اس کے بعد فرمایا ہمیں رمل سے کیا لینا؟ (رمل طواف کے پہلے تین چکروں میں اکر کر چلنے کو کہتے ہیں) ہم نے رمل مشرکوں کو اپنی قوت (دکھانے کے لئے) کیا تھا۔ اب اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا (لہذا اب بظاہر ضرورت نہیں ہے) پھر فرمایا رمل ایک ایسا کام ہے جسے حضور ﷺ نے کیا اس لئے ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ۱

ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں مجھے یہ معلوم ہے تم تو ایک پتھر ہو نہ نقصان دے سکتے ہو اور نہ نفع لور پھر حضور ﷺ نے اس کا بوسہ لیا۔ پھر (حضور ﷺ کے بعد) حضرت ابو بکرؓ نے حج کیا اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا مجھے یہ معلوم ہے کہ تم تو ایک پتھر ہو نہ نقصان دے سکتے ہو اور نہ نفع۔ اگر میں نے حضور ﷺ کو تمہارا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہارا بوسہ نہ لیتا۔ ۲

حضرت یعلیٰ بن امیہؓ فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمانؓ کے ساتھ طواف کیا تو ہم نے حجر اسود کا استلام کیا میں بیت اللہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب ہم مغربی رکن یعنی رکن عراقی کے قریب پہنچے جو کہ حجر اسود کے بعد آتا ہے تو میں نے ان کا ہاتھ کھینچا تاکہ وہ رکن عراقی کا استلام کریں تو انہوں نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ (میرا ہاتھ کیوں کھینچ رہے ہو) میں نے کہا کیا آپ اس رکن کا استلام نہیں کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نے حضور ﷺ کے ساتھ طواف نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا ہاں کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کیا تم نے انہیں ان دونوں مغربی رکنوں یعنی رکن عراقی اور رکن شامی کا استلام کرتے ہوئے دیکھا تھا میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا تم حضور ﷺ کا اتباع نہیں کرتے میں نے کہا کرتا ہوں تو پھر فرمایا اس کا استلام چھوڑو اور آگے چلو۔ ۳

حضرت بکر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دیہاتی نے حضرت لئن عباسؓ سے پوچھا یہ کی بات ہے؟ آئل معاویہ پانی میں شہد ملا کر پلاتے ہیں اور آئل قلاں دودھ پلاتے ہیں اور

۱۔ اخرجہ البخاری کذا فی البدایة (ج ۵ ص

۲۔ اخرجہ ابن ابی شیبۃ والدارقطنی فی العلل عن عیسیٰ بن طلحة

۳۔ اخرجہ احمد (ج ۱ ص ۷۰)

آپ لوگ نبیذ (پانی میں کچھ دیر کھجور یا کشمش پڑی رہے تو اسے نبیذ کہتے ہیں) پلاتے ہیں کیا آپ لوگ کنبوس ہیں (اللہ نے تو بہت دے رکھا ہے لیکن کنبوسی کی وجہ سے نبیذ پلاتے ہیں جو کہ سستی چیز ہے) یا سچ مچ آپ لوگ حاجت مند (اور غریب) ہیں؟ حضرت لنن عباسؓ نے فرمایا ہم لوگ نہ کنبوس ہیں اور نہ حاجت مند اور غریب۔ بلکہ نبیذ پلانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے۔ سواری پر آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی مانگا تو ہم نے اس سبیل کی نبیذ آپ کی خدمت میں پیش کی جسے آپ نے پی لیا اور فرمایا تم نے بہت اچھا انتظام کیا ہے ایسے ہی کرتے رہنا۔

حضرت جعفر بن تمام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے آکر حضرت لنن عباسؓ سے کہا ذرا یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو لوگوں کو کشمش کی نبیذ پلاتے ہیں کیا یہ سنت ہے جس کا آپ لوگ اتباع کر رہے ہیں یا آپ کو اس میں دودھ اور شہد سے زیادہ سہولت ہے؟ حضرت لنن عباسؓ نے فرمایا حضور ﷺ ایک مرتبہ میرے والد حضرت عباسؓ کے پاس آئے۔ حضرت عباسؓ لوگوں کو نبیذ پلا رہے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے بھی پلاؤ۔ حضرت عباسؓ نبیذ کے چند پیالے منگوائے اور حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کئے۔ حضور ﷺ نے ان میں سے ایک پیالہ لے کر اسے نوش فرمایا پھر فرمایا تم لوگوں نے اچھا انتظام کر رکھا ہے، ایسے ہی کرتے رہنا چونکہ حضور ﷺ نے نبیذ کے انتظام کو پسند فرمایا اور فرمایا تم نے اچھا انتظام کر رکھا ہے ایسے ہی کرتے رہنا تو اب حضور ﷺ کے اس فرمان کی وجہ سے نبیذ کے بجائے دودھ اور شہد کی سبیل کا ہونا میرے لئے باعث مسرت نہیں ہے۔

حضرت لنن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں میدان عرفات میں حضرت لنن عمرؓ کے ساتھ تھا جب وہ قیام گاہ سے چلے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا۔ وہ امام حج کی جگہ پر پہنچے اور اس کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی پھر انہوں نے جبل رحمت پر وقوف فرمایا۔ میں اور میرے ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے یہاں تک کہ (غروب کے بعد) جب امام عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوا تو ہم بھی حضرت لنن عمرؓ کے ساتھ وہاں سے چل پڑے۔ جب حضرت لنن عمرؓ اڑھارہین مقام سے پہلے ایک تنگ جگہ پہنچے تو انہوں نے اپنی سواری بٹھائی تو ہم نے بھی سواریاں بٹھادیں۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت لنن عمرؓ کے غلام نے جوان کی سواری کو تھامے ہوئے تھے اس نے کہا نہیں یہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے بلکہ انہیں یاد آ گیا ہے کہ حضور ﷺ جب اس جگہ پہنچے تھے تو آپ قضائے حاجت کے لئے رکے تھے اس



لئے یہ بھی یہاں قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں۔<sup>۱</sup>

حضرت لنن عمر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک درخت کے پاس جب پہنچتے تو اس کے نیچے دوپہر کو آرام فرماتے اور اس کی وجہ یہ بتایا کرتے کہ حضور ﷺ نے اس درخت کے نیچے دوپہر کو آرام فرمایا تھا۔<sup>۲</sup>

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت لنن عمر حضور ﷺ کے آثار و نشانات کا بہت زیادہ اتباع کیا کرتے تھے چنانچہ جس جگہ حضور ﷺ نے (دوران سفر) کوئی نماز پڑھی ہوتی وہاں حضرت لنن عمر ضرور نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضور ﷺ کے آثار کا ان کو اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ ایک سفر میں حضور ﷺ ایک درخت کے نیچے ٹھہرے تھے تو حضرت لنن عمر اس درخت کا بہت خیال رکھتے اور اس کی جڑ میں پانی ڈالتے تاکہ وہ خشک نہ ہو جائے۔<sup>۳</sup>

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضرت لنن عمر کے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے جب وہ ایک جگہ کے پاس سے گزرے تو راستہ چھوڑ کر ایک طرف کو ہو لیے۔ ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ راستہ کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو یہاں ایسے ہی کرتے دیکھا تھا اس لئے میں نے بھی ایسے ہی کیا۔<sup>۴</sup>

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت لنن عمر مکہ مکرمہ کے راستے میں (سیدھا نہیں چلتے تھے بلکہ کبھی راستے کے دائیں طرف) سواری کو موڑ لیا کرتے تھے (اور کبھی بائیں طرف) اور فرمایا کرتے تھے میں ایسا اس لئے کرتا ہوں تاکہ میری سواری کا پاؤں حضور ﷺ کی سواری کے پاؤں (والی جگہ) پر پڑ جائے۔<sup>۵</sup> حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس وقت حضرت لنن عمر حضور ﷺ کے نشانات قدم پر پاؤں رکھ کر چلا کرتے تھے اگر اس وقت تم انہیں دیکھ لیتے تو کہتے یہ تو مجنون ہیں۔<sup>۶</sup> حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور ﷺ نے اپنے اسفار میں جن مقامات میں قیام فرمایا ان کو جس طرح حضرت لنن عمر تلاش کرتے ہیں اس طرح کوئی بھی تلاش نہیں کرتا کہ حضرت عاصم احوال رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت لنن عمر میں اتباع سنت کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ جب ان کو کوئی حضور ﷺ کے

۱۔ اخرجہ احمد قال فی الترغیب (ج ۱ ص ۴۷) رواہ احمد ورواۃ محتج بہم فی الصحیح

۲۔ اخرجہ البزار باسناد لایاس بہ کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۴۶) وقال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۷۵) ورجالہ موثقون ۳۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی کنز العمال (ج ۷ ص ۵۹)

۴۔ اخرجہ احمد و البزار باسناد حید کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۴۶)

۵۔ عند ابی نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۱۰) ۶۔ عند ابی نعیم ایضا و اخرجہ

الحاکم (ج ۳ ص ۵۶۱) عن نافع نحوه ۷۔ عند ابی سعد (ج ۴ ص ۱۰۷)

نشانات قدم تلاش کرتا ہوا دیکھ لیتا تو وہ یہی سمجھتا کہ ان پر (جنون کا) کچھ اثر ہے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کسی اونٹنی کا چوہ کسی بیلبان جنگل میں گم ہو جائے تو وہ اپنے بچے کو اتنا زیادہ تلاش نہیں کر سکتی جتنا زیادہ حضرت لئن عمرؓ حضرت عمر بن خطابؓ کے نشانات قدم کو تلاش کیا کرتے تھے۔<sup>۱</sup>

حضرت عبدالرحمن بن امیہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لئن عمرؓ سے پوچھا کہ قرآن میں خوف کی نماز اور مقیم کی نماز کا ذکر تو ہمیں ملتا ہے لیکن مسافر کی نماز کا کوئی ذکر نہیں ملتا؟ حضرت لئن عمرؓ نے فرمایا ہم عرب والے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اجڈ اور کم علم تھے پھر اللہ نے اپنے نبی ﷺ کو مبعوث فرمایا تو ہم نے حضور ﷺ کو جیسے کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے (چنانچہ حضور ﷺ نے مسافر والی نماز پڑھی ہے تو ہم بھی پڑھیں گے مطلب یہ ہے کہ ہر حکم کا قرآن میں ذکر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ بہت سے احکام حضور ﷺ کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں)۔<sup>۲</sup> حضرت امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے پوچھا کہ خوف کی نماز کو قصر کرنے کا حکم تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ملتا ہے لیکن سفر کی نماز کو قصر کرنے کا حکم نہیں ملتا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کریم ﷺ کو جو کام بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم تو اسے ضرور کریں گے (اس کا قرآن میں مذکور ہونا ضروری نہیں ہے۔<sup>۳</sup>

حضرت وارد بن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں منیٰ میں میری ملاقات حضرت لئن عمرؓ سے ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا سفر میں نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا دو رکعتیں میں نے کہا اس وقت ہم لوگ منیٰ میں ہیں (ہماری تعداد بھی بہت ہے اور ہر طرح کا امن بھی ہے تو کیا یہاں بھی دو ہی رکعتیں پڑھی جائیں گی؟) اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے اس سوال سے انہیں بڑی گرانی ہوئی اور فرمایا تیرا اس ہو! کیا تم نے حضور ﷺ کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ سنا ہے اور میں ان پر ایمان بھی لایا ہوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا حضور ﷺ جب سفر میں تشریف لے جایا کرتے تو دو رکعت نماز پڑھا کرتے۔ اب تمہاری مرضی ہے چاہے دو رکعت نماز پڑھو چاہے چھوڑ دو۔<sup>۴</sup>

حضرت ابو ذیب جرش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت لئن عمرؓ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے: **اِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ (سورۃ نساء:**

۱ اخراجہ عبدالرزاق

۲ عند ابی نعیم (ج ۱ ص ۳۱۰)

۳ عند ابن جریر ایضاً

۴ عند ابن جریر

آیت (۱۰۱)

ترجمہ: "اور جب تم زمین میں سفر کرو سو تم کو اس میں کوئی گناہ نہ ہو گا کہ تم نماز کو کم کر دو اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم کو کافر لوگ پریشان کریں گے" (اب اللہ تعالیٰ نے نماز قصر کرنے کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ کافروں کے ستانے کا ڈر ہو اور) یہاں منیٰ میں اس وقت ہم لوگ بڑے امن سے ہیں کس قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہے تو کیا یہاں بھی ہم نماز کو قصر کریں؟ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا حضور ﷺ تمہارے لئے قابل تقلید نمونہ ہیں (لہذا جب انہوں نے منیٰ میں دو رکعت نماز پڑھی ہے تو تم بھی دو رکعت ہی پڑھو)۔

حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمرؓ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے کرتے کی گھنٹیاں کھلی ہوئی ہیں (نماز کے بعد) میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

حضرت قرہؓ فرماتے ہیں میں قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم آپ سے بیعت ہوئے۔ جب ہم آپ سے بیعت ہوئے اس وقت آپ کی گھنٹیاں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے آپ کے کرتے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر مہر نبوت کو چھوا۔ حضرت عروہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ (حضرت قرہ کے صاحبزادے) حضرت معاویہ کی اور حضرت معاویہ کے بیٹے کی گھنٹیاں گرمی سردی ہر موسم میں ہمیشہ کھلی رہا کرتی تھیں۔

حضور ﷺ کو اپنے صحابہؓ، گھر والوں، خاندان والوں اور

اپنی امت سے جو نسبت حاصل ہے اس نسبت کا خیال رکھنا

حضرت کعب بن عجرہؓ فرماتے ہیں ایک دن ہم لوگ مسجد نبوی میں حضور ﷺ کے (حجرے) کے سامنے ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے اس جماعت میں کچھ ہم انصاری، کچھ مہاجر اور کچھ بنی ہاشم کے لوگ تھے ہماری آپس میں اس بات پر بحث شروع ہو گئی کہ ہم

۱ عند ابن جریر ایضا کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۲۴۰)

۲ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه و البيهقي كذا في الترغيب (ج ۱ ص ۴۶)

۳ أخرجه ابن ماجه و ابن حبان في صحيحه واللفظه له عن عروة بن عبد الله بن قشير قال

حدثني معاوية بن قره عن ابيه كذا في الترغيب (ج ۱ ص ۴۵) وأخرجه ايضاً البيهقي و ابن السكّن

كما في الاصابة (ج ۳ ص ۲۳۳) وأخرجه ابن سعد (ج ۱ ص ۴۶۰) نحوه.

میں سے کون حضور ﷺ کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہے؟ ہم نے کہا ہم جماعت انصار حضور ﷺ پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے آپ کا اتباع کیا ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ ہو کر کئی مرتبہ (کافروں سے) لڑائی کی ہے۔ ہم حضور ﷺ کے دشمن کے مقابلہ میں حضور ﷺ کے لشکر کا دستہ ہیں لہذا ہم حضور ﷺ کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں اور ہمارے مہاجر بھائیوں نے کہا ہم نے اللہ اور رسول ﷺ کے ساتھ ہجرت کی اور ہم نے اپنے خاندانوں، گھر والوں اور مال و دولت کو (ہجرت کے لئے) چھوڑا (یہ ہماری امتیازی صفت اور خصوصی قربانی ہے جو آپ انصار کو حاصل نہیں ہے) اور ہم ان تمام مقامات پر حاضر تھے جہاں آپ لوگ حاضر تھے اور ان تمام جنگوں میں شریک ہوئے جن میں آپ لوگ شریک ہوئے لہذا ہم حضور ﷺ کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں اور ہمارے ہاشمی بھائیوں نے کہا (ہماری امتیازی صفت یہ ہے کہ) ہم حضور ﷺ کے خاندان کے لوگ ہیں اور ہم ان تمام مقامات پر حاضر تھے جہاں آپ لوگ حاضر تھے اور ان تمام جنگوں میں شریک ہوئے جن میں آپ شریک ہوئے لہذا ہم لوگ حضور ﷺ کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں۔ اتنے میں حضور ﷺ ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم لوگ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے حضور ﷺ کے سامنے اپنی بات عرض کی حضور ﷺ کو اپنے مہاجر بھائیوں کی بات بتائی حضور ﷺ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں ان کی اس بات کا کون انکار کر سکتا ہے پھر ہم نے حضور ﷺ کو اپنے ہاشمی بھائیوں کی بات بتائی حضور ﷺ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں ان کی اس بات کا کون انکار کر سکتا ہے پھر حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم لوگوں کا فیصلہ نہ کر دوں؟ ہم لوگوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ! ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا تم اے جماعت انصار! تو میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس پر انصار نے کہا اللہ اکبر! رب کعبہ کی قسم! ہم حضور ﷺ کو لے اڑے اور تم اے جماعت مہاجرین! میں تم میں سے ہوں۔ اس پر مہاجرین نے کہا اللہ اکبر! رب کعبہ کی قسم! ہم حضور ﷺ کو لے اڑے اور تم اے ہو ہاشم! تم میرے ہو اور میرے سپرد ہو۔ اس پر ہم سب راضی ہو کر کھڑے ہوئے اور ہم میں سے ہر ایک حضور ﷺ سے خصوصی تعلق حاصل ہونے کی وجہ سے بڑا خوش ہو رہا تھا۔

حضرت عبداللہ بن ابی لوفی فرماتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف نے حضور ﷺ سے

حضرت خالد بن ولیدؓ کی شکایت کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے خالد! جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ (اور یہ عبدالرحمنؓ بھی بدری ہیں) کیونکہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو بھی ان کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے ہو اس پر حضرت خالد نے کہا لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں میں انہیں ویسا ہی جواب دے دیتا ہوں۔ حضور ﷺ نے (صحابہؓ) سے فرمایا خالد کو تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کفار پر سونپا ہے۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولیدؓ کے درمیان تو تو میں میں ہو گئی تو حضرت خالد نے کہہ دیا اے ابن عوف! آپ میرے سامنے اس بات کی وجہ سے فخر نہ کریں کہ آپ مجھ سے ایک دو دن پہلے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ جب یہ بات حضور ﷺ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا میری وجہ سے میرے (بدری) صحابہؓ کو چھوڑے رکھو (انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ) کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! تم (غیر بدری صحابہؓ) میں سے کوئی بھی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تو ان کے آدھے مد کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا (آدھا مد سات چھٹانک یعنی آدھ کلو سے کم ہوتا ہے) اس کے بعد حضرت عبدالرحمن اور حضرت زبیرؓ میں کوئی تیز بات ہو گئی تو حضرت خالد نے کہا اے اللہ کے نبی ﷺ! آپ نے مجھے حضرت عبدالرحمن سے (بھگڑنے سے) روکا تھا اور یہ حضرت زبیر ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ دونوں بدری ہیں (درجہ میں برابر ہیں تمہارا درجہ کم تھا) اس لئے یہ آپس میں ایک دوسرے کو کچھ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے درمیان ایسی بات ہو گئی جیسی لوگوں میں ہو جایا کرتی ہے تو حضور ﷺ نے فرمایا میری وجہ سے میرے (بدری) صحابہؓ کو چھوڑے رکھو کیونکہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تو ان (بدری صحابہؓ) میں سے کسی ایک کے ایک مد بلکہ آدھے مد کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۹ ص ۳۴۹) رواه الطبرانی فی الصغیر و الکبیر باختصار والبیزار بنحوہ و رجال الطبرانی ثقات انتھی واخرجه ایضا ابن عساکر و ابو یعلیٰ کما فی الكنز (ج ۷ ص ۱۳۸) وابن عبدالبر فی الاستیعاب (ج ۱ ص ۴۰۹) عن عبداللہ بن ابی اوفیٰ مثله۔  
 ۲۔ عند ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۱۳۸) واخرجه احمد عن انس بنحوہ مختصراً  
 قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۱۵) ورجاله رجال الصحیح انتھی  
 ۳۔ عند البزار قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۱۵) ورجاله رجال الصحیح غیر عاصم بن ابی النجد

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ باقی تمام جہان والوں پر میرے صحابہؓ کو فضیلت عطا فرمائی اور پھر میرے لئے میرے صحابہؓ میں سے چار ابو بکر، عمر، عثمان اور علیؓ رحمہم اللہ کو چنا اور انہیں میرا خاص صحابی بنایا۔ ویسے تو میرے تمام صحابہؓ میں خیر ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور میری امت میں سے چار زمانے والوں کو چنا۔ پہلا زمانہ (خود حضور ﷺ کا) دوسرا زمانہ (حضرات صحابہ کرامؓ) تیسرا زمانہ (حضرات تابعین کا) چوتھا زمانہ (حضرات تبع تابعین کا)۔

حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آیا تو حضرات صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں کچھ وصیت فرما دیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا مہاجرین میں سے جو ساتھین اولین ہیں میں تمہیں ان کے ساتھ اور ان کے بعد ان کے بیٹوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر تم اس وصیت پر عمل نہیں کرو گے تو نہ تمہارا نقلی عمل قبول کیا جائے گا اور نہ فرض لے بزار کی روایت میں یہ ہے کہ میں ساتھین اولین کے ساتھ، ان کے بعد ان کے بیٹوں کے ساتھ اور ان کے بعد ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت سعدؓ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو بتا دیا کہ اب ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ گیا ہے تو آپ پرانے کپڑوں میں لپٹے ہوئے باہر تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ گئے لوگوں نے اور بازار والوں نے آپ کے بارے میں سنا کہ منبر پر تشریف فرما ہیں (تو وہ سب مسجد میں آگئے آپ نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا اے لوگو! اس قبیلہ انصار سے جو مجھے تعلق ہے اس کی ہمیشہ رعایت رکھو کیونکہ یہ لوگ میرے لئے معدہ کی طرح ہیں جس میں میں کھاتا ہوں اور یہ میرا صندوق ہیں یعنی ان سے مجھے خاص تعلق ہے میرے بہت سے راز ان کے پاس ہیں یہ میرے خاص معتمد لوگ ہیں لہذا تم ان کے نیک آدمی کے نیک عمل کو قبول کرو اور ان کے برے کو معاف کرو۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے سامنے ایک مرتبہ حضرت مالک بن دخنؓ کا ذکر

۱۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۶) ورجالہ ثقات وفي بعضهم خلاف

۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۷) رواہ الطبرانی فی الاوسط والبخاری

۳۔ رواہ البزار ورجالہ ثقات ۴۔ اخرجہ الطبرانی عن زید بن سعد قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۳۶) وزید بن سعد بن زید الاشہلی لم اعرفہ وبقیة رجالہ ثقات انتہی

ہوا تو کچھ لوگوں نے انہیں برا کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تو منافقوں کا سردار ہے حضور ﷺ نے فرمایا میرے صحابہؓ کو چھوڑے رکھو، میرے صحابہؓ کو برا بھلا مت کہو، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا جو میرے صحابہؓ کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ ۱

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ نے فرمایا میرے صحابہؓ کو برا بھلا مت کہو جو میرے صحابہؓ کو برا بھلا کہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ ۲

حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیلؓ فرماتے ہیں تم لوگ مجھے اپنے ساتھیوں کو برا بھلا کہنے کا حکم دے رہے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرما چکا اور ان کی مغفرت فرما چکا ہے۔ (اس لئے میں انہیں ہرگز برا نہیں کہوں گا) ۳

حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا آپ مجھے کچھ وصیت فرمادیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور رسول اللہ ﷺ کے صحابہؓ کا برائی سے تذکرہ کرنے سے ہمیشہ بچتے رہنا کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کارنامے انجام دے گئے ہیں۔ ۴

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے آخری بات یہ فرمائی کہ تم لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں میری نیات کرنا یعنی میرے بعد میری طرح ان کا خیال رکھنا۔ ۵

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسینؓ کو گود میں اٹھائے ہوئے حضور ﷺ کی خدمت میں آئیں ان کے ایک ہاتھ میں ایک ہانڈی تھی جس میں حضرت حسنؓ کے لئے گرم گرم کھانا تھا۔ حضرت فاطمہؓ نے جب وہ ہانڈی حضور ﷺ کے سامنے رکھ دی تو حضور ﷺ نے فرمایا ابو حسن یعنی حضرت علیؓ کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہؓ نے کہا گھر میں ہیں حضورؐ نے انہیں بلا لیا (جب وہ آگئے تو حضورؐ حضرت علیؓ حضرت فاطمہؓ، حضرت حسن اور حضرت حسینؓ (پانچوں مل کر)

۱۔ اخرجه البزار قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۲۱) رجاله رجال الصحیح اه

۲۔ عند الطبرانی قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۲۱) وفيه عبد الله بن فراش وهو ضعيف

۳۔ عند الطبرانی قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۲۱) رجاله رجال الصحیح غیر علی بن سهل وهو ثقة

۴۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۲۱) رواه الطبرانی فی الاوسط ورجاله رجال

الصحیح انتهى ۵۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۲۲) وفيه عمر بن عبد الله

الثقفی وهو ضعيف انتهى ۶۔ اخرجه الطبرانی فی الاوسط قال الهیثمی (ج ۹ ص ۱۶۳)

وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف انتهى

کھانے لگے اور حضور ﷺ نے مجھے کھانے کے لئے نہ بلایا حالانکہ اس سے پہلے جب بھی حضور ﷺ کھانا کھاتے تو مجھے ضرور بلاتے۔ کھانے سے فارغ ہو کر آپ نے ان سب پر اپنی چادر ڈال دی اور فرمایا اے اللہ! جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر اور جو ان سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کر۔<sup>۱</sup>

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا اے ابو عبدالمطلب! میں نے تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے تین چیزیں مانگی ہیں تم میں سے جو (دین پر) قائم ہے اللہ سے اس پر چنگلی عطا فرمائے اور تمہارے جاہل کو علم عطا فرمائے اور تمہارے بے راہ کو سیدھی راہ پر ڈال دے اور میں نے اللہ سے یہ بھی مانگا ہے کہ وہ تمہیں خوب سخی اور رحم دل بنائے اگر کوئی آدمی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑا ہو کر عبادت کرے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے (زندگی بھراتی بہترین عبادت کرتا رہے) لیکن مرتے وقت اس کے دل میں حضرت محمد (ﷺ) کے گھر والوں سے بغض ہو تو وہ (دوزخ کی) آگ میں داخل ہوگا۔<sup>۲</sup>

حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اولاد عبدالمطلب میں سے کسی کے ساتھ احسان کیا اور وہ اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا تو اس کا بدلہ میرے ذمہ ہے کل (قیامت کے دن) جب مجھ سے ملے تو لے لے۔<sup>۳</sup>

حضرت جلدؓ فرماتے ہیں جب حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کی صاحبزادی سے شادی کر لی تو میں نے سنا کہ وہ لوگوں کو فرما رہے ہیں تم مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن میرے سر الی رشتہ اور میرے نسب کے علاوہ ہر سر الی رشتہ اور ہر نسب ٹوٹ جائے گا (اور اس شادی سے مجھے حضور ﷺ کا سر الی رشتہ حاصل ہو گیا ہے اس لئے مجھے مبارکباد دو۔<sup>۴</sup>

حضرت محمد بن ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت قتادہ بن نعمان ظفیریؓ نے ایک

۱۔ اخرجه ابو يعلى قال الهيثمي ( ۹ ص ۱۶۷ ) واستاده جيد

۲۔ اخرجه الطبراني قال الهيثمي ( ج ۹ ص ۱۷۱ ) رواه الطبراني عن شيخه محمد بن زكريا الغلابي وهو ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات وقال يعتبر حديثه اذاروى عن الثقات خان في رواية عن المجاهيل بعض المناكير قلت روى هذا عن سفیان الثوري وبقية رجاله رجال الصحيح انتهى

۳۔ اخرجه الطبراني في الاوسط قال الهيثمي ( ج ۹ ص ۱۷۳ ) وفيه عبدالرحمن بن ابى الزناد وهو ضعيف انتهى ۴۔ اخرجه الطبراني قال الهيثمي ( ج ۹ ص ۱۷۳ ) رواه الطبراني في الاوسط والكبير باختصار ورجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة



مرتبہ قریش کی خدمت بیان کی اور ان کے خلاف بے کراہی کے یوں بول دیئے تو حضور ﷺ نے فرمایا اے قتادہ! قریش کو برا بھلا مت کہو کیونکہ تمہیں ان میں ایسے آدمی بھی نظر آئیں گے جن کے اعمال و افعال کے سامنے تمہیں اپنے اعمال و افعال حقیر نظر آئیں گے جب تم ان کو دیکھو گے تو ان پر رشک کرو گے۔ اگر مجھے قریش کے سرکش ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کے ہاں ان کا جو مقام ہے میں وہ ان کو بتا دیتا۔<sup>۱</sup>

حضرت علیؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کے جوار شادات مجھے معلوم ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش کو آگے رکھو۔ ان سے آگے نہ بڑھو۔ اگر مجھے قریش کے اترانے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ کے ہاں انہیں جو کچھ ملے گا وہ میں انہیں بتا دیتا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اگر مجھے قریش کے اترنے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ کے ہاں انہیں جو کچھ ملے گا وہ میں انہیں بتا دیتا۔<sup>۲</sup>

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا امانت داری کو قریش میں تلاش کرو کیونکہ قریش کے امانت دار آدمی کو دوسروں کے امانت دار پر ایک فضیلت حاصل ہے اور قریش کے طاقتور آدمی کو دوسروں کے طاقتور آدمی پر دو فضیلتیں حاصل ہیں۔<sup>۳</sup>

حضرت رفاعہ بن رافعؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا اپنی قوم کو جمع کرو میں انہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے انہیں حضور ﷺ کے گھر کے پاس جمع فرمایا اور اندر حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں انہیں اندر آپ کی خدمت میں لے آؤں یا آپ باہر ان کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں ان کے پاس باہر آؤں گا چنانچہ حضور ﷺ ان کے پاس باہر تشریف لائے اور ان سے فرمایا کیا تمہارے اس مجمع میں دوسری قوم کا بھی کوئی آدمی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ اس مجمع میں ہمارے علاوہ ہمارے حلیف، ہمارے بھانجے اور ہمارے غلام بھی ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہمارے حلیف ہمارے بھانجے اور غلام یہ سب ہم میں سے ہی ہیں۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کیوں نہیں

۱۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۲۳) رواہ احمد مرسلًا مسندًا اور رجال لفظ المسند علی المرسل و البزار کذا لک و الطبرانی مسند اور رجال البزار فی المسند رجال الصحیح و رجالہ احمد فی المسند و المرسل رجال الصحیح غیر جعفر بن عبد اللہ بن اسلم فی مسند احمد و ہو ثقہ و فی بعض رجال الطبرانی خلاف ۵۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۲۵) و فیہ ابو معشر و حدیثہ حسن ۳۔ عند احمد و رجالہ رجال الصحیح کما قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۲۵) اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۲۶) رواہ الطبرانی فی

سننے کہ اس (مسجد حرام) کے متولی بننے کے لائق صرف متقی لوگ ہیں۔ اگر تم لوگ متقی ہو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ تم لوگ سوچ لو، غور کر لو! ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اور لوگ اعمال لے کر آئیں اور تم لوگ گناہوں کا بوجھ لے کر آؤ اور پھر مجھے (تمہارے گناہ دیکھ کر) منہ دوسری طرف کرنا پڑ جائے پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے لوگو! قریش امانتدار لوگ ہیں اس لئے جو بھی ان کی خامیاں اور قصور تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نتھنوں کے بل دوزخ میں ڈالیں گے۔ یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔<sup>۱</sup>

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا عہد ہاشم اور انصار سے بغض رکھنا کفر ہے اور عرب سے بغض نفاق ہے۔<sup>۲</sup>

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ میرے پاس اندر تشریف لائے آپ فرما رہے تھے اے عائشہ! تمہاری قوم میری امت میں سے سب سے پہلے مجھ سے آملے گی۔ جب آپ بیٹھ گئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ! اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ اندر آتے ہوئے ایسی بات فرما رہے تھے جسے سن کر تو میں ڈر گئی۔ حضور ﷺ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ فرما رہے تھے کہ میری قوم آپ کی امت میں سے سب سے پہلے آپ سے آملے گی۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا ایسا کس وجہ سے ہو گا؟ آپ نے فرمایا موت ان کو ہلاک کرتی جائے گی اور اس زمانے کے لوگ ان سے حسد کریں گے۔ میں نے کہا ان کے بعد باقی لوگوں کا کیا حال ہو گا؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ چھوٹی بڈی کی طرح ہوں گے۔ طاقتور کمزور کو کھا جائے گا یہاں تک کہ ان ہی پر قیامت قائم ہوگی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ! لوگوں میں سے سب سے پہلے تمہاری قوم ہلاک ہوگی۔ میں نے عرض کیا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ کیا وہ سب زہر کھانے سے ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ موت انہیں ہلاک کرتی جائے گی اور اس زمانے کے لوگ ان سے حسد کریں گے۔ وہ لوگوں میں سے سب سے پہلے ہلاک ہوں گے۔ میں نے پوچھا ان کے بعد لوگ کتنا عرصہ دنیا میں رہیں گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا یہ لوگ تمام لوگوں کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جب یہ ہلاک ہو جائیں گے تو پھر باقی تمام لوگ بھی (جلد) ہلاک ہو جائیں گے۔<sup>۳</sup>

۱۔ أخرجه البزار قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۲۶) رواه البزار و اللفظ له و احمد باختصار و قال کسبه اللہ فی النار لوجهه و الطبرانی بنحو البزار و رجال احمد و البزار و اسناد الطبرانی ثقات انتہی۔

۲۔ أخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۲۷) رواه الطبرانی و رجاله ثقات انتہی۔  
 ۳۔ أخرجه احمد قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۲۸) رواه احمد و البزار ببعضه و الطبرانی فی الاوسط ببعضه ایضاً اسناد الروایة الا ولی عند احمد رجال الصحیح و فی بقیة الروایات مقال ۵۱۔

حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اتنے میں حضور ﷺ نے فرمایا بتاؤ ایمان والوں میں سب سے بہتر ایمان والا کون ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا فرشتے۔ آپ نے فرمایا وہ تو ہیں ہی ایسے اور انہیں اس طرح ہونا ہی چاہئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مرتبہ عطا فرما رکھا ہے کیا اس کے لحاظ سے ان کے لئے اس سے کوئی مانع ہے؟ فرشتوں کے علاوہ (بتاؤ) صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! فرشتوں کے بعد انبیاء علیہم السلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت سے نوازا۔ آپ نے فرمایا وہ تو ہیں ہی ایسے اور انہیں اس طرح ہونا ہی چاہئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مرتبہ عطا فرما رکھا ہے کیا اس کے لحاظ سے ان کے لئے اس سے کوئی مانع ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! (ان کے بعد تو) وہ شہداء ہیں جنہیں نبیوں کے ساتھ شہادت کا درجہ ملا۔ حضور ﷺ نے فرمایا وہ تو ہیں ایسے اور انہیں اس طرح ہونا ہی چاہئے اور جب انہیں اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے تو کیا اس کے لحاظ سے ان کے لئے اس سے کوئی مانع ہے؟ سب سے بہتر ایمان والے تو ان کے علاوہ اور لوگ ہیں صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اپنے آباؤ اجداد کی پشتوں میں ہیں۔ میرے بعد اس دنیا میں آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے اور میری تصدیق کریں گے۔ قرآن کے سپاروں کو لٹکا ہوا پائیں گے اور اس قرآن پر عمل کریں گے یہ لوگ ایمان والوں میں سب سے بہتر ایمان والے ہیں (بعد میں آنے والوں کو فضیلت صرف اس اعتبار سے ہے کہ یہ حضور ﷺ کو دیکھے بغیر ایمان لائے لہذا ان کا ایمان بالغیب زیادہ ہے ورنہ اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام امت میں سب سے افضل ہیں)۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا بتاؤ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بڑا مرتبہ مخلوق میں کس کا ہوگا؟ صحابہؓ نے عرض کیا فرشتوں کا۔ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں۔ اللہ کے اتنا قریب ہوتے ہوئے اس سے ان کے لئے کون سی چیز مانع ہے؟ ان کے علاوہ بتاؤ صحابہؓ نے عرض کیا نبیوں کا۔ حضور ﷺ نے فرمایا جب ان پر وحی نازل ہوتی ہے تو ان کے لئے اس مرتبہ کے حاصل ہونے سے کون سی چیز مانع ہے؟ ان کے علاوہ بتاؤ۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہی ہمیں بتادیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ وہ قرآن کے سپارے لٹکے

ہوئے پائیں گے اور اس پر وہ ایمان لائیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا مرتبہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ساری مخلوق میں سب سے بڑا ہو گا۔<sup>۱</sup>

حضرت ابو جعفرؓ فرماتے ہیں ایک دن ہم لوگوں نے حضور ﷺ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھلایا ہمارے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ بھی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور ہم نے آپ کے ساتھ جماد کیا کیا کوئی ہم سے بھی افضل ہو سکتا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو میرے بعد ہوں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔<sup>۲</sup>

حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا ایک مرتبہ خوشخبری ہو اس آدمی کے لئے جس نے مجھے دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اور سات مرتبہ خوشخبری ہو اس آدمی کے لئے جس نے مجھے دیکھا نہیں اور پھر مجھ پر ایمان لایا۔<sup>۳</sup>

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے ہر ایک اس بات کی تمنا کرے گا کہ میری زیارت کے بدلہ میں اپنے اہل و عیال کو مال و دولت کو فدیہ میں دے دے۔<sup>۴</sup> حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا میری بڑی تمنا ہے کہ کاش میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھ لیتا جو دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔<sup>۵</sup> ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میری اپنے بھائیوں سے ملاقات کب ہوگی؟ صحابہؓ نے عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا تم لوگ تو میرے صحابی (بھی) ہو (اور بھائی بھی ہو) میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔<sup>۶</sup> حضرت عمار بن یاسرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا میری امت کی مثال

۱۔ رواہ البزار قال الہیثمی الصواب انہ مرسل عن زید بن اسلم واحد اسنادی البزار المرفوع حسن انتہی  
۲۔ عند احمد قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۶۶) رواہ احمد و ابو یعلی والطبرانی باسناد واحد اسناد احمد رجالہ ثقات. انتہی

۳۔ عند احمد قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۶۷) رواہ احمد و الطبرانی باسناد واحد رجالہ رجال الصحیح غیر ایمن بن مالک الاشعری و هو ثقة. انتہی  
۴۔ اخرجه البزار قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۶۶) وفيه عبد الرحمن بن ابی الزنا ذو حدیثہ حسن وفيه ضعف وبقیۃ رجالہ ثقات. ۵۔

۶۔ عند احمد قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۶۶) رواہ احمد و ابو یعلی

۷۔ رواہ ابو یعلی قال الہیثمی وفي رجال ابی یعلی محتسب ابو عانید وثقہ ابن حبان وضعفہ ابن عدی و بقیۃ رجال ابی یعلی رجال الصحیح غیر الفضل بن الصباح و هو ثقہ وفي اسناد احمد جسرو هو ضعيف ورواه الطبرانی فی الاوسط ورجالہ رجال الصحیح غیر محتسب. انتہی

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نبی کریم ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ میری زندگی تمہارے لئے خیر ہے تم مجھ سے باتیں کرتے ہو (اور احکام شرعیہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہو) میں (تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لئے) تم سے بات کرتا ہوں اور میری وفات بھی تمہارے لئے خیر ہوگی (اور وہ اس طرح سے کہ) تمہارے اعمال مجھ پر پیش کئے جاتے رہیں گے۔ ان اعمال میں جو اچھے عمل مجھے نظر آئیں گے ان پر اللہ کی تعریف کروں گا (کہ اس کی توفیق سے ہوئے) اور جو برے عمل دیکھوں گا ان پر تمہارے لئے اللہ سے استغفار کروں گا۔ ۱۔

حضرت ابو بردہؓ فرماتے ہیں میں لندن زیاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس حضرت عبداللہ بن یزیدؓ بھی موجود تھے۔ اس کے پاس خارجیوں کے سر کاٹ کر لائے جانے لگے جب وہ کوئی سر لے کر گزرتے تو میں کہتا یہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن یزید نے فرمایا اے میرے بھتیجے ایسے نہ کہو کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے اس امت (کے گناہوں) کا عذاب دنیا میں ہوگا (یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ خارجی جو قتل ہو رہے ہیں تو اس دنیاوی سزا کے بعد ان کو آخرت میں عذاب نہ ہو) ۲۔ حضرت ابو بردہؓ فرماتے ہیں میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ (خوارج کو) بہت سخت سزا دے رہا ہے تو میں حضور ﷺ کے ایک صحابی کے پاس بیٹھ گیا انہوں نے کہا حضور ﷺ نے فرمایا ہے اس امت کی سزا (دنیا میں) تلوار سے (قتل کئے جانا) ہوگی۔ ۳۔

**مسلمانوں کے مال اور جان کا احترام کرنا**  
بارش کی طرح ہے جس کا پتہ نہیں چلتا کہ پہلے حصہ میں خیر ہے یا آخری حصہ میں؟

۱۔ اخرجه البزار قال الهیثمی (ج ۹ ص ۲۴) رواه البزار ورجاله رجال الصحیح . انتهى  
۲۔ اخرجه البیهقی کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۸۵) و اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۸ ص ۳۰۸)  
عن ابی بردة بنحوه ولفظه فی المرفوع ان الله جعل عذاب هذه الامة فی الدنيا القتل و اخرجه الطبرانی فی الکبیر و الصغیر باختصار والا وسط کذلک ورجاله الکبیر رجال الصحیح کما قال الهیثمی (ج ۷ ص ۲۲۵)

۳۔ عند الطبرانی قال الهیثمی (ج ۷ ص ۲۲۵) ورجاله رجال الصحیح .  
۴۔ عند احمد و البزار و الطبرانی قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۶۸) ورجاله البزار رجال الصحیح  
غیر الحسن بن قزعة و عبید بن سلیمان الا غروهما ثقتان و فی عبید خلاف یضرب . انتهى و اخرجه البزار و غیره عن عمران و الطبرانی عن ابن عمر کما فی المجموع (ج ۱۰ ص ۶۸) و قال ابن حجر فی الفتح هو حدیث حسن له طریق قدیر تقی بہالی الصححة قاله المناوی (ج ۵ ص ۵۱۷)

حضرت لئن عباسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے زمانے میں ایک آدمی قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہ چلا (یہ خبر سن کر) حضور ﷺ اپنے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے لوگو! یہ کی بات ہے؟ میں تم لوگوں میں موجود ہوں اور ایک آدمی قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اگر تمام آسمان والے اور زمین والے مل کر ایک مسلمان کو قتل کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں بے حد حساب عذاب دے گا۔<sup>۱</sup>

حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانے میں ایک آدمی قتل ہو گیا حضور ﷺ بیان کے لئے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر آپ نے تین مرتبہ پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تم سب کی موجودگی میں کس نے اسے قتل کیا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے! اگر تمام آسمانوں والے اور تمام زمین والے مل کر ایک مومن کو قتل کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا اور ہم سے یعنی ہمارے گھر والوں سے جو بھی بغض رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ اوندھے منہ آگ میں داخل کرے گا۔<sup>۲</sup>

حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ہمیں قبیلہ جہینہ کی شاخ ابو حرقہ کی طرف بھیجا ہم نے ان پر صبح صبح حملہ کیا ان میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جب وہ لوگ ہماری طرف بڑھتے تو وہ سب سے زیادہ سخت حملہ کرتا اور اور جب وہ پیچھے ہٹتے تو یہ ان کی حفاظت کرتا۔ میں نے اور ایک انصاری نے اسے گھیر لیا جب وہ ہمارے قابو میں آ گیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ یہ سن کر انصاری تورک گیا لیکن میں نے اسے قتل کر دیا جب حضور ﷺ کو اس واقعہ کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا اے اسامہؓ! کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس نے تو قتل سے بچنے کے لئے کہا تھا (مسلمان ہونے کے لئے نہیں کہا تھا) لیکن حضور ﷺ اپنے جملے کو بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ مجھے اس بات کی تمنا ہونے لگی کہ میں آج ہی مسلمان ہوتا (اور مجھ سے یہ گناہ نہ ہی ہوتا) لئن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ جب ہم لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں واپس پہنچے تو ہم نے آپ کو یہ بات بھی بتائی حضور ﷺ نے فرمایا اے اسامہؓ! جب تم سے اس لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس وقت کون تمہارا مددگار ہوگا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس نے تو یہ

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۷ ص ۲۹۷) رجالہ رجال الصحیح غیر عطاء بن ابی مسلم وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. انتهى  
 ۲۔ عند البزار قال الهیثمی (ج ۷ ص ۲۹۶) وفيه  
 ۳۔ اخرجه احمد و اخرجه البخاری و مسلم ايضا.

کلمہ صرف قتل سے بچنے کے لئے کہا تھا آپ نے فرمایا جب تم سے اس لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس وقت کون تمہارا مددگار ہوگا؟ اس ذات کی قسم جس نے حضور ﷺ کو حق دے کر بھیجا حضور ﷺ نے اس جملہ کو اتنی دفعہ دہرایا کہ میں تمنا کرنے لگا کہ میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا بلکہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا میں اسے قتل نہ کرتا۔ میں نے عرض کیا میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کسی انسان کو کبھی قتل نہیں کروں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے اسامہ! میرے بعد بھی میں نے عرض کیا آپ کے بعد بھی۔

حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں میں نے اور ایک انصاری آدمی نے مرد اس بن جہیک پر قابو پایا۔ جب ہم نے اس پر تلوار سونت لی تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ سن کر ہم رکے نہیں بلکہ اسے قتل کر دیا۔ آگے لکن اسحاق جیسی روایت ذکر کی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! اس نے تو کلمہ صرف ہتھیار کے ڈر سے پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا جس سے تمہیں پتہ چل جاتا کہ اس نے ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں۔ قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس وقت تمہارا مددگار کون ہوگا؟ حضور ﷺ نے اپنے جملے کو بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ تمنا ہونے لگی کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔

حضرت بحر بن حارثؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک جماعت بھیجی۔ میں بھی اس میں گیا۔ ہماری اور مشرکوں کی جنگ ہوئی میں نے ایک مشرک پر حملہ کیا تو اس نے اسلام کا اظہار کر کے جان چھانی چاہی میں نے اسے پھر بھی قتل کر دیا۔ جب حضور ﷺ کو یہ خبر پہنچی تو آپ ناراض ہوئے اور مجھے اپنے سے دور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وحی میں بھیجی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً (سورت نساء آیت ۹۲)

ترجمہ: "اور کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے لیکن غلطی سے" (چونکہ میں نے اسے غلطی سے قتل کیا تھا اس وجہ سے) حضور ﷺ نے مجھ سے راضی ہو گئے اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔

۱ کذا فی البدایہ (ج ۴ ص ۲۲۲) ۲ اخرجہ ابن عساکر

۳ اخرجہ ایضا ابوداؤد والنسائی والطحاوی وابن عوانہ و ابن حبان و الحاکم وغیر ہم کذا فی

کنز العمال (ج ۱ ص ۷۸) و اخرجہ البیہقی (ج ۸ ص ۱۹۲)

حضرت عقبہ بن خالد لیثیؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک جماعت بھیجی جس نے ایک کافر قوم پر چھاپہ مارا۔ ایک کافر آدمی نے زور سے حملہ کیا تو ایک مسلمان آدمی سوتی ہوئی تلوار لے کر اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب وہ مسلمان اس کافر کو مارنے لگا تو اس کافر نے کہا میں مسلمان ہوں۔ میں مسلمان ہوں اس مسلمان نے اس کی بات میں کچھ غور نہ کیا بلکہ تلوار مار کر اسے قتل کر دیا۔ ہوتے ہوتے یہ بات حضور ﷺ تک پہنچ گئی۔ حضور ﷺ نے اس قاتل مسلمان کے بارے میں سخت بات فرمائی جو اس قاتل تک پہنچ گئی۔ ایک دن حضور ﷺ خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں اس قاتل مسلمان نے کہا یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! اس نے تو صرف قتل سے بچنے کے لئے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ حضور ﷺ نے اس مسلمان سے اور اس طرف کے تمام لوگوں سے منہ پھیر لیا اور خطبہ دیتے رہے۔ اس مسلمان نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ! اس نے تو صرف قتل سے بچنے کے لئے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ حضور ﷺ نے اس مسلمان سے اور اس طرف کے تمام لوگوں سے منہ پھیر لیا اور خطبہ دیتے رہے لیکن اس مسلمان سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے تیسری مرتبہ وہی بات کہی تو اس دفعہ حضور ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے چہرے پر ناگواری صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے تین مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مومن کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک جماعت بھیجی جس میں حضرت مقداد بن اسودؓ بھی تھے۔ جب یہ لوگ کافروں تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ سب ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں البتہ ایک آدمی وہیں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور اس کے پاس بہت سامان تھا (مسلمانوں کو دیکھ کر) وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ حضرت مقداد نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ ان سے ان کے ایک ساتھی نے کہا کیا آپ نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا تھا؟ میں یہ بات حضور ﷺ کو ضرور بتاؤں گا۔ جب یہ لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں واپس پہنچے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ایک آدمی نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن اسے حضرت مقداد نے قتل کر دیا۔ حضور ﷺ نے

۱۔ اخرجہ الدولابی و ابن مندہ و ابو نعیم کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۳۱۶)

۲۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۷ ص ۲۹۳) رواہ ابو یعلیٰ و احمد باختصار الا انہ قال عقبہ بن مالک بدل عقبہ بن خالد و الطبرانی بطولہ و رجالہ رجال الصحیح غیر بشر بن عاصم اللیثی و هو ثقة انتہی و اخرجہ ایضا النسائی و البغوی و ابن حبان عن عقبہ بن مالک کما فی الاصابہ (ج ۲ ص ۴۹۱) و الخطیب فی المتفق و المفترق کما فی الكنز (ج ۱ ص ۷۹) عن عقبہ بن مالک نحو ما لیہقی (ج ۹ ص ۱۱۶) و ابن سعد (ج ۷ ص ۴۸) عن عقبہ بن مالک بنحوہ



فرمایا مقداد کو بلا کر میرے پاس لاؤ (جب حضرت مقداد آئے تو) حضور ﷺ نے فرمایا اے مقداد! کیا تم نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا تو کل کو لا الہ الا اللہ کے مطالبہ کے وقت تم کیا کرو گے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا أَوْلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى الْيَكْفُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَتَّبِعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَخَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ (سورت نساء آیت ۹۴)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام کو تحقیق کر کے کیا کرو اور ایسے شخص کو جو کہ تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کرے دنیاوی زندگی کے سامان کی خواہش میں یوں مت کہہ دیا کرو کہ تو مسلمان نہیں ہے کیونکہ خدا کے پاس بہت غنیمت کے مال ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا سو غور کرو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔“

پھر حضور ﷺ نے حضرت مقداد سے فرمایا وہ ایک مومن آدمی تھا جس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا لیکن وہ کافروں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے تمہارے سامنے اپنا ایمان ظاہر کیا تم نے اسے قتل کر دیا اور تم بھی تو پہلے مکہ میں اپنا ایمان چھپا کر رکھا کرتے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن ابی حدرد فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ہمیں مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ اضم مقام کی طرف بھیجا اس جماعت میں حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع اور محلم بن جثامہ بھی تھے۔ چنانچہ ہم لوگ مدینہ منورہ سے چلے اور اضم مقام کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ وہاں ہمارے پاس سے عامر بن اضبط اسمعی گزرے وہ اپنے اونٹ پر سوار تھے۔ ان کے ساتھ تھوڑا سا سامان اور دو دھ کا ایک مشکیزہ بھی تھا۔ انہوں نے ہمیں اسلام و الا سلام کیا۔ ہم تو سلام سن کر ان پر حملہ کرنے سے رک گئے لیکن حضرت محلم بن جثامہ نے ان پر حملہ کر کے اس عدوت کی وجہ سے اسے قتل کر دیا جو ان دونوں کے درمیان پہلے سے تھی۔ جب ہم حضور ﷺ کی خدمت میں واپس پہنچے تو ہم نے حضور ﷺ کو ساری کار گزاری سنائی اس پر ہمارے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى الْيَكْفُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَتَّبِعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَخَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (سورت نساء آیت ۹۴)

ترجمہ ابھی گزرا ہے۔ لہ

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت مخلم بن جثامہؓ کو ایک جماعت میں بھیجا۔ عامر بن اضبط ان لوگوں سے ملے اور انہوں نے ان کو اسلام والا سلام کیا عامر اور حضرت مخلمؓ کے درمیان زمانہ جاہلیت میں دشمنی تھی۔ حضرت مخلمؓ نے تیر مار کر عامر کو قتل کر دیا۔ یہ خبر حضور ﷺ تک پہنچی تو حضرت عیینہؓ نے (عامر کی حمایت میں) اور حضرت اقرعؓ نے (حضرت مخلمؓ کی حمایت میں) حضور ﷺ سے بات کی۔ چنانچہ حضرت اقرعؓ نے کہا یا رسول اللہ! آج تو آپ (حضرت مخلمؓ کو) معاف فرمادیں آئندہ نہ فرمادیں۔ حضرت عیینہؓ نے کہا نہیں نہیں۔ اللہ کی قسم! (بالکل معاف نہ فرمائیں بلکہ حضرت مخلمؓ سے بدلہ لیں) تاکہ میری عورتوں پر (عامر کے قتل ہونے سے) جو رنج و صدمہ آیا ہے وہی حضرت مخلمؓ کی عورتوں پر بھی آئے۔ اتنے میں حضرت مخلمؓ دو چادروں میں لپیٹے ہوئے آئے اور حضور ﷺ کے سامنے بیٹھ گئے تاکہ حضور ﷺ ان کیلئے استغفار فرمادیں لیکن حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تمہاری مغفرت نہ فرمائے (وہ یہ سن کر رونے لگے اور) وہ اپنی چادروں سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے وہاں سے کھڑے ہوئے اور سات دن نہیں گزرے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرامؓ نے ان کو دفن کر دیا لیکن زمین نے انہیں باہر پھینک دیا۔ صحابہؓ نے حضور ﷺ کی خدمت میں آکر یہ قصہ سنایا۔ حضور ﷺ فرمایا زمین تو ان سے بھی زیادہ برے کو قبول کر لیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ دکھا کر یہ چاہا کہ مسلمان کے احترام کے بارے میں تمہیں کئی نصیحت حاصل ہو پھر صحابہؓ نے ان کی نقش کو ایک پہاڑ کے دو کناروں کے درمیان رکھ دیا اور (چھپانے کیلئے) ان پر پتھر ڈال دیئے اور یہ آیت نازل ہوئی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَوَّأُوا ۝

حضرت قیسہ بن ذؤیبؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے ایک صحابی نے کافروں کی ایک جماعت پر چھاپہ مارا۔ اس جماعت کو شکست ہو گئی ان صحابی نے شکست کھا کر بھاگتے ہوئے ایک آدمی کا پیچھا کیا اور اس تک جا پہنچے جب اس پر تلوار کا وار کرنا چاہا تو اس آدمی نے کہا لا الہ الا اللہ لیکن یہ صحابی نہ رکنے اور اسے قتل کر دیا (وہ صحابی قتل تو کر بیٹھے لیکن بعد میں ان صحابی کو اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے اپنی ساری بات جا کر حضور ﷺ کو بتادی اور یہ عرض کیا اس

۱۔ اخروہ ابن اسحاق و ہکذا رواہ احمد من طریق ابن اسحاق کذا فی البدایة (ج ۴ ص ۲۲۴) والطبرانی كذلك قال الہیثمی (ج ۷ ص ۸) ورجاله ثقات والبیہقی (ج ۹ ص ۱۱۵) وکذلك ابن سعد (ج ۴ ص ۲۸۲) نحوه

۲۔ عند ابن جریر من طریق ابن اسحاق کذا فی البدایة (ج ۴ ص ۲۲۵)

نے صرف اپنی جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ دل کی ترجمانی زبان سے ہی کی جاتی ہے۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد ان قتل کرنے والے صاحب کا (غم اور صدمہ کی وجہ سے) انتقال ہو گیا۔ جب انہیں دفن کیا گیا تو صبح کے وقت زمین پر پڑے ہوئے طے (زمین نے انہیں باہر پھینک دیا) ان کے گھر والوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں آکر اس کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا انہیں دوبارہ دفن کر دو۔ دوبارہ دفن کیا گیا تو پھر صبح کے وقت زمین کے اوپر پڑے ہوئے طے۔ ان کے گھر والوں نے حضور ﷺ کو بتایا حضور ﷺ نے فرمایا زمین نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لہذا کسی غار میں ڈال دو۔

حضرت ابو جعفر محمد بن علیؑ فرماتے ہیں جب فتح مکہ ہو گیا تو حضور ﷺ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو دعوت دینے کے لئے بھیجا اور انہیں جنگ کرنے نہیں بھیجا ان کے ساتھ قبیلہ سلیم بن منصور، قبیلہ مدین بن مرہ اور بہت سے دوسرے قبیلے تھے۔ جب یہ حضرات قبیلہ بنو جذیمہ بن عامر بن عبد مناة بن کنانہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا تو انہوں نے اپنے ہتھیار اٹھائے۔ حضرت خالدؓ نے ان سے کہا آپ لوگ ہتھیار رکھ دیں کیونکہ سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں (آپ لوگ سارے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے) جب انہوں نے ہتھیار رکھ دیئے تو حضرت خالدؓ کے کہنے پر ان کی مشکیں کس لی گئیں (اور موٹھوں کے پیچھے ہاتھ باندھ دیئے گئے) پھر ان میں سے بہت سوں کو قتل کر دیا۔ جب یہ خبر حضور ﷺ تک پہنچی تو آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے اللہ! خالد بن ولیدؓ نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی بن ابی طالبؓ کو بلا کر فرمایا اے علیؑ! ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کے معاملہ میں غور کرو اور جاہلیت کی باتیں اپنے دونوں قدموں کے نیچے (زمین میں دفن) کر دو۔ حضرت علیؑ اپنے ساتھ بہت سامال لے کر ان لوگوں کے پاس گئے یہ مال حضور ﷺ نے ان کو دیا تھا۔ چنانچہ حضرت علیؑ نے ان کے تمام قتل ہونے والے افراد کا خون بہاوا کر دیا اور ان کا جتنا مال لیا گیا تھا اس کا بدلہ بھی دیا یہاں تک کہ کتے کے پانی پینے کا برتن کا بدلہ بھی دیا۔ جسے کہ اس قبیلہ کی طرف سے نہ خون کا مطالبہ رہا اور نہ کسی قسم کے مال کا۔ حضرت علیؑ کے پاس مال جمع گیا۔ فارغ ہو کر حضرت علیؑ نے ان سے فرمایا کیا ایسا جانی یا مالی نقصان رہ گیا ہے جس کا بدلہ تم لوگوں کو نہ ملا ہو؟ ان لوگوں نے کہا نہیں۔ حضرت علیؑ نے کہا ہو سکتا ہے کہ ایسا مالی یا جانی نقصان ابھی باقی ہو جسے نہ تم جانتے

ہو اور نہ اللہ کے رسولؐ اس لئے یہ جتنا مال باقی رہ گیا ہے یہ سارا مال میں آپ لوگوں کو احتیاطاً دے دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے باقی سارا مال بھی دے دیا اور واپس پہنچ کر حضور ﷺ کو ساری کارگزاری سنائی۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا اور اچھا کیا۔ پھر حضور ﷺ کھڑے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اتالا نچا اٹھایا کہ بغلوں کے نیچے کا حصہ نظر آنے لگ گیا۔ اور آپ نے تین دفعہ فرمایا اے اللہ! خالد بن ولیدؓ نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔

حضرت لئن عمرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو قبیلہ بنو جذیمہ کی طرف بھیجا۔ حضرت خالد نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی (وہ مسلمان تو ہو گئے لیکن) اطمیناناً (ہم مسلمان ہو گئے) نہ کہا صابانا صابانا (ہم نے دین بدل لیا) کہنے لگے حضرت خالد نے سب کو گرفتار کر کے ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک قیدی دے دیا۔ ایک دن جب صبح ہوئی حضرت خالد نے حکم دیا کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم! نہ میں اپنے قیدی کو قتل کروں گا اور نہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی کرے گا۔ ساتھیوں نے واپس پہنچ کر حضور ﷺ سے حضرت خالد کے اس فعل کا تذکرہ کیا۔ حضور ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دو مرتبہ فرمایا اے اللہ! جو کچھ خالد نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔ لئن اسحاق کہتے ہیں جو روایت مجھے پہنچی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت خالدؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی آپس میں اس بارے میں تیز گفتگو بھی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمنؓ نے حضرت خالد سے کہا تم اسلام میں جاہلیت والا کام کر رہے ہو حضرت خالد نے کہا میں نے تو آپ کے باپ (کے قتل) کا بدلہ لیا ہے حضرت عبدالرحمنؓ نے کہا غلط کہتے ہو۔ اپنے باپ کے قاتل کو تو میں نے خود قتل کیا تھا تم نے تو اپنے چچا فاکہ بن مغیرہ کا بدلہ لیا ہے۔ اس پر دونوں حضرات میں بات بڑھ گئی جب حضورؐ کو اس کا پتہ چلا تو فرمایا اے خالد! نرمی سے بات کرو۔ میرے (پرانی) صحابہؓ کو چھوڑے رکھو۔ اللہ کی قسم! اگر تمہیں احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے اور پھر تم اسے اللہ کے راستہ میں خرچ کر دو تب بھی تم میرے (پرانی) صحابہؓ میں سے کسی ایک صبح یا ایک شام (کے اجر) کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔

حضرت صحراؓ فرماتے ہیں حضور اکرم ﷺ قبیلہ بنو ثقیف سے غزوہ کے لئے تشریف لے چلے تو جب حضرت صحراؓ نے یہ خبر سنی تو وہ حضورؐ کی مدد کرنے کے لئے گھوڑے سواروں

کی جماعت لے کر چلے جب وہ حضورؐ کی خدمت میں پہنچے تو حضورؐ واپس مدینہ تشریف لے جا چکے تھے اور ہوقتیف کا قلعہ اور محل ابھی تک فتح نہیں ہوا تھا، حضرت سحرؓ نے عہد کیا کہ میں اس وقت تک اس قلعہ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک اس قبیلہ والے حضورؐ کے فیصلہ پر نہیں اترتے چنانچہ وہ وہیں ٹھہر گئے اور انہوں نے اس وقت اس قلعہ اور محل کو چھوڑا جب وہ لوگ حضورؐ کے فیصلہ پر اتر آئے اور حضورؐ کی خدمت میں یہ خط لکھا:

الملاحہ! یا رسول اللہ! قبیلہ ہوقتیف نے آپ کے فیصلہ پر اترنا قبول کر لیا ہے۔ میں انہیں لے کر آ رہا ہوں وہ میرے گھوڑے سواروں کے ساتھ ہیں حضورؐ نے (جمع کرنے کے لئے) الصلوة جملہٴ اعلان کر لیا (کہ نماز میں سب آجائیں کوئی اہم کام ہے) پھر حضورؐ نے (حضرت سحرؓ کے قبیلہ) احس کے لئے دس مرتبہ یہ دعا کی اے اللہ! قبیلہ احس کے سواروں اور پیادہ لوگوں میں برکت فرما دے۔ جب یہ لوگ آگئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے حضورؐ سے بات کی اور عرض کیا یا رسول اللہ! حضرت سحرؓ نے میری پھوپھی کو گرفتار کر رکھا ہے حالانکہ وہ بھی اس دین میں داخل ہو چکی ہیں جس میں باقی تمام مسلمان داخل ہیں حضورؐ نے حضرت سحرؓ کو بلا کر فرمایا اے سحر! جب کوئی قوم مسلمان ہو جاتی ہے تو (اسلام لانے کی وجہ سے) ان کی جان اور مال سب محفوظ ہو جاتا ہے اس لئے تم مغیرہ کو ان کی پھوپھی دے دو۔ انہوں نے حضرت مغیرہ کو ان کی پھوپھی دے دی۔ اور حضرت سحرؓ نے حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ قبیلہ ہوسلیم ایک پانی یعنی ایک چشمہ پر رہا کرتے تھے وہ اسلام نہیں لائے اور وہ پانی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں یا رسول اللہ! وہ پانی مجھے اور میری قوم کو دے دیں ہم لوگ وہاں رہا کریں گے حضورؐ نے فرمایا ٹھیک ہے اور وہ پانی حضورؐ نے انہیں دے دیا۔ پھر قبیلہ ہوسلیم مسلمان ہو گیا انہوں نے حضورؐ کی خدمت میں آکر عرض کیا یا رسول اللہ! ہم مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر ہم حضرت سحرؓ کے پاس گئے تھے تاکہ وہ ہمیں ہمارا پانی دے دیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے حضورؐ نے فرمایا اے سحر! جب کوئی قوم مسلمان ہو جاتی ہے تو ان کا مال اور جان سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہذا ان کا پانی واپس کر دو۔ حضرت سحرؓ نے کہا بہت اچھا اے اللہ کے نبی حضرت سحرؓ فرماتے ہیں پہلے حضور ﷺ نے مجھ سے حضرت مغیرہؓ کو ان کی پھوپھی واپس دلوائی اور بنو سلیم کو ان کا پانی واپس دلوارے تھے تو اس وجہ سے حضور ﷺ کو بہت شرم آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ شرم کی وجہ سے حضور ﷺ کا چہرہ سرخی میں بدل رہا تھا!

۱۔ اخرجہ ابو داؤد و تفرده ابو داؤد و فی اسنادہ اختلاف کذا فی البدایة (ج ۴ ص ۳۵۱) و اخرجہ ایضا احمد والدارمی و ابن راہویہ والبخاری و ابن ابی شیبہ والطبرانی فی نصب الراویة (ج ۳ ص ۴۱۲) والفریابی فی مسنده والبعری و ابن شاہین کما فی الاصابة (ج ۲ ص ۱۸۰) والبیہقی فی سننه (ج ۹ ص ۱۱۴)

## مسلمان کو قتل کرنے سے بچنا اور ملک کی وجہ سے لڑنے کا ناپسندیدہ ہونا

حضرت اوس بن اوس ثقفیؓ فرماتے ہیں ہم لوگ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک خیمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے ایک مرتبہ حضور ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اتنے میں ایک آدمی آکر حضور سے چپکے چپکے بات کرنے لگ گیا ہمیں پتہ نہ چلا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ وہ اسے قتل کر دیں پھر حضور نے اسے بلا کر فرمایا شاید وہ کلمہ شہادت اشہدان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ پڑھتا ہے۔ اس آدمی نے کہا جی ہاں (وہ پڑھتا ہے) حضور نے فرمایا جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ اسے چھوڑ دیں کیونکہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب وہ یہ کلمہ شہادت پڑھ لیں تو پھر ان کا خون اور مال لینا میرے لئے حرام ہو جاتا ہے ہاں ان میں کوئی شرعی حق بنتا ہے تو اس کا لینا جائز ہے اور ان کا حساب اللہ خود لیں گے۔ ۱

حضرت عبد اللہ بن عدی انصاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک آدمی ایک منافق کو قتل کرنے کے بارے میں چپکے سے بات کرنے کی حضور سے اجازت مانگنے لگا حضور نے اسے اونچی آواز سے فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتا؟ اس آدمی نے کہا گواہی دیتا ہے لیکن اس کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے پھر حضور نے فرمایا کیا وہ میرے رسول اللہ ہونے کی گواہی نہیں دیتا؟ اس نے کہا دیتا ہے لیکن اس کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ان ہی لوگوں (کو قتل کرنے) سے مجھے روکا گیا ہے۔ ۲

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ نے فرمایا میرے پاس میرے کسی صحابی کو بلاؤ میں نے کہا حضرت ابو بکرؓ کو۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا حضرت عمرؓ کو آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا آپ کے بچازاد بھائی حضرت علیؓ کو آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا حضرت عثمانؓ کو آپ نے فرمایا ہاں جب وہ آگئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا ذرا ایک طرف کو ہٹ جاؤ۔ پھر آپ نے حضرت عثمانؓ سے کان میں بات کرنی شروع کر دی اور حضرت عثمانؓ کا رنگ بدل رہا تھا جب یوم الدار آیا (جس دن حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا) اور حضرت عثمانؓ گھر میں محصور ہو گئے تو

۱۔ اخرجه احمد والدارمی والطحاوی والطیالسی

۲۔ عند عبدالرزاق والحسن بن سفیان کذا فی کنز العمال (ج ۱ ص ۷۸)

ہم نے کہا اے امیر المؤمنین! کیا آپ (باغیوں سے) جنگ نہیں کریں گے؟ حضرت عثمانؓ نے فرمایا نہیں۔ حضورؐ نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا میں اس عہد پر پیکار ہوں گا جہاں ہوں گا۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ جس وقت محصور تھے اس وقت انہوں نے جھانک کر ان باغیوں سے پوچھا آپ لوگ مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی آدمی کا خون یہاں صرف تین باتوں کی وجہ سے حلال ہوتا ہے یا تو وہ شادی کے بعد زنا کرے اس صورت میں اسے رجم کیا جائے گا یعنی پتھر مارا کر مار دیا جائے گا یا وہ کسی کو عہد آجاں بوجھ کر قتل کر دے اس صورت میں اسے بھی بدلہ میں قتل کر دیا جائے گا یا اسلام لانے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو جائے (اگر سمجھانے سے اسلام میں واپس نہ آیا تو) اسے ارتداد کی سزا میں قتل کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم! میں نے تو زمانہ جاہلیت میں کبھی زنا کیا اور نہ اسلام لانے کے بعد میں مرتد ہوا ہوں (میں تو اب بھی مسلمان ہوں) (اشہدان لا الہ الا اللہ وان محمد اعبده ورسوله ﷺ)

حضرت ابو لہامہؓ فرماتے ہیں جب حضرت عثمانؓ گھر میں محصور تھے میں بھی آپ کے ساتھ گھر میں تھا گھر میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جب ہم اس میں داخل ہوتے تو وہاں سے بلاط مقام پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی تمام باتیں سن لیتے۔ ایک دن حضرت عثمانؓ کسی ضرورت سے اس میں گئے جب وہاں سے باہر آئے تو ان کا رنگ بدلا ہوا تھا انہوں نے فرمایا وہ لوگ تو اب مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہیں ہم نے کہا اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ ان سے آپ کی کفایت فرمائیں گے پھر انہوں نے فرمایا! یہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان کا خون یہاں صرف تین باتوں کی وجہ سے حلال ہوتا ہے یا تو آدمی مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے یا شادی کے بعد زنا کرے یا ناحق کسی انسان کو قتل کر دے (میں نے تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا ہے) اللہ کی قسم! انہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کبھی زنا کیا ہے اور نہ اسلام لانے کے بعد۔ اور جب سے اللہ نے مجھے دین اسلام کی ہدایت دی ہے کبھی بھی میرے دل میں اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرنے کی تمنا پیدا نہیں ہوئی ہے اور نہ میں نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے تو اب یہ لوگ مجھے کس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہیں؟

۱۔ اخرجه احمد تفرويه احمد كذا في البداية (ج ۷ ص ۸۱) واخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۴۶)

عن ابی سهلہ بمعناه اطول منه وزاد قال ابو سهلہ فيرون انه ذلك اليوم

۲۔ اخرجه احمد ورواه النسائي كذا في البداية (ج ۷ ص ۱۷۹)

۳۔ عند احمد ايضا وقدر واه اهل السنن الاربعة وقال الترمذي حسن كذا في البداية (ج ۷ ص

۱۷۹) واخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۴۶) عن ابی امامة مثله.

حضرت ابو لیلیٰ کندیؓ کہتے ہیں جن دنوں حضرت عثمانؓ اپنے گھر میں محصور تھے میں بھی ان دنوں وہاں ہی تھا، ایک دن حضرت عثمانؓ نے دریچے سے باہر جھانک کر (باغیوں سے) فرمایا:

”اے لوگو! مجھے قتل نہ کرو (اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو) مجھ سے توبہ کر لو، اللہ کی قسم! اگر تم مجھے قتل کرو گے تو پھر کبھی بھی تم اکٹھے نہ نماز پڑھ سکو گے، اور نہ دشمن سے جہاد کر سکو گے اور تم لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے فرمایا تمہارا حال بھی ایسا ہو جائے گا پھر یہ آیت پڑھی: يَا قَوْمِ لَا يُجْرِمُكُمْ شِقَاقِيْ اَنْ يُصِيبَكُمْ مِّثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدًا وَّ قَوْمَ صَالِحٍ وَّ مَا قَوْمَ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بَعِيْدٍ (سورت صود آیت ۸۹)

ترجمہ: ”اے میری قوم! میری ضد تمہارے لئے اس کا باعث نہ ہو جائے کہ تم پر بھی اسی طرح کی مصیبتیں آپڑیں جیسی قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر پڑی تھیں اور قوم لوط تو (ابھی) تم سے (بہت) دور (زمانہ میں) نہیں ہوئی۔“

حضرت عثمانؓ نے حضرت عبداللہ بن سلامؓ کے پاس آدمی بھیج کر پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انھوں نے جواب دیا آپ اپنا ہاتھ (ان باغیوں سے) روک کر رکھیں اس سے آپ کی دلیل زیادہ مضبوط ہوگی (قیامت کے دن)۔

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ فرماتے ہیں جن دنوں حضرت عثمانؓ گھر میں محصور تھے میں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے ان سے کہا آپ تمام لوگوں کے امام ہیں اور یہ مصیبت جو آپ پر آئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے تین تجویزیں پیش کرتا ہوں ان میں سے آپ جو نسی چاہیں اختیار فرمائیں یا تو آپ گھر سے باہر آکر ان باغیوں سے جنگ کریں کیونکہ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اور بہت زیادہ قوت ہے اور پھر آپ حق پر ہیں اور یہ باغی لوگ باطل پر ہیں یا آپ اپنے اس گھر سے باہر نکلنے کے لئے پیچھے کی طرف ایک نیا دروازہ کھول لیں کیونکہ پرانے دروازے پر توبہ باغی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔

اور اس نئے دروازے سے (چپکے سے) باہر نکل کر اپنی سواری پر بیٹھ کر مکہ چلے جائیں کیونکہ یہ باغی لوگ مکہ میں آپ کا خون یہانا حلال نہیں سمجھیں گے یا پھر آپ ملک شام چلے جائیں وہاں شام والے بھی ہیں اور حضرت معاویہؓ بھی ہیں حضرت عثمانؓ نے (ایک بھی تجویز قبول نہ فرمائی اور) فرمایا میں گھر سے باہر نکل کر ان باغیوں سے جنگ کروں یہ نہیں ہو سکتا۔



میں نہیں چاہتا کہ حضور ﷺ کے بعد آپ کی امت میں سب سے پہلے (مسلمانوں کا) خون بہانے والا میں ہوں۔ باقی رہی یہ تجویز کہ میں مکہ چلا جاؤں وہاں یہ باغی میرا خون بہانا حلال نہیں سمجھیں گے تو میں اسے بھی اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کا ایک آدمی مکہ میں بے دینی کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا اس لئے اس پر ساری دنیا کا اذہا عذاب ہو گا میں نہیں چاہتا کہ میں وہ آدمی ہوں اور تیسری تجویز کہ میں ملک شام چلا جاؤں (وہاں شام والے بھی ہیں اور حضرت معاویہؓ بھی ہیں سو میں اپنے دار ہجرت اور حضورؐ کے پڑوس کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا)۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں جب حضرت عثمانؓ گھر میں محصور تھے میں ان کی خدمت میں گیا اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! اب تو آپ کے لئے ان باغیوں سے جنگ کرنا بالکل حلال ہو چکا ہے (لہذا آپ ان سے جنگ کریں اور انہیں بھگادیں) حضرت عثمانؓ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات سے خوشی ہو سکتی ہے کہ تم تمام لوگوں کو قتل کر دو اور مجھے بھی؟ میں نے کہا نہیں، فرمایا اگر تم ایک آدمی کو قتل کرو گے تو گویا کہ تم نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا (جیسے کہ سورت مائدہ آیت ۳۲ میں اس کا تذکرہ ہے) یہ سن کر میں واپس آ گیا اور جنگ کا ارادہ چھوڑ دیا۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمانؓ کی خدمت میں عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ کے ساتھ اس گھر میں ایسی جماعت ہے جو (اپنی صفات کے اعتبار سے) اللہ کی مدد کی ہر طرح حقدار ہے ان سے کم تعداد پر اللہ تعالیٰ مدد فرمادیا کرتے ہیں، آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں ان سے جنگ کروں، حضرت عثمانؓ نے فرمایا میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کوئی آدمی میری وجہ سے نہ اپنا خون بہائے اور نہ کسی اور کا۔ ابن سعدؒ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں جس وقت حضرت عثمانؓ اپنے گھر میں محصور تھے اس وقت میں نے ان سے کہا آپ ان باغیوں سے جنگ کریں اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کرنا آپ کے لئے حلال کر دیا ہے حضرت عثمانؓ نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم! نہیں، میں ان سے کبھی جنگ نہیں کروں گا آگے اور حدیث ذکر کی ہے حضرت عبداللہ

۱۔ اخرجه احمد كذا في البداية (ج ۷ ص ۲۱۱) قال الهيثمي (ج ۷ ص ۲۳۰) رواه احمد  
ورجاله ثقات الا ان محمد بن عبد الملك بن مروان لم اجده له سماعا من المغيرة ۵  
۲۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۴۸) كذا في منتخب الكنز (ج ۵ ص ۲۵)  
۳۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۴۹)

بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محاصرہ کے زمانے میں حضرت عثمانؓ نے فرمایا تم میں سے میرے سب سے زیادہ کام آنے والا وہ آدمی ہے جو اپنے ہاتھ اور ہتھیار کو روک لے (اور باغیوں پر ہاتھ نہ اٹھائے) ۱۔ حضرت لئن سیرینؓ کہتے ہیں حضرت زید بن عتابؓ نے حضرت عثمانؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ انصار دروازے پر حاضر ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر آپ فرمادیں تو ہم دو مرتبہ اللہ کے انصار بن کر دکھادیں (ایک مرتبہ تو جب حضور ﷺ نے مدینہ ہجرت فرمائی تھی دوسری مرتبہ آج ان باغیوں سے جنگ کر کے) حضرت عثمانؓ نے فرمایا لڑنا تو بالکل نہیں ہے۔ ۲۔ حضرت لئن سیرینؓ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں محاصرہ کے زمانہ میں حضرت عثمانؓ کے ساتھ ان کے گھر میں ایسے سات سو حضرات تھے کہ اگر حضرت عثمانؓ ان کو اجازت دے دیتے تو وہ حضرات مار مار کر باغیوں کو مدینہ سے باہر نکال دیتے ان حضرات میں حضرت لئن عمر، حضرت حسن بن علی اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ بھی تھے۔ ۳۔

حضرت عبداللہ بن ساعدہؓ فرماتے ہیں حضرت سعید بن عاصؓ نے حضرت عثمانؓ کی خدمت میں آکر عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ کب تک ہمارے ہاتھوں کو روکے رکھیں گے؟ ہمیں تو یہ باغی لوگ کھا گئے کوئی ہم پر تیر چلاتا ہے کوئی ہمیں پتھر مارتا ہے کسی نے تلوار سونتی ہوئی ہے لہذا آپ ہمیں (ان سے لڑنے کا) حکم دیں، حضرت عثمانؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! میرا تو ان سے لڑنے کا بالکل ارادہ نہیں، اگر میں ان سے جنگ کروں تو میں یقیناً ان سے محفوظ ہو جاؤں گا لیکن میں انہیں بھی اور انہیں میرے خلاف جمع کر کے لانے والوں کو بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں کیونکہ ہم سب کو اپنے رب کے پاس جمع ہونا ہے تمہیں ان سے جنگ کرنے کا حکم میں کسی صورت میں نہیں دے سکتا حضرت سعیدؓ نے کہا اللہ کی قسم! آپ کے بارے میں کبھی کسی سے نہیں پوچھوں گا، (یعنی باغیوں سے جنگ کر کے میں شہید ہو جاؤں گا زندہ نہیں رہوں گا) چنانچہ حضرت سعیدؓ نے باہر جا کر ان سے جنگ کی یہاں تک کہ ان کا سر زخمی ہو گیا۔ ۴۔

حضرت عمر بن سعدؓ کہتے ہیں حضرت سعدؓ کے صاحبزادے حضرت عامرؓ نے آکر حضرت سعدؓ کی خدمت میں عرض کیا اے لبا جان! لوگ تو دنیا پر لڑ رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سعدؓ نے فرمایا کیا تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس فتنہ میں سردار بن جاؤں نہیں اللہ کی قسم! نہیں میں اس جنگ میں نہیں شریک ہو سکتا، البتہ جنگ میں شریک ہونے کی

۱۔ اخراجہ ابن سعد ایضاً (ج ۳ ص ۴۸) ۲۔ اخراجہ ابن سعد ایضاً (ج ۳ ص ۴۸)

۳۔ اخراجہ ابن سعد ایضاً (ج ۳ ص ۴۹) ۴۔ اخراجہ ابن سعد ایضاً (ج ۵ ص ۲۳)،

صرف ایک صورت ہے کہ مجھے ایک ایسی تلوار مل جائے کہ میں اگر وہ تلوار کسی مومن کو ماروں تو اس سے اچٹ جائے اور اسے زخمی نہ کرے اور اگر کسی کافر کو ماروں تو اسے قتل کر دے (ایسی تلوار چونکہ میرے پاس ہے نہیں اس لئے میں چھپ کر بیٹھا ہوں کیونکہ) میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مالدار کو پسند فرماتے ہیں جو کہ چھپا ہوا ہو اور تقویٰ والا ہو۔<sup>۱</sup>

حضرت ابن سیرین<sup>۲</sup> کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے کہا آپ اہل شوریٰ میں سے ہیں اور اس امر (خلافت) کے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں تو آپ کیوں نہیں جنگ کرتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا میں صرف اس صورت میں جنگ کر سکتا ہوں جبکہ لوگ مجھے ایسی تلوار لا کر دیں جس کی دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں اور وہ تلوار مومن اور کافر کو پہچانتی ہو (اور کافر کو تو مارتی ہو لیکن مومن پر اثر نہ کرتی ہو) میں نے خوب جہاد کیا (جب کہ کافروں کے خلاف تھا اور بالکل صحیح طریقہ پر تھا آج تو مسلمانوں سے لڑا جا رہا ہے اور وہ بھی طلب دنیا کے لئے) اور میں خوب اچھی طرح جہاد کو جانتا ہوں۔<sup>۳</sup>

حضرت اسامہ بن زیدؓ نے جن کا پیٹ بڑھ گیا تھا فرمایا میں اس آدمی سے کبھی جنگ نہیں کروں گا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو، حضرت سعد بن مالکؓ نے فرمایا میں بھی اللہ کی قسم! اس آدمی سے کبھی جنگ نہیں کروں گا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو۔ اس پر ایک آدمی نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيُكُونَ الدِّينُ كَلَهُ لِلَّهِ

ترجمہ: ”اور تم ان کفار (عرب) سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ (یعنی شرک) نہ رہے اور دین (خالص) اللہ ہی کا ہو جائے، ان دونوں حضرات نے فرمایا (ہم اس آیت پر عمل کر چکے ہیں) ہم نے جنگ کی تھی یہاں تک کہ فساد عقیدہ شرک اور فتنہ کچھ باقی نہ رہا تھا اور دین (خالص) اللہ ہی کا ہو گیا تھا (ادیان باطلہ سارے ختم ہو گئے تھے آج کی جنگ فتنہ ختم کرنے اور اللہ کے دین کے لئے نہیں ہے)۔<sup>۴</sup>

حضرت نافعؓ کہتے ہیں حضرت ابن زبیرؓ کے محاصرہ کے زمانہ میں دو آدمیوں نے حضرت

۱۔ الخرجہ احمد کذا فی البدایۃ (ج ۷ ص ۲۸۳) و الخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۹۴) عن عمر بن سعد عن ابیہ انه قال لی یا بنی افی الفتنۃ تاملنی، فذکر نحوہ  
 ۲۔ عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۷ ص ۲۹۹) رواہ الطبرانی ورجاله رجال الصحیح ۱ و الخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۹۴) عن ابن سیرین مثله و ابن سعد (ج ۳ ص ۱۰۱) عن ابن سیرین بمعناہ  
 ۳۔ الخرجہ ابن سعد (ج ۲ ص ۴۸) و الخرجہ ابن مردویہ عن ابراہیم التیمی عن ابیہ نحوہ  
 ۴۔ کما فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۳۰۹) الخرجہ البخاری (ج ۲ ص ۶۴۸)

لنن عمرؓ کی خدمت میں آکر کہا لوگ ضائع ہو رہے ہیں اور آپ حضرت عمرؓ کے بیٹے اور حضور ﷺ کے صحابی ہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو باہر نکل کر اس جنگ میں شرکت سے کون سی چیز مانع ہے؟ حضرت لنن عمرؓ نے فرمایا یہ بات مانع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مسلمان بھائی کا خون حرام قرار دیا ہے ان دونوں آدمیوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وقاتلوہم حتی لا تھکون فتنہ (ترجمہ گزر چکا ہے) حضرت لنن عمرؓ نے فرمایا ہم نے جنگ کی تھی یہاں تک کہ فتنہ وغیرہ کچھ باقی نہیں رہا تھا اور دین صرف اللہ ہی کا ہو گیا تھا اور تم لوگ اسلئے لڑنا چاہتے ہو تاکہ فتنہ برپا ہو اور اللہ کے علاوہ دوسروں کا دین چل پڑے حضرت نافع کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت لنن عمرؓ کی خدمت میں آکر کہا اے ابو عبد الرحمن! کیا بات کہتے ہیں؟ آپ ایک سال حج کرتے ہیں اور ایک سال عمرہ۔ آپ نے جمادنی سمیل اللہ چھوڑ دیا ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمادنی کتنی ترغیب دی ہے؟ حضرت لنن عمرؓ نے فرمایا اے میرے بچے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، پانچ نمازیں پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا (اور میں یہ سارے کام کر رہا ہوں میرا دین اسلام پورا قائم ہے) اس آدمی نے کہا اے ابو عبد الرحمن! کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا جو قرآن میں ہے؟ **وَإِنْ طَافَتَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِلَيَّ أَمْرُ اللَّهِ** (سورت الحجرات آیت ۹) **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً** (سورت انفال آیت ۳۹)

ترجمہ ”اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو پھر اگر ان میں ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے۔“ اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے تم ان کفار (عرب) سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ (یعنی شرک) نہ رہے۔“ آپ نے فرمایا ہم نے حضور ﷺ کے زمانے میں اس آیت پر عمل کیا تھا۔ اسلام والے تھوڑے تھے اور ہر مسلمان کو دین کی وجہ سے بہت زیادہ مصیبتیں اٹھانی پڑتی تھیں، کافر یا اسے قتل کر دیتے یا اسے طرح طرح کا عذاب دیتے، ہم لوگ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ اسلام والے زیادہ ہو گئے اور فتنہ و فساد یعنی شرک و کفر بالکل ختم ہو گیا اس آدمی نے کہا آپ حضرت عثمان، حضرت علیؓ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ (بظاہر یہ آدمی خارجی تھا) انھوں نے فرمایا حضرت عثمانؓ (سے غزوہ احد کے دن دیگر صحابہؓ کے ساتھ کچھ خطا ہوئی تھی لیکن ان) کو اللہ نے معاف فرمادیا (جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَلَقَدْ عَفَاكُمْ** (سورت آل عمران آیت ۱۵۲) اور اللہ نے ان کو جو معاف فرمایا ہے تم اسے برا سمجھتے ہو، حضرت علیؓ تو حضور ﷺ کے

چچا زاد بھائی اور ان کے داماد ہیں اور پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا اور یہ دیکھو حضور کے گھروں کے بیچ میں حضرت علیؑ کا گھر ہے (یعنی حضرت علیؑ رشتہ میں بھی حضور سے قریب تھے اور ان کا گھر بھی حضور کے گھر سے قریب تھا)۔

حضرت نافعؓ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت ابن عمرؓ کی خدمت میں آکر کہا اے ابو عبد الرحمن! اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے وہ آپ نے نہیں سنا وَاِنْ طَلَّافْتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتُلُوْا جِيسَةَ اللّٰهِ تَعَالٰی فرما ہے ہیں آپ جنگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا اے میرے بھتیجے! میں (مسلمانوں سے) جنگ نہ کروں اور یہ گزشتہ آیت سنا کر مجھے قرآن پر عمل نہ کرنے کی عار دلائی جائے یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ مسلمانوں سے جنگ کر کے انہیں قتل کروں اور مجھے دوسری آیت پر عمل نہ کرنے کی عار دلائی جائے اور وہ دوسری آیت یہ ہے: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا اٰخِرَ آيٰتِ تٰكْوِيْنٍ (سورت نساء آیت ۹۳)

ترجمہ، اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوں گے اور اس کو اپنی رحمت سے دور کریں گے اور اس کے لئے بیوی سزا کا سامان کریں گے۔ اس آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہم اس آیت پر عمل کر چکے ہیں پھر آگے چھپی حدیث جیسی ذکر کی کہ حضرت سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں پھر حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ حضور ﷺ مشرکوں سے جنگ کرتے تھے اور ان مشرکوں سے لڑنے جا بیوی سخت آزمائش کی چیز تھی اور وہ لڑائی تمہاری اس لڑائی کی طرح ملک حاصل کرنے کے لئے نہیں تھی۔ ۳۔

حضرت ابو العالیہ براء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبد اللہ بن زبیر اور حضرت عبد اللہ بن صفوانؓ ایک دن حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ابن عمرؓ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان دونوں حضرات کے پاس سے گزرے۔ ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا آپ کا کیا خیال ہے کیا روئے زمین پر ان سے زیادہ بہتر آدمی باقی رہ گیا ہے؟ پھر انہوں نے ایک آدمی سے کہا جب یہ اپنا طواف ختم کر لیں تو انہیں ہمارے پاس بلا لاؤ۔ جب ان کا طواف پورا ہو گیا اور انہوں نے (طواف کے) دو رکعت نفل پڑھ لئے تو ان حضرات کے

۱۔ زادہ عثمان بن صالح من طریق بکیر بن عبد اللہ و اخرجه البيهقي (ج ۸ ص ۱۹۲) من طريق

نافع بنحوه و هكذا اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۹۲) عن نافع

۲۔ عند البخاری ایضا۔ عند البخاری ایضا كما فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۳۰۸)

قاصد نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور حضرت عبداللہ بن صفوانؓ آپ کو بلارہے ہیں۔ وہ ان دونوں حضرات کے پاس آئے تو حضرت عبداللہ بن صفوانؓ نے کہا اے ابو عبدالرحمنؓ! امیر المؤمنین حضرت لادن زبیر سے بیعت ہونے سے آپ کو کونسی چیز روک رہی ہے؟ کیونکہ مدینہ، یمن اور عراق والے سب اور اکثر اہل شام ان سے بیعت ہو چکے ہیں۔ حضرت لادن عمرؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! جب تک تم لوگوں نے تلواریں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی ہیں اور تمہارے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اس وقت تک میں تم سے بیعت نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسنؓ فرماتے ہیں جب لوگ فتنہ میں پریشان ہو گئے تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا آپ لوگوں کے سردار ہیں اور سردار کے بچے ہیں اور تمام لوگ آپ پر راضی ہیں آپ باہر تشریف لائیں ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں حضرت لادن عمرؓ نے فرمایا ہرگز نہیں اللہ کی قسم! جب تک میری جان میں جان ہے اس وقت تک میں اپنی وجہ سے ایک سیگی بھر خون نہیں بہنے دوں گا پھر کچھ لوگوں نے آکر حضرت لادن عمرؓ کو ڈر لیا اور یوں کہا یا تو آپ باہر تشریف لے چلیں ورنہ اسی بستر پر آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو انہوں نے اس کا کچھ اثر نہ لیا اور وہی پہلا جواب دیا اور باہر آنے سے انکار کر دیا حضرت حسنؓ کہتے ہیں اللہ کی قسم! لوگ ان کی وفات تک انہیں بیعت کرنے پر بالکل آمادہ نہ کر سکے۔<sup>۱</sup>

حضرت خالد بن سمیرؓ کہتے ہیں لوگوں نے حضرت لادن عمرؓ سے کہا کیا یہی اچھا ہو اگر آپ لوگوں کے امر خلافت کو سنبھال لیں کیونکہ تمام لوگ آپ (آپ کے خلیفہ بننے پر) راضی ہیں حضرت لادن عمرؓ نے فرمایا ذرا یہ بتائیں کہ مشرق میں کسی ایک آدمی نے میرے خلیفہ بننے کی مخالفت کی تو انہوں نے کہا اگر ایک آدمی نے مخالفت کی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور امت کے معاملے کو سدھارنے کے لئے ایک آدمی کو قتل کرنا پڑے تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ حضرت محمد ﷺ کی امت نیزے کا دستہ پکڑے اور میں اس نیزے کا پھلا پکڑوں اور پھر ایک مسلمان کو قتل کیا جائے اور اس کے بدلے مجھے دنیا و ما فیہا مل جائے۔<sup>۲</sup> حضرت قطنؓ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت لادن عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا حضرت محمد ﷺ کی امت کے لئے آپ سے زیادہ کوئی برا نہیں ہے انہوں نے فرمایا کیوں؟ اللہ کی قسم! میں نے نہ تو ان کا خون یہ لایا ہے اور نہ ان میں پھوٹ ڈالی

۱۔ عند البیهقی (ج ۸ ص ۱۹۲) ۲۔ عند ابی نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۹۳)

۳۔ عند ابن سعد (ج ۴ ص ۱۱۱) عن الحسن بنحوہ

ہے اور نہ ان کی جماعت سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ اس آدمی نے کہا اگر آپ (خليفة بنتا) چاہیں تو آپ کے بارے میں دو آدمی بھی اختلاف نہ کریں گے انہوں نے فرمایا مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ مجھے خلافت خود بخود ملے اور ایک آدمی کہے نہیں اور دوسرا کہے ہاں (یعنی اگر ایک آدمی بھی اختلاف کرے تو مجھے منظور نہیں ہے)۔

حضرت قاسم بن عبد الرحمنؓ کہتے ہیں لوگوں نے پہلے فتنہ (جو کہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان واقع ہوا تھا) کے زمانے میں حضرت لئن عمرؓ سے کہا کیا آپ باہر آکر جنگ میں حصہ نہیں لیتے؟ فرمایا میں نے اس وقت جنگ کی تھی جب کہ بت حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان رکھے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کو سر زمین عرب سے نکل دیا۔ اب میں اس بات کو بہت برا سمجھتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کہنے والے سے جنگ کروں۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم! آپ کے دل میں یہ رائے نہیں ہے (صرف کہنے کو ہے بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے صحابہؓ ایک دوسرے کو ختم کر دیں پھر آپ کے علاوہ جب اور کوئی بچے گا نہیں تو لوگ خود ہی کہنے لگیں گے امیر المؤمنین بنانے کے لئے عبد اللہ بن عمر سے بیعت ہو جاؤ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم! یہ بات بالکل میرے دل میں نہیں ہے بلکہ میرے دل میں یہ ہے کہ جب تم لوگ کہو گے کہ نماز کی طرف تو میں تمہاری بات مانوں گا اور جب تم کہو گے کہ آؤ کامیابی کی طرف تو میں تمہاری مانوں گا اور جب تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا اور جب تم اکٹھے ہو جاؤ گے تو میں تم سے الگ نہیں ہوں گا۔

حضرت نافعؓ کہتے ہیں جن دنوں حضرت لئن زبیرؓ کی طرف سے خلافت کے لئے کوشش چل رہی تھی اور خوارج اور (شینعوں کے) فرقہ خشیبہ کا زور تھا ان دنوں کسی نے حضرت لئن عمرؓ سے کہا آپ ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی۔ حالانکہ یہ تو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا جو کہے گا نماز کی طرف میں اس کی بات مان لوں گا اور جو کہے گا نماز کی طرف میں اس کی بات مان لوں گا اور جو کہے گا کہ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر کے اس کا مال لینے کی طرف میں کہہ دوں گا میں نہیں آتا۔

حضرت ابو الثریفؓ کہتے ہیں ہم لوگ حضرت حسن بن علیؓ کے مقدمہ الجیش میں بارہ ہزار آدمی تھے۔ اہل شام سے جنگ کرنے کا اتنا زیادہ جذبہ تھا کہ لگتا تھا کہ ہماری تلواروں سے

۱۔ عند ابن سعد (ج ۴ ص ۱۱۱) ۲۔ عند ابن نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۹۴)

۳۔ اخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۱۲۵) عن نافع مثله

خون نپکنے لگ جائے گا (یا غصہ کی وجہ سے ہماری تلواریں گر جائیں گی) ہمارے لشکر کے امیر ابو العرطا تھے جب ہمیں خبر ملی کہ حضرت حسن اور حضرت معاویہؓ میں صلح ہو گئی ہے تو غصہ کے مارے ہماری کمر ٹوٹ گئی جب حضرت حسن بن علیؓ کو فہ آئے تو ابو عامر سفیان بن کمیل نامی آدمی نے کھڑے ہو کر ان سے کہا السلام علیک اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے! حضرت حسنؓ نے فرمایا اے ابو عامر! یہ نہ کہو میں نے مسلمانوں کو ذلیل نہیں کیا بلکہ میں طلب ملک کی وجہ سے مسلمانوں کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔

حضرت شعبیؓ کہتے ہیں جب حضرت حسن بن علیؓ اور حضرت معاویہؓ میں صلح ہو گئی تو حضرت معاویہؓ نے حضرت حسنؓ سے کہا آپ کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان کریں اور اپنا موقف انہیں بتائیں چنانچہ حضرت حسنؓ نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا۔

”تمام لعن لیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمارے (بڑوں کے) ذریعہ سے تمہارے پہلے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی اور ہمارے ذریعہ سے تمہارے بعد والوں کے خون کی حفاظت فرمائی۔ غور سے سنو سب سے زیادہ عقلمند وہ ہے جو تقویٰ اختیار کرے اور سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو فسق و فجور میں مبتلا رہے۔ امر خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار تھے یا واقعی میرا حق بنتا تھا بہر حال جو بھی صورت تھی ہم نے اپنا حق اللہ کے لئے چھوڑ دیا ہے تاکہ حضرت محمد ﷺ کی امت کا کام ٹھیک رہے اور انکے خون محفوظ رہیں۔“

پھر حضرت حسنؓ نے حضرت معاویہؓ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا **وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهٗ فَتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ** (سورت انبیاء آیت ۱۱۱ قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی)

ترجمہ، اور میں (بالصبر) نہیں جانتا (کہ کیا مصلحت ہے؟) شاید وہ (تاخیر عذاب) تمہارے لئے (صورۃ) امتحان ہو اور ایک وقت (یعنی موت) تک (زندگی سے) فائدہ پہنچانا ہو۔ پھر آپ نیچے اتر آئے تو حضرت عمروؓ نے معاویہؓ سے کہا تم یہی چاہتے تھے (کہ حضرت حسن دس تیر داری کا اعلان کر دیں اور وہ انہوں نے کر دیا)۔

حضرت جبیر بن نفیرؓ فرماتے ہیں میں نے حضرت حسن بن علیؓ سے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بنتا چاہتے ہیں حضرت حسنؓ نے فرمایا عرب کے بڑے سردار میرے ہاتھ میں تھے جس سے میں جنگ کرتا تھا وہ اس سے جنگ کرتے تھے اور میں جس سے صلح کرتا تھا

۱۔ اخروجه الحاکم (ج ۳ ص ۱۷۵) و اخروجه ابن عبدالبر فی الاستیعاب (ج ۱ ص ۳۷۲) نحوه والخطیب البغدادی كذلك كما فی البداية (ج ۸ ص ۱۹)

۲۔ اخروجه ابن عبدالبر فی الاستیعاب (ج ۱ ص ۳۷۴) و اخروجه الحاکم (ج ۳ ص ۱۷۵) والبیہقی (ج ۸ ص ۱۷۳) عن الشعبي نحوه



وہ اس سے صلح کرتے تھے لیکن میں نے خلافت کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور حضرت محمد ﷺ کی امت کے خون کی حفاظت ہو جائے تو کیا میں اہل جہاد کے مینڈھوں یعنی کمزور لوگوں کے ذریعہ خلافت کو زبردستی چھیننے کا اب ارادہ کر سکتا ہوں (جب میرے ساتھ بڑے اور طاقتور لوگ تھے اس وقت تو میں خلافت سے دستبردار ہو گیا اب تو میرے ساتھ کمزور لوگ ہیں اب خلافت لینے کا ارادہ کیسے کر سکتا ہوں) ۱۔

حضرت عامر شعبیؓ کہتے ہیں جب مروان کی ضحاک بن قیس سے جنگ ہوئی تو مروان نے حضرت ایمن بن خریم اسدیؓ کو آدمی بھیج کر بلایا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر جنگ کریں حضرت ایمن نے فرمایا میرے والد اور میرے چچا جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے دونوں نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے میں اس سے جنگ نہ کروں۔ اگر تم (جنگ کرنے پر) آگ سے چھٹکارے کا پروانہ لا دو تو میں تمہارے ساتھ مل کر جنگ کر سکتا ہوں۔ مروان نے کہا آپ دور ہو جاؤ اور انہیں برا بھلا کہا اس پر حضرت ایمن نے یہ اشعار پڑھے۔

ولست مقاتلار جلا یصلی علی سلطان آخر من قریش  
کسی دوسرے قریشی کے حکومت حاصل کرنے کے لئے میں اس آدمی سے جنگ نہیں  
کر سکتا جو نماز پڑھتا ہو۔

اقاتل مسلمافی غیر شنی فلیس بنافعی ماعشت عیشی  
میں بغیر کسی بات کے مسلمان سے جنگ کروں اس سے مجھے زندگی بھر کچھ فائدہ نہیں  
ہوگا۔

له سلطانه وعلی الہمی معاذ اللہ من جہل وطیش  
میری جنگ سے اس بادشاہ کی سلطنت مضبوط ہو، اور مجھے گناہ ہو ایسی جہالت اور غصہ سے  
اللہ کی پناہ! حضرت لئن حکم بن عمرو غفاریؓ کہتے ہیں میرے داوانے مجھ سے بیان کیا کہ میں  
حضرت حکم بن عمروؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ان کے پاس حضرت علی بن ابی طالبؓ کا  
قاصد آیا اور اس نے کہا اس امر خلافت کے معاملہ میں آپ ہماری مدد کرنے کے سب سے

۱۔ عند الحاکم (ج ۳ ص ۱۷۰) ایضا قال الحاکم هذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذہبی ۲۔ اخرجه ابو یعلی قال الہثمی (ج ۷ ص ۲۹۶) رواہ ابو یعلی والطبرانی بنحوہ الا انہ قال ولست اقاتل رجلا یصلی وقال معاذ اللہ من فشل وطیش وقال اقاتل مسلمافی غیر حزم ورجال ابی یعلی رجال الصحیح غیر ذکر یا بن یحیی احمویہ و ہوثقہ انتہی و اخرجه الیہقی (ج ۸ ص ۱۹۳) عن قیس بن ابی حازم و الضعی بنحوہ

زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت حکمؓ نے کہا میں نے اپنے خاص دوست آپ کے بچاؤ بھائی حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حالات ایسے ہو جائیں (یعنی خلافت پر مسلمان آپس میں لڑ پڑیں) تو اس وقت لکڑی کی تلوار بنالینا (یعنی لڑائی میں حصہ نہ لینا) چنانچہ میں نے لکڑی کی تلوار بنالی ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت ابو الاشعث صنعانیؓ کہتے ہیں مجھے یزید بن معاویہ نے حضرت عبداللہ بن ابی لوفیؓ کے پاس بھیجا، ان کے پاس حضور ﷺ کے بہت سے صحابہؓ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا آپ لوگ اس وقت لوگوں کو کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت لنن ابی لوفی نے فرمایا حضرت ابو القاسمؓ نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اگر میں (مسلمانوں میں آپس میں لڑنے کے) ایسے حالات کچھ بھی پاؤں تو میں احد پہاڑ پر جا کر اپنی تلوار توڑ دوں اور اپنے گھر بیٹھ جاؤں، میں نے عرض کیا اگر کوئی میرے گھر میں گھس آئے (تو کہاں جاؤں) آپ نے فرمایا اندروالی کو ٹھڑی میں جا کر بیٹھ جانا (قتل ہونے کے لئے تیار ہو جانا) اور اسے کہنا (مجھے قتل کر کے) اپنا گناہ لور میرا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا اور ظالموں کی یہی سزا ہے لہذا میں اپنی تلوار توڑ چکا ہوں (اور گھر میں بیٹھ چکا ہوں) جب کوئی میرے گھر میں گھس آئے گا تو میں اپنی اندروالی کو ٹھڑی میں چلا جاؤں گا اور جب وہاں بھی کوئی آجائے گا تو میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہی کہہ دوں گا جو حضورؐ نے بتایا تھا۔<sup>۲</sup>

حضرت محمد بن مسلمہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا پر لڑ رہے ہیں تو تم اپنی تلوار لے کر پتھریلے میدان میں چلے جانا اور وہاں سب سے بڑی چٹان پر اپنی تلوار مار کر توڑ دینا پھر اپنے گھر آکر بیٹھ جانا یہاں تک کہ یا تو (ناحق قتل کرنے والا) خطا کار ہاتھ تمہیں قتل کر دے یا طبعی موت تمہارا فیصلہ کر دے، حضورؐ نے مجھے جس بات کا حکم دیا تھا میں وہ کر چکا ہوں۔<sup>۳</sup>

حضرت محمد بن مسلمہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے مجھے ایک تلوار عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا اے محمد بن مسلمہ! اس تلوار کو لے کر اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے رہو اور جب تم دیکھو کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑنے لگی ہیں تو یہ تلوار پتھر پر مار کر توڑ دینا اور پھر اپنی زبان لور ہاتھ کو روکے رکھنا یہاں تک کہ یا تو موت آکر فیصلہ کر دے یا خطا کار ہاتھ تمہیں قتل

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی، (ج ۷ ص ۳۰۱) رواه الطبرانی و فیہ من لم اعرفه

۲۔ اخرجه البزار قال الهیثمی (ج ۷ ص ۳۰۰) رواه البزار و فیہ من لم اعرفهہم۔ انتہی

۳۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۷ ص ۳۰۱) رجالہ ثقات

کردے چنانچہ جب حضرت عثمانؓ شہید کر دیئے گئے اور لوگوں میں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت محمد بن مسلمہ اپنے گھر کے صحن میں رکھی ہوئی چٹان کے پاس گئے اور اس پر مار کر تلوار توڑ دی۔

حضرت ربیعؓ کہتے ہیں میں نے حضرت حذیفہؓ کے جنازے میں ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اس چار پائی والے سے (یعنی حضرت حذیفہؓ سے) سنا ہے کہ فرما ہے تمہارے لئے کہ میں نے حضور ﷺ سے یہ حدیث سنی ہے اور اس سننے میں مجھے کوئی شک یا تردد نہیں ہے اب اگر تم آپس میں لڑو گے تو میں اپنے گھر کے اندر چلا جاؤں گا، پھر اگر میرے گھر کے اندر کوئی میرے پاس آگیا تو میں اس سے کہوں گا لے (مجھے قتل کر لے اور) میرا اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے۔

حضرت وائل بن حجرؓ فرماتے ہیں جب ہمیں حضور ﷺ کے مدینہ ہجرت فرمانے کی خبر پہنچی تو میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر چلا یہاں تک کہ میں مدینہ پہنچ گیا اور حضور کی ملاقات سے پہلے آپ کے صحابہؓ سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے آنے سے تین دن پہلے حضورؐ نے ہمیں تمہاری بعثت دی تھی اور فرمایا تھا کہ تمہارے پاس وائل بن حجر آ رہے ہیں پھر آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے اپنے قریب جگہ دی اور اپنی چادر بٹھا کر مجھے اس پر بٹھلایا پھر لوگوں کو بلایا چنانچہ سب لوگ جمع ہو گئے پھر حضورؐ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے اپنے ساتھ منبر پر لے گئے میں منبر پر آپ سے نیچے تھا پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنایاں فرمائی اور فرمایا:

”اے لوگو! یہ وائل بن حجر ہیں اور دور دراز کے علاقہ حضر موت سے تمہارے پاس آئے ہیں اپنی خوشی سے آئے ہیں کسی نے انہیں مجبور نہیں کیا ہے اور وہاں شہزادوں میں سے کسی باقی رہ گئے ہیں، اے وائل بن حجر! اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہاری اولاد میں برکت نصیب فرمائے۔“

پھر حضورؐ منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور مدینہ سے دور ایک جگہ مجھے ٹھہرایا اور حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ سے فرمایا کہ وہ مجھے ساتھ لے جا کر اس جگہ ٹھہراؤں چنانچہ میں (مسجد سے) چلا اور حضرت معاویہؓ بھی میرے ساتھ چلے، راستہ میں حضرت معاویہؓ نے کہا اے وائل! اس گرم زمین نے میرے پاؤں کے تلوے جلادئے مجھے اپنے پیچھے بٹھالوں میں نے

کہا میں تمہیں اس اونٹنی پر بٹھانے میں حائل نہ کرتا لیکن تم شہزادے نہیں ہو اس لئے تمہیں ساتھ بٹھانے پر لوگ مجھے طعنہ دیں گے (کہ کیا معمولی آدمی کو ساتھ بٹھا رکھا ہے) اور یہ مجھے پسند نہیں ہے، پھر حضرت معاویہ نے کہا اچھا اپنی جوتی اتار کر مجھے دے دو، اسے پہن کر ہی میں سورج کی گرمی سے خود کو چاؤں میں نے کہا یہ دو چمڑے تمہیں دینے میں حائل نہ کرتا لیکن تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو بادشاہوں کا لباس پہنتے ہوں اس لئے جوتی دینے پر لوگ مجھے طعنہ دیں گے اور یہ مجھے پسند نہیں ہے، آگے اور حدیث ذکر کی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جب حضرت معاویہ بادشاہ بن گئے تو انھوں نے قریش کے حضرت ہر بن ارطاف کو بھیجا اور ان سے کہا میں نے اس علاقے والوں کو تو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیا ہے (یہ سب تو مجھ سے بیعت ہو گئے ہیں) تم اپنا لشکر لے کر چلو، جب تم حدود شام سے آگے چلے جاؤ تو اپنی تلوار سونت لینا اور جو میری بیعت سے انکار کرے اسے قتل کر دینا اور یوں مدینہ چلے جانا اور مدینہ والوں میں سے جو بھی میری بیعت سے انکار کرے اسے قتل کر دینا اور اگر تمہیں حضرت وائل بن حجر زندہ ملیں تو انہیں میرے پاس لے آنا، چنانچہ حضرت ہر نے ایسے ہی کیا اور وہ جب مجھ تک پہنچ گئے تو مجھے حضرت معاویہ کے پاس لے گئے۔ حضرت معاویہ نے میرے شایان شان استقبال کا حکم دیا اور مجھے اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی اور مجھے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھلایا اور مجھ سے کہا کیا میرا یہ تخت بھرے یا آپ کی اونٹنی کی پشت؟ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! میں کفر و جاہلیت چھوڑ کر نیا نیا اسلام میں داخل ہوا تھا اور جاہلیت والے طور طریقے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے اور میں نے سواری پر بٹھانے سے اور جوتی دینے سے جو انکار کیا تھا یہ سب جاہلیت کا اثر تھا۔ اللہ نے ہمارے پاس کامل اسلام بھیجا ہے اس اسلام نے ان تمام کاموں پر پردہ ڈال دیا ہے جو میں نے کئے ہیں حضرت معاویہ نے کہا ہماری مدد کرنے سے آپ کو کوئی چیز روکتی ہے؟ حالانکہ حضرت عثمانؓ نے آپ پر بہت اعتماد کیا تھا اور آپ کو اپنا داماد بنایا تھا، میں نے کہا (میں اس وجہ سے آپ کی مدد نہیں کر رہا ہوں) کیونکہ آپ نے اس شخصیت سے جنگ کی ہے جو آپ سے زیادہ حضرت عثمانؓ کے حقدار ہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا میں نسب میں حضرت عثمانؓ کے زیادہ قریب ہوں تو وہ حضرت عثمانؓ کے مجھ سے زیادہ کیسے حقدار ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا حضورؐ نے حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ کے درمیان بھائی چارہ کر لیا تھا (اور آپ ان کے چچا زاد بھائی ہیں) اور بھائی چچا زاد بھائی سے زیادہ حقدار ہو کر تا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں مہاجرین سے لڑنا نہیں چاہتا، حضرت معاویہ نے کہا کیا ہم مہاجرین نہیں ہیں؟ میں نے کہا ضرور ہیں لیکن کیا ہم دونوں جماعتوں سے الگ نہیں

ہیں؟ اور ایک اور دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور ﷺ کی خدمت میں میں حاضر تھا اور بہت سے لوگ بھی وہاں تھے، حضورؐ نے مشرق کی طرف سر اٹھا رکھا تھا۔ (اور نگاہ بھی مشرق کی طرف تھی، حضورؐ نے ہمیں دیکھا) پھر اپنی نگاہ مشرق کی طرف لے گئے اور آپؐ نے فرمایا اندھیری سیاہ رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے تمہارے اوپر آئیں گے پھر آپؐ نے بتایا کہ وہ فتنے بہت سخت ہوں گے اور وہ جلدی آنے والے ہیں اور وہ بہت برے ہوں گے ان لوگوں میں سے میں نے حضورؐ سے پوچھا یا رسول اللہ! وہ فتنے کیا ہیں؟ آپؐ نے فرمایا اے وائل! جب مسلمانوں میں دو تلواریں ٹکرانے لگیں (مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں) تو تم ان دونوں سے الگ رہنا، حضرت معاویہؓ نے کہا کیا آپ شیعہ ہو گئے ہو؟ (یعنی حضرت علیؓ کے طرفدار اور مددگار ہو گئے ہو، میں نے کہا نہیں، میں تو تمام مسلمانوں کا بھلا چاہتا ہوں حضرت معاویہؓ نے کہا اگر میں نے آپؐ کی یہ باتیں پہلے سنی ہوتیں اور مجھے معلوم ہوتیں تو میں آپؐ کو یہاں نہ بلواتا، میں نے کہا کیا آپؐ کو معلوم نہیں کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت پر حضرت محمد بن مسلمہؓ نے کیا کیا تھا؟ انھوں نے چٹان پر مار مار کر اپنی تلوار توڑ دی تھی حضرت معاویہؓ نے کہا یہ انصار تو ہیں ہی ایسے لوگ کہ ان کی ایسی باتیں برداشت کر لی جائیں گی میں نے کہا حضورؐ کے اس فرمان کا ہم کیا کریں؟ کہ جس نے انصار سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے انصار سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا پھر حضرت معاویہؓ نے کہا آپؐ جو نسا شہر چاہیں اپنے لئے پسند کر لیں کیونکہ اب آپؐ حضر موت واپس نہیں جاسکتے ہیں، میں نے کہا میرا قبیلہ ملک شام میں ہے اور میرے گھر والے کوفہ میں ہیں، حضرت معاویہؓ نے کہا آپؐ کے گھر والوں میں سے ایک آدمی قبیلہ کے دس آدمیوں سے بہتر ہو گا (اس لئے آپؐ کو فہ چلے جائیں) میں نے کہا میں حضر موت واپس گیا تھا لیکن وہاں واپس جانے سے مجھے کوئی خوشی نہیں تھی کیونکہ انسان جہاں سے ہجرت کر کے چلا جائے اسے وہاں شدید مجبوری کے بغیر واپس نہیں جانا چاہئے، حضرت معاویہؓ نے کہا آپؐ کو کیا مجبوری تھی؟ میں نے کہا حضورؐ نے فتنوں کے بارے میں جو فرمایا تھا جسے میں ابھی ذکر کر چکا ہوں اس کی وجہ سے حضر موت چلا گیا تھا لہذا جب آپؐ لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا تو ہم آپؐ لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لیں گے اور جب آپؐ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم آپؐ لوگوں کے پاس آجائیں گے، حضرت معاویہؓ نے کہا میں نے آپؐ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا آپؐ وہاں چلے جائیں میں نے کہا میں نبی کریم ﷺ کے بعد کسی کی طرف سے ولایت قبول نہیں کر سکتا، کیا آپؐ نے دیکھا نہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے مجھے گورنر بنا دیا تھا لیکن میں

نے انکار کر دیا تھا پھر حضرت عمرؓ نے ہانا چاہا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا تھا پھر حضرت عثمانؓ نے ہانا چاہا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا تھا اور ان حضرات کی بیعت بھی میں نے نہیں چھوڑی تھی۔ جب ہمارے علاقہ کے لوگ مرتد ہو گئے تھے تو حضرت ابو بکرؓ کا میرے پاس خط لکھا تھا جس کی وجہ سے میں محنت کرنے لکڑا ہوا گیا تھا اور سارے علاقہ میں زور لگایا اور گورنری کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ سے تمام علاقہ والوں کو اسلام میں واپس فرمادیا تھا، پھر حضرت معاویہ نے حضرت عبدالرحمن بن ام حکمؓ کو بلا کر کہا تم کو فہ چلے جاؤ میں نے تمہیں وہاں کا گورنر بنا دیا ہے اور حضرت وائل کو ساتھ لے جاؤ ان کا اکرام کرنا اور ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا اس پر حضرت عبدالرحمن نے کہا آپ نے میرے ساتھ بدگمانی سے کام لیا، آپ مجھے انسان کے اکرام کا حکم دے رہے ہیں جس کا اکرام کرتے ہوئے میں نے حضور ﷺ، حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور خود آپ کو دیکھا ہے (لہذا آپ نہ بھی تاکید کریں تو بھی میں ان کا اکرام کروں گا) ان کی اس بات سے حضرت معاویہ بہت خوش ہوئے، میں ان کے ساتھ کو فہ گیر لوی کہتے ہیں کو فہ آنے کے تھوڑے عرصہ بعد ہی حضرت وائل کا انتقال ہو گیا۔

حضرت ابو منہال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب لندن زیاد کو (بصرہ سے) نکال دیا گیا تو شام میں مروان خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو گیا اور مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے خلافت کا دعویٰ کر دیا اور بصرہ میں ان (خارجی) لوگوں نے خلافت کا دعویٰ کر دیا جن کو قاری کہا جاتا تھا اس سے میرے والد صاحب کو بہت زیادہ غم ہوا، انھوں نے مجھ سے کہا تیرا لباپ نہ رہے! او حضور ﷺ کے صحابی حضرت ابو بکرؓ کے پاس چلتے ہیں چنانچہ میں والد صاحب کیساتھ گیا اور ہم لوگ حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں اگلے گھر حاضر ہوئے، وہ بانس کے بنے ہوئے بالاخانہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اس دن سخت گرمی پڑ رہی تھی، ہم ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے، میرے والد ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تاکہ وہ بھی اپنے دل کی باتیں کہنے لگیں چنانچہ میرے والد عرض کرتے اے ابو بکرؓ! کیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ (کہ لوگ یوں کر رہے ہیں) کیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ (کہ فلاں یہ کر رہا ہے)

حضرت ابو بکرؓ نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ آج صبح سے مجھے قریش کے خاندانوں پر

غصہ آرہا ہے اور مجھے امید ہے اس غصہ پر مجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے اے چھوٹے عربوں کی جماعت! تم جانتے ہی ہو کہ زمانہ جاہلیت میں تم لوگوں کی کیا حالت تھی، تعداد تھوڑی تھی لوگوں کی نگاہ میں تمہاری کوئی عزت نہیں تھی اور تم لوگ گمراہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کے ذریعہ دین اسلام دے کر تم لوگوں کو بلند کر دیا اور کج دنیا میں تمہاری بہت عزت ہے جیسے تم دیکھ رہے ہو لیکن اب دنیا نے تمہیں بگاڑنا شروع کر دیا ہے اور یہ جو ملک شام میں مروان ہے یہ بھی اللہ کی قسم! صرف دنیا کے لئے لڑ رہا ہے اور یہ جو مکہ میں ہے یعنی حضرت لادن زبیرؓ یہ بھی اللہ کی قسم! صرف دنیا کے لئے لڑ رہے ہیں اور یہ لوگ جو تمہارے ارد گرد ہیں جنہیں تم قاری کہتے ہو یہ بھی اللہ کی قسم! صرف دنیا کے لئے لڑ رہے ہیں، جب انھوں نے کسی کو نہ چھوڑا تو ان سے میرے والد نے پوچھا پھر ان حالات میں آپ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ انھوں نے کہا میرے خیال میں کج لوگوں میں سب سے بہترین وہ جماعت ہے جس نے خود کو زمین سے چننا رکھا ہو (گوشہ گمنامی اختیار کر لیا ہو) یہ فرماتے ہوئے وہ ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ان کے پیٹ لوگوں کے مال سے بالکل خالی ہوں اور کسی کے خون کا ان کی کمر پر بوجھ نہ ہو۔ لہ حضرت شمر بن عطیہؓ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہؓ نے ایک آدمی سے کہا کیا تمہیں اس بات سے خوشی ہو گی کہ تم سب سے بڑے بدکار آدمی کو قتل کر دو اس نے کہا ہاں ہو گی حضرت حذیفہؓ نے کہا (اسے قتل کر کے) تم اس سے زیادہ بڑے بدکار ہو جاؤ گے۔ ۱

## مسلمان کی جان ضائع کرنے سے بچنا

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے مجھ سے پوچھا جب تم کسی شہر کا محاصرہ کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم شہر کی طرف کھال کی مضبوط ڈھال دے کر کسی آدمی کو بھیجتے ہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ اگر شہر والے اسے پتھر ماریں تو اس کا کیا سنے گا؟ میں نے کہا وہ تو قتل ہو جائے گا، حضرت عمرؓ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! مجھے اس بات سے بالکل خوشی نہیں ہو گی کہ تم

۱۔ اخرجه البيهقي (ج ۸ ص ۱۹۳) و اخرجه البخاري والاسماعيلي و يعقوب بن سفيان في

تاريخه عن ابن المنهال بنحوه كما في فتح الباري (ج ۱۳ ص ۵۷).

۲۔ اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ۱ ص ۲۸۰).

لوگ ایک مسلمان کی جان ضائع کر کے ایسا شہر فتح کر لو جس میں چار ہزار جنگجو جوان ہوں۔

## مسلمان کو کافروں کے ہاتھ سے چھڑانا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایک مسلمان کو کافروں کے ہاتھ سے چھڑاؤں یہ مجھے سارے جزیرۃ العرب (کے مل جانے) سے زیادہ محبوب ہے۔

## مسلمان کو ڈرانا، پریشان کرنا

حضرت ابو الحسنؓ بیعت عقبہ میں بھی شریک ہوئے تھے اور جنگ بدر میں بھی، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کھڑا ہو کر کہیں چلا گیا اور اپنی جوتیاں وہاں ہی بھول گیا، ایک آدمی نے وہ جوتیاں اٹھا کر اپنے نیچے رکھ لیں، وہ آدمی واپس آ کر کہنے لگا میری جوتیاں (کہاں ہیں؟) لوگوں نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھیں (تھوڑی دیر وہ پریشان ہو کر ڈھونڈتا رہا) پھر اس کے بعد جس آدمی نے چھپائی تھیں اس نے کہا جوتیاں یہ ہیں اس پر حضورؐ نے فرمایا مومن کو پریشان کرنے کا کیا جواب دو گے؟ اس آدمی نے کہا میں نے تو مذاق میں چھپائی تھیں حضورؐ نے دو یا تین مرتبہ یہی فرمایا مومن کو پریشان کرنے کا کیا جواب دو گے؟ حضرت عامر بن ربیعہؓ فرماتے ہیں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی جوتی لے کر مذاق میں غائب کر دی، کسی نے اس کا تذکرہ حضور ﷺ سے کیا حضورؐ نے فرمایا کسی مسلمان کو پریشان مت کرو کیونکہ مسلمان کو پریشان کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔

حضرت نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ سفر میں چل رہے تھے ایک آدمی کو اپنی سواری پر اونگھ آگئی۔ دوسرے نے اس کے ترکش میں سے ایک تیر نکال لیا جس سے وہ آدمی چونک گیا اور ڈر گیا اس پر حضورؐ نے فرمایا کسی کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔

۱۔ اخرجہ البيهقي (ج ۹ ص ۴۲) و اخرجہ الشافعي مثله كما في الكنز (ج ۳ ص ۱۶۵) الا ان عنده هيئتا من جلود ۲۔ اخرجہ ابن ابی شيبه كذا في كنز العمال (ج ۲ ص ۳۱۲)  
۳۔ اخرجہ الطبراني كذا في الترغيب (ج ۴ ص ۲۶۳) قال الهيثمي (ج ۶ ص ۲۵۳) رواه الطبراني وفيه حسين بن عبدالله بن عبيدالله الهاشمي وهو ضعيف، انتهى و اخرجہ ايضا ابن السكن مثله كما في الاصابة (ج ۴ ص ۴۳)

۴۔ عند البزار و الطبراني و ابی الشيخ (بن حيان) في كتاب التوبيخ كذا في الترغيب (ج ۴ ص ۲۴۳) قال الهيثمي (ج ۶ ص ۲۵۳) وفيه عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف.

۵۔ اخرجہ الطبراني في الكبير و رواه ثقات



حضرت عبدالرحمن بن ابی لبیبؓ کہتے ہیں ہمیں حضور ﷺ کے چند صحابہؓ نے یہ قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ حضورؐ کے ساتھ چل رہے تھے کہ ان میں سے ایک آدمی کو نیند آگئی دوسرے آدمی نے جا کر اس کی رسی لے لی اور اسے چھپا دیا، جب اس سونے والی کی آنکھ کھلی اور اسے اپنی رسی نظر نہ آئی تو وہ پریشان ہو گیا، اس پر حضورؐ نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو پریشان کرے۔

حضرت سلیمان بن صردؓ فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے حضور ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اس کے پاس ایک رسی بھی تھی جو کسی نے لے لی جب حضورؐ نے سلام پھیرا تو اس دیہاتی نے کہا میری رسی پتہ نہیں کہاں چلی گئی؟ یہ سن کر کچھ لوگ ہنسنے لگے اس پر حضورؐ نے فرمایا جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ وہ کسی مسلمان کو ہرگز پریشان نہ کرے۔

### مسلمان کو ہلکا اور حقیر سمجھنا

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضرت اسامہؓ ٹھوکر کھا کر دروازے کی چوکھٹ پر گر گئے جس سے ان کی پیشانی پر چوٹ لگ گئی، حضور ﷺ نے فرمایا اے عائشہؓ! اس کا خون صاف کر دو، مجھے ان سے ذرا گھن آئی، اس پر حضورؐ ان کی چوٹ سے خون چوس کر تھوکنے لگے اور فرمانے لگے اگر اسامہؓ لڑکی ہوتا تو میں اسے ایسے کپڑے پہناتا اور ایسے زیور پہناتا پھر میں اس کی شادی کر دیتا۔

حضرت عطاء بن یسارؓ فرماتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما جب شروع میں مدینہ آئے تو ان کو چچک نکل آئی اور وہ اس وقت اتنے چھوٹے تھے کہ ان کی رینٹ ان کے منہ پر بہتی رہتی تھی، حضرت عائشہؓ کو ان سے گھن آتی تھی ایک دن حضورؐ گھر تشریف لائے اور حضرت اسامہؓ کا منہ دھونے لگے اور انہیں چومنے لگے اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! حضورؐ کے اس رویہ کو دیکھنے کے بعد اب میں کبھی بھی ان کو اپنے سے دور نہیں کروں گی۔

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کے انتظار

۱ عندی داؤد کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۲۶۲) و اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۶ ص ۲۵۴) رواہ الطبرانی من رواہ ابن عیینہ عن اسماعیل بن مسلم فان کان هو العبدی فہو من رجال الصحیح وان کان ہو المکی فہو ضعیف وبقیۃ رجالہ ثقات، انتہی

۲ اخرجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۴۳) و اخرجہ ابن ابی شیبہ نحوہ کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۳۵) عند الواقدی و ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۳۶)

میں عرفات سے (مزدلفہ کو) روانگی موخر فرمادی، جب حضرت اسامہؓ آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ نو عمر لڑکے ہیں ناک بیٹھی ہوئی ہے اور رنگ کالا ہے اس پر یمن والوں نے کہا اس (لڑکے) کی وجہ سے ہمیں اتنی دیر روکا گیا، حضرت عروہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے یمن والے کفر میں مبتلا ہوئے، حضرت لئن سعد رلوی کہتے ہیں میں نے حضرت یزید بن ہارون سے پوچھا کہ حضرت عروہ جو یہ فرما رہے ہیں اسی وجہ سے یمن والے کفر میں مبتلا ہوئے اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں یمن والے جو مرتد ہوئے وہ حضورؐ کے اس رویہ کو حقیر سمجھنے کی سزا میں ہوئے لئن عسا کر کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عروہ نے فرمایا حضورؐ کی وفات کے بعد یمن والے حضرت اسامہؓ (کو حقیر سمجھنے) کی وجہ سے ہی کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔<sup>۱</sup>

حضرت حسنؓ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰؓ کے پاس کچھ لوگ آئے ان میں سے جو عرب تھے ان کو تو حضرت ابو موسیٰؓ نے دیا اور جو عجمی غلام تھے ان کو نہ دیا، حضرت عمرؓ (کو اس کا پتہ چلا تو) انہوں نے حضرت ابو موسیٰؓ کو یہ لکھا کہ تم نے ان سب کو برابر کیوں نہ دیا؟ آدمی کے برا ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔<sup>۲</sup> حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آدمی کو برا ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔<sup>۳</sup>

## مسلمان کو غصہ دلانا

حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو سفیانؓ (ابھی کافر تھے وہ) حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلالؓ کے پاس آئے یہ حضرات صحابہؓ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے ان حضرات نے کہا اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن کی گردن میں اپنی جگہ ابھی تک نہیں بتائی (یعنی ابھی تک حضرت ابو سفیان کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟) اس پر حضرت ابو بکرؓ نے ان حضرات سے کہا تم لوگ یہ بات قریش کے بزرگ اور ان کے سردار کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ اور پھر حضور ﷺ کی خدمت میں آکر حضرت ابو بکرؓ نے یہ بات بتائی، حضورؐ نے فرمایا اے ابو بکرؓ! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تم نے یہ بات کہہ کر ان کو غصہ دلایا ہے اگر تم نے ان کو غصہ دلایا ہے تو پھر تم نے اپنے رب کو غصہ دلایا ہے، حضرت ابو بکرؓ

۱۔ اخروجه ابن سعد (ج ۴ ص ۴۴) کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۳۵)

۲۔ اخروجه ابو عبید کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۳۱۹)

۳۔ عند احمد فی الزهد کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۷۲)

ان حضرات کے پاس آئے اور ان سے پوچھا اے بھائیو! کیا میں نے تم کو غصہ دلایا ہے؟ ان حضرات نے فرمایا نہیں، اے بھائی! اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔

حضرت صہیبؓ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا حضرت ابو بکرؓ اپنا ایک قیدی لے کر میرے پاس سے گزرے وہ اس کے لئے حضور ﷺ سے پناہ لینا چاہتے تھے میں نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ میرا مشرک قیدی ہے میں اس کے لئے حضور سے امان لینا چاہتا ہوں میں نے کہا اس کی گردن میں تو تلوار کے لئے بہت اچھی جگہ ہے اس پر حضرت ابو بکرؓ کو غصہ آگیا حضورؐ نے انہیں دیکھا تو فرمایا کیا بات ہے تم بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا میں اپنا یہ قیدی لے کر حضرت صہیب کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا اس کی گردن میں تو تلوار کے لئے بہت اچھی جگہ ہے (ان کی اس بات سے مجھے غصہ کیا ہوا ہے) حضورؐ نے فرمایا شاید تم نے ان کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم نہیں، حضورؐ نے فرمایا اگر تم نے ان کو ستلایا ہے تو پھر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ستلایا ہے۔

### مسلمان پر لعنت کرنا

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے زمانہ میں ایک آدمی تھے جن کا نام عبد اللہ تھا اور ان کا لقب حمار تھا وہ حضور ﷺ کو ہنسلیا کرتے تھے حضورؐ نے انہیں شراب نوشی کی وجہ سے کوڑے بھی لگائے تھے، چنانچہ انہیں ایک دن لایا گیا (انہوں نے شراب پی رکھی تھی) حضورؐ نے حکم دیا کہ انہیں کوڑے لگائے جائیں چنانچہ انہیں کوڑے لگائے گئے اس پر ایک آدمی نے کہا اے اللہ اس پر لعنت بھیج، اسے (شراب پینے کے جرم میں) کتنا زیادہ لایا جاتا ہے حضورؐ نے فرمایا اسے لعنت نہ کرو اللہ کی قسم! جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت کرتا ہے۔ ۳ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں ایک آدمی کا لقب حمار تھا وہ حضور ﷺ کو گھی کی کچی اور شہد کی کچی ہدیہ میں دیا کرتے تھے جب گھی اور شہد والا ان سے قیمت لینے آتا تو اسے حضورؐ کی خدمت میں لے آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ! اسے اس کے سامان کی قیمت دے دیں اس پر حضورؐ صرف مسکراتے اور کچھ نہ فرماتے اور پھر آپ کے فرمانے پر قیمت اس

۱۔ اخرجه مسلم (ج ۲ ص ۳۰۴) و اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۴۶) و ابن عبد البر فی الاستیعاب (ج ۲ ص ۱۸۱) عن عائذ بن عمرو نحوه ۲۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی کنز العمال (ج ۷ ص ۴۹) ۳۔ اخرجه البخاری و ابن جریر و البیهقی

کو دے دی جاتی۔ ایک دن ان کو حضورؐ کی خدمت میں لایا گیا انھوں نے شراب پی رکھی تھی اس پر ایک آدمی نے کہا آگے کچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔

حضرت زید بن اسلمؓ کہتے ہیں کہ لئن نعمانؓ کو (شراب پینے کی وجہ سے) حضورؐ کی خدمت میں لایا گیا آپ نے ان کو کوڑے لگائے اور چار پانچ مرتبہ ایسے ہی ہوا (اسی جرم میں پکڑ کر انہیں لایا جاتا حضورؐ ان کو کوڑے لگاتے) آخر ایک آدمی نے کہہ دیا اے اللہ! اس پر لعنت بھیج، یہ کتنی زیادہ شراب پیتا ہے اور اسے کتنی مرتبہ کوڑے لگائے جا چکے ہیں، حضورؐ نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت کرتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں نبی کریمؐ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی، حضورؐ کے فرمانے پر صحابہؓ نے اسے مارا کسی نے اسے اپنی جوتی سے مارا کسی نے ہاتھ سے اور کسی نے کپڑے (کا کوڑا بنا کر اس) سے مارا۔ پھر آپ نے فرمایا اب بس کرو پھر حضورؐ کے فرمانے پر صحابہؓ نے اسے ملامت کی اور اس سے کہا تمہیں اللہ کے رسولؐ سے شرم نہیں آتی تم یہ (برا) کام کرتے ہو؟ پھر حضورؐ نے اسے چھوڑ دیا۔

جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو لوگ اسے بددعا دینے لگے اور اسے برا بھلا کہنے لگے کسی نے یہاں تک کہہ دیا اے اللہ! اسے رسوا فرما، اے اللہ! اس پر لعنت بھیج، حضورؐ نے فرمایا ایسے نہ کہو اور اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ ہو، بلکہ یہ دعا کرو اے اللہ! اس کی مغفرت فرما، اے اللہ! اسے ہدایت دے، ایک روایت میں یہ ہے کہ تم ایسے نہ کہو، شیطان کی مدد نہ کرو بلکہ یہ کہو اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔

حضرت سلمہ بن اکوعؓ فرماتے ہیں جب ہم دیکھتے کہ کوئی آدمی دوسرے کو لعنت کر رہا ہے تو ہم یہی سمجھتے کہ یہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا ہے یعنی اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔

## مسلمان کو گالی دینا

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک آدمی آکر حضورؐ کے سامنے بیٹھ گیا پھر اس نے عرض

۱ عند ابی یعلیٰ وسعید بن منصور وغیر ہما کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۰۷)  
 ۲ اخرجه عبدالرزاق کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۰۸) و عند ابن سعد (ج ۳ ص ۵۶) عن زید بن  
 اسلم قال ابی بالنجیمان او ابن النیمان الی النبی ﷺ فذکر نحوه  
 ۳ اخرجه ابن جریر کذا فی کنز العمال (ج ۳ ص ۱۰۵)  
 ۴ اخرجه الطبرانی باسناد جید کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۲۵۱)

لیا میرے چند غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں اس پر میں انہیں گالی دیتا ہوں اور انہیں مارتا ہوں تو میرا ان کے ساتھ یہ رویہ کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو انہوں نے جو تجھ سے خیانت کی اور تیری نافرمانی کی اور تجھ سے جھوٹ بولا اس کا حساب کیا جائے گا اور تم نے ان کو جو سزا دی اس کا بھی حساب کیا جائے گا اگر تمہاری سزا ان کے جرم کے برابر ہوگی تو معاملہ برابر برابر ہو جائے گا نہ تمہیں انعام ملے گا اور نہ سزا اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم ہوگی تو تمہیں ان پر فضیلت ہو جائے گی اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے زیادہ ہوگی تو اس زائد سزا کا تم سے بدلہ لیا جائے گا وہ آدمی یہ سن کر ایک طرف ہو کر زور زور سے رونے لگ گیا، حضور نے اس کو فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھتے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ (سورت انبیاء آیت ۷۷)

ترجمہ: ”اور (وہاں) قیامت کے روز ہم میزانِ عدل قائم کریں گے (اور سب کے اعمال کا وزن کریں گے) سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہو گا اور اگر (کسی کا) عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو گا تو ہم اس کو (وہاں) حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں“ تو اس آدمی نے کہلدار رسول اللہ! مجھے اپنے لئے اور ان غلاموں کے لئے اس سے بہتر صورت نظر نہیں آ رہی ہے کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں اس لئے میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ یہ سب غلام آزاد ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں ایک آدمی حضرت ابو بکرؓ کو برا بھلا کہہ رہا تھا حضور ﷺ بھی وہاں تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکرؓ کا جواب نہ دینا حضورؐ کو پسند آ رہا تھا اور حضورؐ مسکرا رہے تھے جب وہ آدمی بہت زیادہ برا بھلا کہنے لگا تو حضرت ابو بکرؓ نے بھی اس کی کسی بات کا جواب دے دیا، اس پر حضورؐ ناراض ہو کر وہاں سے کھڑے ہو کر چل دیئے، حضرت ابو بکرؓ بھی پیچھے چل پڑے اور جا کر حضورؐ سے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ بیٹھے رہے جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو آپ کو غصہ آ گیا اور آپ کھڑے ہو گئے حضورؐ نے فرمایا پہلے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا جب تم نے اس کی کسی بات کا جواب دے دیا تو شیطان پچ میں آؤ اور (اور فرشتہ چلا گیا) اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا پھر حضورؐ نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں جو بالکل حق ہیں جس بندے پر

کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس ظلم (کابلہ لینے) سے چشم پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زوردار مدد کریں گے اور جو آدمی جوڑ پیدا کرنے کے لئے ہدیہ دینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو خوب بڑھاتے ہیں اور جو مال بڑھانے کی نیت سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو لوہر کم کر دیتے ہیں۔ ۱۔

حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حضرت مقداد اور رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ دیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر میں عبداللہ کی زبان نہ کاٹوں تو میرے لو پر نذر واجب ہے، لوگوں نے حضرت عمرؓ سے اس بارے میں بات کی اور ان سے معافی کی درخواست کی حضرت عمرؓ نے کہا مجھے اس کی زبان کاٹنے دو تاکہ آئندہ حضور ﷺ کے کسی صحابی کو گالی نہ دے سکے۔ ۲۔

حضرت یحییٰ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت مقدادؓ کے درمیان ذر بابت بڑھ گئی اور حضرت عبداللہ نے حضرت مقدادؓ کو گالی دے دی، حضرت مقدادؓ نے حضرت عبداللہ کی ان کے والد حضرت عمرؓ سے شکایت کی، تو حضرت عمرؓ نے نذر مان لی کہ وہ حضرت عبداللہ کی زبان ضرور کاٹیں گے جب حضرت عبداللہ کو اپنے والد سے خطرہ ہوا تو انھوں نے کچھ لوگوں کو اپنے والد کے پاس سفارش کے لئے بھیجا (ان کی بات سن کر) حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے اس کی زبان کاٹنے دو تاکہ یہ مستقل قانون بن جائے جس پر میرے بعد بھی عمل ہو تا رہے کہ جو آدمی بھی حضور ﷺ کے کسی صحابی کو گالی دیتا ہو لپیلا جائے گا اس کی زبان ضرور کاٹی جائے گی۔ ۳۔

## مسلمان کی برائی بیان کرنا

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ کے پاس ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی برائی بیان کی حضورؐ نے اس سے فرمایا یہاں سے اٹھ جا تیرے کلمہ شہادت کا اعتبار نہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ! میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا، حضورؐ نے فرمایا تم قرآن کا مذاق اڑا رہے ہو، جو قرآن کے حرام کردہ کاموں کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا (قرآن میں مسلمان کی غیرت کو حرام قرار دیا گیا ہے اور تم غیرت کر رہے ہو) ۴۔

حضرت طارق بن شہابؓ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولیدؓ کے درمیان کچھ تیز بات

۱۔ اخروجه احمد والطبرانی قال الهیثمی (ج ۸ ص ۱۹۰) رجال احمد رجال الصحيح ورواه ابو داؤد الا انه لم يذكر ثم قال با ابا بكر  
 ۲۔ اخروجه احمد واللائل لکافی فی السننہ و ابو القاسم  
 ۳۔ عند ابن عساکر کذا فی منتخب کنز العمال (ج ۴ ص ۴۲۴)  
 ۴۔ اخروجه ابو نعیم کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۳۱)

ہو گئی، حضرت سعدؓ کے پاس بیٹھ کر ایک آدمی حضرت خالد کی برائیاں بیان کرنے لگا حضرت سعدؓ نے کہا چپ رہو۔ ہمارے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ (وہیں ختم ہو گئی تھی وہ آگے بڑھ کر) ہمارے دین تک نہیں پہنچ سکتی (کہ اس جھگڑے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی برائیاں بیان کر کے دین کا نقصان کر لیں)۔

## مسلمان کی غیبت کرنا

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضرت (ما عزن مالک) اسلمیؓ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے چار مرتبہ اپنے بارے میں اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے ایک عورت سے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ ہر مرتبہ حضورؐ دوسری طرف منہ پھیر لیتے تھے۔ پھر آگے حدیث کا مضمون لور بھی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ حضورؐ کے فرمان پر ان کو رجم کیا گیا۔ پھر حضورؐ نے اپنے دو صحابہؓ کو سنا کہ ان میں سے ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا اس آدمی کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے جرم پر پردہ ڈالا تھا لیکن یہ خود اپنے پیچھے پڑ گیا جس کی وجہ سے اسے کتے کی طرح پتھر مارے گئے۔ حضورؐ یہ سن کر خاموش ہو گئے پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ کا گزر ایک مردار گدھے کے پاس سے ہوا جس کا پاؤں پھولنے کی وجہ سے لوہا اٹھا ہوا تھا۔ حضورؐ نے فرمایا فلاں اور فلاں دونوں کہاں ہیں؟ ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم دونوں یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم دونوں نیچے اترو اور اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے کہا یا نبی اللہ! اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اس کو کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی تم دونوں نے اپنے بھائی کے (پیٹھے پیچھے) بے عزتی کی ہے وہ مردار کھانے سے زیادہ سخت ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے ایک عورت کو رجم کیا جس کے بارے میں ایک مسلمان نے کہا اس عورت کے تمام نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ حضورؐ نے فرمایا نہیں بلکہ اس رجم نے تو اس کے برے عمل کو مٹا دیا اور تم نے جو (اس کی غیبت کا برا)

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۹۴) اخرجہ الطبرانی عن طارق مثله قال الہیثمی (ج ۷ ص ۲۲۳) ورجاله رجال الصحیح النہی.

۲۔ اخرجہ عبدالرزاق و ابو داؤد کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۹۳) و اخرجہ ابن حبان فی صحیحہ عن ابی ہریرہ نحوہ کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۲۸۸) و اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۱۰۸) نحوہ مختصر او صحیحہ ابن حبان کما قالہ الحافظ الفتح (ج ۱۰ ص ۳۶۱)

عمل کیا ہے اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے حضور ﷺ کو کہا کہ حضرت صفیہؓ کی طرف سے آپ کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی چھوٹے قد والی ہے حضورؐ نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملایا جائے تو یہ بات اس کے پانی کا مزہ خراب کر دے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ حضورؐ کے سامنے کسی آدمی کی نقل اتار دی۔ حضورؐ نے فرمایا مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ مجھے اتنا اور اتنا مال مل جائے اور تم میرے سامنے کسی انسان کی نقل اتارو۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضرت صفیہؓ بنت حبیبہؓ کا لونٹ ہمارا ہو گیا۔ حضرت زینبؓ کے پاس زائد لونٹ تھا۔ حضورؐ نے حضرت زینبؓ سے کہا تم صفیہؓ کو ایک لونٹ دے دو۔ حضرت زینبؓ نے کہا میں اور اس یہودن عورت کو لونٹ دوں؟ حضورؐ یہ سن کر ان سے ناراض ہو گئے اور ذوالحجہ، محرم اور صفر چند دن تک حضرت زینبؓ کو حضورؐ نے چھوڑے رکھا (ان کے ہاں نہ جاتے تھے) یہاں تک کہ وہ حضورؐ سے مایوس ہو گئی تھیں۔ ۳

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی میں نے ایک عورت کے بارے میں کہا کہ یہ تو لمبے دامن والی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا تھو کو تھو کو (جو کچھ منہ میں ہے اسے باہر تھوک دو) چنانچہ میں نے تھوکا تو گوشت کا ایک ٹکڑا نکلا۔ ۴

حضرت زید بن اسلمؓ فرماتے ہیں مرض الوفا میں حضور ﷺ کی ازواج مطہرات حضورؐ کے پاس جمع ہوئیں۔ حضرت صفیہؓ بنت حبیبہؓ نے کہا اللہ کی قسم! میری دلی تمنا ہے کہ آپ کو جوہ ہمارا ہے وہ مجھے ہوتی۔ اس پر دوسری ازواج مطہرات نے (ان کی اس بات کو سچا نہ سمجھا اور اس وجہ سے انہوں نے) آنکھوں سے اشارہ کیا جسے حضورؐ نے دیکھ لیا تو حضورؐ نے فرمایا تم سب کلی کرو۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ! کس چیز سے کلی کریں؟

آپ نے فرمایا تم نے ابھی جو اپنی سوکن (حضرت صفیہؓ) کے بارے میں ایک دوسری کو آنکھ سے اشارہ کیا ہے اس وجہ سے (تم نے مردار کا گوشت کھا لیا ہے اس لئے) کلی کرو۔ اللہ کی قسم

۱۔ اخرجہ عبدالرزاق کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۹۳)

۲۔ اخرجہ ابو داؤد و الترمذی و البیہقی قال الترمذی حدیث حسن صحیح

۳۔ عند ابی داؤد ایضاً کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۲۸۴) و اخرجہ ابن سعد (ج ۸ ص ۱۰۵۸) نحوه و فی حدیثہ فتر کہا رسول اللہ ﷺ ذی الحجۃ و المحرم شہرین او ثلاثۃ لایا تیہا قالت زینب حتی ینست عنہ

۴۔ عند ابن ابی الدنیا کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۲۸۴)



یہ اپنی بات میں بالکل سچی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا (اور چلا گیا) صحابہؓ نے کہا یہ آدمی کس قدر عاجز ہے! طبرانی کی روایت میں ہے! کس قدر کمزور ہے! حضورؐ نے فرمایا تم نے اپنے ساتھی کی غیبت کی اور اس کا گوشت کھایا ہے۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ کے پاس سے ایک آدمی کھڑا ہوا۔ لوگوں کو اسکے کھڑے ہونے میں کمزوری نظر آئی تو انہوں نے کہا فلاں آدمی کس قدر کمزور ہے! حضورؐ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کر کے اس کا گوشت کھایا ہے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ نے پچھلی حدیث جیسی روایت کی ہے اور اس میں مزید مضمون بھی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ہم نے وہی بات کہی ہے جو اس میں موجود ہے۔ حضورؐ نے فرمایا (سچی تو یہ غیبت ہے) اگر تم وہ بات کہو جو اس میں نہ ہو پھر تو تم اس پر بہتان لگانے والے بن جاؤ گے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے پاس لوگوں نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا اور کہا کوئی دوسرا اس کے کھانے کا انتظام کرے تو یہ کھاتا ہے اور کوئی دوسرا اس کو سواری پر کجاوہ کس کر دے تو پھر یہ اس پر سوار ہوتا ہے (یہ بہت ست ہے اپنے کام خود نہیں کر سکتا) حضورؐ نے فرمایا تم اس کی غیبت کر رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم نے وہی بات کہی ہے جو اس میں موجود ہے۔ حضورؐ نے فرمایا غیبت ہونے کے لئے کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جو اس میں موجود ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا اس کے جانے کے بعد ایک آدمی اس کے عیب بیان کرنے لگ گیا۔ حضورؐ نے فرمایا توبہ کرو۔ اس آدمی نے کہا کس چیز سے توبہ کروں؟ حضورؐ نے فرمایا (غیبت کر کے) تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ ۵۔ یہی کی روایت میں یہ ہے کہ حضورؐ نے اس آدمی سے کہا

۱۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۸ ص ۱۲۸) وسندہ حسن کما فی الاصابۃ (ج ۴ ص ۳۴۸) واخرجہ ابن سعد ایضاً (ج ۲ ص ۳۱۳) من طریق عطاء بن یسار بمعناہ ۲۔ اخرجہ ابو یعلیٰ والطبرانی کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۲۸۵) قال الہیثمی (ج ۸ ص ۹۴) وفی اسناد ہما محمد بن ابی حمید ویقال لہ حمادو هو ضعیف جدا۔ انتہی ۳۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۹۴) وفیہ علی بن عاصم وهو ضعیف۔ ۴۔ اخرجہ الاصبہانی باسناد حسن عن عمرو بن شعب عن ابیہ عن جدہ کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۲۸۵) ۵۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ والطبرانی واللفظ لہ ورواہ رواۃ الصغیح کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۲۸۵)

تم خلال کرو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ! میں کس وجہ سے خلال کروں؟ میں نے گوشت تو کھایا نہیں۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا مجھ سے اجازت لئے بغیر کوئی بھی روزہ نہ کھولے۔ چنانچہ تمام لوگوں نے روزہ رکھ لیا شام کو لوگ آکر روزہ کھولنے کی اجازت مانگنے لگے آدمی آکر اجازت مانگتا اور کہتا یا رسول اللہ! میں نے آج سارا دن روزہ رکھا آپ اب مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں روزہ کھول لوں اتنے میں ایک آدمی نے آکر کہا یا رسول اللہ! آپ کے گھر کی دونوں جوان عورتوں نے آج سارا دن روزہ رکھا اور ان دونوں کو خود آکر آپ سے اجازت لینے سے شرم آ رہی ہے آپ انہیں بھی اجازت دے دیں تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ آپ نے اس آدمی سے منہ پھیر لیا۔ اس نے سامنے آکر پھر اپنی بات پیش کی حضور نے پھر منہ پھیر لیا۔ اس نے تیسری مرتبہ اپنی بات پیش کی حضور نے منہ پھیر لیا۔ اس نے چوتھی مرتبہ بات پیش کی تو اس سے منہ پھیر کر حضور نے فرمایا ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا اور اس آدمی کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتا رہا ہو؟ جاؤ اور دونوں سے کہو کہ اگر ان دونوں کا روزہ ہے تو قے کریں اس آدمی نے جا کر ان دونوں عورتوں کو حضور کی بات بتائی تو ان دونوں نے قے کی تو واقعی ہر ایک کی قے میں خون کا جما ہوا ٹکڑا نکلا اس آدمی نے آکر حضور کو بتایا حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر خون کے یہ ٹکڑے ان کے پیٹ میں رہ جاتے تو دونوں کو آگ کھاتی۔ امام احمد کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضور نے ان دونوں عورتوں میں سے ایک سے فرمایا قے کرو اس نے قے کی تو پیپ، خون، خون ملی پیپ اور گوشت نکلا جس سے آدھا پیالہ بھر گیا۔

پھر آپ نے دوسری سے فرمایا قے کرو اس نے قے کی تو پیپ، خون، خون ملی پیپ اور تازہ گوشت نکلا جس سے پورا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا ان دونوں نے روزہ تو ان چیزوں سے رکھا تھا جو اللہ نے ان کیلئے حلال کی تھیں لیکن اس چیز سے کھول لیا جو اللہ نے ان پر حرام کی تھی دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کے گوشت کھانے لگ گئی تھیں۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں عرب کے لوگ سفروں میں ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ساتھ ایک آدمی ہوا کرتا تھا جو ان دونوں کی

۱۔ نقلہ الہیثمی (ج ۸ ص ۹۴) ۲۔ اخرجه ابو داؤد والطیالسی وابن ابی الدنیا فی ذم الغیبة والبیہقی واخرجه احمد وابن ابی الدنیا ایضا والبیہقی من روایة رجل لم یسم عن عبید مولی رسول اللہ ﷺ بنحوہ ۳۔ کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۲۸۶)

خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ یہ دونوں سو گئے (اور اس کے ذمہ کھانا پکانا تھا وہ بھی سو گیا) جب یہ دونوں اٹھے تو دیکھا کہ وہ کھانا تیار نہیں کر سکا (بلکہ سو رہا ہے) تو ان دونوں حضرات نے کہا کہ یہ تو سوؤ ہے۔ ان حضرات نے اسے جگا کر کہا حضور ﷺ کی خدمت میں جا کر عرض کرو کہ ابو بکرؓ و عمرؓ آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہے ہیں اور آپ سے سالن مانگ رہے ہیں (اس نے جا کر حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا حضور ﷺ نے فرمایا وہ دونوں تو سالن سے روٹی کھا چکے ہیں (اس نے جا کر ان دونوں حضرات کو حضور کا جواب بتایا اس پر) ان دونوں حضرات نے اگر عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے کون سے سالن سے روٹی کھائی ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا اپنے بھائی کے گوشت سے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس کا گوشت تم دونوں کے سامنے والے دانتوں میں دیکھ رہا ہوں۔ ان دونوں حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے لئے استغفار فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا اس سے کہو وہ تم دونوں کے لئے استغفار کرے۔

### مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کو تلاش کرنا

حضرت مسور بن مخرمہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ایک رات حضرت عمر بن خطابؓ کے ساتھ مدینہ منورہ کا پہرہ دیا۔ یہ حضرات چلے جا رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں چراغ کی روشنی نظر آئی۔ یہ حضرات اس گھر کی طرف چل پڑے جب اس گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بھڑا ہوا ہے اور اندر کچھ لوگ زور زور سے بول رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا ہاتھ پکڑا کر پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کس کا گھر ہے؟

حضرت عبدالرحمن نے کہا نہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ حضرت ربیعہ بن امیہ بن خلفؓ کا گھر ہے اور یہ سب لوگ اس وقت شراب پئے ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ (ہمیں کیا کرنا چاہئے؟) حضرت عبدالرحمن نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ہم تو وہ کام کر بیٹھے جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَلَا تَجَسَّسُوا (سورت حجرات آیت ۱۲)

ترجمہ ”اور سرخ مت لگاؤ، اور ہم اس گھر والوں کے سرخ لگانے میں لگ گئے ہیں۔ حضرت عمرؓ انہیں اسی حال میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔

حضرت شعبیؓ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے اپنے ایک ساتھی کو کئی دن تک نہ دیکھا تو حضرت لنن عوفؓ سے کہا اؤ فلاں کے گھر جا کر دیکھتے ہیں (کہ وہ کس کام میں لگا ہوا ہے) چنانچہ یہ حضرات اس کے گھر گئے تو دیکھا کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے

اور اس کی بیوی برتن میں ڈال ڈال کر اسے دے رہی ہے، حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالرحمنؓ سے کہا اس کام میں لگ کر اس نے ہمارے پاس آنا چھوڑا ہوا ہے، حضرت ابن عوفؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس برتن میں کیا ہے؟ حضرت عمرؓ نے کہا کیا آپ کو یہ خطرہ پہنچے ہم تجسس کر رہے ہیں؟ (جس سے اللہ نے روکا ہے) حضرت عبدالرحمنؓ نے کہا بالکل یہ یقیناً تجسس ہے، حضرت عمرؓ نے کہا اب گناہ سے توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت عبدالرحمنؓ نے کہا آپ کو اس کی جو بات معلوم ہوئی ہے وہ اسے نہ بتائیں اور آپ اسے اپنے دل میں اچھا ہی سمجھیں، پھر وہ دونوں حضرات واپس چلے گئے۔

حضرت طاووسؓ کہتے ہیں کچھ مسافروں نے مدینہ کے ایک کوٹے میں آکر پڑاؤ ڈالا، حضرت عمر بن خطابؓ ایک رات ان کا پرہ دینے تشریف لے گئے، جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو حضرت عمرؓ کا ایک گھر پر گزر ہوا جس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کچھ پی رہے تھے، حضرت عمرؓ نے ان کو پکار کر کہا کیا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ کیا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا جی ہاں! کیا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ کیا اللہ

کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے سے (گھروں کے اندرونی حالات معلوم کرنے سے) منع کیا ہے، یہ سن کر حضرت عمرؓ ان کو اسی حال میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔

حضرت ثور کنڈیؓ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ رات کو مدینہ میں پرہ کے لئے گشت کرتے تھے ایک رات انھوں نے ایک آدمی کی آواز سنی جو گھر میں گانا گارہا تھا، حضرت عمرؓ دیوار پھاند کر اندر اس کے پاس چلے گئے اور یوں کہا اے اللہ کے دشمن! کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے اور اللہ تم پر پردہ ڈالے رکھیں گے؟ اس آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ میرے بارے میں جلدی نہ کریں اگر میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے اللہ کی تین نافرمانیاں کی ہیں پہلی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا تم تجسس نہ کرو اور آپ نے تجسس کیا ہے اللہ نے فرمایا ہے وَأَتُوا الْبَيْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا (سورہ بقرہ آیت ۱۸۹)

”اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔“ اور آپ دیوار پھاند کر میرے پاس آئے ہیں اور آپ بغیر اجازت کے آئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا (سورت نور آیت ۲)

۱۔ اخرجه ابن المنذر و سعيد بن منصور كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۶۷)

۲۔ اخرجه عبدالرزاق كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۴۱)

”تم اپنے خاص گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ (ان سے) اجازت حاصل نہ کر لو اور (اجازت لینے سے قبل) ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر میں تمہیں معاف کر دوں تو تمہارا خود کو خیر میں لگانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، اس پر حضرت عمرؓ نے اسے معاف کر دیا اور اسے چھوڑ کر باہر آگئے۔

حضرت سعدیؓ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطابؓ باہر تشریف لے گئے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی تھے انہیں ایک جگہ آگ کی روشنی نظر آئی یہ اس روشنی کی طرف چل پڑے یہاں تک کہ ایک گھر میں داخل ہو گئے یہ آدھی رات کا وقت تھا اندر جا کر دیکھا کہ گھر میں چراغ جل رہا ہے وہاں ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کوئی پینے کی چیز رکھی ہوئی ہے اور ایک باندی انہیں گانا سنارہی ہے، ان بوڑھے میاں کو اس وقت پتہ چلا جب حضرت عمرؓ اس کے پاس پہنچ گئے، حضرت عمرؓ نے فرمایا آج رات جیسا برا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے (اور وہ یہ برا کام کر رہا ہے) اس بوڑھے نے سر اٹھا کر کہا آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اے امیر المؤمنین! آپ نے جو کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے آپ نے گھر میں گھس کر تجسس کیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجسس سے منع فرمایا ہے اور آپ اجازت کے بغیر گھر کے اندر آگئے ہیں، حضرت عمرؓ نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور پھر حضرت عمرؓ دانت سے کپڑا پکڑ کر روتے ہوئے اس گھر سے باہر نکلے اور فرمایا اگر عمرؓ کو اس کے رب نے معاف نہ فرمایا تو اسے اس کی ماں گم کرے یہ بوڑھا یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر یہ کام کرتا ہے اب تو عمرؓ نے اسے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے لہذا اب وہ بلا جھجک یہ کام کرتا رہے گا، اس بوڑھے نے ایک عرصہ تک حضرت عمرؓ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا، ایک دن حضرت عمرؓ بیٹھے ہوئے تھے وہ بوڑھا ذرا اچھپتا ہوا آیا اور لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، حضرت عمرؓ نے اسے دیکھ لیا تو فرمایا اس بوڑھے کو میرے پاس لاؤ، ایک آدمی نے جا کر اس بوڑھے کو کہا جاؤ امیر المؤمنین بلارہے ہیں، وہ بوڑھا کھڑا ہوا اس کا خیال تھا کہ حضرت عمرؓ نے اس رات جو منظر دیکھا تھا آج اس کی سزا دیں گے، حضرت عمرؓ نے فرمایا میرے قریب آجاؤ، حضرت عمرؓ نے اسے اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ اسے اپنے پہلو میں بٹھالیا پھر فرمایا ذرا اپنا کان میرے نزدیک کرو، حضرت عمرؓ نے اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کر کہا غور سے سنو، اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد ﷺ کو حق دے کر اور رسول بنا کر بھیجا ہے! میں نے اس رات تمہیں جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ میں

نے کسی کو نہیں بتایا حتیٰ کہ حضرت ابن مسعودؓ اس رات میرے ساتھ تھے لیکن میں نے ان کو بھی نہیں بتایا، اس بوڑھے نے کہا اے امیر المؤمنین! ذرا اپنا کان میرے قریب کریں پھر اس بوڑھے نے حضرت عمرؓ کے کان کے ساتھ منہ لگا کر کہا اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد ﷺ کو حق دے کر رسول بنا کر بھیجا ہے میں نے بھی وہ کام اب تک دوبارہ نہیں کیا، یہ سن کر حضرت عمرؓ زور زور سے اللہ اکبر کہنے لگے اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمرؓ کس وجہ سے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔

حضرت ابو قلابہؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو محجن ثقفیؓ اپنے گھر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر شراب پیتے ہیں، حضرت عمرؓ تشریف لے گئے یہاں تک کہ حضرت ابو محجنؓ کے پاس ان کے گھر میں چلے گئے تو وہاں ان کے پاس صرف ایک آدمی تھا حضرت ابو محجنؓ نے کہا اے امیر المؤمنین! یہ (گھر میں اجازت کے بغیر) تجسس کے لئے داخل ہونا آپ کے لئے جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تجسس سے منع فرمایا ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت عبدالرحمن بن ارقمؓ نے کہا اے امیر المؤمنین! یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا اس طرح اندر جانا واقعی تجسس ہے، حضرت عمرؓ انہیں چھوڑ کر باہر آگئے۔

## مسلمان کے عیب کو چھپانا

حضرت شعبیؓ کہتے ہیں ایک آدمی نے آکر حضرت عمر بن خطابؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جسے میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ تو زندہ قبر میں دفن کر دیا تھا لیکن پھر مرنے سے پہلے اسے باہر نکال لیا تھا پھر اس نے ہمارے ساتھ اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان ہو گئی پھر اس سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس پر شرعی سزا لازم آتی ہے اس پر اس نے بڑی چھری سے خود کو ذبح کرنے کی کوشش کی ہم لوگ موقع پر پہنچ گئے اور اسے چالیا لیکن اس کے گلے کی کچھ رگیں کٹ گئی تھیں پھر ہم نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اس کی دینی حالت بہت اچھی ہو گئی اب ایک قوم کے لوگ اس کی شادی کا پیغام دے رہے ہیں میں انہیں اس کی ساری بات بتا دوں؟ حضرت عمرؓ نے کہا اللہ نے تو اس کا عیب چھپایا تھا تم اسے ظاہر کرنا چاہتے ہو اللہ کی قسم! اگر تم نے کسی کو اس لڑکی کی کوئی

۱۔ اخرجه ابو الشيخ كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۴۱)

۲۔ اخرجه الطبرانی كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۴۱)

بات بتائی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جس سے تمام شہریوں کو عبرت ہو گئی بلکہ اس کی شادی اس طرح کرو جس طرح ایک پاک دامن مسلمان عورت کی کی جاتی ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت شعبیؓ کہتے ہیں ایک لڑکی سے برا کام ہو گیا جس کی اسے شرعی سزا مل گئی پھر اس کی قوم والے ہجرت کر کے آئے اور اس لڑکی نے توبہ کر لی اور اس کی دینی حالت اچھی ہو گئی، اس لڑکی کی شادی کا پیام اس کے چچا کے پاس آیا تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے اس کی بات بتائے بغیر شادی کر دے تو یہ بھی ٹھیک نہیں المانداری کے خلاف ہے اور اگر بتا دے تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ستر مسلم کے خلاف ہے۔ اس کے چچا نے یہ بات حضرت عمر بن خطابؓ کو بتائی تو حضرت عمرؓ نے فرمایا (بالکل نہ بتاؤ اور) اس کی ایسے شادی کرو جیسے تم اپنی نیک بھلی لڑکیوں کی کرتے ہو۔<sup>۲</sup>

حضرت شعبیؓ کہتے ہیں ایک عورت نے اگر حضرت عمرؓ کی خدمت میں کہا ہے امیر المؤمنین! مجھے ایک چہ ملا اور اس کے ساتھ ایک مصری سفید کپڑا ملا جس میں سو دینار تھے میں نے دونوں کو اٹھا لیا (اور گھر لے آئی) اور اس بچے کے لئے دودھ پلانے والی عورت کا اجرت پر انتظام کیا اب میرے پاس چار عورتیں آتی ہیں اور وہ چاروں اسے چومتی ہیں۔ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ ان چاروں میں سے کون اس بچے کی ماں ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا اب جب وہ عورتیں آئیں تو مجھے اطلاع کر دینا (وہ عورتیں آئیں تو) اس عورت نے حضرت عمرؓ کو اطلاع کر دی (حضرت عمرؓ اس کے گھر گئے) اور ان میں سے ایک عورت نے کہا تم میں سے کون اس بچے کی ماں ہیں؟ اس عورت نے کہا اللہ کی قسم! آپ نے (معلوم کرنے کا) اچھا انداز اختیار نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے عیب پر پردہ ڈالا ہے آپ اس کی پردہ دری کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا ہے۔ پھر اس پہلی عورت سے کہا آئندہ جب یہ عورتیں تمہارے پاس آئیں تو ان سے کچھ نہ پوچھنا اور ان کے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہنا اور پھر حضرت عمرؓ واپس تشریف لے گئے۔<sup>۳</sup>

حضرت صالح بن کرز کہتے ہیں میری ایک باندی سے زنا صادر ہو گیا۔ میں اسے لے کر حضرت حکم بن ایوبؓ کے پاس گیا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت انس بن مالکؓ تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے اور فرمایا اے صالح! یہ تمہارے ساتھ باندی کیوں ہے؟ میں نے کہا میری اس باندی سے زنا صادر ہو گیا ہے اب میں اس کا معاملہ امام کے سامنے لے جانا

۱۔ اخرجه هناد و الحارث كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۵۰)

۲۔ عند سعيد بن منصور والبيهقي كذا في الكنز (ج ۸ ص ۲۹۶)

۳۔ اخرجه البيهقي كذا في الكنز (ج ۷ ص ۳۲۹)

چاہتا ہوں تاکہ وہ اسے شرعی سزا دے۔ حضرت انسؓ نے کہا ایسے نہ کرو۔ اپنی باندی کو واپس لے جاؤ اور اللہ سے ڈرو اور اس کے عیب پر پردہ ڈالو۔ میں نے کہا نہیں میں ایسے نہیں کروں گا۔ حضرت انسؓ نے فرمایا ایسے نہ کرو اور میری بات مانو۔ وہ بار بار مجھ پر اصرار فرماتے رہے یہاں تک کہ میں باندی کو واپس گھر لے گیا۔<sup>۱</sup>

حضرت عقبہ بن عامرؓ کے منشی حضرت دینار بن ابیہشمؓ کہتے ہیں میں نے حضرت عقبہ بن عامرؓ سے کہا ہمارے چند بڑوسی شراب پیتے ہیں میں ان کے لئے پولیس کو بلانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ان کو پکڑ لیں۔ حضرت عقبہؓ نے کہا، ایسے نہ کرو بلکہ ان کو وعظ و نصیحت کرو اور ان کو ڈراؤ۔ میں نے کہا میں نے انہیں روکا تھا لیکن وہ ر کے نہیں اس لئے میں تو اب ان کے لئے پولیس کو بلانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ان کو پکڑ لیں۔ حضرت عقبہؓ نے کہا تمہارا اس ہو! ایسے نہ کرو کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کسی (مسلمان کے) عیب کو چھپایا تو گویا اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کیا۔<sup>۲</sup>

حضرت بلال بن سعد اشعریؓ کہتے ہیں حضرت معاویہؓ نے حضرت ابو الدرداءؓ کو خط میں لکھا کہ دمشق کے بد معاشوں کے نام لکھ کر میرے پاس بھیجو تو حضرت ابو الدرداءؓ نے فرمایا میرا دمشق کے بد معاشوں سے کیا تعلق؟ اور مجھے ان کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس پر ان کے بیٹے حضرت بلال نے کہا میں ان کے نام لکھ دیتا ہوں۔ اور ان کے نام لکھ کر دے دیجئے، حضرت ابو الدرداءؓ نے فرمایا تمہیں ان کا پتہ کہاں سے چلا؟ تمہیں ان کا پتہ اس وجہ سے چلا ہے کہ تم بھی ان میں سے ہو، اس لئے ان کے ناموں کی فہرست اپنے نام سے شروع کرو اور ان کے نام حضرت معاویہؓ کو نہ بھیجئے۔<sup>۳</sup>

حضرت شعبیؓ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ ایک گھر میں تھے ان کے ساتھ حضرت جریر بن عبد اللہؓ بھی تھے (اتنے میں کسی کی ہوا خارج ہو گئی جس کی) بدبو حضرت عمرؓ نے محسوس کی تو فرمایا میں تاکید کرتا ہوں کہ جس آدمی کی ہوا خارج ہوئی ہے وہ کھڑا ہو اور جا کر وضو کرے۔ اس پر حضرت جریر نے فرمایا اے امیر المؤمنین! کیا تمام لوگ وضو نہ کر لیں؟ (اس سے مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور جس کی ہوا خارج ہوئی اس کے عیب پر پردہ بھی پڑا)

۱۔ اخرجہ عبدالرزاق کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۹۴) ۲۔ اخرجہ ابو داؤد والنسائی کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۱۷) وقال رواہ ابو داؤد والنسائی بذكر القصة وبدونها وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال صحيح الاسناد قال المنذرى رجال اسانيدهم ثقاة ولكن اختلف فيه على ابراهيم بن شبيب اختلافا كثيرا ۳۔ اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۲۸۸)



رہے گا) حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ جاہلیت میں بھی بہت اچھے سردار تھے اور اسلام میں بھی بہت اچھے سردار ہیں (پردہ پوشی کی کیسی اچھی ترکیب آپ نے

بتائی) **مسلمانوں سے درگزر کرنا اور اسے معاف کرنا**

حضرت علیؓ فرماتے ہیں مجھے حضرت زبیر اور حضرت مقدادؓ کو حضور ﷺ نے بھجا اور فرمایا تم لوگ یہاں سے چلو اور روضہ خان (جو مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینہ سے بارہ میل کے فاصلہ پر ایک مقام ہے) پہنچ جاؤ وہاں ایک ہودہ نشین عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے وہ اس سے لے آؤ۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں سے چلے اور ہمارے گھوڑے ایک دوسرے سے مقابلہ میں خوب تیز دوڑ رہے تھے۔ جب ہم روضہ پہنچے تو ہمیں وہاں ایک ہودہ نشین عورت ملی ہم نے اس سے کہا خط نکال دے اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا خط نکال دے نہیں تو تیرے سارے کپڑے اتار دیں گے (اور تیری تلاش لیں گے کیونکہ جاسوس سے مسلمانوں کے راز کا خط لینے کے لئے اس کی کھروزی کرنا درست ہے) چنانچہ اس نے اپنے سر کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ وہ خط لے کر ہم لوگ حضور کی خدمت میں آئے تو وہ خط حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے مکہ کے چند مشرک لوگوں کے نام تھا جس میں انہوں نے حضور ﷺ کی بات لکھوائی۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں میں قبیلہ قریش میں سے نہیں ہوں بلکہ ان کا حلیف ہوں اور آپ کے ساتھ جو مکہ کے مہاجرین ہیں ان سب کی مشرکین مکہ سے رشتہ داری کی وجہ سے وہ مشرک مسلمانوں کے جو گھر والے اور مال و دولت مکہ میں ہے ان سب کی حفاظت کرتے ہیں (میرے بھی رشتہ دار مکہ میں ہیں) میں نے سوچا کہ قریش سے میرا نسبی رشتہ تو ہے نہیں اس لئے میں (آپ کا اذیتا کر) ان پر احسان کر دیتا ہوں اس وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں گے۔ میں نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا میں اپنے دین سے مرتد ہو گیا ہوں یا اسلام کے بعد اب مجھے کفر پسند آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا غور سے سنو یہ تم سے بات سچی کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں حضور نے فرمایا نہیں، یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے تمہیں کیا خبر؟ شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر فرمادیا ہو تم جو چاہے کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ

سورت نازل فرمائی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ** سے لے کر **فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ** تک (سورت ممتحنہ آیت ۱)

ترجمہ، اے ایمان والو! تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آچکا ہے وہ اس کے منکر ہیں۔ رسولؐ کو اور تم کو اس بناء پر کہ تم اپنے پروردگار، اللہ پر ایمان لا چکے ہو شہر بدر کر چکے ہیں اگر تم میرے راستے پر جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی ڈھونڈنے کی غرض سے (اپنے گھروں سے) نکلے ہو۔ تم ان سے چپکے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا علم ہے تم جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اور (آگے اس پر وعید ہے کہ) جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹے گا۔ لہٰذا امام احمد نے یہی حدیث حضرت جلد سے نقل کی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت حاطب نے عرض کیا کہ میں نے یہ کام نہ تو حضورؐ کو دھوکہ دینے کے لئے کیا ہے اور نہ منافق ہونے کی وجہ سے کیا ہے، مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولؐ کو غالب فرمائیں گے اور حضورؐ کا کوئی نقصان نہ ہوگا) اصل بات یہ تھی کہ میں قریش میں اجنبی باہر کا آدمی ہوں اور میری والدہ ان کے ساتھ رہتی ہیں تو میں نے چاہا کہ میں ان پر احسان کر دوں حضرت عمرؓ نے حضورؐ سے کہا کیا میں اس کا سر نہ اڑا دوں؟ حضورؐ نے فرمایا کیا تم اہل بدر میں سے ایک آدمی کو قتل کرو گے؟ تمہیں کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر فرمادیا ہو کہ تم جو چاہے کرو۔ ۱

حضرت ابو مطرؓ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت علیؓ کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور لوگوں نے بتایا کہ اس آدمی نے لونٹ چوری کیا ہے۔ حضرت علیؓ نے کہا میرے خیال میں تو تم نے چوری نہیں کی ہے اس نے کہا نہیں میں نے چوری کی ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا شاید تمہیں شبہ ہو (کہ تمہارا لونٹ ہے یا کسی اور کا) اس نے کہا نہیں۔ میں نے چوری کی ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا اے قنبر! اسے لے جاؤ اس کی انگلی باندھ دو، آگ جلا لو اور جلا دو ہاتھ کاٹنے کے لئے بلا لو اور میرے واپس آنے کا انتظار کرو۔ جب حضرت علیؓ واپس آئے تو اس آدمی سے کہا

۱۔ اخرجه البخارى واخرجه بقية الجماعة الا ابن ماجه وقال ترمذى حسن صحيح كذا فى البداية (ج ۴ ص ۲۸۴) ۲۔ تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الا امام احمد و اسناده على شرط مسلم كذا فى البداية (ج ۴ ص ۲۸۴) قال الهيثمى (ج ۹ ص ۳۰۳) رواه احمد و ابو يعلى و رجال احمد رجال الصحيح . انتهى واخرجه الحاكم ايضا كما فى الكنز (ج ۷ ص ۱۳۷) واخرجه ايضا ابو يعلى و البزار و الطبرانى عن عمر قال الهيثمى (ج ۹ ص ۳۰۴) و رجالهم رجال الصحيح اه و احمد و ابو يعلى عن ابن عمر و رجال احمد رجال الصحيح كما قال الهيثمى (ج ۹ ص ۳۰۳)

کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت علیؓ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس پر لوگوں نے کہا اے امیر المومنین! جب وہ ایک دفعہ آپ کے سامنے اقرار کر چکا ہے تو آپ نے اسے کیوں چھوڑا ہے۔ پھر حضرت علیؓ نے فرمایا حضور ﷺ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے چوری کی تھی حضور کے حکم فرمانے پر اس کا ہاتھ کاٹا جانے لگا تو حضور رو پڑے۔ میں نے عرض کیا آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں کیوں نہ روؤں جبکہ میرے امتی کا ہاتھ تم سب کی موجودگی میں کاٹا جا رہا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا آپ نے اسے معاف کیوں کر دیا؟ آپ نے فرمایا وہ بہت برا حاکم ہے جو شرعی سزا کو معاف کر دے۔ ہاں تم لوگ آپس میں یہ جرم ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ (شرعاً ثابت ہونے کے بعد حاکم معاف نہیں کر سکتا)

حضرت ابو ماجد حنفیؓ کہتے ہیں ایک آدمی حضرت لنن مسعودؓ کے پاس اپنے بچے کو لے کر آیا اس کا بھتیجا نشہ میں مدہوش تھا اس آدمی نے کہا میں نے اسے نشہ میں مدہوش پایا۔ حضرت لنن مسعودؓ نے حکم دیا تو اسے جیل خانہ میں ڈال دیا گیا۔ اگلے دن اسے جیل سے باہر نکالا اور فرمایا اسے مارو لیکن ہاتھ اتنا اٹھاؤ کہ بغل نظر آنے لگے اور ہر عضو کو اس کا حق دو۔ حضرت عبداللہ نے اسے اس طرح کوڑے لگوائے جو زیادہ سخت نہ تھے اور جلا د کا ہاتھ بھی زیادہ لوپر نہیں اٹھتا تھا۔ کوڑے لگوانے کے وقت اس آدمی نے جبہ اور شلوار پہنی ہوئی تھی۔ پھر حضرت لنن مسعودؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! یہ آدمی یتیم کا بہت برا سر پرست ہے (اے فلا نے) تم نے اسے تمیز نہ سکھائی اور نہ اسے اچھی طرح لوب اور سلیقہ سکھایا۔ اس نے رسوائی والا کام کر لیا تھا لیکن تم نے اس پر پردہ نہ ڈالا۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔

اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں اور جب کسی حاکم کے سامنے کسی کا جرم شرعاً ثابت ہو جائے تو اب اس حاکم پر لازم ہے کہ وہ اس مجرم کو شرعی سزا دے۔ پھر حضرت عبداللہ سنانے لگے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے جس کا ہاتھ کاٹا گیا وہ ایک انصاری آدمی تھا۔ جب اسے حضور ﷺ کی خدمت میں لایا گیا تو عم کے مارے حضور کا برا حال ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ حضور کے چہرے پر راکھ چھڑکی گئی ہو۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو اس آدمی کے لائے جانے سے بہت گرانی ہو رہی ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے گرانی کیوں نہ ہو جب کہ تم لوگ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار بنے ہوئے ہو؟ (تمہیں وہیں اسے معاف کر دینا چاہیے تھا) اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں اور وہ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں (میں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ) جب حاکم کے سامنے کوئی جرم شرعاً ثابت ہو جائے تو

ضروری ہے کہ وہ اس جرم کی شرعی سزا نافذ کرے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی :  
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا (سورت نور آیت ۲۲)

ترجمہ، اور چاہئے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔

حضرت عمرو بن شعیبؓ فرماتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے جو حد شرعی قائم کی گئی اس کی صورت یہ ہوئی کہ ایک آدمی حضور ﷺ کی خدمت میں لایا گیا پھر اس کے خلاف گواہوں نے گواہی دی۔ حضورؐ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے جب اس آدمی کا ہاتھ کاٹا جانے لگا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضورؐ کا چہرہ غم کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس پر راکھ چھڑک دی گئی ہو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو اس کے ہاتھ کے کٹنے سے سخت صدمہ ہو رہا ہے؟ حضورؐ نے فرمایا مجھے صدمہ کیوں نہ ہو جب کہ تم لوگ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار بنے ہوئے ہو؟ صحابہؓ نے عرض کیا آپ اسے چھوڑ دیتے (اور ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتے) حضورؐ نے فرمایا میرے پاس لانے سے پہلے تم لوگوں نے اسے کیوں نہیں چھوڑ دیا (میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ) امام کے سامنے جب حد شرعی ثابت ہو جائے تو وہ اسے روک نہیں سکتا۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں میں حج یا عمرہ میں حضرت عمرؓ کے ساتھ تھا ہم نے ایک سوار آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں تلاش کر رہا ہے اس آدمی نے آکر رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اگر تم مقروض ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں کسی کا ڈر ہے تو ہم تمہیں امن دیں گے لیکن اگر تمہیں کسی قوم کے پڑوس میں رہنا پسند نہیں ہے تو ہم تمہیں وہاں سے کسی اور جگہ لے جائیں گے۔ اس نے کہا میں قبیلہ بوعتیم کا آدمی ہوں، میں نے شراب پی تھی جس پر حضرت ابو موسیٰؓ نے مجھے کوڑے بھی لگوائے اور میرے سر کے بال بھی منڈوائے اور میرا منہ کالا کر کے لوگوں میں میرا چکر بھی لگوا لیا اور لوگوں میں یہ اعلان کر لیا کہ تم لوگ نہ اس کے پاس بیٹھو اور نہ اس کے ساتھ کھانا کھاؤ اس پر میرے دل میں تین باتیں آئی ہیں یا تو میں تلوار لے کر حضرت ابو موسیٰؓ کو قتل کر دوں یا میں آپ کے پاس آجاؤں اور آپ میری جگہ بدل دیں اور مجھے ملک شام بھیج دیں کیونکہ ملک شام والے مجھے جانتے نہیں ہیں۔ (اس لئے وہاں رہنا میرے لئے آسان ہو گا) یا میں دشمن سے جا ملوں اور ان کے ساتھ کھاؤں پیوں یہ سن کر حضرت عمرؓ رو پڑے اور فرمایا تم دشمن سے جا ملو اور مجھے بے انتہا مال مل جائے تب بھی مجھے اس سے ذرہ برابر خوشی نہیں ہوگی

اور میں تو زمانہ جاہلیت میں سب سے زیادہ شراب پینے والا تھا اور یہ شراب پینا زنا جیسا (جرم) نہیں ہے اور حضرت ابو موسیٰ کو یہ خط لکھوایا۔

”سلام علیک۔ لما بعد! قبیلہ بنو تیم کے فلاں بن فلاں نے مجھ سے اس طرح بیان کیا ہے۔ اللہ کی قسم! اگر آئندہ تم اس طرح دوبارہ کرو گے تو میں تمہارا منہ کالا کر کے لوگوں میں تم کو پھراؤں گا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر تم اس کے حق ہونے کو جاننا چاہتے ہو تو یہ حرکت دوبارہ کر کے دیکھو لہذا لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ لوگ اس کے ساتھ بیٹھا کریں اور اس کے ساتھ کھایا کریں اور اگر وہ (آئندہ شراب پینے سے) توبہ کر لے تو تم اس کی گواہی قبول کرو۔“

پھر حضرت عمرؓ نے اسے سواری بھی دی اور دو سو درہم بھی دیئے۔

## مسلمان کے نامناسب فعل کی اچھی تاویل کرنا

حضرت ابو عون وغیرہ حضرات کہتے ہیں حضرت خالد بن ولیدؓ نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں جو بات حضرت مالک بن نویرہؓ کی طرف سے پہنچی ہے اس کی بنیاد پر وہ مرتد ہو گئے ہیں۔ حضرت مالک نے اس دعویٰ کا انکار کیا اور کہا میں اسلام پر ہوں میں نے اپنا دین نہیں بدلا۔ حضرت ابو قتادہ اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے حضرت مالک کو آگے کیا اور حضرت ضرار بن ازور کو حکم دیا جس پر حضرت ضرار نے حضرت مالک کو قتل کر دیا (عدت گزرنے کے بعد) حضرت خالد نے حضرت مالک کی بیوی ام مہمم کو قبضہ میں لے کر اس سے شادی کر لی۔ جب حضرت عمر بن خطابؓ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت خالد نے حضرت مالک کو قتل کر کے ان کی بیوی سے شادی کر لی ہے تو انہوں نے حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا میں انہیں رجم نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے جس میں ان سے غلطی ہو گئی ہے حضرت عمرؓ نے کہا انہوں نے ناحق قتل کیا ہے اس لئے بدلہ میں آپ انہیں قتل کریں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا میں انہیں قتل بھی نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے جس میں ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا تو پھر انہیں معزول ہی کر دیں حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا جو تلوار اللہ نے کافروں پر سونپی ہے میں اسے کبھی بھی نیام میں نہیں کر سکتا۔

۱۔ اخرجه البيهقي كذا في الكنز (ج ۳ ص ۱۰۷)

۲۔ اخرجه ابن سعد كذا في الكنز (ج ۳ ص ۱۳۲)

## گناہ سے نفرت کرنا گناہ کرنے والے سے نفرت نہ کرنا

حضرت ابو قلابہؓ کہتے ہیں حضرت ابو الدرداءؓ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس سے کوئی گناہ صادر ہو گیا تھا اور لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حضرت ابو الدرداءؓ نے لوگوں سے کہا ذرا یہ تو بتاؤ اگر تمہیں یہ آدمی کسی کنویں میں گرا ہوا ملتا تو کیا تم اسے نہ نکالتے؟ لوگوں نے کہا ضرور نکالتے۔ حضرت ابو الدرداءؓ نے کہا تم اسے برا بھلا نہ کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس گناہ سے بچا رکھا ہے لوگوں نے کہا کیا آپ کو اس آدمی سے نفرت نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کے برے عمل سے نفرت ہے جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو پھر یہ میرا بھائی ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ تمہارے بھائی سے کوئی گناہ صادر ہو گیا ہے تو اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ کہ یہ بد دعائیں کرنے لگ جاؤ کہ اے اللہ! اسے رسوا فرما لے اللہ! اس پر لعنت بھیج بلکہ اللہ سے اس کے لئے اور اپنے لئے عافیت مانگو۔ ہم حضرت محمد ﷺ کے صحابہؓ اس وقت تک کسی آدمی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے تھے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اس کی موت کس حالت پر ہوئی ہے اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا تو ہم یقین کر لیتے کہ اسے بڑی خیر حاصل ہوئی ہے اور اگر اس کا خاتمہ برا ہوتا تو ہم اس کے بارے میں ڈرتے رہتے۔

## سینہ کو کھوٹ اور حسد سے پاک صاف رکھنا

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا تو اتنے میں ایک انصاری آئے جن کی ڈاڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور انہوں نے بائیں ہاتھ میں جو تیاں لٹکا رکھی تھیں۔ اگلے دن پھر حضورؐ نے وہی بات فرمائی تو پھر وہی انصاری اسی طرح آئے جس طرح پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن پھر حضورؐ نے ویسی ہی بات فرمائی اور وہی انصاری اسی حال میں آئے۔ جب حضورؐ مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ اس انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا میرا والد صاحب سے جھگڑا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں نے قسم کھالی ہے کہ میں تین دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ مجھے اپنے ہاں تین دن ٹھہرائیں۔ انہوں نے کہا ضرور۔ پھر حضرت عبداللہ بیان کرتے

۱۔ اخراجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۷۴) واخراجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص

۲۲۵) عن ابی قلابہ مثلاً ۲۔ اخراجہ ایضاً ابو نعیم (ج ۴ ص ۲۰۵)

تھے کہ میں نے ان کے پاس تین راتیں گزاریں لیکن میں نے ان کو رات میں زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔

البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی تو بستر پر اپنی کروٹ بدلتے اور تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے اور نماز فجر کے لئے بستر سے اٹھتے ہاں جب بات کرتے تو خیر ہی کی بات کرتے۔ جب تین راتیں گزر گئیں اور مجھے ان کے تمام اعمال عام معمول کے ہی نظر آئے (اور میں حیران ہوا کہ حضورؐ نے ان کے لئے عبادت تو اتنی بڑی دی لیکن ان کا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں) تو میں نے ان سے کہا اے اللہ کے بندے! میرا والد صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا نہ کوئی ناراضگی ہوئی اور نہ میں نے انہیں چھوڑنے کی قسم کھائی بلکہ قصہ یہ ہوا کہ میں نے حضورؐ کو آپ کے بارے میں تین مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے سوچا کہ میں آپ کے ہاں رہ کر آپ کا خاص عمل دیکھوں اور پھر اس عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلوں میں نے آپ کو کوئی بڑا کام کرتے ہوئے تو دیکھا نہیں تو اب آپ بتائیں کہ آپ کا وہ کونسا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس درجہ کو پہنچ گئے جو حضورؐ نے بتایا؟ انہوں نے کہا میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں وہی عمل ہیں جو تم نے دیکھے ہیں۔ میں یہ سن کر چل پڑا جب میں نے پشت پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں البتہ یہ ایک خاص عمل ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے اور کسی کو اللہ نے کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہو تو میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ میں نے کہا اسی چیز نے آپ کو اتنے بڑے درجے تک پہنچایا ہے! بزار کی روایت میں ان صحابی کا نام حضرت سعد بتایا ہے اور روایت کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت سعد نے حضرت عبد اللہ سے کہا اے میرے بھتیجے! میرے عمل تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں البتہ ایک عمل یہ ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ وغیرہ نہیں ہوتا یا اس جیسی بات ارشاد فرمائی، نسائی، بیہقی اور اصمہانی کی روایت میں یہ ہے کہ اس پر حضرت عبد اللہ نے کہا اسی چیز نے آپ کو اس بڑے درجے تک پہنچایا ہے اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے!۔

۱۔ اخرجه احمد باسناد حسن والنسائی ورواه ابو يعلى والبخاری بنحوه

۲۔ کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۳۲۸) قال الہیثمی (ج ۸ ص ۷۹) رجال احمد رجال الصحیح و كذلك احد اسنادی البزار الا ان سباق الحدیث لابن لہیعۃ او وقال ابن کثیر فی تفسیرہ (ج ۴ ص ۳۳۷) لحدیث احمد وهذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین او و اخرجه ایضا ابن عساکر و

رجالہ رجال الصحیح

لنن عسا کر کی روایت میں یہ ہے کہ ان صاحب کا نام حضرت سعد بن ابی وقاصؓ تھا اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت سعد نے کہا میرے عمل تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں البتہ ایک عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لئے برا جذبہ نہیں اور نہ میں زبان سے برا بول نکالتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا اسی چیز نے آپ کو اس بڑے درجے تک پہنچایا ہے یہ میرے بس میں تو ہے نہیں۔<sup>۱</sup>

حضرت زید بن اسلمؓ فرماتے ہیں کچھ لوگ حضرت ابو دجانہؓ کی خدمت میں آئے، وہ بیمار تھے لیکن ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ کیوں چمک رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اپنے اعمال میں سے دو عملوں پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی لایعنی بات نہیں کرتا تھا دوسرے یہ کہ میرا دل تمام مسلمانوں سے بالکل صاف تھا۔<sup>۲</sup>

### مسلمانوں کی اچھی حالت پر خوش ہونا

حضرت لنن بریدہ اسلمیؓ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت لنن عباسؓ کو برا بھلا کہا حضرت لنن عباسؓ نے کہا تم مجھے برا بھلا کہتے ہو حالانکہ مجھ میں تین عمدہ صفات پائی جاتی ہیں پہلی یہ کہ جب میں قرآن کی کسی آیت کو پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے اور دوسری یہ کہ جب میں مسلمانوں کے حاکم کے بارے میں سنتا ہوں کہ وہ انصاف والے فیصلے کرتا ہے تو اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے حالانکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کبھی بھی اپنا مقدمہ اس کے پاس فیصلہ کے لئے لے جانا ہی نہ پڑے اور تیسری یہ کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ مسلمانوں کے فلاں علاقہ میں بارش ہوئی ہے تو اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے حالانکہ اس علاقہ میں میرا کوئی چرنے والا جانور نہیں ہوتا۔<sup>۳</sup>

### لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا تاکہ ٹوٹ نہ جائیں

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ حضورؐ نے فرمایا اپنے خاندان کا برا آدمی ہے (آپ نے اجازت دے دی) جب وہ حاضر خدمت ہوا تو آپ نے بہت خوشی اور مسرت کا اظہار کیا پھر وہ آدمی چلا گیا پھر ایک اور آدمی نے اجازت مانگی حضورؐ نے فرمایا یہ اپنے خاندان کا اچھا آدمی ہے جب وہ اندر آیا تو حضورؐ نے کوئی خوشی اور مسرت کا اظہار نہیں کیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! فلاں نے

۱۔ کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۴۳) ۲۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۰۲)

۳۔ اخراجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۸۴) رواہ الطبرانی ورجالہ رجال الصحیح انتہی

واخراجہ البیہقی کما فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۳۳۴) و ابو نعیم فی الخلیفۃ (ج ۱ ص ۳۲۲) نحوہ



اجازت مانگی تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بر آدمی ہے لیکن جب وہ اندر گیا تو آپ نے اس کے سامنے بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا پھر دوسرے نے اجازت مانگی آپ نے اس کے بارے میں اچھے کلمات فرمائے لیکن جب وہ اندر گیا تو آپ کو اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جیسا آپ نے پہلے کے ساتھ کیا تھا۔ حضورؐ نے فرمایا اے عائشہؓ! لوگوں میں سب سے بر آدمی وہ ہے جس کے شرکی وجہ سے لوگ اس سے چتے ہوں۔ حضرت صفوان بن عسالؓ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ سامنے سے ایک آدمی آگیا تو آپ نے اسے اپنے قریب بٹھایا جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب آپ نے اسے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ اپنے خاندان کا ہر فرد ہے اور بر آدمی ہے لیکن جب وہ آیا تو اسے آپ نے اپنے قریب بٹھایا؟ آپ نے فرمایا منافق ہے میں اسی کے نفاق کی وجہ سے اس کے ساتھ نرمی برت رہا تھا کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ یہ دوسروں کو میرا مخالف بنادے گا اور انہیں بگاڑ دے گا۔ ۱

حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں قریش کا ایک آدمی سامنے سے آیا حضورؐ نے اسے اپنے قریب بٹھایا جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو آپ نے فرمایا اے بریدہ! تم اسے جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں یہ قریش کے اونچے خاندان کا آدمی ہے اور ان میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ آپ نے تین مرتبہ پوچھا۔ میں نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا۔ آخر میں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے اپنی معلومات کے مطابق آپ کو بتایا ہے ویسے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا۔

یہ ان لوگوں میں سے ہے جن (کے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں فرمائیں گے) کیونکہ ان کے پاس نیک عمل ہیں ہی نہیں۔ ۲  
حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں بعض دفعہ ہم لوگ کچھ لوگوں کے سامنے مسکرا رہے ہوتے لیکن ہمارے دل انہیں لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ ۳

۱۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۷) رواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح وفي الصحیح بعضہ انتہی واخرجہ البخاری فی الادب (ص ۱۹۰) مختصراً ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۴ ص ۱۹۱) قال ابو نعیم ہذا حدیث غریب ۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۷) وفيہ عون بن عمارة وهو ضعيف انتہی ۴۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۲۲) واخرجہ ابن ابی الدنیا وبراہیم الحریری فی غریب الحدیث والذیوری فی المجالسۃ عن ابی الدرداء فذكر مثله و زاد نضحك اليهم كما فی فتح الباری (ج ۱ ص ۴۰۳) وهكذا اخرجہ ابن عساکر كما فی الكنز (ج ۲ ص ۱۶۲)

## مسلمان کو راضی کرنا

حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت ابو بکرؓ نے انہوں نے اپنا کپڑا پکڑ کر کھا تھا جس سے ان کے گھٹنے ننگے ہو رہے تھے اور اس کا انہیں احساس نہیں تھا۔ انہیں دیکھ کر حضورؐ نے فرمایا تمہارے یہ ساتھی جھگڑ کر آرہے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے اگر سلام کیا اور عرض کیا میرے اور ابن الخطاب (رضی اللہ عنہ) کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی جلدی میں میں ان کو نامناسب بات کہہ بیٹھا لیکن پھر مجھے ندامت ہوئی جس پر میں نے ان سے معافی مانگی لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں (اب آپ جیسے فرمائیں) حضورؐ نے فرمایا اے ابو بکرؓ اللہ تمہیں معاف فرمائے اور ہر کچھ دیر کے بعد حضرت عمرؓ کو ندامت ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کے گھر آکر پوچھا کیا یہاں ابو بکرؓ ہیں؟ گھر والوں نے کہا نہیں۔ تو وہ بھی حضورؐ کی خدمت میں آگئے اور انہیں دیکھ کر حضورؐ کا چہرہ (غصہ کی وجہ سے) بلبلنے لگا جس سے حضرت ابو بکرؓ ڈر گئے اور انہوں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دود دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! قصور میرا زیادہ ہے پھر حضورؐ نے فرمایا اللہ نے مجھے تم لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو تم سب نے کہا تھا تم غلط کہتے ہو لیکن اس وقت ابو بکرؓ نے کہا تھا آپ ٹھیک کہتے ہیں اور انہوں نے اپنے مال اور جان کے ساتھ میرے ساتھ غم خواری کی پھر آپ نے دود دفعہ فرمایا کیا تم میرے اس ساتھی کو میری وجہ سے چھوڑ دو گے؟ چنانچہ حضورؐ کے اس فرمان کے بعد کسی نے حضرت ابو بکرؓ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا پھر حضرت ابو بکرؓ نے کہا (مجھ سے غلطی ہو گئی اس لئے) اے میرے بھائی! آپ میرے لئے اللہ سے استغفار کریں حضرت عمرؓ کو غصہ آیا ہوا تھا اس لئے خاموش رہے حضرت ابو بکرؓ نے یہ بات کئی مرتبہ کہی لیکن حضرت عمرؓ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ لوگ حضورؐ کی خدمت میں گئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے اور ساری بات حضورؐ کو بتادی۔ حضورؐ نے فرمایا (اے عمرؓ) تم سے تمہارا بھائی استغفار کا مطالبہ کر رہا ہے اور تم اس کے لئے استغفار نہیں کر رہے یہ کیا بات ہے؟ حضرت عمرؓ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر نبی بنا کر بھیجا ہے! یہ جتنی دفعہ مجھ سے استغفار کا مطالبہ کرتے رہے میں ہر دفعہ (چپکے سے) ان کے لئے استغفار کرتا تھا اور آپ کے بعد مجھے

بھی ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے۔ حضورؐ نے فرمایا میرے ساتھی کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچایا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تھا تو تم سب نے کہا تھا کہ تم غلط کہتے ہو اور ابو بکرؓ نے کہا تھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے (قرآن میں) ان کا نام سنا ہی نہ رکھا ہوتا تو میں انہیں غلیل (خاص دوست) بنا لیتا۔ بہر حال وہ میرے دینی بھائی تو ہیں ہی اور یہ بھائی چارہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ غور سے سنو (مسجد نبوی کی طرف کھلنے والی) ہر کھڑکی بند کر دو لیکن (ابو بکرؓ) لیکن اہل خفاہ کی کھڑکی کھلی رہنے دو۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہؓ نے مجھے انتقال کے وقت بلایا (میں ان کے پاس گئی تو مجھ سے) کہا ہمارے درمیان کوئی بات ہو جایا کرتی تھی جیسے سو کنوں میں ہوا کرتی ہے تو جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی ساری باتیں معاف فرمائے اور ان سے درگزر فرمائے اور ان باتوں کی سزا سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ حضرت ام حبیبہؓ نے کہا آپ نے مجھے خوش کیا اللہ آپ کو خوش فرمائے پھر حضرت ام حبیبہؓ نے پیغام بھیج کر حضرت ام سلمہؓ کو بلایا اور ان سے بھی یہی کہا۔<sup>۱</sup>

حضرت شعبیؒ کہتے ہیں جب حضرت فاطمہؓ ہمارے ہو گئیں تو حضرت ابو بکر صدیقؓ ان کے پاس آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت علیؓ نے کہا اے فاطمہؓ! یہ حضرت ابو بکرؓ آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہؓ نے کہا کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں ان کو اجازت دے دوں؟ حضرت علیؓ نے کہا ہاں۔ حضرت فاطمہؓ نے اجازت دی۔ حضرت ابو بکرؓ اندر آکر حضرت فاطمہؓ کو راضی کرنے لگے اور یوں کہا اللہ کی قسم! میں نے گھر بار، مال و دولت، اہل و عیال اور خاندان صرف اس لئے چھوڑا تھا تاکہ اللہ اور اس کے رسولؐ راضی ہو جائیں اور (حضورؐ کے) اہل بیت آپ لوگ راضی ہو جائیں بہر حال حضرت ابو بکرؓ نے انہیں راضی کرتے رہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئیں۔<sup>۲</sup>

حضرت شعبیؒ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے کہا مجھے فلاں آدمی سے نفرت ہے۔ کسی نے اگر اس آدمی سے کہا کیا بات ہے حضرت عمرؓ تم سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ جب بہت سے لوگوں نے گھر آکر اس آدمی کو یہ بات کہی تو اس آدمی نے اگر حضرت عمرؓ سے کہا اے عمرؓ! کیا میں نے (مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر کے) اسلام میں کوئی شکاف ڈالا ہے؟

۱۔ عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۴۵) رواہ الطبرانی ورجالہ رجال الصحیح . ۱۱

۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۸ ص ۱۰۰)

۳۔ اخرجہ البیہقی (ج ۲ ص ۳۰۱) قال البیہقی هذا مرسل حسن باسناد صحیح . ۵۱ و اخرجہ

ابن سعد (ج ۸ ص ۲۷) عن عامر (الشعبی) بنحوہ مختصراً .

حضرت عمرؓ نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا کیا میں نے اسلام میں کوئی نئی چیز چلا دی ہے؟ (جو سنت کے خلاف ہو) حضرت عمرؓ نے کہا نہیں۔ پھر اس آدمی نے کہا تو پھر آپ کس وجہ سے مجھ نے نفرت کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ يُضْمِلُوا بَهْتًا نَا وَأَلْمَا مِينًا (سورت احزاب آیت ۵۸)

لور جو لوگ ایمان والے مردوں کو لور ایمان والی عورتوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو ایذا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بار لیتے ہیں اور آپ نے (یہ جملہ کہہ کر) ایذا پہنچائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل معاف نہ کرے۔ حضرت عمرؓ نے کہا یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اللہ کی قسم! اس نے نہ تو شکاف ڈالا ہے اور نہ کچھ لور کیا ہے (واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے) اے اللہ! میری یہ غلطی معاف فرما لور حضرت عمرؓ اس سے معافی مانگتے رہے یہاں تک کہ اس نے معاف کر دیا۔

حضرت رجا بن ربيعةؓ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں حضور ﷺ کی مسجد میں ایک حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا اس حلقہ میں حضرت ابو سعیدؓ لور حضرت عبداللہ بن عمروؓ بھی تھے کہ اتنے میں اس حلقہ پر حضرت حسن بن علیؓ کا گزر ہوا انہوں نے سلام کیا سب حلقہ والوں نے جواب دیا لیکن حضرت عبداللہ بن عمروؓ خاموش رہے بلکہ کچھ دیر کے بعد وہ حضرت حسنؓ کے پیچھے گئے لور جا کر کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ پھر (حضرت ابو سعیدؓ ساتھ تھے ان سے) کہا یہ وہ انسان ہے جو تمام زمین والوں میں سے آسمان والوں کو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کی قسم! جنگ صفین کے بعد سے آج تک میں نے ان سے بات نہیں کی تو حضرت ابو سعیدؓ نے کہا آپ ان کے پاس جا کر اپنا عذر ان سے کیوں نہیں بیان کر دیتے؟ انہوں نے کہا بہت اچھا (میں تیار ہوں اتنے میں حضرت حسنؓ اپنے گھر میں اندر جا چکے تھے) حضرت عبداللہ وہاں کھڑے ہو گئے لور حضرت ابو سعیدؓ نے حضرت عبداللہ بن عمروؓ کے لئے اجازت مانگی (ان کو بھی اجازت مل گئی) لور وہ اندر چلے گئے۔ حضرت ابو سعیدؓ نے حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے کہا حضرت حسنؓ کے گزرنے پر آپ نے جو بات ہم سے کہی تھی وہ ذرا اب پھر کہہ دیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا بہت اچھا میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تمام زمین والوں میں سے آسمان والوں کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر حضرت حسنؓ نے فرمایا جب تمہیں معلوم ہے کہ میں تمام زمین والوں میں سے آسمان والوں کو سب سے زیادہ محبوب ہوں تو پھر تم نے جنگ صفین کے دن ہم سے جنگ کیوں کی یا تم نے ہمارے مخالفوں کی تعداد میں اضافہ کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کی

قسم! نہ تو میں نے لشکر کی تعداد میں اضافہ کیا اور نہ میں نے ان کے ساتھ ہو کر تلوار چلائی البتہ میں اپنے والد کے ساتھ گیا تھا۔ حضرت حسنؑ نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جس کام سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس کام میں مخلوق کی بات نہیں ماننی چاہیے؟ حضرت عبد اللہ نے کہا جب معلوم ہے لیکن میں والد کے ساتھ اس لئے گیا تھا کہ میں حضور ﷺ کے زمانے میں مسلسل روزے رکھا کرتا تھا میرے والد نے حضورؐ سے اس بارے میں میری شکایت کی اور یوں کہا یا رسول اللہ عبد اللہ بن عمرو دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے۔ حضورؐ نے مجھ سے فرمایا کبھی روزے رکھا کرو کبھی افطار کیا کرو اور رات کو کبھی نماز پڑھا کرو اور کبھی سویا کرو کیونکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور حضورؐ نے مجھ سے یہ بھی فرمایا تھا اے عبد اللہ! اپنے والد کی بات مانا کرو (چونکہ حضورؐ نے والد کی ماننے کی مجھے بہت تاکید کی تھی اس لئے) جب وہ جنگ صفین میں شریک ہوئے تو مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔

حضرت جبار بن ربیعہؓ کہتے ہیں میں حضور ﷺ کی مسجد میں تھا (وہاں اور لوگ بھی تھے) کہ اتنے میں حضرت حسین بن علیؑ وہاں سے گزرے انہوں نے سلام کیا لوگوں نے سلام کا جواب دیا لیکن حضرت عبد اللہ عمروؓ (بھی وہاں تھے وہ) خاموش رہے۔ جب لوگ خاموش ہو گئے تو پھر حضرت عبد اللہ نے بلند آواز سے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں تمہیں وہ آدمی نہ بتاؤں جو زمین والوں میں سے آسمان والوں کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور بتائیں۔ انہوں نے کہا یہی حضرت ہیں جو ابھی یہاں سے گزر گئے ہیں اللہ کی قسم! جنگ صفین کے بعد سے اب تک نہ میں ان سے بات کر سکا ہوں اور نہ انہوں نے مجھ سے بات کی ہے اور اللہ کی قسم! ان کا مجھ سے راضی ہو جانا مجھے احد پہاڑ جتنا مال ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو سعیدؓ نے ان سے کہا تم ان کے پاس چلے کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا میں جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ دونوں حضرات نے طے کیا کہ اگلے دن صبح ان کے پاس جائیں گے (وہ دونوں اگلے دن صبح ان کے پاس گئے) میں بھی دونوں حضرات کے ساتھ گیا۔ حضرت ابو سعیدؓ نے اندر آنے کی اجازت مانگی حضرت حسینؓ نے اجازت دے دی۔ میں اور حضرت ابو سعیدؓ اندر چلے گئے۔ حضرت ابو سعیدؓ نے حضرت ابن عمروؓ کے لئے اجازت مانگی لیکن حضرت حسینؓ نے اجازت نہ دی لیکن حضرت ابو سعیدؓ

اجازت مانگتے رہے آخر حضرت حسینؑ نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ اندر آئے انہیں دیکھ کر حضرت ابو سعید اپنی جگہ سے ہٹنے لگے وہ حضرت حسینؑ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت حسینؑ نے حضرت ابو سعید کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ حضرت ابن عمروؓ کھڑے رہے، بیٹھے نہیں جب حضرت حسینؑ نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے حضرت ابو سعیدؓ کو ذرا پرے کر کے بیٹھنے کی جگہ بنا دی۔ وہاں آکر حضرت عبداللہ دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے پھر حضرت ابو سعید نے سارا قصہ سنایا تو حضرت حسینؑ نے کہا تو پھر آپ نے جنگ صفین کے دن مجھ سے اور میرے والد سے جنگ کیوں کی؟ اللہ کی قسم! میرے والد تو مجھ سے بہتر تھے۔ حضرت عبداللہ نے کہا بالکل آپ کے والد آپ سے بھی بہتر ہیں لیکن بات یہ ہے کہ حضرت عمروؓ نے حضورؐ سے میری یہ شکایت کی تھی کہ عبداللہ دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے۔ حضورؐ نے مجھ سے فرمایا رات کو نماز بھی پڑھا کرو اور سو یا بھی کرو اور دن میں روزے بھی رکھا کرو اور اظہار بھی کیا کرو اور (اپنے والد) عمرو کی بات مانا کرو۔ جنگ صفین کے موقع پر انہوں نے مجھے قسم دے کر کہا تھا کہ اس میں شرکت کروں۔ اللہ کی قسم! میں نے نہ تو ان کے لشکر میں اضافہ کیا اور نہ میں نے تلوار سونتی اور نہ نیزہ کسی کو مارا اور نہ تیر چلایا۔ حضرت حسینؑ نے کہا کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جس کام سے خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں مخلوق کی نہیں مانتی چاہیے؟ حضرت عبداللہ نے کہا معلوم ہے۔ حضرت عبداللہ اپنا عذر بار بار بیان کرتے رہے جس پر آخر حضرت حسینؑ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا۔

## مسلمان کی ضرورت پوری کرنا

حضرت علیؓ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو نعمتوں میں سے کون سی نعمت سے نواز کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے ایک یہ کہ ایک آدمی یہ امید لگا کر میری طرف خلوص چہرہ کے ساتھ آتا ہے کہ اس کی ضرورت مجھ سے پوری ہوگی اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں اس کی ضرورت آسانی سے پوری کر دیتے ہیں (اب یہ اس کا مجھ سے اپنی امید لگانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے یا میرا اس کی ضرورت کو پورا کرنا بڑی نعمت ہے) اور میں کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کروں یہ مجھ زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔

## مسلمانوں کی ضرورت کے لئے کھڑا ہونا

حضرت ابو یزیدؓ کہتے ہیں کہ حضرت خولہؓ لوگوں کے ساتھ چلی جا رہی تھیں کہ ان سے حضرت عمر بن خطابؓ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت عمرؓ سے رکنے کو کہا حضرت عمرؓ رک گئے اور ان کے قریب آگئے اور ان کی طرف سر جھکا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھ کر ان کی بات سننے لگے (چونکہ بہت بوڑھی تھیں اس لئے حضرت عمرؓ نے انہیں سنبھالنے کے لئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے) اور یوں ہی کھڑے رہے یہاں تک کہ حضرت خولہؓ نے اپنی بات پوری کر لی اور واپس چلی گئیں۔ اس پر ایک آدمی نے حضرت عمرؓ سے کہا اے امیر المومنین! اس بڑھیا کی وجہ سے آپ نے قریش کے بڑے بڑے مردوں کو روک رکھا؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے سنی تھی یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ ہیں اللہ کی قسم! اگر یہ رات تک میرے پاس سے نہ ہٹیں تو میں بھی ان کی بات کے پورا ہونے تک یونہی کھڑا رہتا۔

حضرت ثمامہ بن حزنؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطابؓ اپنے گدھے پر چلے جا رہے تھے کہ انہیں ایک عورت ملی۔ اس عورت نے کہا ٹھہریے اے عمر! حضرت عمرؓ ٹھہر گئے۔ اس عورت نے حضرت عمرؓ سے بڑی سختی سے بات کی۔ اس پر ایک آدمی نے کہا اے امیر المومنین! میں نے آج جیسا منظر تو کبھی دیکھا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا میں اس عورت کی بات کیوں نہ سنوں جب کہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے سنا اور اسی عورت کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا (سورۃ مجادلہ آیت ۱)

ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملہ میں جھگڑتی تھی۔

## مسلمان کی ضرورت کے لئے چل کر جانا

حضرت لنن عباسؓ ایک مرتبہ حضور ﷺ کی مسجد میں محکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے (چپ چاپ) بیٹھ گیا۔ حضرت لنن عباسؓ نے اس سے فرمایا کہ میں

۱۔ اخبرجہ ابن ابی حاتم والدارمی والبیہقی

۲۔ عند البخاری فی تاریخہ وابن مردویہ کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۲۶۸)

تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے، اس نے کہا اے رسول اللہؐ کے چچا کے بیٹے میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے اور (نبی کریم ﷺ کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ) اس قبر والے کی عزت کی قسم! میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے کہا اچھا کیا میں اس سے تمہاری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا اگر آپ مناسب سمجھیں تو حضرت ابن عباسؓ یہ سن کر جو تا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے اس شخص نے عرض کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا بھولا نہیں ہوں بلکہ میں نے اس قبر والے (ﷺ) سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا (یہ لفظ کہتے ہوئے) ابن عباسؓ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضورؐ فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کام کیلئے حلقے اور اس کام میں کامیاب ہو جائے تو اس کیلئے یہ دس سال کے اعتکاف سے افضل ہے اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں آڑ فرمادیتے ہیں جن کی مسافت آسمان، زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے (اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو دس برس کے اعتکاف کی کیا کچھ ہوگی)۔

### مسلمان کی زیارت کرنا

حضرت عبداللہ بن قیسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ خصوصاً طور پر بھی اور عمومی طور پر بھی انصار کو ملنے بہت جایا کرتے تھے جب کسی سے خصوصی ملاقات کرنی ہوتی تو اس کے گھر تشریف لے جاتے اور جب عمومی ملاقات کرنی ہوتی تو ان کی مسجد میں تشریف لے جاتے (وہاں سب سے ملاقات ہو جاتی)۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ انصار کے ایک گھرانے سے ملنے تشریف لے گئے آپ نے ان کے پاس کھانا بھی کھایا جب آپ وہاں سے باہر آنے لگے تو آپ نے کمرے میں نماز پڑھنے کے لئے جگہ بنانے کا حکم دیا تو ان لوگوں نے آپ کے لئے ایک چٹائی بچھا کر اس پر پانی پھڑک دیا (تاکہ نرم ہو جائے) پھر آپ نے اس پر نماز پڑھی اور ان کے لئے دعا فرمائی۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ اپنے دو صحابہؓ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیتے تھے (تو ان میں آپس میں اتنی محبت ہو جاتی تھی) کہ جب تک ان میں سے ایک دوسرے سے مل نہ لیتا تھا اس وقت تک اسے وہ رات بہت لمبی معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے بھائی سے بڑی

۱۔ اخرجه الطبرانی والبیہقی واللفظ له والحاکم مختصر اوقال صحیح الا سناد کذا فی تریغیب

(ج ۲ ص ۲۷۲) ۲۔ اخرجه احمد قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۷۳) رواہ احمد وفیہ راو لم یسم

وفیہ رجالہ رجالہ الصحیح . انتہی ۳۔ اخرجه البخاری فی الادب (ص ۵۲)



محبت اور نرمی سے ملتا اور پوچھتا آپ میرے بعد کیسے رہے؟ اور دوسرے لوگوں کا (جن میں بھائی چاہ نہ ہوتا تھا) یہ حال تھا کہ تین دن کے اندر ہر ایک دوسرے سے مل کر اس کا سارا حال معلوم کر لیا کرتا تھا۔<sup>۱</sup>

حضرت عونؓ کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ساتھ (کوفہ سے مدینہ) ان کے پاس آئے تو ان سے حضرت عبداللہ نے پوچھا کیا تم ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے رہتے ہو ان لوگوں نے کہا (جی ہاں) یہ کام ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر پوچھا کیا تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا جی ہاں اے ابو عبداللہ الرحمن! (ہماری تو یہ حالت ہے کہ) ہم میں سے کسی کو اس کا بھائی نہیں ملتا تو وہ اسے پیدل ڈھونڈتا ہوا کوفہ کے آخر تک چلا جاتا ہے اور اسے مل کر ہی واپس آتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے تم لوگ خیر پر رہو گے۔<sup>۲</sup>

حضرت ام درداءؓ فرماتی ہیں حضرت سلمانؓ ہمیں ملنے کے لئے مدائن سے پیدل چل کر ملک شام آئے اس وقت انہوں نے گھنٹوں تک کی چھوٹی شلوار پہنی ہوئی تھی۔<sup>۳</sup>

### ملنے والوں کے لئے آنے والوں کا اکرام کرنا

حضرت لادن عمرؓ فرماتے ہیں میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضورؐ نے (اکرام کے لئے) میری طرف ایک تکیہ رکھ دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی لیکن میں (ادب کی وجہ سے) اس پر نہ بیٹھا اور وہ تکیہ یوں ہی میرے اور حضورؐ کے درمیان پڑا رہا۔<sup>۴</sup>

حضرت ام سعد بنت سعد بن ربیعؓ فرماتی ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خدمت میں گئی انہوں نے میرے لئے اپنا کپڑا لٹھا دیا جس پر میں بیٹھ گئی اتنے میں حضرت عمرؓ بھی اندر آ گئے انہوں نے پوچھا (کہ یہ عورت کون ہے جس کا یہ اکرام ہو رہا ہے؟) حضرت ابو بکرؓ نے کہا یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے بہتر تھا اور آپ سے بھی۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا اے خلیفہ رسول! وہ شخص کون ہے؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا یہ اس آدمی کی بیٹی ہے جس کا حضورؐ کے زمانہ میں انتقال ہو گیا اور انہیں جنت میں ٹھکانہ مل گیا اب پیچھے میں لو رہا ہے۔<sup>۵</sup>

۱۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۷۴) وفيہ عمران بن خالد الخزاعی وهو ضعيف

۲۔ اخرجہ الطبرانی وهذا منقطع كذا في الترغيب (ج ۴ ص ۱۴۴)

۳۔ اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۵۲) اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۷۴) رجالہ رجال الصحیح . اهـ ۴۔ اخرجہ الطبرانی كذا في الاصابة (ج ۲ ص ۲۷) قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۱۰)

۵۔ الحاكم الطبرانی وفيہ اسماعيل بن قيس بن زيد وهو ضعيف واخرجہ (ج ۳ ص ۶۰۷) وصححه وقال الذهبي بل اسماعيل ضعفوه

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسیؓ حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس آئے حضرت عمرؓ تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے حضرت سلمانؓ کو دیکھ کر انہوں نے وہ تکیہ حضرت سلمان کیلئے رکھ دیا حضرت سلمانؓ نے کہا اللہ اور اس کے رسولؐ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے کہا اے ابو عبد اللہ! اللہ ورسول کا وہ فرمان ذرا ہمیں بھی سنائیں۔ حضرت سلمانؓ نے کہا ایک مرتبہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ نے وہ تکیہ میرے لئے رکھ دیا۔ پھر مجھ سے فرمایا اے سلمان! جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام کے لئے تکیہ رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرمائیں گے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضرت سلمانؓ حضرت عمرؓ کے پاس گئے وہ ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت عمرؓ نے وہ تکیہ حضرت سلمانؓ کے لئے رکھ دیا پھر کہا اے سلمان! جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام میں تکیہ رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرماتے ہیں۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ حضرت سلمان فارسیؓ کے پاس گئے۔ حضرت سلمانؓ نے ان کیلئے ایک تکیہ رکھ دیا۔ حضرت عمرؓ نے کہا اے ابو عبد اللہ! یہ کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسیؓ نے کہا میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس مسلمان کے پاس اس کا مسلمان بھائی آتا ہے وہ اس کے اکرام و تعظیم کے لئے ایک تکیہ رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرمادیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن اشیطؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن حارث بن جزء زیدیؓ کی خدمت میں گیا ان کے نیچے ایک تکیہ تھا انہوں نے اسے اٹھا کر میری طرف پھینکا اور فرمایا جو آدمی اپنے ہم نشین کا اکرام نہ کرے اس کا حضرت احمد ﷺ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

## مہمان کا اکرام کرنا

حضرت سہل بن سعدؓ فرماتے ہیں حضرت ابو اسید ساعدیؓ نے حضور ﷺ کو اپنی شادی (کے ولیمہ) میں بلایا اور اس دن ان کی بیوی ان مہمانوں کی خدمت کر رہی تھی اور وہ دلہن تھی

۱۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۵۹۹) ۲۔ اخرجہ الطبرانی ایضا قال الہشمی (ج ۸ ص

۱۷۴) وفيه عمران بن خالد الخزاعي وهو ضعيف. اه وفي اسناد الحاکم ایضا عمران هذا

۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الصغیر وفيه عمران بن خالد الخزاعي وهو ضعيف

۴۔ اخرجہ الطبرانی کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۱۴۶) وقال رواه الطبرانی موقوفاً ورجاله ثقاة

ان کی بیوی نے کہا کیا تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے حضورؐ کیلئے کیا بھجوایا تھا؟ میں نے تانبے یا پتھر کے چھوٹے برتن میں رات کو حضورؐ کے لئے کھجوریں بھجوائی تھیں (تاکہ حضورؐ شربت پی سکیں)۔

ایک صاحب بیان کرتے ہیں دو آدمی حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء زیدیؓ کے پاس گئے وہ ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے انہوں نے اسے اٹھا کر ان دونوں کے لئے رکھ دیا۔ ان دونوں آدمیوں نے کہا ہم تو یہ نہیں چاہتے ہم تو کچھ سننے آئے تھے تاکہ ہمیں اس سے فائدہ ہو۔ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا جو اپنے مہمان کا اکرام نہیں کرتا اس کا حضرت محمد ﷺ اور حضرت ابراہیمؑ سے کوئی تعلق نہیں۔ خوشحالی اور نیک انجامی ہے اس آدمی کے لئے جو اپنے گھوڑے کی رسی اللہ کے راستہ میں پکڑے ہوئے ہے اور روٹی کے ایک ٹکڑے اور ٹھنڈے پانی پر افطار کر لیتا ہے اور بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لئے جو گائے اور بیل کھانے (مختلف مزیدار کھانے کھانے کے لئے) اپنی زبان گھماتے ہیں اور اپنے خادم سے کہتے ہیں فلاں چیز اٹھالے اور فلاں چیز رکھ دے اور کھانے میں ایسے لگتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بالکل نہیں کرتے۔

### قوم کے بڑے اور محترم آدمی کا اکرام کرنا

حضرت جریر بن عبداللہ حلیؓ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضورؐ ایک گھر میں تھے جو صحابہ کرامؓ سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت جریر دروازے پر کھڑے ہو گئے انہیں دیکھ کر حضورؐ نے دائیں بائیں جانب دیکھا آپ کو بیٹھنے کی کوئی جگہ نظر نہ آئی۔ حضورؐ نے اپنی چادر اٹھائی اور اسے لپیٹ کر حضرت جریر کی طرف پھینک دیا اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت جریر نے چادر لے کر اپنے سینے سے لگالی اور اسے چوم کر حضورؐ کی خدمت میں واپس کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ آپ کا ایسے اکرام فرمائے جیسے آپ نے میرا اکرام فرمایا۔ حضورؐ نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا قابل احترام آدمی آئے تو اس کا اکرام کرو۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہؓ (حضور ﷺ کی خدمت میں) گھر میں حاضر ہوئے گھر صحابہ کرامؓ سے بھرا ہوا تھا انہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ حضورؐ نے اپنی چادر ان کی طرف پھینکی اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت جریرؓ نے اسے لیا اور سینہ سے لگا کر اسے چوما اور کہا یا رسول اللہ! اللہ آپ کا ایسے اکرام فرمائے جیسے آپ نے میرا اکرام فرمایا۔ حضورؐ نے فرمایا

۱۔ اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۱۱۰) ۲۔ اخرجہ ابن جریر عن ابراہیم بن شیبان کذا فی

الکنز (ج ۵ ص ۶۶) ۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الضعيف والاوسط قال الهیثمی (ج ۸ ص ۱۵) وفیہ

عون بن عمرو القیسى وهو ضعيف . ۱۵

جب تمہارے پاس کسی قوم کا بڑا اور محترم آدمی آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔<sup>۱</sup>  
 حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عیینہ بن حصنؓ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت حضورؐ کے پاس حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی تھے اور یہ سب حضرات زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضورؐ نے حضرت عیینہ کے لئے گد امنگو لیا اور انہیں اس پر بٹھایا اور فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا بڑا اور قابل احترام آدمی آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔<sup>۲</sup>  
 حضرت عدی بن حاتمؓ جب نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضورؐ نے ان کے لئے ایک تنکیہ رکھ دیا لیکن یہ زمین پر ہی بیٹھے اور عرض کیا میں اس باگکے گواہی دیتا ہوں کہ آپ روئے زمین پر نہ تو برتری چاہتے ہیں اور نہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان ہو گئے۔ صحابہؓ نے کہا نبی اللہ! آج ہم نے (عدی کے لئے) آپ کی طرف سے اکرام کا جو منظر دیکھا ہے یہ کبھی بھی کسی کے لئے نہیں دیکھا۔ حضورؐ نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو یہ ایک قوم کا بڑا اور محترم آدمی ہے اور جب کسی قوم کا بڑا اور محترم آدمی تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔<sup>۳</sup>

حضرت ابو راشد عبد الرحمنؓ فرماتے ہیں میں اپنی قوم کے سواد میوں کے ہمراہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب ہم حضورؐ کے قریب پہنچ گئے تو ہم رک گئے اور میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا اب ابو مغویہ! تم آگے بڑھو (اور حالات دیکھو) اگر تمہیں اچھے حالات نظر نہ آئیں تو پھر واپس آکر بتانا ہم اپنے علاقہ کو لوٹ جائیں گے۔ میں عمر میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ میں نے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر (جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا اور) کہا اے محمد! انعم صبا حاً آپ کی صبح اچھی ہو۔ حضورؐ نے فرمایا مسلمان اس طرح ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مسلمان ایک دوسرے کو کس طرح سلام کرتے ہیں حضورؐ نے فرمایا جب تم کسی مسلمان قوم کے پاس پہنچو تو یوں کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضورؐ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اور تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ابو مغویہ عبد اللات والعزی ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا (یہ کنیت لور نام ٹھیک نہیں ہے) بلکہ تم ابو راشد عبد الرحمن ہو۔ حضورؐ نے میرا اکرام فرمایا اور مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے اپنی چادر پہنائی اور اپنی جوتی اور لاشٹی مجھے عطا فرمائی پھر میں مسلمان ہو گیا۔ پاس بیٹھے ہوئے چند

۱ عند الطبرانی فی الا وسط قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۶) رواہ الطبرانی فی الا وسط والیزار باختصار کثیر وفیہ من لم اعرف فہم۔ انتہی ۲ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۶) رواہ من لم اعرف فہم ۳ اخرجه العسکری وابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۵۵)

لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم دیکھ رہے ہیں آپ اس آدمی کا بہت اکرام فرما رہے ہیں حضورؐ نے فرمایا یہ اپنی قوم کا سردار اور عزت والا آدمی ہے (اس لئے میں نے اتنا اکرام کیا ہے) جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آئے تو تم اس کا اکرام کرو آگے اور حدیث بھی ہے۔ ۱۔

## قوم کے سردار کی دل جوئی کرنا

حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا تم جمیل کو کیسا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا مجھے تو وہ اور لوگوں کی طرح مسکین نظر آتے ہیں۔ پھر حضورؐ نے فرمایا تم فلاں کو کیسا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا وہ تو سردار لوگوں میں سے ایک سردار ہے۔ حضورؐ نے فرمایا اگر ان جیسوں سے ساری زمین بھر جائے تو ایک جمیل ان سب سے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! فلاں ہے تو ایسا لیکن آپ اس کا بہت اکرام کرتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا یہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ میں دل جوئی کے لئے اس کا اتنا اکرام کرتا ہوں کہ حضرت محمد بن ادرہمؓ کہتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے حضرت عیینہ بن حصن اور حضرت اقرع بن حابس کو سوسو (اونٹ) دیئے ہیں اور حضرت جمیل کو آپ نے چھوڑ دیا (انہیں کچھ نہ دیا) حضورؐ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر عیینہ اور اقرع سے ساری زمین بھر جائے تو جمیل بن سراقہ ان سب سے بہتر ہیں لیکن میں ان دونوں کو دل جوئی کر رہا ہوں اور جمیل کو ان کے ایمان کے سپرد کرتا ہوں (کہ اللہ ان کی مدد کریں گے) ۲۔

## حضور ﷺ کے گھر والوں کا اکرام کرنا

حضرت یزید بن حیانؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت حصین بن سبزوہ اور حضرت عمر بن مسلمؓ تینوں حضرات زید بن ارقمؓ کی خدمت میں گئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو حضرت حصین نے ان کی خدمت میں عرض کیا اے حضرت زید! آپ نے بہت زیادہ خیر کی باتیں دیکھی ہیں۔ آپ نے حضور ﷺ کو دیکھا ہے ان کی حدیث کو سنا ہے ان کے ساتھ غزوات

۱۔ اخرجہ الدلائل فی الکنز (ج ۱ ص ۳۱) واخرجہ ابن مندہ من هذا الوجه مختصر او ابن السکون

کما فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۴۰۹) واخرجہ ایضا العقیلی کما فی منتخب الکنز (ج ۵ ص ۲۱۶)

۲۔ اخرجہ ابو نعیم (ج ۱ ص ۳۵۳) کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۳۲۰) واخرجہ الرویانی فی مسند

۵۔ ابن عبدالحکم فی فتوح مصر واسنادہ صحیح واخرجہ ابن حبان من وجه آخر عن ابی ذر لکن لم

یسم جمیلاً واخرجہ البخاری من حدیث سهل بن سعد فاہم جمیلاً وایذا۔

۳۔ رواہ ابن اسحاق فی المغازی وهذا مرسل حسن کذا فی الاصابۃ (ج ۱ ص ۲۳۹) واخرجہ

ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۵۳) عن محمد ابراہیم نحوہ

میں شریک ہوئے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اے حضرت زید! آپ نے بہت زیادہ خیر کی باتیں دیکھی ہیں۔ اے حضرت زید! حضورؐ سے سنی ہوئی کوئی حدیث ہمیں بھی سنا دیں۔ حضرت زید نے فرمایا اے میرے بھتیجے! اللہ کی قسم! میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور بڑا عرصہ گزر گیا ہے۔ حضورؐ کی جو باتیں میں نے یاد کی تھیں اور سمجھی تھیں ان میں سے کچھ مجھے بھول گئی ہیں لہذا جو حدیث میں تمہیں سناؤں وہ تو تم سن لو اور جو میں تمہیں سنانہ سکوں اس پر تم مجھے مجبور نہ کرو۔ پھر انہوں نے فرمایا ایک دن حضور ﷺ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی چشمہ کے پاس ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثنایاں کی پھر وعظ و نصیحت فرمائی پھر فرمایا:

”اما بعد اے لوگو! غور سے سنو! میں ایک بخر ہی ہوں عنقریب میرے رب کا قاصد (ملک الموت) مجھے بلانے آئے گا جس پر میں چلا جاؤں گا۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب (یعنی قرآن مجید) ہے اس میں ہدایت اور نور ہے لہذا اللہ کی کتاب کو لو اور اسے مضبوطی سے پکڑو پھر آپ نے قرآن کے بارے میں خوب ترغیب دی۔ پھر فرمایا دوسری چیز میرے گھر والے ہیں۔ میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔“

حضرت حصین نے پوچھا اے حضرت زید! حضورؐ کے گھر والے کون ہیں؟ کیا حضورؐ کی بیویاں حضورؐ کے گھر والوں میں سے ہیں۔ لیکن حضورؐ کے اصل گھر والے وہ ہیں جن کو حضورؐ کے بعد زکوٰۃ صدقہ لینا حرام ہے حضرت حصین نے پوچھا وہ کون ہیں؟ حضرت زید نے فرمایا آل علیؑ، آل عقیلؑ، آل جعفرؑ اور آل عباسؑ ہیں۔ حضرت حصین نے پوچھا کیا ان سب کو زکوٰۃ صدقہ لینا حرام ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا حضرت محمد ﷺ کے گھر والوں کے بارے میں حضورؐ کی نسبت کا خیال رکھو۔

ام المومنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ اپنے صحابہؓ کے ساتھ تشریف فرما تھے آپ کے پہلو میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت عباسؓ سامنے سے آئے ان کو دیکھ کر حضرت ابو بکرؓ نے بیٹھنے کی جگہ بنا دی۔ چنانچہ وہ حضورؐ کے اور

حضرت ابو بکرؓ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس پر حضورؐ نے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا فضیلت والوں کی فضیلت کو فضیلت والے ہی جانتے ہیں۔ پھر حضرت عباسؓ حضورؐ سے بات کرنے لگے تو حضورؐ نے اپنی آواز کو بہت ہی زیادہ پست کر لیا۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ کو اچانک سخت ہمداری پیش آگئی ہے (جس کی وجہ سے حضورؐ گوازلو پوچی نہیں کر پا رہے ہیں) میرے دل کو اس ہمداری سے سخت پریشانی ہے۔ حضرت عباسؓ حضورؐ کے پاس بیٹھے بائیں کرتے رہے اور جب کام پورا ہو گیا تو وہ واپس چلے گئے۔ پھر حضرت ابو بکرؓ نے حضورؐ سے پوچھا یا رسول اللہ! کیا آپ کو ابھی کوئی ہمداری پیش آگئی تھی حضورؐ نے فرمایا نہیں۔ حضرت جبرائیلؑ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم میرے سامنے اپنی آواز پست کر لیا کرو۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کی مجلس میں حضرت ابو بکرؓ کے لئے بیٹھنے کی ایک خاص جگہ تھی وہاں سے وہ صرف حضرت عباسؓ کے لئے اٹھا کرتے تھے۔ حضرت عباسؓ کے اس اکرام سے حضورؐ کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ ایک دن حضرت عباسؓ سامنے سے آئے انہیں دیکھ کر حضرت ابو بکرؓ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ حضورؐ نے ان کو فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ کے چچا سامنے سے آرہے ہیں۔ حضورؐ نے حضرت عباسؓ کی طرف دیکھا پھر مسکراتے ہوئے حضرت ابو بکرؓ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ عباسؓ سامنے آرہے ہیں انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں لیکن ان کی اولاد ان کے بعد کالے کپڑے پہنے گی اور ان کی اولاد میں سے بارہ آدمی بادشاہ بنیں گے۔ جب حضرت عباسؓ پہنچ گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ نے ابو بکرؓ کو کچھ فرمایا ہے؟ حضورؐ نے فرمایا میں نے ان کو خیر کی ہی بات کہی ہے۔ حضرت عباسؓ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ خیر ہی کی بات فرمایا کرتے ہیں (لیکن ذرا مجھے بتادیں کہ آپ نے کیا فرمایا ہے) حضورؐ نے فرمایا میں نے کہا تھا میرے چچا عباسؓ آرہے ہیں انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں اور ان کی اولاد ان کے بعد سیاہ کپڑے پہنے گی اور ان میں سے بارہ آدمی بادشاہ بنیں گے۔

حضرت جعفر بن محمدؓ کے دادا (جو کہ صحابی ہیں) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو حضرت ابو بکرؓ حضورؐ کے دائیں طرف، حضرت عمرؓ حضورؐ کے بائیں طرف اور حضرت عثمانؓ حضورؐ کے سامنے بیٹھتے اور حضرت عثمانؓ حضورؐ کی راز

کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ جب حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ آتے تو حضرت ابو بکرؓ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اور وہاں حضرت عباس بیٹھ جاتے۔<sup>۱</sup>

حضرت مطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی خدمت میں آئے حضرت عباسؓ غصہ میں تھے حضورؐ نے فرمایا کیا بات پیش آئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم ہواشم کا اور قریش کا کیا بنے گا؟ حضورؐ نے پوچھا تمہیں ان کی طرف سے کیا بات پیش آئی ہے؟ حضرت عباسؓ نے کہا جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بڑی بغاوت سے کھل کر ملتے ہیں اور ہم سے ملتے وقت ان کی یہ حالت نہیں ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضورؐ کو اتنا غصہ آگیا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان کی رگ پھول گئی۔ جب آپ کا غصہ کم ہوا تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے! کسی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ تم (ہواشم) سے اللہ و رسولؐ کی وجہ سے محبت نہ کرے پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھے عباسؓ کے بارے میں تکلیف دیتے ہیں آدمی کا پچاس کے باپ کی مانند ہوتا ہے۔ حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ قریشی لوگ آپس میں ہنس کھ اور اچھے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں اور ہم سے ایسے اجنبی چہروں کے ساتھ ملتے ہیں کہ جیسے ہم ان کو جانتے نہ ہوں حضورؐ کو یہ سن کر بہت غصہ آگیا اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے! آدمی کے دل میں ایمان اسی وقت داخل ہو گا جب وہ تم (ہواشم) سے اللہ و رسولؐ کی وجہ سے محبت کرے گا۔ حضرت عاصمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ مسجد میں گئے تو انہیں لوگوں کے چہروں میں ناگواری نظر آئی۔ وہ حضور ﷺ کی خدمت میں گھر واپس گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! نہ معلوم مجھ سے کیا قصور ہو گیا ہے جب بھی مسجد میں جاتا ہوں مجھے لوگوں کے چہروں میں ناگواری نظر آتی ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو! جب تک تم عباسؓ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکو گے۔<sup>۲</sup>

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت عمر بن خطابؓ کو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کیلئے بھیجا ان کی سب سے پہلے حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ سے ملاقات ہوئی تو

۱۔ عند ابن عساکر ایضاً عن جعفر محمد بن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہم کذا فی منتخب الکفر

(ج ۵ ص ۲۱۴) ۲۔ اخرجه الحاکم ۳۔ عند الحاکم (ج ۳ ص ۳۳۳)

۴۔ عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۶۹) وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف



حضرت عمرؓ نے ان سے کہا اے ابوالفضل! اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیں۔ حضرت عباسؓ نے ان سے کہا اگر تو ایسا ہو تا تو انہوں نے حضرت عمرؓ کو سخت باتیں کہہ دیں حضرت عمرؓ نے ان سے کہا اگر اللہ کا ڈرنہ ہو تا تو آپ کا حضورؐ کے ہاں جو مرتبہ ہے، اگر اس کا خیال نہ ہو تا تو میں بھی آپ کی کچھ باتوں کا ویسا ہی جواب دیتا۔ پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے اپنا راستہ لیا اور حضرت عباسؓ نے اپنا۔ حضرت عمرؓ چلتے چلتے حضرت علی بن ابی طالبؓ کے پاس پہنچ گئے اور انہیں جا کر ساری بات بتائی حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ کا ہاتھ پکڑا اور (دونوں چل پڑے اور) دونوں حضور ﷺ کی محبت میں حاضر ہوئے پھر حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے مجھے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا میری سب سے پہلے ملاقات آپ کے چچا حضرت عباسؓ سے ہوئی میں نے ان سے کہا۔

اے ابوالفضل! اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیں۔ اس پر انہوں نے مجھے ایسا اور ویسا کہا اور خوب ڈانٹا اور مجھے سخت باتیں کہیں میں نے ان سے کہا اگر اللہ کا ڈرنہ ہو تا تو حضورؐ کے ہاں جو آپ کا مرتبہ ہے اس کا خیال نہ ہو تا تو میں بھی آپ کی کچھ باتوں کا ویسا ہی جواب دیتا حضورؐ نے فرمایا تم نے ان کا اکرام کیا ہے اللہ تمہارا اکرام فرمائے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے عباسؓ سے زکوٰۃ کے بارے میں بات نہ کرو کیونکہ ہم ان سے دو سال کی زکوٰۃ پہلے ہی لے چکے ہیں۔

حضرت لئن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عباسؓ کے والد (عبدالمطلب) کا تذکرہ کیا اور ان کی والد کی بے عزتی کی۔ اس پر حضرت عباسؓ نے اس آدمی کو تھپڑ مار دیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور کچھ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم! جیسے حضرت عباسؓ نے اسے تھپڑ مارا ہے ایسے ہی ہم حضرت عباسؓ کو ضرور تھپڑ ماریں گے۔ جب حضورؐ کو اس قصہ کا پتہ چلا تو آپ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور لوگوں سے پوچھا بتاؤ اللہ کے ہاں لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت آدمی کون ہے؟ صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ! آپ ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا سنو! عباسؓ مجھ سے ہیں اور میں عباسؓ سے ہوں (ہم دونوں کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے) ہمارے خاندان کے جو لوگ مر چکے ہیں انہیں برا بھلا مت کہو اس سے ہمارے خاندان کے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لئن عسا کر نے ایسی ہی حدیث حضرت لئن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے اس میں یہ مضمون بھی ہے صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے

۱۔ اخراجہ ابن عساکر کذا فی منتخب الکنز (ج ۵ ص ۲۱۴) و اخراجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۲۷) عن قتادة مختصراً، ۲۔ اخراجہ الحاكم (ج ۳ ص ۳۲۹) قال الحاكم هذا حديث

غصہ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں آپ ہمارے لئے اللہ سے استغفار کریں (ہم سے غلطی ہو گئی ہے) چنانچہ حضور نے ان کے لئے اللہ سے استغفار فرمایا۔<sup>۱</sup>

حضرت ابن شہابؓ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرؓ کا اپنے اپنے زمانہ خلافت میں یہ دستور تھا کہ جب یہ حضرات سواری پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہوتے اور راستہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو جاتی تو یہ حضرات (ان کے اکرام میں) سواری سے نیچے اتر جاتے اور سواری کی لگام پکڑ کر حضرت عباسؓ کے ساتھ پیدل چلتے رہتے اور انہیں ان کے گھریاں کی پیٹھ تک پہنچا کر پھر ان سے جدا ہوتے۔<sup>۲</sup>

حضرت قاسم بن محمدؓ کہتے ہیں حضرت عثمانؓ نے جو بہت سے نئے قانون بنائے ان میں سے ایک قانون یہ بھی تھا کہ ایک آدمی نے ایک جھگڑے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حقارت آمیز معاملہ کیا۔ اس پر حضرت عثمانؓ نے اس کی پٹائی کی۔ کسی نے اس پر اعتراض کیا تو اس سے فرمایا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ تو اپنے چچا کی تعظیم فرمائیں اور میں ان کی تحقیر کی اجازت دے دوں؟ اس آدمی کی اس گستاخی کو جو اچھا سمجھ رہا ہے وہ بھی حضورؐ کی مخالفت کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ کے اس نئے قانون کو تمام صحابہؓ نے بہت پسند کیا (حضورؐ کے چچا کے گستاخ کی پٹائی ہو گی)۔<sup>۳</sup>

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرامؓ آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے انہوں نے اگر سلام کیا اور کھڑے ہو کر اپنے بیٹھنے کی جگہ دیکھنے لگے۔ حضورؐ اپنے صحابہؓ کے چہروں کو دیکھنے لگے کہ ان میں سے کون حضرت علیؓ کو جگہ دیتا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ حضورؐ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی جگہ سے ذرا ہٹ کر کہا اے ابو الحسنؓ! یہاں آ جاؤ اس پر حضرت علیؓ آگے آئے اور اس جگہ حضورؐ اور حضرت ابو بکرؓ کے درمیان بیٹھ گئے۔ ہمیں ایک دم حضورؐ کے چہرہ انور میں خوشی کے آثار نظر آئے پھر حضورؐ نے حضرت ابو بکرؓ کی طرف رخ ہو کر فرمایا فضیلت والے کے مقام کو فضیلت والا ہی جانتا ہے۔<sup>۴</sup>

حضرت رباح بن حارثؓ فرماتے ہیں (کوفہ کے محلہ) رجبہ میں ایک جماعت حضرت علیؓ کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کہا السلام علیک یا مولانا (اے ہمارے آقا) حضرت علیؓ نے کہا

۱۔ کذا فی منتخب الكنز (ج ۵ ص ۲۱۱) واخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۱۲۴) عن ابن عباس

نحو روایة ابن عساکر . ۲۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۶۹)

۳۔ اخرجه سیف و ابن عساکر کذا فی منتخب الكنز (ج ۵ ص ۲۱۳)

۴۔ اخرجه ابن الاعرابی کذا فی البدایة (ج ۷ ص ۳۵۹)

تم لوگ تو عرب ہو میں تمہارا آقا کیسے بن سکتا ہوں؟ (مجھی لوگ غلام ہوا کرتے ہیں عرب نہیں) انہوں نے کہا ہم نے غدیر خم کے دن حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں جس کا آقا اور دوست ہوں یہ (علیؑ) بھی اس کا آقا اور دوست ہے (حضور ہمارے آقا تھے۔ لہذا آپ بھی ہمارے آقا ہوئے)

حضرت رباح کہتے ہیں یہ لوگ چلے گئے تو میں ان کے پیچھے گیا اور میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ انصار کے کچھ لوگ ہیں جن میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی ہیں۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا اور حضرت علیؑ کو ہمارا امیر بنایا۔ جب ہم سفر سے واپس آئے تو حضور نے پوچھا تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ تو میں نے یا کسی اور نے حضرت علیؑ کی کوئی شکایت حضور سے کر دی۔ میری عادت اکثر زمین کی طرف دیکھنے کی تھی میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ حضور کا چہرہ انور (غصہ کی وجہ سے) سرخ ہو چکا ہے اور حضور فرما رہے ہیں میں جس کا دوست ہوں علیؑ بھی اس کے دوست ہیں میں نے عرض کیا آئندہ میں آپ کو کبھی بھی حضرت علیؑ کے بارے میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔

حضرت عمرو بن شاس رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے وہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت علیؑ کو گھوڑے سواروں کی ایک جماعت میں یمن بھیجا میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ حضرت علیؑ نے سفر میں مجھ سے کچھ اعتراض نہ کیا جس سے مجھے دل ہی دل میں ان پر غصہ آ گیا جس پر میں نے مدینہ کی مختلف مجلسوں میں حضرت علیؑ کی شکایت کی اور جو ملتا اس سے ان کی شکایت کر دیتا ایک دن میں سامنے سے آیا حضور مسجد میں تشریف فرما تھے جب آپ نے مجھے دیکھا کہ میں آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہوں تو آپ مجھے دیکھتے رہے یہاں تک میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے عمرو! غور سے سنو! اللہ کی قسم تم نے مجھے لذیت پہنچائی ہے میں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون میں اس بات سے اللہ اور اسلام کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کو لذیت پہنچاؤں۔ آپ نے فرمایا جس نے علیؑ کو لذیت پہنچائی اس نے مجھ کو لذیت پہنچائی۔

۱۔ اخرجه احمد والطبرانی قال الهیثمی (ج ۹ ص ۱۰۴) رجال احمد ثقات

۲۔ اخرجه البزار قال الهیثمی (ج ۹ ص ۱۰۸) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . ۱۱

۳۔ اخرجه ابن اسحاق : قد رواه الامام احمد عن عمرو بن شاس فذكره كذا في البداية (ج ۷

ص ۳۴۶) قال الهیثمی (ج ۹ ص ۱۲۹) رواه احمد والطبرانی باحتمار والبزار اخصر منه ورجال

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ دو آدمی اور تھے ہم سب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبا بات کہہ دی۔ اتنے میں سامنے سے حضور ﷺ تشریف لائے۔ آپ کے چہرہ انور پر صاف غصہ نظر آ رہا تھا۔ میں حضور کے غصہ سے اللہ کی پناہ چاہنے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہو جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں حضرت علی کی برائی کا تذکرہ کیا حضرت عمر نے (حضور ﷺ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کہا تم اس قبر والے کو جانتے ہو۔ یہ حضرت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہیں اور وہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہیں (حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں) ہمیشہ حضرت علی کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا کرو کیونکہ اگر تم ان کو تکلیف پہنچاؤ گے تو اس ذات اقدس کو قبر میں تکلیف پہنچاؤ گے۔

حضرت ابو بکر بن خالد بن عرفطہ کہتے ہیں میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ لوگوں کو کوفہ میں حضرت علی کو برا بھلا کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو کیا آپ نے ان کو کبھی برا بھلا کہا ہے؟ حضرت سعد نے فرمایا اللہ کی پناہ! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں سعد کی جان ہے! میں نے حضور ﷺ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں کچھ ایسے فضائل سنے ہیں کہ اگر میرے سر کی مانگ پر آ رہے بھی رکھ دیا جائے تو بھی میں حضرت علی کو برا بھلا نہیں کہوں گا۔

حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے میرے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ سنایا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے مجھے حکم دیا اور یوں کہا آپ ابو تراب (حضرت علی) کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا حضور ﷺ نے حضرت علی کے بارے میں تین ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے ایک بات بھی مل جاتی تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی اور تین باتیں مجھے جب تک یاد ہیں میں ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ ایک غزوہ میں (یعنی غزوہ تبوک میں) جاتے ہوئے حضور نے حضرت علی کو مدینہ میں اپنی جگہ پیچھے چھوڑنا چاہا تو حضرت علی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ!

۱۔ اخروحہ ابو یعلیٰ کذا فی البدایة (ج ۷ ص ۳۴۷) قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۲۹) رواہ ابو یعلیٰ

والبزار باختصار ورجال ابی یعلیٰ رجال الصحیح غیر محمود بن خلدش وقتان وھما ثقتان انتھی

۲۔ اخروحہ ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۴۶)

۳۔ اخروحہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۳۰) اسنادہ حسن

کیا آپ مجھ عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضورؐ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لئے ایسے ہو جاؤ جیسے حضرت ہارونؑ حضرت موسیٰؑ کے لئے تھے ہاں اتنی بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور غزوہ خیبر میں میں نے حضورؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آج میں جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتے ہیں یہ فضیلت سن کر مجھے بہت شوق ہوا کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے اور اس شوق میں بار بار اپنا سر اٹھاتا (کہ شاید اب حضورؐ مجھے بلا کر جھنڈا دیں) لیکن حضورؐ نے فرمایا علیؑ کو بلا کر میزے پاس لاؤ۔ حضرت علیؑ آئے تو ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں آپ نے ان کی آنکھوں پر لعاب مبارک لگایا اور پھر جھنڈا انہیں دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ (سورت آل عمران آیت ۶۱)

ترجمہ ”تو آپ فرمادیتے تھے کہ آجاؤ ہم (اور تم) بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور خود اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو پھر (ہم سب مل کر) خوب دل سے دعا کریں اس طور پر کہ اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو (اس بحث میں) ناحق پر ہوں“ اس پر حضورؐ نے حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا اے اللہ! یہ میرے گھر والے ہیں۔

حضرت ابو جحشؓ کہتے ہیں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج کو آئے تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا اے ابو اسحاق! غزوات کی مشغولی کی وجہ سے کئی سالوں سے ہم لوگ حج نہ کر سکے جس کی وجہ سے ہم حج کی بہت سی سنتیں بھولتے جا رہے ہیں لہذا آپ طواف کریں ہم بھی آپ کے ساتھ طواف کریں گے۔ طواف کے بعد حضرت معاویہ ان کو اپنے ساتھ دارالندوا لے گئے اور انہیں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھلایا پھر حضرت علیؑ کا تذکرہ شروع کر دیا اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نامناسب کلمات کہنے لگے۔ حضرت سعدؓ نے فرمایا آپ نے مجھے اپنے گھر میں لا کر اپنے تخت پر بٹھلایا پھر آپ حضرت علیؑ کو برا بھلا کہنے لگ گئے ہیں اللہ کی قسم! حضرت علیؑ میں تین ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو یہ مجھے ساری دنیا کے مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔

کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے حضور ﷺ نے حضرت علیؓ کو فرمایا تھا تم میرے لئے ایسے ہو جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے لئے تھے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا اگر حضور مجھے یہ فرمادیتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ خیبر کے دن حضور نے حضرت علیؓ کے بارے میں فرمایا میں آج جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسولؐ اس سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائیں گے اور وہ میدان سے بھاگنے والا آدمی نہیں اگر حضور میرے بارے میں یہ کلمات فرمادیتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے مل جانے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ تیسری بات یہ تھی میری شادی ہوتی اور حضرت علیؓ کی طرح میرے ان کے بیٹے ہوتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے مل جانے سے زیادہ محبوب ہوتا میں آج کے بعد کبھی تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ یہ فرما کر حضرت سعدؓ نے اپنی چادر جھاڑی اور باہر تشریف لے گئے۔

حضرت ابو عبد اللہ جدیؓ کہتے ہیں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کیا تم سب کے بیچ میں رسول اللہ ﷺ کو برا بھلا کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی پناہ سبحان اللہ یا اس جیسا اور کلمہ میں نے کہا انہوں نے فرمایا میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے علیؓ کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔

حضرت ابو عبد اللہ جدیؓ کہتے ہیں مجھ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم سب کے بیچ میں حضور ﷺ کو برا بھلا نہیں کہا جاتا؟ میں نے کہا حضور کو کیسے برا بھلا کہا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا حضرت علیؓ کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے حالانکہ حضور ان سے محبت فرماتے تھے۔

حضرت ابو صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو حضور ﷺ کا خاندان تھا وہی میرا خاندان ہے جو حضور کا دین تھا وہی میرا دین ہے لہذا جو میری بے عزتی کر رہا ہے وہ حقیقت میں حضور کی بے عزتی کر رہا ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک

۱۔ عن ابی زرعة الدمشقی عن عبد اللہ بن ابی نجیح عن ابیہ کذا فی البدایة (ج ۷ ص ۳۴۰ و ۳۴۱) ۲۔ اخرجه احمد قال الهیثمی (ج ۹ ص ۱۳۰) رجالہ رجال الصحیح غیر ابی عبد اللہ الجدلوی وهو ثقة ۳۔ عند الطبرانی و ابی یعلی قال الهیثمی رجال الطبرانی رجال الصحیح غیر ابی عبد اللہ وهو ثقة و اخرجه ابن ابی شیبہ عن ابی عبد اللہ نحوه کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۴۶) ۴۔ اخرجه الخطیب فی المتفق و ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۴۶)

دن حضور ﷺ کے منبر پر تھے کہ اتنے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما آئے (یہ ابھی کم عمر بچے تھے) انہوں نے کہا آپ میرے نانے لبا کے منبر سے نیچے اتر آئیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو یہ تمہارے نانے لبا کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور حضرت ابو بکرؓ نے انہیں اپنی گود میں بٹھالیا اور روپڑے حضرت علیؓ نے کہا اللہ کی قسم! یہ بچہ میرے کہنے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا (بلکہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے) حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم! مجھے آپ پر کوئی شبہ نہیں۔

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے منبر پر چڑھ کر کہا آپ میرے نانے لبا کے منبر سے نیچے اتر آئیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بات ہمارے مشورہ کے بغیر ہوئی ہے۔

حضرت ابو الجحریؓ کہتے ہیں ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر پر بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسین بن علیؓ نے کھڑے ہو کر کہا آپ میرے نانے لبا کے منبر سے نیچے اتر آئیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا بے شک یہ تمہارے نانے لبا کا منبر ہے میرے باپ کا نہیں ہے لیکن ایسا کرنے کو تمہیں کس نے کہا؟ اس پر حضرت علیؓ نے کھڑے ہو کر کہا اسے کسی نے نہیں کہا (پھر حضرت علیؓ نے حضرت حسینؓ کو مخاطب ہو کر فرمایا) اور دھوکہ باز! میں تیری خوب پٹائی کر دوں گا۔ حضرت عمرؓ نے کہا میرے بچے کو کچھ نہ کہنا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ اس کے نانے لبا کا منبر ہے۔

حضرت حسین بن علیؓ فرماتے ہیں میں منبر پر چڑھ کر حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا میرے نانے لبا کے منبر سے نیچے اتر جائیں اور اپنے والد کے منبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا میرے باپ کا تو کوئی منبر نہیں یہ کہہ کر حضرت عمرؓ نے مجھے اپنے پاس بٹھالیا۔ پھر وہ منبر سے اتر کر مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹا! تمہیں یہ کس نے سکھایا تھا؟ میں نے کہا کسی نے نہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر تم ہمارے پاس آیا جلیا کرو تو بہت اچھا ہو گا۔ چنانچہ میں ایک دن ان کے ہاں گیا تو وہ حضرت معاویہؓ سے تمنا میں بات کر رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمرؓ دروازے پر کھڑے ہیں انہیں بھی اجازت نہیں ملی ہے یہ دیکھ کر میں واپس آ گیا اس کے بعد جب ان سے

۱۔ اخرجه ابو نعیم والجابری فی جزئہ ۲۔ عند ابن سعد کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۳۲)

۳۔ اخرجه ابن عساکر قال ابن کثیر سندہ ضعیف کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۱۰۵)

ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹے! تم ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں ایک دن آیا تھا آپ حضرت معاویہؓ سے تمہائی میں بات کر رہے تھے اور آپ کے بیٹے حضرت لکن عمرؓ کو بھی اجازت نہیں ملی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ واپس چلے گئے اس لئے میں بھی واپس آ گیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں تم عبد اللہ بن عمرؓ سے زیادہ اجازت ملنے کے حقدار ہو کیونکہ ہمارے سروں پر جو یہ تاج شرافت آج نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانہ کی برکت سے دیا ہے اور پھر میرے سر پر حضرت عمرؓ نے شفقتاً ہاتھ رکھا۔<sup>۱</sup>

حضرت عقبہ بن حارثؓ کہتے ہیں حضور ﷺ کی وفات کے چند دن بعد میں عصر کی نماز پڑھ کر حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا۔ حضرت علیؓ حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ چل رہے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو بکرؓ کا حضرت حسن بن علیؓ کے پاس سے گزر ہوا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حضرت ابو بکرؓ نے ان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور یہ شعر پڑھنے لگے۔

بابی شیبہ بالنبی لیس شیبہا بعلی

اس چہ پر میرا باپ قربان ہو اس کی شکل و صورت نبی کریم ﷺ سے ملتی جلتی ہے۔  
حضرت علیؓ سے نہیں ملتی۔ حضرت علیؓ یہ سن کر ہنس رہے تھے۔<sup>۲</sup>

حضرت عمیر بن اسحاقؓ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حضرت حسین بن علیؓ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہؓ نے ان سے کہا آپ اپنے پیٹ کی اس جگہ سے کپڑا ہٹادیں جس جگہ کا بوسہ لیتے ہوئے میں نے حضور ﷺ کو دیکھا تھا۔ چنانچہ حضرت حسنؓ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور حضرت ابو ہریرہؓ نے ان کے پیٹ کا بوسہ لیا ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے ان کی ناف کا بوسہ لیا۔<sup>۳</sup>

حضرت مقبریؓ کہتے ہیں ہم لوگ حضرت ابو ہریرہؓ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت حسن بن علیؓ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے سلام کیا لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ ہمارے ساتھ تھے لیکن انہیں حضرت حسنؓ کے گزرنے اور سلام کرنے کا پتہ نہیں چلا۔ کسی نے ان سے کہا یہ سلام حضرت حسن بن علیؓ نے کیا تھا وہ فوراً ان کے پیچھے گئے اور ان سے کہا اے میرے سردار! او علیک السلام کسی نے ان سے پوچھا آپ انہیں میرے

۱ عند ابن سعد وابن راہویہ والخطیب کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۱۰۵) قال فی الاصابہ (ج ۱ ص ۳۳۳) سندہ صحیح ۲ اخرجه ابن سعد احمد البخاری والنسائی والحاکم کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۱۰۳) ۳ قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۷۷) رواہ احمد والطبرانی الا انہ قال فکشف عن بطنہ و وضع یدہ علی سرتہ ورجالہما رجال الصحیح غیر عمیر بن اسحاق وهو ثقہ ۴ اخرجه ابن السجار عن عمیر کما فی الکنز (ج ۷ ص ۱۰۴) وفيہ فوضع فمہ علی سرتہ



سردار کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ یہ سردار ہیں۔ لہ

حضرت ابو ہریرہؓ کے مرض الوفا میں مروان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا جب سے ہم آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اس وقت سے آج تک مجھے آپ کی کسی بات پر غصہ نہیں آیا اس بات پر غصہ آیا ہے کہ آپ حضرت حسن اور حضرت حسینؓ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو ہریرہؓ سمٹ کر بیٹھ گئے اور فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہم لوگ ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ گئے راستہ میں ایک جگہ حضور تیزی سے چل کر ان کے پاس پہنچے اور فرمایا میرے پیٹوں کو کیا ہوا؟ حضرت فاطمہؓ نے کہا پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں حضور نے اپنے پیچھے مشکیزہ کی طرف ہاتھ بڑھا کر پانی دیکھا (لیکن اس میں پانی نہیں تھا) اس دن پانی بہت کم تھا لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پانی مل رہا تھا۔ لوگ بھی پانی تلاش کر رہے تھے۔ حضور نے اعلان فرمایا کسی کے پاس پانی ہے؟ اس اعلان پر ہر آدمی نے اپنے پیچھے اپنے مشکیزہ کو ہاتھ لگا کر دیکھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں لیکن کسی کو بھی پانی کا ایک قطرہ نہ ملا۔ اس پر حضور نے فرمایا (اے فاطمہؓ) ایک چم مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے حضور کو ایک چم دے دیا چم دیتے ہوئے حضرت فاطمہؓ کے بازوؤں کی سفیدی مجھے نظر آئی۔ حضور نے اپنی زبان مبارک نکالی تو وہ چم اسے چوسنے لگ گیا اور چوستے چوستے چم ہو گیا اور مجھے اس کے رونے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی (اس نے رونا چھوڑ دیا تھا) دوسرا چم ویسے ہی رو رہا تھا چم نہیں کر رہا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا یہ دوسرا بھی مجھے دے دو۔ حضرت فاطمہؓ نے دوسرا چم بھی حضور کو دے دیا۔ حضور نے لے کر اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کیا وہ بھی چم ہو گیا اور مجھے کسی کے رونے کی آواز نہیں آرہی تھی۔ پھر حضور نے فرمایا چلو۔ چنانچہ عورتوں کی وجہ سے ہم ادھر ادھر چلے گئے (تاکہ حضور کی عورتوں کے ساتھ ہمارا اختلاط نہ ہو ہم لوگ وہاں سے چل دیئے اور) راستہ کے درمیانی حصہ میں حضور سے دوبارہ جا ملے۔ جب سے میں نے حضور کا حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کے ساتھ یہ مشفقانہ رویہ دیکھا ہے تو میں ان دونوں سے کیوں نہ محبت کروں۔ لہ

۱۔ قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۷۸) رجالہ ثقات واخرجه ایضا ابو یعلی وابن عساکر عن سعید

المقبیری نحوہ کما فی الکنز (ج ۷ ص ۱۰۴) واخرجه الحاکم (ج ۳ ص ۱۶۹) و صحیحہ

۲۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۸۱) رواہ الطبرانی ورجالہ ثقات

## علماء کرام، بڑوں اور دینی فضائل والوں کا اکرام کرنا

حضرت عمار بن ابی عمارؓ کہتے ہیں ایک دن حضرت زید بن ثلثؓ سوار ہونے لگے تو حضرت لنن عباسؓ نے ان کی رکاب ہاتھ سے پکڑ لی۔ اس پر حضرت زید نے کہا اے رسول ﷺ کے چچا کے بیٹے! آپ ایک طرف ہو جائیں (میری رکاب نہ پکڑیں) حضرت لنن عباسؓ نے عرض کیا ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء اور بڑوں کے ساتھ ایسے ہی (اکرام کا معاملہ) کریں۔ حضرت زید نے کہا آپ مجھ ذرا اپنا ہاتھ دکھائیں۔ حضرت لنن عباسؓ نے اپنا ہاتھ نکالا حضرت زید نے اسے چوم اور فرمایا ہمیں اپنے نبیؐ کے گھر والوں کے ساتھ ایسے اکرام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت شعبیؓ کہتے ہیں حضرت زید بن ثلثؓ سوار ہونے لگے تو حضرت لنن عباسؓ نے ان کی رکاب پکڑ لی۔ حضرت زید نے فرمایا اے اللہ کے رسولؐ کے چچا کے بیٹے! آپ ایک طرف ہو جائیں۔ حضرت لنن عباسؓ نے کہا نہیں۔ ہم علماء کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ ایسے ہی (اکرام کا معاملہ) کیا کرتے ہیں۔<sup>۲</sup> حضرت لنن عباسؓ نے حضرت زید بن ثلثؓ کی رکاب پکڑ لی اور یوں کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے تعلیم دینے والوں اور اپنے بڑوں کی رکاب پکڑا کریں۔<sup>۳</sup>

حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اور صحابہؓ کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ حضورؐ نے وہ پیالہ حضرت ابو عبیدہؓ کو دیا حضرت ابو عبیدہؓ نے کہا یا نبی اللہ! آپ کا اس پیالہ پر مجھ سے زیادہ حق ہے۔ حضورؐ نے فرمایا تم پیو کیونکہ برکت ہمارے بڑوں کے ساتھ ہے جو ہمارے چچوںوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔<sup>۴</sup>

۱۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۳۷)

۲۔ عند یعقوب بن سفیان با سناد صحیح کذا فی الاصابۃ (ج ۱ ص ۵۶۱) واخرجه الطبرانی عن الشعبي نحوه ورجال الصحیح غیر رزین الرماني وهو ثقة كما قال الهیثمی (ج ۹ ص ۳۴۵) واخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۱۷۵) نحوه واخرجه الحاکم (ج ۳ ص ۴۲۳) عن ابی سلمة نحوه وصححه علی شرط مسلم ویعقوب بن سفیان عن الشعبي نحو حدیث عمار بن ابی عمار کما فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۳۳۲) ۳۔ عند ابن النجار کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۳۸)

۴۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۸ ص ۱۵) وفيه علی بن یزید الهانی وهو ضعیف.

حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سہل بن ابی حمزہؓ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن سہل اور حضرت مجہد بن مسعود رضی اللہ عنہما خیر گئے اور کھجوروں کے ایک باغ میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن سہل کو قتل کر دیا تو حضرت عبدالرحمن بن سہل حضرت جوہنہ بن مسعود اور حضرت مجہد بن مسعودؓ حضور ﷺ کی خدمت میں آئے اور اپنے مقتول ساتھی کے بارے میں حضور ﷺ سے بات کرنے لگے تو حضرت عبدالرحمن نے بات شروع کی یہ ان سب میں چھوٹے تھے۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا یہ دونوں کی بڑائی قائم کرو۔ یعنی رومی کہتے ہیں کہ حضورؐ کا مطلب یہ تھا کہ جو عمر میں بڑا ہے وہ بات کرے۔ چنانچہ ان حضرات نے اپنے مقتول ساتھی کے بارے میں یہ بات کی۔ حضورؐ نے فرمایا اگر تم لوگوں کے قبیلے کے پچاس آدمی قسم کھالیں تو تم اپنے مقتول کے قصاص کے حقدار بن سکتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا یہ ایسا واقعہ ہے جسے ہم نے دیکھا نہیں (اس لئے ہم قسم نہیں کھا سکتے ہیں)

حضورؐ نے فرمایا تو پھر اگر یہود کے پچاس آدمی قسم کھالیں تو ان کے ذمہ قصاص نہیں آئے گا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو کافر لوگ ہیں (یہ جھوٹی قسم کھالیں گے) اس پر حضورؐ نے (جھگڑا ختم کرانے کے لئے) اپنے پاس سے ان کو دیت یعنی خون بہادی۔<sup>۱</sup>

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں (حضر موت میں) ہماری بڑی سلطنت تھی اور وہاں کے تمام لوگ ہماری بات مانتے تھے ہمیں وہاں حضور ﷺ کے اعلان نبوت کی خبر ملی تو میں یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسولؐ کے شوق میں وہاں سے چل پڑا۔ میرے پہنچنے سے پہلے ہی حضورؐ اپنے صحابہؓ کو میرے آنے کی خوشخبری سنا چکے تھے۔ جب میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور اپنی چادر بٹھا کر مجھے اس پر بٹھایا پھر آپ اپنے منبر پر تشریف لے گئے اور مجھ بھی اپنے ساتھ منبر پر بٹھلایا۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور تمام نبیوں پر درود بھیجا اتنے میں تمام لوگ آپ کے پاس جمع ہو چکے تھے آپ نے فرمایا اے لوگو! یہ وائل بن حجر تمہارے پاس دو دراز کے علاقے حضرت موت سے اپنی خوشی سے آئے ہیں کسی نے ان کو آنے پر مجبور نہیں کیا اور یہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کے شوق میں آئے ہیں میں نے کہا (یا رسول اللہ) آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اے حضرت وائل بن حجرؓ فرماتے ہیں میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے (صحابہ کرامؓ سے) فرمایا یہ وائل بن حجرؓ نہ تو تم لوگوں کے شوق میں آئے ہیں اور نہ تم لوگوں سے ڈر کر آئے ہیں بلکہ یہ تو اللہ اور رسول کی محبت میں آئے ہیں۔ حضورؐ نے اپنی چادر بٹھا کر مجھے

اس پر اپنے پہلو میں بٹھایا اور لوگوں میں بیان فرمایا اور فرمایا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ کیونکہ یہ بھی اپنی سلطنت چھوڑ کر نئے نئے آئے ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے خاندان والوں نے جو کچھ میرا تھا وہ سب مجھ سے چھین لیا۔ حضورؐ نے فرمایا جتنا انہوں نے لے لیا ہے وہ بھی تمہیں دوں گا اور اس کا دگنا اور بھی دے دوں گا۔ آگے اور بھی حدیث ذکر کی ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب حضرت سعدؓ کے ہاتھ کا زخم ہرا ہو گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا تو حضور ﷺ کھڑے ہو کر ان کے پاس گئے اور انہیں اپنے گلے لگایا اور ان کے خون کے چھینٹے حضورؐ کے چہرے اور داڑھی پر پڑ رہے تھے جو بھی حضورؐ کو خون سے چمانے کی جتنی کوشش کرتا حضورؐ اتنے ہی حضرت سعدؓ کے قریب ہو جاتے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔<sup>۲</sup>

انصار کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنو قریظہ کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا اور واپس آگئے تو ان کا زخم پھٹ گیا (اور اس میں سے خون بہنے لگ گیا) حضور ﷺ کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کا سر لے کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حضرت سعدؓ کے جسم کو ایک سفید کپڑے سے ڈھانک دیا گیا۔ لیکن وہ کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ اسے چہرے پر ڈالا گیا تو ان کے دونوں پاؤں کھل گئے۔ حضرت سعدؓ گورے چنے اور بھاری بھر کم آدمی تھے۔ حضورؐ نے فرمایا اے اللہ! سعدؓ نے تیرے راستے میں خوب جہاد کیا ہے اور تیرے رسولؐ کو سچا مانا ہے اور جو کام ان کے ذمہ لگا تھا وہ کام انہوں نے اچھے طریقے سے پورا کر دیا ہے اس لئے تو ان کی روح کو اپنے دربار میں اس طرح قبول فرما جس طرح تو بہترین سے بہترین روح کو قبول فرماتا ہے۔ جب حضرت سعدؓ نے حضورؐ کی یہ دعائی تو آنکھیں کھول کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ! غور سے سنیے! میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضرت سعدؓ کے گھر والوں نے دیکھا کہ حضورؐ نے حضرت سعدؓ کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا ہے تو وہ گھبرا گئے تو کسی نے آکر حضورؐ کو بتایا کہ حضرت سعدؓ کے گھر والوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا ہے تو وہ گھبرا گئے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا (اب یہ تو دنیا سے جانے والے ہیں اور) اس وقت تم اس گھر میں جتنے ہو اتنے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سعدؓ کی وفات پر حاضر ہونے کی اجازت مانگی ہے

۱ عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۷۴) رواہ الطبرانی من طریق ميمونه بنت حجر بن

عبدالجبار عن عمتها ام یحییٰ بن عبدالجبار ولم اعر فہما وبقیة رجالہ ثقات. انتہی

۲ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۴۲۶)

رہاوی کہتے ہیں حضرت سعدؓ کی والدہ رورہ کر یہ شعر پڑھنے لگیں۔

ویل امک سعداً حزامۃ و جدّاً

اے سعد! تیری ماں کے لئے ہلاکت ہو تو تو ایسا تھا کہ ہر کام پوری احتیاط سے اچھی طرح کیا کرتا تھا اور پوری محنت کرتا تھا۔ کسی نے ان کی والدہ سے کہا کیا آپ حضرت سعدؓ کا مرثیہ کہہ رہی ہیں؟

حضورؐ نے فرمایا اسے چھوڑو یہ سچے شعر کہہ رہی ہیں دوسرے لوگ جھوٹے شعر کہتے ہیں۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کے لئے رات کا کھانا رکھا گیا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کھانا کھالیں۔ آپ باہر تشریف لائے اور حضرت معیقہ بن ابی فاطمہ دوسری کو حضورؐ کی صحبت حاصل تھی وہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ ان سے حضرت عمرؓ نے فرمایا قریب آکر یہاں بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی قسم! اگر تمہارے علاوہ کسی اور کو کوڑکی بیہماری ہوتی تو وہ مجھ سے ایک نیزے کی مقدار دور بیٹھتا اس سے قریب نہ بیٹھتا۔

حضرت خارجہ بن زیدؓ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے لوگوں کو دوپہر کے کھانے کے لئے بلایا۔ لوگ ڈر گئے لوگوں میں حضرت معیقہؓ بھی تھے انہیں کوڑھ کی بیماری تھی انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ کھانا شروع کیا تو حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا تم اپنے سامنے اور اپنے قریب سے کھاؤ اگر تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ میرے ساتھ اس پیالہ میں نہ کھاتا بلکہ میرے اور اس کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہوتا۔

حضرت عبد الواحد بن ابی عون دوسری کہتے ہیں حضرت طفیل بن عمرو قبیلہ بنی دوس سے واپس حضورؐ کی خدمت میں گئے اور پھر حضورؐ کی وفات تک مدینہ میں حضورؐ کے ساتھ رہے (حضورؐ کی وفات پر) جب عرب کے لوگ مرتد ہو گئے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ گئے اور مرتدین کے ساتھ خوب جہلا کیا۔ طلحہ اور سارے علاقہ نجد کے مرتدین سے فارغ ہو کر یہ حضرات یمامہ چلے گئے ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت عمرو بن طفیل بھی تھے۔ خود حضرت طفیل جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے اور ان کے بیٹے حضرت عمرو بن طفیل بھی ہاتھ کٹ گیا۔ ایک مرتبہ یہ حضرت عمروؓ حضرت عمرؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کھانا لایا گیا حضرت عمروؓ ایک طرف کو ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا کی بات ہے؟ شاید تم اپنے کئے ہوئے (زخمی) ہاتھ کی وجہ سے ایک طرف ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم! میں اس وقت تک اس کھانے کو نہیں چھوؤں گا جب تک تم اپنے ہاتھ سے

کھانے کو آپس میں نہیں ملاؤ گے کیونکہ اللہ کی قسم! اس وقت یہاں جتنے لوگ ہیں ان میں سے ایک بھی تمہارے علاوہ ایسا نہیں ہے جس کے جسم کا کچھ حصہ جنت میں ہو (ایسے تو صرف تم ہی ہو) پھر حضرت عمرو مسلمانوں کے ساتھ جنگ یرموک میں گئے اور وہاں شہید ہو گئے۔ لہ۔

حضرت حسنؓ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو خط لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگوں کے سارے مجمع کو ایک دم اجازت دے دیتے ہو (ایسے نہ کرو بلکہ) جب تمہیں میرا یہ خط مل جائے تو پھر تم یہ ترتیب بناؤ کہ پہلے فضیلت و شرافت والے چیدہ چیدہ لوگوں کو اجازت دو جب یہ لوگ بیٹھ جایا کریں پھر عام لوگوں کو اجازت دو۔ لہ۔

### بڑوں کو سردار بنانا

حضرت حکیم بن قیس بن عاصمؓ کہتے ہیں کہ ان کے والد حضرت قیس بن عاصمؓ نے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو یہ وصیت فرمائی۔

”اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے بڑے کو سردار بنانا کیونکہ جب کوئی قوم اپنے بڑے کو سردار بناتی ہے تو وہ اپنے کبار و اچھلاؤ کی ٹھیک طرح جانشین بنتی ہے اور جب وہ اپنے سب سے چھوٹے کو سردار بناتی ہے تو اس سے ان کا درجہ برادر والوں کی نگاہ میں کم ہو جاتا ہے۔ اپنے پاس مال رکھو اور اسے حاصل کرو کیونکہ مال سے کریم اور سخت آدمی کو شرافت ملتی ہے اور اسی کے ذریعہ سے انسان کینے اور کجس آدمی کا ضرورت مند نہیں رہتا اور لوگوں سے کچھ نہ مانگتا کیونکہ یہ انسان کے لئے کمائی کا سب سے ادنیٰ اور گھٹیا ذریعہ ہے (جسے سخت مجبوری میں ہی اختیار کرنا چاہئے) جب میں مر جاؤں تو مجھ پر نوحہ نہ کرنا کیونکہ حضور ﷺ پر کسی نے نوحہ نہیں کیا تھا اور جب میں مر جاؤں تو مجھے کسی ایسی جگہ دفن کرنا جس کا قبیلہ بنو بحر بن وائل کو پتہ نہ چل سکے (تاکہ وہ میری قبر کے ساتھ کوئی نامناسب حرکت نہ کر سکیں) کیونکہ میں زمانہ جاہلیت میں ان کو غافل دیکھ کر ان پر چھاپے مارا کرتا تھا“ لہ۔

رائے اور عمل میں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا اکرام کرنا  
حضرت یحییٰ بن سعیدؓ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے چچا فرماتے ہیں کہ جب ہم

۱۔ اخراجہ ابن سعد وابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۷۸) ۲۔ اخراجہ الدینوری  
کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۵۵) ۳۔ اخراجہ البخاری فی الادب (ص ۵۴) و اخراجہ احمد ایضا  
نحوہ کما فی الاصابہ (ج ۳ ص ۶۵۳) و اخراجہ ابن سعد (ج ۷ ص ۲۶) ایضا نحوہ

جنگِ جمل میں کھڑے ہو گئے اور حضرت علیؑ نے ہماری صفوں کو ترتیب دے دی تو انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کر لیا کہ (چونکہ ہمارے مقابلہ پر مسلمانوں کی ہی ایک جماعت ہے اس لئے) کوئی آدمی نہ تیر چلائے اور نہ نیزہ مارے اور نہ تلوار چلائے اور ان لوگوں سے خود لڑائی شروع نہ کرو اور ان کے ساتھ بہت نرم بات کرو کیونکہ یہ ایسا مقام ہے کہ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ قیامت کے دن بھی کامیاب ہو گا۔ چنانچہ ہم لوگ یوں ہی کھڑے رہے یہاں تک کہ جب دن بلند ہو گیا تو (مقابلہ لشکر کے) تمام لوگوں نے بلند آواز سے کہا اے حضرت عثمانؓ کے خون کے بدلہ کا مطالبہ کرنے والو! (حملہ کے لئے تیار ہو جاؤ) حضرت محمد حنفیہؓ ہمارے آگے جھنڈا لئے کھڑے تھے تو ان سے حضرت علیؓ نے پکار کر پوچھا اے ابن حنفیہ! یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا اے امیر المؤمنین! (انہوں نے کہا) اے حضرت عثمانؓ کے خون کے بدلہ کا مطالبہ کرنے والو! اس پر حضرت علیؓ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اے اللہ! قاتلین عثمانؓ کو منہ کے بل گرا دے۔

حضرت محمد بن عمرو بن علی بن ابی طالبؓ کہتے ہیں حضرت علیؓ نے پہلے اہل جمل کو تین دن دعوت دی پھر ان سے جنگ کی جب تیسرا دن ہوا تو حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم نے حضرت علیؓ کے پاس آکر کہا انہوں نے ہمیں بہت زیادہ زخمی کر دیا ہے۔ حضرت علیؓ نے کہا اے میرے بھتیجے! مجھے لوگوں کے سارے حالات معلوم ہیں میں ان سے بد واقف نہیں ہوں پھر حضرت علیؓ نے فرمایا پانی ڈال کر لاؤ۔ چنانچہ پانی لیا تو اس سے وضو کر کے حضرت علیؓ نے دو رکعت نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی پھر ان سے فرمایا اگر تم ان لوگوں پر غالب آ جاؤ تو بھاگنے والے کا پیچھانہ کرنا اور کسی زخمی کا کام تمام نہ کرنا اور یہ لوگ میدان جنگ میں جو ہتھیار لائے ہیں ان پر تو قبضہ کر لینا اسکے علاوہ جتنا سامان یا ہتھیار ہیں وہ سب مرنے والے کے ورثاء کے ہیں امام بیہقی فرماتے ہیں یہ حدیث منقطع ہے صحیح یہ ہے کہ حضرت علیؓ نے کچھ نہیں لیا اور کسی مرنے والے کے ہتھیار بھی نہیں لئے۔

حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں مروان بن حکم کے پاس گیا تو اس نے کہا میں نے آپ کے والد سے زیادہ اچھی طرح غلبہ پانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ جنگِ جمل کے دن جو نبی ہم لوگ گلست کھا کر بھاگے ان کے آدمی نے زور سے اعلان کیا کہ کسی بھاگنے والے کو قتل نہ کیا جائے اور کسی زخمی کا کام تمام نہ کیا جائے۔

حضرت عبد خیرؓ کہتے ہیں کسی نے حضرت علیؓ سے اہل جمل (یعنی جو جنگ جمل میں حضرت علیؓ کے مخالف تھے ان) کے بارے میں پوچھا تو حضرت علیؓ نے فرمایا یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی اس لئے ہم نے ان سے جنگ کی تھی اب انہوں نے بغاوت سے توبہ کر لی ہے جسے ہم نے قبول کر لیا ہے۔ حضرت محمد بن عمر بن علی بن ابی طالبؓ کہتے ہیں حضرت علیؓ نے جنگ جمل کے دن فرمایا ہم ان مخالفوں پر کلمہ شہادت کی وجہ سے احسان کریں گے (یعنی انہیں قتل نہیں کریں گے) اور جو قتل ہو جائیں گے ان کے سامان اور ہتھیار کا وارث ان کے بیٹوں کو بنا لیں گے (ہم نہیں لیں گے)

حضرت ابو الجوزیؓ کہتے ہیں حضرت علیؓ سے اہل جمل کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ مشرک ہیں؟ تو فرمایا شرک سے تو وہ بھاگ کر آئے ہیں پھر پوچھا کیا وہ منافق ہیں؟ تو فرمایا منافق تو اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں (لوریہ لوگ تو اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں اس لئے منافق نہیں ہیں) پھر پوچھا گیا پھر کیا ہیں؟ فرمایا یہ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی۔

حضرت طلحہؓ کے غلام حضرت ابو حنیبہؓ کہتے ہیں جب حضرت علیؓ اہل جمل سے فارغ ہو گئے (اور اس جنگ میں حضرت طلحہؓ حضرت علیؓ کی مخالف جماعت میں تھے اور وہ شہید ہوئے تھے) تو میں حضرت طلحہؓ کے صاحبزادے حضرت عمرانؓ کے ساتھ حضرت علیؓ کی خدمت میں گیا تو انہوں نے حضرت عمرانؓ کو خوب خوش آمدید کہا اور انہیں اپنے قریب بیٹھا کر کہا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے والد کو ان لوگوں میں شامل کر دیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَنَزَعْنَا مَا فِي صُلُوبِهِمْ مِنْ عُلٍّ اِخْوَانًا عَلٰی سُوْرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ** (سورۃ حجر آیت ۷۷)

ترجمہ ”اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کر دیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے تختوں پر آسنے سامنے بیٹھا کریں گے“ پھر فرمایا اے میرے بھتیجے! فلاں عورت کا کیا حال ہے؟ اور فلاں عورت کا کیا حال ہے؟ ان کے والد (حضرت طلحہؓ) کی اولاد کی ماؤں (یعنی ان کی بیویوں) کے بارے میں پوچھا پھر فرمایا ہم نے ان سالوں میں تمہاری زمین پر اس لئے قبضہ کیئے رکھا تا کہ لوگ تم سے چھین نہ لیں پھر فرمایا اے فلاں! انہیں لے کر لٹن قرظہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ ان گزشتہ سالوں کی تمام آمدن انہیں دے دے اور ان کی زمین بھی انہیں دے دے۔ ایک کونے میں دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک حارث اعر تھا ان دونوں نے کہا اللہ تعالیٰ (حضرت علیؓ سے) زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ہم انہیں قتل کر رہے ہیں اور وہ جنت میں ہمارے بھائی ہیں (یہ کیسے ہو سکتا ہے) اس پر حضرت علیؓ نے



راض ہو کر) فرمایا تم دونوں یہاں سے اٹھ کر اللہ کی زمین کے سب سے دور والے علاقے میں چلے جاؤ اگر میں اور حضرت طلحہؓ اس آیت کا مصداق نہیں ہیں تو پھر کون ہوگا؟ اے میرے بھتیجے! جب تمہیں کوئی ضرورت ہو کرے تو تم ہمارے پاس آجایا کرو۔

لن سعد نے حضرت ربیع بن حراشؓ سے بچھلی حدیث جیسی حدیث نقل کی ہے۔ اس کے آخر میں یہ ہے کہ ان دونوں کی بات سن کر حضرت علیؓ نے زور سے ایک چیخ ماری جس سے سارا محل دہل گیا اور پھر فرمایا جب ہم اس آیت کا مصداق نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ حضرت ابراہیمؑ کہتے ہیں لن جر موز نے اگر حضرت علیؓ سے اندر آنے کی اجازت مانگی (لن جر موز نے جنگ جمل میں حضرت زبیرؓ کو شہید کیا تھا) حضرت علیؓ نے بڑی دیر کے بعد اجازت دی تو اس نے اندر آ کر کہا جن لوگوں نے خوب زور شور سے جنگ کی تھی آپ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں! حضرت علیؓ نے فرمایا تیرے منہ میں خاک ہو مجھ یقین ہے کہ میں حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد حضرت محمدؐ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ میں حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ ان لوگوں میں ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اور پھر بچھلی آیت تلاوت فرمائی:

حضرت عمرو بن غالبؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسرؓ نے سنا کہ ایک آدمی ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کے بارے میں نازیبا کلمات کہہ رہا ہے تو اسے ڈانٹ کر فرمایا جو اس بند کرو۔ خدا تجھے خیر سے دور کرے اور گالیاں دینے والے تجھ پر مسلط کرے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں بھی حضور ﷺ کی بیوی ہوگی سہ ترمذی کی حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عمار نے فرمایا دفع ہو جا۔ خدا تجھے خیر سے دور کرے، کیا تو حضور ﷺ کی محبوب بیوی کو تکلیف پہنچا رہا ہے؟

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں ہماری اماں جان حضرت عائشہؓ نے اپنا ایک موقف اختیار کیا ہے (جو کہ حضرت علیؓ کے خلاف ہے) اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں حضور ﷺ کی بیوی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں یا ان کی! حضرت ابو وائلؓ فرماتے ہیں جب حضرت علیؓ نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حسن بن علیؓ کو کوفہ بھیجا تا کہ وہ کوفہ والوں کو (حضرت علیؓ کی مدد کے لیے) تیار

۱۔ اخرجه البيهقي ايضا (ج ۸ ص ۱۷۳) واخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۲۲۴) عن ابی حبیبة نحوه  
وعن ربیع بن حراش بعناه ۲۔ عند ابن سعد ايضا (ج ۳ ص ۱۱۳) ۳۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی  
الکنز (ج ۷ ص ۱۱۶) واخرجه ابن سعد (ج ۸ ص ۶۵) ونحوه والترمذی ۴۔ کذا فی الاصابة (ج  
۴ ص ۳۶۰) ۵۔ عند ابن عساکر وابو یعلیٰ کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۱۱۶)

کر کے لے آئیں تو حضرت عمار نے یہ بیان فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ (حضرت عائشہؓ) حضور ﷺ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے پیچھے چلتے ہو یا ان کے۔

## اپنی رائے کے خلاف بڑوں کے پیچھے چلنے کا حکم

حضرت زید بن وہبؓ کہتے ہیں میں حضرت ابن مسعودؓ کی خدمت میں کتاب اللہ (قرآن مجید) کی ایک آیت پڑھنے گیا۔ انہوں نے مجھے وہ آیت پڑھادی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ آیت مجھے جس طرح پڑھائی ہے حضرت عمرؓ نے تو مجھے اس کے خلاف اور طرح سے پڑھائی تھی اس پر وہ رونے لگے اور اتار دئے کہ مجھے ان کے آنسو کنکریوں میں گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے پھر فرمایا حضرت عمرؓ نے تمہیں جیسے پڑھایا ہے تم ویسے ہی پڑھو کیونکہ اللہ کی قسم! ان کی قرأت سننے والوں کو شرم (بغداد) کے قریب مشہور شہر تھا کہ راستہ سے بھی زیادہ واضح ہے۔ حضرت عمرؓ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے جس میں اسلام داخل ہوتا تھا اس میں سے نکلتا نہیں تھا اور جب حضرت عمرؓ شہید ہو گئے تو اس قلعہ میں شکاف پڑ گیا ہے اور اسلام اب اس قلعہ سے باہر آ رہا ہے اس کے اندر نہیں جا رہا ہے۔

## اپنے بڑوں کی وجہ سے ناراض ہونا

حضرت شریح بن عبیدؓ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت ابو الدرداءؓ سے کہا اے قاری لوگو! (اے علماء کی جماعت!) تمہیں کیا ہوا تم ہم سے زیادہ بزدل ہو اور جب تم سے کچھ مانگا جائے تو تم بہت زیادہ کنجوس بن جاتے ہو اور جب تم کھاتے ہو سب سے بڑے لقمے لیتے ہو۔ حضرت ابو الدرداءؓ نے اس سے اعراض فرمایا اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمرؓ کو اس قصہ کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابو الدرداءؓ سے اس کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابو الدرداءؓ نے کہا اللہ اسے معاف فرمائے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ان سے جو بات بھی سنیں ہر بات پر ان کی پکڑ کریں؟ جس آدمی نے حضرت ابو الدرداءؓ کو یہ باتیں کہی تھیں حضرت عمرؓ اس کے پاس گئے اور اس کا گریبان پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور اسے کھینچ کر حضور ﷺ کی خدمت میں لے آئے۔ اس آدمی نے کہا ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبعی کر رہے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ پر یہ آیت وحی میں بھیجی وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ (سورۃ توبہ آیت ۶۵)

ترجمہ ”اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہہ دیں گے کہ ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبعی کر رہے تھے“

۱۔ اخرجه البيهقي (ج ۸ ص ۱۷۴) قال البيهقي رواه البخاري في الصحيح

۲۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۳۱۷) ۳۔ اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ۱ ص ۲۱۰)

حضرت جبر بن نفیرؓ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے حضرت عمر بن خطابؓ سے کہا اے امیر المؤمنین! ہم نے آپ سے زیادہ انصاف کا فیصلہ کرنے والا اور حق بات کہنے والا اور منافقوں پر آپ سے زیادہ سخت آدمی کوئی نہیں دیکھا لہذا حضور ﷺ کے بعد آپ تمام لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عوف بن مالکؓ نے کہا تم لوگ غلط کہہ رہے ہو ہم نے وہ آدمی دیکھا ہے جو حضورؐ کے بعد حضرت عمرؓ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا اے عوف! وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ نے فرمایا حضرت عوفؓ ٹھیک کہہ رہے ہیں تم سب غلط کہہ رہے ہو اللہ کی قسم! حضرت ابو بکرؓ مشک سے زیادہ پاکیزہ خوشبو والے تھے اور میں تو اپنے گھر والوں کے لونٹ سے زیادہ چملا ہوا ہوں۔<sup>۱</sup>

حضرت حسنؓ کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے لوگوں میں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آکر حضرت عمرؓ کو بتایا کہ کچھ لوگ فلاں جگہ جمع ہیں اور وہ آپ کو حضرت ابو بکرؓ سے افضل بتا رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ کو بہت غصہ کیا اور آدمی بھیج کر ان سب کو بلوایا۔ جب وہ آگئے تو ان سے فرمایا اے بدترین لوگو! اے قبیلے کے شریرو! اے پاکدامن عورت کو بگاڑنے والو! انہوں نے کہا امیر المؤمنین! آپ ہمیں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ حضرت عمرؓ نے تین مرتبہ یوں ہی یہ سخت کلمات کہے پھر فرمایا تم لوگوں نے مجھ میں اور حضرت ابو بکرؓ صدیقؓ میں کیوں فرق ڈالا؟ (پور مجھے ان سے بہتر کیوں بتایا؟) اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میری دلی تمنا ہے کہ مجھے جنت میں ایسی جگہ ملے جہاں سے مجھے حضرت ابو بکرؓ تاحد نگاہ نظر آتے رہیں۔<sup>۲</sup> حضرت عمرؓ فرماتے ہیں اس امت کے نبیؐ کے بعد ان میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں لہذا جو بھی میری اس بات کے بعد کوئی اور بات کہے گا وہ بہتان باندھنے والا شہد ہو گا اور اسے بہتان باندھنے والے کی سزا ملے گی۔<sup>۳</sup>

حضرت زیاد بن علاقہؓ کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ (یعنی حضرت عمرؓ) ہمارے نبیؐ کے بعد اس امت میں سب سے بہتر ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ اسے کوڑے سے مارنے لگے اور فرمانے لگے یہ منحوس غلط کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ مجھے سے، میرے باپ سے، تجھ سے اور تیرے باپ سے بہتر ہیں۔<sup>۴</sup>

حضرت ابو زنادؓ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت علیؓ سے کہا اے امیر المؤمنین! کیا بات ہے کہ مہاجرین اور انصار نے حضرت ابو بکرؓ کو آگے کر دیا حالانکہ آپ ان سے زیادہ فضائل والے اور ان سے

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی فضائل الصحابة قال ابن کثیر اسنادہ صحیح کذا فی منتخب الکنز (ج ۴ ص ۳۵)

۲۔ عند اسد بن موسیٰ ۳۔ عند اللالکانی

۴۔ عند خیمہ فی فضائل الصحابة کذا فی منتخب الکنز (ج ۴ ص ۳۵۰)

پہلے اسلام لانے والے ہیں اور آپ کو بڑی سبقت حاصل ہے؟ حضرت علیؑ نے فرمایا اگر تو قریش قبیلہ کا ہے تو میرے خیال میں تو قریش قبیلہ کی شاخِ عائدہ کا ہے اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا اگر مومن اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور قتل کر دیتا اور اگر تو زندہ رہا تو تجھے اس طرح ڈراؤں گا کہ تجھے اس سے بچ نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا تیرا اس ہو! حضرت ابو بکرؓ کو چار صفات میں مجھ پر سبقت حاصل ہے۔ ایک یہ کہ انہیں حضورؐ کی زندگی میں امام بنایا گیا۔ دوسری یہ کہ انہوں نے مجھ سے پہلے ہجرت کی اور تیسری یہ کہ ہجرت کے موقع پر وہ حضور ﷺ کے ساتھ غار میں تھے اور چوتھی یہ کہ انہوں نے مجھ سے پہلے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا۔ تیرا اس ہو! اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام لوگوں کی مذمت کی ہے اور حضرت ابو بکرؓ کی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **اَلَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ** (سورہ توبہ آیت ۴۰)

ترجمہ ”اگر تم لوگ رسول اللہ ﷺ کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا تھا، جب کہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے جس وقت کہ دونوں غار میں تھے جب کہ آپ اپنے ہمراہی سے فرما رہے تھے کہ تم (کچھ) غم نہ کرو بقیہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ ہے۔“

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ان کی خدمت میں ایک گھوڑا پیش کیا گیا۔ اس پر ایک آدمی نے کہا یہ گھوڑا مجھے سواری کے لئے دے دیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا میں یہ گھوڑا ایسے لڑکے کو سواری کے لئے دے دوں جسے نا تجربہ کاری کے باوجود گھوڑوں پر سوار کیا گیا ہو یہ مجھے تمہیں دینے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس آدمی کو غصہ آگیا اور اس نے کہا میں آپ سے بھی لور آپ کے باپ سے بھی زیادہ عمدہ گھوڑے سوار ہوں۔ جب اس آدمی نے حضور ﷺ کے خلیفہ کی شان میں گستاخی کی یہ کلمات کہے تو مجھے غصہ آگیا اور میں نے کھڑے ہو کر اس کا سر پکڑا اور ناک کے بل اسے گھسیٹا جس سے اس کی ناک سے ایسے خون بہنے لگ گیا کہ جیسے کسی بڑے مشکیزہ کا منہ کھل گیا ہو (چونکہ وہ انصاری تھا اس لئے) انصار نے مجھ سے اس کا بدلہ لینا چاہا۔ حضرت ابو بکرؓ کو جب اس کا پتہ چلا تو فرمایا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بدلہ دلاؤں گا میں انہیں ان کے گھروں سے نکال دوں یہ مجھ اس سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں انہیں ایسے لوگوں سے بدلہ دلاؤں جو اللہ کے لئے اللہ کے بندوں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔

۱۔ اخرجه عيشمه وابن عساكر كذا في منتخب الكنز (ج ۴ ص ۳۵۵) واخرجه العشاري عن ابن عمر بمعناه كما في المنتخب (ج ۴ ص ۴۴۷)  
 ۲۔ اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ۹ ص ۳۶۱) رواه الطبراني ورجالہ رجال الصحیح انتهى

حضرت ابو وائلؓ کہتے ہیں حضرت لئن مسعودؓ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنی لنگی ٹخنے سے نیچے لٹکار رکھی ہے تو اس سے فرمایا اپنی لنگی اوپر کر لو (حضرت لئن مسعود کی لنگی بھی نیچے تھی) اس آدمی نے کہا اے لئن مسعودؓ! آپ بھی اپنی لنگی اوپر کر لیں۔ حضرت عبداللہ (لئن مسعودؓ) نے اس سے فرمایا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں میری پنڈلیاں پتلی ہیں اور میں لوگوں کا امام بنتا ہوں (میں لنگی نیچے کر کے لوگوں سے اپنی پنڈلیاں چھپاتا ہوں تاکہ ان کے دل میں مجھ سے نفرت پیدا نہ ہو) کسی طرح سے یہ بات حضرت عمرؓ تک پہنچ گئی تو حضرت عمرؓ اس آدمی کو مارنے لگے اور فرمانے لگے کیا تم لئن مسعودؓ کی بات کا جواب دیتے ہو؟

حضرت علاءؓ اپنے اساتذہ سے یہ قصہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ مدینہ میں حضرت لئن مسعودؓ کے گھر پر کھڑے ہوئے اس گھر کی عمارت کو دیکھ رہے تھے۔ ایک قریشی آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین! یہ کام آپ کے علاوہ کوئی اور کر لے گا۔

حضرت عمرؓ نے ایک اینٹ لے کر اسے ماری اور فرمایا کیا تم مجھے حضرت عبداللہ سے متنفر کرنا چاہتے ہو؟

حضرت ابو وائلؓ کہتے ہیں ایک آدمی کا حضرت ام سلمہؓ پر کوئی حق تھا اس نے حضرت ام سلمہؓ کی مخالفت پر قسم کھالی تو حضرت عمرؓ نے اسے ایسے تیس کوڑے لگوائے کہ اس کی کھال پھٹ گئی اور سوچ گئی۔

حضرت ام موسیٰؓ فرماتی ہیں حضرت علیؓ کو یہ خبر ملی کہ لئن سبا انہیں حضرت ابو بکر و حضرت عمرؓ سے افضل قرار دیتا ہے تو حضرت علیؓ نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے ان سے کہا کیا آپ ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی تعظیم کرتا ہے اور آپ کو دوسروں سے افضل قرار دیتا ہے؟ حضرت علیؓ نے فرمایا اچھا اتنی سزا تو ضروری ہے کہ جس شہر میں میں رہتا ہوں وہ اس میں نہیں رہ سکتا۔

حضرت ابراہیمؓ کہتے ہیں حضرت علیؓ کو پتہ چلا کہ عبداللہ لئن اسود حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کے درجہ کو کم بتاتا ہے تو انہوں نے تلوار منگالی اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لوگوں نے حضرت علیؓ سے اس کی سفارش کی تو فرمایا جس شہر میں میں رہتا ہوں وہ اس میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اسے ملک بدر کر کے ملک شام بھیج دیا۔

۱۔ اخراجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۵۵)

۲۔ اخراجہ یعقوب بن سفیان وابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۵۵) ۳۔ اخراجہ ابو عبید فی الغریب وسفیان بن عیینہ واللکائی کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۲۰)

۴۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۸ ص ۲۵۳) ۵۔ اخراجہ العساری واللکائی کذا فی المنتخب

حضرت کثیرؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علیؓ کے پاس آیا اور اس نے کہا آپ تمام انسانوں سے بہتر ہیں حضرت علیؓ نے پوچھا کیا تو نے حضور ﷺ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضرت علیؓ نے پوچھا کیا تو نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے تو پھر تو میں تمہیں قتل کر دیتا اور اگر تم کہتے کہ میں نے حضرت ابو بکرؓ کو دیکھا ہے تو میں تم پر حد شرعی جاری کر دیتا (کیونکہ تم نے جو کہا ہے یہ بہتان ہے بہتان باندھنے کی سزا دیتا) ۱۔

حضرت علقمہؓ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علیؓ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنایاں فرمائی پھر فرمایا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ سے افضل قرار دیتے ہیں اگر میں اس کام سے صراحتاً پہلے منع کر چکا ہوتا تو آج میں اس پر ان کو ضرور سزا دیتا کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتا کہ میں نے جس کام سے ابھی روکا نہ ہو اس پر کسی کو سزا دوں لہذا میرے آج کے اس اعلان کے بعد اگر کسی نے ایسی بات کہی تو وہ بہتان باندھنے والا شمار ہو گا اور اسے بہتان باندھنے والے کی سزا ملے گی۔ حضور ﷺ کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین حضرت ابو بکرؓ ہیں پھر حضرت عمرؓ ہیں ان کے بعد تو ہم نے کئی نئے کام ایسے شروع کر دیئے ہیں جن کے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کرے گا (کہ وہ صحیح ہیں یا غلط)۔ ۲۔

حضرت سوید بن غنفلہؓ کہتے ہیں میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا تذکرہ کر رہے تھے اور ان دونوں کے درجے کو گھٹا رہے تھے۔ میں نے حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ساری بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا اللہ اس پر لعنت کرے جو اپنے دل میں ان دونوں حضرات کے بارے میں اچھے اور نیک جذبات کے علاوہ کچھ اور رکھے یہ دونوں حضور ﷺ کے بھائی اور ان کے وزیر تھے اور پھر منبر پر تشریف لے جا کر زبردست بیان فرمایا اور اس میں یہ فرمایا:

”لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ قریش کے دوسرے داروں اور مسلمانوں کے دو (معزز و محترم) کہاؤں کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے میں بیزار اور بری ہوں بلکہ انہوں نے جو غلط باتیں کہی ہیں ان پر سزا دوں گا؟ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا فرمایا! ان دونوں سے صرف وہی محبت کرے گا جو مومن اور متقی ہو گا اور ان دونوں سے وہی بغض رکھے گا جو بدکار اور خراب ہو گا۔ یہ دونوں حضرات

۱۔ اخرجه العشارى عن الحسن بن كثير

۲۔ اخرجه ابن ابى عاصم و ابن شاهين واللالکانى والا صبهانى وابن عساکر

سچائی اور وفاداری کے ساتھ حضور ﷺ کی صحبت میں رہے۔ دونوں حضورؐ کے زمانے میں نبی کا حکم فرمایا کرتے تھے اور برائی سے روکا کرتے تھے اور سزا دیا کرتے تھے جو کچھ بھی کرتے تھے اس میں حضورؐ کی رائے مبارک کے کچھ بھی خلاف نہیں کیا کرتے تھے اور حضورؐ بھی کسی کی رائے کو ان دونوں حضرات کی رائے جیسا وزنی نہ سمجھتے تھے اور حضورؐ کو ان دونوں سے جتنی محبت تھی اتنی کسی اور سے نہ تھی۔ حضورؐ دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ ان دونوں سے بالکل راضی تھے اور (اس زمانے کے تمام لوگ بھی ان سے راضی تھے۔ پھر (حضورؐ کی آخر زندگی میں) حضرت ابو بکرؓ کو نماز کی ذمہ داری دی گئی پھر جب اللہ نے اپنے نبی کو دنیا سے اٹھالیا تو مسلمانوں نے ان پر نماز کی ذمہ داری کو برقرار رکھا بلکہ ان پر زکوٰۃ کی ذمہ داری بھی ڈال دی کیونکہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ اکٹھا ہی آتا ہے۔ ابو عبدالمطلب میں سے میں سب سے پہلے ان کا نام (خلافت کے لئے) پیش کرنے والا تھا۔ انہیں تو خلیفہ بننا سب سے زیادہ ناگوار تھا بلکہ وہ تو چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی اور ان کی جگہ خلیفہ بن جائے۔ اللہ کی قسم! (حضورؐ کے بعد) جتنے آدمی باقی رہ گئے تھے وہ ان میں سے سب سے بہترین تھے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے۔ حضور ﷺ نے ان کو شفقت اور رحم دلی میں حضرت میکائیلؑ کے ساتھ اور معاف کرنے اور وقار سے چلنے میں حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ (وہ خلیفہ بن کر) بالکل حضورؐ کی سیرت پر چلتے رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ حضرت ابو بکرؓ نے لوگوں سے مشورہ کر کے اپنے بعد حضرت عمرؓ کو امیر بنایا کچھ لوگ ان کی خلافت پر راضی تھے کچھ راضی نہیں تھے۔ میں ان میں سے تھا جو ان کی خلافت پر راضی تھے لیکن اللہ کی قسم! حضرت عمرؓ نے ایسے عمدہ طریقے سے خلافت کا کام سنبھالا کہ ان کے دنیا سے جانے سے پہلے وہ سب لوگ بھی ان کی خلافت پر راضی ہو چکے تھے جو شروع میں راضی نہیں تھے اور وہ امر خلافت کو بالکل حضورؐ کے اور حضورؐ کے ساتھی یعنی حضرت ابو بکرؓ کے نبج پر لے کر چلے اور وہ ان دونوں حضرات کے نشان قدم پر اس طرح چلے جس طرح لونٹ کا پیچ اپنی ماں کے نشان قدم پر چلتا ہے اور وہ اللہ کی قسم! حضرت ابو بکرؓ کے بعد رہ جانے

والوں میں سب سے بہترین تھے اور بڑے مہربان اور رحم دل تھے ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کیا کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے حق کو ان کی زبان پر اس طرح جاری کر دیا تھا کہ ہمیں نظر آتا تھا کہ فرشتہ ان کی زبان پر بول رہا ہے، ان کے اسلام کے ذریعہ اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی اور ان کی ہجرت کو دین کے قائم ہونے کا ذریعہ بنایا اور اللہ نے مومنوں کے دل میں ان کی محبت اور منافقوں کے دل میں انکی ہیبت ڈالی ہوئی تھی اور حضور ﷺ نے ان کو دشمنوں کے بارے میں سخت دل اور سخت کلام ہونے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور کافروں پر دانت پینے اور سخت ناراض ہونے میں حضرت نوح کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ اب بتاؤ تمہیں کون ان دونوں جیسا لاکر دے سکتا ہے؟ ان دونوں کے درجے کو وہی پہنچ سکتا ہے جو ان سے محبت کریگا اور ان کا اتباع کرے گا۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے اور میں اس سے بری ہوں۔ اگر ان دونوں حضرات کے بارے میں یہ باتیں پہلے کہہ چکا ہوتا تو میں ان کے خلاف بولنے والوں کو آج سخت سے سخت سزا دیتا۔ لہذا میرے آج کے اس بیان کے بعد جو اس جرم میں پکڑ کر میرے پاس لایا جائے گا اس کو وہ سزا ملے گی جو بہتان باندھنے والے کی سزا ہوتی ہے۔ غور سے سن لو اس امت کے نبی ﷺ کے بعد اس امت میں سب سے بہترین حضرت ابو بکرؓ ہیں پھر حضرت عمرؓ ہیں پھر اللہ ہی جانتے ہیں کہ خیر اور بہتری کہاں ہے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اور تم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے۔“

حضرت ابو اسحاقؓ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت علی بن ابی طالبؓ سے کہا (نعوذ باللہ من ذلك) حضرت عثمانؓ آگ میں ہیں۔ حضرت علیؓ نے کہا تمہیں اس کا کہاں سے پتہ چلا؟ اس آدمی نے کہا کیونکہ انہوں نے بہت سے نئے کام کئے ہیں حضرت علیؓ نے اس سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تمہاری کوئی بیٹی ہو تو کیا تم اس کی شادی بغیر مشورے کے کر دو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا حضور ﷺ کی اپنی دو بیٹیوں (کی شادی) کے بارے میں جو رائے تھی کیا اس سے بہتر کوئی رائے ہو سکتی ہے؟ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ حضورؐ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے تھے یا نہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، حضورؐ استخارہ کرتے تھے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا حضورؐ کے استخارہ کرنے پر اللہ

عند خبیثہ واللہ لکائی وابی الحسن البغدادی والشیرازی، ابن مندہ وابن عساکر کذا فی منتخب



تعالیٰ حضور ﷺ کیلئے خیر اور بہتر صورت کا انتخاب کرتے تھے یا نہیں؟ اس نے کہا کرتے تھے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ حضورؐ نے حضرت عثمانؓ سے اپنی دو بیٹیوں کی جو شادی کی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے خیر کا انتخاب کیا تھا یا نہیں؟ میں نے تمہاری گردن اڑانے کے بارے میں غور کیا تھا لیکن ابھی اللہ کو یہ منظور نہیں تھا غور سے سنو! اگر تم اس کے علاوہ کچھ کہو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔

حضرت سالم کے والد کہتے ہیں مجھے حضور ﷺ کے ایک صحابی ملے جن کی زبان میں کچھ کمزوری تھی جس کی وجہ سے ان کی بات صاف ظاہر نہیں ہوتی تھی انہوں نے (شکایت کے انداز میں) حضرت عثمانؓ کا تذکرہ کیا اس پر حضرت عبداللہؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حضرت محمد ﷺ کے صحابہؓ کی جماعت یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ حضور ﷺ کے زمانے میں یو بجر عمرؓ اور عثمانؓ کہا کرتے تھے (یعنی تینوں کا نام اکٹھا لیا کرتے تھے کیونکہ تمام صحابہؓ تینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے) اب تو مال ہی مقصود ہو گیا ہے کہ حضرت عثمانؓ اگر اسے مال دے دیں پھر تو حضرت عثمانؓ اسے پسند ہیں۔

حضرت عامر بن سعدؓ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سعدؓ پیدل جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک آدمی پر ہوا جو حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کی شان میں نامناسب کلمات کہہ رہا تھا۔ حضرت سعدؓ نے کہا تم ایسے لوگوں کو برا کہہ رہے ہو جنہیں اللہ کی طرف سے بہت فضائل و انعامات مل چکے ہیں۔ اللہ کی قسم! یا تو تم انہیں برا کہنا چھوڑ دو نہیں تو میں تمہارے لئے بد دعا کروں گا اس نے جواب میں کہا یہ تو مجھے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کہ یہ نبی ہوں۔ حضرت سعدؓ نے یہ بد دعا فرمائی کہ اے اللہ! اگر یہ ان لوگوں کو برا کہہ رہا ہے جنہیں تیری طرف سے بہت سے فضائل و انعامات مل چکے ہیں تو اسے عبرت ناک سزا دے۔ چنانچہ ایک بختی لوٹنی تیزی سے آئی لوگ اسے دیکھ کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ اس لوٹنی نے اس آدمی کو روند ڈالا (اور اسے مار ڈالا) میں نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعدؓ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ابو اسحاق! اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ حضرت مصعب بن سعدؓ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت علیؓ کو برا کہا تو حضرت سعد بن مالکؓ نے اس کے لئے بد دعا فرمائی۔ چنانچہ ایک لونٹ یا لوٹنی نے اگر اسے مار ڈالا۔ اس پر حضرت سعدؓ نے ایک غلام آزاد کیا اور یہ قسم کھائی کہ آئندہ کسی کے لئے بد دعا نہیں کریں گے۔

۱۔ اخراجہ ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۸) ۲۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۹ ص ۲۳۵) عن سالم ۳۔ اخراجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۵۴) رجالہ رجال الصحیح. ۵۱ ۴۔ عند الحاکم (ج ۳ ص ۴۹۹)

حضرت قیس بن ابی حازمؓ کہتے ہیں میں مدینہ کے ایک بازار میں چلا جا رہا تھا جب میں اجار الثریت مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جمع ہیں اور ایک آدمی اپنی سواری پر بیٹھا ہوا حضرت علی بن ابی طالبؓ کو برا بھلا کہہ رہا ہے لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے ہیں اتنے میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ آکر وہاں کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک آدمی حضرت علی بن ابی طالبؓ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، حضرت سعدؓ آگے بڑھے لوگوں نے انہیں راستہ دیا۔ انہوں نے اس آدمی کے پاس کھڑے ہو کر کہا او فلا نے تو کس وجہ سے حضرت علی بن ابی طالبؓ کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ کیا وہ سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے سب سے پہلے حضور ﷺ کیساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کیا وہ لوگوں میں سب سے بڑے زاہد اور سب سے بڑے عالم نہیں تھے؟ ان کے اور بہت سے فضائل ذکر کیئے اور یہ بھی کہا کیا وہ حضورؐ کے داماد نہیں تھے؟ کیا غزوات میں حضورؐ کا جھنڈا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا؟ پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی اے اللہ! اگر یہ آدمی تیرے ایک دوست کو برا کہہ رہا ہے تو ان لوگوں کے بکھر نے سے پہلے ان کو اپنی قدرت دکھا۔ چنانچہ ہمارے بکھر نے سے پہلے ہی اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی اس کی سواری کے پاؤں زمین میں دھسنے لگے جس سے وہ سر کے بل ان پتھروں پر زور سے گرا جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا ہتھیاباہر نکل آیا اور وہ وہیں مر گیا۔

حضرت ربیع بن حارثؓ کہتے ہیں حضرت مغیرہؓ بڑی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے اور کوفہ والے ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن زید نامی ایک صحابی تشریف لائے۔ حضرت مغیرہؓ نے انہیں سلام کیا اور تخت پر اپنے پیروں کے قریب انہیں بٹھایا اتنے میں کوفہ کا ایک آدمی آیا اور برا بھلا کہنے لگ گیا۔ حضرت سعید نے پوچھا اے مغیرہ! یہ کسے برا بھلا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی بن ابی طالبؓ کو۔ حضرت سعید نے کہا اے مغیرہ بن شعبہ! اے مغیرہ بن شعبہ! کیا میں سن نہیں رہا کہ حضور ﷺ کے صحابہؓ کو آپ کے سامنے برا بھلا کہا جائے اور آپ اس پر لڑا کرتے ہیں اور نہ اسے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات میرے کانوں نے حضورؐ سے سنی ہے اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے اور میں حضورؐ سے غلط بات نقل نہیں کر سکتا کیونکہ میں غلط بات نقل کروں گا تو کل قیامت کے دن جب آپ سے میری ملاقات ہوگی تو حضورؐ مجھ سے اس غلط بات کے

۱۔ عند الحاکم ایضاً قال الحاکم (ج ۳ ص ۵۰۰) ووافقه الذہبی هذا الحدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخر جاہ، ۵، و اخرجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۰۲) عن ابن طیب نحو السباق الاول

بارے میں بوچھیں گے۔ حضورؐ نے فرمایا ہے، ابو بکرؓ جنت میں جائیں گے، طلحہؓ جنت میں جائیں گے، زبیرؓ جنت میں جائیں گے عبد الرحمن بن عوفؓ جنت میں جائیں گے، سعد بن مالکؓ جنت میں جائیں گے اور نوویں نمبر پر اسلام لانے والا جنت میں جائے گا اگر میں اس کا نام لینا چاہتا تو لے سکتا تھا اس پر مسجد والوں نے شور مچادیا اور قسم دے کر پوچھنے لگے اے رسول اللہ کے صحابی! وہ نواں آدمی کون ہے؟ انہوں نے فرمایا تم مجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہے ہو اور اللہ بہت بڑے ہیں نواں مسلمان میں ہوں اور حضور ﷺ دسویں ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور قسم کھا کر کہا ایک آدمی کسی موقع پر حضورؐ کے ساتھ رہا ہو جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہو اور تمہیں حضرت نوحؑ کی عمر مل جائے تو بھی یہ عمل تمہاری زندگی کے تمام اعمال سے زیادہ افضل ہو گا۔<sup>۱</sup>

حضرت عبد اللہ بن ظالم مازنی کہتے ہیں جب حضرت معاویہؓ کو فہ سے جانے لگے تو حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کو کو فہ کا گورنر بنا دیا۔ حضرت مغیرہؓ نے خطیب لوگوں کو حضرت علیؓ کو برا بھلا کہنے میں لگا دیا۔ میں حضرت سعید بن زیدؓ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا یہ دیکھ کر حضرت سعیدؓ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کھڑے ہو کر میرا ہاتھ پکڑا میں ان کے پیچھے چل دیا انہوں نے فرمایا کیا تم اس آدمی کو دیکھتے نہیں جو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے اور جنتی آدمی کو برا کہنے کا حکم دے رہا ہے؟ میں نو آدمیوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائیں گے (ان میں سے ایک حضرت علیؓ ہیں) اگر میں دسویں کے بارے میں بھی گواہی دے دوں تو گناہ گار نہیں ہوں گا۔<sup>۲</sup>

### بڑوں کی وفات پر رونا

حضرت لکن سیرینؓ کہتے ہیں جب حضرت عمرؓ کو نیزہ مارا گیا تو ان کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز لائی گئی (انہوں نے اسے پیا) تو وہ زخم کے راستے سے باہر آگئی (اور سب کو پتہ چل گیا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے) حضرت صہیبؓ فرمانے لگے ہائے عمرؓ، ہائے میرے بھائی! آپ کے بعد ہمارا کون ہو گا؟ حضرت عمرؓ نے ان سے کہا میرے بھائی! ایسے نہ کہو کیا آپ جانتے نہیں کہ جس کے مرنے پر لوہنجی آواز سے رویا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا (بشر طیکہ وہ مرتے وقت اس کی وصیت کر کے گیا ہو)<sup>۳</sup> حضرت ابو بردہ کے والد کہتے ہیں جب حضرت عمرؓ کو نیزہ مارا گیا تو حضرت صہیبؓ لوہنجی آواز سے روتے ہوئے آئے حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا مجھ پر؟ حضرت صہیبؓ

<sup>۱</sup> اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۹۵) <sup>۲</sup> عند ابی نعیم ایضا (ج ۱ ص ۹۶) واخرجه احمد وابو نعیم فی المعرفة وابن عساکر عن رباح نحو ماتقدم کما فی منتخب الكنز (ج ۵ ص ۷۹)

نے کہا جی ہاں! حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کے مرنے پر رویا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا؟ حضرت مقدم بن معدیکربؓ فرماتے ہیں جب حضرت عمرؓ زخمی ہو گئے تو حضرت حصہ بنت عمرؓ ان کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے کہا اے رسول اللہ کے صحابی! اے رسول اللہ کے سر! اور اے امیر المؤمنین! حضرت عمرؓ نے حضرت ابن عمرؓ سے فرمایا اے عبد اللہ! مجھے بٹھا دو میں یہ سب کچھ سن کر اب مزید صبر نہیں کر سکتا چنانچہ حضرت ابن عمرؓ نے انہیں اپنے سینہ سے لگا کر بٹھالیا تو حضرت حصہؓ سے کہا تمہارے لو پر جو میرے حق ہیں ان کا واسطہ دے کر میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں کہ تم کج کے بعد مجھ پر نوحہ کرو۔ تمہاری آنکھوں پر تو میں کوئی پابندی نہیں لگا سکتا (کیونکہ آنسو سے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے) لیکن یہ یاد رکھو کہ جس میت پر نوحہ کیا جائے گا اور جو لو صاف اس میں نہیں ہیں وہ بیان کیئے جائیں گے تو فرشتے اسے لکھ لیں گے۔

حضرت زیدؓ کہتے ہیں حضرت سعید بن زیدؓ رورہے تھے کسی نے ان سے پوچھا کہ اے ابو الاغور! آپ کیوں رورہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اسلام (کے نقصان) پر رورہا ہوں۔ حضرت عمرؓ کی وفات سے اسلام میں ایسا شگاف پڑ گیا ہے جو قیامت تک پر نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو وائلؓ کہتے ہیں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے آکر ہمیں حضرت عمرؓ کے دنیا سے تشریف لے جانے کی خبر دی اس دن میں لوگوں کو جتنا غمگین اور جتنا روتے ہوئے دیکھا۔ پھر حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! اگر مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت عمرؓ فلاں کتے سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا تھا اللہ کی قسم! مجھے یقین ہے کہ کانٹے دار جھاڑیوں کو بھی حضرت عمرؓ کے انتقال کا غم محسوس ہوا ہے۔

حضرت ابو عثمانؓ کہتے ہیں میں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ جب انہیں حضرت نعمانؓ کی وفات کی خبر ملی تو وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے۔

حضرت ابو اشعثؓ صنعائی کہتے ہیں صنعائی کے گورنر جن کا نام حضرت ثمامہ بن عدیؓ تھا انہیں حضورؐ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ جب انہیں حضرت عثمانؓ کے انتقال کی خبر ملی تو رونے لگے اور فرمایا اب ہم سے نبوت کے طرز پر چلنے والی خلافت چھین لی گئی ہے اور بادشاہت اور زبردستی لینے کا دور آ گیا ہے اور جو آدمی زور لگا کر جس چیز پر غلبہ پالے گا وہ اسے کھا جائے گا۔

۱۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۳۷۲) بن عبد الملک بن زید

۲۔ اخراجہ ابن ابی الدنیا کذا فی الکنز (ج ۸ ص ۱۱۷)

۳۔ اخراجہ ابو نعیم کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۲۷) و اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۸۰) نحوہ

حضرت زید بن علیؓ کہتے ہیں جس دن حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس دن حضرت زید بن ثابتؓ ان کی شہادت پر رو رہے تھے۔ حضرت ابو صالحؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہؓ ان مظالم کا ذکر کرتے جو حضرت عثمانؓ پر ڈھائے گئے تھے تو رونے لگ جاتے اور ان کا ہائے ہائے کر کے زور سے رونے لگتے ایسے یاد ہے کہ جیسے میں اسے سن رہا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن سعیدؓ کہتے ہیں حضرت ابو حمید ساعدیؓ ان صحابہؓ میں سے تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے جب حضرت عثمانؓ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت ابو حمیدؓ نے یہ نذر مالی کہ اے اللہ! میں نذر مانتا ہوں کہ اب آئندہ فلاں اور فلاں کام نہیں کیا کروں گا اور تیری ملاقات تک یعنی موت تک کبھی نہیں ہنسوں گا۔

### بڑوں کی موت پر دلوں کی حالت کو بدلانا ہو محسوس کرنا

حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم حضور کو (دفن کر کے اور) مٹی میں چھپا کر بٹے ہی تھے کہ ہمیں اپنے دل بدلے ہوئے محسوس ہونے لگ گئے تھے۔<sup>۱</sup>  
حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں جب ہم حضور ﷺ کے ساتھ تھے تو ہم سب کے چہرے ایک طرف تھے لیکن جب آپ ہمیں دنیا میں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے تو ہمارے چہرے دائیں بائیں الگ الگ سمت میں ہو گئے۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جب ہم اپنے نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے تو ہم سب کا رخ ایک طرف تھا۔ جب اللہ نے آپ کو اٹھالیا تو ہم اوہرا اوہرا دیکھنے لگے۔<sup>۲</sup>

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں جب وہ دن آیا جس دن اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو دنیا سے اٹھالیا تو اس دن مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی تھی اور ابھی ہم نے حضور کے دفن سے فارغ ہو کر ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے کہ ہمیں اپنے دل بدلے ہوئے محسوس ہونے لگے۔<sup>۳</sup>  
حضرت انسؓ ہجرت کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں اس دن بھی موجود تھا جس دن حضور ﷺ ہمارے پاس مدینہ تشریف لائے اور اس دن سے زیادہ اچھا اور زیادہ روشن دن میں نے کوئی نہیں دیکھا اور میں اس دن بھی موجود تھا جس دن حضور کا انتقال ہوا اور میں نے اس دن سے زیادہ ہر اور زیادہ تاریک دن کوئی نہیں دیکھا۔<sup>۴</sup>

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں جب حضرات شوریٰ (حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد)

۱۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۸۱) ۲۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۸)

رجال الصحیح ۵۱ ۳۔ عند ابی نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۵۴)

۴۔ عند ابن سعد (ج ۲ ص ۲۷۴) ۵۔ عند ابن سعد ایضاً (ج ۱ ص ۲۳۴)

ایک جگہ جمع ہوئے اور حضرت ابو طلحہؓ نے ان کا رویہ دیکھا (کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرا خلیفہ بن جائے) تو فرمایا کہ (اب امت کے حالات ایسے ہیں کہ) اگر تم سب امارت کے طالب بن جاؤ تو مجھے اس میں کم خطرہ نظر آ رہا ہے اللہ کی قسم! حضرت عمرؓ کے انتقال کی وجہ سے ہر مسلمان گھرانے کے دین اور دنیا میں کمی آئی ہے۔

## کمزور اور فقیر مسلمانوں کا اکرام کرنا

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں ہم چھ آدمی حضور ﷺ کے ساتھ تھے میں، حضرت لنن مسعودؓ، قبیلہ ہذیل کے ایک صاحب، حضرت بلالؓ اور دو آدمی اور بھی تھے راوی کہتے ہیں میں ان دونوں کے نام بھول گیا تو مشرکوں نے حضورؐ سے کہا کہ ان (چھ آدمیوں) کو اپنی مجلس سے باہر بھیج دیں یہ ایسے اور ایسے یعنی کمزور مسکین قسم کے لوگ ہیں (اور ہم بڑے مالدار اور سردار لوگ ہیں ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے) اس پر حضورؐ کے دل میں ایسا کرنے کا خیال آ گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی: وَلَا تَطْرُقُ دِلَّالِدِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعُدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (سورت انعام آیت ۵۲)

ترجمہ ”اور ان لوگوں کو نہ نکالئے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضائی کا قصد رکھتے ہیں۔“

حضرت لنن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ قریش کے چند سردار حضور ﷺ کے پاس سے گزرے اس وقت حضورؐ کے پاس حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت عمارؓ اور ان جیسے کچھ اور کمزور شکستہ حال مسلمان بیٹھے ہوئے تھے ان سرداروں نے کہا یا رسول اللہ! (ازراہ مذاق حضورؐ کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا) کیا آپ کو اپنی قوم میں سے یہی لوگ پسند آئے؟ کیا ہمیں ان لوگوں کے تابع بن کر چلنا پڑے گا؟ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے؟ ان لوگوں کو آپ اپنے پاس سے دور کر دیں تو پھر شاید ہم آپ کا اتباع کر لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی: وَأَنْذِرِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ مِنْ لَدُنْهُمْ فَتُكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ تک۔ (سورت انعام آیت ۵۱)

ترجمہ ”اور اس قرآن کے ذریعہ سے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیئے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ انکا کوئی مدد

۱۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۳۷۴) ۲۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۴۲۶) و

اخراجہ الحاکم (ج ۳ ص ۳۱۹) عن سعد مختصر ۱ وقال صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه

گار ہو گا اور نہ کوئی شفیق ہو گا اس امید پر کہ وہ ڈر جاویں اور ان لوگوں کو نہ نکالے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضا ہی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

حضرت انسؓ اللہ تعالیٰ کے فرمان عبس و تولیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت لئن ام مکتومؓ حضور ﷺ کی خدمت میں آئے۔ اس وقت حضورؐ (مکہ کے سردار) ابی بن خلف سے (دعوت کی) بات کر رہے تھے۔ اس لئے حضورؐ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی: عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی (سورت عبس آیت ۲)

ترجمہ ”پیغمبر ﷺ) چپیں بہ جبین ہو گئے اور متوجہ نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا۔“ اس کے بعد حضورؐ ہمیشہ ان کا اکرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ عبس و تولیٰ نابینا حضرت لئن ام مکتومؓ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا قصہ یہ ہوا کہ یہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے آپ مجھے سیدھا راستہ بتادیں اس وقت حضورؐ کے پاس مشرکین کا ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا حضورؐ نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی بلکہ اسی دوسرے کی طرف ہی متوجہ رہے اور حضورؐ نے اس مشرک سے فرمایا تمہیں میری بات میں کوئی حرج نظر آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس پر عبس و تولیٰ نازل ہوئی۔“

حضرت خیاب بن ارتؓ فرماتے ہیں اقرع بن حابس تمیمی اور عیینہ بن حصن فزازی آئے تو انہوں نے حضور ﷺ کو حضرت عمارؓ حضرت بلالؓ، حضرت خیاب بن ارتؓ اور دوسرے کمزور نادار مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے پایا ان دونوں کو یہ لوگ حقیر نظر آئے اس لئے دونوں نے حضورؐ کو الگ لے جا کر تنہائی میں یہ کہا کہ آپ کے پاس عرب کے وفود آتے ہیں لیکن ہمیں اس بات سے شرم آرہی ہے کہ (ہم لوگ بڑے آدمی ہیں) ہمیں جب عرب کے لوگ ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے اس لئے جب ہم آپ کے پاس آیا کریں تو آپ انہیں اٹھا کر بچ دیا کریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ان دونوں نے کہا آپ ہمیں یہ بات لکھ کر دے دیں۔ آپ نے ایک کاغذ منگوا لیا اور لکھنے کے لئے حضرت علیؓ کو بلایا ہم لوگ

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۴۶) واخرجه احمد والطبرانی نحوه قال الهیثمی (ج

۲ ص ۲۱) رجال احمد رجال الصحیح غیر کدوس وهو ثقة انتهى

۲۔ اخرجه ابو یعلیٰ ۳۔ عند ابی یعلیٰ وابن جریر وروی الترمذی هذا الحدیث مثله کذا فی

التفسیر لابن کثیر (ج ۴ ص ۴۷۰)

ایک کو نے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر آگئے:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ . وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ . وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا (سورت انعام آیت ۵۲) پہلی آیت کا ترجمہ گزر چکا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ”اور اسی طور پر ہم نے ایک کو دوسرے کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم میں سے ان پر اللہ نے فضل کیا یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آویں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے۔“ اس پر آپ نے وہ کاغذ پھینک دیا اور ہمیں بلا لیا۔ ہم آپ کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا سلام علیکم۔ پھر ہم حضورؐ کے اتنے قریب ہوئے کہ ہمارے گھٹنے حضور ﷺ کے گھٹنوں سے جا ملے۔ اور پھر حضورؐ کا یہ معمول تھا کہ جب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے اور اٹھنا چاہتے تو ہمیں یونہی بیٹھا ہوا چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ (سورت کف آیت ۲۸)

ترجمہ ”اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام (یعنی علی الدوام) اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں اور دینی زندگی گانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں (یعنی توجہات) ان سے نہ ہٹنے پائیں۔ اس کے بعد ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور جب حضورؐ کے اٹھ کر جانے کا وقت آجاتا تو ہم حضورؐ کو بیٹھا ہوا چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور جب تک ہم کھڑے نہ ہو جاتے آپ بیٹھے ہی رہتے۔ لہ حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں عیینہ بن حصن اور اقرع بن حابس اور ان جیسے اور مولفۃ القلوب لوگوں نے (یعنی وہ نو مسلم جن کی حضور ﷺ دل جوئی کیا کرتے تھے) حضور ﷺ کی خدمت میں آکر کہا یا رسول اللہ! اگر آپ مسجد کے اگلے حصہ میں بیٹھ جائیں اور حضرت ابوذر اور حضرت سلمانؓ اور دوسرے مسلمان فقراء کو اور ان کے جہوں کی بدیو کو ہم سے دور کر دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر خلوص و مروت کی باتیں کر لیں اور آپ سے (قرآن و حدیث) لے

۱) اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۴۶) واخرجہ ابن ماجہ عن خیاب بنحوہ کما فی البدایۃ (ج ۶ ص ۵۶) واخرجہ ابن ابی شیبۃ عن الاقرع بن حابس وعیینۃ بن حصن نحوہ الی آخر الآیۃ ولم یذکر ما بعدہ کما فی الكنز العمال (ج ۱ ص ۲۴۵)



لیں۔ یہ فقراء حضرات اون کے جبے پہنا کرتے تھے دوسرے سوتلی کپڑے ان کے پاس نہیں ہوتے تھے (ان جبوں سے اون کی بو کیا کرتی تھی) اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مَبْدَلُ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا وَاضْبُرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ سَلِّ عَلَى كُوفٍ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا تَكْ جَنِّ مِثْلُ اللّٰهِ تَعَالٰی نَے انہیں دوزخ کی دھمکی دی۔ (سورت کعب آیت ۲۴-۲۹)

ترجمہ ”لور آپ کے پاس جو آپ کے رب کی کتاب وحی کے ذریعہ سے آئی ہے (لوگوں کے سامنے) پڑھ دیا کیجئے اس کی باتوں کو (یعنی وعدوں کو) کوئی بدل نہیں سکتا لور آپ خدا کے سوالور کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے لور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام (یعنی علی الدوام) اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں لور دینیوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں (یعنی توجہات) ان سے ہٹنے نہ پائیں لور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیئے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے لور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے لور اس کا (یہ) حال حد سے گزر گیا ہے لور آپ کہہ دیجئے کہ (یہ دین) حق تمہارے رب کی طرف سے (آیا) ہے سو جس کا جی چاہے ایمان لے لے اور جس کا جی چاہے کافر رہے۔ بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس آگ کی قاتیں ان کو گھیرے ہوگی۔ اس پر حضورؐ اٹھے لور ان فقیر مسلمانوں کو تلاش کرنے لگے تو حضورؐ کو مسجد کے آخری حصہ میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مل گئے پھر آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے مجھے وفات سے پہلے خود ہی اس بات کا حکم دیا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کے ساتھ ہی رہا کروں پھر آپ نے فرمایا میرا امر نالور جینا سب تمہارے ساتھ ہو گا۔“

حضرت ابو سلمہ بن عبدالرحمنؓ کہتے ہیں قیس بن مطاطیہ ایک حلقہ کے پاس آیا اس حلقہ میں حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال حبشیؓ تشریف فرما تھے۔ قیس نے کہا یہ اوس و خزرج (عرب ہیں اور بڑے لوگ ہیں) یہ اس آدمی کی مدد کیلئے کھڑے ہوئے ہیں۔ (یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے) لیکن ان (عجمی غریب و فقیر) بے حیثیت لوگ کو کیا ہوا؟ (کہ یہ بھی مدد کے لئے کھڑے ہو گئے ان کی مدد سے فائدہ کیا؟) حضرت معاذ نے کھڑے ہو کر قیس کا گریبان پکڑا اور اسے حضور ﷺ کی خدمت میں لے گئے اور جا کر حضورؐ کو اس کی بات بتائی۔ اس پر حضورؐ غصہ میں (جلدی کی وجہ سے) چادر گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے لور مسجد میں تشریف لے گئے اور حضورؐ نے اعلان کے لئے آدمی بھیجا جس نے الصلاة

جامعہ کہہ کر لوگوں میں اعلان کیا (لوگ جمع ہو گئے پھر حضورؐ نے بیان فرمایا) اور اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا اے لوگو! بے شک رب ایک ہے (یعنی اللہ تعالیٰ) اور باپ بھی ایک ہے (یعنی حضرت آدمؑ) اور دین بھی ایک ہے (یعنی اسلام) غور سے سنو! یہ عربیت نہ تمہاری ماں ہے اور نہ تمہارا باپ۔ یہ تو ایک زبان ہے لہذا کوئی بھی عربی زبان میں بات کرنے لگ جائے وہ خود عربی شمار ہوگا۔ قیس کا گریبان پکڑے ہوئے حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اس منافق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضورؐ نے فرمایا اسے چھوڑ دو یہ دوزخ میں جائے گا۔ چنانچہ حضورؐ کے انتقال کے بعد یہ قیس مرتد ہو گیا اور اسی حال میں مارا گیا۔<sup>۱</sup>

### والدین کا اکرام کرنا

حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی ماں کو سخت گرم و پتھر ملی زمین میں اپنے کندھوں پر اٹھا کر دو فرخ یعنی چھ میل لے گیا وہ اتنی گرم تھی کہ میں اگر اس پر گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیتا تو وہ پک جاتا تو کیا میں نے اس کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا؟ حضورؐ نے فرمایا شاید دروزہ کی ایک ٹیس کا بدلہ ہو گیا ہو (لیکن اس کے احسانات تو اس کے علاوہ اور بہت ہیں)۔<sup>۲</sup>

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اس کے ساتھ ایک بڑے میاں بھی تھے۔ حضورؐ نے فرمایا ان کے آگے نہ چلو اور ان سے پہلے نہ بیٹھو اور ان کا نام لے کر نہ پکارو اور ان کو گالی دینے جانے کا ذریعہ نہ بنو (کہ تم کسی کے باپ کو گالی دے دو وہ جواب میں تمہارے باپ کو گالی دے دے)۔<sup>۳</sup>

حضرت ابو غسان ضبیبیؓ کہتے ہیں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ (مدینہ منورہ کے) پتھریلے میدان میں چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں حضرت ابو ہریرہؓ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ انہوں نے فرمایا ان کے آگے مت چلا کرو بلکہ ان کے پیچھے یا ان کے ساتھ پہلو میں چلا کر دو اور کسی کو اپنے اور ان کے درمیان نہ آنے دو اور اپنے والد کے مکان کی ایسی چھت پر نہ چلو جس کی منڈیر نہ ہو کیونکہ اس

۱۔ اخروجه ابن عساکر عن مالك عن الزهري كذا في الكنز (ج ۴ ص ۴۶)

۲۔ اخروجه الطبرانی في الصغير قاله الهيثمي (ج ۸ ص ۱۳۷) وفيه الحسن بن ابی جعفر وهو ضعيف من غير كذب وليث بن ابی سليم مدلس انتهى ۳۔ اخروجه الطبرانی في الاوسط قال

الهيثمي (ج ۸ ص ۱۳۷) وفيه علي بن سعيد بن بشير شيخ الطبرانی وهو لين وقد نقل ابن دقيق العيد انه وثق ومحمد بن عروة بن البر ندلم اعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح انتهى

سے ان کے دل میں (چھت سے تمہارے نیچے گر جانے کا) خطرہ پیدا ہو گا (اور وہ اس سے پریشان ہوں گے) اور گوشت والی ہڈی پر تمہارے والد کی نگاہ پڑ چکی ہو تم اسے نہ کھاؤ ہو سکتا ہے وہ اسے کھانا چاہتے ہوں۔<sup>۱</sup>

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی۔ حضورؐ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضورؐ نے فرمایا تم ان دونوں کی خدمت کرو (ان کے محتاج خدمت ہونے کی وجہ سے) تمہارا جہاد یہی ہے اے مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت ہونا چاہتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر لینا چاہتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا تم اللہ سے اجر لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضورؐ نے فرمایا اپنے والدین کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو اور یو داؤد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اس آدمی نے کہا میں آپ کی خدمت میں ہجرت پر بیعت ہونے آیا ہوں لیکن میں اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضورؐ نے اس سے پوچھا تمہارا ایمن میں کوئی ہے؟ اس نے کہا میرے والدین ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا تم ان دونوں کے پاس واپس جاؤ اور ان سے اجازت مانگو اگر وہ تمہیں اجازت دے دیں پھر تو تم جہاد میں جاؤ ورنہ ان ہی کی خدمت کرتے رہو۔ ابو یعلیٰ اور طبرانی حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں (جہاد میں جانے کی) قدرت نہیں۔ حضورؐ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا میری والدہ زندہ ہیں حضورؐ نے فرمایا اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ (یعنی مرتے دم تک تم اس کی خدمت کرتے رہو) جب تم یہ کرو گے تو گویا تم نے حج، عمرہ اور جہاد سبھی کچھ کر لیا۔<sup>۲</sup>

حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اعلان فرمایا تم اس بستی میں جانے کی تیاری کر لو جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں انشاء اللہ اللہ تعالیٰ وہ بستی فتح کر کے تمہیں دیں گے۔ حضورؐ کا مقصد خیبر جانا تھا اور آپ نے یہ بھی فرمایا میرے ساتھ اڑیل سواری والا اور کمزور سواری والا ہر گز نہ جائے یہ سن کر حضرت ابو ہریرہؓ نے جا کر اپنی والدہ سے کہا میرا سامان سفر تیار کر دو کیونکہ حضورؐ نے غزوہ کی تیاری کا حکم فرمایا ہے ان کی والدہ نے کہا تم جارہے ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے بغیر اندر آجا نہیں سکتی۔ حضرت ابو ہریرہؓ

۱۔ اخرجه الطبرانی فی الاوسط قال الهیثمی (ج ۸ ص ۱۳۷) وابو غسان وابو غنم الرادی عنہ

۲۔ اخرجه الستة الابن ماجہ لم اعر فہما وبقیة رجالہ لقات

۳۔ عندابی یعلیٰ والطبرانی باسناد جید کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۹۳)

نے کہا میں حضورؐ سے پیچھے نہیں رہ سکتا ان کے والدہ نے اپنا پستان نکال کر اپنے دودھ کا واسطہ دیا (لیکن حضرت ابو ہریرہؓ نہ مانے) تو ان کی والدہ نے چپکے سے حضورؐ کی خدمت میں آکر ساری بات حضورؐ کو بتادی۔ حضورؐ نے فرمایا تم جاؤ تمہارا کام تمہارے بغیر ہی ہو جائے گا اس کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ حضورؐ کی خدمت میں آئے تو حضورؐ نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا یا رسول اللہ! میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا تمہاری والدہ نے اپنا پستان نکال کر تمہیں اپنے دودھ کا واسطہ دیا لیکن تم نے پھر بھی اس کی بات کو نہ مانا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے دونوں والدین کے پاس یا دونوں میں سے ایک کے پاس رہو گے تو تم اللہ کے راستہ میں نہیں ہو؟ آدمی جب والدین کے پاس رہ کر ان کی خدمت اچھی طرح کرتا ہے اور ان سے حسن سلوک کر کے ان کا حق ادا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں اس کے دو سال بعد میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں ان کے انتقال تک کسی غزوہ میں نہیں گیا۔ آگے اور بھی حدیث ہے۔

طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ پانی پلانے کی جگہ پر کھڑے تھے (جہاں قریش حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے) کہ اتنے میں ایک عورت اپنا پیٹالے کر حضورؐ کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا میرا بیٹا غزوہ میں جانا چاہتا ہے لیکن میں اسے روک رہی ہوں۔ حضورؐ نے اس کے پیٹے سے فرمایا جب تک تمہاری والدہ تمہیں اجازت نہ دے یا اس کا انتقال نہ ہو جائے اس وقت تک تم ان کی خدمت میں رہو اس میں تمہیں ثواب ملے گا۔ طبرانی کی دوسری روایت میں ہے کہ ایک آدمی اور اس کی والدہ دونوں حضور ﷺ کی خدمت میں آئے وہ آدمی جہاد میں جانا چاہتا تھا اور اس کی والدہ اسے روک رہی تھی۔ حضورؐ نے فرمایا اپنی والدہ کے پاس ٹھہرے رہو تمہیں ان کی خدمت میں رہنے پر اتنا ہی اجر ملے گا جتنا جہاد میں جانے سے ملے گا۔ حضرت طلحہ بن معاویہؓ فرماتے ہیں میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں اللہ کے راستہ میں جہاد کے لئے جانا چاہتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے! میں نے کہا جی ہاں حضورؐ نے فرمایا والدہ کے پیروں سے چٹ جاؤ تمہاری جنت وہیں ہے! حضرت جاہمہؓ فرماتے ہیں میں جہاد میں جانے کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے حضور ﷺ کی خدمت میں گیا۔ حضورؐ نے

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۵ ص ۳۲۳) وفيه علی بن یزید الالہانی وهو ضعیف انتہی  
 ۲۔ اخرجه الطبرانی وفي الا سنادین رشدین بن کریب وهو ضعیف کما قال الهیثمی (ج ۵ ص ۳۲۲)  
 ۳۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۸ ص ۱۳۸) رواه الطبرانی عن ابن اسحاق وهو مدلس عن محمد بن طلحة ولم اعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح انتہی

فرمایا کیا تمہارے والدین ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضورؐ نے فرمایا دونوں کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ تمہاری جنت ان دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت معاویہ بن جہمہ سلمیٰؓ کہتے ہیں کہ حضرت جہمہؓ نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ! میں غزوہ میں جانا چاہتا ہوں میں اس بارے میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ حضورؐ نے پوچھا کیا تمہاری والدہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہے۔ حضورؐ نے فرمایا ان کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ تمہاری جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت جہمہ دوسری تیسری مرتبہ مختلف مجلسوں میں جا کر حضورؐ سے یہی پوچھتے رہتے حضورؐ یہی جواب دیتے رہے۔ ۱

حضرت ام سلمہؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت نعیمؓ کہتے ہیں حضرت لئن عمرؓ حج کرنے گئے۔ چلتے چلتے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک درخت کے پاس پہنچے تو اسے پہچان لیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئے پھر فرمایا میں نے دیکھا تھا کہ حضور ﷺ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں اس گھائی سے ایک آدمی آیا اور حضورؐ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا پھر اس نے کہا یا رسول اللہ! میں اس لئے آیا ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ اللہ کے راستہ میں جہاد کیا کروں اور میری نیت صرف اللہ کو راضی کرنے اور آخرت اچھی بنانے کی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضورؐ نے فرمایا واپس جا کر ان کی خدمت کرو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ وہ آدمی یہ سن کر جہاں سے آیا تھا وہاں ہی واپس چلا گیا۔ ۲

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت ام کلثوم سے شادی کا پیام (ان کے والد حضرت علیؓ کو) دیا۔ حضرت علیؓ نے ان سے کہا ابھی تو وہ چھوٹی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے تعلق اور رشتہ کے علاوہ ہر تعلق اور رشتہ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ (اس نکاح کے ذریعہ سے) میرا حضورؐ سے تعلق اور رشتہ قائم ہو جائے گا۔ حضرت علیؓ نے حضرت حسن اور حضرت حسینؓ سے فرمایا تم اپنے چچا کی شادی (اپنی بہن سے) کر دو۔

حضرت محمد لئن سیرینؓ کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفانؓ کے زمانے میں کھجور کے ایک درخت کی قیمت ہزار درہم تک پہنچ گئی۔ حضرت اسامہؓ نے (درخت بیچنے کے بجائے) اندر سے کھود کر کھجور کے درخت کو کھوکھلا کر دیا اور اس کا گودا نکال کر اپنی والدہ کو کھلا دیا۔ لوگوں

۱۔ اخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۱۷) ۲۔ اخرجه ابو يعلى قال الهيثمي (ج ۸ ص ۱۳۸) وفيه ابن

اسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح ان كامولى ام سلمة ناعم وهو الصحيح وان كان

نعيمًا فلم اعرفه انتهى ۳۔ اخرجه البيهقي عن حسن بن حسن عن ابيه كذا في الكنيز (ج ۸ ص ۲۹۶)

نے ان سے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کھجور کی قیمت ہزار درہم تک پہنچ چکی ہے؟ انہوں نے کہا میری والدہ نے کھجور کا گودا مجھ سے مانگا تھا اور میری عادت یہ ہے کہ جب میری والدہ مجھ سے کچھ مانگتی ہیں اور اس کا دینا میرے بس میں ہو تو میں وہ چیز ضرور ان کو دیتا ہوں۔<sup>۱</sup>

**بچوں کیساتھ شفقت کرنا اور ان سب کیساتھ برابر سلوک کرنا**

حضرت عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور ﷺ منبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسین بن علیؓ (گھر سے) نکلے ان کے گلے میں کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جو ٹک رہا تھا اور زمین پر گھسٹ رہا تھا کہ اس میں ان کا پاؤں الجھ گیا اور وہ زمین پر چرے کے بل گر گئے۔ حضورؐ انہیں اٹھانے کے ارادے سے منبر سے نیچے اترنے لگے صحابہؓ نے جب حضرت حسینؓ کو گرتے ہوئے دیکھا تو انہیں اٹھا کر حضورؐ کے پاس لے آئے۔ حضورؐ نے انہیں لے کر اٹھالیا اور فرمایا شیطان کو اللہ مارے اولاد تو بس قنہ اور آزمائش ہی ہے۔ اللہ کی قسم! مجھے تو پتہ ہی نہ چلا کہ میں منبر سے کب نیچے اتر گیا۔ مجھے تو بس اس وقت پتہ چلا جب لوگ اس بچے کو میرے پاس لے آئے۔<sup>۲</sup>

حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ سجدے میں تھے کہ حضرت حسن بن علیؓ اگر آپ کی پشت مبدک پر سولہ ہو گئے۔ پھر حضورؐ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر جب حضورؐ رکوع میں گئے تو وہ حضورؐ کی پشت پر کھڑے ہو گئے پھر حضورؐ نے اٹھ کر انہیں چھوڑ دیا تو وہ چلے گئے۔<sup>۳</sup>

حضرت زبیرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور ﷺ سجدے میں ہیں کہ اتنے میں حضرت حسن بن علیؓ اگر حضورؐ کی پشت مبدک پر سولہ ہو گئے آپ نے انہیں نیچے اتار دیا (بلکہ یوں ہی آپ سجدے میں رہے) یہاں تک کہ وہی خود نیچے اترے اور کبھی آپ ان کے لئے دونوں ٹانگیں کھول دیا کرتے اور وہ ایک طرف سے آپؐ حضورؐ کے نیچے سے گزر کر دوسری طرف سے نکل جاتے۔<sup>۴</sup>

حضرت نبیؐ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں میں سے کس کی شکل حضور ﷺ سے سب سے زیادہ ملتی تھی انہوں نے کہا حضرت حسن بن علیؓ کی شکل حضورؐ سے سب سے زیادہ ملتی تھی اور حضورؐ کو ان سے سب سے زیادہ

<sup>۱</sup> اخبرہ ابن سعد (ج ۴ ص ۴۹) ۲ اخبرہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۵۵) رواہ الطبرانی عن شیخہ حسن ولم ینسبہ عن عبداللہ بن علی الجارودی ولم اعرفہما وبقیۃ رجالہ ثقات . انتہی <sup>۳</sup> اخبرہ البزار قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۷۵) رواہ البزار فی اسنادہ خلاف . ۱۰ <sup>۴</sup> عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۷۵) وفيہ علی بن عباس وهو ضعیف . ۱۱

محبت تھی۔ بعض دفعہ حضورؐ کی پشت مبارک پر پڑ جاتے اور جب تک یہ الگ نہ ہو جاتے حضورؐ سجدے سے نہ اٹھتے۔ بعض دفعہ یہ حضورؐ کے پیٹ کے نیچے داخل ہو جاتے تو آپ ان کے لئے اپنے پاؤں کھول دیتے تو وہ ان کے درمیان سے نکل جاتے۔<sup>۱</sup>

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ بعض دفعہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے جب آپ سجدے میں جاتے تو حضرت حسن اور حضرت حسینؓ کو دکراپ کی پشت پر بیٹھ جایا کرتے۔ جب لوگ ان دونوں کو روکنا چاہتے تو حضورؐ انہیں اشارہ فرمادیتے کہ انہیں چھوڑ دو (جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو) اور نماز پوری کر کے انہیں (سینے سے لگاتے اور پھر) اپنی گود میں بٹھالیتے اور ارشاد فرماتے کہ جسے مجھ سے محبت ہے اسے ان دونوں سے بھی محبت کرنی چاہئے۔<sup>۲</sup> حضرت انسؓ فرماتے ہیں بعض دفعہ حضور ﷺ سجدے میں ہوتے حضرت حسن اور حضرت حسینؓ میں سے کوئی ایک آکر حضورؐ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے حضورؐ ان کی وجہ سے سجدہ لمبا فرمادیتے بعد میں لوگ کہا کرتے یا نبی اللہ! آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا؟ آپ فرماتے میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا تھا اس لئے مجھے جلدی اٹھنا اچھا نہ لگا۔<sup>۳</sup>

حضرت ابو قتادہؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ باہر ہمارے پاس تشریف لائے آپ کے کندھے پر (آپ کی نواسی) حضرت امامہ بنت ابی العاصؓ بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے اسی طرح نماز پڑھنی شروع کر دی جب رکوع میں جاتے تو انہیں نیچے اتار دیتے اور جب (سجدے سے) سر اٹھاتے تو انہیں پھر اٹھا کر بیٹھالیتے۔<sup>۴</sup>

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ ہمارے پاس باہر تشریف لائے آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسنؓ بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے کندھے پر حضرت حسینؓ بیٹھے ہوئے تھے آپ کبھی اسے چومتے اور کبھی اسے آپ یوں ہی چلتے چلتے ہمارے پاس پہنچ گئے تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ! آپ کو ان دونوں سے محبت ہے۔ حضورؐ نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔<sup>۵</sup>

۱ عند البزار قال الهیثمی (ج ۹ ص ۱۷۶) وفيه على بن عباس وهو ضعيف . انتهى

۲ عند ابی یعلی قال الهیثمی (ج ۹ ص ۱۷۹) رواه ابو یعلی والبزار وقال فاذا قضی الصلوة ضمهما الیه والطبرانی باختصار ورجال ابی یعلی ثقات وفي بعضهم خلاف . انتهى

۳ عند ابی یعلی قال الهیثمی (ج ۹ ص ۱۸۱) وفيه محمد بن ذکوان وثقه ابن حبان وضعفه غیره وبقية رجاله رجال الصحيح . انتهى ۴ اخرجہ البخاری (ج ۲ ص ۸۸۷) واخرجہ ابن سعد (ج ۸ ص ۳۹) عن ابی قتادہ نحوه ۵ اخرجہ احمد قال الهیثمی (ج ۹ ص ۱۷۹) رواه احمد رجاله

ثقات وفي بعضهم خلاف ورواه البزار ورواه ابن ماجه باختصار انتهى

حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ حضرت حسن بن علیؓ کی زبان لور ہونٹ چوس رہے تھے اور جس زبان لور ہونٹ کو حضورؐ نے چوسا ہوا ہے کبھی عذاب نہیں ہو سکتا۔  
حضرت سائب بن یزیدؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے حضرت حسنؓ کا بوسہ لیا تو حضرت اقرع بن حابسؓ نے حضور ﷺ سے عرض کیا میرے تو دس بچے پیدا ہوئے ہیں میں نے تو ان میں سے ایک کا بھی کبھی بوسہ نہیں لیا۔ حضورؐ نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے۔

حضرت اسود بن خلفؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے پکڑ کر حضرت حسنؓ کا بوسہ لیا پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آدمی اولاد کی وجہ سے کجی کرتا ہے اور نادانی والے کام کرتا ہے (بچوں کی وجہ سے لڑ پڑتا ہے) اور اولاد کی وجہ سے آدمی بزدلی اختیار کر لیتا ہے (کہ میں مر گیا تو میرے بعد بچوں کا کیا ہو گا؟) حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ شفقت کرتے تھے۔ حضورؐ کا ایک صاحبزادہ تھا جو مدینہ کے کنارے کے محلہ میں کسی عورت کا دودھ پیا کرتا تھا اس عورت کا خاندان لوہار تھا۔ ہم اسے ملنے جایا کرتے تو اس لوہار کا سارا گھر بھٹی میں اذخر گھاس جلانے کی وجہ سے دھوئیں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ حضورؐ اپنے اس بیٹے کو چوما کرتے اور ناک لگا کر اسے سوگھا کرتے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں ایک عورت اپنی دو بیٹیاں لے کر حضرت عائشہؓ کے پاس آئی۔ حضرت عائشہؓ نے اسے تین کھجوریں دیں اس نے ہر بیٹی کو ایک کھجوری اور ایک کھجور اپنے منہ رکھنے لگی وہ دونوں بیٹیاں اسے دیکھنے لگیں اس براس نے (اس کھجور کو نہ کھالی بلکہ) اس کھجور کے دو ٹکڑے کر کے ہر ایک کو ایک ٹکڑا دے دیا اور چلی گئی پھر حضورؐ تشریف لائے تو اس عورت کا یہ قصہ انہوں نے حضورؐ کو بتایا۔ حضورؐ نے فرمایا وہ اپنے اس (شفیقانہ رویہ کی) وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی ہے۔  
حضرت حسن بن علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور ﷺ کی خدمت میں آئی اس کے ساتھ اس کے دو بیٹے تھے اس نے حضورؐ سے کچھ مانگا۔ حضورؐ نے اسے تین کھجوریں دے دیں ہر ایک کے لئے ایک کھجور۔ اس عورت نے ہر ایک کو ایک کھجوری۔ وہ دونوں بچے اپنے حصہ

۱۔ اخرجه احمد قال الهیثمی (ج ۹ ص ۱۷۷) رجاله رجال الصحیح غیر عبدالرحمن بن ابی عوف و هو ثقة انتهى ۲۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۸ ص ۱۵۶) و رجاله ثقات انتهى و اخرجه البخاری (ج ۲ ص ۸۸۷) عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ بنحوہ ۳۔ عند البزار و رجاله ثقات كما قال الهیثمی (ج ۸ ص ۱۵۵) ۴۔ اخرجه البخاری فی الادب (ص ۵۶) و اخرجه ابن سعد (ج ۱ ص ۸۷) عن انس بمعناه ۵۔ اخرجه البزار قال الهیثمی (ج ۸ ص ۱۵۸) وفيه عبد اللہ بن فضالة ولم اعرفه وبقية رجاله رجال الصحیح انتهى



کی کھجور کھا کر ماں کو دیکھنے لگ گئے۔ اس پر اس عورت نے اپنے حصہ کی اس تیسری کھجور کے دو ٹکڑے گڑ کے ہر ایک کو آدھی کھجور دے دی۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا چونکہ اس عورت نے اپنے بیٹوں پر رحم کیا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمادیا ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں ایک آدمی حضورؐ کی خدمت میں آیا اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جسے وہ (ازراہ شفقت) اپنے ساتھ چمٹانے لگا۔ حضورؐ نے پوچھا کیا تم اس بچے پر رحم کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضورؐ نے فرمایا تم اس پر جتنا رحم کھا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم پر رحم فرما رہے ہیں وہ تو ارحم الراحمین ہیں تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔<sup>۲</sup>

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضورؐ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں اس کا بیٹا آیا اس نے اسے چوم کر اپنی ران پر بیٹھالیا۔ پھر اس کی ایک بیٹی آگئی اس نے اسے اپنے سامنے بیٹھالیا۔ حضورؐ نے فرمایا تم نے دونوں سے ایک جیسا سلوک کیوں نہیں کیا؟ بیٹی کونہ چومالور نہ اسے ران پر بیٹھالیا۔<sup>۳</sup> پڑوسی کا اکرام کرنا

حضرت معاویہ بن حنیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ حضورؐ نے فرمایا اگر وہ ہمسار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو اور اس کا انتقال ہو جائے تو تم اس کے جنازے میں جاؤ اور اگر وہ تم سے قرض مانگے تو تم اسے قرضہ دے دو۔ اور اگر وہ فقیر اور بد حال ہو جائے تو تم اس کی پردہ پوشی کرو (کہ ایسے چپکے سے اس کی مدد کرو کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے) اور اگر اسے کوئی اچھی چیز حاصل ہو جائے تو تم اسے مبارک باد دو اور اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو تم اس کو تسلی دو اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اونچی نہ بناؤ اس سے اس کی ہوا بند ہو جائے گی اور جب بھی تم ہنڈیا میں کوئی سالن پکاؤ تو چھبھ کر اس میں سے اسے بھی دے دو ورنہ تمہارے سالن کی خوشبو سے اسے بے چینی اور تکلیف ہوگی (کیونکہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے اور تمہارے ہاں ہے)۔<sup>۴</sup> بیہوشی نے شعب الایمان میں ایسی ہی روایت حضرت معاویہؓ سے نقل کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ننگا ہو تو اسے تم پہناؤ۔<sup>۵</sup>

۱ عند الطبرانی فی الصغیر والکبیر قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۵۸) وفيه حديث بن معاوية الجعفي

وهو ضعيف ۲ أخرجه البخاري في الادب (ص ۵۶) ۳ أخرجه البزار قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۵۶)

رواه البزار فقال حدثنا بعض اصحابنا ولم يسمه وبقية رجاله ثقات ۴ أخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۶۵) وفيه ابو بكر الهذلي وهو ضعيف . ۵

۵ كافي الكنز (ج ۵ ص ۴۴)

حضرت محمد بن عبد اللہ بن سلامؐ فرماتے ہیں میں نے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پڑوسی نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا صبر کرو۔ میں نے دوسری مرتبہ عرض کیا کہ میرے پڑوسی نے تو مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا صبر کرو۔ میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا میرے پڑوسی نے تو مجھے تنگ کر دیا۔ حضورؐ نے فرمایا اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر گلی میں ڈال لو اور تمہارے پاس جو آئے اسے یہ بتاتے رہنا کہ میرے پڑوسی نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے اس طرح سب اس پر لعنت بھیجنے لگ جائیں گے (پھر آپؐ نے فرمایا)

جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا چاہئے اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہئے اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ یا تو وہ خیر کی بات کہے یا چپ رہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ ایک غزوے میں تشریف لے جانے لگے تو فرمایا آج ہمارے ساتھ وہ نہ جائیں جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہو اس پر ایک آدمی نے کہا میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار کی جڑ میں پیشاب کیا ہے حضور ﷺ نے فرمایا تم آج ہمارا ساتھ مت چلو۔ حضرت مقداد بن اسودؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے اپنے صحابہؓ سے فرمایا انا کے بارے میں آپ

لوگ کیا کہتے ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا زنا تو حرام ہے اللہ اور رسولؐ نے اسے حرام قرار دیا ہے یہ قیامت تک حرام رہے گا۔ آپؐ نے فرمایا آدمی دس عورتوں سے زنا کر لے اس کا گناہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے سے کم ہے۔ پھر آپؐ نے فرمایا آپ لوگ چوری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا چونکہ اللہ اور رسولؐ نے اسے حرام قرار دیا ہے اس لئے یہ حرام ہے۔ آپؐ نے فرمایا آدمی دس گھروں سے چوری کر لے اس کا گناہ پڑوسی کے گھر سے چوری کرنے سے کم ہے۔

حضرت مطرف بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں مجھے لوگوں کے واسطے سے حضرت ابو ذرؓ کی ایک حدیث پہنچی تھی میں چاہتا تھا کہ خود ان سے میری ملاقات ہو جائے (تاکہ وہ حدیث ان سے براہ راست سن لوں) چنانچہ ایک دفعہ ان سے میری ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے کہا اے ابو ذرؓ! مجھے آپ کی طرف سے ایک حدیث پہنچی ہے میں (اس حدیث کو براہ راست آپ سے سننے کے لئے) آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ انہوں نے فرمایا اللہ تیرے باپ کا بھلا کرے اب تو تمہاری مجھ سے ملاقات ہو گئی ہے بتاؤ (وہ کون سی حدیث ہے؟) میں نے کہا مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور ﷺ نے آپ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کو پسند کرتا ہے اور تین آدمیوں سے بغض رکھتا ہے۔ حضرت ابو ذرؓ نے کہا میرے خیال میں بھی یہ بات نہیں آسکتی کہ میں حضور ﷺ کی طرف سے جھوٹ بیان کروں میں نے کہا وہ تین آدمی کون سے ہیں جن کو

۱. اخراجہ ابو نعیم کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۴۴) ۲. اخراجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج

اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک تو وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستہ میں جم کر توابع کی امید میں غزوہ کرے اور زور دار جنگ کرے اور آخر کار وہ شہید ہو جائے اور اس آدمی کا تذکرہ تمہیں اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مل جائے پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَمَا نَهَمُ بَنِيَانًا مَوْصُوصًا (سورت صف آیت ۴)

ترجمہ ”اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو (خاص طور پر) پسند کرتا ہے جو اس کے راستہ میں اس طرح سے مل کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک عمارت ہے جس میں سیسہ پلایا گیا ہے۔“ میں نے کہا دوسرا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا دوسرا وہ آدمی ہے جس کا پڑوسی بر آدمی ہے جو اسے تکلف پہنچاتا رہتا ہے اور وہ اس کی تکلیفوں پر مسلسل صبر کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (اس پڑوسی کی اصلاح فرما کر) اسے اور زندگی دے دے یا اسے دنیا سے اٹھالے۔ آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے کہ حضرت قاسمؓ کہتے ہیں حضرت ابو بکرؓ اپنے بیٹے حضرت عبدالرحمنؓ کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے پڑوسی سے جھگڑ رہے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اپنے پڑوسی سے جھگڑا نہ کرو کیونکہ پڑوسی تو یہاں ہی رہے گا اور (لڑانے والے) باقی لوگ چلے جائیں گے۔

### نیک رفیق سفر کا اکرام کرنا

حضرت ربیع بن ریحؓ فرماتے ہیں ہم ایک غزوہ میں حضور ﷺ کے ساتھ گئے۔ حضورؐ نے ہم میں سے ہر تین آدمیوں کو ایک اونٹ سواری کے لئے دیا۔ صحرا اور جنگل میں تو ہم میں سے دو سوار ہو جاتے اور ایک پیچھے سے اونٹ کو چلاتا اور پہاڑوں میں ہم سب ہی اتر جاتے۔ حضورؐ میرے پاس سے گزرے میں اس وقت پیدل چل رہا تھا۔ حضورؐ نے مجھ سے فرمایا اے ربیع! میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پیدل چل رہے ہو؟ (کیا بات ہے؟) میں نے کہا میں تو ابھی اتر اہوں اس وقت میرے دونوں ساتھی سوار ہیں۔ اس کے بعد حضورؐ (آگے چلے گئے اور آپ کا گزر میرے دونوں ساتھیوں کے پاس سے ہوا جس پر انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور دونوں اس سے اتر گئے۔ جب میں ان دونوں کے پاس پہنچا تو دونوں نے کہا تم اس اونٹ پر آگے بیٹھ جاؤ اور (مدینہ) واپسی تک تم یوں ہی بیٹھے رہو۔ ہم دونوں باری باری سوار ہوتے رہیں گے (تم نے اب پیدل نہیں چلنا) میں نے کہا کیوں؟ ان دونوں نے کہا حضورؐ ہمیں ابھی فرما کر گئے ہیں کہ تمہارا ساتھی بہت نیک آدمی ہے تم اس کے ساتھ اچھی طرح رہو۔

۱۔ اخرجه احمد والطبرانی واللفظ له قال الهیثمی (ج ۸ ص ۱۷۱) اسناد الطبرانی واحد اسنادی

احمد رجاله رجال الصحیح وقد رواه النسائی وغیره غیر ذکر الجاز

۲۔ اخرجه ابن المبارک وابو عبید فی الغریب والخراطی وعبدالرزاق عن عبدالرحمن بن القاسم

کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۴۴) ۳۔ اخرجه الطبرانی کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۴۲)

## لوگوں کے مرتبے کا لحاظ کرنا

حضرت عمر بن خطابؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ کھانا کھا رہی تھیں کہ ان کے پاس سے ایک بلو قار آدمی گزرا اسے بلا کر انہوں نے اپنے ساتھ (کھانے پر) بٹھالیا اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا (اسے بلایا نہیں بلکہ) اسے (روٹی کا) ایک ٹکڑا دے دیا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیوں نہیں کیا (حضرت عائشہؓ نے فرمایا ہمیں حضور ﷺ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق معاملہ کریں (اور ہر ایک کو اس کے درجے پر رکھیں)۔ حضرت میمون بن ابی شیبہؓ کہتے ہیں ایک ماگنے والا حضرت عائشہؓ کے پاس آیا (اور اس نے ماگنا) حضرت عائشہؓ نے فرمایا سے ایک ٹکڑا دے دو پھر ایک بلو قار آدمی آیا تو اسے اپنے ساتھ (دستر خوان پر) بٹھالیا۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ نے ایسا (الگ الگ معاملہ کیوں کیا) کیوں کیا حضرت عائشہؓ نے فرمایا ہمیں حضور ﷺ نے یہی حکم دیا آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ ابو نعیم نے اس طرح روایت کیا کہ حضرت عائشہؓ ایک سفر میں تھیں تو انہوں نے قریش کے کچھ لوگوں کے لئے دوپہر کا کھانا تیار کرنے کا حکم دیا (جب وہ کھانا تیار ہو گیا تو) ایک مالدار بلو قار آدمی آیا۔ آپ نے فرمایا سے بلا واسطے بلایا گیا تو وہ سواری سے نیچے اترا اور (بٹھ کر) کھانا کھلایا پھر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد ایک ماگنے والا آیا تو فرمایا سے (روٹی کا) ٹکڑا دے دو پھر فرمایا اس مالدار کے ساتھ (اکرام کا) معاملہ کرنا ہی ہمارے لئے مناسب تھا اور اس فقیر نے اگر ماگنا تو میں نے اسے اتنا دینے کہ کہہ دیا جس سے وہ خوش ہو جائے۔ حضور ﷺ نے یہی حکم دیا آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ پہلے یہ قصہ گزر چکا ہے کہ حضرت علیؓ نے ایک آدمی کو ایک جوڑا اور سو دینار دیئے کسی نے ان سے پوچھا تو فرمایا میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے درجے کے لحاظ سے پیش آؤ اس آدمی کا میرے نزدیک یہی درجہ تھا۔

## مسلمان کو سلام کرنا

قبیلہ مزینہ کے حضرت اغرؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے ایک جریب (ایک پیانہ جس میں چار قہیز غلہ آتا تھا) کھجوریں دینے کا حکم دیا کھجوریں ایک انصاری کے پاس تھیں وہ انصاری دینے

۱۔ اخرجہ الخطیب فی المتفق کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۲) ۲۔ اخرجہ ایضا ابو داؤد فی السنن وابن خزیمہ فی صحیحہ والبخاری و ابو یعلیٰ و ابو نعیم فی المتخرج و البیہقی فی الادب و العسکری فی الامثال ۳۔ لفظ ابی نعیم فی الحلیۃ (ج ۴ ص ۳۷۹) وقد صحیح هذا الحدیث الحاکم فی معرفة علوم الحدیث و کذا غیرہ و تعقب بالانقطاع و بالاختلاف علی راویہ فی رفعہ قال السخاوی و بالجملة فحدیث عائشہ حسن کذا فی شرح الاحیاء للزبیدی (ج ۶ ص ۲۶۵)

میں ٹال منول کرتے رہے میں نے اس بارے میں حضور ﷺ سے بات کی۔ حضورؐ نے فرمایا اے ابو بکرؓ! تم صبح ان کے ساتھ جاؤ لو (اس انصاری سے) لے کر کھوڑیں ان کو دے دو۔ حضرت ابو بکرؓ نے مجھ سے کہا صبح نماز پڑھ کر فلاں جگہ آجانا۔ میں نماز پڑھ کر وہاں گیا تو حضرت ابو بکرؓ وہاں موجود تھے ہم دونوں اس انصاری کے پاس گئے۔ راستہ میں جو کوئی بھی حضرت ابو بکرؓ کو دور سے دیکھتا وہ فوراً ان کو سلام کرتا حضرت ابو بکرؓ نے کہا کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ لوگ (پہلے سلام کر کے) فضیلت میں تم سے آگے نکل گئے ہیں؟ اب آئندہ سلام میں تم سے آگے کوئی نہ نکلے پائے اس کے بعد ہمیں جو آدمی بھی دور سے نظر آتا ہم اس کے سلام کرنے سے پہلے ہی فوراً اسے سلام کر دیتے۔<sup>۱</sup>

حضرت زہرہ بن حمیرہؓ فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکرؓ کے پیچھے سواری پر سوار تھا جب ہم لوگوں کے پاس سے گزرتے تو حضرت ابو بکرؓ انہیں سلام کرتے لوگ جواب میں ہمارے الفاظ سے زیادہ الفاظ سلام میں ذکر کرتے اس پر حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا آج تو لوگ ہم سے خیر میں بہت آگے نکل گئے۔<sup>۲</sup>

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں میں سواری پر حضرت ابو بکرؓ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جب ہم لوگوں کے پاس سے گزرتے تو حضرت ابو بکرؓ السلام علیکم کہتے۔ لوگ جواب میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے اس پر حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا آج تو لوگ ہم سے بہت آگے نکل گئے۔<sup>۳</sup>

حضرت ابو امامہؓ نے ایک دفعہ وعظ فرمایا تو اس میں یہ فرمایا ہر کام میں صبر کو لازم پکڑو چاہے وہ کام تمہاری مرضی کا ہو یا نہ ہو کیونکہ صبر بہت اچھی خصلت ہے اب تمہیں دنیا پسند آنے لگ گئی ہے اور اس نے اپنے دامن تمہارے سامنے پھیلا دیئے ہیں اور اس نے اپنی زینت والے کپڑے پہن لئے ہیں حضرت محمد ﷺ (کو تو اعمال کا شوق تھا اس لئے وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس لئے یہاں بیٹھے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو سلام کریں اور پھر لوگ بھی ہمیں سلام کریں۔<sup>۴</sup>

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں جب ہم حضور ﷺ کے ساتھ چلتے اور راستہ میں کوئی درخت آجاتا جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے تو پھر جب ہم اکٹھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔<sup>۵</sup>

۱۔ اخروجه الطبرانی فی الکبیر والاوسط واحد اسنادی الکبیر رواية مجتہبہم فی الصحیح کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۲۰۶) واخروجه ایضا البخاری فی الادب (ص ۱۴۵) وابن جریر و ابو نعیم والخرائطی کما فی الکنز (ج ۵ ص ۵۲) ۲۔ عن ابن ابی شیبہ ۳۔ عند البخاری فی الادب کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۵۲ و ۵۳) ۴۔ اخروجه ابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۱۵۶) ۵۔ اخروجه الطبرانی باسناد حسن کذا فی الترغیب (ج ۴ ص ۲۰۷) واخروجه البخاری فی الادب (ص ۱۴۸) بنحوہ.

حضرت طفیل بن اہلی بن کعبؓ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی خدمت میں آیا کرتا وہ میرے ساتھ بازار جاتے جب ہم بازار جاتے تو حضرت عبداللہ کا جس کپڑے پر بیٹھنے والے پر، جس مسکین پر غرضیکہ جس مسلمان پر گزر ہوتا اسے سلام کرتے۔ ایک دن میں ان کی خدمت میں گیا وہ مجھے اپنے ساتھ بازار لے گئے میں نے کہا آپ بازار کس لئے آتے ہیں؟ نہ تو آپ کسی بیٹنے والے کے پاس رکتے ہیں اور نہ کسی سامان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور نہ قیمت معلوم کرتے ہیں اور نہ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ آئیے یہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اے پیٹو! میرا پیٹ بڑا تھا۔ ہم تو سلام کی وجہ سے بازار آتے ہیں لہذا جو ملتا جائے اسے سلام کرتے جاؤ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم تو سلام کی وجہ سے بازار آئے ہیں اس لئے ہمیں جو ملے گا ہم اسے سلام کریں گے۔

حضرت ابو امامہؓ باہلیؓ کی جس سے ملاقات ہوئی تھی اسے فوراً سلام کرتے تھے۔ روی کہتے ہیں میرے علم میں ایسا کوئی آدمی نہیں جس نے انہیں پہلے سلام کیا ہو البتہ ایک یہودی قصداً ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا اور (جب حضرت ابو امامہؓ پاس پہنچے تو) ایک دم باہر آکر اس نے ان کو پہلے سلام کر لیا حضرت ابو امامہؓ نے اس سے فرمایا اے یہودی! تیرا اس ہو تو نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ آپ سلام بہت زیادہ کرتے ہیں (اور سلام میں پہل کرتے ہیں) اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی فضیلت والا عمل ہے اس لئے میں نے چاہا کہ یہ فضیلت مجھے بھی حاصل ہو جائے حضرت ابو امامہؓ نے فرمایا تیرا اس ہو میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے السلام علیکم کو ہماری امت (مسلم) کے لئے آپس کا سلام بنایا ہے اور ہمارے ساتھ رہنے والے ذمی کافروں کے لئے اسے امن کی نشانی بنایا ہے۔

حضرت محمد بن زیادؓ کہتے ہیں حضرت ابو امامہؓ اپنے گھر واپس جا رہے تھے میں ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ساتھ چل رہا تھا راستہ میں جس آدمی پر ان کا گزر ہوتا چاہے وہ مسلمان ہو یا نصرانی، چھوٹا یا بڑا حضرت ابو امامہؓ اپنے السلام علیکم ضرور کہتے۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا اے میرے بھتیجے! ہمیں ہمارے نبی کریم ﷺ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم آپس میں سلام پھیلائیں۔ حضرت بشیر بن یسارؓ کہتے ہیں کوئی

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۱۰) واخرجه مالك عن الطفيل بن ابي بن كعب بنحوه وفي رواية انما نغدو من اجل السلام نسلم على من لقينا كما في جمع الفوائد (ج ۲ ص ۱۴۱) واخرجه البخاری فی الادب (ص ۱۴۸) عن الطفيل بن ابي بنحوه  
 ۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۳۳) رواه الطبرانی عن شیخه بکر بن سهل الدمیاطی  
 ۳۔ عندابی نعیم فی الحلیۃ (ج ۶ ص ۱۱۲) انتہی

آدمی حضرت ابن عمرؓ کو ان سے پہلے سلام نہیں کر سکتا تھا۔

## سلام کا جواب دینا

حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں آکر کہا السلام علیک یا رسول اللہ! اور حمد اللہ آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر دوسرے نے آکر کہا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر تیسرے نے آکر کہا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا وعلیک اس پر اس نے کہا یا رسول اللہ! فلاں فلاں نے آکر آپ کو سلام کیا (اور میں نے بھی آپ کو سلام کیا آپ نے تینوں کو سلام کا جواب دیا لیکن) ان دونوں کو آپ نے مجھ سے اچھا جواب دیا۔ حضور نے فرمایا تم نے سلام میں کوئی چیز تو چھوڑی نہیں (کیونکہ تم نے السلام علیک یا رسول اللہ! اور حمد و برکاتہ، کہا) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ فَقَبِّحُوا بِأَحْسَنِ مَا فِيهَا أَوْ دُونَهَا (سورت نساء آیت ۸۶)

ترجمہ ”اور جب تم کو کوئی (مشروع طور پر) سلام کرے تو اس (سلام) سے اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو“ (چونکہ تم نے سلام میں سارے ہی الفاظ کہہ دیئے تھے اس لئے) میں نے تمہارے سلام کا جواب تمہارے ہی الفاظ میں دیا ہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں سلام کہہ رہے ہیں میں نے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور میں کچھ الفاظ اور بڑھانے لگی تو حضور نے فرمایا سلام ان الفاظ پر پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۝۳

حضرت انسؓ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت سعد بن عبادہؓ سے (اندر آنے کی) اجازت لینے کے لئے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں حضرت سعد نے آہستہ سے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ اور اتنا آہستہ جواب دیا کہ حضورؐ سن نہ سکے تین دفعہ یہی ہوا کہ حضورؐ سلام فرماتے اور حضرت سعد چپکے سے جواب دیتے۔ اس پر حضورؐ واپس جانے لگے تو حضرت سعد حضورؐ کے پیچھے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ کا ہر سلام میرے کانوں تک پہنچا اور میں نے آپ کے ہر سلام کا جواب دیا

۱ عند البخاری فی الادب (ص ۱۴۵) ۲ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۳۳) فیہ هشام بن لاحق قواہ النسائی وترك احمد حدیثہ وبقیۃ رجالہ رجال الصحیح . انتہی

۳ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۸ ص ۳۳) وواہ الطبرانی فی الاوسط ورجالہ رجال الصحیح وهو فی الصحیح باختصار . انتہی

لیکن قصد آہستہ سے کہا تاکہ آپ سن نہ سکیں میں نے چاہا کہ آپ کے سلام کی برکت زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں۔ پھر وہ حضورؐ کو اپنے گھر لے گئے اور ان کے سامنے تیل پیش کیا۔ حضور نے وہ تیل نوش فرمایا کھانے کے بعد حضورؐ نے یہ دعا فرمائی اکل طعامکم الا برار و صلت علیکم الملائکة و افطر عندکم الصائمون لہ

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ انصار کو ملنے جایا کرتے تھے۔ جب آپ انصار کے گھروں میں تشریف لاتے تو انصار کے بچے اگر آپ کے گرد جمع ہو جاتے آپ ان کے لئے دعا فرمادیے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور انہیں سلام کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ حضرت سعدؓ کے دروازے پر آئے اور ان کو سلام کیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ حضرت سعد نے جواب تو دیا لیکن آہستہ سے دیا تاکہ حضورؐ سن نہ سکیں حضورؐ نے تین دفعہ سلام کیا اور حضورؐ کا معمول یہی تھا کہ تین دفعہ سے زیادہ سلام نہیں کیا کرتے تھے تین دفعہ میں گھر والے اندر آنے کی اجازت دے دیتے تو ٹھیک ورنہ آپ واپس تشریف لے جاتے پھر آگے چھپی حدیث جیسی حدیث ذکر کی۔ لہ

حضرت محمد بن جبیرؓ کہتے ہیں حضرت عمرؓ ایک مرتبہ حضرت عثمانؓ کے پاس سے گزرے حضرت عمرؓ نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ کے پاس گئے اور ان سے حضرت عثمانؓ کی شکایت کی (یہ دونوں حضرات حضرت عثمانؓ کے پاس آئے) حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عثمانؓ سے کہا آپ نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا حضرت عثمانؓ نے کہا اللہ کی قسم! میں نے (ان کے سلام کو) سنا ہی نہیں۔ میں تو کسی گہری سوچ میں تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا آپ کیا سوچ رہے تھے؟ حضرت عثمانؓ نے کہا میں شیطان کے خلاف سوچ رہا تھا کہ وہ ایسے برے خیالات میرے دل میں ڈال رہا تھا کہ زمین پر جو کچھ ہے وہ سارا بھی مجھے مل جائے تو بھی میں ان برے خیالات کو زبان پر نہیں لاسکتا جب شیطان نے میرے دل میں یہ برے خیالات ڈالنے شروع کیئے تو میں نے دل میں کہا اے کاش میں حضور ﷺ سے پوچھ لیتا کہ ان شیطانی خیالات سے نجات کیسے ملے گی؟ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا میں نے حضورؐ سے اس کی شکایت کی تھی اور میں نے حضورؐ سے پوچھا تھا کہ شیطان جو برے خیالات ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے ان سے ہمیں نجات کیسے ملی گی؟ حضورؐ نے فرمایا ان سے نجات تمہیں اس طرح ملے گی کہ تم وہ کلمہ کہہ لیا کرو جو میں نے موت کے وقت اپنے چچا کو پیش کیا تھا لیکن انہوں نے وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ لہ

۱ اخراجہ احمد عن ثابت البنانی وروی ابو داؤد بعضہ

۲ رواہ البزار ورجالہ رجال الصحیح كما قال الہیثمی (ج ۸ ص ۳۴)

۳ اخراجہ ابو یعلیٰ کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۷۴) وقال قال ابو میر فی زوائد العشرۃ سندہ حسن



یہی واقعہ حضرت عثمانؓ سے اس سے زیادہ تفصیل سے لکن سعد نے نقل کیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عمرؓ گئے اور حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں جا کر کہا اے خلیفہ رسول اللہ! کیا میں آپ کو حیران کن بات نہ بتاؤں؟ میں حضرت عثمانؓ کے پاس سے گزرا میں نے انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت ابو بکرؓ کھڑے ہوئے اور حضرت عمرؓ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں حضرات چل پڑے اور میرے پاس آئے تو مجھ سے حضرت ابو بکرؓ نے کہا اے عثمان! تمہارے بھائی (عمرؓ) نے بتایا ہے کہ وہ تمہارے پاس سے گزرے تھے اور انہوں نے تمہیں سلام کیا تھا لیکن تم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ! میں نے ایسا تو نہیں کیا۔ حضرت عمرؓ نے کہا بالکل کیا ہے اور اللہ کی قسم! یہ (تکبر) تمہو امیہ کی پرانی خصلت ہے میں نے کہا (اے عمرؓ) مجھے نہ تو تمہارے گزرنے کا پتہ چلا اور نہ تمہارے سلام کرنے کا۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ کسی سوچ میں تھے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہ چلا۔ میں نے کہا جی ہاں! حضرت ابو بکرؓ نے کہا آپ کیا سوچ رہے تھے؟ میں نے کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا لیکن میں حضورؐ سے یہ نہ پوچھ سکا کہ اس امت کی نجات کس چیز میں ہے؟ میں یہ سوچ بھی رہا تھا اور اپنی اس کوتاہی پر حیران بھی ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا میں نے حضورؐ سے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ! اس امت کی نجات کس چیز میں ہے؟ حضورؐ نے فرمایا تھا جو آدمی مجھ سے اس کلام کو قبول کر لے گا جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تو یہ کلمہ اس آدمی کے لئے نجات کا ذریعہ ہو گا۔ حضورؐ نے اپنے چچا پر یہ کلمہ پیش کیا تھا: اشہدان لا الہ الا اللہ واشہدان محمد ارسول اللہ۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں میں مسجد میں حضرت عثمان بن عفانؓ کے پاس سے گزرا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے مجھے آنکھ بھر کر دیکھا بھی لیکن میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطابؓ کی خدمت میں گیا اور میں نے دو دفعہ یہ کہا اے امیر المؤمنین! کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ حضرت عمرؓ نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا اور تو کوئی بات نہیں البتہ یہ بات ہے کہ میں ابھی مسجد میں حضرت عثمانؓ کے پاس سے گزرا میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے مجھے آنکھ بھر کر دیکھا بھی لیکن میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت عمرؓ نے آدمی بھیج کر حضرت عثمانؓ کو بلوایا اور (جب حضرت عثمانؓ آگئے تو) ان سے فرمایا آپ نے اپنے بھائی (سعدؓ) کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمانؓ نے کہا میں نے تو ایسا نہیں

کیا۔ میں نے کہا آپ نے کیا ہے اور بات اتنی بڑھی کہ انہوں نے اپنی بات پر قسم کھالی اور میں نے اپنی بات پر قسم کھالی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمانؓ کو یاد آگیا تو انہوں نے فرمایا استغفر اللہ واتوب الیہ آپ میرے پاس سے ابھی گزرے تھے۔ اس وقت میں اس بات کے بارے میں سوچ رہا تھا جو میں نے حضور ﷺ سے سنی تھی اور وہ بات ایسی ہے کہ جب بھی مجھے یاد آتی ہے تو میری نگاہ پر اور میرے دل پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے (جس کی وجہ سے نہ کچھ نظر آتا ہے اور نہ کچھ سمجھ آتا ہے) میں نے کہا میں آپ کو وہ بات بتاؤں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے دعا کی ابتدائی حصہ کا تذکرہ فرمایا (کہ دعا کے شروع میں اسے پڑھنا چاہیے) اتنے میں ایک دیر مائی گیا اور حضور اس سے باتوں میں مشغول ہو گئے پھر حضور گھرے ہو گئے (اور چل پڑے) میں بھی آپ کے پیچھے چل دیا پھر مجھے خطرہ ہوا کہ میرے پیچھے سے پہلے کہیں حضور گھر کے اندر نہ چلے جائیں اس لئے میں نے زمین پر پاؤں زور سے مارے اس پر حضور میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ کون ہے ابو اسحاق ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اور تو کوئی بات نہیں ہے بس یہ بات ہے کہ آپ نے دعا کے ابتدائی حصہ کا تذکرہ کیا تھا پھر یہ دیر مائی گیا تھا اور آپ اس سے باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ حضور نے فرمایا ہاں وہ مچھلی والے (حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان کلمات کے ساتھ جو مسلمان بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ل

### سلام بھیجنا

حضرت ابو البختریؓ کہتے ہیں حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبد اللہؓ حضرت سلمان فارسیؓ سے ملنے آئے اور شرمہ ان کے ایک کنارے میں ان کی جھگی کے اندر گئے۔ اندر جا کر انہیں سلام کیا اور یہ دعائیہ کلمات کہے حیاک اللہ اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ پھر ان دونوں نے پوچھا کیا آپ ہی سلمان فارسی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ ان دونوں حضرات نے کہا کیا آپ حضور ﷺ کے ساتھی ہیں؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں۔ اس پر ان دونوں حضرات کو شک ہو گیا اور انہوں نے کہا شاید یہ وہ سلمان فارسی نہیں جنہیں ہم ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمانؓ نے ان دونوں سے کہا میں ہی تمہارا وہ مطلوبہ آدمی ہوں جس سے تم ملنا چاہتے ہو میں نے حضور کو دیکھا ہے اور ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں لیکن حضور کا ساتھی وہ ہے جو حضور کے ساتھ جنت میں

۱۔ اخرجه احمد قال الهیثمی (ج ۷ ص ۶۸) رواه احمد ورجالہ رجال الصحیح غیر ابراہیم بن محمد بن سعد بن ابی وقاص وهو ثقة وروی الترمذی طرفاً من آخره۔ انتهى وخرجه ايضا ابو یعلی والطبرانی فی الدعاء وصحیح عن سعد بن ابی وقاص نحوه كما فی الكنز (ج ۱ ص ۲۹۸)

چلا جائے (یعنی اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور مجھے اپنے خاتمہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے) آپ لوگ کس ضرورت کے لئے میرے پاس آئے ہیں؟ ان دونوں نے کہا ملک شام میں آپ کے ایک بھائی ہیں ہم ان کے پاس سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت سلمانؓ نے پوچھا وہ کون ہیں ان دونوں نے کہا حضرت ابو الدرداءؓ ہیں حضرت سلمانؓ نے کہا انہوں نے جو ہدیہ تم دونوں کے ساتھ بھیجا ہے وہ کہاں ہے؟ ان دونوں نے کہا انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ہدیہ نہیں بھیجا۔ حضرت سلمانؓ نے کہا اللہ سے ڈرو اور جو نمانت لائے ہو وہ مجھے دے دو۔ آج تک جو بھی ان کے پاس سے میرے پاس آیا ہے وہ اپنے ساتھ ان کی طرف سے ہدیہ ضرور لایا ہے۔ ان دونوں نے کہا آپ ہم پر کوئی مقدمہ نہ بنائیں۔ ہمارے پاس ہر طرح کے مال و سامان ہیں آپ ان میں سے جو چاہیں لے لیں۔ حضرت سلمانؓ نے کہا میں تمہارا مال یا سامان لینا نہیں چاہتا میں تو وہ ہدیہ لینا چاہتا ہوں جو انہوں نے تم دونوں کے ساتھ بھیجا ہے ان دونوں نے کہا اللہ کی قسم! انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں بھیجا ہے بس ہم سے اتنا کہا تھا کہ تم لوگوں میں ایک صاحب (ایسے قابل احترام کہتے ہیں کہ حضور ﷺ جب ان سے تمنا کی میں بات کیا کرتے تھے تو کسی اور کو ان کے ساتھ نہ بلاتے تھے جب تم دونوں ان کے پاس جاؤ تو انہیں میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ حضرت سلمانؓ نے کہا میں اسکے علاوہ اور کون سا ہدیہ تم دونوں سے چاہتا تھا؟ اور کون سا ہدیہ سلام سے افضل ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک بابرکت اور پاکیزہ کلام ہے۔

### مصافحہ اور معانقہ کرنا

حضرت جنابؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ جب اپنے صحابہؓ سے ملتے تو جب تک انہیں سلام نہ کر لیتے اس وقت تک ان سے مصافحہ نہ فرماتے۔

ایک آدمی نے حضرت ابو ذرؓ سے کہا میں آپ سے حضور ﷺ کی حدیث کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذرؓ نے کہا اگر اس میں راز کی کوئی بات نہ ہوئی تو وہ حدیث میں تمہیں سنا دوں گا اس آدمی نے کہا جب آپ حضرات حضورؐ سے ملا کرتے تھے تو کیا حضورؐ آپ لوگوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا جب بھی حضورؐ سے میری ملاقات ہوئی حضورؐ نے مجھ سے ضرور مصافحہ فرمایا۔

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۴۰) رواہ الطبرانی ورجالہ رجال الصحیح غیر یحییٰ بن ابراہیم المسعودی وھو ثقہ۔ انتھی واخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۰۱) عن ابی البختری مثله۔  
 ۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۳۶) رواہ الطبرانی وفیہ من لم اعرفہم۔ انتھی  
 ۳۔ اخرجہ احمد والربانی کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۵۴)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی حضرت حذیفہؓ سے ملاقات ہوئی حضور نے ان سے مصافحہ کرنا چاہا۔ حضرت حذیفہؓ نے ایک طرف ہٹ کر عرض کیا کہ میں اس وقت جنبی ہوں۔ حضور نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے (موسم خزاں میں) گورخت کے پتے گر جاتے ہیں۔<sup>۱</sup>

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم (ملنے وقت) ایک دوسرے کے سامنے جھکا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں ہم نے کہا تو کیا ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں (یعنی مصافحہ تو ہر وقت ہونا چاہیے اور معافقہ سفر سے آنے پر ہونا چاہیے ویسے نہیں)۔<sup>۲</sup>

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ! جب کوئی آدمی اپنے بھائی یا دوست سے ملتا ہے تو کیا وہ اسے چٹ جائے اور اس کا بوسہ لینے لگے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر اس آدمی نے کہا کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ رزین کی روایت میں یہ ہے کہ چٹنے اور بوسہ لینے کے جواب میں حضور نے فرمایا نہیں۔ ہاں اگر سفر سے آیا ہو تو ایسا کر سکتا ہے۔<sup>۳</sup>

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں جب حضرت زید بن حارثہؓ مدینہ آئے تو اس وقت حضور ﷺ میرے گھر میں تھے انہوں نے آکر دروازہ کھٹکھٹایا حضور (زیادہ خوشی کی وجہ سے) ننگے ہی اپنا کپڑا اٹھینتے ہوئے کھڑے ہو کر ان کی طرف چل دیئے (یعنی اوپر کا بدن نکالتا تھا) اللہ کی قسم! میں نے نہ اس سے پہلے حضور کو (کسی کا) ننگے (استقبال کرتے ہوئے) دیکھا اور نہ اس کے بعد۔ حضور نے جا کر ان سے معافقہ فرمایا اور ان کا بوسہ لیا۔<sup>۴</sup>

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ جب آپس میں ملنے تو ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرتے اور جب سفر سے آیا کرتے تو آپس میں معافقہ کیا کرتے۔ حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کو رات کے کسی حصہ میں اپنا کوئی بھائی یاد آجاتا تو (رات گزارنی مشکل ہو جاتی اور آپ فرماتے ہائے یہ رات کتنی لمبی ہے (فجر کی) فرض نماز پڑھنے ہی تیزی سے (اس بھائی کی طرف) جاتے اور جب اس سے ملنے تو اسے گلے لگاتے اور اس سے چمٹ

۱۔ اخرجہ الزوار قال الہیثمی (ج ۸ ص ۳۷) وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور  
 ۲۔ اخرجہ الدناز قطنی وابق ابی شیبہ کذا فی الکتب (ج ۵ ص ۵۴)  
 ۳۔ عند الترمذی (ج ۲ ص ۹۷) قال الترمذی هذا حدیث حسن ۴۔ کما فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۱۴۲)  
 ۵۔ قال الترمذی هذا حدیث حسن غریب ۶۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۳۶) رواه الطبرانی فی الاوسط ورجالہ رجال الصحیح انتهى

جاتے تھے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ ملک شام آئے تو عام لوگ اور وہاں کے بڑے آدمی سب ان کا استقبال کرنے آئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میرے بھائی کہاں ہیں؟ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو عبیدہؓ۔ لوگوں نے کہا ابھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابو عبیدہؓ آئے تو حضرت عمرؓ (سواری سے) نیچے اترے اور ان سے معافہ کیا پھر اور حدیث ذکر کی جیسے آگے آئے گی۔

### مسلمان کے ہاتھ پاؤں اور سر کا بوسہ لینا

حضرت شعبیؒ کہتے ہیں جب حضور ﷺ خیبر سے واپس آئے تو حضرت جعفر بن ابی طالبؓ نے حضور کا استقبال کیا۔ حضور نے انہیں اپنے ساتھ چٹا لیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ مجھے جعفرؓ کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور نے ان کو اپنے ساتھ چٹا کر ان سے معافہ کیا۔

حضرت عبدالرحمن بن رزینؓ کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوعؓ نے فرمایا میں نے اپنے اس ہاتھ سے بیعت کی ہے۔ حضرت عبدالرحمنؓ کہتے ہیں کہ بیعت کے بعد ہم نے حضرت سلمہ کے ہاتھ کو چوما اور انہوں نے اس سے منع نہ فرمایا۔ حضرت ابن عمرؓ نے نبی کریم ﷺ کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ حضرت عمرؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا ہے۔

حضرت کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں (غزوہ تبوک سے میرے پیچھے رہا جانے پر) جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری توجہ قبول ہو جانے کی آیت نازل ہوئی تو میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور کا ہاتھ لے کر چوما۔

حضرت ابو رجاء عطارودیؒ کہتے ہیں میں مدینہ گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک جگہ جمع ہیں اور ان کے رخ میں ایک آدمی ہے جو دوسرے آدمی کے سر کو چوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ پر

۱۔ اخرجہ المتحاملی کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۴۲) ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۰۱)

۳۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۳۴) ۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج

۸ ص ۴۲) رجالہ ثقات ولی الصحیح منه البیعة ۵۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج

۸ ص ۴۲) وفیہ یزید بن ابی زیاد وھولین الحدیث وبقیة رجالہ رجال الصحیح . انتھی

۶۔ ذکر فی جمیع الفوائد (ج ۲ ص ۱۴۳) وقال للموصی بلین . ۷۔ اخرجہ ابو داؤد عن ابن

عمرؓ بسند حسن کما قال العراقی (ج ۲ ص ۱۸۱) ۷۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج

۸ ص ۴۲) وفیہ یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی وھو ضعیف . ۸۔ اخرجہ ابو بکر بن المقرئ فی

کتاب الرخصة فی تقبیل الید بسند ضعیف قالہ العراقی (ج ۲ ص ۱۸۱)

قربان جاؤں اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے میں نے پوچھا یہ چونسے والا کون ہے؟ اور کس کو چوم رہا ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ حضرت عمر بن خطابؓ ہیں جو حضرت ابو بکرؓ کے سر کا بوسہ اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ سب کی رائے یہ تھی کہ جن مرتدین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے ان سے جنگ نہ کی جائے اور اکیلے حضرت ابو بکرؓ کی رائے یہ تھی کہ ان سے جنگ کی جائے اور آخر سب کی رائے کے خلاف حضرت ابو بکرؓ کی رائے پر عمل ہوا اور اس میں اسلام کا بہت فائدہ ہوا۔

حضرت زارع بن عامرؓ فرماتے ہیں ہم (مدینہ منورہ) آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ ﷺ ہیں تو ہم آپ کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لینے لگے کہ حضرت مزیدہ عبدیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت انسؓ چلتے ہوئے آئے اور اگر حضور ﷺ کا ہاتھ لے کر اسے چومنا حضور نے ان سے فرمایا غور سے سنو! تم میں دو عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسولؐ پسند کرتے ہیں۔ حضرت انسؓ نے عرض کیا کیا یہ عادتیں فطر تا میرے اندر موجود تھیں یا بعد میں میرے اندر پیدا ہوئی ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں بلکہ یہ عادتیں تمہارے اندر فطر تا موجود تھیں۔ انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میری فطرت میں ایسی عادتیں رکھ دیں جن کو اللہ اور اس کے رسولؐ پسند کرتے ہیں۔ حضرت تمیم بن سلمہؓ فرماتے ہیں جب حضرت عمرؓ ملک شام پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ نے ان کا استقبال کیا اور ان سے مصافحہ کیا اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا پھر دونوں (حضور ﷺ کے زمانے کو یاد کر کے) تمناؤں میں بیٹھ کر رونے لگے حضرت تمیم فرمایا کرتے تھے کہ (بڑوں کے) ہاتھ چومنا سنت ہے۔

حضرت یحییٰ بن حارث زمارؓ کہتے ہیں میری حضرت واللہ بن اسحاقؓ سے ملاقات ہوئی میں نے عرض کیا کیا آپ نے اپنے اس ہاتھ سے حضور ﷺ سے بیعت کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ مجھے دیں تاکہ میں اسے چوم لوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اپنا ہاتھ دیا اور میں نے اسے چوما۔

حضرت یونس بن میسرہؓ کہتے ہیں ہم حضرت یزید بن اسود کے ہاں بیمار پرسی کے لئے گئے اتنے میں حضرت واللہ بن اسحاقؓ بھی وہاں آگئے۔ حضرت یزید نے جب ان کو دیکھا تو اپنا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اسے اپنے چہرے اور سینے پر پھیرا کیونکہ حضرت واللہ نے (ان ہاتھوں سے) حضور ﷺ سے بیعت کی تھی۔ حضرت واللہ نے حضرت یزید سے کہا اے یزید! آپ کا اپنے

۱۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۴ ص ۳۵۰) ۲۔ اخرجه البخاری فی الادب (ص

۱۴۴) ۳۔ عنده ایضا فی الادب (ص ۸۶) ۴۔ اخرجه عبدالرزاق والخرائطی فی مکرم

الاحلاق والیہیقی وابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۵۴) ۵۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸

ص ۴۲) وفيه عبد الملك القاري ولم اعرفه وبقية رجاله ثقات انتهى

رب کے بارے میں کیسا گمان ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھا، حضرت وائلہ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کیونکہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا اگر اچھا گمان کرے گا تو اچھا معاملہ کروں گا اور برآگمان کرے گا تو برآگمان کروں گا۔

حضرت عبدالرحمن بن رزین کہتے ہیں کہ ہم ربذہ کے پاس سے گزرے تو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہاں حضرت سلمہ بن اکوع ہیں چنانچہ ہم ان کے پاس گئے جا کر ہم نے انہیں سلام کیا انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکال کر فرمایا میں نے ان دونوں ہاتھوں سے حضور سے بیعت کی تھی اور انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ ان کا ہاتھ خوب بڑا تھا جیسے کہ لونٹ کا پاؤں ہو چنانچہ ہم نے کھڑے ہو کر ان کے ہاتھ کو چوم لیا۔ حضرت لادن جدعان کہتے ہیں کہ حضرت ثلث نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے حضور ﷺ کو چھوا ہے؟ حضرت انس نے کہا جی ہاں۔ اس پر حضرت ثلث نے ان کے ہاتھ کو چوم لیا۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت علیؓ حضرت عباسؓ کے ہاتھ اور دونوں پاؤں چوم رہے تھے۔

### مسلمان کے احترام میں کھڑا ہونا

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو بات چیت میں اور اٹھنے بیٹھنے میں حضرت فاطمہؓ سے زیادہ حضور ﷺ کے مشابہ ہو۔ حضور جب حضرت فاطمہؓ کو آتا ہوئے دیکھتے تو ان کو مر جبا کہتے پھر کھڑے ہو کر ان کا بوسہ لیتے۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر لا کر انہیں اپنی جگہ بیٹھاتے اور جب حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ مر جبا کہتیں پھر کھڑے ہو کر حضور کا بوسہ لیتیں۔ مرض الوفا میں وہ حضور کی خدمت میں آئیں تو حضور نے انہیں مر جبا کہا اور ان کا بوسہ لیا اور پھر چپکے سے ان سے کچھ بات کی جس پر وہ رونے لگ گئیں۔ میں نے عورتوں سے کہا میں تو سمجھتی تھی کہ ان کو یعنی حضرت فاطمہؓ کو عام عورتوں سے بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے لیکن یہ بھی ایک عام عورت ہی نکلیں پہلے رور ہی تھیں پھر ایک دم ہنسنے لگ گئیں۔ پھر میں نے حضرت فاطمہؓ سے پوچھا کہ حضور نے تم سے کیا کہا تھا انہوں نے کہا (یہ راز کی بات ہے اگر میں آپ کو بتا دوں تو) پھر تو میں راز فاش کرنی والی

۱۔ عند ابی نعیم فی الحلیۃ (ج ۹ ص ۳۰۶) ۲۔ اخرجہ البخاری فی الادب المفرد (ص

۱۴۴) و اخرجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۳۹) عن عبدالرحمن بن زید العراقی نحوہ

۳۔ اخرجہ البخاری ایضا فی الادب (ص ۱۴۴)

۴۔ اخرجہ البخاری ایضا فی الادب (ص ۱۴۴)

ہو جاؤں گی۔ جب حضورؐ کا انتقال ہو گیا تب حضرت فاطمہؓ نے بتایا کہ حضورؐ نے مجھے چیلے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میرا انتقال ہو والا ہے اس پر میں رونے لگ گئی تھی اس کے بعد پھر چیلے سے یہ فرمایا تھا کہ تم میرے خاندان میں سے سب سے پہلے مجھ سے آملو گی اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ (اس پر ہنسنے لگی تھی) کہ حضرت ہلالؓ فرماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ باہر تشریف لاتے تو ہم آپ کے لئے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ آپ دوبارہ اپنے گھر تشریف لے جاتے۔

حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ اپنی لائٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے ہمارے پاس باہر تشریف لائے ہم آپ کیلئے کھڑے ہو گئے۔ حضورؐ نے فرمایا جیسے عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم میں (ہاتھ باندھ کر) کھڑے ہوتے ہیں تم ایسے مت کھڑے ہو۔ کہ حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ ہمارے پاس باہر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکرؓ پر رحم فرمائے انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ ہم اس منافق کے خلاف مقدمہ حضورؐ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضورؐ نے فرمایا کھڑے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہونا چاہئے کسی اور کے لئے نہیں ہونا چاہئے۔ (آنے والے کے دل میں یہی جذبہ ہونا چاہئے کہ لوگ میرے لئے کھڑے نہ ہوں) کہ

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ کرام کو حضور ﷺ کی زیارت جتنی محبوب تھی اتنی کسی اور کی نہیں تھی لیکن جب حضورؐ کو (آتا ہوا) دیکھ لیا کرتے تھے تو کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کھڑا ہونا حضورؐ کو پسند نہیں ہے (حضورؐ چاہتے تھے کہ صحابہؓ کے ساتھ بے تکلفی اور سادگی کے ساتھ رہیں تکلفات نہ ہوں) ۵

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے اور حضرت ابن عمرؓ کا معمول یہ تھا کہ جب ان کے لئے کوئی آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا تو اس کی جگہ نہ بیٹھتے۔ حضرت ابو خالد والہیؓ کہتے

۱۔ اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۱۳۷) ۲۔ اخرجہ البزار عن محمد بن ہلال قال الہیثمی (ج ۸ ص ۴۰) ۳۔ اخرجہ ابن جریر کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۵۵) واخرجہ ابو داؤد مثله کما فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۱۴۳) ۴۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۸ ص ۴۰) وفيه راو لم يسم و ابن لهيثة اه ۵۔ اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۱۳۸) واخرجہ الترمذی وصححه کما قال العراقي فی تخریج الاحیاء والا امام احمد وابو داؤد کما فی البداية (ج ۶ ص ۵۷) ۶۔ اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۱۶۹) واخرجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۲۰) عن نافع ابن عمر مقتصر اعلى فعله



ہیں ہم لوگ کھڑے ہوئے حضرت علی بن ابی طالبؓ کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آگے بڑھیں کہ اتنے میں وہ باہر آئے اور فرمایا کیا بات ہے تم لوگ سینہ تان کر (فوجیوں کی طرح) کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہو!۔

حضرت ابو جحزہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہؓ باہر آئے باہر حضرت عبد اللہ بن عامر اور حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عامرؓ تو کھڑے ہو گئے لیکن حضرت ابن زبیرؓ بیٹھے رہے اور ان دونوں میں حضرت ابن زبیرؓ بلند مرتبہ اور وزنی تھے۔ حضرت معاویہؓ نے کہا حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے اس کے لئے کھڑے ہوں اسے دوزخ کی آگ میں اپنا گھر بنا لینا چاہیے۔

### مسلمان کی خاطر اپنی جگہ سے ذرا سرک جانا

حضرت واثلہ بن خطابؓ قریبیؓ فرماتے ہیں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا حضور ﷺ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے آپ اس کی وجہ سے اپنی جگہ سے ذرا سرک گئے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! جگہ تو بہت ہے (پھر آپ کیوں اپنی جگہ سے سرکے؟) حضور نے اس کو فرمایا یہ بھی مومن کا حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو اپنی جگہ سے اس کی خاطر سرک جائے۔

حضرت واثلہ بن اسحاقؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اس وقت حضور ﷺ مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اس آدمی کی وجہ سے اپنی جگہ سے ذرا سرک گئے۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ! جگہ تو بہت ہے آپ نے فرمایا یہ بھی مسلمان کا حق ہے اور حضور ﷺ کے گھر والوں کے اکرام کے باب میں یہ قصہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ حضرت علی بن ابی طالبؓ کی وجہ سے اپنی جگہ سے سرکے اور یوں کہا اے ابو الحسنؓ! یہاں آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت علیؓ حضور کے لور حضرت ابو بکرؓ کے درمیان بیٹھ گئے۔

### پاس بیٹھنے والے کا اکرام کرنا

حضرت کثیر بن مرہؓ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عوف بن مالکؓ انجیؓ ایک حلقہ میں پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اپنے

۱۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۶ ص ۲۸) ۲۔ اخراجہ البخاری فی الادب (ص ۱۴۴)

۳۔ اخراجہ البیهقی وابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۵۵)

۴۔ عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۴۰) رجالہ ثقات الا ان ابا عمیر عیسی بن محمد بن

التحاسن لم اجده له سما عمن ابی الاسود واللہ اعلم۔ انتہی

پاؤں سمیٹ لئے اور فرمایا تم جانتے ہو کہ میں نے کس وجہ سے اپنے پاؤں پھیلا رکھے تھے؟ اس لئے پھیلائے تھے تاکہ کوئی نیک آدمی یہاں آکر بیٹھ جائے۔ حضرت محمد بن عبادہ بن جعفر کہتے ہیں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میرے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ قابل اکرام میرے پاس بیٹھنے والا ہے اسے چاہئے کہ وہ لوگوں کی گردن پھلانگ کر آئے اور میرے پاس بیٹھ جائے۔ ۱

## مسلمان کے اکرام کو قبول کرنا

حضرت ابو جعفرؓ کہتے ہیں دو آدمی حضرت علیؓ کے پاس آئے، حضرت علیؓ نے ان کے لئے گدا چھایا ان میں سے ایک تو گدے پر بیٹھ گیا اور دوسرا زمین پر۔ جو زمین پر بیٹھ گیا اسے حضرت علیؓ نے فرمایا اٹھو اور گدے پر بیٹھو کیونکہ ایسے اکرام کا انکار تو گدہا ہی کر سکتا ہے۔ ۲

## مسلمان کے راز کو چھپانا

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں میری بیٹی حضرت حصہؓ بیوہ ہو گئیں (ان کے خاوند) حضرت خنیس بن حذافہؓ سمی حضور ﷺ کے صحابہؓ میں سے تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ میری حضرت ابو بکرؓ سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں حضرت حصہ بنت عمرؓ کا آپ سے نکاح کر دوں۔ انہوں نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ چند دن کے بعد حضورؐ نے حصہؓ سے شادی کا پیغام دیا۔ آخر میں نے حضورؐ سے اس کی شادی کر دی پھر حضرت ابو بکرؓ مجھے ملے اور انہوں نے کہا تم نے حصہ کو مجھ پر پیش کیا تھا میں نے تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا شاید تمہیں اس سے مجھ پر غصہ آیا ہو گا میں نے کہا آیا تو تھا حضرت ابو بکر نے کہا میں نے اس وقت تمہیں اس لئے جواب نہیں دیا تھا کہ میں نے حضور ﷺ کو حضرت حصہؓ کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا (جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ حضور ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں) اور میں حضورؐ کے راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا اگر حضور ان سے شادی نہ کرتے تو میں ضرور کر لیتا۔ ۳

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور ﷺ کی خدمت کی جب میں نے دیکھا کہ میں آپ کی خدمت سے فارغ ہو گیا ہوں تو میں نے (اپنے دل میں) کہا نبی کریم ﷺ اب دوپہر کو اکرام فرمائیں گے تو میں آپ کے پاس سے باہر چلا گیا باہر بچے کھیل رہے تھے میں کھڑے ہو کر ان کے کھیل کو دیکھنے لگ گیا اتنے میں حضور تشریف لے آئے اور بچوں

۱۔ اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۱۶۷)

۲۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ و عبدالرزاق قال عبدالرزاق هذا منقطع کتافی الکنز (ج ۵ ص ۵۵)

۳۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۶۱) و اخرجہ ایضا احمد و ابن سعد و البخاری و النسائی و البیهقی و ابویعلی و ابن حبان مع زیادة کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۲۰)

کے پاس پہنچ کر انہیں سلام کیا پھر حضورؐ نے مجھے بلایا اور کسی کام کے لئے بھیج دیا اور گویا وہ کام میرے منہ میں ہے آپ کا کام پورا کر کے آپ کی خدمت میں (بتانے) گیا اور اس طرح میں دیر سے اپنی والدہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا آج تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا حضورؐ کی راز کی بات ہے میری والدہ نے پوچھا وہ کام کیا تھا؟ میں نے کہا وہ حضورؐ نے کام سے بھیج دیا تھا، میری والدہ نے کہا ٹھیک ہے حضورؐ کا راز چھپا کر رکھنا چنانچہ میں نے آج تک حضورؐ کا وہ راز کسی انسان کو نہیں بتایا (اے میرے شاگرد!) اگر میں کسی کو بتاتا تو تمہیں تو ضرور بتا دیتا۔

### یتیم کا اکرام کرنا

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضورؐ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو حضورؐ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔

حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں ایک آدمی حضورؐ کی خدمت میں آکر اپنے دل کی سختی کی شکایت کرنے لگا آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری یہ ضرورت پوری ہو جائے؟ تم یتیم پر شفقت کیا کرو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اپنے کھانے میں اسے کھلایا کرو اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔

حضرت بشیر بن عقریہؓ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری حضورؐ سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا میرے والد کا کیا ہوا؟ حضورؐ نے فرمایا وہ تو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ میں یہ سن کر رونے لگ پڑا۔ حضورؐ نے مجھے پکڑ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے اپنے ساتھ اپنی سواری پر سوار کر لیا اور فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں اور عائشہ تمہاری ماں۔

### والد کے دوست کا اکرام کرنا

حضرت ابن عمرؓ جب مکہ مکرمہ جاتے تو اپنے ساتھ ایک گدھا بھی رکھتے جب اونٹنی پر سفر کرتے کرتے آتا جاتے تو اکرام کرنے کے لئے اس پر بیٹھ جاتے اور ایک پگڑی بھی ساتھ لے

۱۔ اخرجه البخاری فی الادب (ص ۱۶۹) و اخرجه البخاری ایضاً فی صحیحہ و مسلم عن انس رضی اللہ عنہ بنحوه مختصراً کما فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۱۴۸) ۲۔ اخرجه احمد قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۶۰) رجالہ رجال الصحیح ۵۱۔ عند الطبرانی فی اسنادہ من لم یسم وبقیہ مدلس کما قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۶۰) ۳۔ اخرجه البزار قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۶۱) و فیہ من لا یعرف ۵۱۔ و اخرجه البخاری فی تاریخہ عن بشیر بن عقریہ بنحوه کما فی الاصابہ (ج ۱ ص ۱۵۳) و ابن مندہ و ابن عساکر اطول منه کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۴۶)

جاتے جسے (بوقت ضرورت) سر پر باندھ لیتے ایک دن وہ اس گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ ایک دیہاتی ان کے پاس سے گزرا۔ حضرت لئن عمرؓ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم فلاں لئن فلاں نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں حضرت لئن عمرؓ نے اپنا وہ گدھا دے دیا اور فرمایا اس پر سوار ہو جا اور پگڑی بھی اسے دے دی اور فرمایا اس سے اپنا سر باندھ لینا۔ حضرت لئن عمرؓ کے ایک ساتھی نے ان سے کہا آپ جس گدھے پر کرام کیا کرتے تھے وہ بھی اسے دے دیا اور جس پگڑی سے اپنا سر باندھا کرتے تھے وہ بھی اسے دے دی۔ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ (آپ نے ایسا کیوں کیا؟) حضرت لئن عمرؓ نے فرمایا میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے انتقال کے بعد اس کے محبت و تعلق والوں سے اچھا سلوک کرے اس دیہاتی کے والد (میرے والد) حضرت عمرؓ کے محبوب دوست تھے لہٰذا اب المفرد کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت لئن عمرؓ نے ان کے ایک ساتھی نے کہا کیا اس دیہاتی کو دودھ ہم دینے کا فی نہیں تھے؟ حضرت لئن عمرؓ نے فرمایا حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ اپنے والد کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو اور ان سے تعلقات ختم نہ کرو نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے نور کو چھادیں گے۔

حضرت ابو اسید ساعدیؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ! کیا میرے والدین کا انتقال کے بعد کوئی ایسا کام ہے جس کے کرنے سے میں والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا شمار ہو جاؤں؟ حضورؐ نے فرمایا ہاں ان دونوں کے لئے دعا کرنا، استغفار کرنا اور ان کے جانے کے بعد ان کے وعدے پورے کرنا اور والدین کے ذریعہ سے جو رشتہ داری بنتی ہے اس کا خیال رکھنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔

## مسلمان کی دعوت قبول کرنا

حضرت زیاد بن النعمان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت معاویہؓ کے زمانہ خلافت میں ایک غزوہ میں سمندر کا سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی کشتی سے جا ملی جب ہمارا دوپہر کا کھانا آ گیا تو ہم نے انہیں (کھانے کے لئے) بلا بھیجا اس پر حضرت ابو ایوبؓ ہمارے پاس آئے اور فرمایا تم نے مجھے بلایا ہے لیکن میں روزے سے ہوں۔ پھر بھی میں تمہاری دعوت ضرور قبول کروں گا کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کے اپنے بھائی پر چھ حق واجب ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کام چھوڑے گا تو وہ اپنے بھائی کا حق

۱۔ اخرجه ابو داؤد والترمذی ومسلم كذا في جمع الفوائد (ج ۲ ص ۱۶۹)

۲۔ اخرجه البخاری فی الادب (ص ۹) بنحوه مختصراً ۳۔ عند ابی داؤد

واجب چھوڑے گا جب اس سے ملے تو اسے سلام کرے جب وہ اسے دعوت دے تو اسے قبول کرے اور اسے جب چھینک آئے تو اسے جواب دے جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے اور جب اس کا انتقال ہو تو اس کے جنازے میں شریک ہو اور جب وہ اس سے نصیحت کا مطالبہ کرے تو اسے نصیحت کرے۔ آگے پوری حدیث ذکر کی ہے۔

حضرت حمید بن نعیمؓ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفانؓ کو کسی نے کھانے کی دعوت دی جسے ان حضرات نے قبول کر لیا (اور اس کے گھر کھانے کے لئے تشریف لے گئے) جب یہ دونوں حضرات کھانا کھا کر وہاں سے باہر نکلے تو حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ سے فرمایا میں اس کھانے میں شریک تو ہو گیا ہوں لیکن اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس میں شریک نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس نے یہ کھانا اپنی شان دکھانے کے لئے کھلایا ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے شادی کی حضرت عثمانؓ امیر المؤمنین تھے۔ حضرت مغیرہؓ نے ان کو (شادی کے) کھانے پر بلایا۔ جب حضرت عثمانؓ (کھانے کے لئے) تشریف لائے تو فرمایا میرا توروزہ تھا لیکن میں نے چاہا کہ آپ کی دعوت قبول کر لوں اور آپ کے لئے برکت کی دعا کر دوں (یعنی آنا ضروری ہے کھانا ضروری نہیں ہے)۔

حضرت سلمان فارسیؓ فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی دوست یا پڑوسی یا رشتہ دار سرکاری ملازم ہو اور وہ تمہیں کچھ ہدیہ دے یا تمہاری کھانے کی دعوت کرے تو تم اسے قبول کر لو (اگر اس کی کمائی میں کچھ شبہ ہے تو) تمہیں تو وہ چیز بغیر کوشش کے مل رہی ہے اور (غلط کمائی کا) گناہ اس کے ذمہ ہوگا۔

### مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا

حضرت معاویہ بن قرہؓ کہتے ہیں میں حضرت معتل مزیؓ کے ساتھ تھا انہوں نے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائی۔ آگے جا کر مجھے بھی راستے میں ایک تکلیف دہ چیز نظر آئی میں جلدی سے اس کی طرف بڑھا تو انہوں نے فرمایا اے میرے بچے تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لئے میں بھی اس کام کو کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اے میرے بچے تم نے بہت اچھا کیا میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو

۱۔ اخراجہ البخاری فی الادب (ص ۱۳۴)۔ ۲۔ اخراجہ ابن المبارک و احمد فی الزهد کذا فی

الکنز (ج ۵ ص ۶۶)۔ ۳۔ اخراجہ احمد فی الزهد کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۶۶)۔

۴۔ اخراجہ عبدالرزاق کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۶۶)۔

مسلمانوں کے راستہ سے کسی تکلف وہ چیز کو ہٹائے گا اس کے لئے ایک نیکی لکھی جائے گی اور جس کی ایک نیکی بھی (اللہ کے ہاں) قبول ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔

## چھینکنے والے کو جواب دینا

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ کو چھینک آگئی اس پر صحابہؓ نے کہا یرحمک اللہ! حضورؐ نے فرمایا یرھدیکم اللہ ویصلح بالکم۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہی حضور ﷺ کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی اس نے پوچھا یرحمک اللہ! میں (اس چھینک آنے پر) کیا کہوں؟ حضورؐ نے فرمایا الحمد للہ کو، صحابہؓ نے پوچھا یرحمک اللہ! ہم اس کو جواب میں کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا تم لوگ یرحمک اللہ کو۔ اس آدمی نے کہا میں ان لوگوں کے جواب میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا تم کو یرھدیکم اللہ ویصلح بالکم۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ جب ہم میں سے کسی کو چھینک آجائے تو ہم اسے چھینک کا جواب دیں گے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ یہ سکھاتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمد للہ رب العالمین۔ کہنا چاہئے اور جب وہ یہ کہے لے تو اس کے پاس والوں کو یرحمک اللہ کہنا چاہئے جب پاس والے یہ کہہ چکیں تو اسے یغفر اللہ لی ولکم کہنا چاہئے۔

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے گھر کے ایک کونے میں ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمد للہ۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا یرحمک اللہ پھر گھر کے کونے میں ایک اور آدمی کو چھینک آگئی اور اس نے کہا الحمد للہ رب العالمین حمد اکثر اطیبا مبارکافیر۔ حضورؐ نے فرمایا یہ آدمی (ثواب میں) اس سے انیس درجے بڑھ گیا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی، حضورؐ نے ایک کی چھینک کا تو جواب دیا لیکن دوسرے کو جواب نہ دیا حضورؐ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو حضورؐ نے

۱۔ اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۸۷) ۲۔ اخرجہ الطبرانی وقال الهیثمی (ج ۸

ص ۵۷) وفيه اسباط بن عزة ولم اعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. ۵۱

۳۔ اخرجہ احمد وابویعلی قال الهیثمی (ج ۸ ص ۵۷) وفيه ابو معشر نجیح وهو لیلین الحدیث وبقية رجاله ثقات وخرجہ ابن جریر والبیہقی عن عائشة رضی اللہ عنہا نحوه كما فی کثیر العمال

(ج ۵ ص ۵۶) ۴۔ اخرجہ الطبرانی واصله جید كما قال الهیثمی (ج ۸ ص ۵۷)

۵۔ عند الطبرانی ایضا قال الهیثمی وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط

۶۔ اخرجہ ابن جریر کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۵۶) وقال لابن بسندہ.

فرمایا اس نے تو چھینک کے بعد الحمد للہ کہا تھا اور اس دوسرے نے نہیں کہا تھا (اس لئے میں نے پہلے کو جواب دیا اور دوسرے کو نہیں دیا)۔

حضرات ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی ان میں سے ایک دوسرے سے (دنیاوی لحاظ سے) زیادہ مرتبہ والا تھا۔ بلند مرتبہ والے کو چھینک آئی اس نے الحمد للہ نہیں کہا حضور نے اسے چھینک کا جواب نہ دیا پھر دوسرے کو چھینک آئی اس نے الحمد للہ کہا تو حضور نے اس کی چھینک کا جواب دیا اس پر اس بلند درجے والے نے کہا مجھے آپ کے پاس چھینک آئی لیکن آپ نے میری چھینک کا جواب نہ دیا اور اسے چھینک آئی تو اس کی چھینک کا جواب دیا۔ حضور نے فرمایا اس نے (چھینکنے کے بعد) اللہ کا نام لیا تھا اس لئے میں نے بھی اللہ کا نام لے دیا اور تم اللہ کو بھول گئے تو میں نے بھی تمہیں بھلا دیا۔

حضرت ابو بردہؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰؓ کے پاس گیا وہ اس وقت حضرت ام فضل بن عباسؓ کے گھر میں تھے مجھے چھینک آئی تو انہوں نے میری چھینک کا جواب نہ دیا اور حضرت ام فضل کو چھینک آئی تو حضرت ابو موسیٰؓ نے ان کی چھینک کا جواب دیا۔ میں نے جا کر اپنی والدہ کو ساری بات بتائی۔ جب حضرت ابو موسیٰؓ میری والدہ کے پاس آئے تو میری والدہ نے ان کی خوب خبر لی اور فرمایا میرے بیٹے کو چھینک آئی تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور حضرت ام فضل کو چھینک آئی تو آپ نے اسے جواب دیا تو حضرت ابو موسیٰؓ نے میری والدہ سے کہا میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو تم اس کی چھینک کا جواب دو اور اگر وہ الحمد للہ نہ کہے تو تم اس کی چھینک کا جواب مت دو اور تیرے بیٹے کو چھینک آئی اور اس نے الحمد للہ نہیں کہا اس لئے میں نے اس کی چھینک کا جواب نہیں دیا اس پر میری والدہ نے کہا تم نے اچھا کیا۔

حضرت مکحول ازدیؓ کہتے ہیں میں حضرت لبن عمرؓ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں مسجد کے کونے میں ایک آدمی کو چھینک آئی تو حضرت لبن عمرؓ نے فرمایا اگر تم نے الحمد للہ کہا تو پھر یہ حَمَكُ اللہ ۴

۱۔ اخرجہ الشيخان وابو داؤد والترمذی کذا فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۱۴۵)

۲۔ عند احمد والطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۵۸) رجال الصحیح غیر ربیع بن ابراہیم وهو ثقة مامون. ۱۱۔ اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۱۳۶) والبیہقی وابن النجار وابن شاہین کما فی الكنز (ج ۵ ص ۵۷)

۳۔ اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۱۳۷)

۴۔ اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۱۳۶)

حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ حضرت لئن عمرؓ کو چھینک آئی اور کوئی انہیں یرحمک اللہ کہتا تو یہ اسے جواب میں کہتے یرحمنا اللہ وایاکم وغفر لنا ولکم ۱۔

حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو حضرت لئن عمرؓ کے پاس چھینک آئی اس آدمی نے الحمد للہ کہا تو حضرت لئن عمرؓ نے اس سے کہا تم نے کجوسی سے کام لیا جب تم نے اللہ کی تعریف کی ہے تو حضور ﷺ پر بھی درود بھیج دیتے۔ حضرت ضحاک بن فیس بھیجی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو حضرت لئن عمرؓ کے پاس چھینک آئی تو اس آدمی نے کہا الحمد للہ رب العالمین حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا اگر تم اس کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ ملا کر پورا کر دیتے تو زیادہ اچھا تھا ۲۔ حضرت ابو جمرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لئن عباسؓ کو سنا کہ جب وہ کسی کو چھینک کا جواب دیتے تو کہتے عافانا اللہ وایاکم من النار یرحمکم اللہ ۳۔

### مریض کی بیماری پر سی کرنا اور اسے کیا کہنا چاہیے

حضرت زید بن ارقمؓ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں درد تھا جس کی وجہ سے حضور ﷺ نے میری بیماری پر سی فرمائی۔ ۴۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع والے سال میں میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا جب حضور ﷺ میری عیادت کے لئے تشریف لائے تو میں نے کہا میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا اور کوئی وارث نہیں ہے صرف ایک بیٹی ہے تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں؟ حضورؐ نے فرمایا نہیں۔ ہاں تہائی مال صدقہ کر دو اور تہائی بھی بہت ہے تم اپنے ورثا کو مالدار چھوڑ جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم جو بھی خرچہ اللہ کی رضا کے لئے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اور مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکہ سے واپس چلے جائیں گے میں یہاں ہی مکہ میں رہ جاؤں گا اور میرا انتقال یہاں مکہ میں ہو جائے گا اور چونکہ میں مکہ سے ہجرت کر کے گیا تھا تو میں اب یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہاں انتقال ہو۔ حضورؐ نے فرمایا نہیں۔ تمہاری زندگی لمبی ہوگی (اور تمہارا اس مرض میں یہاں انتقال نہیں ہوگا) اور تم جو بھی نیک عمل کرو گے اس سے تمہارا اور جب بھی بلند ہوگا

۱۔ اخراجہ البیہقی کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۵۷) وخراجہ البخاری فی الادب (۱۳۶) نحوہ

۲۔ اخراجہ البیہقی کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۵۷) - ۲۔ اخراجہ البخاری فی الادب (ص

۱۳۵) ۴۔ اخراجہ ابو داؤد کذا فی جمع الفوائد (ج ۱ ص ۱۲۴)



اور دوسروں کا بہت نقصان ہوگا (چنانچہ عراق کے فتح ہونے کا ڈر یعنی نے) اے اللہ! میرے صحابہؓ کی ہجرت کو آخر تک پہنچا (درمیان میں مکہ میں فوت ہونے سے ٹوٹنے نہ پائے) اور (مکہ میں موت دے کر) انہیں ایزدوں کے بل واپس نہ کر۔ ہاں قابل رحم سعد بن خولہ ہے (کہ وہ مکہ سے ہجرت کر گئے تھے اور اب یہاں فوت ہو گئے ہیں) ان کے مکہ میں فوت ہونے کی وجہ سے حضورؐ کو ان پر ترس آ رہا تھا۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا تو حضور ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ پیدل چل کر میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں اس وقت بے ہوش تھا۔ حضورؐ نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا جس سے مجھے افاقہ ہو گیا میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ حضورؐ تشریف فرما ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! اپنے مال کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہو گئی۔ ۱

حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ ایک گدھے پر سوار ہوئے اس گدھے کے پالان پر فدک کی بنی ہوئی چادر پڑی ہوئی تھی اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا کر حضرت سعد بن عبادہؓ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے چلتے چلتے حضورؐ کا گزر ایک مجلس پر ہوا جس میں عبد اللہ بن ابی لہن سلول بھی تھا ابھی تک عبد اللہ نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اس مجلس میں مسلمان مشرک، بت پرست اور یہودی سب ملے جلے بیٹھے تھے اور اس مجلس میں حضرت عبد اللہ بن رواحہؓ بھی تھے۔ جب آپؐ کی سواری کا گردو غبار اس مجلس پر پڑا تو عبد اللہ بن ابی نے اپنی ناک پر چادر رکھ لی اور کہا ہم پر گردو غبار نہ ڈالو۔ حضورؐ سلام کر کے وہاں کھڑے ہو گئے اور سواری سے نیچے اتر کر انہیں اللہ کی دعوت دینے لگے اور انہیں قرآن بھی پڑھ کر سنایا۔ عبد اللہ بن ابی نے کہا اے آدمی! جو آپؐ کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے تو اس سے کوئی بات زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی لیکن آپؐ ہماری مجلسوں میں آکر اپنی بات سنا کر ہمیں تکلیف نہ پہنچایا کریں آپؐ اپنے ٹھکانہ پر واپس جائیں اور ہم میں سے جو آپؐ کے پاس آئے اسے آپؐ اپنی بات سنا دیا کریں۔ حضرت لہن رواحہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ! آپؐ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں اور ہمیں اپنی بات سنایا کریں ہمیں یہ بہت پسند ہے۔ اس پر مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع

۱ اخراجہ البخاری (ج ۱ ص ۱۷۴) واللفظ له و مسلم (ج ۲ ص ۳۹) الأربعة

۲ اخراجہ البخاری فی صحیحہ (ج ۲ ص ۸۴۳) و اخراجہ فی الادب (ص ۷۵) مثله

کر دیا اور بات اتنی بڑھی کہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے ہی والے تھے حضورؐ ان سب کو ٹھنڈا کرتے رہے یہاں تک کہ سب خاموش ہو گئے پھر حضورؐ اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے یہاں تک کہ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضورؐ نے ان سے فرمایا اے سعد! ابو حباب یعنی عبد اللہ بن ابی نے جو کہا کیا تم نے وہ نہیں سنا؟ حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اسے معاف کر دیں اور اس سے درگزر فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا حالانکہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے (مدینہ کی) اس بستھی والوں نے تو اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ اسے تاج پہنا کر اپنا سردار بنالیں لیکن اتنے میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آگئے جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا بس اس وجہ سے اسے آپ سے حسد ہے اور آپ کی سیادت اس کے گلے تلے نہیں اتر رہی ہے آج جو کچھ آپ نے اسے کرتے دیکھا ہے وہ سب اسی غصہ اور حسد کی وجہ سے ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ ایک بیمار دیہاتی کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور آپ کی عادت یہ تھی کہ جب کسی بیمار کے پاس عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو فرماتے لا باس طهور ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ترجمہ ”کوئی ڈر کی بات نہیں۔ انشاء اللہ یہ بیماری (گناہوں سے) پاکی کا ذریعہ ہے“ چنانچہ اسے بھی وہی کلمات کہے تو اس نے جواب میں کہا آپ اسے پاکی کا ذریعہ کہہ رہے ہیں۔ بات ایسے نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت تیز بخار ہے جو ایک بوڑھے پر جوش مار رہا ہے اور یہ بخار تو اسے قبرستان دکھا کر چھوڑے گا۔ حضورؐ نے فرمایا اچھا تو پھر ایسے ہی سہی لے (چنانچہ وہ اسی بیماری میں مر گیا)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب حضور ﷺ مدینہ آئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلالؓ کو بہت تیز بخار ہو گیا چنانچہ میں ان دونوں حضرات کے پاس گئی اور میں نے کہا اے اباجان! آپ کیسے ہیں؟ اے بلال! آپ کیسے ہیں؟ حضرت ابو بکرؓ کا جب بخار تیز ہوتا تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے

کل امری مصبح فی اہلہ والموت اذنی من شراک نعلہ

”ہر آدمی اپنے گھر والوں میں رہتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اللہ تمہاری صبح خیر و عافیت والی بنائے حالانکہ موت تو اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے“ اور جب حضرت بلالؓ کا بخار اتر جاتا تو وہ (مکہ کو یاد کر کے) یہ شعر پڑھتے۔

الالیۃ شعری ہل ایتن لیلۃ بوادو حولی الذخر و جلیل

غور سے سنو! کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کیا میں کوئی رات (مکہ) کی وادی میں گزار دوں گا  
اذخر اور میرے اردگرد (مکہ کا) گھاس اور جلیل گھاس ہوگا۔

وہل اردن یوما میاہ مجنۃ وہل یبدون لی شامۃ وطفیل ،

اور کیا میں کسی دن مجنہ کے چشموں پر اتروں گا اور کیا شامہ اور طفیل نامی (مکہ کے) پہاڑ مجھے  
نظر آئیں گے۔ میں نے حضورؐ کی خدمت میں جا کر یہ ساری بات بتائی تو حضورؐ نے دعا مانگی  
اے اللہ! ہمیں مکہ سے جتنی محبت ہے اتنی یا اس سے زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں  
پیدا کر دے اے اللہ! مدینہ کو صحت افزاء مقام بنا دے اور ہمارے لئے اس کے مد اور صاع (دو  
پیمانوں) میں ہر کت ڈال دے اور اس کا مختار حجفہ مقام پر منتقل کر دے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟  
حضرت ابو بکرؓ نے کہا میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا تم میں سے آج کسی نے کسی بھسار کی عیادت  
کی ہے؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا میں نے پھر حضورؐ نے پوچھا تم میں سے آج کون کسی جنازہ میں  
شریک ہوا ہے؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا میں پھر آپ نے پوچھا آج کس نے کسی مسکین کو کھانا  
کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا میں نے۔ حضورؐ نے فرمایا جو آدمی ایک دن میں یہ سارے کام  
کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔

حضرت عبد اللہ بن نافعؓ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰؓ حضرت حسن بن علیؓ کی عیادت کرنے  
آئے تو حضرت علیؓ نے فرمایا جو بھی مسلمان کسی بھسار کی عیادت کرتا ہے تو اگر وہ صبح کو کرتا ہے تو  
اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں جو شام تک اس کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں اور  
اسے (اس عیادت کے بدلہ میں) جنت میں ایک باغ ملے گا اور اگر وہ شام کو عیادت کرتا ہے تو  
اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں جو اس کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں اور اسے جنت  
میں ایک باغ ملے گا۔ حضرت عبد اللہ بن نافعؓ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰؓ اشعریؓ حضرت حسن  
بن علیؓ بن ابی طالبؓ کی عیادت کرنے آئے تو ان سے حضرت علیؓ نے پوچھا کہ کیا آپ عیادت کی  
نیت سے آئے ہیں یا صرف ملنے کے لئے آئے ہیں؟ حضرت ابو موسیٰؓ نے کہا نہیں۔ میں تو  
عیادت کی نیت سے آیا ہوں اس پر حضرت علیؓ نے پچھلی حدیث جیسا مضمون بیان کیا۔

۱ اخراجہ البخاری (ج ۲ ص ۸۴۴) ۲ اخراجہ البخاری فی الادب المفرد (ص ۷۵)

۳ اخراجہ ابن جریر والبیہقی کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۵۰) وقال قال ای البیہقی هکذا رواه اکثر  
اصحاب شعبۃ موقوفوا قدروی من غیر وجه عن علی مرفوعا. انتہی وهکذا اخراجہ ابو داؤد عن  
عبد اللہ بن نافع نحوه موقوفا وقال اسند هذا عن علی عن النبی ﷺ من غیر وجه صحیح

۴ وهکذا اخراجہ احمد (ج ۱ ص ۱۲۱)

حضرت ابوفاختہؓ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ حضرت حسن بن علیؓ کی عیادت کرنے آئے تو حضرت علیؓ اندر تشریف لائے اور پوچھالے ابو موسیٰؓ آپ عیادت کرنے آئے ہیں یا ملنے انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین! نہیں میں تو عیادت کرنے آیا ہوں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کیلئے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک خریف یعنی باغ عطا فرماتے ہیں۔ رلوی کہتے ہیں ہم نے پوچھالے امیر المؤمنین! خریف کسے کہتے ہیں حضرت علیؓ نے فرمایا خریف پانی کی وہ نالی ہے جس سے کھوروں کے بلوغ کو پانی دیا جاتا ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت عبد اللہ بن یسارؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن حریثؓ حضرت حسن بن علیؓ کی عیادت کرنے آئے تو حضرت علیؓ نے ان سے فرمایا کہ تم حسن کی عیادت کرنے آئے ہو حالانکہ تمہارے دل میں (میرے بارے میں) بہت کچھ ہے۔ حضرت عمروؓ نے ان سے کہا آپ میرے رب تو ہیں نہیں کہ جدھر چاہیں ادھر میرے دل کو پھیر دیں (میں اللہ ہی نے میرے دل میں ایسی رائے ڈالی ہے جو آپ کی رائے کے خلاف ہے) حضرت علیؓ نے فرمایا اس سب (اختلاف رائے) کے باوجود ہم آپ کو آپ کے فائدے کی بات ضرور بتائیں گے میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے بھیج دیتے ہیں دن میں جس وقت بھی عیادت کرے گا اس وقت سے شام تک وہ اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے اور رات کو جس وقت بھی عیادت کرے گا اس وقت سے صبح تک وہ اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے۔<sup>۲</sup>

حضرت سعیدؓ کہتے ہیں میں حضرت سلمانؓ کے ساتھ تھا وہ (کوفہ کے محلہ) کندہ میں کسی بیمار کی عیادت کرنے گئے۔ اس کے پاس جا کر انہوں نے کہا تمہیں خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ مومن کی بیماری کو اس کے گناہوں کے ثمنے کا اور اس سے اللہ کے راضی ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں اور فاجر و بدکار کی بیماری تو ایسی ہے کہ جیسے اونٹ کو اس کے گھر والوں نے باندھ دیا پھر اسے کھول دیا۔ اونٹ کو کچھ پتہ نہیں کہ اسے کیوں باندھا تھا اور اسے کیوں چھوڑا ہے؟<sup>۳</sup>

حضرت سعید بن وہبؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمانؓ کے ساتھ ان کے ایک دوست کی عیادت کرنے گیا جو کہ قبیلہ کندہ کا تھا۔ ان سے حضرت سلمانؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو کسی بیماری یا آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں اور پھر اسے عافیت عطا فرماتے ہیں

<sup>۱</sup> اخراجہ احمد (ج ۱ ص ۹۱) <sup>۲</sup> اخراجہ احمد ایضا (ج ۱ ص ۹۷) و اخراجہ البزار قال  
الہیثمی (ج ۳ ص ۳۱) و رجال احمد ثقات <sup>۳</sup> اخراجہ البخاری فی الادب (ص ۷۲)

اس سے اس کے زمانہ ماضی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ زمانہ میں وہ اللہ کی رضا کا طالب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فاجر بندے کو بھی کسی بیماری یا آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں پھر اسے عافیت عطا فرماتے ہیں لیکن وہ اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے پہلے باندھا تھا پھر اسے کھول دیا اس اونٹ کو کچھ خبر نہیں کہ گھر والوں نے اسے کیوں باندھا تھا پھر اسے کیوں چھوڑا تھا۔

حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ حضرت لن عمرؓ جب کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتے تو اس سے پوچھتے کہ کیا حال ہے؟ اور جب اس کے پاس سے کھڑے ہونے لگتے تو فرماتے خیر اللہ لك اللہ تمہیں خیر عطا فرمائے اور مزید کچھ نہ فرمائے۔ حضرت عبد اللہ بن ابی ہذیلؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ایک بیمار کی عیادت کرنے گئے ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ گھر میں ایک عورت تھی جسے ان کا ایک ساتھی دیکھنے لگا تو اس سے حضرت عبد اللہ نے کہا اگر تیری آنکھ پھوٹ جاتی تو یہ تیرے لئے (نامحرم کو دیکھنے سے) زیادہ بہتر تھا۔

حضرت لن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب کسی بیمار کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو اس کے سر ہانے بٹھ جاتے پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑھتے اساء ل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اگر اس کی موت میں کچھ دیر ہوتی تو وہ آدمی ضرور ٹھیک ہو جاتا۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو یہ دعا پڑھتے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شافی الا انت ۵۔ لن جریر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں لا شفاء الا شفاءك شفاء لا یغادر سقما۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب کسی بیمار کی عیادت فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اس کے دائیں رخسار پر رکھ کر یہ دعا پڑھتے لا باس اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا یکشف الضر الا انت ۶۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو یہ دعا پڑھتے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ جب کسی بیمار کی عیادت فرماتے تو اپنا ہاتھ جسم

۱۔ عند ابی نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۰۶) ۲۔ اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۷۸)

۳۔ اخرجہ البخاری ایضا (ص ۷۸) ۴۔ اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۷۹)

۵۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ ورواہ احمد والترمذی وقال حسن غریب والد ورقی وابن جریر

وصححه ۶۔ کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۵۰) ۷۔ عند ابن مردودہ یأبى علی الحداد فی معجمه

۸۔ عند ابن ابی شیبہ وکذا فی الكنز (ج ۵ ص ۵۱)

کے حصہ پر رکھتے جہاں تکلیف ہوتی اور یہ دعا پڑھتے بسم اللہ لا باء من لہ  
حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ میری عیادت کرنے تشریف  
لائے جب آپ باہر جانے لگے تو فرمایا اے سلمان! اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دے اور  
تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمہیں دین میں اور جسم میں مرتے دم تک عافیت  
نصیب فرمائے۔ ۱

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا  
کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو حضورؐ یہ دعا پڑھتے۔ اذهب الباء من رب الناس اشف وان  
الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا یغادر سقماً ۲ حضرت عائشہؓ کی دوسری روایت میں یہ  
ہے کہ حضور ﷺ ان کلمات کے ساتھ حفاظت کی دعا کرتے اور کچھلی حدیث والے کلمات  
ذکر کیے اور آگے حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ مرض الوفا ت میں جب حضور ﷺ کی بیماری زیادہ  
ہو گئی تو میں حضورؐ کا ہاتھ لے کر حضورؐ کے جسم پر پھیرنے لگی اور یہی کلمات پڑھنے لگی حضورؐ  
نے اپنا ہاتھ مجھ سے کھینچ لیا اور فرمایا اے میرے رب! مجھے معاف فرما اور مجھے رفیق (اعلیٰ یعنی  
اپنے آپ) سے ملا دے۔ یہ حضورؐ کا آخری کلام تھا جو میں نے حضورؐ سے سنا۔ ۳

## اندر آنے کی اجازت مانگنا

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ جب سلام فرماتے تو تین دفعہ فرماتے (یعنی اجازت  
مانگنے کے لئے گھر سے باہر تین دفعہ سلام زور سے فرماتے اجازت مل جاتی تو ٹھیک ورنہ باہر  
سے واپس چلے جاتے یا مطلب یہ ہے کہ جب مجمع زیادہ ہوتا تو سارے مجمع کو سنانے کے لئے  
حضورؐ تین دفعہ سلام فرماتے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف اور سامنے یا مطلب یہ ہے کہ  
حضورؐ جب کسی کو ملنے اس کے گھر جاتے تو تین مرتبہ سلام فرماتے (ایک اجازت لینے کے  
لئے اور دوسرا اندر جاتے وقت اور تیسرا واپسی کے وقت) اور جب کوئی (اہم) بات فرماتے تو  
تین مرتبہ فرماتے (تاکہ کم سے کم سمجھ والا بھی بات سمجھ جائے)۔ ۴

حضرت قیس بن سعدؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ ہمیں ملنے کے لئے ہمارے گھر تشریف لائے  
چنانچہ حضورؐ نے (اجازت کے لئے باہر سے) فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ! میرے والد نے (حضورؐ

۱۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۹۹) رجالہ موثقون ۲۔ اخرجہ الطبرانی فی  
الکبیر وفیہ عمرو بن خالد القرشی وهو ضعیف کما قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۹۹)  
۳۔ اخرجہ البخاری فی صحیحہ (ج ۲ ص ۸۴۷) ۴۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۲ ص ۱۴)  
۵۔ اخرجہ البخاری فی صحیحہ (ج ۲ ص ۹۲۳)

کے سلام کا) جواب آہستہ سے دیا۔ میں نے کہا کیا آپ اللہ کے رسول ﷺ کو اجازت دینا نہیں چاہتے؟ انہوں نے کہا ذرا حضور کو بار بار ہمیں سلام کرنے دو۔ حضور نے پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، (میرے والد) حضرت سعدؓ نے پھر آہستہ سے جواب دیا۔ حضور نے پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کے بعد حضور واپس چل پڑے۔ حضرت سعد حضور کے پیچھے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے آپ کا ہر سلام سنا ہے اور ہر سلام کا آہستہ جواب دیا ہے بس آہستہ اس لئے جواب دیا تاکہ آپ ہمیں بار بار سلام کریں۔ چنانچہ حضور ان کے ساتھ واپس آئے۔ حضرت سعد نے حضور کیلئے نہانے کا پانی تیار کروایا جس سے حضور نے غسل کیا پھر حضرت سعد نے حضور کو زعفران یا درس (خوشبودار گھاس) میں رنگی ہوئی چادر دی جسے حضور نے لٹوڑھ لیا پھر حضور نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اے اللہ! تو اپنی رحمتیں اور مہربانی خاندان سعد پر نازل فرما۔ پھر حضور نے کچھ کھانا نوش فرمایا۔ پھر جب حضور نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو حضرت سعد نے حضور کے سامنے ایک گدھا پیش کیا جس پر ایک عمدہ چادر ڈال کر تیار کیا گیا تھا۔ حضرت سعد نے کہا اے قیس! اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ جاؤ۔ میں ساتھ چل پڑا۔ حضور نے مجھ سے فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ میں نے انکار کیا۔ حضور نے فرمایا تم سوار ہو جاؤ یا واپس چلے جاؤ اس پر میں واپس چلا گیا۔

حضرت ربیع بن حراشؓ فرماتے ہیں مجھے، جو عامر کے ایک آدمی نے یہ قصہ سنایا کہ میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضور نے باندی سے فرمایا ہاں جا کر اس آدمی سے کہو کہ وہ یوں کہے السلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے اندر آنے کی اجازت لینے میں اچھا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ میں نے حضور کی یہ بات باہر سے سن لی اور باندی کے باہر آنے سے پہلے ہی میں نے کہا السلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں۔ آگے اور حدیث بھی ذکر کی۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضور اپنے بالا خانے میں تھے کہ حضرت عمرؓ عمر آئے اور انہوں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ! السلام علیکم کیا عمرؓ اندر آ جائے؟ خطیب نے اس واقعہ کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے کہا السلام علیک ایما النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم کیا عمرؓ اندر آ جائے؟ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے تین بار اندر آنے کی اجازت مانگی پھر حضور نے مجھے اجازت دی۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے آدمی بھیج کر ہمیں بلایا ہم لوگ آئے اور ہم

۲۔ عند ابی داؤد کذا فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۱۴۳) ۲۔ اخرجه البخاری فی الادب

المفرد (ص ۱۵۸) و اخرجه ایضا ابو داؤد کما فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۱۴۳)

۳۔ اخرجه احمد قال الہیثمی (ج ۸ ص ۴۴) رجالہ رجال الصحیح ۱۰

۴۔ اخرجه ابو داؤد والنسائی عن عمرؓ نحوه والخطیب واللفظ له والترمذی کذا فی الكنز (ج

نے اجازت مانگی۔

حضرت سفینہؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس تھا کہ اتنے میں حضرت علیؓ اور انہوں نے اجازت لینے کے لئے دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا حضورؐ نے فرمایا ان کے لئے (دروازہ) کھول دو۔

حضرت سعد بن عبادہؓ نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مت مانگو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سعدؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ گھر میں تھے میں آکر دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے اجازت مانگی۔ حضورؐ نے اشارہ فرمایا ذرا پرے ہٹ جاؤ (میں پرے ہٹ گیا) اور پھر آکر میں نے اجازت مانگی حضورؐ نے فرمایا اجازت لینے کی ضرورت تو صرف نگاہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کے ایک حجرہ میں جھانکا (حضورؐ نے دیکھ لیا) حضورؐ ایک تیر یا کئی تیر کے پھل لے کر اس کی طرف کھڑے ہو کر لپکے میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ گویا آپ اسے اچانک چوکے مارنے کے لئے موقع تلاش کر رہے تھے۔

حضرت سہل بن سعد ساعدیؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کے دروازے کے سوراخ میں سے جھانکا اس وقت حضورؐ کے ہاتھ میں ایک کنگھی تھی جس سے آپ سر نکھار رہے تھے جب حضورؐ نے اسے (جھانکتے ہوئے) دیکھ لیا تو فرمایا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو میں یہ کنگھی تمہاری آنکھ میں مار دیتا۔ نگاہ کی وجہ سے ہی اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت ابو موسیٰؓ بگھرائے ہوئے آئے اور کہنے لگے میں نے حضرت عمرؓ سے تین مرتبہ اجازت مانگی لیکن مجھے اجازت نہ ملی آخر میں واپس آ گیا حضرت عمرؓ نے (حضرت ابو موسیٰؓ کو بلایا) اور فرمایا آپ اندر کیوں نہیں آگئے؟ حضرت ابو موسیٰؓ نے کہا میں نے تین مرتبہ اجازت مانگی تھی لیکن مجھے اجازت نہ ملی تو میں واپس آ گیا اور حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی تین مرتبہ اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ ملے تو اسے چاہئے کہ وہ واپس چلا جائے۔ حضرت عمرؓ نے کہا تمہیں اس پر گواہ پیش کرنے ہوں گے کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے حضور ﷺ سے یہ بات سنی ہے؟ حضرت ابی نے فرمایا (ہم سب نے حضورؐ سے یہ حدیث

۱۔ اخرجه ابو يعلى قال الهيثمي (ج ۸ ص ۴۵) رجاله رجال الصحيح غير اسحاق بن اسرائيل

۲۔ اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ۸ ص ۴۵) وفيه ضرار بن سرد وهو ضعيف

۳۔ اخرجه الطبراني ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح كما قال الهيثمي (ج ۸ ص ۴۴)

۴۔ اخرجه البخاري (ج ۲ ص ۹۲۲) ۵۔ عنده ايضا (ج ۲ ص ۱۰۲۰)



سنی ہے اس لئے آپ کو یہ حدیث سنانے کیلئے ہم لوگوں میں سے سب سے کم عمر آدمی ہی کھڑا ہوگا۔ میں سب سے چھوٹا تھا میں نے کھڑے ہو کر حضرت عمرؓ کو بتایا کہ حضور ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ حضرت عبید بن عمیرؓ رومی نے حضرت عمرؓ کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ حضورؐ کی یہ بات مجھ سے واقعی چھپی رہی۔ بس بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہا۔

حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے تین مرتبہ اجازت مانگی مجھے اجازت نہ ملی۔ میں واپس چل پڑا۔ حضرت عمرؓ نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا (میں آگیا) تو مجھ سے فرمایا اے اللہ کے بندے! آپ کو میرے دروازے پر انتظار کرنا ہوا مشکل لگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو آپ کے دروازے پر انتظار کرنا ایسے ہی مشکل لگتا ہے میں نے کہا (نہیں میں اس وجہ سے واپس نہیں گیا) بلکہ میں نے آپ سے تین دفعہ اجازت مانگی تھی جب نہ ملی تو میں واپس چلا گیا۔ حضرت عمرؓ نے کہا آپ نے یہ بات کس سے سنی ہے؟ (کہ تین دفعہ میں اجازت نہ ملے تو آدمی واپس چلا جائے) میں نے کہا میں نے یہ بات نبی کریم ﷺ سے سنی ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بات ہم نے حضور ﷺ سے نہ سنی ہو وہ آپ حضورؐ سے سن لیں؟ اگر آپ نے اس پر گواہ نہ لائے تو میں آپ کو عبرتناک سزا دوں گا۔ میں وہاں سے باہر گیا اور چند انصار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے میں ان کے پاس آیا میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کیا اس میں کسی کو شک ہے؟ میں نے انہیں حضرت عمرؓ کی بات بتائی تو انہوں نے کہا آپ کے ساتھ ہمارا سب سے کم عمر آدمی ہی جائے گا اس پر میرے ساتھ حضرت ابو سعید خدریؓ یا حضرت ابو مسعودؓ کھڑے ہو کر میرے ساتھ حضرت عمرؓ عمر تک گئے اور وہاں جا کر انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور ﷺ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہؓ کو ملنے گئے ہم بھی آپ کے ساتھ گئے وہاں پہنچ کر حضورؐ نے سلام کیا لیکن حضورؐ کو (اندر آنے کی) اجازت نہ ملی پھر حضورؐ نے دوبارہ سلام کیا پھر تیسری مرتبہ سلام کیا لیکن حضورؐ کو اجازت نہ ملی تو حضورؐ نے فرمایا جو ہمارے ذمہ تھا وہ ہم نے کر دیا اس کے بعد حضورؐ واپس آگئے۔ پیچھے سے حضرت سعدؓ حضورؐ کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا آپ نے جتنی مرتبہ سلام کیا میں نے ہر مرتبہ آپ کا سلام سنا اور میں نے ہر دفعہ جواب دیا لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو بار بار سلام کریں (اس لئے میں آہستہ جواب دیتا رہا) اس پر حضرت ابو موسیٰؓ نے کہا اللہ کی قسم! میں حضور ﷺ کی حدیث کے بارے میں پوری امانت داری سے

کام لینے والا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں (میں آپ کو ایسا ہی سمجھتا ہوں) لیکن میں نے چاہا کہ (مزید اطمینان کے لئے) اچھی طرح سے اس کی تحقیق ہو جائے۔ ۱۔

حضرت عامر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک باندی حضرت زبیرؓ کی بیٹی کو لے کر حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس گئی اور اس نے (دروازے پر پہنچ کر) کہا کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں وہ واپس چلی گئی تو حضرت عمرؓ نے فرمایا اسے بلاؤ اور اسے کہو کہ وہ (اجازت لینے کے لئے) یوں کہے السلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں؟ ۲۔

حضرت اسلمؓ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمرؓ نے فرمایا اے اسلم! میرے دروازے پر پہرہ کرو اور کسی سے کوئی چیز ہرگز نہ لینا۔ ایک دن انہوں نے میرے جسم پر نئے کپڑے دیکھے تو پوچھا یہ کپڑے تمہیں کہاں سے مل گئے؟ میں نے کہا حضرت عبید اللہ بن عمرؓ نے مجھے دیئے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا حضرت عبید اللہؓ سے تو لے لیا کرو اور کسی سے ہرگز نہ لینا۔ پھر میں ایک دن دروازہ پر کھڑا (پہرہ دے رہا) تھا کہ حضرت زبیرؓ آئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں اندر چلا جاؤں۔ میں نے کہا امیر المؤمنینؓ کچھ دیر کیلئے مشغول ہیں۔ حضرت زبیرؓ نے ہاتھ اٹھا کر اس زور سے میرے کانوں کے پیچھے مارا کہ میری چیخ نکل گئی۔ میں حضرت عمرؓ کے پاس اندر گیا انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت زبیرؓ نے مجھے مارا ہے اور ان کی ساری بات حضرت عمرؓ کو بتادی۔ اس پر حضرت عمرؓ فرماتے لگے اللہ کی قسم! میں زبیرؓ کو دیکھ لوں گا پھر فرمایا انہیں اندر بھیج دو۔ میں نے انہیں حضرت عمرؓ کے پاس اندر بھیج دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا آپ نے اس غلام کو کیوں مارا؟ حضرت زبیرؓ نے کہا یہ کہہ رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تو اگر اس نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں کیونکہ امیر المؤمنینؓ ذرا مشغول ہیں تو آپ انتظار کر لیتے اور مجھے معذور سمجھ لیتے۔ اللہ کی قسم! جب کسی درندہ کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو باقی درندے اسے کھا جاتے ہیں (آپ نے اسے مارا ہے تو دوسرے بھی مارنے لگ جائیں گے) ۳۔

حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطابؓ میرے پاس آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی میں نے انہیں اجازت دے دی۔ میری باندی میرے سر میں کنگھی کر رہی تھی میں نے اسے روک دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں۔ اسے کنگھی کرنے دو۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنینؓ! اگر آپ میرے پاس پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آپ کی

۱۔ عند البخاری ایضا فی الادب المفرد۔ ۲۔ اخرجه البیهقی کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۵۱)

۳۔ اخرجه ابن سعد کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۵۱)

خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں۔ ضرورت تو مجھے ہے (اس لئے مجھے ہی آنا چاہئے تھا)۔

ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ہم لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی اور اپنی بیوی پر ایک چادر ڈال دی اور فرمایا میں نے اسے پسند نہ کیا کہ تم لوگوں سے انتظار کرواؤں۔

حضرت موسیٰ بن طلحہؓ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنی والدہ کے پاس جانے لگا تو والد صاحب (کمرے کے) اندر داخل ہو گئے میں بھی ان کے پیچھے اندر جانے لگا تو وہ میری طرف مڑے اور اس زور سے میرے سینے پر مارا کہ میں سرین کے بل گر گیا پھر فرمایا کیا تم اجازت لئے بغیر اندر آ رہے ہو؟

حضرت مسلم بن نذرؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت حذیفہؓ سے اجازت مانگی اور اندر جھانک کر کہا کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضرت حذیفہؓ نے فرمایا تیری آنکھ تو اندر آ چکی ہے ہاں تیری سرین ابھی اندر نہیں آئی اور ایک آدمی نے کہا کیا میں اپنی ماں سے بھی اندر آنے کی اجازت لوں حضرت حذیفہؓ نے فرمایا اگر والدہ سے اجازت نہ لو گے (تو کبھی تم اپنی والدہ کو ایسی حالت میں دیکھو گے جو تمہیں بالکل اچھی نہ لگے گی۔

حضرت ابو سوید عبدیؓ کہتے ہیں ہم حضرت ابن عمرؓ کے ہاں گئے اور جا کر ہم ان کے دروازے پر بیٹھ گئے تاکہ ہمیں اندر جانے کی اجازت مل جائے۔ جب اجازت ملنے میں دیر ہو گئی تو میں کھڑے ہو کر دروازے کے سوراخ سے اندر دیکھنے لگ گیا۔ حضرت ابن عمرؓ کو اس کا پتہ چل گیا۔ جب انہوں نے ہمیں اجازت دے دی تو ہم اندر جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا تم نے میرے گھر میں جھانکنا کس وجہ سے جائز سمجھا؟ میں نے کہا اجازت ملنے میں دیر ہو رہی تھی اس لئے میں نے دیکھ لیا مستقل دیکھنے کا ارادہ نہیں تھا پھر ساتھیوں نے ان سے کئی باتیں پوچھیں۔ میں نے کہا ابے ابو عبد الرحمن! آپ جہاد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جو جہاد کرے گا وہ اپنے لئے کرے گا۔

۱۔ اخرجہ البخاری فی الادب المفرد (ص ۱۸۹) ۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۴۲) والرجل لم اعرفه وبقیة رجالہ رجال الصحیح  
 ۳۔ اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۱۵۵) و صحیح سندہ الحافظ فی الفتح (ج ۱۱ ص ۲۰)  
 ۴۔ اخرجہ البخاری ایضاً (ص ۱۵۹) ۵۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۸ ص ۴۴)  
 و ابو الاسود بركة بن یعلی التمیمی لم اعرفهما

## مسلمان سے اللہ کے لئے محبت کرنا

حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضورؐ نے پوچھا کہ اسلام کا کون سا کڑا سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ صحابہؓ نے کہا نماز۔ حضورؐ نے فرمایا نماز بہت اچھی چیز ہے لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے صحابہؓ نے کہا رمضان کے روزے۔ حضورؐ نے فرمایا روزہ بھی اچھی چیز ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ صحابہؓ نے کہا جہاد حضورؐ نے فرمایا جہاد بھی اچھی چیز ہے لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے پھر فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ تم اللہ کے لئے محبت کرو اور اللہ کے لئے بغض رکھو۔ حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کسی نے کہا نماز اور زکوٰۃ کسی نے کہا جہاد۔ حضورؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے لئے محبت کرنا اور اللہ کے لئے بغض رکھنا ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ صرف متقی آدمی سے محبت کیا کرتے تھے۔<sup>۲</sup>

حضرت عثمان بن ابی العاصؓ فرماتے ہیں دو آدمی ایسے ہیں کہ جب حضور ﷺ کا انتقال ہوا تو حضورؐ کو ان دونوں سے محبت تھی ایک حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ دوسرے حضرت عمار بن یاسرؓ۔<sup>۳</sup>

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ حضرت عمرو بن عاصؓ کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجتے تھے اور اس لشکر میں حضورؐ کے عام صحابہؓ ہوتے تھے تو کسی نے حضرت عمروؓ سے کہا حضورؐ کو امیر بناتے تھے اور اپنے قریب کرتے تھے اور آپ سے محبت کرتے تھے۔ حضرت عمروؓ نے کہا حضورؐ واقعی مجھے امیر بنایا کرتے تھے لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ حضورؐ اس طرح میرا دل لگانے کے لئے فرماتے تھے یا واقعی حضورؐ کو مجھ سے محبت تھی لیکن میں تمہیں ایسے دو آدمی بتاتا ہوں کہ جب حضورؐ کا انتقال ہوا اس وقت حضورؐ کو ان سے محبت تھی ایک حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ اور دوسرے حضرت عمار بن یاسرؓ۔<sup>۴</sup> ابن سعد کی روایت میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم! یہ (عمار بن یاسر) جنگ صفین کے دن آپ لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ حضرت عمروؓ نے کہا آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں واقعی وہ ہمارے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔<sup>۵</sup>

حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں میں (حضور ﷺ کے دروازے پر) بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے

۱۔ عند احمد ایضا وفيه رجل لم يسم وعند ابى داؤد طرف منه كذا فى مجمع الزوائد (ج ۱ ص

۹۰) ۲۔ اخرجه ابو يعلى واستاده حسن كما قال الهيثمى (ج ۱۰ ص ۲۷۴)

۳۔ اخرجه ابن عساكر . ۴۔ عند ابن عساكر ايضا كذا فى المنتخب (ج ۵ ص ۲۳۸)

۵۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۸)

میں حضرت علیؓ اور عباسؓ اندر جانے کی اجازت لینے آئے اور یوں کہا اے اسامہؓ! اندر جا کر حضورؐ سے ہمارے لئے اجازت لے آؤ۔ میں نے اندر جا کر کہا یا رسول اللہ! حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے وہ دونوں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ حضورؐ نے فرمایا مجھے معلوم ہے انہیں اندر بھیج دو۔ ان دونوں نے آکر عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے گھر والوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہے۔ حضورؐ نے فرمایا مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اور میں نے بھی اس پر انعام کیا ہے اور وہ اسامہ بن زید۔ ان دونوں حضرات نے کہا ان کے بعد کون؟ حضورؐ نے فرمایا پھر علی بن ابی طالب اس پر حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ! آپ نے اپنے چچا کو تو سب سے آخر میں کر دیا۔ حضورؐ نے فرمایا علیؓ نے آپ سے پہلے ہجرت کی ہے (اور ہمارے ہاں درجہ دین کی محنت کے مطابق بنتا ہے) ۱۔

حضرت عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضورؐ نے فرمایا عائشہؓ۔ اس آدمی نے پوچھا اور مردوں میں سے کون؟ حضورؐ نے فرمایا ابو بکرؓ۔ اس آدمی نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا ابو عبیدہؓ۔ حضرت عمروؓ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضورؐ نے فرمایا عائشہؓ۔ میں نے کہا میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا ان کے والد۔ ۲۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضورؐ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی گزرا۔ پاس بیٹھے ہوئے اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ! مجھے اس آدمی سے محبت ہے حضورؐ نے فرمایا کیا تم نے اسے بتایا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضورؐ نے فرمایا اسے بتا دو چنانچہ وہ صاحب اس کے پیچھے گئے اور اسے کہا میں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں۔ اس آدمی نے جواب میں دعا دی اِحِبْكَ الَّذِي احْبَبْتِي لَهٗ جس ذات کی وجہ سے تم نے مجھ سے محبت کی وہ تم سے محبت کرے۔ ۳۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی نے حضورؐ کے پاس آکر سلام کیا اور پھر واپس چلا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! مجھے

۱۔ اخروجه الطيالسي والترمذي وصححه والرويانى واليهوى والطبراني والحاكم كذا فى المنتخب

(ج ۵ ص ۱۳۶) ۲۔ عند ابن عساکر كذا فى المنتخب (ج ۴ ص ۳۵۱)

۳۔ عن ابن سعد (ج ۸ ص ۶۷) ۴۔ اخروجه ابو داود كذا فى الفوائد (ج ۲ ص ۱۴۷) و اخروجه ابن

عساکر وابن النجار عن انس رضی اللہ عنہ و ابو نعیم عن الحارث بنحوہ کما فی الكنز (ج ۵ ص ۴۲)

اس آدمی سے محبت ہے۔ حضورؐ نے فرمایا کیا تم نے اسے یہ بات بتادی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ حضورؐ نے فرمایا یہ بات اپنے بھائی کو بتادو۔ چنانچہ میں اسی وقت وہاں سے چل پڑا اور جا کر اسے سلام کیا پھر میں نے اس کا کندھا پکڑ کر کہا اللہ کی قسم! میں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں اس نے کہا میں بھی آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں اور میں نے کہا اگر حضورؐ مجھے اس کا حکم نہ دیتے تو میں یہ (بتانے کا) کام نہ کرتا۔

حضرت عبداللہ بن مسر جسؓ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں حضرت ابو ذرؓ سے محبت کرتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا کیا تم نے ان کو یہ بات بتادی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ حضورؐ نے فرمایا انہیں بتادو۔ پھر جب میری حضرت ابو ذرؓ سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا مجھے آپ سے اللہ کے لئے محبت ہے۔ انہوں نے جواب میں مجھے یہ دعادی احبک الذی احببتنی لہ پھر میں نے واپس آ کر حضورؐ کو بتایا۔ حضورؐ نے فرمایا اپنی محبت کے بتانے میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔

حضرت مجاہدؒ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت لئن عباسؓ کے پاس سے گزرا تو حضرت لئن عباس نے فرمایا یہ آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا لہو عباس! آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا اس لئے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں (کیونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو سمجھ لو کہ اسے بھی تم سے محبت ہے)۔

حضرت مجاہدؒ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی مجھ سے ملے اور پیچھے سے میرا کندھا پکڑ کر انہوں نے کہا غور سے سنو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے جواب میں دعادی احبک الذی احببتنی لہ پھر انہوں نے کہا حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کسی آدمی کو کسی سے محبت ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اسے بتادے اگر حضورؐ نے یہ نہ فرمایا ہوتا تو میں تمہیں نہ بتاتا۔ پھر مجھے وہ شادی کا پیام دینے لگے اور یوں کہا دیکھو ہمارے ہاں لڑکی ہے (اور تو اس میں بہت خوبیاں ہیں بس ایک خرابی ہے کہ کوہ کافی ہے) یعنی اس کا عیب بھی بتادیا تاکہ معاملہ صاف رہے)۔

حضرت مجاہدؒ کہتے ہیں کہ حضرت لئن عمرؓ نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ کے لئے محبت کرو اور اللہ کے لئے بغض رکھو اور اللہ کے لئے دوستی کرو اور اللہ کے لئے دشمنی کرو۔ کیونکہ اللہ کی

۱۔ عند الطبرانی قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۶۸۲) رواہ الطبرانی فی الکبیر والواسط ورجالہما رجال الصحیح غیر الازرق بن علی وحسان بن ابراہیم وکلاہما ثقة۔

۲۔ عند الطبرانی قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۲۸۲) وفيه من لم اعر فهم ۳۔ اخرجه ابو یعلی وفيه محمد بن قدامہ شیخ ابی یعلی ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وغيره وبقية رجاله ثقات كما قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۲۷۵) ۴۔ اخرجه البخاری فی الادب المفرد (ص ۸۰)

دوستی اور قرب صرف ان ہی صفات سے حاصل ہو سکتا ہے۔ جب تک آدمی ایسا نہیں بن جائے گا وہ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے اور چاہے کتنے روزے رکھ لے ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ اب تو لوگوں کا بھائی چارہ صرف دنیاوی امور کی وجہ سے رہ گیا ہے۔

## مسلمان سے بات چیت چھوڑ دینا اور تعلقات ختم کر لینا

حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہؓ کے ماں زاد بھائی حضرت طفیل کے بیٹے حضرت عوفؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے کچھ خرید لیا کچھ ہدیہ میں دیا تو ان کو پتہ چلا کہ (ان کے بھانجے) حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے اس پر یہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم! (یوں کھلا خرچ کرنے سے) یا تو حضرت عائشہؓ از خود رک جائیں ورنہ میں ان پر پلہندی لگا کر انہیں روک دوں گا حضرت عائشہؓ نے پوچھا کیا حضرت عبداللہ نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت عائشہؓ نے کہا میں اللہ کے نذرمانتی ہوں کہ میں لکن زبیرؓ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ جب (بات چیت چھوڑے ہوئے) کافی دن ہو گئے تو حضرت لکن زبیرؓ نے کسی کو اپنا سفارشی بنا کر حضرت عائشہؓ کے پاس بھیجا حضرت عائشہؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! میں لکن زبیرؓ کے بارے میں نہ تو کسی کی سفارش قبول کروں گی اور نہ اپنی نذر توڑوں گی۔ جب حضرت لکن زبیرؓ نے دیکھا کہ بہت زیادہ عرصہ گزر گیا ہے تو انہوں نے قبیلہ بنی زہرہ کے حضرت مسور بن مخرمہ اور حضرت عبدالرحمن بن اسود بن عبد یغوثؓ سے بات کی اور ان سے کہا میں آپ دونوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے حضرت عائشہؓ کے پاس ضرور لے جائیں کیونکہ مجھ سے قطع تعلق کر لینے کی نذر ماننا حضرت عائشہؓ کے لئے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات اپنی چادروں میں لپٹے ہوئے حضرت لکن زبیرؓ کو لے کر آئے اور حضرت عائشہؓ سے اجازت مانگی اور یوں کہا السلام علیک ورحمتہ اللہ وبرکاتہ کیا ہم اندر آجائیں؟ حضرت عائشہؓ نے کہا آ جاؤ ان حضرات نے کہا کیا ہم سب آجائیں؟ حضرت عائشہؓ نے کہا ہاں سب آ جاؤ۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان دونوں کے ساتھ لکن زبیرؓ بھی ہیں جب یہ حضرات اندر گئے تو حضرت ابن زبیرؓ پر دے کے اندر چلے گئے اور حضرت عائشہؓ سے لپٹ گئے اور انہیں اللہ کا واسطہ دے کر رونے لگ گئے اور حضرت مسور اور حضرت عبدالرحمن بھی انہیں واسطہ دینے لگے کہ وہ لکن زبیرؓ سے ضرور بات کر لیں اور ان کے عذر کو قبول کر لیں اور یوں کہا آپ کو معلوم ہے کہ حضورؐ نے کسی مسلمان سے قطع تعلق کر لینے سے منع فرمایا ہے اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ جب ان حضرات نے (صلہ

رحمی اور معاف کرنے کے) فضائل بار بار یاد دلائے اور مسلمان سے قطع تعلق کر لینے کی ممانعت کا بار بار ذکر کیا تو حضرت عائشہؓ ان دونوں کو سمجھانے لگیں اور رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں نے نذر مان رکھی ہے اور نذر کو توڑنا بہت سخت ہے لیکن وہ دونوں حضرات اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت عائشہؓ نے حضرت ابن زبیرؓ سے بات کر ہی لی اور اپنی قسم کے توڑنے کے کفارے میں چالیس غلام آزاد کیئے اور جب انہیں اپنی یہ قسم یاد آئی تو اتار و تہیں کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے گیلا ہو جاتا۔ حضرت عمرؓ بن زبیرؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کے بعد حضرت عائشہؓ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ سے تھی (کیونکہ حضرت عائشہؓ نے اپنے اس بھانجے کی تربیت خود کی تھی) اور وہ بھی حضرت عائشہؓ کے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ کی عادت یہ تھی کہ جو کچھ بھی آتا تھا وہ سارے کا سارا صدقہ کر دیتی تھیں کچھ بچا کر نہیں رکھتی تھیں۔ اس پر حضرت ابن زبیرؓ نے کہا حضرت عائشہؓ کے ہاتھوں کو اتنا زیادہ خرچ کرنے سے روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کیا میرے ہاتھوں کو روکا جائے گا؟ میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ حضرت ابن زبیرؓ (بہت پریشان ہوئے اور) انہوں نے قریش کے بہت سے آدمیوں کو اور خاص طور سے حضور ﷺ کے تنہیال والوں کو اپنا سفارشی بنا کر حضرت عائشہؓ کی خدمت میں بھیجا لیکن حضرت عائشہؓ نے کسی کی سفارش قبول نہ کی آخر حضورؐ کے تنہیال میں سے قبیلہ ہوزہ کے حضرت عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث اور حضرت مسور بن مخرمہؓ نے حضرت ابن زبیرؓ سے کہا جب ہم اجازت لے کر اندر جانے لگیں تو تم پردہ کے اندر چلے جانا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا (آخر حضرت عائشہؓ کی خدمت میں دس غلام بچے جنہیں حضرت عائشہؓ نے (قسم توڑنے کے کفارے میں) آزاد کر دیا اور بعد میں بھی اور غلام آزاد کرتی رہیں یہاں تک کہ چالیس غلام آزاد کر دیئے اور فرمایا (چالیس غلام آزاد کر کے بھی اطمینان نہیں ہو رہا ہے اس لئے) اچھا تو یہ تھا کہ میں نذر میں اپنے ذمہ کوئی عمل مقرر کر لیتی تاکہ اب اسے کر کے میں مطمئن ہو جاتی میں نے تو صرف یہ کہا کہ میں نذر مانتی ہوں کہ ابن زبیرؓ سے بات نہیں کروں گی اور اس میں عمل کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی۔ ۱

۱۔ اخراجہ البخاری (ج ۲ ص ۸۹۷) و اخراجہ البخاری فی الادب المفرد (ص ۵۹) عن عوف بن الحارث بن الطفیل نحوہ  
 ۲۔ اخراجہ البخاری ایضاً فی الصحیح (ج ۱ ص ۴۹۷)



## آپس میں صلح کرانا

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبائل آپس میں لڑ پڑے حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پتھر برسائے۔ حضور ﷺ کو اس کا پتہ چلا تو فرمایا آؤ چلیں ان کی صلح کرائیں۔ حضرت سہل کی ایک روایت میں یہ ہے کہ بعمر و بن عوف کا آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو حضور ﷺ اپنے چند صحابہؓ کو لے کر ان میں صلح کرانے تشریف لے گئے آگے اور بھی مضمون ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اگر آپ عبد اللہ بن ابی کے پاس تشریف لے جائیں تو یہ بہت مناسب ہو گا۔ چنانچہ حضور گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اور مسلمان آپ کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ راستہ کی زمین سوریلی تھی جب حضور اس کے پاس پہنچے تو اس (بدخت) نے کہا آپ مجھ سے دور رہیں اللہ کی قسم! آپ کے گدھے کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس پر ایک انصاری نے کہا اللہ کی قسم! حضور کا گدھا تم سے زیادہ اچھی خوشبو والا ہے۔ یہ سن کر عبد اللہ کی قوم کے ایک آدمی کو غصہ آ گیا اور ان دونوں میں گالم گلوچ شروع ہو گئی اس پر ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھیوں کو غصہ آ گیا یہاں تک کہ وہ چھڑیوں ہاتھوں اور جو توں سے ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں پھر یہ خبر ملی کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی **وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا** (سورت حجرات آیت ۹)

ترجمہ ”اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کرو“ اور ہمارا ہمارا پرسی کے عنوان کے ذیل میں امام بخاری کی یہ حدیث حضرت اسامہؓ کی روایت سے گزر چکی ہے کہ اس پر مسلمان مشرکین اور یہودیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور بات اتنی بڑھی کہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے والے ہی تھے اس لئے حضور ان سب کو ٹھنڈا کرتے رہے یہاں تک کہ سب خاموش ہو گئے۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ لوس اور خزرج انصار کے دو قبیلے تھے اور زمانہ جاہلیت میں ان میں آپس میں بڑی دشمنی تھی جب حضور ﷺ ان کے پاس تشریف لائے تو یہ ساری دشمنی جاتی رہی اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا فرمادی۔ ایک دفعہ یہ حضرات اپنی

۱۔ اخرجه البخاری (ج ۱ ص ۳۷۱) ۲۔ عند البخاری ایضا (ص ۳۷۰)

۳۔ اخرجه البخاری (ج ۱ ص ۳۷۰)

ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اوس کے ایک آدمی نے اوس کی برائی والا شعر پڑھ دیا وہ دونوں باری باری ایسے اشعار پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے لڑنے کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے ہتھیار لے کر لڑنے کیلئے چل دیئے۔ یہ خبر حضورؐ تک پہنچی اور اس بارے میں وحی بھی نازل ہوئی آپ جلدی سے تشریف لائے اور آپ کی پند لیاں کھلی ہوئی تھیں (تاکہ آسانی سے تیز چل سکیں) جب آپ نے ان کو دیکھا تو لوہنجی آواز سے یہ آیت پڑھی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** (سورت آل عمران آیت ۱۰۲)۔

ترجمہ ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا ڈرنے کا حق ہے اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا“ آپ نے مزید اور آیات پڑھیں۔ ان آیات کو سنتے ہی ان حضرات نے اپنے ہتھیار پھینک دیئے اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔

### مسلمان سے سچا وعدہ کرنا

حضرت ہارون بن ریابؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا فلاں آدمی کو تلاش کرو کیونکہ میں نے اسے اپنی بیٹی (کی شادی کرنے) کا ایک قسم کا وعدہ کیا تھا میں نہیں چاہتا کہ اللہ سے میری ملاقات اس حال میں ہو کہ نفاق کی تین نشانیوں میں سے ایک نشانی یعنی وعدہ خلافی مجھ میں ہو اس لئے میں آپ لوگوں کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دی ہے۔

### مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچنا

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے زمانے میں ایک آدمی ایک مجلس کے پاس سے گزر اس آدمی نے سلام کیا جس کا اس مجلس والوں نے جواب دیا جب وہ ان لوگوں سے آگے چلا گیا تو مجلس کے ایک آدمی نے کہا مجھے یہ آدمی بالکل پسند نہیں ہے۔ مجلس کے دوسرے لوگوں نے کہا چپ کرو اللہ کی قسم! ہم تمہاری یہ بات اس آدمی تک ضرور پہنچائیں گے، اے فلاں! جاؤ اور اس نے جو کہا ہے وہ اسے بتادو (چنانچہ اس نے جا کر اس آدمی کو یہ بات بتادی اس پر) اس آدمی نے جا کر حضورؐ کو ساری بات بتادی اور اس آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتادیا اور یوں کہنا رسول اللہ! آپ سے آدمی بچ کر بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے کیوں بغض رکھتا ہے۔ چنانچہ (اس آدمی کے آنے پر) حضورؐ نے اس کو پوچھا کہ تم اس آدمی سے کیوں بغض رکھتے ہو؟ اس آدمی

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۸۰) رواہ الطبرانی فی الصغیر غسان بن الربیع وهو

ضعیف . ۱۵ ۲۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی کنز العمال (ج ۲ ص ۱۵۹)

نے کہا یا رسول اللہ! میں اس کا پڑوسی ہوں اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے اسے کبھی نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا یہ تو بس یہی (فرض) نماز ہی پڑھتا ہے جسے نیک و بد ہر ایک پڑھتا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا ذرا اس سے یہ پوچھیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے نماز کا وضو ٹھیک نہ کیا ہو یا نماز کو بے وقت پڑھا ہو؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ پھر اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ! میں اس کا پڑوسی ہوں اور اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے اسے کبھی کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہوئے (یعنی نفلی صدقہ کرتے ہوئے) نہیں دیکھا بس یہ تو صرف زکوٰۃ ادا کرتا ہے جو نیک و بد ہر ایک ادا کر ہی دیتا ہے دوسرے آدمی نے کہا یا رسول اللہ! آپ اس سے پوچھیں کہ کیا اس نے مجھے کسی سائل کو منع کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ حضورؐ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں۔ پھر اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ! میں اس کا پڑوسی ہوں اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں میں نے اسی کبھی نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا یہ تو بس (رمضان کے) مہینے کے ہی روزے رکھتا ہے جنہیں نیک و بد ہر ایک رکھ ہی لیتا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا یا رسول اللہ! آپ اس سے پوچھیں کہ کیا اس نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ میں بیمار بھی نہ ہوں اور سفر پر بھی نہ ہوں اور پھر میں نے اس دن روزہ نہ رکھا ہو؟ حضورؐ نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا نہیں۔ اس پر حضورؐ نے اس سے فرمایا میرے خیال میں تو یہ آدمی تم سے بہتر ہے (کیونکہ تم میں کدورت ہے اور اس میں نہیں ہے)۔!

## مسلمان کی تعریف کرنا اور تعریف

### کی کون سی صورت اللہ کو ناپسند ہے

حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو لیث کے ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں آ کر تین مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کو شعر سنانا چاہتا ہوں (آخر چوتھی مرتبہ میں حضورؐ نے اجازت دے دی) انہوں نے حضورؐ کو وہ اشعار سنائے جن میں حضورؐ کی تعریف تھی سن کر حضورؐ نے فرمایا اگر کوئی شاعر اچھے شعر کہتا ہے تو تم نے بھی اچھے شعر کہے ہیں۔<sup>۱</sup>

حضرت خالد بن سائبؓ فرماتے ہیں میں حضرت اسامہ بن زیدؓ کے پاس گیا انہوں نے میرے منہ پر میری تعریف کی اور یوں کہا کہ میں نے آپ کے منہ پر آپ کی تعریف اس لئے کی کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب مومن کے منہ پر اس کی تعریف کی جاتی ہے تو

۱۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی کنز العمال (ج ۲ ص ۱۷۰)

۲۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۱۹) وفيه راولم بسم وعطاء بن السائب اختلط

اس کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے (کیونکہ تعریف سے وہ پھولے گا نہیں بلکہ اس کا اعمال پر یقین بڑھے گا کہ نیک اعمال کی وجہ سے لوگ تعریف کر رہے ہیں)!

حضرت مطرفؓ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنا یہ قصہ بیان کیا کہ بنو عامر کے وفد کے ہمراہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں گیا ہم نے عرض کیا آپ ہمارے سردار ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا (حقیقی) سردار تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھر ہم نے عرض کیا آپ فضیلت میں ہم سب سے بڑے ہیں اور ہم سب سے زیادہ سخی ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو بلکہ اس میں کچھ کمی نہ تھی تو اچھا ہے شیطان تم پر غلبہ پا کر تمہیں اپنا وکیل نہ بنا لے (ان لوگوں کے مبالغہ پر حضورؐ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا) رزین نے حضرت انسؓ سے اس جیسی روایت نقل کی ہے اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو درجہ مجھے عطا فرمایا ہے تم مجھے اس سے بڑھاؤ، میں محمد بن عبداللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔<sup>۲</sup>

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا اے ہم میں سے سب سے بہتر کے بیٹے اور اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے! اس پر آپ نے فرمایا تم میرے بارے میں وہ کہو جو میں تمہیں بتلاتا ہوں تاکہ شیطان تمہیں صحیح راستہ سے ہٹا نہ سکے مجھے اسی درجہ پر رکھو جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔<sup>۳</sup>

حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے پاس ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی تو حضورؐ نے اسے تین دفعہ فرمایا تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ تم میں سے کسی نے اگر کسی کی تعریف ضرور ہی کرنی ہو اور اسے اس کی اچھی صفات یعنی طور سے معلوم ہوں تو یوں کہنا چاہیے کہ میرا فلاں کے بارے میں یہ گمان ہے اور اللہ ہی اسے بہتر جانتے ہیں اللہ کے سامنے وہ کسی کو مقدس بنا کر پیش نہ کرے بلکہ یوں کہے میرا گمان یوں ہے میرا خیال یہ ہے۔<sup>۴</sup>

حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے سنا کہ ایک آدمی دوسرے کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں حد سے آگے بڑھ رہا ہے تو فرمایا تم نے (زیادہ تعریف کر کے) اس آدمی کی کمر توڑ دی

۵-

حضرت رجاء بن ابی رجاءؓ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت مجنؓ اسلمیؓ کے ساتھ چلا یہاں

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۱۹) وفيه ابن لهيعة وبقية رجاله وثقوا  
 ۲۔ اخرجه ابو داؤد كذا في جمع الفوائد (ج ۲ ص ۱۵۰) ۳۔ عند ابن النجار كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۸۲) واخرجه احمد عن انس نحوه كما في البداية (ج ۲ ص ۴۴)  
 ۴۔ اخرجه الشيخان وابو داؤد كذا في جمع الفوائد (ج ۲ ص ۱۵۰)  
 ۵۔ عند البخاري ايضا كما في الكنز (ج ۲ ص ۱۸۲)

تک کہ ہم بصرہ والوں کی مسجد تک پہنچے تو وہاں مسجد کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر حضرت بریدہؓ بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد میں سبکہ نامی آدمی بڑی لمبی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت بریدہ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور ان کی طبیعت میں مزاج بہت تھا اس لئے انہوں نے کہا اے حُجْن! کیا آپ بھی ویسی نماز پڑھتے ہیں جیسی سبکہ پڑھتے ہیں۔ حضرت حُجْن نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور واپس آگئے اور حضرت حُجْن نے کہا ایک دفعہ حضور ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا پھر ہم لوگ چلنے لگے اور چلتے چلتے ہم احد پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضور نے مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا ہائے حسرت اور افسوس ایک دن اس بستی کو بستی والے چھوڑ دیں گے حالانکہ اس دن یہ بستی بہت زیادہ آباد ہوگی۔ دجال مدینہ آئے گا لیکن اسے مدینہ کے ہر دروازے پر فرشتے ملے گا اس لئے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا پھر حضور احد پہاڑ سے نیچے اترے جب ہم مسجد پہنچے تو حضور نے ایک آدمی کو رکوع سجدہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! یہ فلاں ہے اور اس کی بہت زیادہ تعریف کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا بس کرو اس کی تعریف اسے نہ سناؤ ورنہ یہ ہلاک ہو جائے گا پھر آپ چلنے لگے اور جب اپنے حجروں کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ کر تین دفعہ فرمایا تو تمہارے دین کا سب سے بہترین عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔

اسی روایت کو امام احمد نے بھی ذرا تفصیل سے نقل کیا ہے ان کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حُجْن نے فرمایا کہ میں حضور کے سامنے اس نمازی کی تعریف مبالغہ کے ساتھ کرنے لگا اور میں نے کہا یا رسول اللہ! یہ فلاں آدمی ہے اور اس میں یہ اور یہ خوبیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا خاموش ہو جاؤ اسے یہ باتیں نہ سناؤ ورنہ تم اسے ہلاک کر دو گے۔ پھر حضور چلنے لگے جب ہم حجرہ کے پاس پہنچ گئے تو حضور نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا پھر آپ نے فرمایا تمہارے دین کا سب سے بہترین عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، تمہارے دین کا سب سے بہترین عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔

امام احمد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت حُجْن فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا نبی اللہ! یہ فلاں ہیں اور مدینہ والوں میں سے سب سے اچھے ہیں اور مدینہ والوں میں سے سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ حضور نے دو یا تین مرتبہ فرمایا اسے مت سناؤ ورنہ تم اسے ہلاک کر دو

گئے۔ پھر فرمایا تم ایسی امت ہو جس کے ساتھ اللہ نے آسانی کا ارادہ فرمایا ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت ابو ایمن تیمی کے والد بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی نے ان کے پاس آکر سلام کیا لوگوں میں سے ایک آدمی نے اس کے منہ پر اس کی تعریف کرنی شروع کر دی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم نے تو اس آدمی کو ذبح کر ڈالا اللہ تمہیں ذبح کرے تم اس کے منہ پر اس کے دین کے بارے میں اس کی تعریف کر رہے ہو۔<sup>۲</sup>

حضرت حسنؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس کوڑا بھی رکھا ہوا تھا اور لوگ بھی حضرت عمرؓ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے حضرت جباروڈ آئے تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ قبیلہ ربیعہ کے سردار ہیں اس کی اس بات کو حضرت عمرؓ نے اور ان کے اس پاس کے لوگوں نے اور خود حضرت جباروڈ نے بھی سن لیا۔ جب حضرت جباروڈ حضرت عمرؓ کے قریب آگئے تو حضرت عمرؓ نے ان کو کوڑا مارا۔ حضرت جباروڈ نے کہا اے امیر المؤمنین! میں نے آپ کا کیا قصور کیا ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم نے میرا کیا قصور کیا ہے؟ کیا تم نے اس کی بات کو نہیں سنا ہے؟ حضرت جباروڈ نے کہا سنا ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ (اس کے تعریفی کلمات سن کر) کہیں تمہارے دل میں (عجب اور کبر بوائی وغیرہ کا) اثر نہ پیدا ہو جائے اس لئے میں نے چاہا کہ یہ سارا اثر جھاڑ دوں۔<sup>۳</sup>

حضرت ہمام بن حادثؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عثمانؓ کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقدادؓ جو بھاری بھر کم تھے وہ اس آدمی کی طرف گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے منہ پر کنکریوں کی لہلیں بھر کر ڈالنے لگے۔ حضرت عثمانؓ نے ان سے فرمایا آپ کو کیا ہوا گیا؟ حضرت معاذؓ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم (دنیاوی مفاد میں حاصل کرنے کے لئے اور لوگوں کو بگاڑنے کے لئے) تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈال دیا کرو (حضرت مقدادؓ نے اس کا ظاہری مطلب مراد لیا ہے لیکن بظاہر حضورؐ کا مقصد یہ ہے کہ اسے کچھ نہ دو)۔<sup>۴</sup>

حضرت ابو معمرؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر ایک امیر کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقدادؓ اس پر مٹی ڈالنے لگے اور فرمایا حضور ﷺ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ (غلط مقصد کے لئے) تعریف کرنے والوں کے چہروں پر ہم مٹی ڈالا کریں۔<sup>۵</sup>

۱۔ اخرجہ احمد ایضا من طریق عبداللہ شقیق واخرجہ ابن جریر والطبرانی مختصراً کما فی کنز العمال (ج ۲ ص ۱۸۲) ۲۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ والبخاری فی الادب عن ابراہیم التیمی عن ابیہ کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۱۸۲) ۳۔ اخرجہ ابن ابی الدنیا کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۱۶۷) ۴۔ اخرجہ مسلم (ج ۲ ص ۴۱۴) واللفظ لہ وابو دانود (ج ۵ ص ۲۴۱) ۵۔ اخرجہ مسلم ایضا والترمذی (ج ۲ ص ۶۲) والبخاری فی الادب (ص ۵۰)

حضرت عطاء بن ابی رباحؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ کے پاس ایک آدمی دوسرے آدمی کی تعریف کرنے لگا تو حضرت ابن عمرؓ اس کے چہرے کی طرف مٹی ڈالنے لگے اور فرمایا حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈالو۔<sup>۱</sup>

حضرت عطاء بن ابی رباحؓ اس کے چہرے پر مٹی ڈالنے لگے اور فرمایا میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈالو۔<sup>۲</sup>

حضرت نافعؓ اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمرؓ سے کہا اے لوگوں میں سے سب سے بہتر! یا یوں کہا اے لوگوں میں سے سب سے بہتر کے بیٹے! تو حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا نہ میں لوگوں میں سے سب سے بہتر ہوں اور نہ سب سے بہتر کا بیٹا ہوں بلکہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں اللہ کی قسم! (بلاوجہ تعریفیں کر کے) تم آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہو اور پھر اسے ہلاک کر کے چھوڑتے ہو (کہ اس کے دل میں عجب وبہوائی پیدا ہو جاتی ہے)۔<sup>۳</sup>

حضرت طارق بن شہابؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا بعض دفعہ آدمی اپنے گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا دین ہوتا ہے لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو اس وقت اس کے پاس دین میں سے کچھ باقی نہیں ہوتا اس کی صورت یہ ہے کہ وہ آدمی باہر جا کر ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے جو اپنے نفع نقصان کا مالک ہے اور نہ اس کے نفع نقصان کا اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ آپ ایسے ہیں اور وہ اس حال میں واپس آتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت بھی پوری نہیں ہوئی ہوتی اور وہ (غلط تعریف کر کے) اللہ کو اپنے پر ناراض بھی کر چکا ہوتا ہے۔<sup>۴</sup>

## صلہ رحمی اور قطع رحمی

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ (نبوت سے پہلے) قریش شدید قحط میں مبتلا ہوئے حتیٰ کہ انہیں پرانی ہڈیاں تک کھانی پڑیں اور اس وقت حضور ﷺ اور حضرت ابن عباسؓ بن عبدالمطلبؓ سے زیادہ خوش حال قریش میں کوئی نہیں تھا۔ حضورؐ نے حضرت عباسؓ سے فرمایا اے پچا جان! آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کے بھائی ابو طالب کے بچے بہت زیادہ ہیں اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ قریش پر سخت قحط آیا ہوا ہے آئیے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے

۱۔ اخرجه البخاری فی الادب (ص ۵۱) ۲۔ عند احمد والطبرانی قال الهیثمی (ج ۸ ص

۱۱۷) رواه احمد و الطبرانی فی الکبیر والایوسط و رجالہ رجال الصحیح ۱۰

۳۔ عند ابی نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۰۷) ۴۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج

۸ ص ۱۱۸) رواه الطبرانی باسنادہ و رجال احدہا رجال الصحیح

پچھے ہم سنبھال لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے جا کر ابو طالب سے کہا اے ابو طالب! آپ اپنی قوم کا (برا) حال دیکھ ہی رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ بھی قریش کے ایک فرد ہیں (قط سے آپ کا حال بھی برا ہو رہا ہے) ہم آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں تاکہ آپ کے کچھ پچھے ہم سنبھال لیں ابو طالب نے کہا (میرے بڑے بیٹے) عقیل کو میرے لئے رہنے دو اور باقی بچوں کے ساتھ تم جو چاہو کرو۔ چنانچہ حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عباسؓ کو لے لیا یہ دونوں ان حضرات کے پاس اس وقت تک رہے جب تک یہ مالدار ہو کر خود کفیل نہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان بن داؤد رومی کہتے ہیں کہ حضرت جعفر حضرت عباس کے پاس رہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ۱۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جویریہؓ نے حضور ﷺ سے عرض کیا میں یہ غلام آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا تم یہ غلام اپنے اس ماموں کو دے دو جو دیہات میں رہتے ہیں یہ ان کے جانور چرایا کرے گا اس میں تمہیں ثواب زیادہ ملے گا۔ ۲۔

حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی و آت ذال لقربیٰ حفہ (سورت اسراء

آیت ۲۶)

ترجمہ ”اور قرابت دار کو اس کا حق (مالی و غیر مالی) دیتے رہنا“ حضور ﷺ نے فرمایا اے فاطمہؓ! فدک بستنی (کی آمدنی) تمہاری ہے (فدک بستنی حجاز میں مدینہ سے دو تین دن کے فاصلہ پر تھی جو حضورؐ کو مال غنیمت میں ملی تھی) ۳۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ! میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں میں برداشت کر کے ان سے دگرگزر کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں (بلاوجہ مجھ پر ناراض ہوتے ہیں اور مجھ پر سختی کرتے ہیں) حضور نے فرمایا اگر تم ویسے ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ کی پھٹکی ڈال رہے ہو (تمہارے حسن سلوک کے بدلہ میں برا سلوک کر کے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں) اور جب تک تم ان صفات پر رہو گے اس وقت تک تمہارے

۱۔ اخراجہ البزار قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۵۳) وفيه من لم اعرفهم

۲۔ اخراجہ البزار ورجاله رجال الصحیح كما قال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۵۳)

۳۔ اخراجہ الحاکم فی تاریخہ و ابن النجار قال الحاکم تفروبه ابراہیم بن محمد بن میمون عن علی بن عباس کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۸)



ساتھ اللہ کی طرف سے مددگار رہے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ! میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ساتھ میں رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ رشتہ توڑتے ہیں اور میں انہیں معاف کرتا ہوں وہ پھر بھی مجھ پر ظلم کرتے جاتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو کیا میں ان کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دوں؟ حضورؐ نے فرمایا اس طرح تو تم سب (ظلم میں) شریک ہو جاؤ گے بلکہ تم فضیلت والی صورت اختیار کرو اور انہیں صلہ رحمی کرتے رہو جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اس وقت تک تمہارے ساتھ ایک مددگار فرشتہ رہے گا۔

حضرت عثمان بن عفانؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو ایوب سلیمانؓ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ شب جمعہ میں جمعرات کی شام کو ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا ہماری اس مجلس میں جو بھی قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہوا ہے میں اسے پوری تاکید سے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چلا جائے۔ اس پر کوئی کھڑا نہ ہوا۔ انہوں نے یہ بات تین دفعہ کہی تو اس پر ایک جوان اپنی پھوپھی کے پاس گیا جس سے اس نے دو سال سے تعلقات ختم کر رکھے تھے اور اسے چھوڑا ہوا تھا وہ جب اپنی پھوپھی کے پاس پہنچا تو پھوپھی نے اس سے پوچھا میاں تم کیسے آگئے؟ اس نے کہا میں نے ابھی حضرت ابو ہریرہؓ کو ایسے اور ایسے فرماتے ہوئے سنا ہے (اس وجہ سے آیا ہوں) پھوپھی نے کہا ان کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ انہوں نے ایسے کیوں فرمایا ہے؟ (اس نوجوان نے واپس جا کر ان سے پوچھا تو) حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شب جمعہ میں ہر جمعرات کی شام کو تمام بنی آدم کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں (اور انسانوں کے اعمال تو قبول ہو جاتے ہیں لیکن) قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔

حضرت اعمشؓ کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد حضرت ابن مسعودؓ ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا میں قطع رحمی کرنے والے کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چلا جائے کیونکہ ہم اپنے رب سے دعا کرنے لگے ہیں اور آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والے کیلئے بند رہتے ہیں (تو اس کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول نہ ہوگی)۔

۱۔ اخرجه مسلم (ج ۲ ص ۳۱۵) واخرجه البخاری فی الادب (ص ۱۱) عن ابی ہریرۃ مثله  
 ۲۔ عند احمد وفيه حجاج بن ارطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات كما قال الهيثمي (ج ۸ ص ۱۵۴)  
 ۳۔ اخرجه البخاری فی الادب (ص ۱۲) ۴۔ اخرجه الطبرانی قال الهيثمي (ج ۸ ص ۱۵۱) رواه الطبرانی ورجالہ رجال الصحیح الا ان الاعمش لم يدرك ابن مسعود . انتهى

نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کے اخلاق و عادات  
کیسے تھے اور ان کی آپس کی معاشرت کیسی تھی

## حسن اخلاق کا بیان

### نبی کریم ﷺ کے اخلاق

حضرت سعد بن ہشام کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہؓ کی خدمت میں عرض کیا آپ مجھے بتائیں کہ حضور ﷺ کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا حضور کے اخلاق قرآن ہے (یعنی آپ کے اخلاق قرآن میں مذکور ہیں یا جو اخلاق قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب حضور میں تھے)۔ اس لئے سعد کی روایت میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ قرآن لوگوں کے سب سے اچھے اخلاق لے کر آیا ہے۔<sup>۱</sup>  
حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے حضور ﷺ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا حضور کے اخلاق قرآن ہے جہاں قرآن راضی ہوتا ہے وہاں حضور راضی ہوتے تھے اور جہاں قرآن ناراض ہوتا ہے وہاں حضور تندہ نص ہوتے تھے۔<sup>۲</sup>  
حضرت زید بن باہوس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے ام المومنین! حضور ﷺ کے اخلاق کیسے تھے؟ آگے کچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کیا تم نے سورت مومنون پڑھی ہے؟ قد افلح المومنون سے دس آیتیں پڑھو (میں نے دس آیتیں پڑھیں تو) فرمایا بس ان آیتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سب کچھ حضور کے اخلاق تھے۔<sup>۳</sup>

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ کوئی آدمی حضور ﷺ سے زیادہ اچھے اخلاق والا نہیں تھا جب بھی آپ کو آپ کا کوئی صحابی پکارتا یا گھر کا کوئی آدمی پکارتا تو آپ اس کے جواب میں لبیک کہتے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی **وَ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** (سورت نون آیت ۴) ترجمہ ”بے شک آپ اخلاق (حسن) کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں“<sup>۴</sup>

۱۔ اخرجه مسلم واخرجه احمد عن جبير بن نفير والحسن البصرى عن عائشة نحوه كمافى البداية (ج ۶ ص ۳۵) ۲۔ اخرجه ابن سعد (ج ۱ ص ۹۰) عن سعد بن هشام عن عائشة نحوه واخرجه ابو نعيم فى دلائل النبوة (ص ۵۶) عن جبير بن نفير عن عائشة نحوه وابن سعد (ج ۱ ص ۹۰) عن مسروق عنها نحوه. ۳۔ عند يعقوب بن سفيان ۴۔ اخرجه البهقي ورواه النسائي كمافى البداية (ج ۶ ص ۳۵) ۵۔ اخرجه ابو نعيم فى الدلائل (ص ۵۷) عن عروة

قبیلہ عوسرہ کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے کہا کہ آپ مجھے حضور ﷺ کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کیا تم قرآن کی یہ آیت **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** نہیں پڑھتے ہو؟ (لو حضورؐ کے حسن اخلاق کا قصہ سنو) ایک مرتبہ حضورؐ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حضورؐ کے لئے کھانا تیار کر رہی تھی اور حضرت حصہؓ بھی تیار کر رہی تھیں لیکن انہوں نے مجھ سے پہلے کھانا تیار کر لیا (اور حضورؐ کی خدمت میں پہنچ دیا مجھے پتہ چلا کہ وہ کھانا پہنچ رہی ہیں تو) میں نے باندی سے کہا جا اور حصہؓ کا پیالہ الٹ دے کھانا ادا کر اور پھر گیا (اور پیالہ ٹوٹ گیا) حضورؐ نے پیالہ کے ٹکڑے جمع کیئے اور جو کھانا زمین پر پھرا گیا تھا اسے بھی جمع کیا اور اس کھانے کو آپؐ اور صحابہ نے نوش فرمایا پھر میں نے اپنا پیالہ بھیجا۔ حضورؐ نے وہ سارا پیالہ حضرت حصہؓ کے پاس پہنچ دیا۔ اور فرمایا اپنے برتن کی جگہ یہ برتن لے لو اور اس میں جو کھانا ہے اسے کھا لو۔ میں نے حضورؐ کے چہرے پر اس واقعہ سے ناگواری کا اثر کچھ بھی نہ دیکھا۔

حضرت خارجہ بن زیدؓ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے والد حضرت زید بن ثابتؓ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ ہمیں حضور ﷺ کے کچھ اخلاق بتائیں۔ حضرت زیدؓ نے فرمایا میں حضورؐ کا پڑوسی تھا جب آپؐ پر وحی نازل ہوتی تو آپؐ میرے پاس پیغام بھیجتے میں اگر وحی لکھ لیتا جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپؐ بھی اس کا ذکر فرماتے اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپؐ بھی ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر فرماتے اور جب ہم کھانے پینے کی بات کرتے تو آپؐ بھی کرتے (یعنی آپؐ ہمارے ساتھ گھل مل کر بے تکلفی سے رہتے اور مباح باتوں میں ہمارا ساتھ دیتے) یہ سب کچھ میں حضورؐ کی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔

حضرت صفیہ بنت حبیبیؓ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا (حضورؐ کے حسن اخلاق کا قصہ تم کو سناتی ہوں) حضورؐ نے خیبر سے واپسی پر مجھے اپنی لونٹنی کے پیچھے بٹھا رکھا تھا رات کا وقت تھا میں لوگ گھنے لگی تو میرا سر کجاوے کی پھچلی لکڑی کے ساتھ ٹکرانے لگا۔ حضورؐ نے اپنے ہاتھ سے مجھے ہلا کر فرمایا راری ٹھہر جا! صفیہ بنت حبیبیؓ! ٹھہر جا! (یہ کوئی سونے کا وقت ہے) جب حضورؐ صہباء مقام پر پہنچے تو فرمایا اے صفیہ! مجھے تمہاری قوم (یہود خیبر) کے ساتھ جو کچھ کرنا پڑا میں اس کی تم سے معذرت چاہتا ہوں اصل میں انہوں نے میرے بارے میں

۱ عند ابن ابی شیبہ عن قیس بن وہب کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۴۴)

۲ اخروجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۵۷) واخروجه الترمذی (ص ۲۵) نحوہ وکذا لک البیهقی

کما فی البدایہ (ج ۶ ص ۴۲) والطبرانی کما فی المجمع (ج ۹ ص ۱۷) وقال واسنادہ حسن وابن

ابی دائود فی المصاحف وابو یعلیٰ والر ویانی وابن عساکر کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۸۵)

واخروجه ابن سعد (ج ۱ ص ۹۰) ایضا نحوہ

یہ کہا تھا (حضورؐ ان یہودیوں کی بری حرکتوں اور اسلام کے خلاف سازشوں کا ذکر کرتے رہے)۔  
حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ سب لوگوں سے زیادہ مہربان تھے اللہ کی قسم!  
سخت سردی کی صبح کو جو بھی غلام یا باندی یا بچہ آپؐ کی خدمت میں پانی لاتا (تاکہ آپؐ اسے  
استعمال کر لیں اور پھر وہ اسے برکت کے لئے واپس لے جائے) تو آپؐ انکار نہ فرماتے بلکہ  
(سخت سردی کے باوجود) آپؐ اس پانی سے چہرہ اور ہاتھ دھو لیتے اور جب بھی آپؐ سے کوئی  
آدمی بات پوچھتا تو آپؐ پوری توجہ سے اس کی بات سنتے اور اپنا کان اس کے قریب کر دیتے اور  
آپؐ اس کی طرف متوجہ ہی رہتے اور وہی آپؐ کو چھوڑ جاتا تو جاتا اور جب آپؐ کا ہاتھ پکڑنا چاہتا  
تو آپؐ اسے پکڑنے دیتے اور وہی آپؐ کا ہاتھ چھوڑتا تو چھوڑتا آپؐ نہ چھوڑتے۔<sup>۱</sup>

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو مدینہ کے  
خادم یعنی غلام اور باندیاں اپنے برتنوں میں پانی لے کر آتے آپؐ کے پاس جو بھی برتن لایا جاتا  
آپؐ (برکت کے لئے) اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیتے۔ بعض دفعہ یہ لوگ سردیوں کی صبح میں  
ٹھڈ پانی لاتے تو حضورؐ اس میں بھی ہاتھ ڈال دیتے۔<sup>۲</sup>

حضرت انسؓ فرماتے ہیں جب حضورؐ کسی سے مصافحہ فرماتے یا کوئی آپؐ سے مصافحہ  
کر تا تو آپؐ اس سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے بلکہ وہی آدمی اپنا ہاتھ حضورؐ کے ہاتھ سے علیحدہ کر تا اور اگر  
کوئی آدمی آپؐ کی طرف منہ کر کے بات کر تا تو آپؐ اس کی طرف متوجہ ہی رہتے یہاں تک کہ  
فارغ ہو کر وہی آدمی آپؐ سے چہرہ پھیر لیتا اور کبھی کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ حضورؐ نے  
اپنے پاؤں اپنے پاس بیٹھنے والے کی طرف پھیلا رکھے ہوں (یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا)۔<sup>۳</sup>

حضرت انسؓ فرماتے ہیں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی حضورؐ کے کان میں بات  
کر رہا ہو اور حضورؐ اس سے اپنا سر دور کر لیں بلکہ وہی آدمی اپنا سر دور کر تا اور یہ بھی کبھی  
نہیں دیکھا کہ حضورؐ کا ہاتھ کسی آدمی نے پکڑ رکھا ہو اور حضورؐ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑ لیا ہو  
بلکہ وہی آدمی حضورؐ کا ہاتھ چھوڑتا۔<sup>۴</sup>

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں جب بھی کوئی آدمی حضورؐ کا ہاتھ پکڑ لیتا تو حضورؐ اس کا  
ہاتھ نہ چھوڑتے وہی حضورؐ کا ہاتھ چھوڑتا تو چھوڑتا اور نہ کبھی آپؐ کے گھٹنے پاس بیٹھنے والے

۱۔ اخروجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۵) رواه الطبرانی فی الاوسط وابو یعلی باختصار  
ورجالہما ثقات الا ان الربیع ابن اخی صفیۃ بنت حی لم اعرفہ اہ

۲۔ اخروجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۵۷) عند مسلم (ج ۲ ص ۲۵۶)

۳۔ عند یعقوب بن سفیان ورواه الترمذی وابن ماجہ کما فی البدایۃ (ج ۶ ص ۳۹) وابن سعد (ج

۱ ص ۹۹) نحوہ عند ابی دائود تفرده ابو دائود کذا فی البدایۃ (ج ۶ ص ۳۹)

کے سامنے پھیلے ہوئے دکھائی دیئے اور جب بھی آپ سے کوئی مصافحہ کرتا تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے اور اس وقت تک دوسری طرف متوجہ نہ ہوتے جب تک وہ اپنی بات سے فارغ نہ ہو لیتا۔<sup>۱</sup>

حضرت انسؓ فرماتے ہیں مدینہ والوں کی کوئی نبی اگر حضور ﷺ کا ہاتھ پکڑ لیتی تو حضور اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے اور پھر وہ جہاں چاہتی حضور کو لے جاتی۔<sup>۲</sup> حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ مدینہ والوں کی باندی حضور ﷺ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنی ضرورت کے لئے جہاں چاہے لے جاتی۔<sup>۳</sup> حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی عقل میں کچھ خلل تھا اس نے کہا یا رسول اللہ! مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حضور نے فرمایا اے ام قلاں! تم جو نسی گلی چاہو دیکھ لو میں وہاں تمہارا کام کر دوں گا (گلی اس لئے مقرر کروائی تاکہ اس کا کام بھی کر دیں اور اجنبی عورت سے خلوت بھی نہ ہو گلی تو عام گزر گاہ ہوتی ہے چنانچہ اس نے ایک گلی بتائی) حضور نے اس گلی میں جا کر ایک طرف ہو کر علیحدگی میں اس کی بات سنی یہاں تک کہ اس نے اپنی ضرورت کی ساری بات کہہ لی۔<sup>۴</sup> حضرت محمد بن مسلمہؓ فرماتے ہیں میں ایک سفر سے واپس آیا تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چھوڑا ہی نہیں آخر میں نے ہی آپ کا ہاتھ چھوڑا۔<sup>۵</sup>

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں جب بھی حضور ﷺ کو دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو جو ان دونوں میں سے زیادہ آسان ہوتا اسے اختیار فرماتے بھر طیکہ وہ کام گناہ نہ ہوتا اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہتے اور حضور کبھی بھی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں لیتے تھے ہاں کسی کو اللہ کا حرام کردہ کام کرتے ہوئے دیکھتے تو اس سے ضرور بدلہ لیتے لیکن یہ بدلہ لینا اللہ کیلئے ہوتا۔<sup>۶</sup> حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے ہاتھ سے کبھی اپنے کسی خادم کو یا کسی عورت کو یا کسی اور چیز کو نہیں مارا اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے ہوئے کسی کو مارا ہو تو اور بات ہے اور جب بھی آپ کو دو (دنیوی) کاموں میں اختیار دیا جاتا تو دونوں میں سے جو زیادہ آسان ہو تا وہی آپ کو زیادہ پسند ہوتا۔ بھر طیکہ وہ کام گناہ نہ ہوتا اگر وہ گناہ ہوتا تو حضور اس سے سب سے زیادہ دور رہتے اور آپ کے ساتھ کتنی بھی زیادتی کی جاتی آپ اپنی ذات کی وجہ سے

۱۔ عند البزارو الطبرانی و اسناد الطبرانی حسن كما قال الهيثمي (ج ۹ ص ۱۵)

۲۔ عند احمد و رواه ابن ماجه ۳۔ عند احمد و رواه البخاری فی كتاب الادب من صحيحه

معلقا كما في البداية (ج ۶ ص ۳۹) ۴۔ رواه مسلم في صحيحه (ج ۲ ص ۲۵۶) و اخرجه ابو نعیم فی

دلائل النبوة (ص ۵۷) عن انس مثله ۵۔ اخرجه الطبرانی وفيه الجلدین ابوب وهو ضعيف كما قال

الهيثمي (ج ۹ ص ۱۷) ۶۔ اخرجه مالك و اخرجه البخاری و مسلم. كما في البداية (ج ۶ ص ۳۶)

و اخرجه ابو داود و النسائي و احمد كما في الكنز (ج ۴ ص ۴۷) و ابو نعیم فی الدلائل (ص ۵۷)

کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے البتہ کوئی اللہ کا حکم توڑتا تو اس سے اللہ کے لئے بدلہ لیتے۔<sup>۱</sup>  
حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور ﷺ نے اپنی ذات کے لئے  
کبھی کسی کے ظلم کا بدلہ لیا ہو، البتہ جب اللہ کا حکم توڑا جاتا تو حضور اُس پر سب سے زیادہ  
ناراض ہوتے اور جب بھی آپ کو دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو دونوں میں سے جو زیادہ آسان  
ہوتا اسے ہی اختیار فرماتے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہوتا۔<sup>۲</sup>

حضرت ابو عبد اللہ جدلیؓ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہؓ سے حضور ﷺ کے اخلاق کے  
بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا حضورؐ نہ تو طبعاً فحش گو تھے اور نہ تکلف فحش بات کرتے  
تھے اور نہ بازاروں میں چلاتے اور شور مچاتے تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ  
معاف فرمادیتے اور درگزر فرماتے۔<sup>۳</sup>

حضرت توامہ کے غلام حضرت صالحؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ حضور ﷺ کے اوصاف  
بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ حضورؐ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے  
اور جب کسی سے توجہ ہٹاتے تو اوہر سے اپنا سارا جسم ہٹا لیتے۔ میرے مال باپ آپ پر قربان نہ  
آپ طبعاً فحش بات کرنے والے تھے اور نہ تکلف فحش بات کیا کرتے تھے اور نہ آپ بازاروں میں  
شور مچانے والے تھے۔<sup>۴</sup> اور نہ میں نے آپ سے پہلے جیسا دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔<sup>۵</sup>

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو نہ گالی دینے کی عادت تھی اور نہ کسی پر لعنت  
کرنے کی اور نہ آپ طبعاً فحش گو تھے اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو یوں فرماتے کہ فلاں کو کیا  
ہوا؟ اسکی پیشانی خاک آلود ہو جائے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نہ  
طبعاً فحش گو تھے اور نہ تکلف۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں  
جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔<sup>۶</sup>

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہؓ میرا  
ہاتھ پکڑ کر مجھے حضورؐ کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! انسؓ سمجھدار لڑکا ہے

۱۔ عند احمد کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۳۶) واخرجه مسلم (ج ۲ ص ۲۵۶) و ابو نعیم فی الدلائل  
مختصراً و عبد لوزاق و عبد بن حمید و الحاکم نحو حدیث احمد کما فی الكنز (ج ۴ ص ۴۷)  
۲۔ عند الترمذی فی الشمائل (ص ۲۵) واخرجه ابو یعلی و الحاکم کما فی الكنز (ج ۴ ص ۴۷)  
۳۔ اخرجه ابو داؤد و الطیالسی و فی آخر الحدیث اوقال یغفو یغفر شک ابو داؤد و الترمذی  
وقال حسن صحیح کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۳۶) واخرجه ابن سعد (ج ۱ ص ۹۰) عن ابی عبد اللہ  
عن عائشہ نحوہ و احمد و الحاکم کما فی الكنز (ج ۴ ص ۴۷) ۴۔ عند یعقوب بن سفیان  
۵۔ زاده آدم ۶۔ عند احمد و رواہ البخاری  
۷۔ عند البخاری ایضاً و رواہ مسلم کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۳۶)

یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضورؐ کی سفر حضر میں خدمت کی اللہ کی قسم! میں نے جو کام کیا اس پر آپؐ نے کبھی یہ نہیں فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور جو کام میں نے نہ کیا ہو اس پر آپؐ نے کبھی یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا! حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ سے زیادہ باعلاق تھے ایک مرتبہ آپؐ نے مجھے کسی کام سے بھیجا میں نے اوپر سے ویسے ہی کہا اللہ کی قسم! میں نہیں جاؤں گا اور دل میں یہ تھا کہ جس کام کا حضورؐ حکم دے رہے ہیں میں اس کے لئے ضرور جاؤں گا چنانچہ میں وہاں سے باہر گیا تو میرا گزر چند بچوں پر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے (میں وہاں کھڑا ہو گیا) اچانک حضورؐ نے آکر پیچھے سے میری گدی پکڑ لی۔ میں نے حضورؐ کی طرف دیکھا تو حضورؐ ہنس رہے تھے۔ آپؐ نے فرمایا اے چھوٹے سے انس! جہاں جانے کو میں نے تمہیں کہا تھا تم وہاں گئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں ابھی جاتا ہوں۔ اللہ کی قسم! میں نے حضورؐ کی نو سال خدمت کی ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی (غلط) کام کر دیا ہو تو اس پر حضورؐ نے فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ یا کوئی کام چھوڑ دیا ہو تو یہ فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ حضرت انسؓ فرماتے ہیں میں نے حضورؐ کی دس سال خدمت کی اللہ کی قسم! اس سارے عرصہ میں آپؐ نے نہ تو کبھی مجھے اف فرمایا اور نہ کبھی کسی کام کے لئے یہ فرمایا یہ کیوں کیا؟ یا یہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت انسؓ فرماتے ہیں میں نے دس سال حضورؐ کی خدمت کی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حضورؐ نے مجھے کام بتایا ہو اور میں نے اس میں سستی کی ہو یا اسے بگاڑ دیا ہو اور حضورؐ نے مجھے ملامت کی ہو بلکہ اگر آپؐ کے گھر میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا تو حضورؐ اسے فرماتے اسے چھوڑو اگر یہ کام ہونا مقدر ہوتا تو ہو جاتا۔ ۱

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی سال حضورؐ کی خدمت کی ہے آپؐ نے نہ کبھی مجھے گالی دی اور نہ کبھی مجھے مارا اور نہ کبھی ڈانسا اور نہ کبھی تیوری چڑھائی اور اگر آپؐ نے مجھے کوئی کام بتایا اور اس میں مجھ سے سستی ہو گئی تو آپؐ اس پر مجھ سے ناراض نہیں ہوئے بلکہ اگر آپؐ کے گھر والوں میں سے کوئی ناراض ہوتا تو اسے فرماتے اسے چھوڑو اگر یہ کام مقدر ہوتا تو یہ ضرور ہو جاتا۔ ۲

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب حضورؐ مدینہ تشریف لائے تو میری عمر آٹھ سال تھی۔ میری والدہ مجھے ساتھ لے کر حضورؐ کی خدمت میں گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ! میرے علاوہ انصار کے تمام مردوں اور عورتوں نے آپؐ کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیا ہے اور میرے

۱۔ اخرجه مسلم (ج ۲ ص ۲۵۳) ۲۔ عند مسلم ایضا ۳۔ عند مسلم ایضا وزاد ابو الربیع ہشی

لیس مما یصنعه الخادم ولم یدکر قوله واللہ واخرجه البخاری عن انس بنحوہ

۴۔ عند احمد کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۳۷) واخرجه ابن سعد (ج ۷ ص ۱۱) عن انس منہلہ.

۵۔ عند ابی نعیم فی الدلائل (ص ۵۷)

پاس تحفہ دینے کیلئے اس بیٹے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اسلئے آپ اسے میری طرف سے قبول فرمائیں جب تک آپ چاہیں گے یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ چنانچہ میں نے حضورؐ کی دس سال خدمت کی اس عرصہ میں آپ نے نہ تو کبھی مجھے مارا نہ مجھے گالی دی اور نہ کبھی تیوری چڑھائی۔<sup>۱</sup>

## نبی کریم ﷺ کے صحابہ کے اخلاق

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ قریش کے تین آدمی ایسے ہیں جن کے چہرے سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں اور جن میں حیا سب سے زیادہ ہے اگر یہ حضرات تم سے بات کریں تو کبھی غلط بات نہیں کہیں گے اور اگر تم ان سے کوئی بات کرو گے تو وہ تمہیں جھوٹا نہیں سمجھیں گے وہ حضرات یہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم۔<sup>۲</sup>

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ قریش کے تین آدمی ایسے ہیں جن کے اخلاق سب سے عمدہ اور جن میں حیا سب سے زیادہ ہے وہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم ہیں۔<sup>۳</sup>

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں اپنے صحابہ میں سے جس کے بھی اخلاق پر گرفت کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں بس ایک ابو عبیدہ بن جراح ایسے ہیں کہ ان کی گرفت نہیں کر سکتا۔<sup>۴</sup>

حضرت عبدالرحمن بن عثمان قریشیؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے وہ (اپنے خاوند) حضرت عثمان کا سردھور ہی تھیں حضور نے فرمایا اے بیٹا! ابو عبداللہ (یعنی حضرت عثمانؓ) کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو کیونکہ میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ ان کے اخلاق مجھ سے مشابہ ہیں۔<sup>۵</sup>

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور ﷺ کی بیٹی، حضرت عثمانؓ کی اہلیہ محترمہ، حضرت رقیہؓ کے پاس گیا ان کے ہاتھ میں کنگھی تھی انہوں نے کہا ابھی حضورؐ میرے پاس سے باہر تشریف لے گئے ہیں میں ان کے سر کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ حضورؐ نے

۱. علقہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۹) ۲. أخرجه أبو نعيم في الحلیبية (ج ۱ ص ۶۵)

۳. کذا فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۲۵۳) وقال فی سندہ ابن لہیعۃ

۴. أخرجه یعقوب بن سفیان کذا فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۲۵۳) وقال هذا مرسل ورجاله ثقات . ۵.

وأخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۲۶۲) عن الحسن نحوه هذا مرسل غریب ورواه ثقات

۵. أخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۸۱) رجاله ثقات



فرمایا تم نے ابو عبد اللہ (یعنی حضرت عثمانؓ) کو کیسا پایا میں نے کہا بہت اچھا حضورؐ نے فرمایا ان کا اکرام کرتی رہو کیونکہ وہ اخلاق میں میرے صحابہ میں سے میرے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ حضور ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلمؓ کے صاحبزادے حضرت عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت جعفرؓ سے فرمایا تم صورت اور اخلاق میں میرے مشابہ ہو گے حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں، حضرت جعفرؓ اور حضرت زیدؓ تینوں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضورؐ نے حضرت زیدؓ سے فرمایا تم ہمارے بھائی اور محبت کرنے والے ساتھی ہو یہ سن کر حضرت زیدؓ (خوشی کے مارے) کو جدمیں آکر اچھلنے لگ گئے۔ پھر حضورؐ نے حضرت جعفرؓ سے فرمایا تم صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہو اس پر حضرت جعفرؓ حضرت زیدؓ سے زیادہ اچھلے پھر حضورؐ نے مجھ سے فرمایا تم مجھ سے ہو۔ میں تم سے ہوں یہ سن کر میں حضرت جعفرؓ سے بھی زیادہ اچھلا۔ حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت جعفرؓ سے فرمایا تمہارے اخلاق میرے اخلاق جیسے ہیں اور تمہاری شکل و صورت مجھ سے ملتی جلتی ہے لہذا تم مجھ سے ہو اور اے علیؓ! تم مجھ سے ہو اور میرے بیٹوں یعنی نواسوں کے والد ہو۔

حضرت عبد اللہ بن جعفرؓ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ سے ایسی بات سنی ہے کہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کے بدلہ مجھے سرخ لونٹ مل جائیں (جو کہ عربوں میں سب سے عمدہ مال شمار ہوتا تھا) میں نے حضورؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جعفرؓ کی صورت اور سیرت مجھ سے ملتی ہے اور اے عبد اللہ! اللہ کی ساری مخلوق میں تم اپنے والد کے سب سے زیادہ مشابہ ہو (میں والد کے مشابہ ہوں اور والد حضورؐ کے مشابہ ہیں تو میں بھی حضورؐ کے مشابہ ہو گیا)۔

حضرت بخیر یہ کہتی ہیں میرے چچا حضرت خدائشؓ نے حضور ﷺ کو ایک پیالہ میں کھاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حضورؐ سے وہ پیالہ بطور ہدیہ مانگ لیا (حضورؐ نے ان کو وہ پیالہ دے دیا) چنانچہ وہ پیالہ ہمارے ہاں رکھا رہتا تھا حضرت عمرؓ ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ وہ پیالہ میرے پاس نکال کر لاؤ ہم زمزم کے پانی سے بھر کر وہ پیالہ حضرت عمرؓ کے پاس لاتے حضرت عمرؓ اس میں سے کچھ پیتے اور کچھ (برکت کے لیے) اپنے سر اور چہرے پر ڈال لیتے پھر ایک چور نے ہم پر بڑا ظلم کیا کہ وہ ہمارے

۱ عند الطبرانی ایضا قال الہیثمی (ج ۹ ص ۸۱) وفيه محمد بن عبد اللہ یروی عن المطلب ولم

اعرفه وبقیة رجالہ ثقات . ۱۵ وخرجه الحاکم وابن عساکر کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۴)

۲ وخرجه احمد و اسنادہ حسن کما قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۷۲)

۳ عند ابن ابی شیبہ کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۳۰) ۴ عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص

۲۷۲) رواہ الطبرانی عن شیخہ احمد بن عبد الرحمن بن عقال وهو ضعیف انتہی

۵ وخرجه العقیلی وابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۲۲)

سامان کے ساتھ چوری کی گئی۔ یہاں کی چوری کی خبر حضرت عمرؓ ہمارے پاس آئے اور حسب دستور پیالہ کا مطالبہ کیا ہم نے کہا امیر المومنین! وہ پیالہ تو ہمارے سامان کے ساتھ چوری ہو گیا۔  
حضرت عمرؓ نے فرمایا وہ چور تو بڑا سمجھدار ہے جو حضورؐ کی پیالہ چرا کر لے گیا۔ رولوی کہتے ہیں اللہ کی قسم! حضرت عمرؓ نے نہ تو چور کو برا بھلا کہا اور نہ اس پر لعنت بھیجی۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عیینہ بن حصن بن (حذیفہ بن) بدر (مدینہ) آئے اور وہ اپنے بھتیجے حضرت حرب بن قیسؓ کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت حران لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمرؓ اپنے قریب رکھتے تھے اور عبادت گزار علماء ہی حضرت عمرؓ کی مجلس شوریٰ میں ہوتے تھے چاہے وہ جوان ہوتے یا عمر رسیدہ۔ حضرت عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا انے میرے بھتیجے! تمہیں امیر المومنین کے ہاں بڑا درجہ حاصل ہے تم ان سے میرے لئے آنے کی اجازت حاصل کرو انہوں نے جا کر اپنے چچا کے لئے حضرت عمرؓ سے اجازت مانگی۔ حضرت عمرؓ نے اجازت دے دی۔ جب وہ حضرت عمرؓ کے پاس گئے تو ان سے یہ کہا انے کہ خطاب! دیکھو اللہ کی قسم! آپ ہمیں زیادہ نہیں دیتے ہیں اور ہمارے درمیان عدل کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں اس پر حضرت عمرؓ غصہ آگیا اور حضرت عیینہ کو سزا دینے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت حران نے کہا امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ سے فرمایا خَلِدِ الْعَفْوَ وَأَمْوًا بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (سورت اعراف آیت ۱۹۹)  
ترجمہ ”سر سری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جلیا کیجئے“ اور یہ بھی ان جاہلوں میں سے ہے (اس لئے آپ ان کی اس بات سے کنارہ کر لیں) جب حضرت حران نے یہ آیت پڑھی تو اللہ کی قسم! حضرت عمرؓ وہیں رک گئے۔ (اور سزا دینے کا ارادہ چھوڑ دیا) اور حضرت عمرؓ کی یہ بہت بڑی صفت تھی کہ وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتے پھر انہیں بتایا جاتا کہ اللہ کی کتاب اس کام سے روک رہی ہے تو فوراً اس ارادہ کو چھوڑ دیتے اور ایک دم رک جاتے۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ جب بھی حضرت عمرؓ کو کسی بات پر غصہ آیا پھر کسی نے ان کے سامنے اللہ کا نام لے لیا یا انہیں آخرت کی پکڑ سے ڈرایا یا ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دی تو حضرت عمرؓ غصہ میں جس کام کا ارادہ کر چکے ہوتے تھے اس سے ایک دم رک جلیا کرتے تھے۔

۱۔ اخرجه ابن سعد (ج ۷ ص ۵۷) واخرجه ايضا ابن بشر ان في اماليه كما في المنتخب (ج ۴ ص ۴۰۰) - ۲۔ اخرجه البخاري وابن المنذر وابن ابى حاتم وابن مردويه والبيهقي كذا في المنتخب (ج ۴ ص ۴۱۶) ۳۔ عن ابن سعد

حضرت اسلمؓ کہتے ہیں کہ حضرت بلالؓ نے پوچھا اے اسلم! تم لوگوں نے حضرت عمرؓ کو کیا پایا؟ میں نے کہا بہت اچھا پایا لیکن انہیں غصہ آجاتا ہے تو پھر مسئلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت بلالؓ نے فرمایا آئندہ اگر تمہاری موجودگی میں حضرت عمرؓ کو غصہ آجائے تو تم ان کے سامنے قرآن پڑھنے لگ جانا انشاء اللہ ان کا غصہ چلا جائے گا حضرت مالک دار (حضرت عمرؓ کے غلام) رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمرؓ نے مجھے ڈانٹا اور مارنے کے لئے کوڑا اٹھا لیا میں نے کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے وہ کوڑا نیچے رکھ دیا اور فرمایا تم نے ایک بڑی ذلت کا مجھے واسطہ دیا ہے۔

حضرت عامر بن ربیعہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیرؓ شروع سے میرے دوست تھے اور جس دن وہ اسلام لائے اس دن سے لے کر جنگ احد میں شہادت پانے تک وہ میرے ساتھ رہے۔ وہ حبشہ کی دونوں بجزرتوں میں ہمارے ساتھ گئے تھے اور سارے قافلہ میں سے وہ میرے رفیق سفر ہے میں نے کوئی آدمی ان سے زیادہ اچھے اخلاق والا اور مخالفت نہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت حبیہ بن جوینؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علیؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ہم نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) رضی اللہ عنہ کی چند باتوں کا تذکرہ کیا اور لوگوں نے ان کی تعریف کی اور یوں کہا اے امیر المؤمنین! ہم نے کوئی آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود سے زیادہ اچھے اخلاق والا اور ان سے زیادہ نرمی سے تعلیم دینے والا اور ہم نشین کے ساتھ ان سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا اور ان سے زیادہ تقویٰ و احتیاط والا نہیں دیکھا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم یہ تمام باتیں سچے دل سے کہہ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اے اللہ! میں تجھے اس بات پر گواہ بنا تا ہوں کہ میں بھی ان کے بارے میں وہ تمام باتیں کہتا ہوں جو ان لوگوں نے کہی ہیں بلکہ میں تو ان سے زیادہ کہتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علیؓ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابن مسعود نے قرآن پڑھا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھا (یعنی حلال کو اختیار کیا اور حرام کو چھوڑ دیا) وہ دین کے بہت بڑے فقیہ اور سنت نبویؐ کے زبردست عالم تھے۔

حضرت سالمؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ نے کبھی کسی خادم کو لعنت نہیں کی بس ایک مرتبہ ایک خادم کو لعنت کی تھی تو اسے آزاد کر دیا تھا حضرت زہریؓ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابن عمرؓ نے اپنے خادم کو لعنت کرنے کا ارادہ کیا اور ابھی اتنا ہی کہا تھا اے اللہ اس پر لعنہ کہ رک گئے اور لفظ پورا نہ کیا اور فرمایا میں اس لفظ کو زبان سے کہنا نہیں چاہتا۔ اور صحابہ

کرام کے مال خرچ کرنے کے شوق کے عنوان کے ذیل میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے اور سب سے زیادہ کھلے ہاتھ والے یعنی سخی تھے۔

## بردباری اور درگزر کرنا

### نبی کریم ﷺ کی بردباری

امام بخاری اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں فتح پانے کے بعد حضور ﷺ نے (تالیف قلب کی وجہ سے مال دینے میں) بہت سے (نئے) لوگوں کو ترجیح دی (اور پرانوں کو نہ دیا نئے لوگوں کو وہ سارا مال غنیمت دے دیا) چنانچہ حضرت اقرع بن حابسؓ کو سولونٹ دیئے اور حضرت عیینہ بن حصنؓ کو بھی اتنے ہی دیئے اور بھی کچھ لوگوں کو دیا اس پر ایک آدمی نے کہا مال غنیمت کی اس تقسیم میں اللہ کی رضا مقصود نہیں رہی۔ میں نے کہا میں یہ بات حضورؐ کو ضرور بتاؤں گا چنانچہ میں نے حضورؐ کو بتائی۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے انہیں تو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا لیکن انہوں نے صبر کیا تھا (چنانچہ میں بھی صبر کروں گا) بخاری کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس پر ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم! اس تقسیم میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا اور نہ اللہ کی رضا اس میں مقصود ہے میں نے کہا میں یہ بات حضور ﷺ کو ضرور بتاؤں گا چنانچہ میں نے جا کر حضورؐ کو بتا دیا حضورؐ نے فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول عدل نہیں کریں گے تو پھر اور کون کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے انہیں تو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا لیکن انہوں نے صبر کیا تھا۔

بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس موجود تھے آپؐ لوگوں میں کوئی چیز تقسیم فرما رہے تھے کہ اتنے میں ابو تمیم کا ایک ذوالخویصرہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ انصاف سے تقسیم فرمائیں۔ حضورؐ نے فرمایا تیرا اس ہو اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا (اگر میں انصاف نہیں کروں گا) تو میں ناکام و برباد ہو جاؤں گا جب میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضورؐ نے فرمایا نہیں اسے چھوڑ دو۔ اس کے ایسے ساٹھی ہیں کہ ان کے نماز

روزے کے مقابلہ میں تم اپنے نماز روزہ کو کم سمجھو گے یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی ہنسی سے آگے (ان کے دل کی طرف) نہیں جائے گا۔ (یا قرآن ہنسی سے آگے بڑھ کر اوپر اللہ کی طرف نہیں جائے گا) اور یہ لوگ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو لگ کر اس سے پار ہو کر آگے چلا جاتا ہے تیر کے پھل کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی پھر اس کی تانت کو دیکھا جائے (جس سے پھل کو لکڑی پر مضبوط کیا جاتا ہے) تو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اس کے پھل کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی حالانکہ یہ تیر اس شکار کی اوجھڑی اور خون میں سے گزر کر پار گیا ہے لیکن اس اوجھڑی اور خون کا اثر میں کوئی نشان نظر نہیں آئے گا۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک کالا آدمی ہو گا جس کے ایک بازو کا گوشت عورت کے پستان کی طرح یا گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہلتا ہو گا۔ یہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے جب کہ لوگوں میں اختلاف اور انتشار کا زور ہو گا حضرت ابو سعید فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث حضور ﷺ سے سنی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان لوگوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تھی میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت علیؑ نے اس آدمی کو لانے کا حکم دیا لوگ اسے ڈھونڈ کر حضرت علیؑ کے پاس لے آئے اور حضورؐ نے اس کی جو نشانی بتائی تھی وہ میں نے اس میں پوری طرح سے دیکھی ل۔

بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب (منافقوں کا سردار) عبداللہ بن ابی مرگیا تو اس کے صاحبزادے (حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ) نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ مجھے اپنی قمیض دے دیں میں اس میں اپنے باپ کو کفنوں گا اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور اس کے لئے استغفار فرمائیں چنانچہ حضورؐ نے انہیں اپنی قمیض دے دی اور فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا۔ جب حضورؐ اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے تو حضرت عمرؓ نے آپ کو پیچھے سے سچ کر کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ حضورؐ نے فرمایا اللہ نے مجھے (استغفار کرنے اور نہ کرنے) دونوں باتوں کا اختیار دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے استغفر لہم اولاً تستغفر لہم (سورۃ توبہ آیت ۸۰)

ترجمہ: آپ خواہ ان (منافقین) کے لئے استغفار کریں یا ان کے لئے استغفار نہ کریں " چنانچہ حضورؐ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی پھر یہ آیت نازل ہوئی ولا تصل علی احد منہم مات

ابدا (سورۃ توبہ آیت ۸۴)

ترجمہ :- اور ان میں کوئی مر جائے تو اس کے (جنازہ) پر کبھی نماز نہ پڑھیے " حضرت عمرؓ فرماتے ہیں جب عبد اللہ بن ابی مر گیا تو حضور ﷺ کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے بلایا گیا چنانچہ حضور تشریف لے گئے جب آپ نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں گھوم کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ اللہ کے دشمن عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں جس نے فلاں فلاں دن یہ اور یہ کہا تھا اور میں اس کے دن گوانے لگا حضور مسمکراتے رہے جب میں بہت کچھ کہہ چکا تو آپ نے فرمایا اے عمر! پیچھے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے مجھے (منافقوں کے لئے استغفار کرنے، نہ کرنے کا) اختیار دیا ہے میں نے استغفار کرنے کی صورت کو اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشے گا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ضرور کرتا پھر حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنازہ کے ساتھ قبرستان گئے اور اس کے دفن ہونے تک آپ اس کی قبر پر کھڑے رہے پھر حال حضور کے مقابلہ پر جو میں نے جرات سے کام لیا اس پر مجھے بہت حیرانی تھی اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں (کہ اس میں کیا مصلحت تھی) اللہ کی قسم! ابھی اس بات کو تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ دو آیتیں نازل ہوئیں ولا تصل علی احد منہم مات ابداً اس کے بعد حضور نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور اس دنیا سے تشریف لے جانے تک آپ کا یہی دستور رہا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب عبد اللہ بن ابی مر گیا تو اس کے صاحبزادے نے حضور ﷺ کی خدمت میں آکر عرض کیا یا رسول اللہ! اگر آپ اس جنازہ میں تشریف نہیں لائیں گے تو لوگ ہمیں ہمیشہ اس کا طعنہ دیتے رہیں گے۔ چنانچہ حضور تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ اسے قبر میں رکھ چکے ہیں تو آپ نے فرمایا قبر میں رکھنے سے پہلے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا چنانچہ اسے قبر سے نکالا گیا اور حضور نے اس پر سر سے لے کر پاؤں تک دم فرمایا آپ نے اسے اپنی قمیض پہنائی (کیونکہ اس نے جنگ بدر کے موقع پر حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنی قمیض پہنائی تھی حضور اس کے اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے تھے اور اس کے بیٹے کی دلداری بھی کرنا چاہتے تھے) کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب عبد اللہ بن ابی کو قبر میں رکھ دیا گیا تب حضور ﷺ اس کے پاس پہنچے چنانچہ حضور کے فرمانے پر اسے باہر نکالا گیا حضور نے اسے

اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اس پر دم فرمایا اور اسے اپنی قمیض پہنائی۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضور ﷺ پر جادو کیا جس کی وجہ سے آپ چند دن بیمار رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اس نے گرہیں لگا کر فلاں کنوئیں میں پھینک دیا ہے آپ آدمی کھینچ کر اسے منگوائیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا وہ اسے نکال کر حضور کی خدمت میں لائے حضور نے ان گروہوں کو کھولا تو حضور ایسے ٹھیک ہو کر کھڑے ہوئے کہ جیسے کسی بندھن سے نکلے ہوں (معلوم ہو جانے کے باوجود) حضور نے نہ تو یہ بات آخری دم تک اس یہودی کو بتائی اور نہ اس نے اس کا کوئی ناگوار اثر حضور کے چہرے پر کبھی دیکھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ پر جادو ہوا تھا جس کے اثر کی وجہ سے آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں لیکن حقیقت میں آپ گئے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت سفیان راوی کہتے تھے کہ یہ اثر سب سے سخت جادو کا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ! کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی وہ اللہ نے قبول فرمائی میرے پاس دو فرشتے آئے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے پاس۔ سروالے نے دوسرے سے کہا ان حضرت کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے پہلے نے پوچھا جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا البید بن الحکم نے جو قبیلہ ہوزریق کا ہے اور یہودیوں کا حلیف اور منافق ہے پہلے نے پوچھا اس نے جادو کس چیز میں کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کھجی پر اور کھجی سے گرے ہوئے بالوں پر کیا ہے پہلے نے پوچھا یہ چیزیں کہاں ہیں؟ دوسرے نے کہا زکھور کے خوشہ کے غلاف میں ذروان کنوئیں کے اندر جو پتھر رکھا ہوا ہے اس کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور اس کنوئیں پر تشریف لے گئے اور یہ چیزیں اس میں سے نکالیں اور فرمایا یہ کنواں وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ اس کنوئیں کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مندی والے برتن کو دھونے کے بعد پانی کارنگ لال ہوتا ہے اور اس کنوئیں کے کھجوروں کے درخت ایسے وحشت ناک تھے کہ جیسے شیطانوں کے سر ہوں میں نے حضور سے عرض کیا یہ چیزیں آپ نے لوگوں کو کیوں نہ دکھادیں؟ انہیں دفن کیوں کر دیا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے تو (جادو سے) شفا عطا فرمادی ہے اور میں کسی کے خلاف شروفتہ کھڑا کرنا نہیں چاہتا۔ امام احمد کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی

۱۔ عند البخاری کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۲۷۸) ۲۔ اخرجه احمد ورواه النسائی.

۳۔ عند البخاری ورواه احمد ومسلم

ہیں کہ حضور ﷺ کا چھ ماہ تک یہ حال رہا کہ آپ کو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے آپ بیوی کے پاس گئے ہوں اور حالانکہ حقیقت میں گئے ہوئے ہوتے نہیں تھے پھر آپ کے پاس دو فرشتے آئے آگے اور حدیث بیان کی کہ

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت بحری کے گوشت میں زہر ملا کر حضور ﷺ کے پاس لائی۔ حضور نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا (تو آپ کو پتہ چل گیا) اس عورت کو آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ حضور نے اس سے اس زہر ملانے کے بارے میں پوچھا تو اس عورت نے صاف کہا میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے خلاف تمہارے اس منصوبہ کو ہرگز کامیاب کرنے والے نہیں۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں میں زندگی بھر حضور ﷺ کے گلے کے کوعے پر اس زہر کا اثر دیکھتا رہا حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نے بحری کے گوشت میں زہر ملا کر حضور کی خدمت میں بطور عوت بھیجا (اس میں سے کچھ کھانے کے بعد) حضور نے اپنے صحابہؓ سے فرمایا رک جاؤ اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ حضور نے اس یہودی عورت سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس عورت نے کہا میں یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ آپ کو بتادیں گے (کہ اس میں زہر ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا) اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ زہر سے ہلاک ہو جائیں گے اور لوگوں کی جان آپ سے چھوٹ جائے (نعوذ باللہ من ذلك) یہ سن کر حضور نے اسے کچھ نہ کہا کما کہ امام احمد حضرت ابو ہریرہؓ والی اس حدیث جیسی حدیث حضرت لکن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں۔ اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ جب بھی حضورؐ کو اس زہر کی وجہ سے جسم میں تکلیف محسوس ہوا کرنی تو آپؐ سینگی لگواتے چنانچہ ایک مرتبہ سفر میں آپؐ تشریف لے گئے اور آپؐ نے احرام باندھا اور آپؐ کو اس زہر کا اثر محسوس ہوا تو آپؐ نے سینگی لگوائی۔

حضرت جلدؓ فرماتے ہیں کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے ایک بحری کو بھونا اور پھر اس میں زہر ملایا اور پھر حضور ﷺ کی خدمت میں اسے بھیجا۔ حضور ﷺ نے اس کی دستی کو لیا اور اس میں سے نوش فرمانے لگے اور آپؐ کے ساتھ چند صحابہؓ نے بھی اس کا گوشت کھایا پھر حضور نے ان سے فرمایا اپنے ہاتھ روک لو۔ حضور نے آدمی بھیج کر اس عورت کو بلایا اور اس سے فرمایا کیا تم نے اس بحری میں زہر ملایا ہے؟ اس یہودی عورت نے کہا آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ دستی کا ٹکڑا جو میرے ہاتھ میں ہے اس نے مجھے بتایا ہے اس

۱۔ کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۴ ص ۵۷۴) ۲۔ اخرجه الشيخان

۳۔ عند البیهقی ورواه ابو دائود نحوه واحمد والبخاری عن ابی ہریرة مطولا

۴۔ عند احمد نfordبه احمد واسنادہ حسن



عورت نے کہا میں نے سوچا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں تو یہ زہر ملی بحری آپ کا نقصان نہیں کر سکے گی اور اگر آپ نبی نہیں تو ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی۔ حضور نے اس عورت کو معاف کر دیا اسے سزا نہ دی اور جن صحابہ نے اس بحری کا گوشت کھایا تھا ان میں سے بعض کا انتقال ہو گیا اور اس زہر ملی بحری کا جو گوشت آپ نے کھایا تھا اس کی وجہ سے آپ نے اپنے کندھے پر سینگ لگوائی۔ حضرت ابو ہند رضی اللہ عنہ نے آپ کو سینگ اور چھری سے سینگ لگائی۔ حضرت ابو ہند انصار کے قبیلہ بنو ہیاضہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ انتقال کرنے والے صحابی حضرت بصر بن براء رضی اللہ عنہ تھے اور حضور کے فرمانے پر اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت مروان بن عثمان بن اہلی سعید بن معلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرض الوفا میں حضور ﷺ کے پاس حضرت بصر بن براء بن معرور کی بہن آئیں تو حضور نے ان کو فرمایا ام بصر! میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ جو بحری کا گوشت خیر میں کھایا تھا اس کی وجہ سے مجھے اس وقت اپنے دل کی رگ کٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور تمام مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبوت سے نوازا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضور کی شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ ۱

حضرت جعدہ بن خالد بن صمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک مولے آدمی کو دیکھا تو ہاتھ سے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر یہ (مال) اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ ہوتا تو تمہارے لئے بہتر تھا پھر حضور کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور صحابہ نے بتایا کہ یہ آدمی آپ کو (نعوذ باللہ من ذلك) قتل کرنا چاہتا تھا۔ حضور نے اس سے فرمایا اور مت اگر تمہارا ارادہ تھا تو اللہ نے تمہیں اس میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ۲

حضرت انس فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے اسی آدمی ہتھیار لے کر حضور ﷺ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ حضور نے ان کے خلاف بددعا کی تو وہ سب پکڑے گئے حضرت عفاں راوی کہتے ہیں کہ حضور نے ان کو معاف فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ (سورۃ الفتح آیت ۲۴)

ترجمہ :- ”اور وہ ایسا ہے اس نے ان کے ہاتھ تم سے (یعنی تمہارے قتل سے) اور تمہارے ہاتھ ان (کے قتل) سے عین مکہ (کے قرب) میں روک دیئے بعد اس کے کہ تم کو

۱۔ عند ابی داؤد اخرجه ابو داؤد عن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نحو حدیث جابر

۲۔ عند ابن اسحاق وھذا ذکر موسیٰ بن عقبہ عن الزھری عن جابر انتھی من البدایة (ج ۴ ص ۲۰۸)

۳۔ اخرجه احمد قال انھما جی (ج ۲ ص ۲۵) اخرجه احمد والطبرانی بسند صحیح ۵۱

ان پر قابو دے دیا تھا۔ یہی قصہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اور زیادہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ حدیبیہ میں اسی طرح ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک ہتھیار لگائے ہوئے تمیں نوجوان ظاہر ہوئے وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ حضور ﷺ نے ان کے لئے بد دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سننے کی طاقت ختم کر دی اس لئے وہ کچھ کرنے سکے چنانچہ ہم لوگوں نے کھڑے ہو کر ان کو پکڑ لیا۔ حضور نے ان سے پوچھا کیا تم لوگ کسی کی ذمہ داری پر آئے ہو؟ یا کسی نے تمہیں امن دیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا نہیں۔ حضور نے انہیں چھوڑ دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَهُوَ الَّذِي كَفَفَ ۙ

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضرت طفیل بن عمرو دوسیؓ نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا (میرے قبیلہ دوس نے (میری دعوت) نہیں مانی اور (اسلام قبول کرنے سے) انکار کر دیا اس لئے آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیں حضور نے قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے لوگوں نے کہا اب تو قبیلہ دوس والے ہلاک ہو گئے (کیونکہ حضور ان کے لئے بد دعا فرمانے لگے ہیں) لیکن حضور نے یہ دعا فرمائی۔ اے اللہ! دوس کو ہدایت نصیب فرما اور انہیں یہاں لے آئے اللہ! دوس کو ہدایت نصیب فرما اور انہیں یہاں لے آچنانچہ حضرت طفیل واپس گئے اور خیبر کے موقع پر دوس کے ستر اسی گھرانے مسلمان کر کے لے آئے۔ ۳

### نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کی بر دباری

حضرت ابو زعراءؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں، میری پاکیزہ بیویاں اور میری نیک اولاد بچپن میں سب سے زیادہ بردبار تھی اور بڑے ہو کر سب سے زیادہ علم والی بن گئی ہمارے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ جھوٹ اور غلط بات کو دور کرتا ہے اور ہمارے ذریعہ سے باؤلے بھیڑیے کے دانتوں کو توڑتا ہے اور جو چیزیں تم سے زبردستی چھینی جاتی ہیں وہ ہمارے ذریعہ سے باؤلے بھیڑیے کے دانتوں کو توڑتا اور جو چیزیں تم گردن کی (غلامی کی) رسیاں کھولتا ہے اور ہمارے ذریعہ سے اللہ شروع کرتا ہے اور انتقام کو پہنچاتا ہے۔ ۴ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے زیادہ حاضر دماغ، زیادہ عقلمند، زیادہ علم رکھنے والا اور زیادہ بردبار کوئی نہیں دیکھا۔ ۵

۱۔ اخرجه احمد ورواه مسلم وابو داؤد والترمذی والنسائی  
 ۲۔ اخرجه احمد ايضا والنسائی كذا في التفسير لابن كثير (ج ۴ ص ۱۹۲) ۳۔ اخرجه الشيخان  
 ۴۔ اخرجه عبدالغني بن سعيد في ايضاح الاشكال كذا في المنتخب الكنتز (ج ۵ ص ۵۰)  
 ۵۔ اخرجه ابن سعد في مشاورة اهل الرأي (ج ۱ ص ۴۰۰)

## شفقت اور مہربانی

## نبی کریم ﷺ کی شفقت

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں بعض دفعہ نماز شروع کرتا ہوں اور میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نماز ذرا لمبی پڑھاؤں گا لیکن میں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بچہ رونے سے اس کی ماں پریشان ہوگی۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ سے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ حضورؐ نے فرمایا دوزخ میں۔ جب حضورؐ نے اس جواب پر اس کے چہرے پر ناگواری کا اثر دیکھا تو فرمایا میرا باپ اور تیرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں۔ (بہتر یہی ہے کہ حضور ﷺ کے والدین کے جنتی یا دوزخی ہونے کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے کیونکہ بعض روایات میں ان کے جنتی ہونے کا ذکر ہے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کا امتحان لیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں)۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور ﷺ کی خدمت میں خون بہا اور ادا کرنے میں مدد لینے آیا۔ حضورؐ نے اسے کچھ دے دیا۔ پھر حضورؐ نے اس سے پوچھا کیا میں نے تم پر احسان کر دیا؟ اس دیہاتی نے کہا نہ آپ نے احسان کیا اور نہ اچھا سلوک کیا۔ کچھ مسلمانوں کو اس کی اس بات پر غصہ آگیا اور انہوں نے کھڑے ہو کر اسے مارنا چاہا تو حضورؐ نے انہیں اشارہ سے فرمایا کہ رک جاؤ۔ جب حضورؐ وہاں سے کھڑے ہو کر اپنے گھر پہنچے تو اس دیہاتی کو گھر بلا کر فرمایا تم ہمارے پاس کچھ لینے آئے تھے ہم نے تم کو (وہاں صحابہؓ کے سامنے) کچھ دیا جس پر تم نے کچھ نازیبا بات کہہ دی اس کے بعد حضورؐ نے اس دیہاتی کو کچھ اور دیا اور اس سے پوچھا اب تو میں نے تم پر احسان کر دیا اس دیہاتی نے کہا ہاں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے گھر والوں اور میرے خاندان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضورؐ نے فرمایا تم ہمارے پاس آئے تھے اور تم نے مانگا ہم نے تمہیں کچھ دیا لیکن تم نے اس پر نامناسب بات کہہ دی جس کی وجہ سے میرے صحابہؓ کے دل میں تمہارے اوپر غصہ آگیا لہذا اب تم ان کے سامنے وہ بات کہہ دینا جو تم نے اب میرے سامنے کہی ہے تاکہ ان کا غصہ جاتا رہے اس نے کہا بہت اچھا چنانچہ جب وہ دیہاتی صحابہؓ کے پاس واپس پہنچا تو حضورؐ نے فرمایا تمہارا یہ ساتھی ہمارے پاس آیا تھا اور اس

۱۔ اخراجہ الشیخان کذا فی صفة الصفوة (ص ۶۶)

۲۔ اخراجہ مسلم انفرادیاً باخراجہ مسلم کذا فی صفة الصفوة (ج ۱ ص ۶۶)

نے کچھ مانگا تھا جس پر ہم نے اسے کچھ دیا تھا لیکن اس پر اس نے نامناسب بات کہی تھی اب ہم نے اسے گھر بلا کر کچھ لور دیا ہے جس پر اس نے کہا کہ اب وہ راضی ہو گیا ہے کیوں اے دیہاتی بات ایسے ہی ہے نا؟ اس دیہاتی نے کہا جی ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو میرے گھر والوں اور میرے خاندان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے پھر حضورؐ نے فرمایا میری لور اس دیہاتی کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کی ایک لونٹنی تھی جو بدک گئی لوگ اس کے پیچھے لگ گئے اس سے وہ لور زیادہ بھاگنے لگی لونٹنی والے نے لوگوں سے کہا تم لوگ اس کا پیچھا چھوڑ دو میں اسے پکڑ لوں گا۔ چنانچہ وہ لونٹنی کی طرف چل پڑا لور زمین پر کھڑا ہوا کھور کا پیکار خوشہ لیکر اسے بلاتا رہا یہاں تک کہ وہ آگئی لور مان گئی۔ آخر اس نے اس پر کجاوہ کسا اور اس پر بیٹھ گیا اس نے پہلے جو بات کہی تھی اس پر اگر میں تمہاری بات مان کر اسے سزا دے دیتا تو یہ دوزخ میں داخل ہو جاتا۔

### نبی کریم ﷺ کے صحابہ کی شفقت

حضرت اصمعیؓ کہتے ہیں لوگوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حضرت عمر بن خطابؓ سے بات کریں کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں اس وقت تو ان کے رعب کا یہ حال ہے کہ کنواری لڑکیاں بھی اپنے پردے میں ان سے ڈرتی ہیں۔ حضرت عبدالرحمن نے جا کر حضرت عمرؓ سے یہ بات کی تو حضرت عمرؓ نے فرمایا میں تو ان کے ساتھ ایسے ہی پیش آؤں گا کیونکہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میرے دل میں ان لوگوں کے لئے کتنی مہربانی، شفقت اور نرمی ہے تو یہ میرے کندھے سے کپڑے اتار لیں۔

### شرم و حیاء

### نبی کریم ﷺ کی حیاء

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنواری لڑکی اپنے پردے میں جتنی شرم و حیاء والی ہوتی ہے۔ حضور ﷺ اس سے زیادہ حیاء والے تھے اور جب حضورؐ کو کوئی بات ناگوار ہوتی تھی تو آپ کے چہرے سے اس ناگواری کا صاف پتہ چل جاتا تھا۔

۱۔ اخرجه البزار قال البزار لا نعلمه يروى الا من هذا الوجه قلت وهو ضعيف بحال ابراهيم بن الحكم بن ابان كذا في التفسير لا بن كثير (ج ۲ ص ۴۰۴) و اخرجه ايضا ابن حبان في صحيحه و ابو الشيخ و ابن الجوزي في الوفاء كما قال انحنافي (ج ۲ ص ۷۸) ۲۔ اخرجه الدينوري كذا في المنتخب الكنز (ج ۴ ص ۴۱۶) ۳۔ اخرجه البخاري و رواه مسلم كذا في البداية (ج ۶ ص ۳۶) و الترمذي في الشمائل (ص ۲۶) و ابن سعد (ج ۱ ص ۹۲) و اخرجه الطبراني عن عمران بن حصين نحوه قال الهيثمي (ج ۹ ص ۱۷) رواه الطبراني باسنادين و رجال احد همارجال الصحيح. اه

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی حدیث منقول ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ حیاء تو ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی پر زرد رنگ دیکھا جو آپ کو برا محسوس ہوا جب وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا تو آپ نے فرمایا اگر تم لوگ اسے یہ کہہ دو کہ وہ زرد رنگ دھو ڈالے تو بہت اچھا ہو آپ کی اکثر عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی کی کوئی چیز ناگوار ہوتی تھی تو آپ اس آدمی کے منہ پر براہ راست نہ کہا کرتے۔ ۱

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں جب حضور ﷺ کو کسی آدمی کے کسی عیب کی خبر پہنچتی تو اس آدمی کا نام لے کر یوں نہ فرماتے کہ فلاں کو کیا ہو گیا کہ وہ یوں کہتا ہے بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں اور یوں کہتے ہیں۔ ۲

حضرت عائشہؓ کے آزا کردہ ایک غلام کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نے (حیاء کی وجہ سے) حضور ﷺ کی شرم کی جگہ کبھی نہیں دیکھی۔ ۳

## نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کی حیاء

حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہؓ اور حضرت عثمانؓ دونوں نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضورؐ حضرت عائشہؓ کی چادر لوڑھے ہوئے اپنے بستر پر لپیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو بکرؓ نے اجازت مانگی۔ حضورؐ نے اجازت دے دی اور آپ اسی طرح لپیٹے رہے اور وہ اپنی ضرورت کی بات کر کے چلے گئے پھر حضرت عمرؓ نے اجازت مانگی حضورؐ نے انہیں بھی اجازت دے دی اور آپ اسی طرح لپیٹے رہے اور وہ اپنی ضرورت کی بات کر کے چلے گئے۔ حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں پھر میں نے اجازت مانگی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ تم بھی اپنے کپڑے ٹھیک کر لو (پھر مجھے اجازت دی) میں بھی اپنی ضرورت کی بات کر کے چلا گیا تو حضرت عائشہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کی بات ہے آپ نے حضرت عثمانؓ کے آنے پر جتنا اہتمام کیا اتنا حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے آنے پر نہیں کیا؟ حضورؐ نے فرمایا عثمان بہت ہی حیاء والے آدمی ہیں تو مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں انہیں اسی حالت میں اجازت دے دوں گا تو وہ اپنی ضرورت کی بات

۱۔ اخروجه الزار قال الهیثمی (ج ۹ ص ۱۷) رجاله رجال الصحیح غیر محمد بن عمر المقدمی

۲۔ اخروجه احمد ورواه ابو دائود الترمذی فی الشمائل والنسائی فی الیوم والیلة

۳۔ عندابی داؤد کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۳۸)

۴۔ اخروجه الترمذی فی الشمائل (ص ۲۶) عن موسی بن عبد اللہ بن یزید الخطمی

کہ نہ سکیں گے اس حدیث کے بہت سے راوی یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا کیا میں اس سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں۔<sup>۱</sup>

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ (گھر میں) بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عائشہؓ آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں کہ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اجازت لے کر اندر آئے۔ پھر حضرت عمرؓ اجازت لے کر اندر آئے پھر حضرت سعد بن مالکؓ اجازت لے کر اندر آئے پھر حضرت عثمانؓ اجازت لے کر اندر آئے حضورؐ باتیں کر رہے تھے اور حضورؐ کے گھٹنے کھلے ہوئے تھے (باقی پر کپڑا ڈال دیا اور اپنی زوجہ محترمہ (حضرت عائشہؓ) سے فرمایا کہ ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاؤ یہ حضرات حضورؐ سے کچھ دیر بات کر کے چلے گئے تو حضرت عائشہؓ نے عرض کیا یا نبی اللہ! میرے والد اور دوسرے صحابہؓ اندر آئے تو آپ نے نہ تو گھٹنے پر اپنا کپڑا ٹھیک کیا اور نہ مجھے پیچھے ہونے کو کہا۔ حضورؐ نے فرمایا کیا میں اس آدمی سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! فرشتے عثمان سے ایسے ہی حیاء کرتے ہیں جیسے اللہ اور رسول سے کرتے ہیں اگر وہ اندر آتے اور تم میرے پاس بیٹھی ہو تیں تو وہ نہ تو بات کر سکتے اور نہ واپس جانے تک سر اٹھا سکتے۔<sup>۲</sup>

حضرت حسنؓ نے حضرت عثمانؓ کے بہت زیادہ باحیا ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض دفعہ حضرت عثمانؓ گھر میں ہوتے اور دروازہ بھی بند ہوتا لیکن پھر بھی غسل کے لئے اپنے کپڑے نہ اتار سکتے اور وہ اتنے شرمیلے تھے کہ (غسل کے بعد) جب تک وہ کپڑے سے ستر نہ چھپا لیتے کمر سیدھی نہ کر سکتے یعنی سیدھے کھڑے نہ ہو سکتے۔<sup>۳</sup>

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا تم لوگ اللہ سے حیاء کرو کیونکہ میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو اللہ سے شرم کر اپنے سر کو ڈھک لیتا ہوں۔<sup>۴</sup>

حضرت سعد بن مسعودؓ اور حضرت عمار بن غراب حبیبیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ بن مظعون رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے

۱۔ اخرجہ احمد ورواہ مسلم و ابو یعلیٰ عن عائشہ ورواہ احمد من آخر عن عائشہ بنحوہ واحمد والحسن من عزمتہ عن حفصۃ رضی اللہ عنہا مثل حدیث عائشہ

۲۔ عند الطبرانی هذا حدیث غریب من هذا الوجه وفيه زیادة علی ما قبله وفي سندہ ضعف کذا فی البدایۃ (ج ۷ ص ۲۰۳ و ۲۰۴) و حدیث حفصۃ رضی اللہ عنہا اخرجہ الطبرانی فی الکبیر و اللوسط مطولا و ابو یعلیٰ باختصار کثیر و اسنادہ حسن کما قال الہیثمی (ج ۹ ص ۸۲) و حدیث ابن عمر اخرجہ ایضا ابو یعلیٰ بنحوہ وفيه ابراهیم بن عمر بن ابان وهو ضعیف کما قال الہیثمی (ج ۹ ص ۸۲)

۳۔ اخرجہ احمد (ج ۱ ص ۷۳) قال الہیثمی (ج ۹ ص ۸۲) رواہ احمد ورجاله ثقات

۴۔ ورواہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۵۶) مثله ۴۔ اخرجہ سفیان کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۱۴۴)

یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ میری بیوی میرے ستر کو دیکھے حضورؐ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے اس سے شرم آتی ہے اور مجھے بہت برا لگتا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیوی کو تمہارا لباس اور تمہیں اس کا لباس بنایا ہے اور (بعض دفعہ) میرے گھر والے میرا ستر اور میں ان کا ستر دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت عثمانؓ نے کہا یا رسول اللہ! آپ ایسا کر لیتے ہیں؟ حضورؐ نے فرمایا ہاں حضرت عثمانؓ نے کہا پھر آپ کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ (جس کا ہر کام میں اتباع کیا جائے ایسے تو آپ ہی ہیں) جب حضرت عثمانؓ چلے گئے تو حضورؐ نے فرمایا کہ لین مضمون تو بہت زیادہ حاجیا، پاکدامن اور ستر چھپا کر رکھنے والے ہیں۔

حضرت ابو جحزہؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰؓ نے فرمایا کہ میں تاریک کمرے میں غسل کرتا ہوں تو میں اللہ سے شرم کی وجہ سے جب تک اپنے کپڑے پہن نہ لوں اس وقت تک اپنی کمر سیدھی کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔

حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰؓ جب کسی تاریک کمرے میں غسل کر لیتے تو سیدھے کھڑے نہ ہوتے بلکہ کمر جھکا کر کبڑے بن کر چلتے اور کپڑے لے کر پہن لیتے (پھر سیدھے ہوتے)۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰؓ جب سویا کرتے تو اس ڈر سے کپڑے پہنے رہتے کہ کہیں سوتے میں ان کا ستر نہ کھل جائے۔ حضرت عبادہ بن نسیؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰؓ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لنگی باندھے بغیر پانی میں کھڑے ہیں تو فرمایا میں مر جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر مر جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر مر جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ان کی طرح کروں۔

حضرت انسؓ عبد اللہ بن مسعودؓ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ حضورؐ نے فرمایا بردباری اور حیاء میں نے پوچھا یہ پہلے سے میرے اندر تھیں یا اب پیدا ہوئی ہیں؟ حضورؐ نے فرمایا نہیں، پہلے سے تھیں میں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں پر پیدا فرمایا جو اسے پسند ہیں۔

۱۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۸۷) ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۶۰)

واخرجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۸۴) عن ابن ماجہ نحوه وعن ابن سیرین مثله

۳۔ عند ابی نعیم ایضا ۴۔ عند ابی نعیم (ج ۴ ص ۸۲)

۵۔ اخرجہ ایضا ابو نعیم (ج ۴ ص ۸۴)

۶۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ و ابو نعیم عن الشیخ کذا فی منتخب الكنز (ج ۵ ص ۱۴۰)

## تواضع اور عاجزی حضور ﷺ کی تواضع

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیلؑ حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے تو انہوں نے کہا جب سے یہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے اب تک یہ زمین پر کبھی نہیں اتر لہ جب وہ فرشتہ زمین پر اتر گیا تو اس نے کہا اے محمدؐ آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ کو بادشاہ لور نبی بناؤں یا بندہ لور رسول؟ حضرت جبرائیلؑ نے کہا اے محمدؐ آپ اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کریں تو حضورؐ نے فرمایا میں بندہ لور رسول بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہؓ اس حدیث کو بیان کر کے آخر میں فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضورؐ نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا کھاتے تھے کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے مال واپس کرنے کے باب میں طبرانی وغیرہ کی روایت سے حضرت ابن عباسؓ کی اسی کے ہم معنی حدیث گزر چکی ہے۔

حضرت ابو غالبؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے حضور ﷺ سے سنی ہو۔ فرمایا حضورؐ کی ساری گفتگو قرآن (کے مطابق) ہوتی تھی آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور میان مختصر کرتے تھے نماز لمبی بڑھتے تھے۔ آپ ناک نہیں چڑھاتے تھے اور اس سے تکبر محسوس نہیں فرماتے تھے کہ مسکین اور کمزور آدمی کے ساتھ جا کر اس کی ضرورت پوری کر کے ہی آئیں۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور لغو و بیکار بات بالکل نہ فرماتے تھے گدھے پر سوار ہو جاتے تھے اور اون کا کپڑا پہن لیتے تھے اور غلام کی دعوت قبول فرما لیتے تھے اور اگر تم غزوہ خیبر کے دن حضورؐ کو دیکھتے کہ گدھے پر سوار ہیں جس کی لگام کچھور کی چھال کی بنی ہوئی تھی تو عجیب منظر دیکھتے ترمذی میں حضرت انسؓ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضورؐ بیمار کی عیادت فرماتے تھے اور جنازہ میں شرکت فرماتے تھے۔

۱۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۹) رواہ احمد والبخاری و ابو یعلیٰ و رجال الا ولین رجال الصحیح و رواہ ابو یعلیٰ باسناد حسن ۲۔ کما قال الہیثمی عن عائشۃ رضی اللہ عنہا بمعناہ مع زیادۃ فی اولہ ۳۔ اخرجہ الطبرانی و اسنادہ حسن کما قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۰) و اخرجہ الیہقی و النسائی عن عبد اللہ بن ابی ادنی رضی اللہ عنہ نحوہ کما فی البدایۃ (ج ۶ ص ۴۵)  
۴۔ اخرجہ الطبرانی و فی الترمذی و ابن ماجہ عن انس بعض ذالک کذا فی البدایۃ (ج ۶ ص ۴۵) و اخرجہ ابن سعد (ج ۱ ص ۹۵) عن انس بطولہ



حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ گدھے پر سوار ہوتے تھے اور لون پہنتے تھے اور بحری کی ٹانگوں کو قابو کر کے اس کا دودھ نکالتے اور مہمان کی خاطر مدارات خود کرتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ زمین پر بیٹھا کرتے تھے، زمین پر کھایا کرتے تھے اور بحری کی ٹانگ باندھ کر دودھ نکالا کرتے تھے اور کوئی غلام جو کی روٹی کی دعوت کیا کرتا تو اسے بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ (مدینہ سے باہر کی آبادی) عوالی کا کوئی آدمی حضور ﷺ کو آدھی رات کے وقت جو کی روٹی پر بلاتا تو بھی آپ اسے قبول فرما لیتے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو کوئی آدمی جو کی روٹی اور بد ذائقہ چرئی کی دعوت دیتا تو آپ اسے قبول فرمایا کرتے (اور اپنا سب کچھ دوسروں پر خرچ کرنے کا یہ عالم تھا کہ) آپ کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی اور انتقال تک آپ کے پاس اتنا مال جمع نہ ہو سکا کہ جسے دے کر آپ اس زرہ کو یہودی سے چھڑا لیتے۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ کو تین مرتبہ کو ازدی حضور ہر مرتبہ جواب میں لیک لیک فرماتے۔

حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بد کلام تھی ایک مرتبہ وہ حضورؐ کے پاس سے گزری۔ حضورؐ ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے شدید کھا رہے تھے اس پر اس عورت نے کہا انہیں دیکھو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے یہ سن کر حضورؐ نے فرمایا کوئی نساہتہ مجھ سے زیادہ ہندگی اختیار کرنے والا ہوگا؟ پھر اس عورت نے کہا یہ خود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے ہیں حضورؐ نے فرمایا تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا مجھے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیں۔ حضورؐ نے اسے دیا تو اس نے کہا جو آپ کے منہ میں ہے اس میں سے دیں۔ حضورؐ نے اس میں سے دیا جسے اس نے کھا لیا (اس کھانے کی برکت سے) اس پر شرم و حیاء غالب آگئی اور اس کے

۱۔ أخرجه البيهقي وهذا غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه اسناده جيد كذا في البداية (ج ۶ ص

۴۵) وأخرجه الطبراني عن أبي موسى مثله ورجالہ رجال الصحيح كما قال الهيثمي (ج ۹ ص ۲۰)

۲۔ عند الطبراني واسناده حسن كما قال الهيثمي (ج ۹ ص ۲۰)

۳۔ عند الطبراني أيضا ورجالہ ثقات كما قال الهيثمي (ج ۹ ص ۲۰)

۴۔ عند الترمذی فی الشمائل (ص ۲۳) ۵۔ أخرجه ابو يعلى قال الهيثمي (ج ۹ ص ۲۰)

رواه ابو يعلى في الكبير عن شيخه جبارة بن المغلس وثقه ابن نمير وضعفه المجهور وبقية رجاله ثقات

رجال الصحيح انتهى وأخرجه أيضا ابو نعيم في الحلية وتمام والخطيب كما في الكنز (ج ۴ ص ۴۵)

بعد اس نے اپنے انتقال تک کسی سے بے حیائی کی کوئی بات نہ کی۔<sup>۱</sup>  
حضرت جریرؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سامنے سے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس پر کچپی طاری ہو گئی۔ حضورؐ نے فرمایا تسلی رکھو میں بادشاہ نہیں ہوں میں قریش کی ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سو کھا ہوا گوشت بھی کھا لیا کرتی تھی۔ حضرت لکن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی فتح مکہ کے دن حضور ﷺ سے بات کرنے لگا تو اس پر کچپی طاری ہو گئی آگے بچھلی حدیث جیسا مضمون ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہؓ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا میں نے ٹھیک کرنے کے لئے حضورؐ سے جوتی لے لی۔ حضورؐ نے میرے ہاتھ سے جوتی لے کر فرمایا تسمہ میرا ٹوٹا اور ٹھیک تم کرو اس سے فوقیت نظر آتی ہے اور میں دوسروں پر اپنی فوقیت پسند نہیں کرتا (بلکہ میں تو سب کے برابر بن کر رہنا چاہتا ہوں)۔<sup>۲</sup>

حضرت عبداللہ بن جبیر خزاعیؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ اپنے چند صحابہؓ کے ساتھ جا رہے تھے کسی نے کپڑے سے آپؐ پر سایہ کر دیا جب آپؐ کو زمین پر سایہ نظر آیا تو آپؐ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک صاحب چادر سے آپؐ پر سایہ کر رہے تھے۔ حضورؐ نے فرمایا رہنے دو اور کپڑا اس سے لے کر رکھ دیا اور فرمایا میں بھی تم جیسا آدمی ہوں (اپنے لئے امتیازی سلوک نہیں چاہتا)۔<sup>۳</sup>  
حضرت لکن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباسؓ نے فرمایا میں نے دل میں کہا معلوم نہیں حضور ﷺ مزید اور کب تک ہم میں رہیں گے یہ معلوم کرنے کے لئے حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! اگر آپؐ سایہ کے لئے ایک چھپر بنا لیں تو بہت اچھا ہو۔ حضورؐ نے فرمایا میں تو لوگوں میں ایسے کھل مل کر رہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میری ایڑیاں روندتے رہیں اور میری چادر پھینچتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (دنیا سے اٹھا کر) مجھے ان لوگوں سے راحت دے (میں اپنے لئے الگ جگہ نہیں بنانا چاہتا)۔<sup>۴</sup>

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ میں پتہ چلاؤں گا کہ حضور ﷺ ہم میں اور کتنا رہیں گے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں دیکھ رہا ہوں کہ عام

۱۔ اخرجہ الطبرانی واسنادہ ضعیف کما قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۱)

۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۰) وفيه من لم اعرفهم

۳۔ اخرجہ البیهقی کما فی البدایہ (ج ۴ ص ۲۹۳)

۴۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۱) وفيه من لم اعرفه . اه

۵۔ اخرجہ الطبرانی ورجاله رجال الصحیح کما قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۱)

۶۔ اخرجہ البزار ورجاله رجال الصحیح کما قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۱)

لوگوں کے ساتھ رہنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے ان کا سارا گرد و غبار آپ پر آجاتا ہے اس لئے اگر آپ اپنے لئے ایک تخت بنالیں جس پر بیٹھ کر آپ لوگوں سے بات کیا کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ حضور ﷺ نے وہی جواب دیا جو پچھلی حدیث میں گزر گیا۔ حضرت عباسؓ کہتے ہیں کہ آپ کے اس جواب سے میں سمجھ گیا کہ اب آپ ہم میں تھوڑا عرصہ ہی رہیں گے۔

حضرت اسودؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ جب نبی کریم ﷺ گھر تشریف لاتے تو کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ گھر والوں کے کام کاج میں لگ جاتے اور جب نماز کا وقت آجاتا تو باہر تشریف لے جاتے اور نماز پڑھاتے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ کیا حضور ﷺ اپنے گھر میں کچھ کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا ہاں حضورؐ اپنی جونی خود ہی گانٹھ لیا کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ حضور ﷺ اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا حضورؐ بھی انسان ہی تھے اور انسانوں کی طرح آپ اپنے کپڑوں میں سے (شبہ کی وجہ سے) جو کس نکال لیتے تھے اور اپنی بخری کا دودھ نکالتے تھے اور اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے کہ حضور ﷺ اپنے وضو کا پانی کسی کے سپرد نہ فرماتے (بلکہ خود اس سے وضو فرماتے) اور جب آپ کوئی صدقہ دینا چاہتے تو خود دیتے۔

حضرت جلدؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ میری عیادت کے لئے تشریف لائے آپؐ منجر پر سوار تھے اور نہ ترکی گھوڑے پر (بلکہ پیدل تشریف لائے تھے) حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے پرانے کجاوے پر حج فرمایا اور کجاوے پر ایک چادر تھی جس کی قیمت چار درہم بھی نہیں تھی اسکے باوجود آپؐ نے دعا مانگی اے اللہ مجھے ایسے حج کی توفیق عطا فرما جس میں نہ ریا ہو اور نہ شہرت۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ مکہ میں (فاتحانہ) داخل ہوئے تو لوگ اونچی جگہوں پر چڑھ کر حضورؐ کو دیکھ رہے تھے لیکن تواضع اور عاجزی کی وجہ سے آپؐ کا سر کجاوے کو لگا ہوا تھا۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب حضور ﷺ مکہ میں داخل ہوئے

- ۱۔ اخراجہ الدارمی کذا فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۱۸۰) و اخراجہ ابن سعد (ج ۲ ص ۱۹۲) عن عکرمہ نحوہ
- ۲۔ اخراجہ احمد و رواہ البخاری و ابن سعد (ج ۱ ص ۹۱) نحوہ
- ۳۔ عند البیهقی و رواہ الترمذی فی الشمائل کذا فی البدایہ (ج ۶ ص ۴۴)
- ۴۔ عند القزوینی بضعف کذا فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۱۸۰) ۵۔ اخراجہ البخاری کذا فی صفة الصفوة (ج ۱ ص ۶۵)
- ۶۔ اخراجہ الترمذی فی الشمائل (ص ۲۴)
- ۷۔ اخراجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۶ ص ۱۶۹) و فیہ عبداللہ بن ابی بکر المقلمی و هو ضعیف ۸۔

تھے تو آپؐ کی ٹھوڑی تواضع کی وجہ سے کجاوے پر تھی بلکہ حضرت عبد اللہ بن ابی بکرؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ ذی طوی مقام پر پہنچے تو اپنی سواری پر کھڑے ہو گئے اس وقت آپؐ نے سرخ یمنی دھاری دار چادر سر پر باندھی ہوئی تھی اور اس کا ایک کنارہ منہ پر ڈالا ہوا تھا جب حضورؐ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے سرفراز فرمایا ہے تو حضورؐ نے اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے کے لئے اپنا سر جھکا لیا یہاں تک کہ آپؐ کی ڈاڑھی کجاوے کے درمیانی حصے کو لگ رہی تھی ۱۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور ﷺ کے ساتھ بازار گیا حضورؐ کو پڑا پینے والے کے پاس بیٹھ گئے اور چار درہم میں ایک شلوار خریدی بازار والوں نے ایک (سونا چاندی) تولنے والا رکھا ہوا تھا حضورؐ نے اس سے فرمایا تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ حضورؐ نے وہ شلوار لے لی میں نے حضور ﷺ سے شلوار لے کر اٹھانی چاہی حضور ﷺ نے فرمایا چیز کا مالک خود اسے اٹھانے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے ہاں اگر وہ مالک اتنا کمزور ہو کہ اپنی چیز کو اٹھانہ سکتا ہو تو پھر اس کا مسلمان بھائی اس کی مدد کر دے میں نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ شلوار پہنیں گے؟ حضورؐ نے فرمایا ہاں دن رات سفر حضر میں پہنوں گا کیونکہ مجھے ستر ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے اس سے زیادہ ستر ڈھانکنے والی کوئی چیز نہ ملی ۲۔ دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے تولنے والے سے فرمایا تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ اس تولنے والے نے کہا میں نے یہ بات کسی اور سے نہیں سنی۔ میں نے اسے کہا کہ تیرے ہلاک ہونے اور تیرے دین کے بگاڑ کے لئے یہ کافی ہے کہ تو اپنے نبی کو نہیں پہچانتا یہ بن کر اس نے ترازو وہیں پھینکی اور کود کر اٹھا اور حضورؐ کے ہاتھ کو لے کر اسے بوسہ دینا چاہا۔ حضور ﷺ نے اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا یہ کیا ہے؟ ایسے تو عجم کے لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں اور میں تو بادشاہ نہیں ہوں میں تو آپؐ لوگوں میں سے ہی ایک آدمی ہوں چنانچہ اس نے جھکتا ہوا تولو اور اپنے تولنے کی اجرت لی۔ ۳۔

۱۔ اخرجہ الہیثمی ۲۔ رواہ ابن اسحاق کذا فی البدایة (ج ۴ ص ۲۹۳) ۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط و ابو یعلی اخرجہ من طریق ابن زیادہ الواسطی و اخرجہ احمد فی سندہ ابن زیادہ و هو و شیخہ ضعیفان کذا فی نسیم الریاض (ج ۲ ص ۱۰۵) و قال انجیر ضعیفہ بما یعنہ و منہ یعلم الا تخطیة ابن القیم لا و جہ لها . انتھی ۴۔ ذکرہ الہیثمی فی الجمع (ج ۵ ص ۲۱) عن ابی ہریرة مثل الحدیث الذی قبلہ قال الہیثمی رواہ ابو یعلی و الطبرانی فی الاوسط و فیہ یوسف بن زیاد و هو ضعیف

## نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کی تواضع

حضرت اسلمؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ کوٹھ پر بیٹھ کر ملک شام تشریف لائے تو لوگ اس بارے میں آپس میں باتیں کرنے لگے (کہ امیر المؤمنین کو گھوڑے پر سفر کرنا چاہئے تھا لوٹ پر نہیں کرنا چاہئے تھا وغیرہ وغیرہ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا ان لوگوں کی نگاہ ایسے انسانوں کی سواری کی طرف جا رہی ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اس سے شام کے کفار مراد ہیں۔

حضرت ہشامؓ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطابؓ کا ایک عورت پر گزر ہوا جو عسیدہ گھونٹ رہی تھی (عسیدہ وہ آٹا ہے جسے گھی ڈال کر پکایا جائے) حضرت عمرؓ نے اس سے کہا عسیدہ کو اس طرح نہیں گھونٹا جاتا یہ کہہ کر اس سے حضرت عمرؓ نے ڈوٹی لے لی اور فرمایا اس طرح گھونٹا جاتا ہے اور اسے گھونٹ کر دکھایا۔ حضرت ہشام بن خالدؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو (عورتوں سے) یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب تک پانی گرم نہ ہو جائے تم میں سے کوئی عورت آٹا نہ ڈالے اور جب پانی گرم ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جائے اور ڈوٹی سے اس کو ہلاتی جائے اس طرح اچھی طرح مل جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے نہیں گلا۔

حضرت زرؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطابؓ عید گاہ ننگے پاؤں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر مخزومیؓ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے اعلان کروایا الصلاة جامعہ سب نماز میں جمع ہو جائیں ضروری بات کرنی ہے جب لوگ کثرت سے جمع ہو گئے تو حضرت عمرؓ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا اے لوگو! میری چند خالائیں تھیں جو قبیلہ بنو مخزوم کی تھیں میں ان کے جانور چرایا کرتا تھا وہ مجھے مٹھی مٹھی کھنکھن اور کھجور دے دیا کرتی تھیں میں اس پر سارا دن گزارا کرتا تھا اور وہ بہت ہی اچھا دن ہوتا تھا پھر حضرت عمرؓ منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ان سے کہا اے امیر المؤمنین! آپ نے اور تو کوئی خاص بات کہی نہیں بس اپنا عیب ہی بیان کیا۔ حضرت عمرؓ نے کہا اے ابن عوف! تیرا بھلا ہو! میں تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا میرے نفس نے مجھ سے کہا تو امیر المؤمنین ہے تجھ سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ تو میں نے چاہا کہ اپنے نفس کو اس کی حیثیت بتا دوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے لوگو!

۱۔ اخرجہ ابن عساکر و اخرجہ ابن المبارک کذا فی المنتخب (ج ۴ ص ۱۷۴)

۲۔ اخرجہ ابن سعد عن حزام بن ہشام ۳۔ کذا فی المنتخب الكنز (ج ۴ ص ۱۷۴) ۵

۴۔ اخرجہ المرقدی فی العیدین کذا فی المنتخب (ج ۴ ص ۱۸۴)

۵۔ اخرجہ الدنیوری عن محمد بن عمر کذا فی المنتخب (ج ۴ ص ۱۷۴)

میں نے اپنا یہ حال دیکھا ہے کہ میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی میں اپنے قبیلہ بنو مخزوم کی خالوں کو بیٹھا پانی لاکر دیا کرتا تھا وہ مجھے کشمش کی چند مٹھیاں دے دیا کرتی تھیں۔ بس یہ کشمش ہی کھانے کی چیز ہوتی تھی آخر میں یہ بھی فرمایا مجھے اپنے نفس میں کچھ بڑائی محسوس ہوئی تو میں نے چاہا کہ اسے کچھ نیچے جھکاؤں۔<sup>۱</sup>

حضرت حسنؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ ایک سخت گرم دن میں سر پر چادر رکھے ہوئے باہر نکلے ان کے پاس سے ایک جوان گدھے پر گزر رہا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا اے جوان! مجھے اپنے ساتھ بٹھا لے وہ نو جوان کو دکر گدھے سے نیچے اتر اور اس نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ سوار ہو جائیں حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں پہلے تم سوار ہو جاؤ میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاؤں گا تم مجھے نرم جگہ بٹھانا چاہتے ہو اور خود سخت جگہ بٹھانا چاہتے ہو چنانچہ وہ جوان گدھے پر آگے بیٹھا ہوا تھا اور سب لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔<sup>۲</sup>

حضرت سنان بن سلمہ ہذلیؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند لڑکوں کے ساتھ نکلا اور ہم مدینہ میں گری ہوئی ادھ پجری کھوریں چننے لگے کہ اتنے میں حضرت عمر بن خطابؓ کو ڈالنے ہوئے آگئے جب لڑکوں نے ان کو دیکھا تھا وہ سب کھوروں کے بلغ میں ادھر ادھر بکھر گئے لیکن میں وہیں کھڑا ہوا اور میری لنگی میں کچھ کھوریں تھیں جو میں نے وہاں سے چٹی تھیں۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! یہ کھوریں وہ ہیں جو ہوا سے نیچے گری ہیں (یعنی میں نے درخت سے نہیں توڑی ہیں) حضرت عمرؓ نے میری لنگی میں رکھی ہوئی ان کھوروں کو دیکھا اور مجھے نہ مارا میں نے کہا اے امیر المؤمنین! (میں اب گھر جانا چاہتا ہوں راستہ میں آگے لڑکے کھڑے ہیں جو میری یہ تمام کھوریں چھین لیں گے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں چلو (میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں) چنانچہ حضرت عمرؓ میرے ساتھ میرے گھر تک آئے۔<sup>۳</sup>

حضرت مالکؓ کے دادا ایمان کرتے ہیں کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ جب مکہ سے مدینہ واپس آتے تو (مدینہ سے ذرا پہلے) معرس مسجد (ذوالحلیفہ) میں قیام فرماتے اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لئے سوار ہوتے تو سواری پر پیچھے کسی کو ضرور بٹھاتے اور کوئی نہ ملتا تو کسی لڑکے کو ہی بٹھا لیتے اور اسی حال میں مدینہ میں داخل ہوتے۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا کیا حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ اپنے پیچھے تواضع کے خیال سے بٹھایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں تواضع کے خیال سے بھی بٹھاتے تھے اور یہ

۱۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۲۹۳) عن ابی عمیر العارث بن عمیر عن رجل بمعناہ

۲۔ اخرجه الدینوری کذا فی المنتخب (ج ۴ ص ۴۱۷) ۳۔ اخرجه ابن سعد (ج ۷ ص ۹۰)

بھی چاہتے تھے کہ پیدل آدمی کو سواری مل جائے اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اور بادشاہوں جیسے نہ ہوں (کہ وہ تو کسی عام آدمی کو اپنے پیچھے بٹھاتے نہیں) پھر وہ بتانے لگے کہ اب تو لوگوں نے نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے خود سوار ہو جاتے ہیں اور غلام اور لڑکوں کو اپنے پیچھے پیدل چلاتے ہیں اور یہ بہت ہی عیب کی بات ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت میمون بن مہرانؓ کہتے ہیں مجھے ہمدانی نے بتایا کہ میں نے حضرت عثمانؓ کو دیکھا کہ آپ خنجر پر سوار ہیں اور ان کا غلام ناکل ان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے حالانکہ آپ اس وقت خلیفہ تھے۔<sup>۲</sup> حضرت عبداللہ رومیؒ کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ رات کو اپنے وضو کا انتظام خود کیا کرتے تھے کسی نے ان سے کہا اگر آپ اپنے کسی خادم سے کہہ دیں تو وہ یہ انتظام کر دیا کرے گا۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا رات ان کی اپنی ہے جس میں وہ آرام کرتے ہیں۔<sup>۳</sup> حضرت زبیر بن عبداللہؓ کہتے ہیں کہ میری دادی حضرت عثمانؓ کی خادمہ تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ (تجدد کے وقت) حضرت عثمانؓ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو نہ جگاتے ہاں اگر کوئی از خود اٹھا ہوا ہوتا تو اسے بلا لیتے تو وہ آپ کو وضو کے لئے پانی لا دیتا اور آپ ہمیشہ روزہ رکھتے۔<sup>۴</sup>

حضرت حسنؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت عثمانؓ مسجد میں ایک چادر میں سوتے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے حالانکہ اس وقت آپ امیر المومنین تھے۔<sup>۵</sup> حضرت ابنہؓ کہتے ہیں کہ محلہ کی لڑکیاں اپنی بحریاں لے کر (دودھ نکلوانے کے لئے) حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس آیا کرتی تھیں۔ حضرت ابو بکرؓ انہیں خوش کرنے کے لئے فرمایا کرتے تھے کیا تم چاہتی ہو کہ میں لہن عفراء کی طرح تمہیں دودھ نکال کر دوں حضرت خلفاء اور امراء کی طرز زندگی کے عنوان کے ذیل میں حضرت عائشہؓ، حضرت لہن عمر اور حضرت لہن مسیب وغیرہ حضرات رضی اللہ عنہم کی یہ روایت گزر چکی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ تاجر آدمی تھے روزانہ صبح جا کر خرید و فروخت کرتے ان کا بحریوں کا ایک ریوڑ بھی تھا جو شام کو ان کے پاس واپس آتا کبھی اس کو چرانے خود جاتے اور کبھی کوئی اور چرانے جاتا اپنے محلہ والوں کی بحریوں کا دودھ بھی نکال دیا کرتے جب یہ خلیفہ بنے تو محلہ کی ایک لڑکی نے کہا اب تو حضرت ابو بکرؓ خلیفہ بن گئے ہیں لہذا ہمارے گھر کی بحریوں کا دودھ اب تو کوئی نہیں نکالا کرے گا۔ حضرت ابو بکرؓ نے یہ سن کر فرمایا نہیں۔ میری عمر کی قسم! میں آپ لوگوں کے لئے دودھ ضرور

۱۔ اخرجه البيهقي عن مالك عن عمه عن ابيه كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۴۳) ۲۔ اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ۱ ص ۶۰) ۳۔ اخرجه ابن سعد واحمد في الزهد وابن عساکر كذا في الكنز (ج ۵ ص ۴۸) ۴۔ عند ابن المبارك في الزهد كذا في الاصابة (ج ۲ ص ۴۶۳) ۵۔ اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ۱ ص ۶۰) ۶۔ اخرجه ابن سعد كذا في المنتخب (ج ۴ ص ۳۶۱)

نکالا کروں گا اور مجھے امید ہے کہ خلافت کی ذمہ داری جو میں نے اٹھائی ہے یہ مجھے ان اخلاق کریمانہ سے نہیں ہٹائے گی جو پہلے سے مجھ میں ہیں۔ چنانچہ خلافت کے بعد بھی حملہ والوں کا دودھ نکالا کرتے تھے اور بعض دفعہ ازراہ مذاق حملہ کی لڑکی سے کہتے اے لڑکی! تم کیسا دودھ نکلوانا چاہتی ہو؟ جھاگ والا نکالوں یا بغیر جھاگ کے؟ کبھی وہ کہتی جھاگ والا اور کبھی کہتی بغیر جھاگ کے۔ بہر حال جیسے وہ کہتی ویسے یہ کرتے۔ حضرت صالحؑ کبل فروشؓ کہتے ہیں کہ میری دلاوی جان نے یہ بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت علیؑ نے ایک درہم کی کھوڑیں خریدیں اور انہیں اپنی چادر میں ڈال کر اٹھانے لگے تو میں نے ان سے کہلایا کسی مرد نے ان سے کہا اے امیر المؤمنین! آپ کی جگہ میں اٹھالیتا ہوں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا نہیں (میں نے کھوڑیں چوں کیلئے خریدی ہیں اس لئے کچھوں کلبا پ ہی ان کے اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ ۱

حضرت زاذانؓ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ بازار میں تھا تشریف لے جاتے حالانکہ آپ امیر المؤمنین تھے جسے راستہ معلوم نہ ہوتا اسے راستہ بتاتے، گمشدہ چیز کا اعلان کرتے، کمزور کی مدد کرتے اور دکاندار اور سبزی فروش کے پاس سے گزرتے تو اسے قرآن کی یہ آیت سناتے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا (سورت قصص آیت ۸۳) ترجمہ ”یہ عالم آخرت ہم ان ہی لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑھنا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا۔“ اور فرماتے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگوں کے حاکم ہیں اور انہیں تمام لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور وہ عدل و انصاف اور تواضع والے ہیں۔ ۲

حضرت جر موڑؓ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت علیؑ گھر سے باہر آ رہے ہیں اور انہوں نے قطر کی بنی ہوئی دو سرخی مائل چادریں لپیٹی ہوئی ہیں ایک لنگی آدھی پنڈلی تک اور دوسری اتنی ہی لمبی چادر اپنے اوپر لپیٹی ہوئی ہے ہاتھ میں کوڑا بھی ہے جسے لے کر وہ بازاروں میں جایا کرتے اور بازار والوں کو اللہ سے ڈرنے کا اور عمدہ طریقہ سے بیچنے کا حکم دیا کرتے اور فرماتے پورا تو لو اور پورا پورا اور یہ بھی فرماتے کہ گوشت میں ہوانہ بھرو (اس طرح گوشت موٹا نظر آئے گا اور لوگوں کو دھوکا لگے گا) ۳

حضرت ابو مطرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک آدمی نے مجھے پیچھے آواز دے کر کہا اپنی لنگی اونچی کر لے کیونکہ لنگی اونچا کرنے سے پتہ چلے گا کہ تم اپنے رب سے

۱۔ اخراجہ البخاری فی الادب (ص ۸۱) و اخراجہ ابن عساکر کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۵۶) و ابو القاسم البغوی کما فی البدایة (ج ۸ ص ۵) عن صالح بن حوہ ۲۔ اخراجہ ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۵۶) و اخراجہ ابو القاسم البغوی نحوه کما فی البدایة (ج ۸ ص ۵) ۳۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸) و اخراجہ ابن عبد البر فی الاستیعاب (ج ۳ ص ۴۸)



زیادہ ڈرنے والے ہو، اور اس سے تمہاری لنگی زیادہ صاف رہے گی اور اپنے سر کے بال صاف کر لے اگر تو مسلمان ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علیؓ تھے اور ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا پھر حضرت علیؓ چلتے چلتے اونٹوں کے بازار میں پہنچ گئے تو فرمایا کچھ ضرور لیکن قسم نہ کھاؤ کیونکہ قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے پھر ایک کھجور والے کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک خادمہ رو رہی ہے۔ حضرت علیؓ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس خادمہ نے کہا اس نے مجھے ایک درہم کی کھجوریں دیں لیکن میرے آقا نے انہیں لینے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت علیؓ نے کھجور والے سے کہا تم اس سے کھجوریں واپس لے لو اور اسے درہم دے دو کیونکہ یہ تو بالکل بے اختیار ہے (اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی) وہ لینے سے انکار کرنے لگا میں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہیں؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ حضرت علیؓ امیر المومنین ہیں اس نے فوراً کھجوریں لے کر اپنی کھجوروں میں ڈال لیں اور اسے ایک درہم دے دیا اور کہا اے امیر المومنین! میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی رہیں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا جب تم لوگوں کو پورا دو گے تو میں تم سے بہت زیادہ راضی رہوں گا پھر مچھلی والوں کے پاس پہنچ گئے تو فرمایا ہمارے بازار میں وہ مچھلی نہیں بلکنی چاہئے جو پانی میں مر کر اوپر تیرنے لگ گئی ہو پھر آپ کپڑے کے بازار میں پہنچ گئے یہ کھدر کا بازار تھا ایک دکاندار سے کہا اے بڑے میاں! مجھے ایک قمیض تین درہم کی دے دو۔ اس دکاندار نے حضرت علیؓ کو پہچان لیا تو اس سے قمیض نہ خریدی پھر دوسرے دکاندار کے پاس گئے جب اس نے بھی پہچان لیا تو اس سے بھی قمیض نہ خریدی پھر ایک نوجوان لڑکے سے تین درہم کی قمیض خریدی (وہ حضرت علیؓ کو نہ پہچان سکا) اور اسے پہن لیا اس کی آستین گٹے تک لمبی تھی اور خود قمیض ٹخنے تک تھی۔ پھر اصل دکاندار کپڑوں کا مالک آگیا تو اسے لوگوں نے بتایا کہ تیرے پیٹے نے امیر المومنین کے ہاتھ تین درہم میں قمیض پچی ہے تو اس نے پیٹے سے کہا تم نے ان سے دو درہم کیوں نہ لئے۔ چنانچہ وہ دکاندار ایک درہم لے کر حضرت علیؓ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یہ درہم لے لیں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اس قمیض کی قیمت دو درہم تھی میرے پیٹے نے آپ سے تین درہم لے لئے حضرت علیؓ نے فرمایا اس نے اپنی رضامندی سے تین درہم میں پچی اور میں نے اپنی خوشی سے تین میں خریدی۔ لہ

حضرت عطاءؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ آٹا گوند گھسے اور ان

کے سر کے بال لگن سے ٹکراتے۔<sup>۱</sup>

حضرت مطلب بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ عرب کی بیوہ خاتون یعنی حضرت ام سلمہؓ شام کو تو تمام مسلمانوں کے سردار (حضرت محمد ﷺ) کے ہاں دلہن بن کر آئیں اور رات کے آخری حصہ میں آنا پینے لگیں۔<sup>۲</sup>

حضرت سلامہؓ بھی کہتے ہیں میرا ایک بھانجا گاؤں سے آیا اسے قدامہ کے نام سے پکارا جاتا تھا اس نے مجھ سے کہا میں حضرت سلمان فارسیؓ سے ملنا اور انہیں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ہم انہیں ملنے چلے وہ ہمیں مدائن شہر میں مل گئے وہ ان دنوں بیس ہزار فوج کے امیر تھے وہ تخت پر بیٹھے ہوئے تجھور کے پتوں کی ٹوکری بنا رہے تھے ہم نے انہیں جا کر سلام کیا پھر میں نے عرض کیا اے ابو عبد اللہ! میرا بھانجا دیما سے میرے پاس آیا ہے آپ کو سلام کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سلمانؓ نے فرمایا علیہ السلام اور حمتہ اللہ میں نے کہا یہ کہتا ہے کہ اسے آپ سے محبت ہے انہوں نے فرمایا اللہ اسے اپنا محبوب بنائے۔<sup>۳</sup>

حضرت حارث بن عمیرہؓ کہتے ہیں میں مدائن میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ وہ اپنی کھال رکنے کی جگہ میں دونوں ہاتھوں سے ایک کھال کو رگڑ رہے ہیں جب میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے کہا ذرا اپنی جگہ ٹھہرنا، ابھی باہر آتا ہوں۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں (میں نے تمہیں پہچان لیا ہے) بلکہ میری روح نے تمہاری روح کو پہلے پہچانا میں نے بعد میں تمہیں پہچانا کیونکہ تمام روحیں جمع شدہ لشکر ہیں تو جن روحوں کا آپس میں وہاں تعارف اللہ کی خاطر ہو گیا وہ تو ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہوتیں۔<sup>۴</sup>

حضرت ابو قلابہؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت سلمانؓ کے پاس آیا۔ حضرت سلمانؓ آنا گوندھ رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا یہ کیا ہے؟ (کہ آپ خود بھی آنا گوندھ رہے ہیں) انہوں نے فرمایا (آنا گوندھنے والے) خادم کو ہم نے کسی کام کے لئے بھیج دیا اس لئے ہم نے اسے اچھانہ سمجھا کہ ہم اس کے ذمہ دو کام لگا دیں۔ پھر اس آدمی نے کہا فلاں صاحب آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ حضرت سلمانؓ نے پوچھا تم کب آئے تھے؟ اس نے کہا اتنے عرصے

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۳ ص ۳۱۲) ۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۸ ص ۶۴)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۹۸) ۴۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۹۶) و اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۹۸) عن الحارث مطولا وجعل ما ذکرہ

سے کیا ہوا ہوں۔ حضرت سلمانؓ نے فرمایا اگر تم اس کا سلام نہ پہنچانتے تو پھر یہ وہ لانت شمار ہوتی جو تم نے ادا نہیں کی (تمہارے ذمہ باقی رہتی)۔<sup>۱</sup>

حضرت عمرو بن ابو قرہ کندیؓ کہتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت سلمانؓ کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ وہ ان کی ہمشیرہ سے شادی کر لیں لیکن حضرت سلمانؓ نے انکار کر دیا بلکہ (میرے والد کے آزاد کردہ) بقیرہ نامی باندی سے شادی کر لی۔ پھر (میرے والد) حضرت ابو قرہ کو پتہ چلا کہ حضرت حدیفہؓ اور حضرت سلمانؓ کے درمیان کچھ بات ہوئی ہے تو میرے والد حضرت سلمانؓ کے پاس گئے وہاں جا کر انہوں نے حضرت سلمانؓ کے بارے میں پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ اپنے سبزی کے کھیت میں ہیں۔ میرے والد وہاں چلے گئے وہاں حضرت سلمانؓ کے پاس ایک ٹوکری تھی جس میں سبزی تھی انہوں نے اپنی لاشٹی اس ٹوکری کے دستے میں ڈال کر اپنے کندھے پر رکھی ہوئی تھی پھر وہ لوگ وہاں سے چل پڑے جب حضرت سلمانؓ کے گھر پہنچے اور وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو انہوں نے کہا السلام علیکم پھر انہوں نے (میرے والد) حضرت ابو قرہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ میرے والد نے اندر جا کر دیکھا تو چھوٹا بچھا ہوا تھا اور اس کے سر ہانے چند کچی اینٹیں تھیں اور تھوڑی سی کچھ اور چیز بھی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے والد سے کہا تم اپنی (آزاد کردہ) باندی کے اس بستے پر بیٹھ جاؤ جسے وہ اپنے لئے بچھاتی ہے۔<sup>۲</sup>

قبیلہ بنو عبد قیس کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمانؓ کو گدھے پر سوار ایک لشکر میں دیکھا جس کے وہ امیر تھے انہوں نے شلو اور پہنی ہوئی تھی جس کی پنڈلیاں (ہوا کی وجہ سے) بل رہی تھیں لشکر والے کہہ رہے تھے امیر صاحب آرہے ہیں۔ حضرت سلمانؓ نے فرمایا اچھے اور برے کا پتہ تو آج (یعنی دنیا سے جانے) کے بعد (قیامت کے دن) چلے گا۔<sup>۳</sup> قبیلہ بنو عبد قیس کے ایک صاحب کہتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک لشکر کے امیر تھے میں ان کے ساتھ ساتھ تھا وہ لشکر کے چند جوانوں کے پاس سے گزرے انہیں دیکھ کر ہنسے اور کہنے لگے یہ ہیں تمہارے امیر۔ میں نے حضرت سلمانؓ سے کہا اے ابو عبد اللہ! کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا انہیں چھوڑو (جو کرتے ہیں کرنے دو) کیونکہ اچھے اور برے کا پتہ تو آج کے بعد (کل قیامت کے دن) چلے گا اگر تمہارا بس چلے تو مٹی کھا لینا لیکن دو

<sup>۱</sup> اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۰۱) واخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۶۴) واحمد کما فی

صفة الصفوة (ج ۱ ص ۲۱۸) عن ابی قلابہ بنحوہ

<sup>۲</sup> اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۹۸) <sup>۳</sup> اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۹۹)

آدمیوں کا بھی امیر نہ بننا اور مظلوم اور بے بس و مجبور کی بددعا سے چٹا کیونکہ ان کی بددعا کو کوئی نہیں روک سکتا (سیدھی عرش پر جاتی ہے)۔ حضرت ثلثؓ کہتے ہیں کہ حضرت سلمانؓ مدائن کے گورنر تھے وہ گھٹنے تک کی شلوار اور چغہ پن کر باہر لوگوں میں نکلتے تو لوگ انہیں دکھ کر کہتے گرگ آمد گرگ آمد۔ حضرت سلمان پوچھتے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ بتاتے کہ یہ آپ کو اپنے ایک کھلونے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ حضرت سلمان فرماتے کوئی بات نہیں (دنیا میں اچھایا ہونے سے فرق نہیں پڑتا) اصل میں اچھا وہ ہے جو کل اچھا شمار ہو۔ ۱

حضرت ہریمؓ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک گدھے پر سوار ہیں جس کی پیٹھ تنگی ہے اور انہوں نے سلمان مقام کی بنی ہوئی چھوٹی سی قمیض پن رتھی تھی جو نیچے سے تنگ تھی ان کی پنڈلیاں لمبی تھیں ان پر بال بھی بہت تھے قمیض ان کی اونچی تھی جو گھٹنوں تک پہنچ رہی تھی میں نے دیکھا کہ بچے پیچھے سے ان کے گدھے کو بھگا رہے ہیں میں نے بچوں کو کہا کیا تم امیر سے پرے نہیں بیٹے؟ حضرت سلمانؓ نے فرمایا نہیں چھوڑو اچھے برے کا تو کل پتہ چلے گا۔ ۳

حضرت ثلثؓ کہتے ہیں حضرت سلمانؓ مدائن کے گورنر تھے ایک دفعہ قبیلہ بنو تیم اللہ کا ایک شامی آدمی آیا اس کے پاس بھوسے کا ایک گھنٹھ تھا اسے راستہ میں حضرت سلمانؓ نے انہوں نے گھٹنے تک کی شلوار اور چغہ پن رکھا تھا اس آدمی نے ان سے کہا کہ امیر گھنٹھ اٹھا لو وہ آدمی ان کو پہنچاتا نہیں تھا حضرت سلمانؓ نے وہ گھنٹھ اٹھا لیا جب اور لوگوں نے حضرت سلمانؓ کو دیکھا تو انہوں نے انہیں پہچان لیا اور اس آدمی سے کہا یہ تو (ہمارے) گورنر ہیں۔ اس آدمی نے حضرت سلمانؓ سے کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں حضرت سلمانؓ نے فرمایا نہیں میں تمہارے گھر تک اسے پہنچاؤں گا۔ دوسری سند کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت سلمانؓ نے فرمایا میں نے (تمہاری خدمت کی) نیت کی ہے اس لئے جب تک میں اسے تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا اسے (سر سے اتار کر) نیچے نہیں رکھوں گا۔ ۴

حضرت عبداللہ بن بریدہؓ فرماتے ہیں حضرت سلمانؓ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کوئی چیز تیار کیا کرتے تھے جب انہیں اس کام سے کچھ رقم مل جاتی تو گوشت یا مچھلی خرید کر اسے پکاتے پھر کوڑھ کے مریضوں کو بلاتے اور ان کے ساتھ کھاتے۔ ۵

۱ عند ابن سعد (ج ۴ ص ۶۳) ۲ عند ابن سعد ایضا

۳ عند ابن سعد ایضا ۴ اخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۶۳)

۵ اخرجه ابو نعیم فی التحلیۃ (ج ۱ ص ۲۰۰)

حضرت محمد بن سیرینؒ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطابؓ کسی کو گور نہ بنا کر بھیجتے تو اس کے معاہدہ نامہ میں (لوگوں کو) یہ لکھتے کہ جب تک یہ تمہارے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے رہیں تم ان کی بات سنتے رہو اور مانتے رہو چنانچہ جب حضرت حذیفہؓ کو مدائن کا گور نہ بنا کر بھیجا تو ان کے معاہدہ نامہ میں یہ لکھا کہ ان کی بات سنو اور مانو اور جو تم سے مانگیں وہ ان کو دے دو، وہ حضرت عمرؓ کے پاس سے جب چلے تو وہ گدھے پر سوار تھے گدھے پر پالان پڑا ہوا تھا اور اس پر ان کا زاد سفر بھی تھا جب یہ مدائن پہنچے تو وہاں کے مقامی ذمی لوگوں نے اور دیہات کے چودھریوں نے ان کا استقبال کیا اس وقت ان کے ہاتھ میں روٹی اور گوشت والی ہڈی تھی اور گدھے پر پالان پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنا معاہدہ نامہ ان لوگوں کو پڑھ کر سنایا تو انہوں نے کہا آپ جو چاہیں ہم سے فرمائش کریں۔ انہوں نے فرمایا جب تک میں تم میں رہوں مجھے کھانا اور میرے اس گدھے کو چارہ دیتے رہو پھر وہ کافی عرصہ تک رہے پھر حضرت عمرؓ نے انہیں لکھا کہ (مدینہ) آ جاؤ۔ جب حضرت عمرؓ کو پتہ چلا کہ حضرت حذیفہؓ مدینہ پہنچنے والے ہیں تو وہ ان کے راستہ میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے حضرت حذیفہؓ انہیں نہ دیکھ سکیں۔ حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ وہ اسی حالت پر واپس آ رہے ہیں جس حالت پر گئے تھے تو باہر نکل کر انہیں چٹ گئے اور فرمایا تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں حضرت لئن سیرینؒ کہتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہؓ مدائن پہنچے تو وہ گدھے پر سوار تھے جس پر پالان پڑا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں روٹی اور گوشت والی ہڈی تھی جسے وہ گدھے پر بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے۔ حضرت طلحہ بن مصرفؓ روای کی روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں پاؤں ایک کی طرف لٹکا رکھے تھے۔

حضرت سلیم ابو ہذیلؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر نوکاکام کرتا تھا حضرت جریر گھر سے باہر آتے اور فخر پر سوار ہوتے اور اپنے پیچھے اپنے غلام کو بٹھالیتے۔<sup>۳</sup>

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بازار میں گزر رہے تھے اور ان کے سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھار کھا ہوا تھا کسی نے ان سے کہا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ کو اتنا دے رکھا ہے کہ آپ کو خود اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو دوسروں سے اٹھوا سکتے ہیں۔ فرمایا

۱۔ اخروہ ابن سعد کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۲۳) ۲۔ عند ابی نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۷۷)

۳۔ اخروہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۷۳) وسلمة ومحمد بن منصور الکلبی لم اعرہا

میں اپنے دل سے تکبر نکالنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جاسکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو گا۔  
حضرت علیؓ فرماتے ہیں تو اضع کی بیاد تین چیزیں ہیں۔ آدمی کو جو بھی طے اسے سلام میں پہل کرے اور مجلس کی اچھی جگہ کے بجائے ادنیٰ جگہ میں بیٹھنے پر راضی ہو جائے اور دکھاوے اور شہرت کو برا سمجھے۔ ۱

## مزاح اور دل لگی

### حضور ﷺ کا مزاح

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہم سے مذاق بھی فرمالیے ہیں آپ نے فرمایا ہاں مگر میں کبھی غلط بات نہیں کہتا۔ ۲  
ایک آدمی نے حضرت لنن عباسؓ سے پوچھا کہ کیا حضور ﷺ مزاح فرمایا کرتے تھے؟  
حضرت لنن عباسؓ نے فرمایا ہاں، اس آدمی نے کہا آپ کا مزاح کیسا ہوتا تھا؟  
حضرت لنن عباسؓ نے حضورؐ کے مزاح کا یہ قصہ سنایا کہ حضورؐ نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کو کھلا کپڑا پہننے کو دیا اور فرمایا اسے پہن لو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور نئی دلہن کی طرح اس کا دامن گھسیٹ کر چلو۔ ۳

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے اخلاق تمام لوگوں سے عمدہ تھے میرا ایک بھائی ابو عمیر نامی تھا جو دودھ چھوڑ چکا تھا جب حضور ہمارے ہاں تشریف لاتے اور اسے دیکھ لیتے تو فرماتے اے ابو عمیر! تمہارے نفیر (یعنی لال چڑیا یا بلبل) کا کیا ہوا؟ نفیر پرندے کے ساتھ ابو عمیر کھیلا کرتا تھا بعض دفعہ نماز کا وقت آتا اور آپ ہمارے گھر میں ہوتے تو آپ ارشاد فرماتے کہ میرے نیچے جو چھوٹا ہے اسے جھاڑو اور اس پر پانی چھڑکو۔ ہم ایسے ہی کرتے پھر حضور آگے کھڑے ہو جاتے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے آپ ہمیں نفل نماز پڑھاتے وہ چھوٹا کھجور کے پتوں کا بنا ہوا تھا ۴ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ ہم لوگوں کیساتھ کھل کر رہتے تھے حتیٰ کہ آپ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے اے ابو عمیر

۱۔ اخرجه الطبرانی باسناد حسن ورواه الاصبهانی الا انه قال مقال ذرة من كبر كذا في الترغيب (ج ۲ ص ۱۴۳)۔

۲۔ اخرجه الترمذی فی الشمائل (ص ۱۷) واخرجه البخاری فی الادب (ص ۴۱) عن ابی ہریرہ مثله  
۳۔ اخرجه ابن عساکر وضعفه كذا في الكنز (ج ۴ ص ۴۳)۔

۴۔ اخرجه احمد وقندرواه الجماعة الا ابا داؤد من طرق عن انس بنحوه كذا في البداية (ج ۶ ص ۳۸)۔

انغیر پرندے کا کیا بنا؟! حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ حضرت طلحہؓ کے ہاں تشریف لے گئے تو ان کے ایک بیٹے کو بڑا غمگین دیکھا جس کی کنیت ابو عمیر تھی حضورؐ کا معمول یہ تھا کہ آپ جب ابو عمیر کو دیکھا کرتے تو اُس سے مزاح فرمایا کرتے چنانچہ حضورؐ نے فرمایا کیا بات ہے؟ ابو عمیر غمگین نظر آ رہا ہے۔ گھر والوں نے بتایا کہ اس کا انغیر پرندہ مر گیا ہے جس سے یہ کھیلا کرتا تھا اس پر حضورؐ اسے (دل لگی کے لیے) فرمانے لگے اے ابو عمیر! انغیر پرندے کا کیا بنا؟!

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور اس نے حضورؐ سے اپنے لئے سواری مانگی تو حضورؐ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کا چہرہ دیں گے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اونٹنی کے چہرے کا کیا کروں گا (مجھے تو سواری کے لئے جانور چاہئے وہ چہرہ تو سواری کے کام نہیں آسکے گا) حضورؐ نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا چہرہ ہی تو ہوتا ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک دفعہ مجھے ازراہ مزاح فرمایا۔ او دوکان والے۔<sup>۲</sup>

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ذیہات کے رہنے والے ایک آدمی کا نام زاہر تھا وہ گاؤں سے حضور ﷺ کے لئے (سبزی ترکاری وغیرہ) ہدیہ لایا کرتے اور جب یہ واپس جانے لگتے تو حضورؐ انہیں شہر کی چیزیں دے دیا کرتے اور حضورؐ فرماتے زاہر ہمارا ذیہات ہے اور ہم اس کا شہر ہیں۔ حضورؐ نے پیچھے سے جا کر ان کی کوئی ایسی بھری کہ وہ حضورؐ کو دیکھ نہ سکیں یعنی ان کی کمر اپنے سینے سے لگا کر ان کی بغلوں کے نیچے سے دونوں ہاتھ لے جا کر ان کی آنکھوں پر رکھ دیئے۔ حضرت زاہر نے کہا یا رسول اللہ! اگر آپ مجھے پتیل گے تو مجھے کھوٹا اور کم قیمت پائیں گے حضورؐ نے فرمایا لیکن تم اللہ کے نزدیک کھوٹے اور کم قیمت نہیں ہو بلکہ اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قیمت ہے۔<sup>۳</sup>

۱۔ اخرجه البخاری فی الادب (ص ۴۲) وھكذا لفظ الترمذی ۲۔ عند ابن سعد (۳ ص ۵۰۶)

۳۔ و اخرجه البخاری فی الادب المفرد (ص ۴۱) عن انس نحوه و اخرجه ابن سعد (ج ۸ ص ۲۲۴) عن محمد بن قیس رضی اللہ عنہ بمعناہ الا انہ جعل السائلہ ام ایمن رضی اللہ عنہا

۴۔ اخرجه ابو دائود کذا فی البدایہ (ج ۶ ص ۴۶) و اخرجه الترمذی فی الشمائل (ص ۱۶) و قال قال ابو اسامہ رضی اللہ عنہ یعنی یمازحہ و اخرجه ابو نعیم و ابن عساکر کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۴۲) ۵۔ اخرجه احمد و هذا اسناد رجالہ کلہم ثقات علی شرط الصحیحین ولم یروہ الا الترمذی فی الشمائل و رواہ ابن خبان فی صحیحہ کذا فی البدایہ (ج ۶ ص ۴۶) و اخرجه ایضا ابو یعلیٰ و البزار قال الھشیمی و رجال احمد رجال الصحیح و اخرجه البزار و الطبرانی عن سالم ابی الجعد عن رجل من اشجع یقال زاہر بن حرام الا شجعی رجل بدوی و کان لا یزال یاتی النبی ﷺ بطرفہ او ہدیۃ فذکر بمعناہ قال الھشیمی (ج ۹ ص ۳۶۹) رواہ البزار و الطبرانی و رجالہ موثقون . ۱۰

حضرت نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے اندر آنے کی اجازت مانگی حضرت ابو بکرؓ نے سنا کہ حضرت عائشہؓ کی آواز حضورؐ سے لوپنچی ہو رہی ہے انہوں نے اندر جا کر تھوڑا مارنے کے لئے حضرت عائشہؓ کو پکڑا اور فرمایا تم اپنی آواز اللہ کے رسول سے لوپنچی کر رہی ہو؟ حضور ابو بکرؓ کو روکنے لگے حضرت ابو بکرؓ اسی غصہ میں واپس چلے گئے۔ جب حضرت ابو بکرؓ چلے گئے تو حضورؐ نے فرمایا دیکھا میں نے تمہیں کیسے آدمی سے چھڑا لیا۔ چند دن کے بعد پھر ابو بکرؓ نے حضورؐ سے اندر آنے کی اجازت مانگی (اجازت ملنے پر اندر گئے) تو دیکھا کہ دونوں میں یعنی حضورؐ اور عائشہؓ میں صلح ہو چکی ہے۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا جیسے آپ دونوں نے اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا ایسے ہی اپنی صلح میں بھی مجھے شریک کر لیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہم نے تمہیں شریک کر لیا تمہیں شریک کر لیا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں حضور ﷺ کے ساتھ سفر میں گئی میں اس وقت نو عمر لڑکی تھی میرے جسم پر گوشت بھی کم تھا اور میرا بدن بھاری نہیں تھا۔ حضورؐ نے لوگوں سے کہا آپ لوگ آگے چلے جائیں۔ چنانچہ سب چلے گئے تو مجھ سے فرمایا آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کروں۔ چنانچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا تو میں حضورؐ سے آگے نکل گئی اور حضورؐ خاموش رہے۔ پھر میرے جسم پر گوشت زیادہ ہو گیا اور میرا بدن بھاری ہو گیا اور میں پہلے قصہ کو بھول گئی تو پھر میں آپ کے ساتھ سفر میں گئی آپ نے لوگوں سے کہا آگے چلے جاؤ۔ لوگ آگے چلے گئے پھر مجھ سے فرمایا آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کروں چنانچہ ہم دونوں میں مقابلہ ہوا تو حضورؐ مجھ سے آگے نکل گئے۔ حضورؐ ہنسنے لگے اور فرمایا یہ پہلی دوڑ کے بدلے میں ہے (اب معاملہ برابر ہو گیا)۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ سفر میں چل رہے تھے۔ ایک حدی خواں (حدی ان اشعار کو کہا جاتا ہے جنہیں پڑھنے سے لونٹ اور تیز چلنے لگتے ہیں) حضورؐ کی ازواج مطہرات کے لونٹوں کو حدی بڑھ کر آگے سے چلا رہا تھا اور یہ ازواج مطہرات حضورؐ سے آگے جا رہی تھیں حضورؐ نے (حدی خواں کو) فرمایا اے انجھہ! تیرا بھلا ہو۔ ان کا حج کی شیشوں کے ساتھ نرمی کرو (لونٹوں کو زیادہ تیز نہ چلاؤ)۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنی بعض بیویوں کے پاس آئے ان ازواج مطہرات کے ساتھ حضرت ام سلیمؓ بھی تھیں حضورؐ نے فرمایا اے انجھہ! ان شیشوں کو آہستہ لے کر چلو (لونٹ زیادہ حدی سن کر مستی میں آگئے تو یہ عورتیں گرجائیں گی یا حدی کے اشعار سے ان کے دل چکنا چور ہو جائیں گے) حضرت

۱۔ اخرجه ابو داؤد كذا في البداية (ج ۶ ص ۴۶)

۲۔ اخرجه احمد وفي الصحيحين نحوه عن انس كذا في البداية (ج ۶ ص ۴۷)



ابو قلابہ کہتے ہیں حضورؐ نے ایسی بات ارشاد فرمائی ہے اگر تم میں سے کوئی یہ بات کہتا تو تم اسے عیب کی بات سمجھتے اور وہ بات یہ ہے کہ حضورؐ نے فرمایا ان شیعوں کو آہستہ لے کر چلو۔<sup>۱</sup>

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بوڑھی عورت نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے آپؐ نے فرمایا اے فلاں! جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی وہ عورت روتے ہوئے واپس جانے لگی تو آپؐ نے فرمایا اسے بتادو کہ وہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی (بلکہ جوان کنواری بن کر جنت میں جائے گی) کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اِنَّا اَنْشَاْنَا هَا هُنَّ اَنْشَاءً فَجَعَلْنَا هُنَّ اَبْكَارًا (سورت واقعہ آیت ۳۵، ۳۶)

ترجمہ: ”ہم نے (وہاں کی) ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں۔“<sup>۲</sup>

### حضور ﷺ کے صحابہ کا مزاج و دل لگی

حضرت عوف بن مالک اشجعیؓ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپؐ چڑے کے ایک چھوٹے خیمہ میں تشریف فرما تھے میں نے آپؐ کو سلام کیا آپؐ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اندر آ جاؤ میں نے عرض کیا کیا سارا ہی آ جاؤں؟ حضورؐ نے فرمایا سارے ہی آ جاؤ چنانچہ میں اندر چلا گیا۔ حضرت ولید بن عثمان بن ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عوف نے جو یہ کہا کہ کیا میں سارا ہی آ جاؤں؟ یہ خیمے کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔<sup>۳</sup>

حضرت ابن ابی ملیحہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے حضور ﷺ سے کوئی مزاج کی بات کی تو حضرت عائشہؓ کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ! اس قبیلہ کی بعض مذاق کی باتیں قبیلہ کنانہ سے ہیں حضورؐ نے فرمایا یہ خاندان ہمارے مذاق کا ایک حصہ ہے۔<sup>۴</sup>

حضرت ابو البیہیمؓ کو ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے خود سنا کہ حضرت ابو سفیان بن حربؓ اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہؓ کے گھر میں حضور ﷺ کو بطور مذاق کہہ رہے تھے اللہ کی قسم! جو نبی میں نے آپؐ سے جنگ کرنی چھوڑی تمام عرب نے بھی چھوڑ دی ورنہ آپؐ کی وجہ سے سینک والا اور بے سینک ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے حضورؐ سن کر مسکراتے رہے اور آپؐ نے فرمایا اے ابو حظلہ! تم بھی ایسی باتیں کرتے ہو۔<sup>۵</sup>

۱ عند البخاری فی الادب (ص ۴۱) ۲ اخرجه الترمذی فی الشمائل (ص ۱۷)

۳ اخرجه ابو دائود فی البداية (ج ۶ ص ۶۶) ۴ اخرجه البخاری فی الادب (ص ۴۱)

۵ اخرجه الزبير بن بكار وابن عساكر كذا في الكنز (ج ۴ ص ۴۳)

حضرت بخر بن عبداللہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے صحابہؓ مزاح میں ایک دوسرے پر خریوزے پھینکتے تھے لیکن جب حقیقت اور کام کا وقت ہوتا تو اس وقت وہ مرد میدان ہوتے (یعنی اس وقت مزاح نہیں کرتے تھے جب کام نہ ہوتا تو کبھی کبھار کرتے تھے) کہ حضرت قرہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن سیرین سے پوچھا کہ کیا حضور ﷺ کے صحابہؓ آپس میں ہنسی مزاح کیا کرتے تھے؟ حضرت ابن سیرین نے کہا ہاں وہ عام لوگوں جیسے ہی تھے چنانچہ حضرت ابن عمرؓ مزاح میں یہ شعر پڑھا کرتے۔

ویکروہ ان تفارقه الفلوس

بیحت الخمر من مال الندامی

وہ (خلیل ہے اس لئے) اپنے ہم نشینوں کے مال سے شراب پینا چاہتا ہے اور مال کی جدائی سے اسے بڑی ناگواری ہوتی ہے۔

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں حضرت ابو بکرؓ تجارت کی غرض سے بصری (ملک شام کا ایک شہر) تشریف لے گئے ان کے ساتھ حضرت نعیمان اور حضرت سویط بن حرملہؓ بدری صحابی بھی تھے حضرت سویط کھانے کے سامان کے ذمہ دار تھے۔ حضرت نعیمان نے ان سے کہا مجھے کچھ کھانا کھلا دو۔ حضرت سویط نے کہا حضرت ابو بکرؓ گئے ہوئے ہیں جب وہ آجائیں گے تو کھلا دوں گا۔ حضرت نعیمان کی طبیعت میں ہنسی اور مزاح بہت زیادہ تھا وہاں قریب میں کچھ لوگ اپنے جانور لے کر آئے ہوئے تھے۔ حضرت نعیمان نے ان سے جا کر کہا میرا ایک خوب چست اور طاقتور عربی غلام ہے تم لوگ اسے خرید لو ان لوگوں نے کہا بہت اچھا حضرت نعیمان نے کہا بس اتنی بات ہے کہ وہ ذرا باتونی ہے اور شاید وہ یہ بھی کہے کہ میں آزاد ہوں اگر تم اس کے اس کہنے کی وجہ سے اسے چھوڑ دو گے تو پھر رہنے دو یہ سودا مت کرو اور میرے غلام کو نہ بکاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو اسے خریدیں گے اور اسے نہیں چھوڑیں گے چنانچہ ان لوگوں نے دس جوان اونٹنیوں کے بدلے میں انہیں خرید لیا۔ حضرت نعیمان دس اونٹنیاں ہانکتے ہوئے آئے اور ان لوگوں کو بھی ساتھ لائے اور اگر ان لوگوں سے کہا یہ رہا تمہارا وہ غلام اسے لے لو۔ جب وہ لوگ حضرت سویط کو پکڑنے لگے تو حضرت سویط نے کہا حضرت نعیمان غلط کر رہے ہیں میں تو آزاد آدمی ہوں ان لوگوں نے کہا انہوں نے تمہاری یہ بات ہمیں پہلے ہی بتادی تھی چنانچہ وہ لوگ حضرت سویط کے گلے میں رسی ڈال کر لے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ واپس آئے تو انہیں اس قصہ کا پتہ چلا تو وہ اور ان کے ساتھی ان

خریدنے والوں کے پاس گئے اور ساری بات بتا کر ان کی اونٹنیاں انہیں واپس کیں اور حضرت سوط کو واپس لے کر آئے پھر مدینہ واپس آکر ان حضرات نے حضور ﷺ کو یہ سارا واقعہ سنایا تو حضورؐ اور آپ کے صحابہؓ اس قصہ کو یاد کر کے سال بھر ہنستے رہے۔ (ان حضرات کے دل بالکل صاف ستھرے تھے اور حضرت سوط کو معلوم تھا کہ حضرت نعیمان کی طبیعت میں ہنسی مذاق بہت ہے اس لئے انہوں نے کچھ برا نہ محسوس کیا۔

حضرت ربیعہ بن عثمانؓ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور اپنی اونٹنی مسجد سے باہر بٹھا کر مسجد کے اندر چلا گیا حضرت نعیمان بن عمر و انصاریؓ جنہیں نعیمان کہا جاتا ہے ان سے حضورؐ کے بعض صحابہؓ نے کہا ہمارا گوشت کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہے اگر تم اس اونٹنی کو ذبح کر دو اور ہمیں اس کا گوشت کھانے کو مل جائے تو بہت مزہ آئے گا حضورؐ بعد میں اونٹنی کی قیمت اس کے مالک کو دے دیں گے چنانچہ حضرت نعیمان نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا پھر وہ دیہاتی باہر گیا اور اپنی اونٹنی کو دیکھ کر چیخ پڑا کہ اے محمدؐ! ہائے ان لوگوں نے میری اونٹنی کو ذبح کر دیا اس پر حضورؐ مسجد سے باہر تشریف لائے اور پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا نعیمان نے حضورؐ نعیمان کے بچھے چل پڑے اور اس کا پتہ کرنے کرتے آخر حضرت ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلبؓ کے گھر پہنچ گئے حضرت نعیمان اس کے اندر ایک کڑھے میں چھپے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے لوہے پر بٹھور کی ٹہنیاں لور پتے وغیرہ ڈال رکھے تھے چنانچہ ایک آدمی نے لوہی آواز سے تو یہ کہا یا رسول اللہ! میں نے اسے نہیں دیکھا لیکن انگلی سے اس جگہ کی طرف اشارہ کر دیا جہاں حضرت نعیمان چھپے ہوئے تھے۔ حضورؐ نے وہاں جا کر انہیں باہر نکالا تو پتوں وغیرہ کی وجہ سے ان کا چہرہ بدلا ہوا تھا حضورؐ نے ان سے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! جن لوگوں نے اب آپ کو میرا پتہ بتلایا ہے انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ اس اونٹنی کو ذبح کر دو حضورؐ مسکرائے لگے اور ان کا چہرہ صاف کرنے لگے اور پھر حضورؐ نے اس دیہاتی کو اس اونٹنی کی قیمت ادا کی۔

حضرت عبد اللہ بن مصعبؓ کہتے ہیں حضرت مخرمہ بن نوفل بن اہیب زہریؓ مدینہ منورہ

۱۔ اخرجه احمد و اخرجه ابو داؤد الطیاسی و الرویانی وقد اخرجه ابن ماجه فقلبه جعل المازح سويط والمبتاع نعيمان و روى الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة هذا لقصة من طريق اخرى عن امر سلمة الا انه سماه سليط بن حرملة واطنه تصحيفا وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره كذا في الاصابة ۲ ص ۹۸) وقد اخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (ج ۲ ص ۲۶) (ج ۳ ص ۵۷۳) حديث ۱ من طرق ۱ اخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (ج ۳ ص ۵۷۵) وهكذا ذكره في ۱ ص ۵۷۰) عن الزبير بن بكار عن ربعة بن عثمان

میں ایک ناپید ہوئے میاں تھے ان کی عمر ایک سو پندرہ سال تھی۔ ایک دن وہ مسجد میں پیشاب کرنے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے شور مچا دیا۔ حضرت نعیمان بن عمر بن رفاعہ بن حارث بن سواد نجاریؓ ان کے پاس آئے اور انہیں مسجد کے ایک کونے میں لے گئے اور ان سے کہا یہاں بیٹھ کر پیشاب کر لو اور انہیں وہاں بٹھا کر خود وہاں سے چلے گئے تو لوگوں نے شور مچا دیا۔ پیشاب کرنے کے بعد انہوں نے کہا تمہارا بھلا ہو مجھے یہاں کون لایا تھا؟ لوگوں نے کہا نعیمان بن عمرؓ انہوں نے کہا اللہ اس کے ساتھ یہ کرے اور یہ کرے (یعنی انہیں بد عادی اور میں بھی نذر مانتا ہوں کہ اگر وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو میں انہیں اپنی اس لائٹھی سے بہت زور سے ماروں گا چاہے ان کا کچھ بھی ہو جائے۔ اس واقعہ کو کافی دن گزر گئے یہاں تک کہ حضرت مخرمہ بھی بھول گئے۔ ایک دن حضرت عثمانؓ مسجد کے کونے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عثمانؓ بڑی یکسوئی سے نماز پڑھا کرتے تھے ادھر ادھر توجہ نہ فرمایا کرتے حضرت نعیمان حضرت مخرمہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کیا آپ نعیمان کو مارنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ۔ حضرت نعیمان نے لا کر انہیں حضرت عثمانؓ کے پاس کھڑا کر دیا اور کہا یہ ہیں مار لو۔ حضرت مخرمہ نے دونوں ہاتھوں سے لائٹھی اس زور سے ماری کہ حضرت عثمانؓ کے سر میں زخم ہو گیا لوگوں نے انہیں بتایا کہ آپ نے تو امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ کو مار دیا۔ حضرت مخرمہ کے قبیلہ عوزرہ نے جب یہ سنا تو وہ سب جمع ہو گئے حضرت عثمانؓ نے فرمایا اللہ نعیمان پر لعنت کرے۔ تم نعیمان کو چھوڑ دو کیونکہ وہ جنگ بدر میں شریک ہوا تھا (اس لئے ان کی رعایت کرنی چاہئے)۔

### سخاوت اور جود

## سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی سخاوت

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نیکی کے کاموں میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور آپؐ کی سخاوت کا سب سے زیادہ ظہور رمضان شریف میں ہوتا جب آپؐ کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوتی اور حضرت جبرائیلؑ رمضان کی ہر رات میں سے ملا کرتے اور آپؐ سے قرآن کا ورد کرتے پھر تو آپؐ خیر اور نیکی کے کاموں میں عام آمدہ پہنچانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔

ابن عباس عن عمه مصعب بن عبد اللہ عن جدہ کذا فی الاستیعاب (ج ۳ ص ۵۷۷)  
 (ج ۱ ص ۲ صابہ) (ج ۳ ص ۵۷۰) زبیر بن بکار و أخرجه الشيخان کذا فی صفة الصفوة  
 ابن سعد (ج ۲ ص ۱۹۵) عنہ نحوه

حضرت جلد بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حضور ﷺ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپؐ نے فرمایا ہو ”نہیں“۔

حضرت ابو اسیدؓ فرمایا کرتے تھے کہ حضور ﷺ سے جو چیز بھی مانگی جاتی تھی آپؐ اسے روکتے نہیں تھے (بلکہ دے دیا کرتے تھے)۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ سے کوئی چیز مانگی جاتی اور آپؐ کا دینے کا ارادہ ہوتا تو آپؐ ہاں فرماتے اور (نہ ہونے کی وجہ سے) نہ دینے کا ارادہ فرماتے تو خاموش ہو جاتے اور کسی چیز کے بارے ”نہ“ نہ فرماتے۔

حضرت ریح بنت معوذ بن عفرانؓ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت معوذ بن عفرانؓ نے ایک صاع تازہ کھجوریں جن پر چھوٹی روئیں دار لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں دے کر حضور ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ حضورؐ نے ہاتھ بھر کر وہ زیورات مجھے عطا فرمائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضورؐ نے مجھے اتنے زیور یا سونا عطا فرمایا جس سے میرے دونوں ہاتھ بھر گئے۔ امام احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضورؐ نے یہ بھی فرمایا یہ زیور پہن کر اپنے آپ کو آراستہ کر لینا۔

حضرت ام سنبلہؓ حضور ﷺ کی خدمت میں کچھ ہدیہ لے کر گئیں آپؐ کی ازواج مطہرات نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم نہیں لیں گی حضورؐ نے ازواج مطہرات کو فرمایا تو انہوں نے لے لیا پھر حضورؐ نے حضرت ام سنبلہ کو ایک وادی بطور جاگیر کے عطا فرمائی، جسے حضرت عبد اللہ بن جحش نے بعد میں حضرت حسن بن علیؓ سے خرید لیا۔ مال خرچ کرنے کے عنوان میں حضور ﷺ کی سخاوت کے قصے گزر چکے ہیں۔

## نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کی سخاوت

حضرت لئن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں یہ کپڑا عرب کے سب سے زیادہ سخی آدمی کو دوں گی پاس ہی حضرت سعید بن عاصؓ کھڑے ہوئے تھے حضورؐ نے ان کی طرف اشارہ کرتے

۱۔ اخرجه الشيخان كذا في البداية (ج ۶ ص ۴۳) ۲۔ عند احمد في حديث طويل عن عبد الله بن ابي بكر قال الهيمى (ج ۹ ص ۱۳) ورجاله ثقات الا ان عبد الله بن ابي بكر لم يسمع من ابي سيد. اه ۳۔ عند الطبراني في الاوسط في حديث طويل قال الهيمى (ج ۹ ص ۱۳) وفيه محمد بن كثير الكوفي وهو ضعيف. اه ۴۔ اخرجه الطبراني قال الهيمى (ج ۹ ص ۱۳) واسنادهما حسن. اه. وخرجه الترمذى عن الربيع مختصر البداية (ج ۶ ص ۵۶) ۵۔ اخرجه الطبراني في الاوسط قال الهيمى (ج ۹ ص ۱۴) وفيه عمر بن قبيطى ولم اعرفه رجاله ثقات. اه.

ہوئے فرمایا اس نوجوان کو دے دو (چنانچہ اس عورت نے حضرت سعید کو وہ کپڑا دے دیا)  
اسی وجہ سے ان کپڑوں کو سعیدی کپڑے کہا گیا۔ مال خرچ کرنے کے عنوان میں صحابہؓ کی  
سخاوت کے قصے گزر چکے ہیں۔

## ایشارو ہمدردی

حضرت ابن عمرؓ فرماتے کہ ہم پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو  
دینار و درہم کا اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ حقدار نہیں سمجھتا تھا اور اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ  
ہمیں دینار و درہم سے اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ محبت ہے آگے اور بھی حدیث ہے کہ ایشار  
کے اور قصے سخت پیاس، کپڑوں کی کمی، انصار کے قصوں اور ضرورت کے باوجود خرچ کرنے  
کے عنوان میں گزر چکے ہیں۔

## صبر کرنا

### عام ہمساریوں پر صبر کرنا

### سیدنا حضرت محمد رسول ﷺ کا صبر

حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں گیا حضور کو مختار چڑھا ہوا تھا  
آپ نے ایک چادر لوڑھی ہوئی تھی میں نے چادر کے نوپے سے ہاتھ رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ  
آپ کو کتنا تیز مختار چڑھا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا ہم (انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام) پر اسی طرح  
سخت تکلیف و آزمائش کیا کرتی ہے اور ہمارا اجر و ثواب بھی دگنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ!  
لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش کن پر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا نبیوں پر میں نے کہا پھر کن  
پر؟ آپ نے فرمایا علماء پر میں نے کہا پھر کن پر؟ آپ نے فرمایا نیک بندوں پر۔ بھٹوں نیک  
بندوں کے جسم میں اتنی جو میں پڑ جاتی تھیں کہ اسی میں ان کا انتقال ہو جاتا تھا اور بھٹوں پر اتنی  
تنگدستی آئی تھی کہ انہیں چونہ کے علاوہ کوئی اور چیز پہننے کو نہ ملتی تھی لیکن تمہیں دینا ملنے سے  
جتنی خوشی ہوتی ہے انہیں آزمائش اور تکلیف سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ ۳

۱۔ اخراجہ الزبیر بن بکار و ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۸۹)

۲۔ اخراجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۸۵) رواہ الطبرانی اسانید و بعضہا حسن.

۳۔ اخراجہ ابن ماجہ و ابن ابی الدنیا و الحاکم و اللفظ و قال صحیح علی شرط مسلم ولہ شواہد  
کثیرة کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۲۴۳) و اخراجہ البہقی کما فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۴) و ابو نعیم  
فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۷۰) نحوہ

حضرت ابو عبیدہ بن حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ ان کی پھوپھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم عورتیں حضور ﷺ کی عیادت کرنے گئیں حضورؐ کو بخار چڑھا ہوا تھا آپ کے فرمانے پر پانی کا ایک مشکیزہ درخت پر لٹکایا گیا پھر آپ اس کے نیچے لیٹ گئے اور اس مشکیزہ سے پانی کے قطرے آپ کے سر پر ٹپکنے لگے چونکہ آپ کو بخار بہت تیز تھا اس (کی تیزی کم کرنے کے لئے) آپ نے ایسا کیا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کہ وہ آپ کی بیماری کو دور کر دے تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ حضورؐ نے فرمایا تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخت تکلیف و آزمائش انبیاء علیہم السلام پر آتی ہے۔ پھر ان پر جو ان کے قریب ہوں پھر ان پر جو ان کے قریب ہوں پھر ان پر جو ان کے قریب ہوں۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ رات کو بیمار ہو گئے پھر آپ کی بیماری بڑھنے لگی اور آپ اپنے بستر پر کروٹیں بدلنے لگے۔ میں نے کہا ہم میں سے کوئی اس طرح کرتا تو آپ ناراض ہوتے۔ حضورؐ نے فرمایا مومن بندوں پر تکلیف زیادہ آتی ہے اور مومن بندے کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے چاہے بیماری ہو یا کائناتی۔ لگے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی خطاؤں کو مٹادیتے ہیں اور اس کے درجے بلند فرمادیتے ہیں۔

### نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام کا بیمار یوں پر صبر

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں بخار نے حضور ﷺ کی خدمت میں آنے کی اجازت مانگی حضورؐ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بخار نے کہا ام ولدؓ ہو (یہ بخار کی کنیت ہے) حضورؐ نے بخار کو حکم دیا کہ قبائلوں میں چلے جاؤ (چنانچہ بخار ادھر چلا گیا) اور انہیں بخار ہونے لگا اور اللہ ہی جانتا ہے کہ انہیں کتنا بخار ہوا انہوں نے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر بخار کی شکایت کی حضورؐ نے فرمایا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اگر تم لوگ چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہارا بخار دور کر دے اور اگر تم چاہو تو (تمہارا بخار باقی رہے اور) یہ بخار تمہارے لئے (گناہوں سے) پاک کا ذریعہ بن جائے ان قبائلوں نے عرض کیا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ حضورؐ نے فرمایا ہاں تو انہوں نے عرض کیا پھر تو بخار کو رہنے دیں۔ حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں کہ بخار نے

۱۔ اخرجہ الیہقی کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۴) واخرجہ احمد والطبرانی فی الکبیر بنحوہ قال الیہمی (ج ۲ ص ۲۹۲) واستاد احمد حسن ۲۔ اخرجہ ابن سعد والحاکم والیہقی کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۴) واخرجہ احمد بنحوہ قال الیہمی (ج ۲ ص ۲۹۲) ورجاله ثقات  
۳۔ اخرجہ احمد قال فی الترغیب (ج ۵ ص ۲۶۰) رواہ احمد ورواہ رواة الصحیح وابو یعلی وابن حبان فی صحیحہ اہ

حضور ﷺ سے حاضری کی اجازت چاہی حضور نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مختار ہوں گوشت کو کاٹتا ہوں اور خون چوس لیتا ہوں حضور نے فرمایا جاؤ قباء والوں کے پاس چلے جاؤ چنانچہ مختار قباء چلا گیا (اور قباء والوں کے چہرے زرد ہو گئے) تو انہوں نے آکر حضور ﷺ سے مختار کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں اور وہ تمہارا مختار دور کر دے اور اگر تم چاہو تو مختار کو رہنے دیں۔ ۱۰

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ مختار نے حضور ﷺ کی خدمت میں آکر کہا یا رسول اللہ! مجھے آپ اپنے ان صحابہؓ کے پاس بھیج دیں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ حضور نے فرمایا انصار کے پاس چلے جاؤ چنانچہ مختار ان کے پاس چلا گیا اور سب کو مختار آنے لگا جس کی وجہ وہ سب گر گئے۔ انصار نے حضور کی خدمت میں آکر عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے ہاں مختار گیا ہوا ہے آپ ہمارے لئے صحت و شفا کی دعا فرمادیں حضور نے دعا فرمائی تو مختار چلا گیا ایک عورت حضور کے پیچھے آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے لئے دعا فرمادیں میں بھی انصار میں سے ہوں اس لئے میرے لئے بھی وہی دعا فرمادیں جیسے آپ نے انصار کے لئے دعا فرمائی حضور نے فرمایا تمہیں ان دو باتوں میں سے کوئی زیادہ پسند ہے ایک یہ کہ میں تمہارے لئے دعا کروں اور تمہارا مختار چلا جائے اور دوسری یہ کہ تم صبر کرو اور تمہارے لئے جنت واجب ہو جائے؟ اس نے تین دفعہ کہا نہیں۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ! میں صبر کروں گی اور پھر کہا اللہ کی قسم! میں اللہ کی جنت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ ۱۱

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان حضور ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا وہ چند دن نہ آیا تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے فلاں نظر نہیں آ رہا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اسے مختار ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا اٹھو اس کی عیادت کے لئے چلیں جب حضور اس نوجوان کے گھر میں اس کے پاس گئے تو وہ رونے لگا۔ حضور نے اس سے فرمایا مت رو کیونکہ حضرت جبرائیلؑ نے مجھے خبر دی ہے کہ مختار میری امت کے لئے جہنم کے بدلے میں ہے۔ ۱۲

حضرت ابو سفرؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکرؓ ہمارے ہوئے تو کچھ لوگ ان کی عیادت کرنے آئے اور انہوں نے عرض کیا اے خلیفہ رسول اللہ! کیا ہم آپ کے لئے کسی طیب کو نہ

۱۔ عبد الطبرانی قال الہیثمی (ج ۲ ص ۳۰۶) وفي هشام بن لاحق وثقه النسائي وضعفه احمد

وابن مبان. ۱۱. واخرجه البيهقي عن سلمان نحوه كما في البداية (ج ۶ ص ۱۶۰)

۱۲. اخرجه البيهقي كذا في البداية (ج ۶ ص ۱۶۰) واخرجه البخاري في الادب (ص ۷۳) عن ابي

هريرة بمعناه ۱۳. اخرجه الطبراني في الصغير والا وسط وفي عمر بن راشد ضعفه احمد

وغيره وو ثقه العجلي كما في المجموع (ج ۲ ص ۳۰۲)



بلائیں جو آپ کو دیکھ لے؟ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا طیب مجھے دیکھ چکا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ) ان لوگوں نے پوچھا پھر اس طیب نے آپ کو کیا کہا ہے؟ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اس نے کہا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں! حضرت معاویہ بن قرہؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ہمد ہو گئے تو ان کے پاس ان کے ساتھی آئے اور انہوں نے کہا اے ابو الدرداء آپ کو کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے گناہوں سے شکایت ہے انہوں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں جنت چاہتا ہوں انہوں نے کہا کیا ہم آپ کے لئے کسی طیب کو بلائے لائیں؟ انہوں نے فرمایا طیب نے ہی تو مجھے (ہمد کر کے بستر پر) لٹایا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ نے)!

حضرت عبدالرحمن بن غنمؓ کہتے ہیں ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو حضرت عمرو بن عاصؓ نے فرمایا یہ طاعون تو عذاب ہے لہذا تم لوگ اس سے بھاگ کروادیوں اور گھائیوں میں چلے جاؤ۔ یہ بات جب حضرت شرحبیل بن حسنہؓ کو پہنچی تو انہیں غصہ آ گیا اور فرمایا حضرت عمرو بن عاصؓ غلط کہتے ہیں۔ میں تو (شروع زمانہ میں مسلمان ہو کر) حضور ﷺ کی صحبت اختیار کر چکا تھا اور ان دنوں حضرت عمرو بن عاصؓ تو اپنے گھر والوں کے اونٹ سے زیادہ گمراہ تھے (یعنی وہ کافر تھے) یہ طاعون تو تمہارے نبی کی دعا ہے (کیونکہ حضورؐ نے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ! میری امت کو نیزوں کے ذریعے بھی اپنے راستہ کی شہادت نصیب فرما اور طاعون کے ذریعے بھی) اور یہ تمہارے رب کی رحمت ہے (کہ طاعون سے جو مرے گا وہ اللہ کے ہاں شہید شمار ہوگا) اور تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے۔ یہ ان کی وفات کا ذریعہ ہے۔ یہ بات حضرت معاذ بن جبلؓ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا اے اللہ! اس طاعون کی بیماری میں سے معاذ کی لولاد کو وافر حصہ نصیب فرما۔ چنانچہ ان کی دو بیٹیاں اسی بیماری میں انتقال کر گئیں اور ان کے بیٹے حضرت عبدالرحمنؓ کو بھی طاعون ہو گیا تو حضرت عبدالرحمنؓ نے کہا یہ امر واقعی آپ کے رب کی طرف سے (بتلایا گیا) ہے لہذا آپ شبہ کرنے والوں میں سے ہرگز نہ بنیں تو حضرت معاذ نے فرمایا تم مجھے انشاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے اور حضرت معاذ کی ہتھیلی کی پشت پر طاعون کا دانہ نکل آیا تو فرمانے لگے یہ دانہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس بیٹھا ہوا ایک آدمی رو رہا ہے فرمایا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا میں اس علم کی وجہ سے رو رہا ہوں جو میں آپ سے حاصل کیا کرتا تھا۔ فرمایا مت رو

۱۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۱۴۱) وابن ابی شیبہ واحمد فی الزهد وابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۴) وهنا کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۳) ۲۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۱۸) واخرجه ابن سعد (ج ۷ ص ۱۱۸) عن معاوية مثله

کیونکہ حضرت ابراہیم ایسے علاقہ میں رہتے تھے جہاں کوئی عالم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا لہذا جب میں مر جاؤں تو ان چار آدمیوں سے علم حاصل کرنا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عبد اللہ بن سلام، حضرت سلمان اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم لہو نعیم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت معاذ، حضرت عبیدہ، حضرت شریحیل بن حسہ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ ایک ہی دن طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوئے تو حضرت معاذ نے کہا یہ طاعون تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے (کہ اس پر شہادت کا درجہ ملتا ہے) اور تمہارے نبی کریم ﷺ کی دعا ہے اور تم سے پہلے کے نیک بندوں کی روح قبض کرنے کا ذریعہ ہے اے اللہ! آل معاذ کو اس رحمت میں سے وافر حصہ عطا فرما۔ ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ ان کے بیٹے حضرت عبدالرحمن طاعون میں مبتلا ہو گئے یہ ان کے سب سے پہلے بیٹے تھے اور اسی کے نام سے ان کی کنیت ابو عبدالرحمن تھی اور حضرت معاذ کو اس سے محبت سب سے زیادہ تھی۔ حضرت معاذ نے فرمایا اور انشاء اللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے آخر اسی رات عبدالرحمن کا انتقال ہو گیا اور اگلے دن ان کو حضرت معاذ نے دفن کیا۔ پھر حضرت معاذ کو بھی طاعون کی بیماری ہو گئی اور نزاع کی ایسی سخت کیفیت ان کو ہوئی کہ کسی کو نہ ہوئی ہوگی جب بھی موت کی سختی سے ان کو آفاقہ ہوتا تو آنکھ کھول کر کہتے اے میرے رب! تو میرا جتنا لگا گھوٹنا چاہتا ہے گھوٹ لے تیری عزت کی قسم! تو جانتا ہے کہ میرا دل تجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔

حضرت شریحیل بن حوشب اپنی قوم کے ایک آدمی حضرت رلبہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب طاعون کی وبا پھیلنے لگی تو حضرت ابو عبیدہؓ لوگوں میں بیان کرنے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو! یہ بیماری تو تمہارے رب کی رحمت ہے اور تمہارے نبی کی دعا ہے اور تم سے پہلے کے نیک بندوں کی موت کا ذریعہ تھی اور ابو عبیدہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ کو اس بیماری میں سے اس کا حصہ عطا فرمائے چنانچہ انہیں بھی طاعون کی بیماری ہوئی جس میں ان کا انتقال ہو گیا پھر ان کے بعد حضرت معاذ بن جبلؓ لوگوں کے امیر بنے تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر بیان کیا اور فرمایا اے لوگو! یہ بیماری تمہارے رب کی رحمت ہے اور تمہارے نبی کی دعا ہے اور تم سے پہلے کے نیک بندوں کی موت کا ذریعہ تھی۔ معاذ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا

۱۔ اخرجہ ابن خزيمة وابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۳۲۵) واخرجہ احمد عن عبدالرحمن بن غنم مختصراً والبخاری عنه مطولاً كما ذكر الهيثمي (ج ۲ ص ۳۱۲) وقال اسانيد احمد حسان صحاح ۱۰هـ واخرجہ الحاكم (ج ۱ ص ۲۷۶) وابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۴۰) عن عبدالرحمن مختصراً ۲۔ اخرجہ احمد عن ابی منیب مختصراً ورجالہ ثقات وسندہ متصل كما قال الهيثمي (ج ۲ ص ۳۱۱)

ہے کہ وہ معاذ کی اولاد کو اس بیماری میں سے ان کا حصہ عطا فرمائے۔ چنانچہ ان کے بیٹے عبدالرحمن کو طاعون کی بیماری ہوئی اور اس میں انکا انتقال ہو گیا پھر حضرت معاذ نے کھڑے ہو کر اپنے لئے بیمار ہونے کی دعائ مانگی تو ان کی ہتھیلی میں طاعون کا دانہ نکل گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت معاذ اسے دیکھ رہے تھے اور اپنی ہتھیلی کو پلٹ کر فرما رہے تھے (اے ہتھیلی) مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ تجھ میں جو یہ طاعون کی بیماری ہے اس کے بدلے مجھے دنیا کی کوئی چیز مل جائے جب حضرت معاذ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمرو بن عاصؓ کو لوگوں کا امیر بنایا گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر بیان کیا اے لوگو! یہ بیماری جب کسی کو ہوتی ہے تو آگ کی طرح بھڑکتی ہے لہذا تم لوگ پہاڑوں میں جا کر اس سے اپنی جان بچاؤ اس پر حضرت وائلہؓ نے فرمایا آپ غلط کہہ رہے ہو اللہ کی قسم! میں اس وقت حضور ﷺ کی صحبت میں رہا ہوں جس وقت آپ میرے اس گدھے سے زیادہ گمراہ تھے (یعنی کافر تھے) حضرت عمرو نے فرمایا آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کا جواب تو نہیں دوں گا لیکن اللہ کی قسم! اب ہم لوگ یہاں نہیں رہیں گے چنانچہ حضرت عمرو بن عاص وہاں سے چلے گئے اور لوگ بھی چلے گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے اور اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری ان سے دور فرمادی جب حضرت عمر بن خطابؓ کو حضرت عمرو بن عاص کی اس رائے کی اطلاع ملی تو اللہ کی قسم انہوں نے اسے ناپسند نہ فرمایا۔

حضرت ابو قلابہؓ کہتے ہیں کہ ملک شام میں طاعون کی بیماری پھیلی تو حضرت عمرو بن عاصؓ نے کہا یہ ناپاک بیماری پھیل چکی ہے لہذا تم یہاں سے چلے جاؤ اور وادیوں اور گھاٹیوں میں ادھر ادھر بکھر جاؤ۔ حضرت معاذؓ کو جب ان کی اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ان کی اس بات کی تصدیق نہ فرمائی بلکہ فرمایا بلکہ فرمایا نہیں یہ طاعون تو شہادت کا درجہ دلاتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اترتی ہے اور یہ تمہارے نبی کریم ﷺ کی دعا ہے اے اللہ! معاذ کو اور اس کے گھر والوں کو اپنی رحمت میں سے حصہ عطا فرما۔ حضرت ابو قلابہؓ کہتے ہیں یہ تو میں سمجھ گیا کہ طاعون تمہارے نبی کی دعا ہے۔ یہاں تک کسی نے مجھے بتایا کہ حضور ﷺ ایک رات نماز پڑھ رہے تھے، پھر آپ نے یہ دعائیں مرتبہ مانگی اے اللہ! پھر یا تو بخار ہو یا طاعون ہو۔ صبح کو حضورؐ کے گھر والوں میں سے کسی نے حضورؐ سے کہا یا رسول اللہ! آج رات میں نے آپ کو ایک خاص دعائ مانگتے ہوئے سنا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا اچھا تم نے وہ دعائ مانگی؟ اس نے کہا جی ہاں حضورؐ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے یہ دعائ کی کہ میری امت قحط سالی سے ہلاک نہ ہو اللہ تعالیٰ نے یہ دعائ قبول فرمائی اور میں نے یہ دعائ مانگی کہ ان پر ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو جڑ سے اکھڑ دے

اور بالکل ختم کر دے اور یہ بھی دعا کی کہ ان کا آپس میں اختلاف نہ ہو۔ ان کے مختلف گروہ نہ بنیں اور ان میں آپس میں لڑائی نہ ہو لیکن یہ آخری دعا قبول نہ ہوئی اور اس کا مجھے انکار ہو گیا اس پر میں نے تین مرتبہ عرض کیا کہ پھر میری امت کو بخار ہو یا طاعون۔ لہ

حضرت عروہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں کہ طاعون عمواس (ملک شام کی ایک جگہ کا نام ہے) سے حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ اور ان کے گھر والے بچے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ دعا مانگی اے اللہ! ابو عبیدہ کے گھر والوں کو (اس بیماری میں سے) حصہ نصیب فرما چنانچہ حضرت ابو عبیدہ کی چھوٹی انگلی میں طاعون کی پھنسی نکل آئی تو وہ اسے دیکھنے لگے کسی نے کہا یہ تو (چھوٹی سی ہے) کچھ بھی نہیں ہے تو فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس پھنسی میں برکت نصیب فرمائیں گے اور جب اللہ تعالیٰ تھوڑی چیز میں برکت ڈالتے ہیں تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے لہ حضرت حارث بن عمیرہ حارثیؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہؓ بن جراحؓ کو طاعون کی بیماری ہوئی تو حضرت معاذ بن جبلؓ نے حضرت حارثؓ کو حال پوچھنے کے لئے حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں بھیجا حضرت ابو عبیدہ نے حضرت حارثؓ کو طاعون کی پھنسی دکھائی جو ان کی ہتھیلی میں نکلی ہوئی تھی اس پر حضرت حارثؓ نے جب یہ پھنسی دیکھی تو وہ ڈر گئے کیونکہ انہیں یہ پھنسی بڑی معلوم ہوئی۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ مجھے اس پھنسی کی جگہ سرخ لونٹ مل جائیں۔ لہ

پینائی کے چلے جانے پر صبر کرنا

نبی کریم ﷺ کے صحابہ کا پینائی کے چلے جانے پر صبر کرنا

حضرت زید بن ارقمؓ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں دکھنے آگئیں حضورؐ میری عیادت کے لئے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے زید! اگر تمہاری آنکھیں ایسے ہی دکھتی رہیں اور ٹھیک نہ ہوں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا صبر کروں گا اور اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گا۔ حضورؐ نے فرمایا اگر تمہاری آنکھیں یوں ہی دکھتی رہیں اور تم نے صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی تو تمہیں اس کے بدلہ میں جنت ملے گی لہ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقمؓ کی آنکھیں دکھنے آگئیں میں حضورؐ کے ساتھ ان کی عیادت کرنے گیا۔ حضورؐ نے ان سے فرمایا اے زید!

۱۔ اخراجہ احمد قال الہیثمی (ج ۲ ص ۳۱۱) رواہ احمد و ابو قلابہ لم یدرک معاذ بن جبل انتہی

۲۔ اخراجہ ابن عساکر

۳۔ عندہ ایضا کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۷۴)

۴۔ اخراجہ البخاری فی الادب (ص ۷۸)

تمہاری آنکھوں کو جو تکلیف ہے اگر تم اس پر صبر کرو گے اور اس پر اللہ سے ثواب کی امید رکھو گے تو تم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو گے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہ ہو گا۔

حضرت زید بن ارقمؓ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا تھا اس وجہ سے نبی کریم ﷺ میری عیادت کے لئے تشریف لائے حضورؐ نے فرمایا تمہاری اس بیماری سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن تمہارا اس وقت کیا حال ہو گا جب تم میرے بعد زندہ رہو گے اور ناپینا ہو جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میں صبر کروں گا اور اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گا۔ حضورؐ نے فرمایا پھر تم تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے چنانچہ حضرت زید حضورؐ کے انتقال کے بعد واقعی ناپینا ہو گئے۔ طبرانی کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد حضرت زید ناپینا ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہ کی روشنی واپس فرمادی پھر حضرت زید کا انتقال ہوا۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔

حضرت قاسم بن محمدؓ کہتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ کے ایک صحابی کی پینائی چلی گئی لوگ ان کی عیادت کے لئے آئے تو انہوں نے فرمایا مجھے آنکھوں کی اس لئے ضرورت تھی تاکہ میں ان سے حضور ﷺ کی زیارت کروں جب حضور ہی تشریف لے گئے تو اب اللہ کی قسم! مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہو گی کہ میری آنکھوں کی یہ تکلیف (یعنی کے شہر) تبالہ کے کسی ہرن کو ہو جائے۔

اولاد و اقارب اور دوستوں کی موت پر صبر

سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا صبر

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میں نے (حضور ﷺ کے صاحبزادے) حضرت ابراہیمؓ کو دیکھا کہ حضورؐ کے سامنے ان پر نزاع کی کیفیت طاری تھی یہ دیکھ کر حضورؐ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ نے فرمایا آنسو بہا رہی ہے اور دل غمگین ہو رہا ہے لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو اے ابراہیم! اللہ کی قسم! ہم تمہارے جانے کی وجہ سے غمگین ہیں۔

۱۔ عندنا حمد قال الهیثمی (ج ۲ ص ۳۰۸) وفيه الجعفی وفيه كلام كثير وقد وثقه الثوري وشعبة انتهى  
 ۲۔ عند ابی یعلیٰ وابن عساکر وخرجه البیهقی عن زید بمعناه كما فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۷) وخرجه الطبرانی فی الکبیر عن زید نحوه  
 ۳۔ قال الهیثمی (ج ۲ ص ۳۰۹) وبناته بنت یزید بن حماد لم اجد من ذکرها  
 ۴۔ اخرجه البخاری فی الادب (ص ۷۸) وخرجه ابن سعد (ج ۲ ص ۸۵) عن القاسم نحوه  
 ۵۔ اخرجه ابن سعد (ج ۱ ص ۹۰)

حضرت کھولتے ہیں کہ حضور ﷺ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ پر سہا لائے ہوئے اندر تشریف لائے۔ اندر حضرت لہر ایہم پر نزع کی حالت طاری تھی جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضورؐ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حضورؐ کی خدمت میں حضرت عبدالرحمن نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس سے تو آپ لوگوں کو روکتے ہیں۔ جب مسلمان آپ کو روتا ہوا دیکھیں گے تو وہ بھی رونے لگ جائیں گے۔ جب آپ کے آنسو رک گئے تو آپ نے فرمایا یہ رونا تو رحم یعنی دل کی نرمی کی وجہ سے ہے جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہم تو لوگوں کو مردہ پر نوحہ کرنے سے روکتے ہیں اور اس بات سے روکتے ہیں کہ مردہ کی ان خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے جو اس میں نہیں تھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا سب کو اکٹھا کر دینے کا وعدہ موت کا چال اور استہ نہ ہوتا اور ہم میں سے بعد میں جانے والوں کا پہلے جانے والوں سے جا ملنا نہ ہوتا تو ہمیں اس سے زیادہ غم ہوتا اور ہم اس کے جانے پر غمگین ہیں آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں دل غمگین ہے لیکن ہم زبان سے ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا بار نراض ہو اور اس کی دودھ پینے کی باقی مدت جنت میں پوری کی جائے گی۔

حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ کی ایک صاحبزادی نے آپ کو بلانے کے لئے ایک آدمی یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہونے والا ہے۔ حضورؐ نے آنے والے قاصد سے فرمایا کہ واپس جا کر میری بیٹی کو بتادو کہ اللہ نے جو چیز ہم سے لے لی وہ بھی اسی کی ہے اور جو ہمیں دی ہے وہ بھی اسی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور اسے کہہ دو کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے (وہ قاصد صاحبزادی کے پاس جواب لے کر گیا لیکن صاحبزادی نے اسے دوبارہ بھیج دیا) وہ قاصد دوبارہ آیا اور اس نے کہا کہ وہ آپ کو قسم دے کر کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے پاس ضرور تشریف لے جائیں اس پر حضورؐ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابتؓ اور چند صحابہ بھی کھڑے ہوئے میں بھی ان حضرات کے ساتھ گیا (جب وہاں پہنچے تو اس بچے کو اٹھا کر حضورؐ کے پاس لایا گیا بچے کا سانس اکھڑا ہوا تھا (ایسی آواز آرہی تھی) جیسے کہ وہ پرانے اور سوکھے مشکیزے میں ہو۔ حضورؐ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعدؓ نے حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحم اور شفقت کا مادہ

ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے (خاص) بندوں کے دلوں میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان ہی بندوں پر رحم فرماتے ہیں جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہوں۔ ۱۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ بن عبد المطلبؓ شہید ہو گئے تو آپ نے ایسا دردناک منظر دیکھا کہ اس سے زیادہ دردناک منظر کبھی نہ دیکھا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے کان ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیئے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت تم پر ہو یہاں تک مجھے معلوم ہے تم صلہ رحمی کرنے والے اور بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے تھے۔ اللہ کی قسم! اگر تمہارے بعد والے رشتہ داروں کے رنج و غم کے زیادہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میری خوشی اس میں تھی کہ میں تمہیں یہاں ایسے ہی چھوڑ دیتا (اور دفن نہ کرتا اور تمہیں درندے کھا جاتے یوں تمہاری قربانی اور بڑھ جاتی) تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں درندوں کے پیڑوں میں سے جمع کر کے اٹھاتا۔

غور سے سنو! اللہ کی قسم! ان کافروں نے جیسے تمہارے ناک، کان اعضاء کاٹے ہیں میں ان میں سے ستر کافروں کے اسی طرح ناک کان اعضاء کاٹوں گا اس پر حضرت جبرائیلؑ یہ سورت لے کر نازل ہوئے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَا قِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوْ قِبْتُمْ بِهِ آیت کے آخر تک (سورت نحل آیت ۱۲۶، ۱۲۷) ترجمہ: اور اگر بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا خدا ہی کی توفیق سے ہے اور ان پر غم نہ کیجئے اور جو کچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو جائیے۔ اس پر حضورؐ نے اپنی اس قسم کو پورا نہ کیا بلکہ اس کا کفارہ لو اکیا۔ ۲۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب حضورؐ حضرت حمزہؓ (کی شہادت کے بعد ان) پر کھڑے ہوئے تو آپ نے بہت زیادہ دل دکھانے والی حالت دیکھی اس پر آپ نے فرمایا اگر اپنی رشتہ دار عورتوں کے رنج و غم بڑھ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں دفن نہ کرتا اور یہاں ایسے ہی چھوڑ دیتا تاکہ یہ درندوں کے پیڑوں اور پرندوں کی پونوں میں چلے جاتے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ انہیں میدان حشر میں اٹھاتے۔ ان کی دردناک حالت دیکھ کر حضورؐ نے شدت غم میں فرمایا اگر وہ کافر میرے قابو آگئے تو میں ان میں سے تیس آدمیوں کے ناک کان اعضاء کاٹوں گا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَا قِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوْ قِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ سے لے کر سمکرون تک (ترجمہ پہلے گزر چکا ہے) پھر آپ کے فرمانے

۱۔ اخروجه العباسی و احمد و ابودنہ و الترمذی و ابن ماجہ و ابو عوانة و ابن حبان کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۱۱۸) ۲۔ اخروجه البزار و الطبرانی و فیہ صالح بن بشیر المزنی و هو ضعیف کما قال الہیثمی (ج ۶ ص ۱۱۹) و اخروجه الحاکم (ج ۳ ص ۱۹۷) بحسبنا لاسناد نحوہ.

پر حضرت حمزہ کو قبلہ رخ لٹایا گیا اور آپ نے تکبیریں کہہ کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی (پھر ان کا جنازہ وہیں رہنے دیا) پھر آپ کے پاس شہداء کو لایا گیا جب بھی کوئی شہید لایا جاتا تو اسے حضرت حمزہ کے پہلو میں رکھ دیا جاتا (چونکہ شہداء ۷۲ تھے اس وجہ سے) آپ نے حضرت حمزہ کی اور دیگر شہداء کی بہتر مرتبہ نماز جنازہ پڑھی پھر آپ نے کھڑے ہو کر ان شہداء کو دفن کیا۔ جب قرآن کی اوپر والی آیت نازل ہوئی تو آپ نے کافروں کو معاف کر دیا اور ان سے درگزر فرمایا اور ان کے ناک، کان، اعضاء کاٹنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔

حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد شہید ہوئے تو نبی کریم ﷺ نے مجھے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ اگلے دن میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آج بھی تمہیں دیکھ کر مجھے وہی رنج و صدمہ ہو رہا ہے جو کل ہوا تھا۔

حضرت خالد بن شمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حضور ﷺ ان کے گھر تشریف لے گئے وہاں حضور کے سامنے حضرت زید کی بیٹی بلک بلک کر رونے لگی۔ اس پر آپ بھی رونے لگ گئے اور اتاروئے کہ آپ کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ ایک دوست کا اپنے محبوب دوست کے شوق میں رونا ہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اس کے بعد حضور ﷺ نے اس کا بوسہ لیا اس وقت آپ رورہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لکن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے آنسو بہہ کر حضرت عثمان بن مظعون کے رخسار پر گر رہے ہیں۔

## نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا موت پر صبر

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے دن شہید ہوئے تھے اور یہ اس جماعت میں تھے جو لشکر کی دیکھ بھال کرنے والی تھی۔ انہیں اچانک ایک نامعلوم تیر لگا جس سے یہ شہید ہو گئے ان کی والدہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے بتائیں کہ حارثہ کہاں ہے؟ اگر وہ

۱۔ عند الطبرانی وفيه احمد بن ايوب بن راشد وهو ضعيف قال الهيثمي (ج ۶ ص ۱۲۰)

۲۔ اخرجه بن ابى شيبة وابن ميعن والبيزار والبادردى والدارقطنى فى الافراد وسعيد بن منصور

كذافى المنتخب (ج ۵ ص ۱۳۶) ۳۔ عند ابن سعد (ج ۳ ص ۳۲)

۴۔ اخرجه الترمذى كذافى الاصابية (ج ۲ ص ۴۷۴)

۵۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۲۸۸) عن عائشة نحوه



جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی ورنہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں یعنی کتنا نوحہ کرنی ہوں اس وقت تک نوحہ کرنا حرام نہیں ہوا تھا حضورؐ نے ان سے فرمایا تیرا اہملا ہو! کیا تم بے وقوف ہو گئی ہو؟ (کہ ایک ہی جنت سمجھتی ہو) جنتیں تو آٹھ ہیں اور تمہارے بیٹے کو فردوس اعلیٰ جنت ملی ہے لہٰذا ایک روایت میں ہے کہ اگر حارثہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور اگر کہیں اور ہے تو میں اس کی وجہ سے رونے میں سدا زور لگاؤں گی۔ حضورؐ نے فرمایا ام حارثہ! وہاں تو کئی جنتیں ہیں اور تمہارا بیٹا فردوس اعلیٰ میں گیا ہی۔ لہٰذا طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضورؐ نے فرمایا اے ام حارثہ! وہاں ایک جنت نہیں ہے بلکہ بہت سی جنتیں ہیں اور وہ فردوس اعلیٰ جنت میں ہے۔ حضرت ام حارثہ نے کہا پھر تو میں صبر کروں گی۔ لیکن نجار کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ام حارثہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں نہ روؤں گی اور نہ غم کا اظہار کروں گی اور اگر وہ جہنم میں ہے تو میں جب تک دنیا میں زندہ رہوں گی روتی رہوں گی۔ حضورؐ نے فرمایا اے ام حارثہ! وہاں ایک جنت نہیں ہے بلکہ کئی جنتیں ہیں اور (تمہارا بیٹا) حارث (پیارے کی وجہ سے حارثہ کی جگہ حارث فرمایا) تو فردوس اعلیٰ میں ہے۔ اس پر وہ ہنستی ہوئی واپس آگئیں اور کہہ رہی تھیں واہ واہ اے حارث تیرے کیا کہنے۔ ۳

حضرت محمد بن ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو قریظہ کی لڑائی میں انصار کے ایک صاحب شہید ہو گئے جنہیں خلاد کہا جاتا تھا کسی نے اگر ان کی والدہ سے کہا اے ام خلاد! خلاد شہید ہو گئے تو وہ نقاب پہنے ہوئے باہر آئیں کسی نے کہا تمہارا بیٹا خلاد شہید ہو گیا ہے اور تم نے نقاب پہنا ہوا ہے (تمہیں اظہار غم کے لئے نقاب اتار دینا چاہئے) انھوں نے کہا اگر میرا بیٹا خلاد چلا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں شرم و حیا کو بھی ہاتھ سے جانے دوں۔ حضورؐ کو جب اس کی خبر ملی تو آپؐ نے فرمایا غور سے سنو! خلاد کو دو شہیدوں کا اجر ملا ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ! ایسا کیوں ہوا؟ حضورؐ نے فرمایا اس لئے کہ اہل کتاب نے اسے قتل کیا ہے۔ ۴

۱۔ اخرجہ الشيخان كذا في البداية (ج ۳ ص ۲۷۴) واخرجه البيهقي (ج ۹ ص ۱۶۷) عن انس نحوه  
 ۲۔ واخرجه ابن أبي شيبة كذا في الكنز (ج ۵ ص ۲۷۳) والحاكم (ج ۳ ص ۲۰۸) وابن سعد (ج ۳ ص ۶۸) عن انس بمعناه والطبراني كذا في الكنز (ج ۵ ص ۶۷۵)  
 عن حصين بن عوف الخثعمي رضی اللہ عنہ ۳۔ اخرجہ ابن النجار عن انس مطولا كذا في الكنز (ج ۷ ص ۴۶) ۴۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۸۳) واخرجه ابو نعيم عن عبد الخبير بن قيس بن شماس عن ابيه عن جده كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۵۷) واخرجه ايضا ابو يعلى من طريق عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن قيس بن شماس عن ابيه عن جده نحوه كذا في الاصابة (ج ۱ ص ۴۵۴) وقال قال ابن مندہ غريب لانعرفه الا من هذا الوجه. ۵۱

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (ان کی والدہ) حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا (اپنے خاوند) ابو انس کے پاس آئیں اور کہا آج میں ایسی خبر لائی ہوں جو تمہیں پسند نہیں آئے گی ابو انس نے کہا تم اس دیمائی کے پاس سے ہمیشہ ایسی خبریں لاتی ہو جو مجھے پسند نہیں آئیں حضرت ام سلیم نے کہا، تھے تو وہ دیمائی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور انہیں پسند کر کے نبیؐ بنایا ہے۔ ابو انس نے کہا اچھا کیا خبر لائی ہو؟ حضرت ام سلیم نے کہا شراب حرام کر دی گئی ابو انس نے کہا آج سے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہو گئی (یعنی میں نے تمہیں طلاق دے دی) اور ابو انس حالت شرک میں ہی مر اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ (جو اس وقت تک کافر تھے) حضرت ام سلیم کے پاس (شادی کرنے کے ارادے سے) آئے تو حضرت ام سلیم نے کہا جب تک تم مشرک رہو گے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم! جو تم کہہ رہی ہو وہ تم چاہتی نہیں ہو۔ حضرت ام سلیم نے کہا میں کیا چاہتی ہوں؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا تم سونا اور چاندی لینا چاہتی ہو (مشرک ہونے کا یہ مانہ تو تم ویسے ہی کر رہی ہو) حضرت ام سلیم نے کہا کہ میں تمہیں اور اللہ کے نبیؐ کو اس بات پر گواہ بناتی ہوں کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو میں تم سے اسلام پر راضی ہو جاؤں گی (اور مہر کا مطالبہ نہ کروں گی یہ اسلام ہی مہر ہوگا) حضرت ابو طلحہ نے کہا میرا یہ کام کون کرے گا؟ حضرت ام سلیم نے کہا اے انس! انھو اور اپنے چچا کے ساتھ جاؤ چنانچہ (میں اٹھا اور) حضرت طلحہ بھی اٹھے اور انھوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا پھر ہم دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ جب ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے قریب پہنچے تو حضورؐ نے ہماری گفتگو سن لی۔ حضورؐ نے فرمایا یہ طلحہ ہیں ان کی پیشانی پر اسلام کی روٹن ہے چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے جا کر حضورؐ کو سلام کیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمداً عبدہ ورسولہ پڑھا حضورؐ نے اسلام پر ہی ان کی شادی حضرت ام سلیم سے کراوی حضرت ام سلیم سے ان کا بیٹا ہوا جب وہ چلنے لگا اور والد کو اس سے بہت پیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی پھر حضرت ابو طلحہ جب گھر آئے تو انھوں نے پوچھا اے ام سلیم! میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ حضرت ام سلیم نے کہا پہلے سے بہتر ہے (یہ غلط نہیں کہا اس لئے کہ مومن کی حالت مرنے کی بعد دنیا سے بہتر ہو جاتی ہے) پھر حضرت ام سلیم نے کہا آج آپ نے دوپہر کے کھانے میں دیر کر دی تو کیا آپ دوپہر کا کھانا کھائیں گے؟ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے کھانا ان کے سامنے رکھا اور میں نے اس سے کہا کچھ لوگوں نے ایک آدمی سے کوئی چیز بطور عاریت لی۔ پھر وہ عاریت ان کے پاس کچھ عرصہ رہی اور عاریت کے مالک نے آدمی سے کچھ کر اس عاریت کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور اپنی عاریت واپس لے لی تو کیا لوگوں کو اس پر پریشان ہونا چاہئے؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا نہیں حضرت ام سلیم نے کہا تو پھر آپ کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے (آپ کو اللہ نے دیا تھا اور اب

اسے واپس لے لیا ہے) حضرت ابو طلحہ نے پوچھا اس وقت وہ کہاں ہے؟ حضرت ام سلیم نے کہا وہ اندر کوٹھری میں ہے چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے اندر جا کر اس سچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ان اللہ بڑھی اور جا کر حضور کو ام سلیم کی ساری بات بتائی حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے ام سلیم نے چونکہ اپنے اس بیٹے کے مرنے پر صبر کیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں ایک اور لڑکے کا حمل شروع کر دیا ہے چنانچہ جب حضرت ام سلیم کے ہاں وہ لڑکا پیدا ہوا تو حضور نے فرمایا اے انس! اپنی والدہ سے جا کر کہو کہ جب تم اپنے بیٹے کی ناف کاٹ لو تو اسے کچھ چکھانے سے پہلے میرے پاس سچ دو چنانچہ حضرت ام سلیم نے وہ چہرے بازوؤں پر رکھ دیا اور میں نے آکر حضور کے سامنے اس سچے کو رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا میرے پاس تین عجوہ ٹھجوریں لاؤ چنانچہ میں تین ٹھجوریں لایا۔ حضور نے ان کی گٹھلیاں نکال کر پھینک دیں اور پھر انہیں اپنے منہ میں ڈال کر چپایا اور پھر اس سچے کا منہ کھول کر اس میں ڈال دیں۔ سچ انہیں زبان سے چوسنے لگا۔ حضور نے فرمایا یہ انصاری ہے اس لئے اسے ٹھجور پسند ہے پھر فرمایا جا کر اپنی والدہ سے کہو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اس بیٹے میں برکت عطا فرمائے اور اسے نیک اور متقی بنا لے۔

بزار کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ام سلیم نے شادی کے پیام کے جواب میں کہا کیا میں آپ سے شادی کر لوں حالانکہ آپ ایسی لکڑی کی عبادت کرتے ہیں جسے میرا فلاں غلام گھسیٹے پھرتا ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کا ایک بیٹا بنا تھا۔ حضرت ابو طلحہ گھر سے باہر گئے تو پیچھے اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے واپس آکر پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ حضرت ام سلیم نے کہا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے پھر حضرت ام سلیم نے ان کے سامنے رات کا کھانا کھا حضرت ابو طلحہ نے کھانا کھلایا اور بعد میں ان سے صحبت بھی کی جب وہ فارغ ہو گئے تو حضرت ام سلیم نے کہا سچے کو دفن کر دو۔ صبح کو آکر حضرت ابو طلحہ نے ساری بات حضور ﷺ کو بتائی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم نے آج رات صحبت کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضور نے فرمایا اے اللہ! ان دونوں (کی صحبت) میں برکت فرما۔ چنانچہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور حضرت ابو طلحہ نے مجھ سے فرمایا اسے حفاظت سے حضور کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضرت ام سلیم نے سچے کے ساتھ مجھے ٹھجوریں بھی دیں میں اس سچے کو لے کر حضور کی

۱۔ أخرجه البزار قال الهيثمي (ج ۹ ص ۲۶۶) رواه البزار و رجاله رجال الصحيح غير احمد بن منصور الرمادي و هو ثقة و في روايته للبزار ايضا قالت له الزوجك وانت تبعد خشية يجرها عبدی فلان فذكر الحديث و رجاله رجال الصحيح انتهى و أخرجه ابن سعد (ج ۸ ص ۳۱۶) عن انس بدون ذكر قصة اسلام أبي طلحة.

خدمت میں آیا۔ حضورؐ نے بچے کو لیا اور فرمایا کیا اس بچے کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں کھجوریں ہیں حضورؐ نے وہ کھجوریں لے کر انہیں چبایا اور انہیں اپنے منہ سے نکال کر اس بچے کے منہ میں تالو پر لگا دیا اور اس کا نام عبد اللہ رکھا۔ بخاری کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اس رات میں برکت عطا فرمائیں گے چنانچہ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی نے کہا میں نے اس بچے کو بیٹے دیکھے جو سب قرآن پڑھے ہوئے تھے۔ ۱

حضرت قاسم بن محمدؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کے بیٹے حضرت عبد اللہؓ کو غزوہ طائف میں ایک تیر لگا تھا (جس کا زخم ایک دفعہ تو بھر گیا تھا لیکن) حضور ﷺ کے انتقال کے چالیس دن بعد وہ زخم پھر پھٹ گیا اور اس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عائشہؓ کے پاس آئے اور فرمایا اے بیٹا! اللہ کی قسم! مجھے تو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کسی بکری کا کان پکڑ کر اسے ہمارے گھر سے باہر نکال دیا گیا ہو۔ حضرت عائشہؓ نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا اور اس موقع کی ہدایت پر آپ کو پکا کر دیا (یعنی اس موقع پر صبر و ہمت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمادی) پھر حضرت ابو بکر باہر آگئے پھر اندر آئے اور فرمایا اے بیٹا! کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم نے عبد اللہ کو زندہ ہی دفن کر دیا ہو؟ حضرت عائشہؓ نے کہا اے لبا جان! انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں شیطان مردود سے اس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے اے بیٹا! ہر آدمی کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں ایک اچھے جو فرشتے کی طرف سے آتے ہیں ایک برے جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں پھر قبیلہ ثقیف کا وفد (طائف سے) حضرت ابو بکر کے پاس آیا تو وہ تیر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد اللہ کو لگا تھا وہ ان کے پاس تھا حضرت ابو بکر نے وہ تیر نکال کر انہیں دکھایا اور پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اس تیر کو پچھانتا ہے؟ تو قبیلہ بنو عجلان کے حضرت سعد بن عبید نے کہا اس تیر کو میں نے تراشا تھا اور میں نے اس کا پر لگایا تھا اور اس کا پٹھا لگایا تھا اور میں نے ہی یہ تیر مارا تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا (میرا بیٹا) عبد اللہ بن ابی بکر اسی سے شہید ہوا ہے لہذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے تمہارے ہاتھوں شہادت سے نوازا اور تمہیں اس کے ہاتھ سے (قتل کروا کر) ذلیل نہیں کیا۔ (ورنہ تم دوزخ میں جاتے) بے شک اللہ تعالیٰ وسیع حمایت و حفاظت والے ہیں سچے سچے ہمتی کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کے ہاتھ سے ذلیل نہیں کیا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے لیے (فائدہ میں) وسعت پیدا فرمادی۔ ۲

۱۔ عند البخاری (ج ۲ ص ۱۷۴)

۲۔ عند البخاری (ج ۲ ص ۸۲۲)

۳۔ أخرجه البيهقي (ج ۹ ص ۹۷)

۴۔ أخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۴۷۷)

حضرت عمرو بن سعیدؓ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت عثمانؓ کے ہاں کوئی سچ پیدا ہوتا تو حضرت عثمانؓ اسے منگواتے اسے کپڑے کے ٹکڑے میں لپیٹ کر لایا جاتا پھر وہ اسے ناک لگا کر سونگھتے کسی نے پوچھا آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں فرمایا میں اس لئے کرتا ہوں تاکہ میرے دل میں اس کی کچھ محبت پیدا ہو جائے اور پھر اگر اسے کچھ ہو (یعنی بیمار ہو جائے یا مر جائے) تو (اس کی محبت کی وجہ سے) دل کورن کو صدمہ ہو اور پھر اگر اسے کچھ ہو (یعنی بیمار ہو جائے یا مر جائے) تو (اس کی محبت کی وجہ سے) دل کورن کو صدمہ ہو اور پھر صبر کیا جائے اور اس کی جنت ملے (جب سچ سے محبت نہیں ہوگی تو اس کی بیماری یا موت سے صدمہ بھی نہیں ہوگا اور صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی) بلکہ حضرت ابو ذرؓ سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے آپ کا کوئی سچ زندہ نہیں رہتا؟ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو میرے بچوں کو اس فانی گھر سے لے رہا ہے اور ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی جنت میں جمع کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالرحمن بن زید بن خطابؓ کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت عمرؓ کو کوئی رنج و صدمہ پہنچتا تو (اپنے کو تسلی دینے کے لیے) فرماتے کہ مجھے (میرے بھائی) حضرت زید بن خطابؓ کی شہادت کا زبردست صدمہ پہنچا تھا لیکن میں نے اس پر صبر کر لیا تھا (تو یہ اس سے چھوٹا ہے اس پر تو صبر کرنا ہی چاہئے) حضرت عمرؓ نے اپنے بھائی حضرت زید کے قاتل کو دیکھا تو فرمایا تیرا بھلا ہوا! تم نے میرے ایسے بھائی کو قتل کیا ہے جب بھی پروا ہوا چلتی ہے تو مجھے وہ بھائی یاد آجاتا ہے (یعنی مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے)۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حمزہؓ شہید ہو گئے تو (ان کی ہمیشہ) حضرت صفیہؓ انہیں تلاش کرتی ہوئی آئیں انہیں معلوم نہیں تھا کہ حضرت حمزہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ راستہ میں حضرت علیؓ اور حضرت زبیرؓ سے ان کی ملاقات ہوئی حضرت علیؓ نے حضرت زبیرؓ سے کہا نہیں بلکہ آپ اپنی پھوپھی کو بتائیں حضرت صفیہؓ نے ان دونوں سے پوچھا کہ حضرت حمزہ کا کیا ہوا؟ ان دونوں نے ایسا ظاہر کیا جیسے کہ انہیں معلوم نہیں ہے وہ چلتے چلتے حضور ﷺ تک پہنچ گئیں۔ حضورؐ نے انہیں دیکھ کر فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ صدمہ کی شدت سے ان کے دماغ پر اثر نہ پڑ جائے اس لیے آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی (اور پھر انہیں بتایا جس پر) حضرت صفیہؓ نے انا اللہ بڑھی اور رونے لگیں پھر حضور تشریف لے گئے اور حضرت حمزہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ناک کان اور دیگر اعضا کئے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا اگر (رشتہ دار) عورتوں کی پریشانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں

۱۔ اخرجہ ابن سعد کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۷) ۲۔ اخرجہ ابو نعیم کذا فی الكنز (ج

۲ ص ۱۵۷) ۳۔ اخرجہ الحاكم (ج ۳ ص ۲۲۷) واخرجہ البيهقي (ج ۹ ص ۹۷) عن

انہیں (دفن نہ کرنا بلکہ) یہیں چھوڑ دینا تاکہ کل قیامت کے دن ان کا حشر پرندوں کی پوٹوں اور درندوں کے پٹوں سے ہوتا پھر آپ کے فرمانے پر شہداء کے جنازوں کو لایا گیا اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنے لگے اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت حمزہ کے ساتھ نو اور جنازے رکھے جاتے لیکن حضرت حمزہ کا جنازہ وہاں ہی رہنے دیا جاتا پھر نو اور جنازے لائے جاتے آپ سات نگبیروں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھتے یونہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے۔<sup>۱</sup>

حضرت زبیر بن عوامؓ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ایک عورت سامنے سے تیز چلتی ہوئی نظر آئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مقتول شہداء کو دیکھنا چاہتی ہے۔ حضور ﷺ نے اسے پسند نہ فرمایا کہ یہ عورت انہیں دیکھے اس لیے حضور نے فرمایا عورت! عورت! یعنی اسے روکو مجھے دیکھنے سے اندازہ ہو گیا کہ یہ میری والدہ حضرت صفیہؓ ہیں چنانچہ میں دوڑ کر ان کی طرف گیا اور ان کے شہداء تک پہنچنے سے پہلے میں ان تک پہنچ گیا انہوں نے میرے سینے پر زور سے ہاتھ مارا وہ بڑی طاقتور تھیں اور انہوں نے کہا پرے ہٹ زمین تیری نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور ﷺ نے بڑی تاکید سے آپ کو ادھر جانے سے روکا ہے یہ سن کر وہ وہیں رک گئیں اور ان کے پاس دو چادریں تھیں انہیں نکال کر فرمایا یہ دو چادریں میں اپنے بھائی حمزہ کے لیے لائی ہوں مجھے ان کے شہید ہونے کی خبر مل چکی ہے لہذا ان کو ان میں کفن دے دو چنانچہ ہم لوگ وہ چادریں لے کر کفنانے کے لئے حضرت حمزہ کے پاس گئے وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری شہید بھی پڑے ہوئے ہیں جن کے ساتھ کافروں نے وہی سلوک کیا ہوا ہے جو انہوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ کیا تھا تو ہمیں اس میں بڑی ذلت اور شرم محسوس ہوئی کہ حضرت حمزہ کو دو چادروں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی چادر نہ ہو چنانچہ ہم نے کہا ایک چادر حضرت حمزہ کی اور دوسری انصاری کی۔ دونوں چادروں کو ناپا تو ایک بڑی تھی اور ایک چھوٹی۔ چنانچہ ہم نے دونوں حضرات کے لیے قرعہ اندازی کی اور جس کے حصہ میں جو چادر آئی اسے اس میں کفنا دیا۔<sup>۲</sup>

حضرت زہری، حضرت عاصم بن یحییٰ اور دیگر حضرات حضرت حمزہؓ کی شہادت کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلبؓ اپنے بھائی کو دیکھنے آئیں تو انہیں راستہ میں (ان کے بیٹے) حضرت زبیرؓ ملے انہوں نے کہا کیوں؟ مجھے یہ خبر مل چکی ہے

۱۔ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۱۹۷) واخرجه ايضا ابن ابی شيبة والطبراني نحوه عن ابن عباس كفاي المنتخب (ج ۵ ص ۱۷۰) والبيزار كفاي المجمع (ج ۶ ص ۱۱۸) وقال في استناد البيزار والطبراني يزيد بن ابی زياده وهو ضعيف ۲۔ عند البيزار واحمد وابی يعلى قال الهيثمي (ج ۶ ص ۱۸۸) وفيه عبدالرحمن بن ابی الزناد وهو ضعيف وقد وثق. انتهى

کہ میرے بھائی کے ناک کان اعضاء کاٹے گئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ اللہ کی وجہ سے کیا گیا ہے اور جو کچھ ہوا ہے ہم اس پر بالکل راضی ہیں انشاء اللہ میں ہر طرح صبر کروں گی اور اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گی۔ حضرت زبیر نے جا کر حضورؐ کو بتایا۔ حضورؐ نے فرمایا اچھا انہیں جانے دو اور نہ روکو۔ چنانچہ وہ حضرت حمزہ کے پاس گئیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی پھر حضورؐ کے فرمانے پر حضرت حمزہ کو دفن کیا گیا۔

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں ایک دن (میرے خاوند) حضرت ابو سلمہؓ حضور ﷺ کے پاس سے میرے ہاں آئے اور انہوں نے کہا میں نے حضورؐ سے ایک بات سنی ہے جس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے حضورؐ نے فرمایا جب کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئی ہے اور وہ اس پر انا اللہ پڑھے اور یہ دعا پڑھے اللھم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها۔ ترجمہ: اے اللہ! مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور جو چیز چلی گئی ہے اس سے بہتر مجھے عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں میں نے ان کی اس بات کو یاد رکھا چنانچہ جب حضرت ابو سلمہؓ کا انتقال ہوا تو میں نے انا اللہ پڑھی اور یہ دعا پڑھی۔ دعا تو میں نے پڑھ لی لیکن دل میں یہ خیال آتا رہا کہ ابو سلمہؓ سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے؟ جب میری عدت ختم ہو گئی تو حضورؐ نے میرے پاس آنے کی اجازت مانگی اس وقت میں کھال رنگ رہی تھی میں نے کیکر کے پتوں والے ہاتھ دھوئے (کھال کے رنگنے میں کیکر کے پتے استعمال ہوتے تھے) پھر میں نے آپ کو اجازت دی اور میں نے آپ کے لیے چڑے کا گدار کھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی آپ اس پر بیٹھ گئے اور مجھے اپنے ساتھ شادی کرنے کا پیغام دیا جب آپ بات پوری فرما چکے تو میں نے کہا یا رسول اللہ! یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مجھے آپ سے شادی کرنے کی رغبت نہ ہو لیکن ایک بات یہ ہے کہ میری طبیعت میں غیرت بہت ہے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس غیرت کی وجہ سے آپ میری طرف سے کوئی ایسی بات دیکھیں جس پر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ میں بال بچوں والی عورت ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا تم نے جو غیرت کا ذکر کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ دور فرمادیں گے اور تم نے عمر زیادہ ہونے کا جو ذکر کیا ہے تو تمہاری طرح میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اور تم نے بچوں کا ذکر کیا ہے تو تمہارے بچے میرے بچے ہیں اس پر میں نے حضورؐ کی بات کو تسلیم کر لیا اور پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت ابو سلمہؓ سے بہتر خاوند عطا فرمایا یعنی رسول اللہ ﷺ۔

۱ عند ابن اسحاق فی السیرة کذا فی الاصابۃ (ج ۴ ص ۳۴۹)

۲ اخرجه احمد ورواه النسائی وابن ماجه والترمذی وقال حسن غریب کذا فی البدایۃ (ج

ص ۹۱) و اخرجه ابن سعد (ج ۸ ص ۲۳، ۲۴)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہم حج یا عمرے سے واپس آئے تو ذوالخلیفہ پر ہمارا استقبال ہوا اور انصاری لڑکے اپنے گھر والوں کا استقبال کر رہے تھے تو لوگ حضرت اسید بن حنیفہؓ سے ملے اور انہیں بتایا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے یہ سن کر وہ اپنے منہ پر کپڑا اڑال کر رونے لگے میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے آپ حضور ﷺ کے صحابی ہیں آپ کو اسلام میں سبقت حاصل ہے اور آپ پرانے مسلمان ہیں آپ کو کیا ہوا کہ آپ ایک عورت کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے سر سے کپڑا ہٹایا اور کہا آپ سچ فرماتی ہیں میری زندگی کی قسم! حضرت سعد بن معاذؓ کے انتقال کے بعد مجھے کسی پر رونے کا حق نہیں پہنچتا کیونکہ حضورؐ نے ان کے بارے میں بڑی فضیلت والی بات فرمائی تھی میں نے پوچھا حضورؐ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا حضورؐ نے فرمایا تھا سعد بن معاذؓ کے مرنے پر عرش بھی ہل گیا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں اس وقت حضرت اسید میرے اور حضورؐ کے درمیان چل رہے تھے۔

حضرت عونؓ کہتے ہیں جب حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو ان کے بھائی حضرت عتبہؓ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ رونے لگے کسی نے ان سے کہا کیا آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ نسب میں میرے بھائی تھے اور ہم دونوں حضور ﷺ کے ساتھ اکتھے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں ان سے پہلے مرتا بلکہ ان کا پہلے انتقال ہو اور میں صبر کروں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھوں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں پہلے مروں اور میرے بھائی صبر کر کے اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ حضرت خیمہؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبد اللہؓ کو ان کے بھائی حضرت عتبہؓ کے انتقال کی خبر ملی تو ان کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا یہ (رونا) رحمت اور شفقت کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں لہذا آدم کا ان (آنسوؤں) پر کوئی اختیار نہیں ہے۔

حضرت عبد اللہ بن ابی سلیطہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو احمد بن جحشؓ (اپنی ہمیشہ) حضرت زینب بنت جحش کے جنازے کو اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں حالانکہ وہ نابینا تھے اور وہ رو رہے تھے۔ پھر میں نے سنا کہ حضرت عمرؓ فرما رہے ہیں اے ابو احمد! جنازے سے ایک طرف ہو جاؤ لوگوں کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوگی۔ ان کے جنازے کو اٹھانے کے لئے

۱۔ اخرجہ ابن شیبۃ واحمد والشاشی وابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۴۲) و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۲) والحاکم (ج ۳ ص ۲۸۹) عن عائشۃ نحوہ قال الحاکم صحیح علی شرط مسلم ولم یخر جاہ وقال الذہبی صحیح و اخرجہ ابو نعیم ایضا عن عائشۃ نحوہ کما فی الکنز (ج ۸ ص ۱۱۸) الا انہ وقع عنہ قال ا فیحق لی ان لا ابکی وقد سمعت رسول اللہ ﷺ یقول اهتز العرش اعوادہ لموت سعد بن معاذ وعند الطبرانی کما فی المجمع (ج ۹ ص ۳۰۹) فقال ومالی لا ابکی وقد سمعت فذکرہ وقال اسانیدھا کلھا حسنة ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۴ ص ۲۵۳) ۳۔ عند ابن سعد (ج ۴ ص ۹۴)



لوگوں کا بڑا ہجوم تھا۔ حضرت ابو احمد نے کہا اے عمر! ہمیں اسی بہن کی وجہ سے ہر خیر ملی ہے اور ان کے جانے پر جو رنج و صدمہ مجھے ہے وہ جنازہ اٹھانے سے کم ہو رہا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اچھا پھر تو تم چمٹے رہو چمٹے رہو۔

حضرت اصعب بن قیسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قریش لوگوں کے سردار ہیں ان میں سے جو بھی کسی دروازے میں داخل ہوگا اس کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت بھی ضرور داخل ہوگی مجھے ان کی اس بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا یہاں تک کہ انہیں نیزے سے زخمی کیا گیا جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت صہیبؓ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو تین دن نماز پڑھائیں اور انہوں نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ نئے خلیفہ کے مقرر ہونے تک لوگوں کو کھانا پکا کر کھلایا جائے جب لوگ حضرت عمرؓ کے جنازے سے واپس آئے تو دسترخوان بچھائے گئے اور کھانا لاکر کھا گیا لیکن رنج و غم کی زیادتی کی وجہ سے لوگ کھانا نہیں کھا رہے تھے تو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو! حضور ﷺ کا انتقال ہوا ہم نے اس کے بعد کھایا اور پیا پھر حضرت ابو بکرؓ کا انتقال ہوا تو ہم نے ان کے بعد کھایا اور پیا۔ اس لئے کھانا ضروری ہے لہذا آپ سب یہ کھانا کھائیں پھر حضرت عباسؓ نے ہاتھ بڑھا کر کھانا شروع کر دیا تو تمام لوگوں نے ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کر دیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سمجھ آئی کہ قریش لوگوں کے سردار ہیں۔

حضرت ابو عیینہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ جب کسی آدمی کو کسی مصیبت پر تسلی دیا کرتے تو فرمایا کرتے آدمی اگر صبر اور حوصلہ سے کام لے تو کوئی مصیبت نہیں ہے اور گھبرانے اور پریشان ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ موت سے پہلے کا معاملہ بہت آسان ہے اور اس کے بعد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ حضور ﷺ کی وفات کے صدمہ کو یاد کر لیا کرو اس سے تمہاری ہر مصیبت ہلکی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔

حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے کی وفات پر تسلی دی تو فرمایا اگر (بیٹے کے جانے پر) آپ کو رنج و صدمہ ہے تو یہ رشتہ داری کا تقاضا ہے اب اگر آپ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کا بدل عطا فرمائیں گے اگر صبر کرو گے تو مجھے نقدیر کا لکھا پورا ہو کر رہے گا

۱۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۸ ص ۸۰)

۲۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۹) کذا فی الكنز

۳۔ (ج ۷ ص ۶۷) و اخراجہ الطبرانی نحوه قال الہیثمی (ج ۵ ص ۹۶) وفیہ علی بن زید وحدیثہ

۴۔ اخراجہ ابن ابی خیشمۃ والد نیوزی فی المجالسۃ

حسن وبقیۃ رجالہ رجال الصحیح

و ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۱۲۲)

لیکن آپ کو اجر و ثواب ملے گا اور اگر گلہ شکوہ کر دے تو بھی تقدیر کا لکھا پورا ہو کر رہے گا لیکن آپ کو گناہ ہو گا۔<sup>۱</sup>

## عام مصائب پر صبر کرنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ میں تھے آپ کے پاس ایک انصاری عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ! یہ خبیث (شیطان) مجھ پر غالب آ گیا ہے۔ حضور نے اس سے فرمایا تم کو جو تکلیف ہے اگر تم اس پر صبر کرو تو قیامت کے دن تم اس حال میں آؤ گی کہ نہ تم پر کوئی گناہ ہو گا اور نہ تم سے حساب لیا جائے گا اس عورت نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! میں مرتے دم تک (انشاء اللہ) صبر کروں گی البتہ مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ اس حالت میں شیطان مجھے بنگا کر دے گا آپ نے اس کے لئے اس بارے میں دعا فرمائی چنانچہ جب اسے محسوس ہوتا کہ شیطانی اثرات شروع ہونے والے ہیں تو وہ اگر کعبہ کے پردوں سے چٹ جاتی اور شیطان سے کہتی دور ہو جا تو وہ شیطان چلا جاتا۔ حضرت عطار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا تمہیں میں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ضرور دکھائیں۔ انہوں نے فرمایا یہ کالی عورت حضور کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ جس سے ستر کھل جاتا ہے آپ میرے لئے اللہ سے دعا فرمادیں حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہیں جنت ملے اگر تم چاہو تو میں تمہارے لئے اللہ سے دعا کر دوں کہ وہ تمہیں عافیت عطا فرمائے اس عورت نے کہا نہیں نہیں۔ میں صبر کروں گی بس اللہ سے یہ دعا فرمادیں کہ میرا ستر نہ کھلا کرے۔ یہ قصہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ بخاری میں یہ بھی ہے کہ حضرت عطاء نے ان ام زفر رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ رنگ ان کا کالا اور قد لمبا ہے اور کعبہ کے پردے پر ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں۔<sup>۲</sup>

حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک بدکار عورت تھی (وہ مسلمان ہو گئی) تو ایک مرد نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس عورت نے کہا رک جاؤ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ختم کر دیا اور اسلام کو لے آئے ہیں چنانچہ اس آدمی نے اسے چھوڑ دیا اور واپس چلا گیا لیکن مڑ کر اسے دیکھنے لگا یہاں تک کہ اس کا چہرہ ایک دیوار سے ٹکرا گیا اس آدمی نے حضور ﷺ کے خدمت میں آکر سارا واقعہ بیان کیا حضور سے فرمایا اللہ کے ایسے بندے ہو جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے

۱۔ اخراجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۱۲۲)

۲۔ اخراجہ البزار ۳۔ عند احمد ۴۔ کذا فی البدایہ (ج ۶ ص ۱۶۰)

کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے اس گناہ کی سزا جلدی دے دیتے ہیں یعنی دنیا میں دے دیتے ہیں اور جب کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے تو اس کے گناہ کی سزا روک لیتے ہیں (دنیا میں نہیں دیتے ہیں بلکہ اس کی پوری سزا سے قیامت کے دن دیں گے۔)

حضرت عبداللہ بن خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں تھا کہ اتنے میں ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا اس پر انھوں نے انا للہ پڑھی اور فرمایا ہر وہ چیز جس سے تمہیں تکلیف ہو وہ مصیبت ہے (اور مصیبت کے آنے پر انا للہ پڑھنے کا حکم ہے اس لئے میں نے انا للہ پڑھی)۔

حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جوتے کا اگلا تسمہ ٹوٹ گیا تو انھوں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ لوگوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! کیا آپ جوتے کے ایک تسمے کی وجہ سے انا للہ پڑھتے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہر وہ چیز جو مومن بندے کو ناگوار لگے وہ اس کی حق میں مصیبت ہے (اور ہر مصیبت میں انا للہ پڑھنی چاہئے)۔

حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ رومی لشکر جمع ہو رہے ہیں اور ان سے بڑا خطرہ ہے حضرت عمرؓ نے جواب میں یہ لکھا مابعد! جب بھی مومن بندے پر کوئی سختی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کشادگی ضرور لاتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جنگی دو آسانیوں پر غالب آجائے (یہ قرآن کی آیت ان مع العسر یسر اکی طرف اشارہ ہے کہ ایک جنگی کے بعد دو آسانیاں ملتی ہیں) اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ (سورت آل عمران آیت ۲۰۰) ترجمہ اے ایمان والو! خود صبر کرو اور مقابلہ میں صبر کرو۔ مقابلہ کے لئے مستعد رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ۔

حضرت عبدالرحمن بن مہدیؒ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دو ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مل سکیں اور نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ ایک تو انھوں نے خلافت کے معاملے میں اپنی ذات کے بارے میں صبر کیا یہاں

۱۔ اخرجہ البیہقی کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۵) ۲۔ اخرجہ ابن سعد و ابن ابی شیبہ و عبد بن حمید و ابن المنذر و البیہقی  
 ۳۔ عند المروزی کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۴)  
 ۴۔ اخرجہ مالک و ابن شیبہ و ابن الدنيا و ابن جریر و الحاکم و البیہقی کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۴)

تک کہ مظلوم بن کر شہید ہو گئے اور دوسری یہ کہ تمام لوگوں کو مصحف عثمانی پر جمع فرمایا۔

## شکر

### سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کا شکر

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک دن (مسجد سے کہا نکلے اور اپنے بالاخانے کی طرف تشریف لے گئے پھر اندر جا کر قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدے میں گر گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے میں ہی آپ کی روح قبض کر لی ہے۔ میں آپ کے قریب جا کر بیٹھ گیا پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا عبدالرحمن آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا رسول اللہ! آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے ہی میں آپ کی روح قبض کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرمادے ہیں کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا اس لئے میں شکر یہ ادا کرنے کے لئے اللہ کے سامنے سجدہ میں گر گیا۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں (ایک رات) حضور ﷺ کی خدمت میں آیا تو آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور صبح تک آپ کھڑے ہی رہے اور پھر آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ سجدے میں آپ کی روح قبض ہو گئی ہے (نماز اور سجدے سے فارغ ہو کر) حضور نے فرمایا تم جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے چار پانچ مرتبہ یہی سوال فرمایا پھر فرمایا میرے رب نے جتنی دیر میرے لئے مقدر فرمائی تھی میں نے اتنی دیر نماز پڑھی پھر میرے رب نے مجھ پر خاص تجلی فرمائی (اور کچھ باتیں فرمائیں) اور اس کے آخر میں مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں نے کہا اے میرے رب! آپ ہی زیادہ جانتے ہیں پھر میرے رب نے تین یا چار مرتبہ یہی سوال کیا پھر آخر میں مجھ سے فرمایا میں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں نے کہا اے میرے رب! آپ ہی زیادہ جانتے ہیں میرے رب نے فرمایا میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں کروں گا اس وجہ

۱۔ اخروجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۵۸)

۲۔ اخروجه احمد قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۸۷) رواہ احمد ورجالہ ثقات

سے میں نے اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا اور میرا رب تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دینے والا ہے اور شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی خدمت میں زیارت کے لئے حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپؐ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپؐ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا میری چادر مجھے دے دو۔ (چادر لے کر) آپؐ باہر تشریف لے گئے جب مسجد کے اندر پہنچے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے علاوہ مسجد میں اور کوئی نہیں تھا آپؐ ان لوگوں کے پاس ایک طرف بیٹھ گئے (کیونکہ کوئی صاحب ان میں بیان کر رہے تھے) جب بیان کرنے والے کا بیان ختم ہو گیا تو آپؐ نے سورت الم تنزیل سجدہ پڑھی پھر آپؐ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ لوگوں نے آپؐ کے سجدے کی خبر سن کر مسجد میں آنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ دو میل دور سے بھی لوگ پہنچ گئے اور (اتنے لوگ آگئے کہ) مسجد کم بڑ گئی اور حضرت عائشہؓ نے اپنے گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچ جاؤ کیونکہ میں نے آج حضورؐ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا پھر آپؐ نے اپنا سر اٹھایا تو حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپؐ نے بڑا لمبا سجدہ فرمایا حضورؐ نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ عطیہ دیا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمی جنت میں حساب کے بغیر داخل ہوں گے میں نے اس عطیہ کے شکر یہ میں اپنے رب کے سامنے اتنا لمبا سجدہ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپؐ کی امت تو بہت زیادہ اور بہت پاکیزہ ہے آپ اللہ تعالیٰ سے اور مانگ لیتے چنانچہ حضورؐ نے دو تین دفعہ اور مانگا اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپؐ پر قربان ہوں آپؐ نے تو اپنی ساری امت اللہ سے لے لی۔<sup>۲</sup>

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پاس سے ایک آدمی گزرا جو کسی پرانی بیماری میں مبتلا تھا۔ حضورؐ نے سواری سے نیچے اتر کر سجدہ شکر ادا کیا (کہ اللہ نے مجھے اس بیماری سے چکا کر رکھا) پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس آدمی کے پاس سے گزرے اور انہوں نے بھی نیچے اتر کر سجدہ شکر ادا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کے پاس سے گزرے اور انہوں نے بھی نیچے اتر کر سجدہ شکر ادا کیا۔<sup>۳</sup>

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے اپنے گھر والوں کی

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الهمثی (ج ۲ ص ۲۸۸) رواه الطبرانی فی الکبیر عن حجاج بن عثمان السکسکی عن معاذ ولم یدرک معاذ فقد ذکرہ ابن حبان فی اتباع التابعین و هو من طریق بقیة وقد عنعنه. ۲۔ اخرجه الطبرانی وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف كما في المجموع (ج ۲ ص ۲۸). ۳۔ اخرجه الطبرانی وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف كما في المجموع (ج ۲ ص ۲۸۹).

جماعت بھی اور ان کے لئے دعا فرمائی اے اللہ! اگر تو ان لوگوں کو صحیح سالم واپس لے آئے گا تو میرے ذمہ تیرا یہ حق ہو گا کہ میں تیرا شکر یہ اس طرح ادا کروں گا جس طرح ادا کرنے کا حق ہے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ لوگ صحیح سالم واپس آگئے تو آپؐ نے فرمایا اللہ کی کامل نعمتوں پر اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ! کیا آپؐ نے یہ نہیں فرمایا تھا اگر اللہ انہیں واپس لائے گا تو میں اللہ کے شکر کا حق ادا کروں گا حضورؐ نے فرمایا (یہ کلمات کہہ کر) کیا میں نے ایسا نہیں کر دیا؟!

## نبی کریم ﷺ کے صحابہ کا شکر

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سائل حضور ﷺ کی خدمت میں آیا۔ حضورؐ کے فرمانے پر اسے ایک کھجور دے دی گئی اس نے وہ کھجور پھینک دی پھر ایک اور سائل آیا تو آپؐ نے فرمایا اسے بھی ایک کھجور دے دو اس نے کھجور لے کر کہا سبحان اللہ! حضورؐ کی طرف سے ایک کھجور (یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی اس کیفیت سے خوش ہو کر) حضورؐ نے باندی سے فرمایا ام سلمہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ان کے پاس جو چالیس درہم ہیں وہ اس سائل کو دے دیں! حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ ایک سائل نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا حضورؐ نے اسے ایک کھجور دے دی، اس آدمی نے کہا سبحان اللہ نبیوں میں سے اتنے بڑے نبیؐ اور وہ ایک کھجور صدقہ میں دے رہے ہیں حضورؐ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس ایک کھجور میں بہت سارے ذرے ہیں پھر حضورؐ کے پاس دوسرا سائل آیا حضورؐ نے اسے بھی ایک کھجور دی اس نے (خوش ہو کر) کہا یہ کھجور مجھے نبیوں میں سے ایک نبیؐ کی طرف سے ملی ہے جب تک میں زندہ رہوں گا یہ کھجور میرے پاس رہے گی اور مجھے امید ہے کہ اس کی برکت ہمیشہ ملتی رہے گی پھر حضورؐ نے (لوگوں کو) اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اور کچھ ہی عرصہ بعد وہ مالدار ہو گیا۔<sup>۱</sup>

حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (مکہ اور مدینہ کے درمیان) حنینان مقام کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ (میں حنینان میں اپنے والد) خطاب کے جانور اس جگہ چرایا کرتا تھا لیکن اللہ کی قسم! میری معلومات کے مطابق وہ سخت مزاج اور درشت گوشتے پھر میں حضرت محمد ﷺ کی امت کا اولیٰ بن گیا ہوں پھر یہ شعر پڑھا۔

لاشیء فیما تری الابشا شتہ

بیقی الالہ ویو دی المال والولد

۱۔ اخراجہ البیہقی کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۱) ۲۔ اخراجہ البیہقی

۳۔ عند البیہقی ایضا کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۴۲)

جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس میں (ظاہری) بغاشرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے باقی تمام مال اور اولاد فنا ہو جائے گی۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اپنے اونٹ سے فرمایا چل لے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میرے پاس دو سواریاں لائی جائیں ایک شکر کی دوسری صبر کی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پر سوار ہوں۔ ۱۱

حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسے مصیبت زدہ آدمی کے پاس سے گزرے جو کوڑھی، ناپوینا، بہر الور گونگا تھا آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تمہیں اس میں کوئی اللہ کی نعمت نظر آرہی ہے؟ ساتھیوں نے کہا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس میں بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیا آپ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ یہ پیشاب کر لیتا ہے پیشاب قطرہ قطرہ کر کے نہیں کرتا ہے اور نہ مشکل سے نکلتا ہے بلکہ آسانی سے نکل آتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ۱۲

حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ! میں اپنی ساری جان اور سارا مال تیرے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں حضرت عمرؓ نے فرمایا تم لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے؟ اگر کوئی مصیبت آجائے تو صبر کرو اور عافیت ملے تو شکر کرو۔ ۱۳

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ حضرت عمرؓ کو ایک آدمی نے سلام کیا۔ حضرت عمرؓ نے سلام کا جواب دیا اور اس سے پوچھا تم کیسے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہی جواب میں تم سے سنا چاہتا تھا۔ ۱۴

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یہ لکھا کہ جتنی دنیا ملے اس پر قناعت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو روزی زیادہ دیتے ہیں اور بعض کو کم۔ وہ اس طرح ہر ایک کو آزمانا چاہتے ہیں۔ لہذا جسے روزی زیادہ دی ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ کا جو حق بندے پر

۱۔ اخرجہ ابن سعد، ابن عساکر کذا فی منتخب الكنز (ج ۴ ص ۱۷۴)

۲۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۴ ص ۱۴۷)

۳۔ اخرجہ عبد بن حمید کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۴)

۴۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۴)

۵۔ اخرجہ مالک و ابن المبارک و الیہیقی کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۱)

بتا ہے اس کی ادائیگی یہ ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے۔<sup>۱</sup>  
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شکر والوں کے لئے اللہ کی طرف سے ہمیشہ  
 نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں لہذا تم نعمتوں کی زیادہ طلب کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لکن شکر تم  
 لازید نکم (سورۃ ابوحیم آیت ۷) ترجمہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا۔<sup>۲</sup>  
 حضرت سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفانؓ کو کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ  
 برائی میں مشغول ہیں آپ ان کے پاس جائیں۔ حضرت عثمانؓ وہاں گئے دیکھا کہ وہ لوگ تو  
 سب بکھر چکے ہیں البتہ برائی کے اثرات موجود ہیں تو انہوں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ  
 انہوں نے ان لوگوں کو برائی پر نہ پایا اور ایک غلام آزاد کیا۔<sup>۳</sup> حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے  
 ہیں نعمت ملنے پر فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور شکر ادا کرنے سے نعمت اور بڑھتی ہے شکر اور  
 نعمت کا بڑھنا ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے ہیں جب بندہ شکر ادا کرنا چھوڑے گا تب اللہ  
 تعالیٰ کی طرف سے نعمت کا بڑھنا بند ہوگا۔<sup>۴</sup> حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کہتے  
 ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی  
 کے لئے شکر کا دروازہ کھول دیں اور اپنی طرف سے نعمت بڑھانے کا دروازہ بند کر دیں اور  
 دعا کا دروازہ کسی کے لئے کھول دیں اور قبولیت دعا کا دروازہ بند رکھیں اور توبہ کا دروازہ تو  
 کسی کے لئے کھول دیں اور مغفرت کا دروازہ بند رکھیں میں تمہیں (اس کی تائید میں) اللہ  
 کی کتاب یعنی قرآن میں سے پڑھ کر سنا تا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعونی استجب  
 لکم (سورۃ مومن آیت ۶۰) ترجمہ مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔  
 اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لکن شکر تم لازید نکم اور فرمایا ہے اذ کرونی اذکر کم (سورۃ بقرہ  
 آیت ۱۵۲) ترجمہ ان (نعمتوں) پر مجھ کو یاد کرو میں تم کو (عنایت سے) یاد رکھوں گا اور  
 فرمایا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (سورۃ النساء  
 آیت ۱۱۰) ترجمہ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے  
 معافی چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا پائے گا۔<sup>۵</sup>

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح اور شام اس حال میں کروں کہ  
 لوگ مجھ پر کوئی مصیبت نہ دیکھیں تو میں مصیبت سے محفوظ رہنے کو اپنے اوپر اللہ کی طرف  
 سے بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔<sup>۶</sup> حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی یہ

۱۔ اخراجہ ابن ابی حاتم کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۱)۔ ۲۔ اخراجہ الدنیوری کذا فی الكنز

(ج ۲ ص ۱۵۱) ۳۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۶۰)

۴۔ اخراجہ البیہقی ۵۔ عند ابن ماجہ والعسکری کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۵۱)

۶۔ اخراجہ ابن عساکر



سمجھتا ہے کہ اللہ کی نعمت صرف کھانا پینا ہے تو اس کی سمجھ کم ہے اور اس کا عذاب نزدیک آچکا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو عمدہ خالص پانی پیئے اور وہ پانی بغیر کسی تکلیف کے اندر چلا جائے اور پھر بغیر کسی تکلیف کے (پیشاب کے ذریعہ سے) باہر آجائے تو اس پر شکر ادا کرنا واجب ہو گیا۔

جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما شہید کر دیئے گئے تو (ان کی والدہ محترمہ) حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی وہ چیز گم ہوگی جو حضور ﷺ نے ان کو عطا فرمائی تھی اور ایک تھیلے میں رکھی رہتی تھی وہ اسے تلاش کرنے لگیں جب وہ چیز مل گی تو جہدے میں گر پڑیں۔

## اجرو ثواب حاصل کرنے کا شوق

سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا اجرو ثواب حاصل کرنے کا شوق

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں تین آدمیوں کو ایک اونٹ ملا تھا (جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے) چنانچہ حضرت ابو لہبہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اونٹ میں حضور ﷺ کے شریک تھے جب حضور کے پیدل چلنے کی باری آئی تو دونوں حضرات نے عرض کیا کہ (آپ اونٹ پر سوار ہیں) ہم آپ کی جگہ پیدل چلیں گے حضور نے فرمایا دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہو اور نہ میں تم سے زیادہ اجرو ثواب سے مستغنی ہوں (بلکہ مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے اس لئے میں بھی پیدل چلوں گا)۔

نبی کریم ﷺ کے صحابہ کا اجرو ثواب حاصل کرنے کا شوق

حضرت مطلب بن ابی واعر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ایک آدمی دیکھا جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا حضور نے فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے یہ سن کر تمام لوگ مشقت اور تکلیف کے باوجود

۱۔ عند ابن عساکر ایضاً کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۱۵۲) واخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۱۰) عنہ نحوه بالوجهین۔  
 ۲۔ اخرجه ابن ابی الدنیا و ابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۱۵۲)۔  
 ۳۔ اخرجه الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۹۰) اسنادہ حسن فی بعض رجالہ کلام۔  
 ۴۔ اخرجه احمد و رواہ النسائی کذا فی البدایة (ج ۳ ص ۲۶۹) واخرجه البزار وقال فاذا كانت عقبة رسول ﷺ قال اركب حتى نمشي عنك والباقي بنحوه فی المجمع (ج ۶ ص ۶۹) وقال فيه عاصم بن بهدلة و حديثه حسن و بقية رجال احمد رجال الصحيح اه

کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان دنوں مدینہ میں مختار کا زور تھا چنانچہ لوگوں کو مختار ہونے لگا۔ ایک دن حضور مسجد میں تشریف لائے تو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز ثواب میں کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھی ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور اور آپ کے صحابہؓ مدینہ آئے تو صحابہؓ کو مدینہ کا مختار چڑھ گیا اور اتنے ہمار ہونے کہ انہیں بڑی مشقت اٹھانی پڑی۔ البتہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے مختار سے محفوظ رکھا۔ صحابہ کرامؓ مختار سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے ایک دن حضور باہر تشریف لائے تو صحابہؓ اسی طرح بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا یہ جان لو کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھی ہوتی ہے یہ فضیلت سن کر تمام مسلمان کمزوری اور بیماری کے باوجود زیادہ ثواب حاصل کرنے کے شوق میں بکھٹ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔

حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن حضور ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا اور جب عشاء پڑھ کر حضور گھر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے دروازے پر بیٹھ جاتا میں کہتا شاید اللہ کے رسول کو کوئی ضرورت پیش آجائے میں کافی دیر تک سنتا رہتا کہ حضور سبحان اللہ و محمد پڑھتے رہتے ہیں میں یونہی بیٹھا رہتا۔ یہاں تک کہ تھک کر واپس چلا جاتا یا نیند آجاتی تو وہاں ہی سو جاتا جب حضور نے دیکھا کہ میں آپ کی دل و جان سے خدمت کر رہا ہوں اور آپ کا خیال ہوا کہ میرا حضور پر حق بتا ہے تو آپ نے فرمایا اے ربیعہ بن کعب! مجھ سے مانگ لو۔ جو مانگو گے تمہیں ضرور دوں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ذرا سوچ لوں پھر آپ کو بتاؤں گا میں نے دل میں سوچا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ دنیا تو بہر حال ختم ہونے والی اور چلی جانے والی چیز ہے اور بقدر ضرورت مجھے رزق مل ہی رہا ہے۔ اس لئے میں اللہ کے رسول سے اپنی آخرت کے لئے مانگوں گا کیونکہ ان کا اللہ کے ہاں بڑا خاص مقام ہے۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور نے فرمایا اے ربیعہ! تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے رب کے ہاں میری سفارش فرمائیں تاکہ وہ مجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے۔ حضور نے فرمایا تمہیں یہ

۱ اخبرہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۱۵۰) وفیہ صالح بن ابی الاخضر وقد ضعفہ الجمهور وقال احمد یعتبر بحدیثہ. ۱ عند احمد عن ابن شہاب ورجالہ

ثقات کما قال الحافظ فی الفتح (ج ۳ ص ۳۹۵) وقال زیاد عن ابن اسحاق.

۲ ذکرہ ابن شہاب الزہری کذا فی البدایہ (ج ۳ ص ۲۲۴)

بات کس نے سمجھائی؟ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! مجھے یہ بات کسی نے نہیں سمجھائی بلکہ جب آپ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو جو مانگو گے وہ میں تمہیں ضرور دوں گا اور اللہ کے ہاں آپ کو بڑا خاص مقام حاصل ہے تو میں نے اس معاملہ میں غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ دنیا ختم ہونے والی اور چلی جانے والی چیز ہے بقدر ضرورت مجھے رزق مل ہی رہا ہے۔ اس لئے میں نے سوچا کہ اللہ کے رسولؐ سے میں اپنی آخرت کے لئے ہی مانگوں یہ سن کر حضورؐ کافی دیر خاموش رہے پھر فرمایا میں تمہاری سفارش ضرور کروں گا لیکن تم اس بارے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو گے۔

مسلم کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضورؐ کے پاس رات گزارتا تھا اور وضو کا پانی اور ضرورت کی چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا مجھ سے مانگو میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں حضورؐ نے فرمایا یہی یا کچھ اور مانگنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا اس یہی آپ نے فرمایا اچھا تو تم اس بارے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔

حضرت عبد الجبار بن حارث بن مالک حدیسی منادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کتبہ کسرتہ کے علاقہ سے وفد لے کر حضورؐ کی خدمت میں آیا۔ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عربوں کے طریقہ سے یوں سلام کیا کہ آپ کی صبح اچھی ہو حضورؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو اور ان کی امت کو اس کے علاوہ اور سلام دیا ہے جو وہ ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ! حضورؐ نے فرمایا علیک السلام پھر آپ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا جبار بن حارث حضورؐ نے فرمایا نہیں آج سے تم عبد الجبار بن حارث ہو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ آج سے میرا نام عبد الجبار بن حارث ہے چنانچہ میں اسلام میں داخل ہو گیا اور حضورؐ سے بیعت ہو گیا جب میں بیعت ہو گیا تو لوگوں نے حضورؐ کو بتایا کہ یہ منادی تو اپنی قوم کا بہترین شہسوار ہے چنانچہ حضورؐ نے مجھے ایک گھوڑا سواری کے لئے عنایت فرمایا پھر میں حضورؐ کے ہاں ٹھہر گیا اور آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو کر کافروں سے خوب لڑتا رہا۔ ایک مرتبہ حضورؐ کو میرے پاس گھوڑے کے ہنہانے کی آواز نہ آئی تو فرمایا کیا بات ہے حدیسی کے گھوڑے کی ہنہانے کی آواز نہیں آرہی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے یہ خبر ملی کہ آپ کو میرے گھوڑے کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے اس لئے میں نے اسے خصی کر دیا اس پر حضورؐ نے گھوڑوں کو خصی کرنے سے منع فرمایا مجھ سے لوگوں نے کہا کیا ہی اچھا ہو تاکہ تم بھی حضورؐ سے اپنے لئے کوئی خط لے لیتے جسے تمہارے

پچازاد بھائی حضرت نسیم داری رضی اللہ عنہ نے حضور سے لیا تھا میں نے کہا انھوں نے حضور سے دیبا کی چیز مانگی ہے یا آخرت کی؟ لوگوں نے کہا دنیا کی۔ میں نے کہا دنیا تو میں چھوڑ کر آیا ہوں میں تو حضور سے یہ چاہتا ہوں کہ کل (قیامت کے دن) اللہ کے سامنے میری مدد فرمائیں۔ ۱۔

حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور کچھ لوگوں کو نہ دیا تو جن کو نہ دیا وہ حضور سے کچھ ناراض ہو گئے تو حضور نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو اس لئے دیتا ہوں کہ اگر نہ دوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ بے صبری کریں گے اور گھبرانے لگ جائیں گے اور جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور استغفار کے جذبات رکھے ہیں ان کو کسی خیر اور استغفار کے حوالے کر دیتا ہوں اور عمرو بن تغلب بھی ان ہی لوگوں میں سے ہے حضرت عمرو کہتے ہیں مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ حضور ﷺ کے اس فرمان کے بدلے مجھے سرخ اونٹ مل جائیں۔ ۲۔

حضرت عمرو بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے ہمیں یہ قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما طواف کر کے باہر آئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک دیرماتی آدمی اپنی والدہ کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہے اور یہ اشعار پڑھ رہا ہے انامطیہا لانفر۔ واذالکاب ذعرت لا اذعر۔ وما حملتني وارضعني اکتور میں اپنی ماں کی ایسی سواری ہوں جو بدکتی نہیں اور جب سواریاں ڈرنے لگتی ہیں تو میں نہیں ڈرتا اور میری ماں نے جو پیٹ میں مجھے اٹھایا اور جو مجھے دودھ پلایا وہ میری اس خدمت سے کہیں زیادہ ہے لیک اللهم لیک حضرت علی نے فرمایا اے ابو حفص! آؤ ہم بھی طواف کریں کیونکہ (اس دیرماتی کی اس اعلیٰ کیفیت کی وجہ سے) رحمت نازل ہو رہی ہے تو وہ ہمیں بھی مل جائے گی پھر وہ دیرماتی مطاف میں داخل ہو کر طواف کرنے لگا اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا:

انامطیہا لانفر۔ واذالکاب ذعرت لا اذعر۔ وما حملتني وارضعني اکتور

اور کہہ رہا تھا لیک اللهم لیک حضرت علی یہ شعر پڑھنے لگے

ان تبرها فالله اشکر یجزیک بالقلیل الاکتور

اگر تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ قدر دانی وہ تمہیں اس تھوڑی سی خدمت کے بدلے میں بہت زیادہ دیں گے۔ ۳۔

۱۔ اخرجه ابن منده وابن عساکر وقال حدیث غریب کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۱۵)

۲۔ اخرجه البخاری کذا فی البدایة (ج ۴ ص ۳۶۱) واخرجه ابن عبدالبرفی الاستیعاب (ج

۲ ص ۵۱۸) من طرق عن عمرو بن تغلب نحوه

۳۔ اخرجه البيهقي كذا في الكنز (ج ۸ ص ۳۱۰)

حضرت میمون بن مهران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہی کہ مجھہ حروری (یہ خارجی تھا) کے ساتھی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اونٹوں کے پاس سے گزرے اور انہیں ہانک کے ساتھ لے گئے۔ ان لوٹوں کا چرواہا آیا اور اس نے کہا اے ابو عبد الرحمن! آپ اپنے اونٹوں کے بارے میں ثواب کی نیت کر لیں حضرت عبد اللہ نے پوچھا اونٹوں کو کیا ہوا؟ اس چرواہے نے کہا مجھہ (خارجی) کے ساتھی ان کے پاس سے گزرے تھے وہ انہیں لے گئے حضرت عبد اللہ نے پوچھا یہ کی بات ہے کہ وہ اونٹ تو لے گئے اور تمہیں چھوڑ گئے؟ اس نے کہا وہ مجھے بھی اونٹوں کے ساتھ لے گئے تھے لیکن میں ان سے کسی طرح چھوٹ کر آ گیا حضرت عبد اللہ نے پوچھا تم انہیں چھوڑ کر میرے پاس کیوں آ گئے؟ اس نے کہا مجھے آپ سے محبت ان سے زیادہ ہے حضرت عبد اللہ نے کہا کیا تم اس اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم کو مجھ سے محبت ان سے زیادہ ہے اس نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ دی حضرت عبد اللہ نے کہا ان اونٹوں کے بارے میں تو ثواب کی نیت میں نے کر ہی لی تھی اب اونٹوں کے ساتھ تمہارے بارے میں بھی کر لیتا ہوں۔ چنانچہ انھوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا کچھ عرصہ کے بعد کسی نے آکر حضرت عبد اللہ کو کہا کہ آپ کو اپنی فلاح نام والی اونٹنی لینے کا کچھ خیال ہے؟ وہ بازار میں بک رہی ہے اور اس نے اس اونٹنی کا نام بھی لیا حضرت عبد اللہ نے کہا میری چادر مجھے دو۔ جب کندھے پر چادر رکھ کر کھڑے ہو گئے تو پھر بیٹھ گئے اور چادر نیچے رکھ دی اور فرمایا میں نے اس اونٹنی کے بارے میں نیت کر لی تھی تو اب میں اس کو لینے کیوں جاؤں؟

حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ وہ شادی نہیں کریں گے تو ان سے (ان کی بہن) حضرت حصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ شادی کریں کیونکہ اگر بچہ پیدا ہو کر مر گئے تو آپ کو (صبر کرنے کی وجہ سے) ثواب ملے گا اور اگر وہ بچہ زندہ رہے تو وہ آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے۔

حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما دریاے فرات کے کنارے صیفین کی طرف چلے جا رہے تھے تو انھوں نے یہ دعا مانگی اے اللہ! اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو مجھ سے اس بات سے زیادہ راضی ہو گا کہ میں اپنے آپ کو اس پہاڑ سے نیچے گرا دوں اور لڑھکتا ہوا نیچے چلا جاؤں (اور یوں خود کو ہلاک کر دوں) تو میں

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۰۰) قال فی الاصابة (ج ۲ ص ۳۴۸) اخرجه السراج فی تاریخہ وابو نعیم من طریقہ بسند صحیح عن میمون فذکرہ

اس طرح کرنے کے لئے بالکل تیار ہوں اور اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو مجھ سے اس بات سے زیادہ راضی ہو گا کہ میں بہت بڑی آگ جلا کر اس میں چھلانگ لگا دوں تو میں اس کے لئے بالکل تیار ہوں۔ اے اللہ! اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو مجھ سے اس بات سے زیادہ راضی ہو گا کہ میں پانی میں چھلانگ لگا کر ڈوب جاؤں تو میں اس کے لئے بالکل تیار ہوں اور میں یہ جنگ صرف تیری وجہ سے لڑ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جب میرا مقصد تجھ کو راضی کرنا ہی ہے تو تو مجھے نامراد و محروم نہیں کرے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں کہ میں آج جتنا خیر کا کام کر رہا ہوں یہ مجھے حضور ﷺ کے ساتھ اس سے دو گنا کام کرنے سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ حضور کے ساتھ ہمیں آخرت کی ہی فکر ہوتی تھی دنیا کی فکر ہوتی ہی نہیں تھی اور آج تو دنیا ہماری طرف اٹکی چلی آ رہی ہے۔

## عبادت میں کوشش اور محنت

### سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی کوشش اور محنت

حضرت علقمہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ کیا حضور ﷺ (عبادت کے لئے) کوئی دن مخصوص کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا نہیں۔ آپ کے سارے کام دائمی ہوا کرتے تھے اور عبادت کرنے کی جتنی طاقت حضور میں تھی اتنی تم میں سے کس میں ہوگی؟

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے نوافل میں اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں پھٹ گئے کسی نے عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دیئے؟ (اس لئے آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟) حضور نے فرمایا تو کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ بلکہ اس بارے میں مزید واقعات نماز کے باب میں آئیں گے۔

۱۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۳۵۸) و اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۴۳) عن عبدالرحمن بن ابی عن عمار بنحوہ مختصراً  
 ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۸۷) و اخرجہ الطبرانی عن عبداللہ نحوه قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۵۷) و رجال الصحیح  
 ۳۔ اخرجہ الشیخان کذا فی صفة الصفوة (ص ۷۴) ۴۔ اخرجہ الشیخان کذا فی البدایة (ج ۱ ص ۵۸) و اخرجہ ابن سعد (ج ۱ ص ۳۸۴) عن المغيرة نحوه

## نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کی کوشش اور محنت

حضرت زبیر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں جنہیں رُہمہ کہا جاتا تھا کہ حضرت عثمانؓ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے بس شروع رات میں کچھ دیر آرام کرتے۔

حضرت مجاہدؓ کہتے ہیں کہ حضرت لادنؓ عبادت میں اس درجے کو پہنچے جس درجے کو کوئی نہ پہنچ سکا ایک مرتبہ اتنا زبردست سیلاب آیا کہ اس کی وجہ سے لوگ طواف نہ کر سکتے تھے لیکن حضرت لادنؓ نے تیر کر طواف کے سات چکر پورے کئے۔

حضرت قطن بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ حضرت لادنؓ سات دن مسلسل بغیر افطار کے روزے رکھا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی آنتیں خشک ہو جایا کرتی تھیں اور حضرت ہشام بن عروہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ سات دن مسلسل کھائے پئے بغیر روزے رکھا کرتے تھے جب زیادہ بوڑھے ہو گئے تو تین دن مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ ان دونوں حضرات اور دیگر صحابہؓ کرامؓ کے واقعات نماز کے باب میں آئیں گے۔

## بہادری

### سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہؓ کی بہادری

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے ایک رات مدینہ والے (کسی آواز کو سن کر) گھبرا گئے تو لوگ اس آواز کی طرف چل پڑے انہیں سامنے سے حضورؐ واپس آتے ہوئے ملے۔ حضورؐ ان سے پہلے آواز کی طرف چلے گئے تھے۔ حضورؐ حضرت ابو طلحہؓ کے گھوڑے پر نیکی پشت پر سوار تھے۔ آپ کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی۔ آپ فرما رہے تھے ڈرنے کی کوئی بات نہیں اور فرمایا ہم نے اس گھوڑے کو سمندر (کی طرح رواں دواں) پایا حالانکہ مشہور یہ تھا کہ یہ گھوڑا ست اور کمزور ہے (حضورؐ کی برکت سے تیز ہو گیا) مسلم میں حضرت انسؓ کی روایت میں اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں گھبراہٹ کی بات پیش آئی حضورؐ نے حضرت ابو طلحہؓ سے مندوب نامی گھوڑا مانگ کر لیا اور اس پر سوار ہو کر گئے اور واپس آکر فرمایا ہمیں گھبراہٹ کی کوئی چیز نظر نہیں آئی اور ہم نے تو اس گھوڑے کو سمندر کی طرح پایا اور جب لڑائی زور پر آئی تو ہم

۱۔ اخروہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۵۶) واخرجه ابن ابی شیبہ نحوه کما فی المنتخب (ج

۵ ص ۱۰) ۲۔ اخروہ ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۲۶)

۳۔ اخروہ ابن جریر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۲۶)

لوگ حضور ﷺ کو آگے کر کے خود کو چایا کرتے تھے حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن مشرکوں کے حملہ سے ہم نے حضور ﷺ کی اوٹ لے کر اپنا چاؤ کیا۔ آپؐ لوگوں میں سب سے زیادہ نڈر تھے بڑی بے جگری سے لڑے تھے۔

حضرت ابو اسحاقؓ کہتے ہیں یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ قبیلہ قیس کے آدمی نے حضرت براء بن عازبؓ سے پوچھا کہ کیا غزوہ حنین کے دن آپؐ لوگ حضور ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ حضرت براءؓ نے فرمایا جی ہاں لیکن حضور نہیں بھاگے تھے قبیلہ ہوازن والے بڑے تیر انداز تھے جب ہم نے ان پر حملہ کیا تو انہیں شکست ہو گئی تو ہم لوگ مال غنیمت سمیٹنے پر ٹوٹ پڑے اس وقت انہوں نے ہم پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی میں نے دیکھا کہ حضورؐ اپنے سفید خچر پر سوار ہیں اور اس کی لگام حضرت ابو سفیانؓ پکڑے ہوئے ہیں اور حضور ﷺ فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب ترجمہ: میں نبی برحق ہوں اور یہ بات جھوٹ نہیں ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے۔ انا النبی لا کذب۔ انا ابن عبدالمطلب۔

ترجمہ: میں نبی برحق ہوں اور یہ بات جھوٹ نہیں ہے میں عبدالمطلب کا پوتا ہوں ”(لوگوں کو ہمت دلانے کے لئے آپؐ نے اپنے خاندان کا تذکرہ کیا) بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ پھر حضورؐ اپنے خچر سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت براءؓ فرماتے ہیں پھر حضور ﷺ نیچے تشریف لے آئے اور اللہ سے مدد طلب فرمائی اور یوں فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب۔ الہم نزل نصرک اس میں یہ اضافہ ہے کہ اے اللہ! اپنی نصرت نازل فرما اور جب لڑائی زوروں پر آجانی تو ہم لوگ حضور ﷺ کی اوٹ میں اپنا چاؤ کیا کرتے تھے اور اس وقت جو حضورؐ کے شانہ بھانہ لڑتا وہ سب سے زیادہ بہادر شمار ہوتا تاکہ جہاد کے باب میں صحابہ کرامؓ کی بہادری کے ذیل میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت سعدؓ، حضرت حمزہؓ، حضرت عباسؓ، حضرت معاذ بن عمروؓ، حضرت ابو حدردؓ، حضرت خالد بن ولیدؓ، حضرت براء بن مالکؓ، حضرت ابو الجحجہؓ، حضرت عمار بن یاسرؓ، حضرت عمرو بن معدیکربؓ اور حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ کے واقعات گزر چکے ہیں۔

۱۔ اخرجه الشيخان واللفظ لمسلم

۲۔ عند احمد والبيهقي كذا في البداية (ج ۶ ص ۳۷)

۳۔ اخرجه البخاري ورواه مسلم والنسائي عند مسلم كذا في البداية (ج ۴ ص ۳۳۸)



## تقویٰ اور کمال احتیاط

### سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا تقویٰ اور کمال احتیاط

حضرت شعیبؓ کے دادا (حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ) فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کورات کے وقت اپنے پہلو میں پڑی ہوئی کھجور ملی آپؐ نے اسے نوش فرمایا لیکن پھر آپ کو نیند نہ آئی ازواج مطہرات میں سے کسی نے حضورؐ سے پوچھا یا رسول اللہ! آج رات آپ کو نیند نہیں آئی حضورؐ نے فرمایا مجھے خیال آیا کہ ہمارے ہاں تو صدقہ کی کھجوریں بھی تھیں کہیں یہ کھجور ان میں سے نہ ہو (اس خیال کی وجہ سے مجھے نیند نہ آئی)۔

### نبی کریم ﷺ کے صحابہ کا تقویٰ اور کمال احتیاط

حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں حضرت ابو بکرؓ کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے کھانا کھا کرتے کر دیا ہو ان کا قصہ یہ ہے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا جسے انھوں نے کھالیا پھر انہیں کسی نے بتایا کہ یہ کھانا تو حضرت ابن نعیمانؓ لائے تھے، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا تم نے مجھے ابن نعیمان کے منتر بڑھنے کی اجرت میں سے کھلادیا پھر انھوں نے فرمائی کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن نعیمانؓ نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ میں سے تھے اور بڑے خوبصورت تھے، کچھ لوگوں نے ان کے پاس آکر کہا کیا آپ کے پاس ایسی عورت کا کوئی علاج ہے جس کو حمل نہیں ٹھہرتا؟ انھوں نے کہا ہے ان لوگوں نے پوچھا وہ علاج کیا ہے؟ حضرت ابن نعیمانؓ نے کہا یہ منتر ہے اے نافرمان رحم! چپ کر اور خون بہانے کا کام چھوڑ دے، اس عورت کو زیادہ بچے جننے سے محروم کیا جا رہا ہے اے کاش یہ زیادہ بچے جننا اس نافرمان رحم میں ہوتا یہ عورت حاملہ ہو جائے یا اسے افاقہ ہو جائے، اس منتر کے بدلے میں ان لوگوں نے انہیں بکری اور گھی ہدیہ میں دیا (یہ واقعہ زمانہ جاہلیت میں پیش آیا تھا) حضرت ابن نعیمانؓ اس میں سے کچھ لے کر حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں آئے حضرت ابو بکرؓ نے اس میں سے کچھ کھالیا (پھر ان کو اس واقعہ کا پتہ چلا) تو کھانے سے فارغ ہو کر حضرت ابو بکرؓ اٹھے اور جو کچھ کھایا وہ سب قے کر دیا اور پھر فرمایا آپ لوگ ہمارے پاس کھانے کی چیز لے آتے ہو اور ہمیں بتاتے بھی نہیں کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟

۱۔ اخرجه احمد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده و تفرد به احمد و اسامة بن زيد  
 ۲۔ اخرجه احمد في الزهد  
 ۳۔ عند البغوي قال ابن كثير استاده جيد حسن كذا في المنتخب (ج ۴ ص ۳۶۰)

حضرت زید بن ارقمؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ایک غلام تھا جو مقررہ مقدار میں کما کر انہیں دیا کرتا تھا ایک رات وہ کچھ کھانا لایا حضرت ابو بکرؓ نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرمایا غلام نے عرض کیا کہ آپ ہر رات دریافت فرمایا کرتے تھے (کہ کہاں سے کما کر لائے ہو؟) لیکن آج رات آپ نے مجھ سے نہ پوچھا آپؓ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے نہ پوچھ سکا اب بتاؤ یہ کھانا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا میں زمانہ جاہلیت میں ایک قوم کے پاس سے گزرا تھا اور میں نے ان کے ایک ہمارے پر دم کیا تھا، انہوں نے مجھے کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا آج میرا گزر ادھر کو ہوا تو ان کے ہاں شادی ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے یہ دیا حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا تم تو مجھے ہلاک کرنے لگے تھے اس کے بعد حلق میں انگلی ڈال کر تے کرنے کی کوشش کی مگر ایک لقمہ اور وہ بھی بھوک کی شدت میں کھایا گیا نہ نکلا کسی نے عرض کیا پانی سے ہی تے ہو سکتی ہے انہوں نے پانی کا بہت بڑا پیالہ منگوایا اور پانی پی پی کر تے فرماتے رہے یہاں تک کہ مشکل سے وہ لقمہ نکالا کسی نے عرض کیا اللہ آپ پر رحم فرمائیں یہ ساری مشقت اس ایک لقمہ کی وجہ سے برداشت فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ لقمہ نکلتا تو بھی میں اس کو نکالتا میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے کہ جو بدن حرام مال سے پرورش پائے آگ اس کے لئے بہتر ہے مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمہ سے پرورش نہ پا جائے۔

حضرت زید بن اسلمؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا جو انہیں بہت پسند آیا جن صاحب نے پلایا تھا ان سے دریافت فرمایا کہ تمہیں یہ دودھ کہاں سے ملا؟ انہوں نے بتایا کہ میں فلاں پانی پر گیا تھا وہاں صدقہ کے جانور پانی پینے آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے ان جانوروں کا دودھ نکال کر ہمیں دیا میں نے اپنے اس مشکیزہ میں وہ دودھ ڈال لیا یہ سن کر حضرت عمرؓ نے منہ میں انگلی ڈال کر وہ سارا دودھ تے کر دیا۔ حضرت مسور بن مخرمہؓ فرماتے ہیں تقویٰ اور احتیاط سیکھنے کے لئے ہم لوگ ہر وقت حضرت عمرؓ کے ساتھ لگے رہتے تھے۔

حضرت شعبیؓ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ ایک دن کوفہ میں باہر نکلے اور ایک دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے پانی مانگا تو اندر سے ایک لڑکی لوٹا اور رومال لیکر نکلی

۱۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (۱ ص ۳۱) قال ابو نعیم ورواہ عبدالرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ نحوہ والمنکدر عن ابیہ عن جابر نحوہ انتہی وقال ابن الجوزی فی صفة الصفوة (ج ۱ ص ۹۵) وقد اخرج البخاری من افرادہ من حدیث عائشہ طرفا من هذا الحدیث انتہی واخرج الحسن بن سفیان والد نیوری فی المجالسة عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نحوہ کما فی المنتخب (ج ۴ ص ۳۶۰) ۲۔ اخراجہ مالک والبیہقی کذا فی المنتخب (ج ۴ ص ۴۱۸)

آپ نے اس سے پوچھا اے لڑکی! یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا فلاں درہم پر کھنے والے کا ہے تو آپ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ درہم پر کھنے والے کے کنوئیں سے پانی نہ پینا اور ٹیکس وصول کرنے والے کے سایہ میں ہرگز نہ بیٹھنا۔<sup>۱</sup>

حضرت یحییٰ بن سعیدؒ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبلؓ کے دو بیویاں تھیں ان میں سے جس کی باری کا دن ہوتا اس دن دوسری کے گھر سے وضو نہ کرتے پھر دونوں بیویاں حضرت معاذ کے ساتھ ملک شام گئیں اور وہاں دونوں اکٹھی بیمار ہوئیں اور اللہ کی شان دونوں کا ایک ہی دن انتقال ہوا لوگ اس دن بہت مشغول تھے اس لئے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت معاذؓ نے دونوں میں قرعہ ڈالا کہ کس کو قبر میں پہلے رکھا جائے؟ حضرت یحییٰؒ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبلؓ کی دو بیویاں تھیں جب ایک کے پاس ہوتے تو دوسری کے ہاں سے پانی بھی نہ پیتے۔<sup>۲</sup> حضرت طاؤسؓ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت عمرؓ کو لبیک پڑھتے ہوئے سنا اس وقت ہم لوگ عرفات میں کھڑے تھے ایک آدمی نے ان سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے عرفات سے کب کوچ فرمایا؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں (یہ انہوں نے احتیاط کی وجہ سے فرمایا) لوگ حضرت ابن عباسؓ کی اس احتیاط سے بہت حیران ہوئے۔<sup>۳</sup>

## اللہ پر توکل

### سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا توکل

حضرت جلدؓ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ غزوہ نجد میں گیا جب حضورؐ وہاں سے واپس ہوئے تو دو پہر کے وقت ایک ایسی ولادی میں پہنچے جس میں کانٹے دار درخت بہت تھے وہاں حضور ﷺ اور صحابہؓ نے آرام کیا اور صحابہؓ درختوں کے سائے میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ حضورؐ بھی ایک درخت کے سایہ میں آرام فرمانے لگے اور حضورؐ نے اپنی تلوار اس درخت پر لٹکادی۔ ہم سب سو گئے کہ اچانک حضور ﷺ نے ہمیں بلایا ہم آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی آپؐ کے پاس بیٹھا ہوا تھا آپؐ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اس نے اگر میری تلوار درخت سے اتاری اور اسے نیام میں سے نکال لیا میں اٹھا تو اس کے ہاتھ

۱۔ اخروجه ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۶۵) وقال ولم اربی رجاله من تکلم فیہ اہ

۲۔ اخروجه ابو نعیم فی الحلیتہ (ج ۱ ص ۲۳۴) ۳۔ عند ابی نعیم ایضا من طریق مالک

۴۔ اخروجه ابن سعد کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۲۹)

میں تنگی تلوار سستی ہوئی تھی اس نے مجھ سے کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ، پھر اس نے تلوار کو نیام میں رکھ دیا اور بیٹھ گیا اور حالانکہ اس نے حضور کو قتل کرنے ارادہ کر لیا تھا لیکن حضور ﷺ نے اسے کوئی سزا نہ دی۔

حضرت جہرؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ قبیلہ بنی نضیر اور غطفان سے نخلہ مقام پر جنگ کر رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے مسلمانوں کو غفلت میں دیکھا تو ان میں سے ایک آدمی جس کا نام غورث بن حارث تھا وہ آیا اور تلوار لے کر حضور کے سر پر کھڑے ہو کر کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ! یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی حضور نے تلوار اٹھا کر اس سے پوچھا کہ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تلوار کہ بہترین لینے والے بن جائیے یعنی مجھے معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس نے کہا نہیں البتہ میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ سے نہیں لڑوں گا اور جو لوگ آپ سے لڑیں گے ان کا بھی ساتھ نہیں دوں گا چنانچہ حضور نے اسے چھوڑ دیا اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر کہا میں تمہارے پاس ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سے بہترین ہیں پھر حضرت جہرؓ نے آگے نماز خوف کا ذکر کیا۔

## نبی کریم ﷺ کے صحابہ کا توکل

حضرت یعلیٰ بن مرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت علیؓ مسجد تشریف لے گئے اور وہاں وہ نفل نماز پڑھنے لگے ہم نے وہاں جا کر پہرہ دینا شروع کر دیا جب حضرت علیؓ نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ہم نے کہا ہم آپ کا پہرہ دے رہے ہیں انہوں نے فرمایا آسمان والوں سے پہرہ دے رہے ہو یا زمین والوں سے؟ ہم نے کہا زمین والوں سے انہوں نے فرمایا زمین پر اس وقت تک کوئی چیز ہو نہیں سکتی جب تک آسمان میں اس کے ہونے کا فیصلہ نہ ہو جائے اور ہر انسان پر دو فرشتے مقرر ہیں جو ہر بلا کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کا بڑا مضبوط انتظام ہے جب میری موت کا وقت آجائے گا تو انتظام مجھ سے ہٹ جائے گا اور آدمی کو ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اچھا ہے اسے پہنچا ہے وہ اس سے خطا کرنے والا نہیں تھا اور جو اس سے خطا کر گیا وہ اسے پہنچنے والا نہیں تھا۔ حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں جب حضرت علیؓ کی زندگی کی آخری رات آئی تو انہیں قرار نہیں تھا (کبھی اندر جاتے کبھی باہر) گھر والوں کو خطرہ محسوس ہوا (ان کے ساتھ کچھ ہونہ جائے) تو

انہوں نے یہ بات ان کی خدمت میں خدا کا واسطہ دے کر عرض کی انہوں نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہیں کہ جب تک تقدیر کے لکھے ہوئے کا وقت نہ آجائے اس وقت تک وہ ہر بلا اس بندے سے دور کرتے رہتے ہیں اور جب تقدیر کا وقت آجاتا ہے تو پھر وہ دونوں فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں پھر حضرت علیؓ مسجد تشریف لے گئے جہاں انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت ابو مجلہؓ کہتے ہیں کہ قبیلہ مراد کے ایک آدمی حضرت علیؓ کے پاس آئے۔ حضرت علیؓ نماز پڑھ رہے تھے نماز کے بعد حضرت علیؓ کی خدمت میں اس نے عرض کیا کہ قبیلہ مراد کے کچھ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپ اپنی حفاظت کا انتظام کر لیں حضرت علیؓ نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہیں جو ہر اس بلا سے اس کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کے مقدر میں لکھی ہوئی نہ ہو اور تقدیر کا جب وقت آجاتا ہے تو یہ مضبوط ڈھال ہے۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیرؓ اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ہم آپ کا سپرہ نہ دیں؟ حضرت علیؓ نے فرمایا ہر آدمی کی موت اس کا سپرہ دے رہی ہے۔ ۳

حضرت جعفرؓ کے والد حضرت محمدؓ کہتے ہیں کہ دو آدمی حضرت علیؓ سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے آئے حضرت علیؓ ان دونوں کو لے کر ایک دیوار کے نیچے بیٹھ گئے تو ایک آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین! یہ دیوار گرنے والی ہے انہوں نے فرمایا اپنا کام کرو اللہ ہماری حفاظت کے لئے کافی ہے پھر ان دونوں کی بات سن کر فیصلہ فرمایا اور وہاں سے کھڑے ہوئے پھر وہ دیوار گر گئی۔ ۴

حضرت ابو ظبیہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہؓ مرض الوفا میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان بن عفانؓ ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور فرمایا آپ کو کیا شکایت ہے؟ حضرت عبد اللہؓ نے کہا اپنے گناہوں کی شکایت ہے حضرت عثمانؓ نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد اللہؓ نے کہا میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمانؓ نے کہا کیا میں آپ کے لئے طبیب کونہ بلا لاؤں؟ حضرت عبد اللہؓ نے کہا طبیب نے ہی (یعنی اللہ ہی نے) تو مجھے مہل کیا ہے حضرت عثمانؓ نے کہا کیا میں آپ کے لئے بیت المال میں سے عطیہ نہ مقرر کر دوں؟ حضرت عبد اللہؓ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں حضرت عثمانؓ نے فرمایا وہ عطیہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو مل جائے گا۔ حضرت عبد اللہؓ نے کہا کیا آپ کو میری بیٹیوں پر فقر کا ڈر ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو کہہ رکھا ہے کہ وہ ہر رات سورت واقعہ پڑھ لیا کریں میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا

۱۔ عند ابی داؤد ابن عساکر ایضاً ۲۔ عند ابن سعد وابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۸۸) ۳۔ عند ابی نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۷۵) ۴۔ اخراجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۱۱) عن جعفر بن محمد

ہے کہ جو آدمی ہر رات سورت واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا (لہذا عطیہ کی ضرورت نہیں ہے)۔ یہ ماریوں پر صبر کرنے کے عنوان میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو الدرداء کا ایسا ہی قصہ گزر چکا ہے البتہ اس میں سورت واقعہ کا ذکر نہیں ہے۔

## تقدیر پر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری صبح کس حالت پر ہوتی ہے۔ میری پسندیدہ حالت پر ہوتی ہے یا ناپسندیدہ حالت پر کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو میں پسند کر رہا ہوں اس میں خیر ہے یا جو مجھے پسند نہیں ہے اس میں خیر ہے۔ حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت علیؓ سے کہا کہ حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے فقر مال داری سے اور بیماری صحت سے زیادہ محبوب ہے حضرت علیؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو حالت بھی اس کے لئے پسند فرماتے ہیں وہ خیر ہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی حالت کے علاوہ کسی اور حالت کی کبھی تمنانہ کرے گا اور یہ کیفیت رضایہ قضا کے مقام کا آخری درجہ ہے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے فیصلہ پر راضی ہو گا تو اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا لیکن اسے (اس پر راضی ہونے کی وجہ سے) اجر ملے گا اور جو اس پر راضی نہ ہو گا تو بھی اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا لیکن اس کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آدمی اس بات کی تمننا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں گزارے کے قابل ہی کھانا کھاتا اور دنیا میں صبح و شام پیش آنے والے حالات میں انسان کا نقصان تب ہوتا ہے جب ان حالات پر دل میں غصہ اور رنج ہو اور تم میں سے ایک آدمی اپنے دہنہ میں انگارہ اتنی دیر رکھے کہ وہ بجھ جائے یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ جس کام کے لئے اللہ نے ہونے کا فیصلہ کر رکھا ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہے کہ کاش یہ نہ ہوتا۔

## تقویٰ

حضرت کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں حضرت علی بن ابی طالبؓ کے ساتھ

- ۱۔ اخراجہ ابن عساکر کذا فی التفسیر ابن کثیر (ج ۴ ص ۲۸۱) ۲۔ اخراجہ ابن المبارک وابن ابی الدنیا فی الفرج والعسکری فی المواعظ کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۵)
- ۳۔ اخراجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۵) ۴۔ اخراجہ ابن عساکر کذا فی
- ۵۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۳۷)

باہر نکلا جب آپ قبرستان پہنچے تو قبروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے قبر والو! اے پرانے ہو جانے والو! اے وحشت والو! تمہارے ہاں کے کیا حالات ہیں؟ ہمارے ہاں کے حالات تو یہ ہیں کہ (تمہارے بعد تمہارے) مال تقسیم کر دیئے گئے اور بچے یتیم ہو گئے اور تمہاری بیویوں نے اور خاندان کے لئے تو یہ ہیں ہمارے ہاں کے حالات۔ تمہارے ہاں کے حالات کیا ہیں؟ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے کمیل! اگر انہیں جواب دینے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب میں کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے پھر حضرت علیؓ رونے لگے اور فرمایا اے کمیل! قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت تمہیں اس کا پتہ چلے گا۔<sup>۱</sup>

حضرت قیس بن امی حازمؓ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا تم لوگ تقویٰ کے ساتھ عمل کے قبول ہونے کا زیادہ اہتمام کرو کیونکہ تقویٰ کے ساتھ کیا گیا عمل تھوڑا نہیں ہوتا اور جو عمل قبول ہو جائے وہ تھوڑا کیسے شمار ہو سکتا ہے؟<sup>۲</sup> حضرت عبد خیرؓ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا تقویٰ کے ساتھ کیا گیا عمل تھوڑا شمار نہیں ہوتا اور جو عمل قبول ہو جائے وہ تھوڑا کیسے شمار ہو سکتا ہے؟<sup>۳</sup>

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی عمل کو قبول کر لیں گے یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ مجھے اتنا سونا مل جائے جس سے ساری زمین بھر جائے۔<sup>۴</sup> حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ (آخرت کی تیاری کرنے والے) عقل مند لوگوں کا سونا اور ان کا روزہ رکھنا کتنا اچھا لگتا ہے اور وہ لوگ (آخرت کی تیاری نہ کرنے والے) بے وقوف لوگوں کی شب بیداری اور روزہ رکھنے کو کس طرح عیب لگاتے ہیں؟ تقویٰ اور یقین والے آدمی کی نیکی کا ذرہ دھوکے میں پڑے ہوئے لوگوں کی پہاڑوں کے برابر عبادت سے زیادہ بڑا فضیلت والا اور (ترازو میں) زیادہ وزنی ہے۔<sup>۵</sup> حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نماز قبول فرمائی ہے تو یہ مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (سورت مائدہ آیت ۲۷) ترجمہ ”خدا تعالیٰ متقیوں ہی کا عمل قبول کرتے ہیں“<sup>۶</sup>

حضرت امی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی اللہ کے لئے کوئی چیز چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے ملنے کا اسے گمان نہ

۱۔ اخروجه الدينوري وابن عساكر كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۴۲)

۲۔ اخروجه ابو نعیم فی الحلیة وابن عساكر (ج ۱ ص ۲۱۱) ۳۔ عند ابی نعیم فی الحلیة وابن ابی الدنيا كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۴۲) ۴۔ اخروجه يعقوب بن سفيان وابن عساكر كذا في

الكنز (ج ۲ ص ۱۴۲) ۵۔ اخروجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۱۱)

۶۔ عند ابن ابی حاتم كما في التفسير لابن كثير (ج ۲ ص ۴۳)

ہوگا اور جو اس بار ہمیں سستی کرے گا اور چیز کو اس طرح لے گا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے تو اللہ اس پر اس سے زیادہ سخت مصیبت وہاں لے آئیں گے جہاں سے مصیبت کے آنے کا اسے گمان بھی نہ ہو گا۔

## اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر

### سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا خوف

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں (کچھ کمزوری کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں) آپ نے فرمایا مجھے سورت ہود، سورت واقعہ، سورت مرسلات، سورت عم یقیناً لون اور سورۃ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ یہی میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر بوڑھاپے کے آثار بہت جلد ظاہر ہو گئے حضورؐ نے فرمایا مجھے سورت ہود اور اس جیسی اور سورتوں واقعہ، عم یقیناً لون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔

حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں کیسے خوشحال اور مزے دار زندگی والا ہو سکتا ہوں جبکہ صور پھونکنے والا صور منہ میں لے چکا ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے صور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اب کیا پڑھا کریں؟ حضورؐ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ تو کلنا پڑھا کرو۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک قاری کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنانا لہدینا انکالا وجحیما (سورت مزمل آیت ۱۲) ترجمہ ”ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے“ یہ سن کر حضورؐ بے ہوش ہو گئے۔

### نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کا خوف

حضرت سہل بن سعدؓ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا زیادہ پیدا ہو گیا کہ جب بھی اس کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا وہ رونے لگ جاتا اور اس کی کیفیت کا اتنا

۱۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (۲ ص ۱۴۲) ۱۔ اخرجہ البیہقی ۲۔ کذا فی البدایہ (ج ۶ ص ۵۹) ۳۔ اخرجہ احمد ورواہ الترمذی وقال حسن کذا فی البدایہ (ج ۶ ص ۵۶) ۴۔ اخرجہ ابن النجار کذا فی الكنز (۴ ص ۴۳)



زیادہ غلبہ ہو گیا کہ وہ ہر وقت ہی گھر رہنے لگا مابہر نکلتا چھوڑ دیا کسی نے حضور ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے وہاں پہنچ کر حضور نے اسے گلے لگا لیا اتنے میں اس کی روح پرواز کر گئی اور اس کی لاش نیچے گر گئی حضور نے فرمایا تم اپنے اس ساتھی کی تجہیز و تکفین کرو اللہ کے ڈرنے اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیئے۔ حضرت حذیفہؓ سے بھی ایسی ہی حدیث منقول ہے اس میں یہ ہے کہ حضور ﷺ اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جب اس نوجوان کی حضور پر نگاہ بڑی تو وہ کھڑے ہو کر حضور کے گلے لگ گیا اور اسی میں اس کی جان نکل گئی اور وہ مر کر نیچے گر پڑا حضور ﷺ نے فرمایا تم اپنے ساتھی کی تجہیز و تکفین کرو جہنم کے ڈرنے اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیئے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے پناہ عطا فرمادی ہے جو آدمی کسی چیز کی امید کرتا ہے وہ اسے ڈھونڈا کرتا ہے اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ پر یہ آیت نازل فرمائی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُ ذَهَابَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (سورت تحریم آیت ۶) ترجمہ ”اے ایمان والو تم اپنے کو اپنے گھر والوں کو (دوزخ کی) اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن (اور سوختہ) آدمی اور پتھر ہیں“ تو آپ نے ایک دن یہ آیت اپنے صحابہؓ کو سنائی۔ سنتے ہی ایک نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آپ نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ حرکت کر رہا تھا آپ نے فرمایا اے جوان! لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا جس پر حضور نے اسے جنت کی بھارت دی۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ بھارت ہم سے صرف اسی کے لئے ہے؟ حضور نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَبِدَ (سورت بقرہ آیت ۱۷۷) ترجمہ ”(اور) یہ ہر اس شخص کے لئے (عام) ہے جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے“ حضرت سعید بن مسیبؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطابؓ ہمارے ہوئے حضور عیادت کے لئے ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے عمر! اپنے آپ کو کس حال پر پار ہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا (اللہ کے فضل و کرم کی امید بھی لگائے ہوئے ہوں اور (اپنے اعمال کی وجہ سے) ڈر بھی رہا ہوں) حضور ﷺ نے فرمایا جس مومن کے دل میں امید اور خوف جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا کر دیتے ہیں اور جس چیز سے ڈرتا ہو اس سے اسے بچا لیتے ہیں۔<sup>۲</sup> حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ

۱ اخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد والبيهقي من طريقه كذا في الترغيب (ج ۵ ص ۲۲۳)

۲ اخرجه ابن ابى الدنيا وابن قدامة كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۴۴) ۳ اخرجه الحاكم

۴ اخرجه البيهقي كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۴۵)

تعالیٰ جہاں سختی اور تنگی کی آیت ذکر کرتے ہیں وہاں اس کے قریب ہی نرمی اور وسعت کی آیت بھی ذکر کرتے ہیں اور جہاں نرمی اور وسعت کی آیت ذکر کرتے ہیں وہاں اس کے قریب ہی سختی اور تنگی کی آیت بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ مومن کے دل میں رغبت اور ڈر دونوں ہوں اور (بے خوف ہو کر) اللہ سے ناحق تمنا میں نہ کرنے لگے اور (تا امید ہو کر) خود کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ اور خلفاء کے خوف کے باب میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے خوف کے قصے گزر چکے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن روئیؓ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عثمانؓ نے فرمایا اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے اور مجھے معلوم نہ ہو کہ دونوں میں سے کس طرف جانے کا حکم ملے گا تو اس بات کے جاننے سے پہلے ہی مجھے راکھ بن جانا پسند ہو گا کہ دونوں میں سے کس طرف مجھے جانا ہے۔ ۱

حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ فرماتے ہیں کاش میں مینڈھا ہوتا میرے گھر والے مجھے ذبح کرتے پھر گوشت کھا لیتے اور میرا شور بانی لیتے۔ حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کاش میں ایک ٹیلہ پر پڑی ہوئی راکھ ہوتا جسے آندھی والے دن ہوا اڑا دیتی ۲۔ حضرت قتادہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمران بن حصینؓ نے فرمایا کاش میں راکھ ہوتا جسے ہوا میں اڑالے جاتیں۔ ۳

حضرت عامر بن مروقؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہؓ کے سامنے ایک آدمی نے کہا مجھے صرف اتنی بات پسند نہیں ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے بلکہ مجھے تو مقربین میں سے ہونا زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا یہاں تو ایک آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جائے (بلکہ اسے بالکل ہی ختم کر دیا جائے اس سے وہ اپنی ذات مراد لے رہے تھے) اپنے آپ کو تواضعاً جنت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے) ۴۔ حضرت حسنؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہؓ بن مسعودؓ نے فرمایا اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے یہ کہا جائے کہ تم پسند کرو لو چاہے جنت اور جہنم میں سے کسی میں چلے جاؤ چاہے راکھ بن جاؤ تو میں راکھ بن جانے کو پسند کروں گا۔ ۵

۱۔ اخرجہ ابو الشیخ کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۴)

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۶۰) و اخرجہ ایضا احمد فی الزهد عن عثمان مثله کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۰) ۳۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۷۴) و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۴۱۳) عن قتادہ عن ابی عبیدہ نحوہ

۴۔ عند ابن سعد (ج ۴ ص ۲۶) ایضا۔ ۵۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۳۳)

۶۔ عند ابی نعیم ایضا

حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تم اپنی بیویوں سے بے تکلف نہ ہو سکو اور تمہیں بستروں پر سکون نہ ملے اللہ کی قسم! میری آرزو ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے درخت بناتے جسے کاٹ دیا جاتا اور جس کے پھل کھائے جاتے۔ حضرت حزام بن حکیمؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداءؓ نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ مرنے کے بعد دیکھنا ہے اگر تمہیں اب اس کا یقین ہو جائے تو نہ مزے لے کر کھانے کھاؤ اور نہ مزے لے کر کچھ پیو اور نہ گھروں کے سائے میں بیٹھ سکو بلکہ میدانوں کی طرف نکل جاؤ اپنے سینوں کو پیٹ پیٹ کر اپنی جانوں پر روتے رہو اور میری آرزو ہے کہ کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ کر اس کا پھل کھا لیا جاتا۔ حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں میری آرزو ہے کہ کاش میں اپنے گھر والوں کا مینڈھا ہوتا ان کا کوئی مہمان آتا اور وہ میری رگوں پر چھری پھیر کر مجھے ذبح کر لیتے خود بھی گوشت کھاتے اور مہمان کو بھی کھلاتے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں میری آرزو ہے کہ کاش میں یہ والا ستون ہوتا۔

حضرت طاؤسؓ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبلؓ ہمارے علاقے میں تشریف لائے تو ہمارے بڑوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ان پتھروں اور لکڑیوں کو جمع کر کے آپ کے لئے ایک مسجد بنادیں انہوں نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن اس مسجد کو اپنی پشت پر اٹھانے کا مجھ کو تکلف نہ بنا دیا جائے۔

حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو میں نے سنا کہ وہ سجدے میں پڑے ہوئے یہ کہہ رہے تھے (اے اللہ) تو جانتا ہے کہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے قریش سے اس دنیا کے بارے میں مزاحمت نہیں کی۔ حضرت ابو حازمؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک عراقی آدمی پر گزر ہوا جو زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا انہوں نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے انہوں نے فرمایا ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن ہم تو بے ہوش ہو کر زمین پر نہیں گرتے۔

حضرت شداد بن اوس انصاریؓ جب بستر پر لیٹتے تو کروٹیں بدلتے رہتے اور ان کو نیند نہ آتی اور یوں فرماتے اے اللہ! جہنم نے میری نیند اڑا دی پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۶۴)

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۱۶)

۳۔ عند ابن عساکر کما فی الکنز (ج ۲ ص ۱۴۵) ۴۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۲)

۵۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۳۶)

۶۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۹۲) ۷۔ عند ابی نعیم ایضا (ج ۱ ص ۳۱۲)

اور صبح تک اس میں مشغول رہتے۔

حضرت عمرو بن سلمہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! میری آرزو ہے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتی۔ اللہ کی قسم! میری آرزو ہے کہ کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتی۔ اللہ کی قسم! میری آرزو ہے کہ کاش اللہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ حضرت لکن ابلیسیحہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ کے انتقال سے پہلے ان کی خدمت میں حضرت لکن عباسؓ آئے اور ان کی تعریف کرنے لگ گئے کہ اے رسول اللہ کی زوجہ محترمہ! آپ کو خوشخبری ہو۔ حضور ﷺ نے آپ کے علاوہ اور کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی اور آپ کی (تمہارے) براءت آسمان سے اتری تھی۔ اتنے میں سامنے سے حضرت لکن زبیرؓ حاضر خدمت ہوئے تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا یہ عبد اللہ بن عباسؓ میری تعریف کر رہے ہیں اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ آج میں کسی سے اپنی تعریف سنوں۔ میری تمنا تو یہ ہے کہ کاش میں بھولی ہسری ہو جاتی۔

اللہ کے خوف سے رونا

### سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا رونا

حضرت عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ میں نے عرض کیا میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ قرآن تو خود آپ پر نازل ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے قرآن سنوں۔ چنانچہ میں نے سورت نساء پڑھنی شروع کر دی اور جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (سورت النساء آیت ۴۱) پر پہنچا تو حضور نے فرمایا اس کرو۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں کہ حضور ﷺ کے رونے کے بعض واقعات نماز کے باب میں آئیں گے۔

### نبی کریم ﷺ کے صحابہ کا رونا

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اَفَمَنْ هَذَا الْخَلْدِثُ تَعْبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (سورت النجم آیت ۵۹، ۶۰) ترجمہ ”سو کیا (ایسے خوف کی باتیں سن کر بھی) تم لوگ اس کلام (الہی) سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور (خوف عذاب سے) روتے نہیں ہو“ تو اصحاب صفہ اتاروئے کہ آنسو ان کے رخساروں پر بہنے لگے حضور نے جب ان

۱ اخروجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۶۴)

۲ اخروجه ابن سعد (ج ۸ ص ۷۴) عند ابن سعد ایضا.

۳ اخروجه البخاری کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۵۹)

کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز سنی تو آپ بھی ان کے ساتھ رو پڑے آپ کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رو پڑے پھر حضورؐ نے فرمایا جو اللہ کے ڈر سے رونے گا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا اور جو گناہ پر اصرار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر تم گناہ نہ کرو (اور استغفار کرنا چھوڑ دو) تو اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے (اور استغفار کریں گے) اور اللہ ان کی مغفرت کریں گے۔ ۱۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وَقُوذُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (سورت بقرہ آیت ۲۴) ترجمہ ”جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں“ پھر آپؐ نے فرمایا کہ جہنم میں ایک ہزار سال تک آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال اور جلائی گئی یہاں تک کہ وہ کالی ہو گئی۔ اب یہ آگ کالی اور تاریک ہے اس کا شعلہ بھی نہیں بجھتا حضورؐ کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ یہ سن کہ زور زور سے رونے لگا اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے سامنے رونے والے کون ہیں؟ حضورؐ نے فرمایا یہ حبشہ کے ہیں اور حضورؐ نے اس کی تعریف کی حضرت جبرائیلؑ نے کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری عزت اور میرے جلال کی قسم! عرش پر میرے بلند ہونے کی قسم! جس بندے کی آنکھ دنیا میں میرے ڈر سے رونے لگی میں جنت میں اسے خوب ہنساؤں گا۔ ۲۔

حضرت قیس بن اہلی حازمؓ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے آیا تو حضرت ابو بکرؓ کے قائم مقام بن چکے تھے پہلے تو انہوں نے اللہ کی خوب تعریف بیان کی اور پھر خوب روئے۔ ۳۔

حضرت محمد حسن بن محمد بن علی بن اہلی طالبؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ جمعہ کے خطبہ میں اذالشمس کورت پڑھ رہے تھے جب تک علمت نفس ما حضرت پر پہنچے تو (رونے کے غلبہ کی وجہ سے) ان کی آواز بند ہو گئی۔ ۴۔

حضرت حسنؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے یہ آیتیں پڑھیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مِّثْلَهُ مِنْ دَافِعٍ (سورت طور آیت ۸۷) ترجمہ ”بیٹھک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا۔ کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔“ تو ان کا سانس پھول گیا (اور وہ ہمارا ہو گئے) اور پچیس دن تک (ایسے ہمارے رہے کہ) لوگ ان کی عبادت کرتے رہے ۵۔ حضرت عبید بن عمیرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی جس میں سورت یوسف شروع کر

۱۔ اخروجه البیهقی کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۹۰) ۲۔ اخروجه البیهقی والا صہانی

کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۹۴) ۳۔ اخروجه عبدالرزاق کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۶۰)

۴۔ اخروجه الشافعی کذا فی المنتخب (ج ۴ ص ۳۸۷) ۵۔ عند ابی عبید

دی پڑھتے پڑھتے جب وَاَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٍ پر پہنچے تو اتاروئے کہ آگے نہ پڑھ سکے اور رکوع کر دیا کہ حضرت عبد اللہ بن شداد بن ہاد کہتے ہیں حضرت عمرؓ فجر کی نماز میں سورت یوسف پڑھ رہے تھے میں آخری صف میں تھا جب پڑھتے پڑھتے اِنَّمَا اشْكُو بِنَفْسِي وَحُزْنِي اِلَى اللّٰهِ پر پہنچے تو میں نے آخری صف سے حضرت عمرؓ کے بلک بلک کر رونے کی آواز سنی کہ حضرت ہشام بن حسنؓ کہتے ہیں حضرت عمرؓ قرآن پڑھتے ہوئے جب (عذاب کی) کسی آیت پر گزرتے تو ان کا گلگھٹ جاتا اور اتاروتے کہ نیچے گر جاتے اور پھر (کنزور ہو جانے کی وجہ سے) کئی دن گھر رہتے اور لوگ ان کو ہمارا سمجھ کر عیادت کرتے رہتے۔ ۳

حضرت عثمان بن عفانؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمانؓ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتاروتے کہ دائرہ ہی تر ہو جاتی ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں اور نہیں روتے ہیں لیکن قبر کو یاد کر کے روتے ہیں؟ فرمایا میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو اس سے سہولت سے چھوٹ گیا اس کے لئے بعد کی منزلیں سب آسان ہیں اور جو اس میں (عذاب میں) پھنس گیا اس کے لئے بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہیں اور میں نے حضورؐ سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ گھبراہٹ والا نہ ہو۔ ۴ رزین کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ہانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمانؓ کو ایک قبر پر یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

فان تنج منها تنج من ذی عظیمۃ والا فانی لا اخالک ناجیا

(اے قبر والے!) اگر تم اس گھاٹی سے سہولت سے چھوٹ گئے تو تم بڑی زبردست گھاٹی سے چھوٹ گئے ورنہ میرے خیال میں تمہیں آئندہ کی گھاٹیوں سے نجات نہیں مل سکے گی۔ ۵

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ حضرت معاذ بن جبلؓ کے پاس سے گزرے وہ رو رہے تھے حضرت عمرؓ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت معاذؓ نے کہا ایک حدیث کی وجہ سے رو رہا ہوں جو میں نے حضور ﷺ سے سنی ہے کہ ریاکاروں کی درجہ بھی شرک ہے اور اللہ کو بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں اور ان کے حالات لوگوں سے چھپے ہوئے ہوں یہ لوگ اگر نہ آئیں تو کوئی انہیں تلاش نہ کرے اور اگر آجائیں تو

۱۔ عند ابی عبید کذا فی منتخب الكنز (ج ۴ ص ۴۰۱)

۲۔ عند عبدالرزاق وسعید بن منصور وابن سعد وابن ابی شیبہ والبیہقی

۳۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۵۱) ۴۔ اخرجه الترمذی وحسنہ

۵۔ کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۳۲۲) واخرجه ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۶۱) عن ہانی

انہیں کوئی نہ پہچانے یہی لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔<sup>۱</sup>

حضرت قاسم بن اہل بڑہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت لئن عمرؓ کو سورت وبل للمطففين پڑھتے ہوئے سنا ہے جب وہ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ: جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے“ پر پہنچے تو رونے لگے اور اتاروئے کہ بے اختیار ہو کر زمین پر گر گئے اور اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔<sup>۲</sup> حضرت نافعؓ کہتے ہیں جب بھی حضرت لئن عمرؓ سورت بقرہ کے آخر کی دو آیتیں پڑھتے تو رونے لگ جاتے۔ اِنْ تَبَدُّوا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحَا سِبْكُم بِهٖ اللّٰهُ ترجمہ ”جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا کہ پوشیدہ رکھو گے حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے۔“ اور فرماتے یہ حساب تو بہت سخت ہے۔<sup>۳</sup> حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ حضرت لئن عمرؓ جب اَلَمْ يَانَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ (سورت حدید آیت ۱۶) ترجمہ ”کیا ایمان والوں کے لئے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت کے اور جو دین حق (من جانب اللہ) نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جاویں“ پڑھتے تو رونے لگ جاتے اور اتاروئے کہ چپ کرنا اختیار میں نہ رہتا۔<sup>۴</sup>

حضرت یوسف بن ماہکؓ کہتے ہیں میں حضرت لئن عمرؓ کے ساتھ حضرت عبید بن عمیرؓ کے ہاں گیا وہ اپنے ساتھیوں میں بیان کر رہے تھے (حضرت لئن عمرؓ بیان سننے لگے تھوڑی دیر بعد) میں نے دیکھا تو حضرت لئن عمرؓ کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے۔<sup>۵</sup> حضرت عبید بن عمیرؓ نے آیت فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ (سورت نساء آیت ۴۱) ترجمہ ”سو اس وقت بھی کیا حال ہو گا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے۔“ آخر تک پڑھی تو حضرت لئن عمرؓ رونے لگے اور اتاروئے کہ ان کی داڑھی اور گریبان آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ حضرت لئن عمرؓ کے پہلو میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے بتایا (جب میں نے حضرت لئن عمرؓ کو اتنا زیادہ روتے ہوئے دیکھا) تو میرا دل چاہا کہ میں کھڑے ہو کر حضرت عبید بن عمیرؓ سے کہوں کہ اب آپ بیان ختم کر دیں کیونکہ آپ

۱۔ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۲۷۰) واللفظ واہو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۵) قال الحاكم صحیح الاسناد ولم یخرجاه وقال الذہبی ابو قحذم قال ابو حاتم لا ینکب حدیثہ وقال النسائی لیس ثقفاً ۲۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۰۵) واخرجه احمد نحوه کما فی صفة الصفوة (ج ۱ ص ۲۳۴) ۳۔ عند ابی نعیم واحمد ایضا

۴۔ عند ابی نعیم ایضا فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۰۵) واخرجه ابو العباس فی تاریخہ بسند جيد کما فی الاصابة (ج ۲ ص ۳۴۹)

۵۔ اخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۱۶۲) واخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۰۵) عن یوسف بن ماہک مختصراً

ان بڑے میاں کو بہت تکلیف پہنچا چکے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن ابی ملیحہؓ کہتے ہیں کہ میں مکہ سے مدینہ تک حضرت ابن عباسؓ کے ساتھ رہا وہ جب بھی کسی جگہ قیام کرتے وہاں وہ کو بھی رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے حضرت ایوبؓ نے راوی سے پوچھا کہ حضرت ابن عباسؓ کس طرح قرآن پڑھتے؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضرت ابن عباسؓ نے وَجَدَتْ سَكْرَةَ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تُجِيدُ (سورت ق آیت ۱۹) ترجمہ ”اور موت کی سختی حق کے ساتھ (قریب) پہنچی یہ (موت) وہ چیز ہے جس سے توبہ کتا تھا“ پڑھی تو خوب ٹھہر ٹھہر کر اسے پڑھتے رہے اور درد بھری آواز سے خوب روتے رہے حضرت ابو رجاءؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کے (چہرے پر) آنسوؤں کے بہنے کی جگہ (زیادہ رونے کی وجہ سے) پرانے تسمہ کی طرح تھی حضرت عثمان بن ابی سوہہؓ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبادہ بن صامتؓ اس مسجد کی دیوار پر جو وادی جنم کی طرف ہے سینہ رکھے ہوئے رو رہے ہیں میں نے عرض کیا اے ابو الولید! آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں حضور ﷺ نے ہمیں بتایا تھا کہ انہوں نے اس جگہ جنم کو دیکھا تھا۔

حضرت یعلیٰ بن عطاءؓ کہتے ہیں کہ میری والدہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے لئے سرمہ تیار کیا کرتی تھیں وہ بہت رویا کرتے تھے۔ وہ اپنا دروازہ بند کر کے روتے رہتے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں دکھنے لگ جاتیں اس لئے میری والدہ ان کے لئے سرمہ تیار کیا کرتی تھیں۔

حضرت مسلم بن یحییٰؓ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ اپنی بیماری میں رو رہے تھے کسی نے عرض کیا اے ابو ہریرہؓ! آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا غور سے سنو میں تمہاری اس دنیا پر تو نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ سفر بہت دور کا ہے اور میرا توشہ کم ہے اور میں اس گھائی پر چڑھ گیا ہوں جس کے بعد جنت اور دوزخ دونوں کو راستہ جاتا ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کس کے راستے پر مجھے چلایا جائے گا۔

۱ عند ابی سعد (ج ۴ ص ۱۶۲) ۲ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۲۷)

۳ عند ابی نعیم ایضا (ج ۱ ص ۳۲۹) ۴ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۶ ص ۱۱۰)

۵ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۹۰)

۶ اخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۶۲) و اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۸۳)



## غورو فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا

نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کا غورو فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا

حضرت ابو ریحانہؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت حمزہ بن حبیبؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ریحانہؓ ایک غزوہ سے واپس آئے تو رات کو کھانا کھایا پھر وضو کیا اور مصلے پر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور ایک سورت پڑھنے لگے اور نماز میں ایسے مگن ہوئے کہ اسی میں فجر کی اذان ہو گئی ان کی بیوی نے کہا اے ابو ریحانہ! آپ غزوہ میں گئے تھے جس میں آپ خوب تھک گئے تھے پھر آپ واپس آئے تو کیا آپ پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور آپ کے اوقات میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا۔ ہے لیکن اللہ کی قسم! تم مجھے یاد آتیں تو تمہارا مجھ پر حق ہوتا ان کی بیوی نے پوچھا تو آپ کس چیز میں منہمک ہو گئے تھے (کہ میرا خیال بھی نہ کیا؟) فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کی لذتوں کو جو بیان فرمایا ہے میں انہیں سوچنے لگ گیا تھا اس اسی میں فجر کی اذان کان میں پڑی۔<sup>۱</sup>

حضرت محمد بن واسعؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذرؓ کی وفات کے بعد ایک آدمی بصرہ سے سفر کر کے حضرت ام ذر (حضرت ابو ذرؓ کی اہلیہؓ) کے پاس حضرت ابو ذرؓ کی عبادت کے بارے میں پوچھنے گیا۔ چنانچہ اس آدمی نے حضرت ام ذرؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا میں آپ کی خدمت میں اس لئے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے حضرت ابو ذرؓ کی عبادت کے بارے میں بتائیں انہوں نے بتایا کہ وہ سارا دن تمناؤں میں بیٹھ کر غورو فکر کرتے رہتے تھے۔<sup>۲</sup>

حضرت عون بن عبد اللہ بن عتبہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام درداءؓ سے پوچھا کہ حضرت ابو درداءؓ کا سب سے افضل عمل کون سا تھا؟ انہوں نے کہا غورو فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا۔ ابو نعیم نے حضرت عونؓ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ام درداءؓ سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو درداءؓ سب سے زیادہ کون سا عمل کرتے تھے؟ انہوں نے کہا عبرت حاصل کرنا۔ دوسری روایت میں ہے غورو فکر کرنا۔ حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا غورو فکر ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔<sup>۳</sup> حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ خیر کے دروازوں کے کھلنے کا اور شر کے دروازوں کے بند ہونے کا

<sup>۱</sup> أخرجه ابن المبارك في الزهد كذا في الإصابة (ج ۲ ص ۱۵۷)

<sup>۲</sup> أخرجه أبو نعيم في الحلية (ج ۱ ص ۱۶۴)

<sup>۳</sup> أخرجه أبو نعيم في الحلية (ج ۱ ص ۲۰۸)

<sup>۴</sup> عند أبو نعيم أيضا عن عون بن سالم بن أبي الجعد نحوه إلا أنه قال فقالت التفكر وأخرجه أحمد نحو الحديث الأول عن عون كما في صفة الصفوة (ج ۱ ص

۲۵۸) عند أبي نعيم وأحمد أيضا وأخرجه ابن سعد (ج ۷ ص ۳۹۲)

ذریعہ بنتے ہیں اور اس پر انہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ بہت سے لوگ شر کے دروازوں کے کھلنے کا اور خیر کے دروازوں کے بند ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں اور انہیں ان کی وجہ سے بڑا گناہ ہوگا اور ایک گھڑی کا غور و فکر ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت حبیب بن عبد اللہ کہتے ہیں ایک آدمی حضرت ابو الدرداءؓ کی خدمت میں گیا۔ وہ غزوہ میں جانا چاہتا تھا اس نے عرض کیا اے ابو الدرداءؓ مجھے کچھ وصیت فرمادیں حضرت ابو الدرداءؓ نے فرمایا تم اللہ کو خوشی اور راحت میں یاد رکھو اللہ مصیبت میں تمہیں یاد رکھے گا اور جب تم اپنے دل میں دنیا کی کسی چیز کا اثر اف اور رغبت پاؤ تو غور و فکر کرو کہ اس چیز کا کیا انجام ہوگا (کہ مٹی سے بنی ہے اور ایک دن مٹی ہو جائے گی) حضرت سالم بن ابی الجعدؓ کہتے ہیں کہ دو میل حضرت ابو الدرداءؓ کے پاس سے گزرے جو کام کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کام کرتا رہا اور دوسرا کھڑا ہو گیا تو حضرت ابو الدرداءؓ نے فرمایا اس میں بھی عبرت ہے (کہ جو میل کام چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ہے اسے مالک ڈنڈے سے مارے گا) ۳

## نفس کا محاسبہ

حضرت ابو بکرؓ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس سے بغض رکھے گا (اور اس کی نہیں مانے گا بلکہ اس کی مرضی کے خلاف اللہ والے کام نفس سے کرے گا) تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے غصہ سے محفوظ رکھیں گے۔ ۴

حضرت ثابت بن حجاجؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا تم اپنے نفسوں کا اس سے پہلے جائزہ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جائزہ لے اور تم اپنے نفسوں کا اس سے پہلے خود محاسبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے۔ تم آج اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو گے اس سے گل کو حساب میں آسانی ہوگی اور (قیامت کے دن کی) بڑی پیشی کے لئے (یک اعمال اختیار کر کے) سنور جاؤ۔ یَوْمَئِذٍ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (سورت الحاقہ آیت ۱۸)

ترجمہ ”جس روز (خدا کے روبرو حساب کے واسطے) تم پیش کئے جاؤ گے (اور) تمہاری کوئی بات (اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ ہوگی۔“ ۵

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر بن خطابؓ کے ساتھ باہر

۱۔ عن ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۲)

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۰۹) ۳۔ عند ابی نعیم ایضا و اخرجہ احمد ایضا

الحدیث الاول عن حبیب نحوہ کما فی صفۃ الصفوة (ج ۱ ص ۲۵۸)

۴۔ اخرجہ ابن ابی الدنیا فی محاسبۃ النفس کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۶۲)

۵۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۵۲)

نکلا چلتے چلتے حضرت عمرؓ ایک باغ میں داخل ہو گئے (میں باہر رہ گیا) وہ باغ کے اندر تھے اور میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہی تھی۔ میں نے سنا کہ وہ اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اے امیر المؤمنین! اللہ کی قسم! تجھے اللہ سے ضرور ڈرنا ہو گا ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے ضرور عذاب دیں گے۔

## خاموشی اور زبان کی حفاظت

حضرت سہاکؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہؓ سے پوچھا کیا آپ حضور ﷺ کی مجلس میں حاضری دیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں اور حضورؐ اکثر اوقات خاموش رہا کرتے تھے۔

حضرت ابو مالک اشجیؓ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضور ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اس وقت ہم لوگ نوجوان لڑکے تھے میں نے حضورؐ سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا جب آپ کے صحابہ آپس میں گفتگو کرتے اور بہت زیادہ باتیں کرتے تو آپؐ سن کر مسکرا دیتے۔

حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک دن باہر تشریف لائے اور اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے ان میں سے کوئی بھی آپ سے آگے نہیں چل رہا تھا حضرت معاذ بن جبلؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے (مرنے کے) دن کو آپ کے (انتقال کے) دن سے پہلے کر دے۔ اللہ ہمیں آپ کے (انتقال) کا وہ دن نہ دکھائے لیکن اگر وہ دن دیکھنا پڑ گیا تو ہم آپ کے بعد کون سے اعمال کیا کریں؟ یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ہم جہاد فی سبیل اللہ کیا کریں حضورؐ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بہت اچھا عمل ہے اور لوگوں کو اس کی عادت بھی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ (نفس کو) قابو میں لانے والا عمل ہے حضرت معاذؓ نے کہا روزہ اور صدقہ حضورؐ نے فرمایا روزہ اور صدقہ بہت اچھے عمل ہیں اور لوگوں کو ان کی بھی عادت ہے لیکن ان سے بھی زیادہ (نفس کو) قابو میں لانے والا عمل ہے چنانچہ حضرت معاذؓ کو جتنے بھی خیر والے عمل معلوم تھے انہوں نے ان میں سے ہر ایک کا نام لیا حضورؐ ہر ایک کے جواب میں یہی فرماتے رہے کہ لوگوں کو اس کی عادت ہے لیکن اس سے بھی زیادہ (نفس کو) قابو میں

۱۔ اخرجہ مالك وابن سعد وابن ابی الدنيا في محاسبة النفس وابو نعیم في المعرفة وابن عساکر کذا في المنتخب (ج ۴ ص ۴۰۰) ۲۔ اخرجہ احمد والطبرانی في حديث طويل قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۲۹۷) ورجال احمد رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة واخرجہ ابن سعد (ج ۱ ص ۳۷۲) عن سماك نحوه ۳۔ عند الطبرانی قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۲۹۸) وفيه ابراهيم بن زكريا العجلي وهو ضعيف. انتهى

لانے والا عمل ہے آخر حضرت معاذؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! لوگوں کو ان تمام اعمال کے کرنے کی عادت ہے تو ان سے بھی زیادہ (نفس کو) قابو میں لانے والا عمل کون سا ہے؟ حضورؐ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا خاموش رہنا اور صرف خیر کی بات کرنا حضرت معاذؓ نے عرض کیا جو کچھ ہم زبان سے بولتے ہیں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ حضورؐ نے حضرت معاذؓ کی ران پر ہاتھ مار کر کہا تیری ماں تجھے گم کرے ایسے ایک دو جملے اور کہے اور فرمایا لوگوں کو ان کے نتھننے کے بل جنم میں ان کی زبانوں کی باتیں ہی تو گرائیں گی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خیر کی بات کہے اور شر سے خاموش رہے تم لوگ خیر کی بات گو تو (اجر و ثواب کو) غنیمت میں پاؤ گے اور شر سے خاموش رہو (دونوں جہاں کی آفتوں سے) بچ رہو گے۔<sup>۱</sup>

## نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کی خاموشی

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانے میں ایک آدمی قتل ہو گیا تو ایک عورت نے اس پر روتے ہوئے کہا ہائے شہید ہونے والے! حضورؐ نے فرمایا خاموش رہو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ شہید ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لایعنی باتیں کرتا رہا ہو یا ایسی چیزوں کے خرچ کرنے میں تجوسی سے کام لیتا رہا ہو جن کے خرچ کرنے سے اسے کسی طرح کی کمی نہ آتی۔<sup>۲</sup> انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی جنگ احد میں شہید ہوا اور بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا تو اس کی ماں اس کے چہرے سے مٹی صاف کرنے لگی اور کہنے لگی اے میرے بیٹے! تجھے جنت مبارک ہو حضورؐ نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ (کہ یہ جنتی ہے) شاید یہ لایعنی بات کرتا رہا ہو یا ایسی چیزوں کو روک کر رکھتا ہو جن کے خرچ کرنے میں کوئی نقصان نہ ہو۔<sup>۳</sup>

حضرت خالد بن نمیرؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسرؓ بہت زیادہ خاموش، غمگین اور بے چین رہتے اور عام طور پر فرمایا کرتے کہ میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے اسی کی پناہ چاہتا ہوں۔<sup>۴</sup> حضرت ابو اور لیس خولانیؓ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک حضرت دیکھے جن کے سامنے کے دانت بہت چمک رہے تھے اور وہ بہت زیادہ خاموش

۱ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۲۹۹) رجالہ رجال الصحیح غیر عمرو بن مالک الجنبی وهو ثقہ انتھی ۲ اخرجہ ابو یعلیٰ وفیہ عصام بن طلیق وهو ضعیف کما قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۳۰۳) ۳ عند ابی یعلیٰ ایضا وفیہ یحییٰ بن یعلیٰ الا سلمیٰ وهو ضعیف کما قال الہیثمی واخرجه الترمذی عن انس مختصراً کما فی المشکاة ۴ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۴۲)

رہنے والے تھے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کا آپس میں کسی معاملہ میں اختلاف ہو جاتا تو وہ اسے ان کے سامنے پیش کرتے اور پھر یہ اس معاملہ میں جو فیصلہ کرتے سب اس سے مطمئن ہو جاتے میں نے پوچھا یہ حضرت کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت معاذ بن جبلؓ ہیں۔

حضرت اسلمؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی طرف جھانک کر دیکھا تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اے رسول اللہ کے خلیفہ! آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اسی نے تو مجھے ہلاکت کی جگہوں پر لاکھڑا کیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہے جسم کا ہر عضو زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔

حضرت ابو وائلؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہؓ ایک مرتبہ صفا پہاڑی پر چڑھے اور زبان کو پکڑ کر کہنے لگے اے زبان! خیر کی بات کہہ غنیمت حاصل کرے گی۔ بری بات نہ کہہ بلکہ چپ رہ ندامت سے بچ جائے گی اور سلامتی میں رہے گی میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لئن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے صادر ہوتی ہیں۔

حضرت سعید جریریؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے یہ واقعہ سنایا کہ میں نے حضرت لئن عباسؓ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کی نوک پکڑ کر کہہ رہے ہیں تیرا اس ہو خیر کی بات کہہ غنیمت حاصل کرے گی اور بری بات نہ کہہ بلکہ چپ رہ سلامتی میں رہے گی ایک آدمی نے ان سے پوچھا اے لئن عباسؓ! کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی زبان کی نوک پکڑ کر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بندہ کو قیامت کے دن جتنا غصہ اپنی زبان پر آئے گا اتنا اور کسی چیز پر نہیں آئے گا۔

حضرت ثلث بنانیؓ کہتے ہیں کہ حضرت شدا بن اوسؓ نے ایک دن اپنے ایک ساتھی سے کہا ستر خو ان لاؤ تاکہ ہم اس میں مشغول ہو جائیں تو ان کے ایک اور ساتھی نے کہا میں نے جب سے آپ کی صحبت اختیار کی ہے میں نے بھی آپ سے ایسی بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم! بس یہی ایک بات میری زبان سے اچانک نکل گئی ہے ورنہ جب سے میں حضور ﷺ سے جدا ہوا ہوں ہمیشہ میری زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نکلتی ہے (یعنی ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولتا رہا ہوں بس آج ہی چوک ہو گئی ہے) سندہ ایسا نہیں ہو گا۔

۱۔ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۲۶۹) ۲۔ اخرجه ابو يعلى قال الهيثمي (ج ۱ ص

۳۰۲) رجاله رجال الصحيح غير موسى بن محمد بن حبان وقد وثقه ابن حبان اه وخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ۱ ص ۳۳) عن اسلم مختصرا ۳۔ اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج

۱ ص ۱۰۰) رجاله رجال الصحيح ۴۔ اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ۱ ص ۳۲۸)

۵۔ اخرجه ابو نعيم في الحلية (ج ۱ ص ۲۶۵)

حضرت سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوسؓ نے ایک دن کہا ستر خوان لاؤ تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ کھیل لیں تو اس بول پر ساتھیوں نے ان کی گرفت کی اور یوں کہا حضرت یعلیٰ (حضرت شدادؓ کی کنیت ہے) کو دیکھو آج ان کی زبان سے کیسی بات نکلے ہے۔ انہوں نے فرمایا اے میرے بچو! جب سے میں حضور ﷺ سے بیعت ہوا ہوں ہمیشہ میں نے سوچ سمجھ کر نپنی تلی بات ہی کہی ہے بس یہی ایک بات اچانک کہہ بیٹھا ہوں یعنی مجھ سے چوک ہو گئی ہے۔ اس بات کو چھوڑو اور تم اس سے بہتر بات لے لو اور وہ یہ دعا ہے اے اللہ! ہم تجھ سے ہر کام میں جلدی نہ کرنے اور ثابت قدمی کو مانگتے ہیں اور شد و بدایت پر چٹنگی کو مانگتے اور تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان مانگتے ہیں اور تیرے علم میں جھٹی خیر ہے اسے مانگتے ہیں اور ان شرور سے پناہ چاہتے ہیں جنہیں تو جانتا ہے یہ دعا مجھ سے لے لو اور وہ بات جو اچانک نکل گئی ہے اسے چھوڑو لہ پھر ابو نعیم نے دوسری سند سے اس جیسی روایت بیان کی ہے جس میں یہ ہے کہ جو بات میری زبان سے نکل گئی ہے اسے تم یاد نہ رکھو بلکہ اب جو میں تمہیں کہوں گا اسے یاد کر لو اور وہ یہ ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جب سونا اور چاندی کا خزانہ جمع کرنے لگ جائیں تو تم ان کلمات کو خزانہ بنا لینا یعنی انہیں کثرت سے بڑھتے رہنا اے اللہ! میں آپ سے ہر کام میں ثابت قدمی اور شد و بدایت پر چٹنگی مانگتا ہوں پھر پچھلی حدیث جیسے الفاظ ذکر کیے اور مزید یہ دعا بھی ذکر کی اور تو میرے جتنے گناہوں کو جانتا ہے میں تجھ سے ان تمام گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں۔ بھیک تو ہی غیب کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ ۵

حضرت عیسیٰ بن عقبہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں! روئے زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں جسے زبان سے زیادہ عمر قید کی ضرورت ہو ۶۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا میں تمہیں بے کار باتیں کرنے سے ڈراتا ہوں اور بقدر ضرورت بات کرنا ہی تمہارے لئے کافی ہے ۷۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ خطائیں ان لوگوں کی ہوں گی جو دنیا میں فضول بحث مباحثہ کرتے رہتے تھے۔ ۵

۱۔ عند ابی نعیم ایضاً کذا رواہ سلیمان بن موسیٰ موقوفاً رواہ احسان بن عطیة عن شداد بن اوس مرفوعاً  
 ۲۔ واخرجه ابو نعیم ایضاً (ج ۱ ص ۲۶۶) من طریق ابی الاشعث الضعافی وغیرہ مرفوعاً نحوه واخرجه احمد من طریق حسان بن عطیة عن شداد نحوه كما فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۳۵۱)  
 ۳۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۳۴) واخرجه الطبرانی نحوه باسناد ورجالها ثقات كما قال الهیثمی (ج ۱ ص ۳۰۳)  
 ۴۔ عند الطبرانی ایضاً وفيه المسعودی وقد اختلط كما قال الهیثمی  
 ۵۔ عند الطبرانی ایضاً ورجالها ثقات كما قال الهیثمی

حضرت علیؓ فرماتے کہ زبان سارے بدن کی اصلاح کی بنیاد ہے جب زبان ٹھیک ہو جائے تو سارے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو تمام اعضاء بے قابو ہو جاتے ہیں۔ لکن ابی الدنیا کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو چھپا پھر تیر اذکر نہیں ہوا کرے گا (اور توجوگنے سے بچ جائے گا) اور خاموشی اختیار کر تو سلامتی میں رہے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ خاموشی جنت کی طرف بلانے والی ہے ایک روایت میں حضرت علیؓ سے یہ شعر منقول ہیں:

لا تفش سرک الا الیک فان لكل نصیح نصیحاً  
اپنا بھید اپنے تک محفوظ رکھ اور کسی پر ظاہر نہ کر کیونکہ ہر خیر خواہ کے لئے کوئی نہ کوئی خیر خواہ ہوتا ہے۔

فانی راء بیت غرارة الرجال لا یدعون ادینماً صحیحاً  
کیونکہ میں نے گمراہ انسانوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی آدمی کو بے دلخ صحیح نہیں رہنے دیتے۔  
حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ جیسے تم لوگ بات کرنا سیکھتے ہو ایسے ہی خاموش رہنا بھی سیکھو کیونکہ خاموش رہنا بہت بڑی بردباری ہے اور تمہیں بولنے سے زیادہ سننے کا شوق ہونا چاہئے اور کبھی لالینی کا بول نہ بولو۔ ہنسی کی بات کے بغیر خواہ مخواہ مت ہنسو اور بلا ضرورت کسی جگہ مت جاؤ۔  
حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ مومن کے جسم میں کوئی عضو اللہ تعالیٰ کو اس کی زبان سے زیادہ محبوب نہیں ہے اس کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے اور کافر کے جسم میں کوئی عضو اللہ تعالیٰ کو اس کی زبان سے زیادہ مبغوض نہیں ہے اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔  
حضرت لکن عمرؓ فرماتے ہیں کہ بندے کو سب سے زیادہ جس عضو کو پاک کرنے کی ضرورت ہے وہ اس کی زبان ہے۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔

گفتگو

### حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی گفتگو

بخاری میں حضرت عائشہؓ کی یہ روایت ہے کہ حضور ﷺ کی گفتگو ایسی واضح اور اطمینان سے ہوتی تھی کہ اگر کوئی اس کے کلمات گننا چاہتا تو گن سکتا تھا بخاری میں حضرت عائشہؓ کی

۱۔ اخرجہ ابن ابی الدنیا فی الصمت ۲۔ کذا فی کنز العمال (ج ۲ ص ۱۰۸)  
۳۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۱۵۹) ۴۔ عند ابی نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۲۰)  
۵۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۰۷)  
۶۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۷ ص ۲۲)

دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں تمہیں تعجب کی بات نہ بتاؤں کہ ابو فلاں آئے اور میرے حجرے کے قریب بیٹھ کر حضور اقدس ﷺ کی حدیثیں اتنی آواز سے بیان کرنے لگے کہ مجھے بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں نفل نماز پڑھ رہی تھی اور میری نماز ختم ہونے سے پہلے ہی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اگر مجھے وہ مل جاتے تو میں ان کی تردید کرتی اور انہیں بتاتی کہ حضور تمہاری طرح لگاتار جلدی جلدی گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ روایت امام احمد، مسلم اور ابو داؤد نے بھی ذکر کی ہے اور اس کے شروع میں یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کیا میں تمہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی عجیب بات نہ بتاؤں پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ امام احمد اور ابو داؤد حضرت عائشہؓ کی یہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کی گفتگو کا ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا اور ہر ایک آپ کی بات سمجھ جاتا تھا آپ لگاتار جلدی جلدی بات نہیں فرماتے تھے۔ حضرت جلد یا حضرت لیلن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی گفتگو واضح حروف کے ساتھ ہوتی تھی یا ہر ہر لفظ جدا ہوتا تھا اور اس میں عجلت نہیں پائی جاتی تھی امام احمد اور بخاری حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ جب کوئی اہم بات فرماتے تو اسے تین مرتبہ دہراتے اور جب کسی قوم کے پاس جا کر سلام کرتے تو تین مرتبہ کرتے۔ امام احمد حضرت ثمامہ بن انسؓ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت انسؓ جب کوئی بات فرماتے تو اسے تین مرتبہ دہراتے اور وہ یہ بتایا کرتے کہ نبی کریم ﷺ بھی جب کوئی (اہم) بات فرماتے تو اسے تین مرتبہ دہراتے اور اجازت بھی تین مرتبہ لیتے۔ ترمذی میں حضرت ثمامہ بن انسؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کوئی (اہم) بات فرماتے تو اسے تین دفعہ دہراتے تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے لہذا امام احمد اور بخاری حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے (جن کے الفاظ تھوڑے اور معانی زیادہ ہیں) اور رب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے ایک مرتبہ میں سو رہا تھا تو زمین کے خزانوں کی چلیاں مجھے دی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں حضرت عبداللہ بن سلامؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور وحی کے انتظار میں بار بار نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے۔ ۱

حضرت عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ قوم کے بدترین شخص کی طرف بھی تالیف قلب کے خیال سے پوری طرح متوجہ ہو کر بات فرماتے (جس کی وجہ سے اس کو اپنی خصوصیت کا خیال ہو جاتا تھا) چنانچہ خود میری طرف بھی حضور کی توجہات عالیہ اور کلام کا

۱ ثم قال الترمذی حسن صحیح غریب ۲ عند ابن اسحاق وھکذا رواہ ابو داؤد فی



رخ بہت زیادہ رہتا تھا حتیٰ کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ میں قوم کا بہترین شخص ہوں اسی وجہ سے حضورؐ سب سے زیادہ توجہ فرماتے ہیں میں نے اسی خیال سے ایک دن دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! میں افضل ہوں یا عمرؓ۔ حضورؐ نے فرمایا عمرؓ۔ پھر میں نے پوچھا کہ میں افضل ہوں یا عثمان۔ حضورؐ نے فرمایا عثمان۔ جب میں نے حضورؐ سے صاف صاف پوچھا تو حضورؐ نے بلا رعایت صحیح صحیح بتا دیا (میری رعایت میں مجھے افضل نہیں فرمایا مجھے اپنی اس حرکت پر بعد میں ندامت ہوئی) اور بڑی تمنا ہوئی کہ کاش میں حضورؐ سے یہ بات نہ پوچھتا۔

## مسکراتا اور ہنسنا

### سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا مسکراتا اور ہنسنا

بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ میں نے کبھی حضور ﷺ کو زور سے اتنا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے جڑے اور کوا نظر آنے لگیں آپ تو بس مسکرایا کرتے تھے۔ ترمذی میں حضرت عبد اللہ بن حارث جزئی کی روایت ہے میں نے کسی کو حضور ﷺ سے زیادہ مسکراتے والا نہیں دیکھا۔ ترمذی میں ان ہی حضرت عبد اللہ بن حارثؓ کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ کا ہنسنا مسکراتا ہی ہوتا تھا (آخرت والے معاملات میں تو آپ ہنس لیا کرتے تھے دنیا کی باتوں پر صرف مسکرایا کرتے تھے)۔ مسلم میں یہ روایت ہے کہ حضرت سماک بن حربؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جلد بن سمرہؓ سے پوچھا کیا آپ حضور ﷺ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے؟ حضرت جلدؓ نے کہا ہمت۔ حضور ﷺ فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے۔ جب سورج نکل آتا تب وہاں سے کھڑے ہوتے اس وقت صحابہؓ باتیں کرتے رہتے اور کبھی زمانہ جاہلیت کی کوئی بات کر کے ہنسا کرتے لیکن حضورؐ مسکراتے رہتے۔ طیا لسی میں حضرت سماکؓ کی یہ روایت ہے کہ میں نے حضرت جلد بن سمرہؓ سے پوچھا کہ کیا آپ حضور ﷺ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں لیکن حضورؓ کی خاموشی بہت زیادہ اور آپ کی ہنسی بہت کم تھی۔ آپ کے صحابہؓ آپ کے سامنے کبھی آپس میں ایک دوسرے کو شعر سناتے۔ حضورؐ بھی کبھی کوئی جملہ ان کے امور کے بارے میں ارشاد فرمادیتے صحابہؓ تو ہنسا کرتے لیکن حضورؐ اکثر مسکرایا ہی کرتے۔

۱۔ اخرجہ الترمذی فی الشماثل (ص ۲۵) واخرجہ الطبرانی عنہ نحوه واسنادہ حسن کما قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۵) وقال فی الصحیح بعضہ بغير سباقہ  
 ۲۔ وقال الترمذی صحیح ۳۔ کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۴۱ و ۴۲) واخرجہ ابن سعد (ج ۱ ص ۳۷۲) عن سماک نحوه

حضرت حصین بن یزید کلبیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا آپ تو بس مسکرایا ہی کرتے تھے اور آپ کبھی بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیا کرتے تھے۔

حضرت عمرؓ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ حضور ﷺ جب اپنی بیویوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تو آپ کا کیا معمول ہوتا تھا؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا تمہارے مردوں کی طرح ان کا معمول ہوتا تھا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ نرم بہت ہنسنے اور مسکرانے والے تھے۔

حضرت جلدؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کے پاس وحی آئی یا آپ بیان فرماتے تو میں یوں محسوس کرتا کہ آپ ایسی قوم کو ڈرا رہے ہیں جس پر اللہ کا عذاب کیا ہوا ہے اور جب یہ کیفیت جانی رہتی تو میں دیکھتا کہ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ بعاش اور آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے اور آپ کا جسم سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ تمام لوگوں سے زیادہ ہنسنے والے اور سب سے زیادہ عمدہ طبیعت والے تھے۔

حضرت عامر بن سعدؓ کہتے ہیں کہ (میرے والد) حضرت سعدؓ نے فرمایا کہ حضور اقدس ﷺ غزوہ خندق کے دن اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت عامر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کس بات پر ہنستے تھے؟ حضرت سعدؓ نے کہا کہ ایک کافر ڈھال لئے ہوئے تھا اور میں بڑا ماہر تیر انداز تھا لیکن وہ اپنی ڈھال کو اوڑھ اوڑھ کر لیتا تھا جس کی وجہ سے اپنی پیشانی کا چھوڑ کر لیتا تھا۔ (گویا مقابلہ میں حضرت سعد کا تیر لگنے نہ دیتا تھا حالانکہ یہ مشہور تیر انداز تھے) میں نے ایک مرتبہ تیر نکالا (اور اس کو کمان میں کھینچ کر انتظار میں رہا) جس وقت اس نے ڈھال سے سر اٹھایا ایسا لگا گیا کہ پیشانی سے چوکا نہیں اور وہ فوراً گر گیا۔ اس کی ٹانگ بھی اوپر کواٹھ گئی اس پر حضور اقدسؓ نے کہا کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ رلوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس میں سے کون سی بات پر حضور ہنسے انہوں نے کہا سعد نے اس آدمی کے ساتھ جو ہوشیاری سے معاملہ کیا اس پر۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر

- ۱۔ اخرجه ابو نعیم وابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۴۲) واخرجه ابن قانع عن الحصین نحوه ولم یدکرو ربما شدالی آخره كما فی الاصابه (ج ۱ ص ۳۴۰)
- ۲۔ اخرجه البخاری والحاکم کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۴۷) واخرجه ابن عساکر عن عمرة نحوه كما فی البدایه (ج ۶ ص ۴۴) واخرجه ابن سعد (ج ۱ ص ۹۱) بمعناه
- ۳۔ اخرجه البزار قال الهیثمی (ج ۹ ص ۱۷) اسناد حسن
- ۴۔ عند الطبرانی وفيه علی بن یزید الالهانی وهو ضعيف كما قال الهیثمی (ج ۹ ص ۱۷)
- ۵۔ اخرجه الترمذی فی الشمائل (ص ۱۶)

عرض کیا یا رسول اللہ! میں تو ہلاک ہو گیا (کیونکہ میں نے اللہ کا حکم توڑ دیا) میں رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ حضورؐ نے فرمایا کفارے میں ایک غلام آزاد کرو انہوں نے عرض کیا میرے پاس تو غلام نہیں ہے۔ حضورؐ نے فرمایا دو مہینے مسلسل روزے رکھو انہوں نے عرض کیا یہ میرے بس میں نہیں۔ حضورؐ نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس کھلانے کے لئے کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضورؐ کی خدمت میں کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ٹوکڑے میں کھجوریں آئیں حضورؐ نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والے کہاں ہیں؟ (وہ آئے تو) حضورؐ نے فرمایا لو یہ کھجوریں صدقہ کر دو انہوں نے عرض کیا اپنے سے بھی زیادہ فقیر پر صدقہ کروں؟ اللہ کی قسم! مدینہ کے دونوں طرف جو کنکر پلے میدان ہیں ان کے درمیان کوئی گھر نہ ہم سے زیادہ فقیر نہیں ہے اس پر حضورؐ اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور آپ نے فرمایا اچھا (جب تم اتنے ہی ضرورت مند ہو تو) پھر تم ہی اسے اپنے گھر والوں پر خرچ کر لو (بعد میں کفارہ دے دینا)۔

حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو خوب جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گا اور اس سے بھی واقف ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا قیامت کے دن ایک آدمی دربار الہی میں حاضر کیا جائے گا اس کے لئے یہ حکم ہو گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر پیش کیئے جائیں اور بڑے بڑے گناہ مخفی رکھے جائیں۔ جب اس پر چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیئے جائیں گے کہ تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیئے ہیں تو وہ اقرار کرے گا۔ اس لئے کہ انکار کی گنجائش نہیں ہو گی اور وہ اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہو گا پھر یہ حکم ہو گا کہ اس کو ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو تو وہ شخص یہ حکم سنتے ہی خود بولے گا کہ میرے تو ابھی بہت سے گناہ باقی ہیں جو یہاں نظر نہیں آتے۔ حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ اس کی یہ بات نقل فرما کر اتنے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں آگ سے نکلے گا وہ ایک ایسا آدمی ہو گا جو کہ زمین پر گھسٹتا ہوا جہنم سے نکلے گا (جہنم کے عذاب کی شدت کی وجہ سے سیدھا نہ چل سکے گا) اس کو حکم ہو گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ وہ وہاں جا کر دیکھے گا کہ لوگوں نے تمام جگہوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ سب جگہیں پر ہو چکی ہیں چنانچہ واپس آ کر عرض کرے گا اے میرے رب! لوگ تو ساری جگہیں لے چکے ہیں (میرے لئے تو اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی) وہاں سے ارشاد

ہو گا کہ (دنیا کا کوہ زمانہ بھی تمہیں یاد ہے جس میں تم تھے وہ کہے گا خوب یاد ہے۔ ارشاد ہو گا اچھا کچھ تمنائیں کرو۔ چنانچہ وہ خوب تمناؤں کا اظہار کرے گا وہاں سے ارشاد ہو گا کہ تم کو تمہاری تمنائیں بھی دیں اور دنیا سے دس گنا زیادہ بھی دیا وہ عرض کرے گا آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق فرماتے ہیں حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اتنے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔

## وقار اور سنجیدگی

حضرت خارجہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہو کر بیٹھتے تھے آپ کے جسم مبارک کا کوئی عضو باہر (لوگوں) کی طرف پھیلا ہوا نہیں ہوتا تھا۔

حضرت شریح بن حوشبؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے صحابہؓ جب آپس میں بات چیت کرتے اور ان میں حضرت معاذ بن جبلؓ بھی ہوتے تو سب انہیں رعب اور ہیبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے حضرت ابو مسلم خولانیؓ کہتے ہیں کہ میں حمص کی ایک مسجد میں گیا تو دیکھا کہ اس میں حضور ﷺ کے تئیں کے قریب ادھیڑ عمر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ایک نوجوان سرمکس آنکھوں والے، چمکیلے دانتوں والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بالکل بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ان لوگوں کو کسی چیز میں شک ہوتا تو وہ اس نوجوان کی طرف متوجہ ہو کر اس سے پوچھتے (اور اس کے جواب سے سب مطمئن ہو جاتے) میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک ساتھی سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ اس نے کہا یہ حضرت معاذ بن جبلؓ ہیں۔ اس سے ان کی محبت میرے دل میں سرایت کر گئی میں ان حضرات کے ساتھ رہا یہاں تک کہ یہ حضرات ادھر ادھر چلے گئے۔ ابو مسلم خولانیؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ کے شروع خلافت میں ایک دن میں حضور ﷺ کے صحابہؓ کے ساتھ مسجد میں گیا۔ اس دن صحابہ کرامؓ سب سے زیادہ تعداد میں وہاں جمع ہوئے تھے۔ میں اندر جا کر ایک مجلس میں بیٹھ گیا جس میں تئیں سے زیادہ صحابہؓ تھے وہ سب حضورؐ کی طرف سے حدیث بیان کر رہے تھے حلقہ میں ایک قوی گہرے گندمی رنگ والے میٹھی گفتگو والے نہایت حسین و جمیل نوجوان بھی تھے اور ان سب میں ان کی عمر سب سے کم تھی جب ان حضرات کو کسی حدیث میں شبہ ہوتا تو وہ اس نوجوان کے سامنے پیش کر دیتے پھر وہ ان حضرات کو ان کی حدیث صحیح

۱۔ عند الترمذی ایضاً ۲۔ اخرجہ القاضی عیاض فی الشفاء و اخرجہ ابو داؤد فی

المراسیل کما فی شرح الشفاء للخفافی (ج ۲ ص ۱۱۷)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۳۱) ۴۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۳۱)

صحیح سنا دیتے لیکن جب تک ان سے وہ حضرات پوچھتے نہیں یہ انہیں کوئی حدیث نہ سنا تے میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے بندے! آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں معاذ بن جبل ہوں۔

## غصہ پی جانا

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابو بکرؓ سے سخت کلامی کی تو میں نے عرض کیا کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ حضرت ابو بکرؓ نے مجھے جھڑک دیا اور فرمایا کہ حضور ﷺ کے بعد اس کام پر گردن اڑانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ کسی بندے نے غصے کے گھونٹ سے زیادہ بہتر گھونٹ دودھ یا شہد کا کبھی نہیں پیا۔

## غیرت

حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا فلاں آدمی اس کے والد کی بیوی کے پاس جاتا ہے (جو اس کی والدہ نہیں ہے) میں نے کہا اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں تو اس کی گردن اڑا دیتا یہ سن کر حضورؐ نے اور فرمایا اے ابی! تم کتنے غیرت مند ہو لیکن میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں۔

بخاری اور مسلم میں حضرت مغیرہؓ کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہؓ نے کہا اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لیتا تو تلوار کی دھار سے اسے قتل کر دیتا۔ جب حضور ﷺ کو یہ خبر پہنچی تو آپؐ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو سعد کی غیرت سے تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم! میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں اور غیرت ہی کی وجہ سے اللہ نے ظاہری اور باطنی بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے اور عذر قبول کرنا اللہ سے زیادہ کسی کو محبوب نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والے اور بھارت سنانے والے (نبی) مبعوث فرمائے اور اپنی تعریف سننا اللہ سے زیادہ کسی کو پسند نہیں اور اسی وجہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت

۱۔ عند ابی نعیم ایضا ۲۔ اخرجہ الطیالسی واحمد الحمیدی وابو داؤد والترمذی

وابو یعلیٰ وسعید بن منصور وغیر ہم کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۶۱)

۳۔ اخرجہ احمد فی الزهد کذا فی الكنز

۴۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۳۲)

سعد بن عبادہؓ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاؤں تو جب تک میں چار گواہ نہ لے آؤں اس وقت تک کیا میں اسے ہاتھ نہ لگاؤں؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد نے عرض کیا ہر گز نہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ میں تو اس سے پہلے ہی جلدی سے تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ حضورؐ نے فرمایا، سنو تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے یہ بہت غیرت والے ہیں لیکن میں ان سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے ایک لمبی حدیث اس بارے میں منقول ہے اس میں یہ ہے کہ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ سعد کو کچھ نہ فرمادیں۔ یہ بہت غیرت والے ہیں اسی غیرت کی وجہ سے یہ ہمیشہ کنواری عورت سے ہی شادی کرتے ہیں اور جس عورت کو یہ طلاق دیتے ہیں ہم میں سے کسی کو اس سے شادی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے یقین ہے کہ یہ چار گواہ لانے کا حکم حق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن مجھے حیرانی تو اس بات پر ہو رہی ہے کہ کسی کینسی عورت کی رانوں پر کوئی مرد رانیں رکھے ہوئے بدکاری کر رہا ہو اور میں چار گواہ لاؤں گا اتنے میں وہ اپنی شہوت پوری کر کے جا چکا ہو گا۔ (میں تو اس کا کام وہیں تمام کر دوں گا)۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ ایک رات میرے پاس سے اٹھ کر باہر چلے گئے میں نے اس سے بڑی غیرت محسوس کی آپ واپس تشریف لائے اور پریشانی میں میں جو کچھ کر رہی تھی اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا اے عائشہ! تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہیں بھی غیرت آگئی میں نے عرض کیا مجھ جیسی (محبوب بیوی) کو آپ جیسے (عظیم خاندان) پر غیرت کیوں نہ آتی حضورؐ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارا شیطان تمہارے پاس آیا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ حضورؐ نے فرمایا جی ہاں لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا یا میں اس کے مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہوں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، جب حضور ﷺ نے حضرت ام سلمہؓ سے شادی کی تو مجھے بہت پریشانی ہوئی کیونکہ لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ خوبصورت ہیں میں نے کسی یہاں سے چھپ کر انہیں دیکھا تو واقعی اللہ کی قسم! ان کا جتنا حسن و جمال مجھے بتایا گیا تھا اس سے کئی گنا مجھے ان میں نظر آیا پھر میں نے اس کا حضرت حصہؓ سے ذکر کیا۔

حضرت عائشہؓ اور حضرت حصہؓ کا آپس میں بہت جوڑ تھا۔ انہوں نے کہا غیرت کی وجہ

۱۔ کذا فی مشکوٰۃ (ص ۲۷۸) ۲۔ عند مسلم قال الہیثمی (ج ۵ ص ۱۲) رواہ ابو یعلیٰ والسیاق لہ واحمد باختصار عنہ ومدار علی عباد بن منصور ووهو ضعيف  
۳۔ اخرجه مسلم کذا فی مشکوٰۃ (ص ۲۸۰)

سے وہ تمہیں زیادہ خوبصورت نظر آئیں ورنہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہیں جتنا لوگ کہتے ہیں چنانچہ حضرت حصہؓ نے کسی بہانے سے چھپ کر انہیں دیکھا اور مجھے آکر کہا میں انہیں دیکھ ائی ہوں اللہ کی قسم! تم ان کو جتنا خوبصورت بتا رہی ہو وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے بلکہ اس کے قریب بھی نہیں ہیں ہاں خوبصورت ضرور ہیں چنانچہ میں نے حضرت ام سلمہؓ کو پھر جا کر دیکھا تو اب وہ مجھے ویسی ہی نظر آئیں جیسا کہ حضرت حصہؓ نے بتایا تھا میری زندگی کی قسم! میں چونکہ غیرت والی تھی اس لئے پہلے وہ مجھے زیادہ حسین نظر آئی تھیں۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کیا مجھے یہ بات نہیں پہنچی ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں عجمی کافر لوگوں سے ٹکرانی پھرتی ہیں؟ کیا اس پر تمہیں غیرت نہیں آتی؟ جس میں غیرت نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا غیرت دو طرح کی ہوتی ہے ایک اچھی غیرت جس کی وجہ سے انسان اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرتا ہے اور دوسری غیرت بری (فاسق فاجر لوگوں کی غیرت) جس کی وجہ سے انسان دوزخ میں چلا جاتا ہے۔

## نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا

حضرت لئن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور ﷺ اندر تشریف لائے اور تین مرتبہ فرمایا اے لئن مسعود! میں نے بھی جواب میں تین مرتبہ عرض کیا لیک یا رسول اللہ! پھر حضورؐ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کے عمل سب سے اچھے ہوں بجز طیکہ اسے دین کی سمجھ حاصل ہو جائے پھر آپؐ نے فرمایا اے لئن مسعود! میں نے عرض کیا لیک یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا تم جانتے ہو لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ (حالات سے متاثر نہ ہو بلکہ) اس موقع پر اس کی سب سے زیادہ نگاہ حق پر ہو چاہے وہ عمل میں کچھ کم ہو اور اگرچہ وہ سرین کے بل گھسٹ کر چلتا ہو مجھ سے پہلے جو لوگ تھے ان کے بہتر فرقی بن گئے تھے ان میں سے صرف تین فرقوں کو نجات ملی اور باقی سب ہلاک ہو گئے ایک تو وہ فرقہ جنہوں نے بادشاہوں کا مقابلہ کیا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دین کی وجہ سے اور اپنے دین کی وجہ سے ان بادشاہوں سے جنگ کی۔ بادشاہوں سے مقابلہ کی

۱۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۸ ص ۹۴)

۳۔ عند رستہ ایضا

۲۔ اخراجہ رستہ کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۶۱)

سکت نہیں تھی اور ان میں رہ کر ان کو اللہ کی اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے دین کی دعوت دینے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ لوگ مختلف علاقوں کی طرف نکل گئے اور رہبانیت اختیار کر لی۔ ان ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **رَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ**۔ (سورت حدید آیت ۲۷) ترجمہ ”اور انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کر لیا ہم تمہیں اس کو ان پر واجب نہ کیا تھا لیکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کیا تھا سو انہوں نے اس (رہبانیت) کی پوری رعایت نہ کی“ پھر حضورؐ نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لائے اور میری تصدیق کرے اور میری اتباع کرے وہ اس رہبانیت کی پوری رعایت کرنے والا شمار ہو گا جو میرا اتباع نہ کریں یہی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک فرقہ تو جاہل یاد شاہوں کے پاس ٹھہرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دیتا رہا جس پر انہیں پکڑ کر قتل کیا گیا آروں سے چیرا گیا آگ میں زندہ جلا دیا گیا انہوں نے جان دے دی لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑا آگے بچھلی حدیث جیسا مضمون ہے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا تم اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستہ پر رہو گے جب تک تم میں دو نشے ظاہر نہ ہو جائیں ایک جہالت کا نشہ دوسرا زندگی کی محبت کا نشہ اور تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے لیکن جب دنیا کی محبت تم میں ظاہر ہو جائے گی پھر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد نہ کر سکو گے اس زمانے میں قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والے ان مہاجرین اور انصار کی طرح ہوں گے جو شروع میں اسلام لائے تھے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید لیکن ان کو اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے اور وہ نور کے خاص ممبروں پر ہوں گے اور پہچانے جائیں گے صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے خیر خواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں میں نے عرض کیا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے؟ آپ نے

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۷ ص ۲۶۰) رواه الطبرانی باسناد بن رجال احد هما رجال الصحیح غیر بکیر بن معروف وثقه احمد وغیره وفيه ضعف انتهى  
 ۲۔ اخرجه البزار قال الهیثمی (ج ۷ ص ۲۷۱) وفيه الحسن بن بشر وثقه ابو حاتم وغیره وفيه ضعف انتهى



فرمایا یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کاموں کا حکم دیں گے جو کام اللہ کو محبوب اور پسند ہیں اور ان کاموں سے روکیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ وہ بندے جب ان کی بات مان کر اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگ جائیں تو یہ بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیک لوگوں کے اعمال کے سردار ہیں ان دونوں کو کب چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جب تم میں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ! بنی اسرائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں؟ آپ نے فرمایا جب تمہارے نیک لوگ دنیا کی وجہ سے فاجر لوگوں کے سامنے دینی معاملات میں نرمی برتنے لگیں اور دینی علم بدترین لوگوں میں آجائے اور بادشاہت چھوٹوں کے ہاتھ لگ جائے تو پھر اس وقت تم زبردست فتنہ میں مبتلا ہو جاؤ گے تم فتنوں کی طرف چلو گے اور فتنے بار بار تمہاری طرف آئیں گے۔

حضرت قیس بن اہلی حازمؓ فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکرؓ خلیفہ بنے تو وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا اے لوگو! تم یہ آیت پڑھتے ہو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ لَوْ فُتِنْتُمْ إِذَا هُنْتُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا كَفَرْتُمْ (سورت مائدہ آیت ۱۰۵) ترجمہ ”اے ایمان والو! اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں“ اور اس کا غلط مطلب لیتے ہو میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جب کسی برائی کو دیکھیں اور اسے نہ بدلیں تو اللہ تعالیٰ (برائی کرنے والوں اور نہ کرنے والوں) سب کو سزا دیں گے (کرنے والوں کو کرنے کی وجہ سے اور نہ کرنے والوں کو نہ روکنے کی وجہ سے)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابو بکرؓ کا نام خلیفہ رسول اللہؐ رکھا گیا یعنی وہ خلیفہ بنے اس دن وہ منبر پر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور حضور ﷺ پر درود بھیجا پھر حضورؐ منبر پر جہاں بیٹھا کرتے تھے دونوں ہاتھ بڑھا کر وہاں رکھے

۱۔ اخرجه البيهقي وانقاش في معجمه وابن النجار عن واقد بن سلامة عن يزيد الرقاشي وواقدو يزيد ضعيفان كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۳۹) ۲۔ اخرجه الطبراني في الاوسط وفيه عمار بن سيف وثقه العجلي وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف كما قال الهيثمي (ج ۷ ص ۲۷۶) واخرجه ايضا ابن عساكر وابن النجار عن انس رضي الله عنه وابن ابي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها بمعنا كما في الكنز (ج ۲ ص ۱۳۹)

۳۔ اخرجه ابن ابي شيبة واحمد وعبد بن حميد والعدني وابن منيع والحميدي وابو داؤد والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وابو يعلى وابونعيم في المعرفة والدارقطني في العلل وقال جميع رواة ثقات والبيهقي وسعيد بن منصور وغيرهم

پھر فرمایا میں نے حبیب ﷺ سے یہاں بیٹھے ہوئے یہ سنا کہ آپ آیت شریفہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ** کا مطلب بیان فرما رہے تھے آپ نے فرمایا ہاں جس قوم میں برائی کے کام ہونے لگیں اور فتنج کاموں کے ذریعہ فساد پھیلایا جانے لگے اور وہ نہ اسے تبدیل کریں اور نہ اس کو برائی سمجھیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ضرور سزا دے گا اور ان کی دعا قبول نہ ہوگی پھر اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا اگر میرے دونوں کانوں یہ باتیں حبیب ﷺ سے نہ سنی ہوں تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں۔<sup>۱</sup>

حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا جب کچھ لوگ ایسے لوگوں کے سامنے گناہ کے کام کریں جو ان سے زیادہ طاقتور اور بااثر ہوں اور وہ ان کو ان کاموں سے نہ روکیں تو ان سب پر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرمائیں گے جسے ان سے نہیں ہٹائیں گے۔<sup>۲</sup>

حضرت عمرؓ نے فرمایا جب تم کسی بے وقوف کو دیکھتے ہو کہ وہ لوگوں کی بے عزتی کر رہا ہے تو تم اس پر انکار کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے کہا ہم اس کی زبان درازی سے ڈرتے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا اس طرح تو تم (قیامت کے دن نبیوں کے) گواہ نہیں بن سکو گے۔<sup>۳</sup>

حضرت عثمانؓ نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو مبادا وہ وقت آجائے کہ تمہارے بروں کو تم پر مسلط کر دیا جائے اور ان بروں کے خلاف نیک لوگ بددعا کریں اور وہ قبول نہ کی جائے۔<sup>۴</sup>

حضرت علیؓ نے فرمایا تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اہتمام سے کرتے رہو اور اللہ کے دین کے لئے کوشش کرتے رہو ورنہ ایسے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے جو تمہیں دردناک عذاب دیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرتے رہنا ورنہ تم پر تمہارے بڑے لوگ مسلط کر دیئے جائیں گے پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علیؓ نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا اے لوگو! تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے اور ان ربانی علماء اور دینی مشائخ نے انہیں ان گناہوں سے روکا نہیں جب وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے اور ربانی علماء اور دینی مشائخ نے انہیں نہ روکا تو آسمانی سزاؤں نے انہیں پکڑ لیا اس لئے تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو ورنہ تم پر بھی وہی سزائیں نازل ہوں گی جو ان پر ہوئی تھی اور اس بات کا یقین رکھو کہ امر بالمعروف

۱۔ عند ابن مردويه كذا في كنز العمال (ج ۲ ص ۱۳۸)

۲۔ اخرجه البيهقي كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۳۸)

۳۔ اخرجه ابن ابى شيبة وابو عبيد فى الغريب وابن ابى الدنيا فى الصمت كذا فى الكنز (ج ۲ ص ۱۳۹)

۴۔ اخرجه ابن ابى شيبة كذا فى الكنز (ج ۲ ص ۱۳۹)

۵۔ اخرجه ابن ابى شيبة

۶۔ عند الحارث

اور نبی عن المعکر سے روزی ختم نہیں ہوتی اور موت کا وقت قریب نہیں آتا۔  
حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ جہاد کی تین قسمیں ہیں ایک ہاتھ سے جہاد کرنا دوسرا زبان  
سے جہاد کرنا تیسرا دل سے جہاد کرنا۔ سب سے پہلے ہاتھ والا جہاد ختم ہوگا، پھر زبان والا ختم  
ہوگا پھر دل والا۔ جب دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ  
سمجھے تو اسے لوندھا کر دیا جاتا ہے یعنی اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا جاتا ہے (پھر خیر اور  
نیکی کا جذبہ اس میں نہیں رہتا)۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تم ہاتھ والے جہاد کے سامنے بے بس اور  
مغلوب ہو گئے پھر دل والے جہاد کے سامنے لہذا جس دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ نیکی کو  
نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے  
تھیلے کو الٹا کیا جاتا ہے اور پھر تھیلے کے اندر کی ساری چیز بکھر جاتی ہے۔

حضرت طارق بن شہابؓ کہتے ہیں کہ حضرت عتریس بن عرقوب شیبانی نے حضرت  
عبداللہؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا جو آدمی نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے نہ روکے وہ  
ہلاک ہو گیا۔ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا (یہ تو آگے کی بات ہے) کوہ آدمی بھی ہلاک ہو گیا جس کا  
دل نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں تین قسم کے انسانوں میں تو خیر ہے ان کے علاوہ کسی  
میں خیر نہیں ہے ایک وہ آدمی جس نے دیکھا کہ ایک جماعت اللہ کے راستہ میں دشمن سے جنگ  
کر رہی ہے یہ اہمال اور جان لے کر ان کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو گیا دوسرا وہ آدمی جس نے زبان  
سے جہاد کیا اور نیکی کا حکم کیا اور برائی سے روکا۔ تیسرا وہ آدمی جس نے دل سے حق کو پہچانا۔  
حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ منافقوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرو لیکن اگر اس  
کی طاقت نہ ہو اور ان کے سامنے تیوری چڑھا کر اپنی ناگواری کا اظہار کر سکتے ہو تو پھر یہی  
کر لیتا۔

۱۔ عند ابن ابی حاتم عنہ کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۳۹)

۲۔ اخرجہ مسند دو البیہقی وصحہ ۳۔ عند ابن ابی شیبہ وابی نعیم ونصر فی  
الحجة کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۱۳۹) ۴۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۷ ص  
۲۷۵) رجالہ رجال الصحیح اہ و اخرجہ ایضا ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۵) عن طارق مثله  
وابن ابی شیبہ و نعیم فی الفتن عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ نحوہ کما فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۰)

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۷ ص ۲۷۶) وفيہ من لم اعرفہ

۲۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۰) و اخرجہ الطبرانی عنہ بمعناه قال  
الہیثمی (ج ۷ ص ۲۷۶) رواہ الطبرانی باسنادین فی احدہما شریک وهو حسن الحدیث وبقیة  
رجالہ رجال الصحیح انتہی

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں جب تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو اور اسے بند کرنے اور روکنے کی تم میں طاقت نہ ہو تو تمہاری نجات کے لئے اتنا کافی ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ تم اس برائی کو دل سے برا سمجھتے ہو۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کسی جگہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہو اور کوئی آدمی اس موقع پر موجود ہو لیکن وہ دل سے اسے برا سمجھتا ہو تو وہ ان لوگوں کی طرح شمار ہو گا جو اس نافرمانی کے موقع پر موجود نہیں ہیں اور جو نافرمانی کے موقع پر موجود تو نہ ہو لیکن وہ اس نافرمانی پر دل سے راضی ہو تو وہ ان لوگوں کی طرح ہو گا جو اس نافرمانی کے موقع پر موجود ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ عنقریب بہت سے غلط کام ہوں گے جو ان کاموں کے موقع پر موجود تو نہ تھا لیکن دل سے اسے برا سمجھ رہا تھا وہ اس آدمی کی طرح شمار ہو گا جو موقع پر نہیں تھا۔ ۱

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ اس دنیا سے پہلے جائیں گے پھر شک والے باقی رہ جائیں گے جو نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھیں گے اور نہ کسی برائی کو برائی سمجھیں گے۔ ۲

حضرت ابو قحطیبہؓ کہتے ہیں کہ میں نو عمر لڑکا تھا ایک مرتبہ میں اپنے آقا کے ساتھ گھر سے نکلا اور چلتے چلتے حضرت حذیفہؓ کی خدمت میں پہنچ گیا وہ فرما رہے تھے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں ایک آدمی کوئی بول بولتا تھا جس کی وجہ سے وہ منافق ہو جاتا تھا اور اب میں سنتا ہوں کہ تم لوگ وہ بول ایک مجلس میں چار چار دفعہ بول لیتے ہو۔ دیکھو تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کہتے رہو اور خیر کے کاموں کی ضرورت غیب دیتے رہو اور نہ اللہ تعالیٰ تم سب کو عذاب سے ہلاک کر دے گا یا پھر تم پر تمہارے بروں کو امیر بنا دے گا اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے لیکن وہ تمہارے حق میں قبول نہ ہوگی۔ ۳

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جو ہم میں سے نہیں ہے اللہ کی قسم تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرتے رہو اور نہ تم آپس میں لڑنے لگو گے اور تمہارے برے تمہارے نیک لوگوں پر غالب آکر قتل کر دیں گے پھر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا باقی نہ رہے گا۔ پھر اللہ تم سے ایسے ناراض ہوں گے کہ تم اللہ سے دعا کرو گے لیکن وہ تمہاری کوئی دعا قبول نہ کرے گا۔ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ

۱۔ اخرجه ابن ابی شیبۃ و نعیم کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۰)

۲۔ عند ابن ابی شیبۃ و نعیم ایضا ۳۔ عند نعیم و ابن النجار کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۰)  
 ۴۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۳۵) و اخرجه الطبرانی نحوہ و رجالہ رجال الصحیح  
 ۵۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۷۹)

۶۔ اخرجه ابن ابی شیبۃ نحوہ کما فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۰)

۷۔ عند ابن نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۷۹)

تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں تم میں سب سے بہترین آدمی وہ شمار ہوگا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے (اپنی اصلاح کی فکر کرے دوسروں کی اصلاح نہ کرے لیکن ابھی وہ زمانہ نہیں آیا)۔

حضرت عدی بن حاتمؓ فرماتے ہیں بہت سے کام ایسے ہیں جن کو گزشتہ زمانے میں برا سمجھا جاتا تھا لیکن وہ آج نیکی کے کام شمار ہوتے ہیں اور بہت سے کام آج برائی کے شمار ہوتے ہیں لیکن آئندہ زمانہ میں انہیں نیکی کا کام سمجھا جانے لگے گا اور تم لوگ اس وقت تک خیر بر رہو گے جب تک تم اس کام کو نیکی نہ سمجھنے لگو جسے تم برائی سمجھتے تھے اور اس کام کو برائی نہ سمجھنے لگو جسے تم نیکی سمجھتے تھے اور جب تک تمہارا عالم تمہارے سامنے حق بات کہتا رہے اور اس کو ہلکانہ سمجھا جائے۔ حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں اگرچہ میں ایک نیکی پر عمل نہیں کر رہا ہوں لیکن میں دوسروں کو اس نیکی کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور مجھے اس پر اللہ سے اجر ملنے کی امید ہے۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ لوگوں کو کسی کام سے روکنے ارادہ فرماتے تو اپنے گھر والوں سے پہلے فرماتے ہیں اور فرماتے تم میں سے جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ اس نے وہ کام کیا ہے جس سے میں نے روکا ہے تو میں اس کو دگنی سزا دوں گا۔

حضرت ابن شہابؓ کہتے ہیں کہ حضرت ہشام بن حکیم بن حزامؓ اپنے ساتھ چند لوگوں کی جماعت بنا کر امر بالمعروف کیا کرتے تھے حضرت عمرؓ کو جب کسی برائی کی خبر ملتی تو فرماتے جب تک میں اور ہشام زندہ ہیں یہ برائی نہیں ہو سکے گی۔

حضرت ابو جعفرؓ کہتے ہیں کہ میرے دادا حضرت عمیر بن حبیب بن خماشہؓ کو بلوغت کے وقت سے حضور ﷺ کی صحبت حاصل ہوئی تھی انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرمائی اے بیٹے! بے وقوفوں کے پاس بیٹھنے سے بچو کیونکہ ان کے پاس بیٹھنا ہماری ہے جو بے وقوف کی برداشت کرتا ہے وہ خوش رہتا ہے اور جو اس کی غلط باتوں کا جواب دے گا اسے آخر میں ندامت اٹھانی پڑے گی اور جو بے وقوف کی تھوڑی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا اسے پھر زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے جب تم میں سے کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے نفس کو تکلیفوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے اور اللہ تعالیٰ

۱۔ عند ابی نعیم ایضا (ج ۱ ص ۲۸۰) واخرجه ابن ابی شیبۃ عنه نحوه کما فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۰) واخرجه ابن ابی الدنیا فی کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر عن المنکر عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ نحوه کما فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۰)

۲۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۱) ۳۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۰) واخرجه ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۱۳) عنہ نحوه

۱۔ اخرجه ابن سعد وابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۱)

۲۔ اخرجه مالک وابن سعد کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۴۱)

سے ثواب ملنے کا یقین رکھے کیونکہ جسے اللہ سے ثواب ملنے کا یقین ہوگا اسے تکلیفوں کے پیش آنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔

حضرت عبدالعزیز بن ابی بکرؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے قبیلہ بنو غنہ کی ایک عورت سے شادی کی۔ پھر اس عورت کا انتقال ہو گیا وہ اس کے جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے گئے۔ اس عورت کے بھائیوں نے کہا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ حضرت ابو بکرؓ نے ان سے فرمایا ایسے نہ کرو کیونکہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا تم سے زیادہ حقدار ہوں ان بھائیوں نے کہا حضور ﷺ کے صحابی ٹھیک کہہ رہے ہیں چنانچہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی پھر وہ قبر میں داخل ہونے لگے تو لوگوں نے اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے پھر انہیں اٹھا کر گھر لایا گیا وہاں ان کے بیس بیٹوں اور بیٹیوں کی چیخیں نکل گئیں میں ان بیس میں سب سے چھوٹا تھا جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا تم مجھ پر زور زور سے مت روؤ اللہ کی قسم! مجھے ابو بکرؓ کی جان سے زیادہ اور کسی کی جان کا ٹکٹا محبوب نہیں ہے۔ یہ سن کر ہم سب گھبرائے اور ہم نے کہا اے لبا جان! کیوں؟ (آپ دنیا سے کیوں جانا چاہتے ہیں؟) انہوں نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں ایسا زمانہ میری زندگی میں نہ آجائے جس میں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کر سکوں اور اس زمانے میں کوئی خیر نہ ہوگی۔

حضرت علی بن زیدؓ کہتے ہیں کہ میں حجاج کے ساتھ محل میں تھا وہ لہن اشعث کی وجہ سے لوگوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ اتنے میں حضرت انس بن مالکؓ تشریف لائے جب وہ نزدیک آئے تو حجاج نے کہا (نعوذ باللہ من ذلك) لو غیبیت! لو قنوتوں میں چکر لگانے والے! کو تم بھی حضرت علی بن ابی طالبؓ کے ساتھ ہوتے ہو اور کبھی لہن زبیرؓ کے ساتھ اور کبھی لہن اشعث کے ساتھ۔ غور سے سنو میں تمہیں ایسے جڑ سے اکھیڑ دوں گا جیسے گوند کو اکھیڑا جاتا ہے اور میں تمہاری کھال ایسے اتاروں گا جیسے گوہ کی کھال اتاری جاتی ہے حضرت انس نے فرمایا اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح فرمائے۔ وہ اس کلام سے کس کو خطاب کر رہے ہیں حجاج نے کہا میں تمہیں خطاب کر رہا ہوں۔ اللہ تمہارے کانوں کو بہرہ کرے۔ اس پر حضرت انس نے انا اللہ پڑھی اور وہاں سے باہر آگئے اور فرمایا اگر مجھے اپنے بچے یاد نہ آجاتے جن پر مجھے اس حجاج کی طرف سے خطرہ ہے تو آج میں کھڑے کھڑے اسی جگہ اسے ایسی کھری کھری سناتا کہ وہ مجھے بالکل جواب نہ دے سکتا۔

- ۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط ورجالہ ثقات کما قال الہیثمی (ج ۷ ص ۲۲۶) واخرجہ ایضا ابو نعیم واحمد فی کتاب الزہد کما فی الاصابہ (ج ۳ ص ۳۰)
- ۲۔ اخرجہ الطبرانی ورجالہ ثقات کما قال الہیثمی (ج ۷ ص ۲۸۰)
- ۳۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۷ ص ۲۷۴) وعلی بن زید ضعیف وقد وثق: ۵۱

حضرت لئن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حجاج کو خطبہ دیتے ہوئے سنا اس نے ایسی بات کہہ دی جو مجھے بالکل غلط نظر آئی۔ میں نے اسے ٹوکنا چاہا لیکن پھر مجھے حضور ﷺ کا فرمان یاد آ گیا کہ کسی مومن کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرنا مناسب نہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مومن اپنے نفس کو کیسے ذلیل کرے گا؟ حضورؐ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے امتحان کے لئے پیش کر دے کہ جس کی اس میں طاقت نہ ہو۔

## تنہائی اور گوشہ نشینی

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تنہا رہنے سے برے ساتھیوں سے راحت ملتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اپنے اوقات میں خلوت اور تنہائی میں بیٹھنے کا حصہ بھی رکھا کرو۔<sup>۱</sup>

حضرت معانی بن عمرانؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے تھے جسے اللہ کے کسی معاملہ میں سزا ہوئی تھی تو حضرت عمرؓ نے فرمایا ان چروں کے لئے کوئی خوش آمدید نہیں ہے جو صرف شر کے موقع پر نظر آتے ہیں۔<sup>۲</sup>

حضرت عدسہ طائیؓ کہتے ہیں کہ میں سرف مقام پر تھا کہ حضرت عبد اللہؓ ہمارے ہاں تشریف فرما ہوئے میرے گھر والوں نے مجھے کچھ چیزیں دے کر ان کی خدمت میں بھیجا ہمارے جو غلام اونٹوں کی خدمت میں تھے وہ چاردن کی مسافت سے ایک پرندہ پکڑ کر لائے میں وہ پرندہ لے کر ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تم یہ پرندہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا ہمارے چند غلام اونٹوں کی خدمت میں تھے وہ چاردن کی مسافت سے یہ پرندہ لائے ہیں۔ حضرت عبد اللہؓ نے فرمایا میری دلی آرزو یہ ہے کہ یہ پرندہ جہاں سے شکار کر کے لایا گیا ہے میں وہاں (تنہا رہا کروں نہ میں کسی سے کسی معاملہ میں کوئی بات کروں اور نہ کوئی مجھ سے بات کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملوں) حضرت قاسمؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبد اللہؓ کی خدمت میں عرض کیا آپ مجھے کچھ وصیت فرمادیں حضرت عبد اللہؓ نے فرمایا تم اپنے گھر میں

۱۔ اخروجه البزار قال الهیثمی (ج ۷ ص ۲۷۴) رواه البزار والطبرانی فی الاوسط والکبیر باختصار واسناد الطبرانی فی الکبیر جید ورجاله رجال الصحیح غیر زکریا یحییٰ بن ایوب الضریر ذکرة الخطیب وروی عنه جماعة ولم یتکلم فیہ احداه

۲۔ اخروجه ابن ابی شیبہ واحمد فی الزهد وابن ابی الدنیا فی العزلة

۳۔ عند احمد فی الزهد وابن حبان الروفة والعسکری فی المواعظ کذالی الکنز (ج ۲ ص ۱۵۹) و اخروجه ابن المبارک فی کتاب الرقائق عن عمر نحوه کما فی فتح الباری (ج ۱۱ ص ۲۶۲)

۴۔ اخروجه الدنیوری کذالی الکنز (ج ۳ ص ۱۵۹)

۵۔ اخروجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۳۰۴) رجاله رجال الصحیح غیر عدسہ الطائی

۶۔ ثقة احمد۔ عساک بمعناه مختصا عن ابن مسعود کما فی الکنز (ج ۲ ص ۱۵۹)

رہا کرو (باہر نہ جایا کرو) اور اپنی زبان کو (لا یعنی بے کار باتوں سے) روک کر رکھا کرو اور اپنی خطائیں یاد کر کے رویا کرو۔ حضرت اسماعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ حضرت لئن مسعود نے اپنے بیٹے حضرت عبیدہ کو تین وصیتیں کیں فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تم اپنے گھر میں ہی رہا کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ ۱

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میری دلی آرزو یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا آدمی مل جائے جو میرے کاروبار کو سنبھال لے اور میں دروازہ بند کر کے گھر میں رہا کروں نہ کوئی میرے پاس آئے نہ میں کسی کے پاس جاؤں یہاں تک کہ میں (اسی حال میں) اللہ سے جا ملوں۔ ۲

حضرت لئن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگر وسوسا (شیطان) کا ڈرنہ ہوتا تو میں ایسے علاقہ میں چلا جاتا جہاں کوئی جان پھانسی والا دل لگانے والا نہ ہوتا (اور تمنا کی اختیار کر لیتا) کیونکہ انسان کو (برے) انسان ہی بگاڑتے ہیں۔ ۳

حضرت مالکؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت یحییٰ بن سعیدؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو الجهم بن حارث بن صمہؓ انصار کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتے تھے جب ان سے اکیلے رہنے کے بارے میں کوئی تذکرہ کرتا (کہ آپ الگ تھلگ کیوں رہتے ہیں؟) تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کا شر اکیلے رہنے سے زیادہ ہے۔ ۴

حضرت ابو درداءؓ نے فرمایا مسلمان کے لئے بہترین عبادت گاہ اس کا گھر ہے جس میں وہ کر وہ اپنے نفس نگاہ اور شرم گاہ کو (برے کاموں سے) روک رکھتا ہے اور بازار میں بیٹھنے سے بچو کیونکہ اس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے اور لغو کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ۵

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبلؓ کے پاس سے گزرا تو وہ اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے ہاتھ سے ایسے اشارے کر رہے تھے گویا کہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوں میں نے عرض اے ابو عبدالرحمن! کیا بات ہے؟ آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں حضرت معاذؓ نے فرمایا معلوم نہیں کیا بات ہے؟ اللہ کا دشمن یعنی شیطان مجھے ان کاموں سے ہٹانا چاہتا ہے جو میں نے حضور ﷺ سے سنے ہیں شیطان یوں کہتا ہے کہ آپ زندگی بھر یوں ہی گھر میں بیٹھ کر مشقت اٹھاتے رہو گے۔ آپ باہر جا کر لوگوں کی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں نے حضورؐ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی اللہ کے

۱۔ عند ابی نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۳۵) ۲۔ عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱ ص ۲۹۹)

رواہ الطبرانی باسنادین ورجال احدہما رجال الصحیح انتہی ۳۔ اخرجه الحاکم کذا فی

الکنز (ج ۲ ص ۱۵۹) واخرجه ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۷۸) عنہ نحوه

۴۔ اخرجه ابن ابی الدنیا فی العزلة عن مالک عن رجل کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۱۵۹)

۵۔ اخرجه ابن ابی الدنیا فی العزلة کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۱۵۹)

۶۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۱۵۹)



راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے اور جو کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے اور جو صبح یا شام کو مسجد جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے اور جو مدد کرنے کے لئے لام کے پاس جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے اور جو گھر بٹھ جاتا ہے اور کسی کی برائی اور غیبت نہیں کرتا وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے

اللہ کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں اور لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کروں۔

## قناعت

### جو مل جائے اسی پر راضی رہنا

حضرت عبداللہ بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت احصؓ کو ایک قمیض پہنے ہوئے دیکھا حضرت عمرؓ نے پوچھا اے احص! تم نے قمیض کتنے میں خریدی؟ حضرت احصؓ نے کہا بارہ درہم میں حضرت عمرؓ نے کہا تمہارا بھلا ہو کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم چھ درہم کی قمیض خریدتے اور باقی چھ درہم کسی خیر کے کام میں خرچ کر دیتے جنہیں کہ تم جانتے ہو۔

حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؒ کو یہ خط لکھا کہ دنیا میں جتنی روزی مل رہی ہے تم اس پر راضی رہو اور اسی پر قناعت کر لیا کرو کیونکہ رحمان نے اپنے بندوں کو کم زیادہ روزی دی ہے اور یوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزمانا چاہتے ہیں جسے روزی زیادہ دی ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے شکر ادا کرتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا اصل شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اسے وہاں خرچ کرے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔

حضرت ابو جعفرؒ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے ایک مرتبہ گھٹیا اور خشک ٹھوڑی لکھا میں اور پھر پانی پیا۔ پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ مار کر فرمایا جسے اس کا پیٹ جنم میں داخل کرے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے پھر یہ شعر پڑھا:

فانك مهما تعط بطنك مؤله . وفرحك نالا منتهى الهم اجمعا

تم اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی خواہش جتنی بھی پوری کرو گے اتنی ان دونوں کو انتہائی درجے کی مذمت حاصل ہوگی۔

حضرت شعبیؒ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ نے فرمایا اے ابن آدم! تو آج کے

۱۔ اخروجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۳۰۴) رواہ الطبرانی فی الاوسط والکبیر نحوہ باختصار والبیزار ورجال احمد رجال الصحیح غیر ابن لہیعہ وحدثہ حسن علی ضعفہ ۱۰

۲۔ اخروجه ابن المبارک کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۶۱) ۳۔ اخروجه ابن ابی حاتم کذا فی

الکنز (ج ۲ ص ۱۶۱) ۴۔ اخروجه العسکری کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۶۱)

دن کی فکر کر اور کل آئندہ کی فکر نہ کر جلدی کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر کل تجھے موت نہیں آئی ہے تو کل کی روزی تیرے پاس خود ہی آجائے گی اور یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ تو اپنی ضرورت سے زیادہ جتنا مال کما رہا ہے وہ تو دوسروں کے لئے جمع کر رہا ہے۔ لہ

حضرت سعدؓ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے! جب تم غنا حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ تمہیں قناعت سے ملے گی کیونکہ جس میں قناعت نہیں ہوتی اسے کتنا بھی مال مل جائے اسے غنا حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہ

## نکاح میں حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ کا طریقہ

### نبی کریم ﷺ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح

حضرت جلد بن سمرہؓ یا کوئی دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ بحیریاں چرایا کرتے تھے پھر انہیں چھوڑ کر آپ اونٹ چرانے لگ گئے۔ حضور اور آپ کے شریک اونٹ کرایا پر دیا کرتے تھے انہوں نے حضرت خدیجہؓ کی بہن کو بھی اونٹ کرایہ پر دیا جب وہ لوگ سفر پورا کر چکے تو ان اونٹوں کا کچھ کرایہ حضرت خدیجہؓ کی بہن کے ذمہ رہ گیا حضور نے کا شریک جب حضرت خدیجہؓ کی بہن کے پاس کرایہ کا تقاضہ کرنے جانے لگتا ہے تو حضور سے کہتا آپ بھی میرے ساتھ چلیں حضور فرماتے تم چلے جاؤ مجھے تو شرم آتی ہے۔ ایک دفعہ حضور کا شریک تقاضہ کرنے گیا تو حضرت خدیجہؓ کی بہن نے پوچھا (تم کیلئے تقاضا کرنے آئے ہو) محمد کہاں ہیں؟ حضور کے شریک نے کہا میں نے تو ان سے کہا تھا کہ چلیں لیکن انہوں نے کہا مجھ شرم آتی ہے۔ حضرت خدیجہؓ کی بہن نے کہا میں نے حضور سے زیادہ جیا والا اور زیادہ پاک دامن اور ایسا اور ایسا آدمی نہیں دیکھا یہ سن کر ان کی بہن حضرت خدیجہؓ کے دل میں حضور کی محبت سرایت کر گئی تو حضرت خدیجہؓ نے حضور کو پیغام بھیج کر بلایا اور کہا کہ آپ میرے والد کے پاس جائیں اور انہیں میرے نکاح کا پیغام دیں حضور نے فرمایا آپ کے والد مالدار کوئی ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے حضرت خدیجہؓ نے کہا آپ ان سے جا کر ملیں اور ان سے بات کریں آگے بات میں سنبھال لوں گی جب وہ نشہ میں ہوں اس وقت ان کے پاس جانا۔ چنانچہ حضور نے ایسا ہی کیا انہوں نے حضور سے حضرت خدیجہؓ کی شادی کر دی صبح کو جب وہ اپنی مجلس میں بیٹھے تو کسی نے ان سے کہا آپ نے اچھا کیا (اپنی بیٹی خدیجہ سے) محمد کی شادی کر دی انہوں نے کہا کیا واقعی میں نے شادی کر دی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ وہ فوراً وہاں سے کھڑے ہو کر

۱۔ اخرجه الدينوري كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۶۱)

۲۔ اخرجه ابن عساکر كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۶۱)

حضرت خدیجہؓ کے پاس آئے اور یوں کہا لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے (تمہاری) شادی محمدؐ سے کر دی حضرت خدیجہؓ نے کہا ہاں ٹھیک ہے اب آپ اپنی رائے کو غلط نہ سمجھیں اس لئے کہ حضرت محمد (ﷺ) ایسے اور ایسے بہت عمدہ صفات والے ہیں۔ حضرت خدیجہؓ زور لگاتی رہیں آخر ان کے والد راضی ہو گئے پھر حضرت خدیجہؓ نے دو لو قیہ چاندی یا سونا حضور کے پاس بھیجا اور عرض کیا ایک جوڑا خرید کر مجھے ہدیہ کر دیں اور ایک مینڈھا اور فلاں فلاں چیزیں خرید لیں چنانچہ حضور نے ایسا ہی کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے حضرت خدیجہؓ نے کہا جوڑا خرید کر میرے والد کو ہدیہ کر دیں۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت خدیجہؓ (سے شادی) کا تذکرہ کیا اور حضرت خدیجہؓ کے والد حضور سے خدیجہؓ کی شادی پر راضی نہ تھے۔ حضرت خدیجہؓ نے کھانے اور پینے کا انتظام کیا اور اپنے والد اور قریش کے چند آدمیوں کو بلایا چنانچہ ان لوگوں نے (آکر) کھانا کھایا اور شراب پی یہاں تک کہ سب نشہ میں چور ہو گئے تو حضرت خدیجہؓ نے کہا حضرت محمد بن عبد اللہ مجھے نکاح کا پیغام دے رہے ہیں آپ ان سے میری شادی کریں۔ انہوں نے حضور سے حضرت خدیجہؓ کی شادی کر دی۔ اس پر حضرت خدیجہؓ نے اپنے والد کو خلوق خوشبو لگائی اور انہیں جوڑا پہنایا۔ اس زمانے میں شادی کے موقع پر والد کے ساتھ ایسا کرنے کا دستور تھا جب ان کا نشہ اترا تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے خلوق خوشبو لگا رکھی ہے اور جوڑا پہن رکھا ہے تو انہوں نے کہا مجھے کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہؓ نے کہا آپ نے حضرت محمد بن عبد اللہ سے میری شادی کر دی ہے؟ انہوں نے کہا کیا میں نے ابو طالب کے بیٹم سے شادی کر دی ہے؟ نہیں، نہیں میری زندگی کی قسم نہیں۔ حضرت خدیجہؓ نے کہا آپ کو شرم کرنی چاہئے آپ اپنے آپ کو قریش کی نگاہ میں بے وقوف ثابت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نشہ میں تھے؟ چنانچہ وہ اپنے والد کو سمجھاتی رہیں یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئے۔

حضرت نفیسہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا بڑی سمجھدار دور اندیش، طاقتور اور شریف خاتون تھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ اکرام اور خیر کا روادہ فرمایا وہ اس وقت قریش میں سب سے افضل خاندان والی اور سب سے زیادہ شرافت والی اور سب سے زیادہ مالدار تھیں ان کی قوم کا ہر آدمی ان سے شادی کرنے کی تمنا رکھتا تھا اور ان سے شادی کے لئے بہت مال خرچ کرنے کے لئے تیار تھا۔ جب حضرت محمد ﷺ حضرت خدیجہؓ

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۹ ص ۲۲۲) رواه الطبرانی والبیہقی رجال الطبرانی رجال الصحیح غیر ابی خالد الوالبی وهو ثقہ ورجال البزار ایضا الا ان شیخ احمد بن یحیی الصوفی ثقہ ولکنہ لیس من رجال الصحیح وقال فیہ قالت وانه غیر مکرمہ بدل مکرمہ انتہی۔

۲۔ عند احمد والطبرانی ورجالہما رجال الصحیح کما قال الهیثمی (ج ۹ ص ۲۲۰)

کا تجارتی قافلہ ملک شام سے لے کر واپس آئے تو حضرت خدیجہؓ نے مجھے حضورؐ کی خدمت میں اندازہ لگانے کے لئے بھیجا۔ میں نے جا کر کہا کہ محمدؐ! آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضورؐ نے فرمایا کہ شادی کرنے کے لئے میرے پاس کچھ نہیں ہے میں نے کہا اگر شادی کا خرچ کا انتظام ہو جائے اور آپ کو خوبصورت، مالدار، شریف اور جوڑی عورت سے شادی کی دعوت دی جائے تو کیا آپ قبول نہیں کر لیں گے؟ حضورؐ نے فرمایا وہ عورت کون ہے؟ میں نے کہا حضرت خدیجہؓ۔ حضورؐ نے فرمایا پھر میں تیار ہوں۔ میں نے جا کر حضرت خدیجہؓ کو بتایا تو انہوں نے حضورؐ کو پیغام بھیجا کہ فلاں وقت تشریف لے آئیں اور اپنے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی شادی کر دیں تو وہ آگئے اور حضورؐ بھی اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لے آئے اور ایک چچا نے حضورؐ کی شادی کرادی۔ عمرو بن اسد نے کہا یہ ایسے جوڑے کے خاوند ہیں جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا اس شادی کے وقت حضورؐ کی عمر پچیس سال تھی اور حضرت خدیجہؓ کی عمر چالیس سال تھی وہ اصحاب قبل کے واقعہ سے پندرہ سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔

### حضور ﷺ کا حضرت عائشہؓ

#### اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہما سے نکاح

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب حضرت خدیجہؓ کا انتقال ہو گیا تو مکہ ہی میں حضرت عثمان بن مظعونؓ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم بن لو قصؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ شادی نہیں کرتے؟ حضورؐ نے فرمایا کس سے؟ انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو کنواری سے اور اگر آپ فرمائیں تو بیوہ سے۔ حضورؐ نے فرمایا کنواری کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی مخلوق میں آپ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کی بیٹی حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما۔ حضورؐ نے فرمایا بیوہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت سودہ بنت زمعہؓ جو آپ پر ایمان لائی ہیں اور آپ کے دین کا اتباع کر چکی ہیں حضورؐ نے فرمایا اچھا جا کر دونوں سے میرا ذکر کرو۔ حضرت خولہؓ حضرت ابو بکرؓ کے گھر گئیں وہاں میری والدہ انہیں ملیں حضرت خولہؓ نے کہا ام رومان اللہ تعالیٰ تیری بیوی خیر و برکت آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں مجھے حضور ﷺ نے عائشہؓ سے شادی کا پیغام دینے کے لئے بھیجا ہے۔ حضرت ام رومانؓ نے کہا میں تو چاہتی ہوں لیکن تم حضرت ابو بکرؓ کا انتظار کر لو وہ آنے ہی والے ہیں چنانچہ جب حضرت ابو بکرؓ آگئے تو حضرت خولہؓ نے کہا ام رومانؓ! اللہ تعالیٰ کتنی بڑی خیر و برکت آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں مجھے حضور ﷺ نے عائشہؓ سے شادی کا پیغام دینے کے لئے بھیجا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا کیا عائشہؓ سے حضورؐ کی شادی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ان کی بیٹی ہے۔ حضرت خولہؓ نے واپس جا کر حضورؐ کو حضرت ابو بکرؓ کی یہ بات بتائی حضورؐ نے

فرمایا واپس جا کر حضرت ابو بکرؓ سے کہو تم اسلام میں میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں (یہ خون کارشتہ نہیں ہے اس لیے) تمہاری بیٹی کی مجھ سے شادی ہو سکتی ہے۔ حضرت خولہؓ نے جا کر حضرت ابو بکرؓ کو بتایا حضرت ابو بکرؓ نے کہا حضور ﷺ کو بلا لاؤ حضور تشریف لائے تو حضرت ابو بکرؓ نے حضورؐ سے میری شادی کر دی۔

حضرت ابو سلمہ اور حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاطبؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے کہا واپس جا کر ابو بکرؓ کو بتادو کہ میں تمہارا اور تم میرے اسلامی بھائی ہو اور تمہاری بیٹی کی شادی مجھ سے ہو سکتی ہے۔ حضرت خولہ کہتی ہیں میں نے جا کر حضرت ابو بکرؓ کو حضورؐ کا جواب بتادیا انہوں نے کہا ذرا انتظار کرو یہ کہہ کر حضرت ابو بکرؓ باہر چلے گئے۔ حضرت ام رومانؓ نے کہا معطم بن عدی نے حضرت ابو بکرؓ کو اپنے بیٹے جبیر کا عا نشہ کے لئے پیغام دیا تھا اور حضرت ابو بکرؓ نے معطم سے وعدہ کر لیا تھا اور حضرت ابو بکرؓ بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں (اس لئے وہ معطم سے بات کرنے گئے ہیں) چنانچہ جب حضرت ابو بکرؓ معطم کے پاس پہنچے تو اس کے پاس اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی جو اس کے بیٹے (جبیر) کی ماں تھی۔ معطم کی بیوی نے حضرت ابو بکرؓ کو ایسی بات کہی جس کی وجہ سے وہ وعدہ پورا کرنا حضرت ابو بکرؓ کے ذمہ نہ رہا جو انہوں نے معطم سے کیا تھا اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت ابو بکرؓ نے معطم سے کہا آپ اس لڑکی (عا نشہ) کے معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ معطم نے اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے فلائی! تم کیا کہتی ہو؟ اس نے حضرت ابو بکرؓ کی طرف متوجہ ہو کر کہا اگر ہم اس نوجوان کی شادی (تمہاری بیٹی سے) کر دیں تو شاید تم زور لگا کر میرے بیٹے کو اپنے دین میں داخل کر لو گے۔ حضرت ابو بکرؓ نے معطم سے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا یہ جو کچھ کہہ رہی ہے آپ سے سن ہی رہے ہیں (یعنی میری بات بھی یہی ہے گویا دونوں نے انکار کر دیا) اس طرح دونوں کے انکار سے وہ وعدہ ختم ہو گیا جو حضرت ابو بکرؓ نے معطم سے کر رکھا تھا۔ وہاں سے واپس آ کر حضرت ابو بکرؓ نے حضرت خولہ سے کہا رسول اللہ ﷺ کو بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ حضورؐ کو بلا لائیں اور حضرت ابو بکرؓ نے حضورؐ سے حضرت عا نشہ کی شادی کر دی۔ اس وقت حضرت عا نشہ کی عمر چھ سال تھی پھر حضرت خولہؓ حضرت سودہ بنت زمعہ کے ہاں گئیں اور ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خیر و برکت تمہیں دینے کا ارادہ فرمایا ہے۔ حضرت سودہ نے کہا وہ کیسے؟ حضرت خولہؓ نے کہا حضور ﷺ نے مجھے شادی کا پیغام دے کر بھیجا ہے حضرت سودہ نے کہا میں تو چاہتی ہوں میرے والد (زمعہ) کے پاس جاؤ اور ان سے تذکرہ کرو۔ وہ بہت لرھے، عمر رسیدہ تھے حج میں بھی نہ جاسکے تھے۔

حضرت خولہؓ نے جا کر ان کو جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا۔ زمعہ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ حضرت خولہؓ نے کہا خولہ بنت حکیم زمعہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تم کیوں آئی ہو؟ حضرت خولہؓ نے کہا مجھے حضرت محمد بن عبد اللہ نے بھیجا ہے وہ سووہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں زمعہ نے کہا وہ تو بہت عمدہ اور جوڑ کے خاوند ہیں لیکن تمہاری سہیلی (یعنی سووہ) کیا کہہ رہی ہے۔ حضرت خولہؓ نے کہا وہ بھی چاہتی ہیں زمعہ نے کہا اچھا حضرت محمد کو میرے پاس بلا لاؤ چنانچہ حضورؐ زمعہ کے پاس گئے اور زمعہ نے حضورؐ سے حضرت سووہ کی شادی کر دی حضرت سووہ کے بھائی عبد بن زمعہ حج سے فارغ ہو کر جب مکہ آئے تو وہ اس شادی کی خبر سن کر اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگے لیکن مسلمان ہونے کے بعد کہا کرتے تھے کہ میں بڑا بے وقوف تھا میں نے اس وجہ سے اپنے سر پر مٹی ڈالی تھی کہ حضورؐ نے (میری بہن) سووہ بنت زمعہ سے شادی کر لی تھی۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں پھر ہم لوگ مدینہ آگئے اور سخ مٹھلہ میں قبیلہ بنو حارث بن خزرج میں ٹھہر گئے۔ ایک دن حضورؐ ہمارے گھر تشریف لائے۔ کھجور کے دو تنوں کے درمیان ایک جھولا ڈال رکھا تھا میں اس پر جھولا جھول رہی تھی میری والدہ نے مجھے جھولے سے اتارا میرے سر کے بال بہت چھوٹے تھے انہیں ٹھیک کیا اور پانی سے میرا منہ دھویا پھر مجھے لے کر چلیں اور دروازے پر مجھے کھڑا کر دیا میرا سانس چڑھا ہوا تھا میں وہاں کھڑی رہی یہاں تک کہ میرا سانس ٹھیک ہو گیا پھر مجھے کمرے میں لے گئیں میں نے دیکھا کہ حضورؐ ہمارے گھر میں ایک تخت پر تشریف فرما ہیں اور آپ کے پاس انصار کے بہت سے مرد اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میری والدہ نے مجھے اس کمرے میں بٹھادیا۔

پھر میری والدہ نے کہا یہ آپ کی اہلیہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اس میں اور اس کے لئے آپ میں برکت نصیب فرمائے یہ سنتے ہی تمام مرد اور عورتیں ایک دم کھڑے ہو چلے گئے یوں میری رخصتی ہو گئی اور حضورؐ نے مجھ سے ہمارے ہی گھر میں خلوت فرمائی اور میری شادی پر نہ کوئی اونٹ ذبح ہوا نہ کوئی بکری۔ البتہ حضرت سعد بن عبادہؓ نے حضورؐ کی خدمت میں وہ پیالہ بچا دیا جو وہ حضورؐ کی خدمت میں اس بیوی کے گھر بھیجا کرتے تھے جس کی باری ہوتی تھی۔ اس وقت میری عمر سات سال تھی (لیکن حج روایت یہ ہے کہ اس وقت حضرت عائشہؓ کی عمر نو سال تھی)۔

۱۔ اخبرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۲۷) رواہ احمد بعضہ صرح فیہ بالا اتصال عن عائشہ واكثرہ مرسل وفيہ محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غير واحد وبقية رجاله رجال الصحيح وفي الصحيح طرف منه. انتہی

## حضور ﷺ کا حضرت حصہ بنت عمرؓ سے نکاح

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حصہؓ کی شادی پہلے حضرت خنیس بن حذافہؓ سے ہوئی تھی وہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے ان کا مدینہ میں انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد حضرت عمرؓ کی حضرت عثمانؓ سے ملاقات ہوئی تو ان سے حضرت عمرؓ نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے حصہؓ کی شادی کر دوں۔ حضرت عثمانؓ نے کہا میں ذرا اس بارے میں سوچ لوں چند دن کے بعد حضرت عثمانؓ نے کہا میری تو یہی رائے بنی ہے کہ میں شادی نہ کروں پھر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے حصہؓ کی شادی کروں حضرت ابو بکرؓ خاموش رہے حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کے انکار سے زیادہ غصہ مجھے حضرت ابو بکرؓ کا تھا موشی پر آیا پھر چند دن کے بعد حضور ﷺ نے حصہؓ سے شادی کا پیغام دیا اور میں نے حصہؓ کی شادی حضورؐ سے کر دی پھر حضرت ابو بکرؓ مجھے ملے اور انہوں نے مجھے کہا تم نے جس وقت حصہؓ سے شادی کی مجھے پیشکشیں کی تھی اور میں نے تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا شاید تمہیں مجھ پر غصہ آیا ہو گا میں نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا میں نے تمہیں صرف اس وجہ سے جواب نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضورؐ نے حصہؓ سے شادی کا ذکر کیا ہے اور میں حضورؐ کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا اگر حضورؐ اس سے شادی نہ کرتے تو میں کر لیتا لیکن حبان کی روایت میں مزید یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمانؓ کی حضور ﷺ سے شکایت کی (کہ میں ان سے حصہؓ کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ انکار کر رہے ہیں) حضورؐ نے فرمایا حصہؓ کی عثمانؓ سے بہتر آدمی سے شادی ہو جائے گی اور عثمانؓ کی حصہؓ سے بہتر عورت سے شادی ہو جائے گی چنانچہ حضورؐ نے حضرت عثمانؓ کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی (اور حضرت حصہؓ سے خود شادی کر لی) ۱

## حضور ﷺ کا حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہؓ سے نکاح

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب میری عدت پوری ہو گئی تو حضرت ابو بکرؓ نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا میں نے انہیں انکار کر دیا پھر حضورؐ نے شادی کا پیغام دے کر ایک آدمی بھیجا میں نے اس سے کہا اللہ کے رسول ﷺ کو بتادو کہ مجھ میں غیرت کا مضمون بہت زیادہ ہے اور میرے بچے بھی ہیں اور میرا کوئی سر پرست یہاں موجود نہیں ہے (اس

۱ اخرجه البخاری والنسائی کذا فی جمع الفوائد (ج ۱ ص ۲۱۴)

۲ اخرجه ابضا احمد والبیہقی وابو یعلی وابن حبان کذا فی منتخب الکنز (ج ۵ ص ۱۲۰)

آدمی نے جا کر یہ باتیں حضورؐ کو بتائیں (حضورؐ نے فرمایا جا کر ام سلمہ سے کہہ دو کہ تم نے جو کہا ہے کہ مجھ میں غیرت کا مضمون بہت زیادہ ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا یہ غیرت (کی زیادتی) جاتی رہے گی اور تم نے جو کہا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں تو تمہارے بچوں کا بھی انتظام ہو جائے گا اور تم نے جو کہا ہے کہ میرا کوئی سر پرست یہاں نہیں ہے تو تمہارا کوئی موجود یا غیر حاضر سر پرست (مجھ سے شادی کرنے پر) ناراض نہیں ہوگا (اس آدمی نے جا کر حضرت ام سلمہ کو یہ تمام باتیں بتائیں) اس پر حضرت ام سلمہ نے اپنے بیٹے حضرت عمرؓ سے کہا اٹھو اور میری شادی اللہ کے رسول ﷺ سے کر دو چنانچہ اس نے میری شادی حضورؐ سے کر دی۔

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ جب میں مدینہ آئی تو میں نے مدینہ والوں کو بتایا کہ میں ابو امیہ بن مغیرہ کی بیٹی ہوں لیکن ان لوگوں نے میری اس بات کو نہ مانا پھر ان میں سے کچھ لوگ حج کو جانے لگے تو انہوں نے کہا کیا تم اپنے خاندان والوں کو کچھ لکھو گی چنانچہ میں نے انہیں خط لکھ کر دیا جب وہ لوگ حج کر کے مدینہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں اس سے مدینہ والوں کی نگاہ میں میری عزت اور بڑھ گئی۔ جب میری بیٹی زینب پیدا ہوئی (اور میری عدت پوری ہو گئی) تو حضور ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور مجھے شادی کا پیغام دیا تو میں نے کہا کیا مجھ جیسی عورت کا بھی نکاح ہو سکتا ہے میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب میرا کوئی بچہ پیدا نہیں ہو گا اور مجھ میں غیرت بہت ہے اور میرے بچے بھی ہیں حضورؐ نے فرمایا میں عمر میں تم سے بڑا ہوں اور تمہاری غیرت کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور تمہارے بچے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے۔ پھر (میں راضی ہو گئی اور) حضورؐ نے مجھ سے شادی کر لی پھر حضورؐ میرے پاس تشریف لائے اور ازراہ شفقت فرماتے ہیں کہ زینب کہاں ہے؟ (زینب کو لاؤ پیار کی وجہ سے زینب فرماتے) ایک دن حضرت عمارؓ آکر زینب کو زور سے لے گئے اور یوں کہا اس کی وجہ سے حضور ﷺ کو اپنی ضرورت پوری کرنے میں دقت پیش آتی ہے میں اسے دودھ پلائی تھی۔ پھر حضورؐ تشریف لائے اور فرمایا زینب کہاں ہے؟ اس وقت (میری بہن) حضرت قریبہ بنت ابی امیہؓ بھی وہاں تھیں انہوں نے کہا کہ (عمار) ابن یاسرؓ اسے لے گئے اس پر حضورؐ نے فرمایا آج رات میں تمہارے پاس آؤں گا میں نے کھال کا ایک ٹکڑا نکالا (جسے چمکی کے نیچے رکھا جاتا تھا تاکہ آٹا اس پر گرے) اور گھڑے میں سے جو کے دانے نکالے اور کچھ چربی نکالی اور پھر چربی میں ملا کر حضورؐ کے لئے مالیدہ تیار کیا چنانچہ وہ رات حضورؐ نے میرے ہاں گزرائی اور صبح کو فرمایا تم اپنے خاندان میں عزت والی ہو اگر تم چاہو تو میں تمہارے لئے باری کی سات راتیں مقرر کر دوں لیکن یہ خیال



رکھنا کہ اگر تمہارے لئے سات راتیں مقرر کر دوں گا تو باقی بیویوں کے لئے بھی سات راتیں مقرر کرنی ہوں گی۔

## حضور ﷺ کا حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیانؓ سے نکاح

حضرت اسماعیل بن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیانؓ نے فرمایا کہ میں حبشہ میں تھی مجھے پتہ ہی اس وقت چلا جب (حبشہ کے بادشاہ) نجاشیؓ کی لبرہہ نامی پابندی ان کی طرف سے قاصدین کر آئی اور یہ بادشاہ کے کپڑوں اور تیل کی خدمت پر مقرر تھی۔ اس نے مجھ سے اجازت مانگی میں نے اسے اجازت دی اس نے کہا بادشاہ نجاشیؓ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے لکھا ہے کہ میں آپ کی شادی حضور سے کر دوں میں نے کہا اللہ تمہیں بھی خیر کی بھارت دے (یعنی میں راضی ہوں) پھر اس نے کہا بادشاہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو وکیل مقرر کر دیں جو آپ کی شادی کر دے، اس پر میں نے حضرت خالد بن سعید بن عاصؓ کو (جو کہ میرے چچا تھے) بلا کر اپنا وکیل بنا دیا اور میں نے حضرت لبرہہؓ کو چاندی کے دو ٹکڑے اور چاندی کے دو پازیب جو کہ میں نے پہنے ہوئے تھے اور چاندی کی وہ ساری انگوٹھیاں جو میرے پاؤں کی ہر انگلی میں تھیں سب اتار کر اس بھارت کی خوشخبری میں دے دیں شام کو حضرت نجاشیؓ نے حضرت جعفر بن ابی طالبؓ اور جتنے مسلمان وہاں تھے ان سب کو بلایا اور یہ خطبہ پڑھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، امن دینے والا ہے، زبردست ہے، خرابی درست کرنے والا ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں اور یہ وہی رسول ہیں جس کی بھارت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی اما بعد! حضور ﷺ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں ان کا نکاح ام حبیبہ بنت ابی سفیانؓ سے کر دوں چنانچہ میں حضور کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں اور حضور کی طرف سے ان کو چار سو دینار مہر میں دے رہا ہوں یہ کہہ کر حضرت نجاشیؓ نے چار سو دینار ان لوگوں کے سامنے رکھ دیئے اس کے بعد حضرت خالد بن سعیدؓ نے بات شروع کی اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اسی سے مغفرت چاہتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اس دین حق کو تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے اما بعد! حضور ﷺ نے جو حکم فرمایا ہے میں اسے قبول کرتا

ہوں اور میں نے حضورؐ سے ام حبیبہ بنت ابی سفیانؓ کی شادی کر دی اللہ تعالیٰ اپنے رسولؐ کو (اس شادی میں برکت نصیب فرمائے پھر حضرت نجاشیؓ نے وہ دینار حضرت خالد بن سعیدؓ کو دیئے جو حضرت خالدؓ نے لے لئے پھر مسلمان وہاں سے اٹھنے لگے تو حضرت نجاشیؓ نے کہا آپ لوگ بیٹھے رہیں کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی سنت یہ ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو ان کی شادی پر کھانا کھلایا جاتا ہے پھر حضرت نجاشیؓ نے کھانا منگوایا جو ان سب نے کھایا اور پھر سب چلے گئے۔

حضرت اسماعیل بن عمرو بن عاصؓ کہتے ہیں حضرت ام حبیبہؓ نے فرمایا کہ میں نے (جبشہ میں) خواب میں دیکھا کہ میرے خاوند عبید اللہ بن جحش کی شکل و صورت بہت بخوبی ہوئی ہے میں گھبرا گئی میں نے کہا اس کی حالت بدل گئی ہے چنانچہ وہ صبح کو کینے لگا اے ام حبیبہ! میں نے دین کے بارے میں بہت سوچا ہے مجھے تو کوئی دین نصرا نیت سے بہتر نظر نہیں آ رہا ہے میں تو پہلے نصرانی تھا پھر میں محمدؐ کے دین میں داخل ہوا تھا اب میں پھر نصرانیت میں واپس آ گیا ہوں میں نے کہا اللہ کی قسم تمہارے لئے اس طرح کرنے میں بالکل خیر نہیں ہے اور جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ میں نے اسے بتایا لیکن اس نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، آخر وہ شراب پینے میں ایسا لگا کہ اسی میں مر گیا پھر میں نے خواب دیکھا کہ کسی آنے والے نے مجھ سے کہا اے ام المؤمنین! یہ سن کر میں گھبرا گئی، اور میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ حضور ﷺ مجھ سے شادی کریں گے ابھی میری عدت ختم ہوئی ہی تھی کہ حضرت نجاشیؓ کا قاصد میرے پاس آیا پھر آگے بچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضرت ام حبیبہؓ نے فرمایا کہ جب وہ مال (یعنی چار سو دینار) میرے پاس آیا تو میں نے حضرت ابراہیمؓ کو جنھوں نے مجھے بھارت دی تھی پیغام دے کر بلایا اور میں نے اس سے کہا اس دن میں نے تمہیں جو کچھ دیا تھا وہ تو تھوڑا تھا اس لئے کہ میرے پاس مال نہیں تھا اب میرے پاس مال آ گیا ہے یہ پچاس مثقال (پونے انیس تولے) سونا لے لو اور اسے اپنے کام میں لے آؤ اس نے ایک ڈبہ نکالا جس میں میری دی ہوئی تمام چیزیں تھیں اور اس نے وہ مجھے واپس کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ نے مجھے قسم دے کر کہا ہے کہ میں آپ سے کچھ نہ لوں اور میں ہی بادشاہ کے کپڑوں اور خوشبو کو سنبھالتی ہوں اور میں نے حضور ﷺ کے دین کو اختیار کر لیا ہے اور مسلمان ہو گئی ہوں اور بادشاہ نے اپنی تمام بیویوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے پاس جتنا عطر ہے وہ سارا آپ کے پاس بھیج دیں چنانچہ اگلے دن عود، درس، عنبر اور زباد بہت ساری خوشبوئیں لے کر میرے پاس آئی اور یہ تمام خوشبوئیں لے کر میں حضورؐ کی خدمت میں آئی اور آپ دیکھتے کہ یہ خوشبوئیں میرے پاس ہیں اور میں نے نگار کھی ہیں لیکن آپ نے کبھی انکار نہیں فرمایا پھر حضرت ابراہیمؓ نے کہا

مجھے آپ سے ایک کام ہے کہ آپ حضور ﷺ کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں اور انہیں بتادیں کہ میں نے ان کا دین اختیار کر لیا ہے اس کے بعد حضرت لڑہہؓ مجھ پر اور زیادہ مہربان ہو گئی اور اسی نے میرا سامان تیار کر لیا تھا وہ جب بھی میرے پاس آتی تو یہ کہتی جو کام میں نے آپ کو بتایا ہے اسے نہ بھول جانا جب ہم لوگ حضورؐ کی خدمت میں آئے تو میں نے حضورؐ کو ساری بات بتائی کہ کیسے شادی منگنی وغیرہ ہوئی اور حضرت لڑہہؓ نے میرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا حضورؐ سن کر مسکرائے پھر میں نے حضورؐ کو حضرت لڑہہؓ کا سلام پہنچایا حضورؐ نے جواب میں فرمایا علیہا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہا

### حضور ﷺ کا حضرت زینب بنت جحش سے نکاح

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینبؓ کی عدت پوری ہو گئی تو حضور ﷺ نے حضرت زیدؓ کو فرمایا جاؤ اور زینبؓ سے میرے نکاح کا تذکرہ کرو حضرت زیدؓ گئے جب وہ ان کے پاس پہنچے تو وہ آٹے میں خمیر ڈال رہی تھیں حضرت زیدؓ کہتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے اپنے دل میں ان کی ایک عظمت محسوس ہوئی کہ حضورؐ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں (اس لئے یہ بہت بڑے مرتبہ والی عورت ہیں) اور اس عظمت کی وجہ سے میں انہیں دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا اس لئے میں ایڑیوں کے بل مڑا اور ان کی طرف پشت کر کے کہا اے زینب! تمہیں خوشخبری ہو، مجھے رسول ﷺ نے بھیجا ہے وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، حضرت زینبؓ نے کہا میں جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں اس وقت تک میں کوئی کام نہیں کیا کرتی یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو کر اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر چلی گئیں اور ادرہ حضورؐ پر قرآن نازل ہوا (جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زینبؓ کو تمہاری شادی زینبؓ سے کر دی چونکہ اللہ کے شادی کرنے سے حضرت زینبؓ حضورؐ کی بیوی بن گئی تھیں اس وجہ سے حضورؐ تشریف لے گئے اور حضرت زینبؓ کے پاس اجازت لئے بغیر اندر چلے گئے، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضورؐ نے ان سے خلوت فرمائی تو حضورؐ نے ہمیں ولیمہ میں گوشت اور روٹی کھلائی اکثر لوگ کھانا کھا کر باہر چلے گئے لیکن کچھ لوگ کھانے کے بعد وہیں گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، آپ گھر سے باہر تشریف لائے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، آپ اپنی بیویوں کے مکانات میں تشریف لے گئے اور اندر جا کر ہر ایک کو سلام کرتے وہ پوچھتیں یا رسول اللہ! آپ نے اپنے گھر والوں کو کیا پایا؟ اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے حضورؐ کو بتایا کسی اور نے بتایا کہ لوگ چلے گئے ہیں تو آپ چلے اور (حضرت زینبؓ

والے) گھر میں داخل ہونے لگے میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہونے لگا تو حضورؐ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور پردہ کا حکم نازل ہوا اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کذاب مسلمانوں کو سکھائے وہ حضورؐ نے صحابہؓ کو بتائے، لَاتَمَدَّ خُلُوفُ يَبُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّنَ لَكُمْ (سورت احزاب آیت ۵۳) ترجمہ ”اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں (بے بلائے) مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لئے اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ اس کی تیزی کے منتظر نہ ہو لیکن جب تم کو بلایا جاوے (کہ کھانا تیار ہے) تب جایا کرو پھر جب کھانا کھیا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے سے (کسی کا) لحاظ نہیں کرتا اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو یہ بات (ہمیشہ کے لئے) تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے اور تم کو جائز نہیں کہ رسول اللہ کو کلفت پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری (معصیت) کی بات ہے۔“ اللہ بخاری میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے خلوت فرمائی اور ولیمہ میں روئی اور گوشت کھلایا حضورؐ نے کھانے پر بلانے کے لئے مجھے بھیجا لوگ آتے کھانا کھاتے اور باہر چلے جاتے پھر دوسرے لوگ آتے کھا کر باہر چلے جاتے میں لوگوں کو بلایا کر بھجتا رہا یہاں تک کہ جب مجھے بلانے کے لئے کوئی نہ ملا تو میں نے عرض کیا یا نبی اللہ! مجھے کوئی ایسا نہیں مل رہا ہے جسے میں کھانے پر بلاؤں حضورؐ نے فرمایا کھانا اٹھا لو باقی لوگ تو چلے گئے لیکن تین آدمی ایسے رہ گئے جو گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ حضورؐ باہر تشریف لے گئے اور حضرت عائشہؓ کے مکان میں داخل ہو گئے اور فرمایا اے گھر والو! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہؓ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شادی میں برکت نصیب فرمائے آپ نے اپنے گھر والوں کو کیا پایا؟ حضورؐ اپنی تمام بیویوں کے گھروں میں تشریف لے گئے اور ان سب سے یہی فرماتے جو حضرت عائشہؓ کو فرمایا تھا اور وہ سب جواب میں حضورؐ کو یہی کہتیں جو حضرت عائشہؓ نے کہا تھا پھر حضورؐ واپس تشریف لائے تو دیکھا وہ تینوں آدمی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں آپ بہت شرم و حیا والے تھے (اس لئے ان تینوں سے کچھ نہ فرمایا) اور آپ پھر حضرت عائشہؓ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے حضورؐ کو بتایا کسی اور نے بتایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں تو آپ واپس تشریف لے آئے اور جب آپ نے ایک قدم چوکھٹ کے اندر رکھ لیا اور ایک اٹھی باہر ہی تھا تو آپ نے میرے درمیان پردہ ڈال لیا اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ پہلی رات گزاری تو (میری والدہ) حضرت ام سلیمؓ نے کھجور، گھی اور آٹے کو ملا کر حلوہ تیار کیا اور ایک برتن میں ڈال کر مجھ سے کہا کہ حضور ﷺ کی خدمت میں لے جاؤ اور عرض کرو کہ یہ تھوڑا سا کھانا ہماری طرف سے پیش خدمت ہے۔ اس زمانے میں لوگ بڑی مشقت اور تنگی میں تھے چنانچہ وہ لے کر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! حضرت ام سلیم نے آپ کی خدمت میں یہ کھانا بھیجا ہے وہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور عرض کیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا کھانا پیش خدمت ہے۔ حضور نے کھانے کو دیکھ کر فرمایا اسے گھر کے کونے میں رکھ دو پھر فرمایا جاؤ اور فلاں فلاں کو بلا لاؤ حضور نے جن کے نام لئے میں نے ان کو بھی بلایا اور جو مسلمان ملا سے بھی بلایا میں واپس آیا تو گھر، چبوترہ اور صحن لوگوں سے بھر اہوا تھا راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے ابو عثمان! (یہ حضرت انسؓ کی کنیت ہے) لوگ کتنے تھے؟ حضرت انس نے کہا تقریباً تین سو۔ پھر حضور نے فرمایا وہ کھانے لے آؤ چنانچہ میں وہ لے آیا اور حضور نے اس پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی اور کچھ پڑھا پھر فرمایا دس دس کا حلقہ بنا لو اور بسم اللہ پڑھ کر ہر انسان اپنے سامنے سے کھائے چنانچہ صحابہ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا یہاں تک کہ سب نے کھا لیا پھر حضور نے فرمایا اس کھانے کو اٹھا لو میں نے آکر اٹھایا تو مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ جب میں نے رکھا تھا اس وقت کھانا زیادہ تھا یا اب اٹھاتے وقت زیادہ ہے باقی لوگ تو چلے گئے لیکن کچھ لوگ حضور کے گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور حضور کی زوجہ محترمہ جن سے ابھی شادی ہوئی تھی وہ دیوار کی طرف منہ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے جس سے حضور ﷺ کو بہت تکلیف ہوئی لیکن حضور سب سے زیادہ شرم و حیا والے ان بیٹھنے والوں کو اگر اس کا اندازہ ہو جاتا تو یہ بیٹھنا ان پر بھی گراں ہوتا (لیکن انہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکا) حضور وہاں سے اٹھ کر گئے اور اپنی تمام بیویوں کو سلام کیا جب ان بیٹھنے والوں نے دیکھا کہ حضور واپس آگئے ہیں تو اس وقت اندازہ ہوا کہ ان کی باتوں سے حضور کو تکلیف ہوئی ہے تو اس پردہ تیزی سے دروازے کی طرف چھپنے اور چلے گئے پھر حضور تشریف لائے اور پردہ ڈال دیا آپ اندر گھر میں تشریف لے گئے اور میں صحن میں رہ گیا۔ آپ کو گھر میں تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا آپ یہ آیتیں پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ سَلَامٍ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فَيَكُونُوا لَكُمْ غُرُبًا كَمَا كَانُوا بِغُورٍ مِنْكُمْ لَا يَسْئَلُونَ عَنْ أَحْوَابِهِمْ وَلَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ فِي عَذَابٍ مُتَسَاوِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

## حضور ﷺ کا حضرت صفیہ بنت حبیبی بن اخطبؓ سے نکاح

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر میں قیدی جمع کئے گئے تو حضرت دحیہ رضی اللہ عنہا آکر عرض کیا یا رسول اللہ! ان قیدیوں میں سے ایک باندی مجھے دے دیں حضور ﷺ نے فرمایا جا کر لے لو چنانچہ انہوں نے حضرت صفیہ بنت حبیبی رضی اللہ عنہا کو لے لیا تو ایک آدمی نے آکر حضور کی خدمت میں عرض کیا یا نبی اللہ! آپ نے قریظہ اور نفیر کی سردار صفیہ بنت حبیبی حضرت دحیہ کو دے دی وہ تو آپ ہی کے مناسب ہے۔ حضور نے فرمایا اس (صفیہ) کو یہاں لاؤ۔ جب حضور نے انہیں دیکھا تو فرمایا (اے دحیہ) تم اس کی جگہ قیدیوں میں سے کوئی باندی لے لو پھر حضور نے انہیں آزاد کیا اور ان سے شادی کر لی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خیبر گئے۔ جب خیبر کا قلعہ اللہ تعالیٰ نے فتح کر کے حضور ﷺ کو دے دیا تو آپ کے سامنے کسی نے حضرت صفیہ بنت حبیبی بن اخطبؓ کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا۔ ان کا خاوند قتل ہو چکا تھا اور ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ ابھی دلہن ہی تھیں تو حضور نے انہیں اپنے لئے خاص کر لیا حضور انہیں وہاں سے لے کر چلے جب آپ صہباء مقام کے سد نامی پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت صفیہؓ حیض سے پاک ہو گئیں تو حضور ﷺ نے ان سے خلوت فرمائی پھر حضور نے چڑے کے چھوٹے دسترخوان پر بٹھور رکھی اور آٹے کا حلوہ تیار کیا پھر مجھ سے فرمایا اپنے اس پاس کے لوگوں کو خبر کر دو (کہ ولیمہ تیار ہے) حضرت صفیہؓ کی رخصتی پر حضور کی طرف سے یہی ولیمہ تھا پھر ہم وہاں سے مدینہ چلے تو میں نے دیکھا کہ حضورؐ کوٹ کی کوہان پر چادر سے حضرت صفیہؓ کے لئے پردے کا انتظام فرماتے پھر لوٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا گھٹنا کھڑا کر دیتے جس پر اپنا پاؤں رکھ کر حضرت صفیہؓ لوٹ پر سوار ہوتیں۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے خیبر اور مدینہ کے درمیان حضرت صفیہؓ کے ساتھ تین راتیں گزاریں اور میں نے آپ کے ولیمہ کے لئے لوگوں کو بلایا اس ولیمہ میں نہ روٹی تھی نہ گوشت۔ بلکہ آپ کا ولیمہ یوں ہوا کہ حضورؐ کے ارشاد پر حضرت بلالؓ نے چڑے کے دسترخوان ہتھکائے اور ان پر بٹھور، پیڑ اور گھی رکھ دیا لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ حضرت صفیہؓ ام المؤمنین ہیں یا باندی؟ تو لوگوں نے کہا اگر حضورؐ نے انہیں پردہ کر لیا پھر تو یہ ام المؤمنین ہیں اور اگر پردہ نہ کر لیا تو پھر یہ حضورؐ کی باندی ہیں جب آپ وہاں سے چلنے لگے تو آپ نے حضرت صفیہؓ کے لئے اپنے پیچھے کچھ مچھا کر نرم جگہ بنائی اور پردہ لٹکایا۔

حضرت جلد بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صفیہ بنت حبیبی بن اخطب رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کے خیمہ میں داخل ہوئیں تو لوگ وہاں جمع ہو گئے اور میں بھی وہاں پہنچ گیا تاکہ مجھے ولیمہ میں سے کچھ مل جائے حضور نے باہر آکر فرمایا تم اپنی ماں کے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ (یعنی میں نے حضرت صفیہ سے شادی کی ہے اس لئے وہ اب تمہاری ماں بن گئی ہیں) جب عشاء کا وقت ہوا تو ہم دوبارہ حاضر ہوئے پھر حضور ہمارے پاس باہر تشریف لائے آپ کی چادر کے ایک کونے میں ڈیڑھ مد عجوہ عمدہ کھوڑیں تھیں اور فرمایا اپنی ماں کا ولیمہ کھا لو۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہؓ کی آنکھوں میں نیلا نشان تھا حضور ﷺ نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہاری آنکھوں میں نیلا نشان کیسا ہے؟ حضرت صفیہؓ نے کہا میں نے اپنے خاندان سے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند میری گود میں آ گیا ہے تو اس نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کیا تم یشرب (مدینہ) کے بادشاہ کو چاہتی ہو؟ حضرت صفیہؓ فرماتی ہیں حضورؐ سے زیادہ مجھے کسی سے بغض نہیں تھا کیونکہ آپ نے میرے والد اور خاندان کو قتل کیا تھا (شادی کے بعد) حضورؐ میرے والد اور خاندان کے قتل کرنے کی وجوہات بیان فرماتے رہے اور یہ بھی فرمایا اے صفیہ! تمہارے والد نے میرے خلاف عرب کے لوگوں کو جمع کیا اور یہ کیا غرضیکہ حضورؐ نے اتنی وجوہات بیان کیں کہ آخر میرے دل میں سے حضورؐ کا بغض بالکل نکل گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ حضرت صفیہؓ کے پاس (خیمہ میں) اندر تشریف لے گئے تو حضرت ابو ایوبؓ نے حضورؐ کے دروازے پر ساری رات گزار لی جب صبح کو انہوں نے حضورؐ کو دیکھا تو اللہ اکبر کہا اس وقت حضرت ابو ایوبؓ کے پاس تلوار بھی تھی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس لڑکی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور آپ نے اس کے باپ، بھائی اور خاندان کو قتل کیا ہے مجھے اس کی طرف سے آپ پر اطمینان نہیں تھا (اس وجہ سے میں نے رات یہاں گزار لی ہے) حضورؐ مسکرائے اور حضرت ابو ایوبؓ کے بارے میں خیر کے کلمات فرمائے۔ سہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو ایوبؓ نے عرض کیا کہ میں نے سوچا کہ اگر رات کو کسی وقت حضرت صفیہؓ (آپ کو تکلیف پہنچانے کے لئے) کوئی حرکت کریں تو میں آپ کے قریب ہی ہوں۔

حضرت عطاء بن یسارؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت صفیہؓ خیبر سے مدینہ آئیں تو ان کو

۱۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۵۱) رواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح و اخرجہ ابن سعد (ج ۸ ص ۱۲۴) ۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۵۱) رجالہ رجال الصحیح ۳۔ اخرجہ الحاكم (ج ۴ ص ۲۸) قال الحاكم هذا حدیث صحیح الا سناد ولم یخرجاه وقال الذہبی صحیح و اخرجہ ابن عساکر عن عروۃ بمعناہ اطول منه کما فی الکنز (ج ۷ ص ۱۱۹) و اخرجہ ابن سعد (ج ۲ ص ۱۱۶) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ اطول منه .

حضرت حارث بن نعمانؓ کے ایک گھر میں ٹھہرایا گیا انصار کی عورتیں سن کر حضرت صفیہؓ کے حسن و جمال کو دیکھنے آنے لگیں۔ حضرت عائشہؓ بھی نقاب ڈالے ہوئے آئیں جب حضرت عائشہؓ وہاں سے باہر نکلیں تو حضورؐ بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل آئے اور پوچھا ہے عائشہؓ! تم نے کیا دیکھا؟ حضرت عائشہؓ نے کہا میں نے ایک یہودی عورت دیکھی حضورؐ نے فرمایا ایسے نہ کہو کیونکہ یہ تو مسلمان ہو گئی ہے اور بہت اچھی طرح مسلمان ہوئی ہے لہٰذا حضرت سعید بن مسیبؓ سے صحیح سند سے روایت ہے کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آئیں تو ان کے کان میں سونے کا بنا ہوا کھجور کا ایک پتہ تھا تو انہوں نے اس میں سے کچھ حضرت فاطمہؓ کو اور ان کے ساتھ آنے والی عورتوں کو ہدیہ کیا۔

### حضور ﷺ کا حضرت جویریہ بنت الحارث خزاعیہ سے نکاح

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب حضور ﷺ نے قبیلہ بنو مصطلق کی قیدی عورتوں کو تقسیم کیا تو حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا حضرت ثلث بن قیس بن ساسؓ کے یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں آئیں۔ انہوں نے اپنے سے کثرت کی یعنی یہ کہا کہ میں اتنی رقم دے دوں گی تم مجھے آزاد کر دینا اور بہت حسین اور خوبصورت تھیں جو بھی ان کو دیکھتا یہ اس کے دل کو سنبھل لیتیں یہ اپنے ان پیسوں کی ادائیگی میں مدد لینے کے لئے حضور ﷺ کی خدمت میں آئیں اللہ کی قسم! جو نبی میں نے ان کو اپنے حجر کے دروازے پر دیکھا تو مجھے اچھا نہ لگا اور میں سمجھ گئی کہ میں نے ان کی جو خوبصورتی دیکھی ہے حضورؐ کو بھی نظر آئے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میں حارث بن ضرار کی بیٹی جویریہ ہوں جو کہ اپنی قوم کے سردار تھے اور اب مجھ پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے (کہ اب باندی بن گئی ہوں) میں حضرت ثلث بن قیس بن ساس یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئی ہوں اور میں نے پیسوں کی ایک معین مقدار دینے پر ان سے آزاد کرنے کا وعدہ لے لیا ہے اور اب میں ان پیسوں کے بارے میں آپ سے مدد لینے آئی ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا کیا تم اس سے بہتر چیز کے لئے تیار ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! وہ کیا ہے! حضورؐ نے فرمایا میں تمہاری طرف سے سارے پیسے اوگر دیتا ہوں اور تم سے شادی کر لیتا ہوں انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ! میں بالکل تیار ہوں۔ پھر لوگوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضورؐ نے جویریہ بنت حارث سے شادی کر لی ہے لوگ کہنے لگے کہ (حضورؐ کے شادی کرنے کے بعد تو یہ حضرت جویریہ کے قبیلہ والے) حضورؐ کے سرال والے بن گئے اس لئے اس قبیلہ کے جتنے آدمی مسلمانوں کے ہاں قید تھے مسلمانوں نے ان سب کو چھوڑ دیا چنانچہ حضورؐ کی اس شادی کی وجہ سے قبیلہ بنو مصطلق کے سو گھرانے



آزاد ہوئے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میرے علم میں ایسی کوئی عورت نہیں ہے جو حضرت جویریہؓ سے زیادہ اپنی قوم کے لئے باہرکت ثابت ہوئی ہو۔ لوہو واقدی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے پہلے خاندان کا نام صفوان بن مالک تھا۔

حضرت عروہؓ کہتے ہیں کہ حضرت جویریہ بنت حارثؓ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کے (ہمارے علاقہ میں) تشریف لانے سے تین رات پہلے خواب دیکھا کہ گویا چاندی ٹرپ سے چل کر میری گود میں آ گیا ہے کسی کو بھی یہ خواب بتانا مجھے اچھا نہ لگا یہاں تک کہ حضور تشریف لے آئے جب ہم قید ہو گئیں تو مجھے اپنے خواب کے پورا ہونے کی امید ہو گئی حضور نے مجھے آزاد کر کے مجھ سے شادی کر لی اللہ کی قسم! میں نے حضور سے اپنی قوم کے بارے میں کوئی بات نہ کی بلکہ (جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضور نے مجھ سے شادی کر لی ہے اور میری قوم حضور کے سرال والے بن گئے ہیں تو اس نسبت کے احترام میں) مسلمانوں نے خود ہی (میری قوم کے) تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا اور اس کا پتہ مجھے اس وقت چلا جب میری ایک بچا زاد بہن نے آکر بتایا (کہ وہ آزاد ہو گئی ہے) اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ۱

### حضور ﷺ کا حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ سے نکاح

حضرت ابن شہابؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ صلح حدیبیہ کے اگلے سال ذیقعدہ کے ہجری میں عمرہ کے لئے تشریف لے چلے ذیقعدہ وہی مہینہ ہے جس میں ایک سال پہلے مشرکوں نے مسجد حرام میں جانے سے روکا تھا جب کپ یا حج مقام پر پہنچے تو حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کو آگے حضرت میمونہ بنت حارث بن حزن عامریہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا حضرت جعفر نے حضرت میمونہ کو حضور کی طرف سے شادی کا پیغام دیا تو حضرت میمونہ نے اپنا معاملہ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا حضرت میمونہؓ کی بہن حضرت ام فضلؓ حضرت عباسؓ کی بیوی تھیں چنانچہ حضرت عباسؓ نے حضرت میمونہؓ کی شادی حضور سے کر دی اس کے بعد حضور ﷺ سرف مقام آکر ٹھہر گئے اور مکہ مکرمہ سے حضرت میمونہؓ وہاں آگئیں اور وہاں ان کی رخصتی ہوئی اور اللہ کی عجب شان جمال ان کی رخصتی

۱۔ اخراجہ ابن اسحاق کذافی البدایہ (ج ۵ ص ۱۹۵) و اخراجہ ابن سعد (ج ۸ ص ۱۶۱) عن الوفدی بسندہ عن عائشہ نحوہ ولكن سمي زوجها صفوان بن مالك وهكذا اخراجہ الحاكم (ج ۴ ص ۲۶) من طريق الواقدي ۲۔ اخراجہ الواقدي كذافی البدایہ (ج ۴ ص ۱۵۹) و اخراجہ الحاكم (ج ۴ ص ۲۷) من طريق الواقدي عن حزام بن هشام عن ابیہ نحوہ

ہوئی تھی وہاں ہی بعد میں ان کا انتقال ہوا۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے حضرت میمونہؓ بنت حارث رضی اللہ عنہما سے شادی کی اور مکہ میں تین دن قیام فرمایا تیسرے دن حویطب بن عبد العزیٰ قریش کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور ان لوگوں نے حضورؐ سے کہا آپ کے ٹھہرنے کا وقت پورا ہو گیا ہے لہذا آپ یہاں ہمارے پاس سے چلے جائیں حضورؐ نے فرمایا اس میں تم لوگوں کا کیا حرج ہے کہ تم مجھے یہاں رہنے دو میں رخصتی کر لوں پھر میں ولیمہ کا کھانا تیار کروں جس میں تم بھی شریک ہو جاؤ ان لوگوں نے کہا ہمیں آپ کے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تو بس یہاں سے چلے جائیں۔ آخر حضورؐ میمونہؓ بنت حارثؓ کو وہاں سے لے کر چلے اور صرف مقام پران سے رخصتی فرمائی۔

## نبی کریم ﷺ کا اپنی بیٹی حضرت فاطمہؓ کی حضرت علی

### بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے شادی کرنا

حضرت علیؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے پاس حضرت فاطمہؓ کی شادی کا پیغام آیا تو میری ایک باندی نے مجھے سے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضورؐ کے پاس حضرت فاطمہؓ کی شادی کا پیغام آیا ہے میں نے کہا نہیں اس نے کہا ان کی شادی کا پیغام آپ کا ہے۔ آپ حضورؐ کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ حضورؐ آپ سے شادی کر دیں میں نے کہا کیا میرے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس کے ذریعہ میں شادی کر سکوں؟ اس باندی نے کہا اگر آپ حضورؐ کے پاس جائیں گے تو حضورؐ آپ سے ضرور شادی کر دیں گے اللہ کی قسم! وہ مجھے امید دلاتی رہی یہاں تک کہ میں حضورؐ کے پاس چلا گیا جب حضور ﷺ کے سامنے بیٹھا تو مجھ سے بلا لانا گیا اور حضورؐ کے رعب اور دببہ کی وجہ سے میں بات نہ کر سکا حضورؐ نے فرمایا تم کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ میں خاموش رہا پھر حضورؐ نے فرمایا شاید تم فاطمہ سے شادی کا پیغام دینے آئے ہو میں نے کہا جی ہاں۔ حضورؐ نے فرمایا مہر میں دینے کے لئے تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! کچھ نہیں ہے حضورؐ نے فرمایا میں نے تم کو جو زرہ بطور اسلحہ کے دی تھی اس کا کیا ہوا؟ وہ زرہ قبیلہ حطمہ بن محارب کی بنائی ہوئی تھی اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں علیؓ کی جان ہے اس کی قیمت چار درہم نہ تھی (بلکہ چار سو اسی درہم تھی جیسے کہ آگے لیکن

عسا کر کی روایت میں آرہا ہے) میں نے کہا وہ میرے پاس سے حضورؐ نے فرمایا میں نے فاطمہؓ سے تمہاری شادی کر دی ہے تم وہ زہ فاطمہؓ کو بیچ دو اور اسی کو فاطمہؓ کا مہر سمجھو۔ بس یہ تھا رسول اللہ ﷺ کی بیٹی حضرت فاطمہؓ کا مہر۔

حضرت برید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے چند لوگوں نے حضرت علیؓ سے کہا تم حضرت فاطمہؓ سے شادی کا پیغام دو چنانچہ حضرت علیؓ حضور ﷺ کی خدمت میں گئے حضورؐ نے فرمایا ابو طالب کے بیٹے (علیؓ) کو کیا کام ہے؟ حضرت علیؓ نے کہا میں رسول اللہ ﷺ کی بیٹی فاطمہؓ سے شادی کا پیغام دینا چاہتا ہوں حضورؐ نے فرمایا مر جاواہلا! مزید اور کچھ نہ فرمایا۔ حضرت علیؓ باہر آئے تو انصار کے وہی لوگ حضرت علیؓ کا انتظار کر رہے تھے ان لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت علیؓ نے کہا اور تو میں کچھ جانتا نہیں آپ نے بس اتنا فرمایا مر جاواہلا ان لوگوں نے کہا حضورؐ نے (یہ جملہ فرما کر) تمہیں اہل بھی عنایت فرمایا اور مر جا بھی یعنی کشادہ جگہ بھی حضورؐ کی طرف سے تو ان دو میں سے ایک چیز ہی کافی تھی۔ جب حضورؐ نے حضرت علیؓ کی شادی کر دی تو ان سے فرمایا اے علیؓ! دل من (کے گھر) آنے پر ولیمہ کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت سعدؓ نے کہا میرے پاس ایک مینڈھا ہے (میں وہ دے دیتا ہوں) اور انصار نے حضرت علیؓ کے لئے چند صاع مکئی جمع کی جب رخصتی کی رات آئی تو حضورؐ نے فرمایا مجھ سے ملنے سے پہلے کچھ نہ کرنا۔ چنانچہ حضورؐ نے پانی منگا کر اس سے وضو کیا اور وہ پانی حضرت علیؓ پر ڈال دیا اور یہ دعای اے اللہ! ان دونوں میں برکت نصیب فرما اور ان دونوں کے لئے اس رخصتی میں برکت نصیب فرما۔

طبرانی اور بزار کی روایت میں یہ ہے کہ انصار کی ایک جماعت نے حضرت علیؓ سے کہا اگر تم فاطمہؓ سے شادی کا پیغام دو تو بہت اچھا ہو اور آخر میں حضورؐ کی دعا یہ ہے اے اللہ! ان دونوں میں برکت نصیب فرما اور ان کے شیر جیسے دو بچوں میں برکت نصیب فرما اور ان دونوں پر برکت نصیب فرما ان دونوں کی رخصتی میں یہ ہے اے اللہ! ان دونوں میں برکت نصیب فرما ان دونوں کے لئے ان کی نسل میں برکت نصیب فرما اور ایک روایت میں ہے اے اللہ! ان دونوں کے اس جمع ہونے میں برکت نصیب فرما۔

۱۔ اخرجہ البيهقي في الدلائل كذا في البداية (ج ۳، ۳۶) واخرجه ايضا الدولدي في الدرية الطاهرة كما في كنز العمال (ج ۷ ص ۱۱۳) ۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الهيثمي (ج ۹ ص ۲۰۹) رواه الطبرانی والبخاري نحوه ورجالهما رجال الصحيح غير عبد الكريم بن سليط وثقه ابن حبان انتهى واخرجه الروياني وابن عساكر نحوه كما في الكنز (ج ۷ ص ۱۱۳) واخرجه ايضا النسائي نحوه كما في البداية (ج ۷ ص ۳۴۱) واخرجه سعد (ج ۸ ص ۲۱) عن يزيد بن جهم

حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہؓ رخصت ہو کر حضرت علیؓ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاں آئیں تو ہمیں ان کے گھر میں یہی چند چیزیں ملیں ایک چٹائی مچھی ہوئی تھی ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور ایک گھڑ اور ایک مٹی کا لوٹا تھا حضور ﷺ نے حضرت علیؓ کو پیغام بھیجا کہ جب تک میں نہ آجاؤں اس وقت اپنے گھر والوں کے قریب نہ جانا۔ چنانچہ جب حضور تشریف لائے تو فرمایا کیا میرا بھائی یہاں ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہما جو کہ حضرت اسامہ بن زیدؓ کی والدہ تھیں اور وہ ایک حبشی اور نیک عورت تھیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ! جب آپ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علیؓ سے کر دی تو اب یہ آپ کے بھائی کیسے ہوئے! حضور نے دیگر صحابہؓ کا آپس میں بھائی چارہ کر لیا تھا اور حضرت علیؓ کا بھائی چارہ اپنے ساتھ کیا تھا حضور نے فرمایا اس بھائی چارے کے ساتھ یہ شادی ہو سکتی ہے۔ پھر حضور نے ایک برتن میں پانی منگایا پھر کچھ پڑھ کر حضرت علیؓ کے سینے اور چہرے پر ہاتھ پھیرا پھر حضور نے حضرت فاطمہؓ کو بلایا تو فاطمہؓ اٹھ کر آپ کے پاس آئیں وہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنی چادر میں لٹکھڑا رہی تھیں حضور نے اس پانی میں سے کچھ حضرت فاطمہؓ پر چھڑکا اور ان سے کچھ فرمایا اور یہ بھی فرمایا اپنے خاندان میں مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا اس سے تمہاری شادی کرنے میں میں نے کوئی کمی نہیں کی پھر حضور نے پردے یا دروازے کے پیچھے کسی آدمی کا سایہ دیکھا تو حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا اسماء حضور نے فرمایا کیا اسماء بنت عمیس؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ! حضور نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول ﷺ کے اکرام کی وجہ سے آئی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں جب کسی جوان لڑکی کی رخصتی ہو تو اس لڑکی کے پاس کسی رشتہ دار عورت کا ہونا ضروری ہے تاکہ اگر اس لڑکی کو کوئی ضرورت پیش آجائے تو یہ عورت اس کی ضرورت پوری کر دے اس پر حضور نے مجھے ایسی زبردست دعا دی کہ میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد عمل ہے پھر حضرت علیؓ سے فرمایا اپنی بیوی سنبھالو پھر حضور باہر تشریف لے گئے اور اپنے گھر میں داخل ہونے تک حضرت فاطمہؓ حضرت علیؓ دونوں کے لئے دعا فرماتے رہے! ایک روایت میں حضرت اسماء بنت عمیسؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ کی رخصتی والی رات کو میں بھی وہاں تھی جب صبح ہوئی تو حضور نے اگر دروازہ کھٹکھٹایا حضرت ام ایمنؓ نے کھڑے ہو کر دروازہ کھولا حضور نے فرمایا ام ایمن! میرے بھائی کو بلاؤ انہوں نے کہا کیا وہ آپ کے بھائی ہیں؟ آپ نے ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے حضور نے فرمایا ام ایمن! میرے پاس بلاؤ عورتیں حضور کی آواز سن کر ادھر ادھر ہو گئیں پھر حضور ایک کونے میں بیٹھ گئے پھر حضرت علیؓ آئے تو حضور نے ان کے لئے دعا فرمائی اور ان پر کچھ پانی چھڑکا پھر

فاطمہؓ کو میرے پاس بلا لاؤ جب حضرت فاطمہؓ آئیں تو وہ شرم و حیا کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو رہی تھیں اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھ رہی تھیں آپ نے فرمایا چپ ہو جاؤ میں نے تمہاری شادی ایسے آدمی سے کی ہے جو مجھے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ محبوب ہے آگے چھپلی حدیث جیسا مضمون ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت علیؓ فرماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ نے حضرت فاطمہؓ کی (مجھ سے) شادی کی تو آپؓ نے پانی منگا کر اس سے کلی کی پھر مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئے اور وہ پانی میرے گریبان اور میرے دونوں کندھوں کے درمیان چھڑکا اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھ کر مجھ پر دم کیا لہٰذا حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو ان کی بیٹی حضرت فاطمہؓ سے شادی کا پیغام بھیجا پھر میں نے اپنی ایک زرہ اور اپنا کچھ سامان چار سو اسی درہم میں بیچا حضورؐ نے فرمایا اس کے دو تہائی کی خوشبو اور ایک تہائی کے کپڑے خرید لو اور پانی کے ایک گھڑے میں کلی فرمائی اور فرمایا اس سے غسل کرو اور حضرت فاطمہؓ سے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ ہو تو اپنے بچے کو میرے آنے سے پہلے دودھ نہ پلانا لیکن حضرت فاطمہؓ نے حضرت حسینؓ کو دودھ پلا دیا البتہ حضرت حسنؓ کو نہ پلایا بلکہ حضورؐ نے ان کے منہ میں کوئی چیز ڈالی جس کا پتہ نہ چلا اسی وجہ سے دونوں بھائیوں میں حضرت حسنؓ زیادہ علم والے تھے۔<sup>۲</sup>

حضرت جلدؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کی شادی کے موقع پر ہم بھی موجود تھے ہم نے اس سے اچھی کوئی شادی نہیں دیکھی، چھونے میں ہم نے کھجور کی چھال بھری اور کھجور اور کشمش ہمارے پاس لائی گئی جسے ہم نے کھلایا اور شادی کی رات میں حضرت فاطمہؓ کا چھوٹا ایک مینڈھے کی کھال تھی۔<sup>۳</sup>

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت فاطمہؓ کو جیز میں ایک جھال والی چادر ایک مشکیزہ اور ایک چڑے کا تکیہ دیا جس میں ازخر گھاس بھر اہو اتھاہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ نے حضرت فاطمہؓ کو حضرت علیؓ کے گھر بھیجا تو ان کے ساتھ ایک جھال والی چادر اور چڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال اور

۱۔ اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ۹ ص ۲۱۰) رواه كله الطبراني ورجال الرواية الاول رجال الصحيح اه ۲۔ اخرجه ابن عساكر كذا في الكنز (ج ۷ ص ۱۱۳)

۳۔ اخرجه ابو يعلى وسعيد بن منصور عن علباء بن احمد كذا في الكنز (ج ۷ ص ۱۱۲) و اخرجه ابن سعد (ج ۸ ص ۲۱) عن علباء قصة الطيب والشباب

۴۔ اخرجه البزار قال الهيثمي (ج ۹ ص ۲۰۹) وفيه عبدالله بن ميمون القداح وهو ضعيف اه

۵۔ اخرجه البيهقي في الدلائل كذا في الكنز (ج ۷ ص ۱۱۳)

ازخنگھاس بھر اہوا تھا اور ایک مشکیزہ بھی بھیجا وہ دونوں آدھی چادر کو نیچے بچھا لیتے تھے اور آدھی کو اوپر اوڑھ لیتے تھے۔

## حضرت ربیعہ سلمیٰ رضی اللہ عنہ کا نکاح

حضرت ربیعہ سلمیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت گیا کرتا تھا ایک دفعہ حضورؐ نے مجھ سے فرمایا کیا تم شادی نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں۔ یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! نہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور نہ بیوی کو دینے کے لئے میرے پاس کچھ ہے اور نہ مجھے کوئی ایسی چیز پسند ہے کہ جس میں لگ کر مجھے آپ کو چھوڑنا پڑے۔ یہ سن کر حضورؐ نے مجھ سے اعراض فرمایا پھر حضورؐ نے مجھ سے دوبارہ فرمایا اے ربیعہ! کیا تم شادی نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور نہ بیوی کو دینے کے لئے میرے پاس کچھ ہے اور نہ مجھے کوئی ایسی چیز پسند ہے جس میں لگ کر مجھے آپ کو چھوڑنا پڑے یہ سن کر حضورؐ نے مجھ سے پھر اعراض فرمایا پھر میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کی قسم! رسول اللہ ﷺ میری دنیا اور آخرت کی مصلحت کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اللہ کی قسم! اگر اس دفعہ حضورؐ نے فرمایا تم شادی نہیں کرتے؟ تو میں کہوں گا ہاں کرتا ہوں یا رسول اللہ! آپ جو ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ حضورؐ نے مجھ سے فرمایا اے ربیعہ! کیا تم شادی نہیں کرتے؟ میں نے کہا جی ضرور۔ یا رسول اللہ! آپ جو ارشاد فرمائیں آپ نے فرمایا اکل فلاں کے پاس چلے جاؤ اور انصار کے ایک قبیلہ کا نام لیا جو کبھی کبھی حضور ﷺ کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور فرمایا جا کر ان سے کہو کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے حضورؐ فرماتے ہیں کہ میری شادی اپنی فلاں عورت سے کر دو۔ چنانچہ میں نے جا کر ان لوگوں سے کہا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے تمہارے پاس بھیجا ہے حضورؐ فرماتے ہیں کہ تم میری شادی فلاں عورت سے کر دو۔ ان لوگوں نے کہا خوش آمدید ہو اللہ کے رسول ﷺ کو اور اللہ کے رسول کے قاصد کو اللہ کی قسم! اللہ کے رسول کا قاصد اپنی ضرورت پوری کر کے ہی واپس جائے گا چنانچہ انہوں نے میری شادی کر دی اور میرے ساتھ بڑی مہربانی اور شفقت کا معاملہ کیا اور مجھ سے کوئی گواہ بھی نہیں مانگا وہاں سے حضورؐ کی خدمت میں بڑا پریشان واپس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں ایسے لوگوں کے پاس گیا جو بڑے سخی اور بااخلاق ہیں انہوں نے میری شادی کر دی اور مجھ سے بڑی شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا اور مجھ سے گواہ بھی نہیں مانگے لیکن اب میرے پاس مہر دینے کے لئے کچھ نہیں ہے حضورؐ نے فرمایا اے بریدہ سلمیٰ! اس کے لئے کھجور کی کھٹلی کے برابر سونا جمع کرو۔ چنانچہ انہوں نے کھٹلی کے برابر سونا جمع کیا وہ سونالے کر حضورؐ کی خدمت

میں حاضر ہوا حضورؐ نے فرمایا یہ سونان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ اس عورت کا مہر ہے چنانچہ میں نے ان لوگوں کو جا کر کہا یہ اس عورت کا مہر ہے انہوں نے اسے قبول کر لیا اور بڑے خوش ہوئے اور کہا یہ تو بہت زیادہ ہے اور بڑا پاکیزہ ہے میں پھر پریشان ہو کر حضور ﷺ کی خدمت میں واپس آیا حضورؐ نے فرمایا اے ربیعہ! کیا بات ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! ان لوگوں سے زیادہ بااخلاق کوئی قوم میں نے نہیں دیکھی میں نے ان کو جو مہر دیا اس سے وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھ سے بڑا اچھا سلوک کیا اور کہا یہ تو بہت زیادہ ہے اور بڑا پاکیزہ ہے لیکن اب میرے پاس ولیمہ کے لئے کچھ نہیں ہے حضورؐ نے فرمایا اے بریدہ! اس کے لئے بھری کا انتظام کرو چنانچہ وہ لوگ ایک موٹا تازہ مینڈھا میرے لئے لے آئے اور حضورؐ نے مجھ سے فرمایا تم عائشہؓ سے جا کر کہو جس ٹوکری میں اناج ہے وہ بھج دے چنانچہ حضورؐ نے جو فرمایا تھا وہ جا کر میں نے حضرت عائشہؓ کی خدمت میں عرض کر دیا حضرت عائشہؓ نے کہا اس ٹوکری میں سات صاع جو ہیں اللہ کی قسم! اللہ کی قسم ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے یہ لے لو۔ میں وہ جو لے کر حضورؐ کی خدمت میں آیا اور حضرت عائشہؓ نے جو فرمایا تھا وہ حضورؐ کو بتا دیا حضورؐ نے فرمایا یہ جو اور مینڈھا ان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ جو کی روٹی اور مینڈھے کا سالن بنا لیں ان لوگوں نے کہا روٹی تو ہم پکا دیں گے لیکن مینڈھا تم پکاؤ چنانچہ میں نے اور قبیلہ اسلم کے چند آدمیوں نے مل کر اسے ذبح کیا اس کی کھال اتاری اور اسے پکایا اس طرح روٹی اور گوشت کا انتظام ہو گیا جسے میں نے ولیمہ میں کھلایا اور کھانے کے لئے میں نے حضور ﷺ کو بلایا پھر اس کے بعد حضورؐ نے مجھے ایک زمین عطا فرمائی اور حضرت ابو بکرؓ کو بھی عطا فرمائی اور دنیا آگئی اور میرا اور حضرت ابو بکرؓ کا کھجور کے ایک درخت کے بارے میں اختلاف ہو گیا میں نے کہا یہ میری حد میں ہے حضرت ابو بکرؓ نے کہا نہیں یہ میری حد میں ہے اس پر میرے اور حضرت ابو بکرؓ میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزر لیکن وہ فوراً پشیمان ہوئے اور انہوں نے فرمایا اے ربیعہ! تم بھی مجھے اس جیسا لفظ کہہ لو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں۔ میں تو نہیں کہوں گا انہوں نے فرمایا تم بھی کہہ لو ورنہ میں جا کر حضورؐ سے عرض کروں گا میں نے کہا نہیں بالکل نہیں کہوں گا اس پر وہ زمین کے بھگڑے کو وہیں چھوڑ کر حضورؐ کی طرف چل پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ اتنے میں (میرے) قبیلہ اسلم کے کچھ لوگوں نے آکر کہا اللہ تعالیٰ ابو بکرؓ پر رحم فرمائے یہ کس بات پر حضورؐ سے شکایت کرنے جا رہے ہیں خود ہی تو انہوں نے تمہیں سخت بات کہی ہے۔ میں نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدیقؓ ہیں یہ حضورؐ کے غار ثور کے ساتھی ہیں یہ مسلمانوں میں بڑی عمر والے ہیں۔ تم لوگ چلے جاؤ اگر انہوں نے مڑ کر تمہیں دیکھ لیا کہ تم میری مدد کرنے آئے ہو تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور

جا کر حضورؐ کو بتائیں گے تو ان کے ناراض ہونے کی وجہ سے حضورؐ ناراض ہو جائیں گے اور ان دونوں کے ناراض ہونے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو ربیعہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا ہم اب کیا کریں؟ میں نے کہا تم لوگ واپس چلے جاؤ حضرت ابو بکرؓ حضورؐ کی خدمت میں گئے اور میں اکیلا ان کے پیچھے چلتا رہا انہوں نے جا کر سارا واقعہ جیسا ہوا تھا بتایا۔ حضورؐ نے میری طرف سر اٹھا کر فرمایا اے ربیعہ! تمہارا اور صدیق کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایسے ایسے بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزارا پھر انہوں نے مجھ سے کہا تم بھی مجھے اس جیسا لفظ کہہ لو تاکہ بدلہ ہو جائے لیکن میں نے انکار کر دیا حضورؐ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا ان کو بدلہ میں سخت لفظ نہ کہو بلکہ یہ کہہ دو اے ابو بکرؓ! اللہ آپ کی مغفرت فرمائے حضرت حسن راوی کہتے ہیں حضرت ابو بکرؓ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ روتے ہوئے واپس گئے (کہ ربیعہ مجھ سے آگے بڑھ گئے)۔

## حضرت جلیب رضی اللہ عنہ کا نکاح

حضرت ابو بکرؓ سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جلیب رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے جو عورتوں میں چلے جاتے ان کے پاس سے گزرتے اور ان سے ہنسی مذاق کر لیا کرتے میں نے اپنی بیوی سے کہا حضرت جلیبؓ کو کبھی اپنے پاس نہ آنے دینا۔ اگر وہ تمہارے پاس آ گیا تو میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا اور انصار کا دستور یہ تھا کہ جب ان کی کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس وقت تک اس کی آگے شادی نہ کرتے جب تک یہ پتہ نہ چل جاتا کہ حضور ﷺ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ چنانچہ حضورؐ نے ایک انصاری سے فرمایا اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو اس نے کہا ضرور یا رسول اللہ! ہسر و چشم یہ میرے لئے بڑی عزت کی بات ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے حضورؐ نے فرمایا لیکن میں خود شادی نہیں کرنا چاہتا اس انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ! کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں حضورؐ نے فرمایا جلیبؓ سے۔ اس انصاری نے کہا ذرا میں اس کی مال سے مشورہ کر لوں۔ چنانچہ جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ تمہاری بیٹی کے لئے شادی کا پیغام دے رہے ہیں اس کی بیوی نے کہا ضرور ہسر و چشم۔ انصاری نے کہا کہ حضورؐ اپنے لئے پیغام نہیں دے رہے بلکہ حضرت جلیبؓ کے لئے

۱۔ اخرجه احمد والطبرانی قال الهیثمی (ج ۴ ص ۲۵۷) رواه احمد والطبرانی وفيه مبارك بن فضالة وحديثه حسن وبقيّة رجال احمد رجال الصحيح اه واخرجه ابو يعلى عن ربيعه نحوه بطوله كما في البداية (ج ۵ ص ۳۳۶) والحاكم وغيره قصة النكاح كما في الكنز (ج ۷ ص ۳۶) وابن سعد (ج ۳ ص ۴۴) قصة مع ابى بكر.



دے رہے ہیں بیوی نے کہا جلیبب بالکل نہیں۔ جلیبب بالکل نہیں۔ اللہ کی قسم! اس سے شادی ہم نہیں کریں گے جب وہ انصاری حضورؐ کے پاس جا کر اپنی بیوی کا مشورہ بتانے کے لئے اٹھنے لگے تو اس لڑکی نے کہا میری شادی کا پیغام آپ لوگوں کو کس نے دیا ہے؟ اس کی ماں نے اسے بتایا (کہ حضورؐ نے دیا ہے) تو اس لڑکی نے کہا کیا آپ لوگ اللہ کے رسول ﷺ کی بات کا انکار کرو گے؟ مجھے حضورؐ کے حوالے کر دو وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے چنانچہ اس کے والد نے جا کر حضورؐ سے عرض کر دیا کہ میری بیٹی آپ کے اختیار میں ہے جس سے چاہیں شادی کر دیں چنانچہ حضورؐ نے حضرت جلیبب سے اس کی شادی کر دی پھر حضورؐ ایک غزوہ میں تشریف لے آئے جب اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو فتح نصیب فرمادی تو آپؐ نے فرمایا کون سا سنا بھی تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ صحابہؓ نے کہا کوئی ایسا نہیں ہے حضورؐ نے فرمایا لیکن مجھے جلیببؓ نظر نہیں آ رہا ہے حضورؐ نے فرمایا انہیں تلاش کرو صحابہؓ نے تلاش کیا تو وہ سات کافروں کے پاس شہید پڑے ہوئے ملے کہ انہوں نے ان سات کو قتل کیا پھر انہوں نے انہیں شہید کر دیا صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ! یہ حضرت جلیببؓ سات کافروں کے پہلو میں پڑے ہوئے ہیں پہلے انہوں نے انہیں قتل کیا پھر انہوں نے انہیں شہید کر دیا چنانچہ حضورؐ خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور دو یا تین مرتبہ فرمایا اس نے سات کو قتل کیا پھر انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں پھر حضورؐ نے ان کے جسم کو اپنے بازوؤں پر رکھ لیا پھر ان کے لئے قبر کھودی گئی ان کے لئے اور تو کوئی تخت نہیں تھا بس حضورؐ کے بازو ہی تخت تھے۔ پھر حضورؐ نے خود ان کو قبر میں رکھا اس حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ حضورؐ نے انہیں غسل دیا۔ حضرت ثابت کہتے ہیں کہ انصار میں کوئی بیوہ عورت اس لڑکی سے زیادہ خرچ کرنے والی نہیں تھی حضرت اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ نے حضرت ثابت سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور ﷺ نے اس لڑکی کو کیا دعادی تھی؟ یہ دعادی تھی کہ اے اللہ! تو اس پر خیروں کو خوب بہادے اور اس کی زندگی کو مشقت والی نہ بنا چنانچہ انصار میں کوئی بیوہ عورت اس سے زیادہ خرچ کرنے والی نہ تھی۔

## حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نکاح

حضرت ابو عبد الرحمن سلمیٰ کہتے ہیں کہ حضرت سلمانؓ نے قبیلہ کندہ کی ایک عورت سے شادی کی اور اس کے گھر میں ہی ان کی رخصتی ہوئی۔ جب رخصتی والی رات آئی تو ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی چلتے ہوئے ان کی بیوی کے گھر تک آئے وہاں پہنچ کر حضرت سلمانؓ

نے فرمایا اب آپ لوگ واپس چلے جائیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اجر عطا فرمائے اور ان لوگوں کو اندر اپنی بیوی کے پاس نہ لے گئے جیسے کہ بے وقوف لوگوں کا دستور ہے وہ گھر بہت سجا ہوا تھا دیواروں پر پردے پڑے ہوئے تھے یہ دیکھ کر انہوں نے فرمایا کیا تمہارے گھر کو مختار چڑھا ہوا ہے؟ (جو اس پر اتنے پردے لٹکار کھے ہیں) کیا کعبہ کندہ قبیلہ میں آگیا ہے؟ (جو تم نے اس گھر کو اتنا سجا رکھا ہے) گھر والوں نے کہا نہ تو ہمارے گھر کو مختار چڑھا ہوا ہے اور نہ کعبہ کندہ میں آگیا ہے۔ جب ان لوگوں نے دروازے کے پردے کے علاوہ باقی تمام پردے اتار دیئے تب حضرت سلمانؓ گھر کے اندر گئے۔ جب اندر گئے تو انہیں بہت سا سامان نظر آیا تو فرمایا اتنے سامان کی تو میرے خلیل ﷺ نے مجھے وصیت نہیں فرمائی تھی انہوں نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ دنیا میں سے میرا سامان اتنا ہو جتنا ایک سوار کا توشہ سفر ہوتا ہے پھر انہوں نے بہت سی باندیاں دیکھیں فرمایا یہ باندیاں کس کی ہیں انہوں نے کہا یہ آپ کی اور آپ کی بیوی کی ہیں فرمایا میرے خلیل ﷺ نے اتنی باندیاں رکھنے کی مجھے وصیت نہیں فرمائی انہوں نے تو مجھے اس کی وصیت فرمائی تھی کہ میں اتنی رکھوں جن سے میں خود نکاح کر سکوں یا ان کا دوسروں سے نکاح کر سکوں۔ اگر میں اتنی ساری باندیاں رکھوں گا تو یہ تو زنا پر مجبور ہو جائیں گی (اور مالک ہونے کی وجہ سے) ان کے برابر مجھے بھی گناہ ہو گا اور اس سے ان کے گناہ میں کوئی کمی نہ آئے گی پھر جو عورتیں ان کی بیوی کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں ان سے فرمایا کیا اب تم میرے پاس سے چلی جاؤ گی؟ اور مجھے اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کا موقع دو گی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ وہ چلی گئیں حضرت سلمانؓ نے جا کر دروازہ بند کیا اور پردہ لٹکا دیا اور اگر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گئے اور اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر برکت کی دعا کی اور اس سے کہا کہ جس کام کا تمہیں حکم دوں گا کیا تم اس میں میری اطاعت کرو گی؟ اس نے کہا آپ ہیں ہی ایسے مقام پر کہ آپ کی بات مانی جائے انہوں نے فرمایا میرے خلیل ﷺ نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میں اپنی بیوی کے ساتھ (پہلی مرتبہ) اکٹھا ہوں تو اللہ کی اطاعت پر اکٹھا ہوں چنانچہ حضرت سلمانؓ اور ان کی بیوی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور کچھ دیر نماز پڑھی اور پھر دونوں واپس اپنی جگہ پر آگئے اور پھر انہوں نے اس بیوی سے اپنی وہ ضرورت پوری کی جو انسان اپنی بیوی سے کیا کرتا ہے۔ صبح کو ان کے ساتھ ان کے پاس آئے اور پوچھا حضرت آپ نے اپنے گھر والوں کو کیا پایا؟ انہوں نے اعراض فرمایا ان لوگوں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے پھر اعراض فرمایا لوگوں نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو پہلے تو ان سے اعراض فرمایا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے پردے اور دروازے بنائے ہی اسی لئے ہیں تاکہ ان کے اندر کی چیزیں چھپی رہیں آدمی کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ظاہری حالات کے بارے میں پوچھے۔ چھپے ہوئے اندر کے حالات ہر گز نہ پوچھے میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بیوی کے

ساتھ کے اندر کے حالات بتانے والا اس گدھے اور گدھی کی طرح ہے جو راستہ میں جھپٹی کر رہے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمانؓ ایک سفر سے واپس آئے تو ان سے حضرت عمرؓ کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمرؓ نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں حضرت سلمانؓ نے کہا تو پھر آپ (اپنے خاندان میں) میری شادی کرادیں حضرت عمرؓ اس پر خاموش رہے حضرت سلمانؓ نے کہا آپ مجھے اللہ کا پسندیدہ بندہ تو سمجھتے ہیں لیکن مجھے اپنا املا بناانا آپ کو پسند نہیں ہے۔ صبح کو حضرت عمرؓ کی قوم کے لوگ حضرت سلمانؓ کے پاس گئے حضرت سلمانؓ نے پوچھا کیا کوئی کام ہے۔ ان لوگوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت سلمانؓ نے پوچھا کیا ہے؟ انشاء اللہ آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا ان لوگوں نے کہا آپ نے حضرت عمرؓ کو شادی کا پیغام دیا ہے وہ واپس لے لیں حضرت سلمانؓ نے فرمایا میں نے یہ پیغام حضرت عمرؓ کی امارت و بیادشاہت کی وجہ سے نہیں دیا تھا بلکہ میں نے تو اس وجہ سے دیا تھا کہ وہ نیک آدمی ہیں شاید اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے اس رشتے سے نیک اولاد پیدا فرمادیں چنانچہ پھر انہوں نے قبیلہ کندہ میں شادی کی اور اس کے بعد کچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ ۷

### حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا نکاح

حضرت ثابتؓ بتاتی کہتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداءؓ حضرت سلمانؓ کے ساتھ قبیلہ بنو لیث کی ایک عورت سے حضرت سلمانؓ کی شادی کا پیغام دینے گئے اور (گھر کے) اندر جا کر حضرت سلمانؓ کے فضائل اور ان کے شروع میں مسلمان ہونے اور ان کے اسلام لانے کے واقعات تفصیل سے بیان کیے اور انہیں بتایا کہ حضرت سلمانؓ ان کی فلاں نوجوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے کہا حضرت سلمانؓ سے شادی کرنے کو تو ہم تیار نہیں ہیں البتہ آپ سے کرنے کو تیار ہیں چنانچہ وہ اس لڑکی سے شادی کر کے باہر آئے اور حضرت سلمانؓ سے کہا اندر کچھ بات ہوئی ہے لیکن اسے بتاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے بہر حال حضرت ابو الدرداءؓ نے انہیں ساری بات بتائی یہ سن کر حضرت سلمانؓ نے کہا (آپ مجھ سے کیوں شرم رہے ہیں) وہ تو مجھے آپ سے شرمانا چاہتے ہیں کیونکہ میں اس لڑکی کو شادی کا پیغام دے رہا تھا جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ ۷

۱۔ عند ابی نعیم ایضاً وخرجه الطبرانی عن ابن عباس مختصر اوفی اسناد ہما الحاج بن فروخ وھو ضعيف كما قال الھیثمی (ج ۴ ص ۲۹۱)  
 ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۰۰) وخرجه الطبرانی مثله قال الھیثمی (ج ۴ ص ۲۷۵) ورجاله ثقات الا ان ثابتاً لم یسمع من سلمان ولا من ابی الدرداء انتھی  
 ۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۸۵)

## حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا اپنی بیٹی ورداء کی ایک غریب سادہ مسلمان سے شادی کرنا

حضرت ثلث ہنائیؓ کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ نے حضرت ابو الدرداءؓ کو ان کی بیٹی حضرت ورداء سے شادی کا پیغام دیا تو حضرت ابو الدرداءؓ نے ان کو انکار کر دیا یزید کے ہم نشینوں میں سے ایک آدمی نے یزید سے کہا اللہ آپ کی اصلاح فرمائے کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں حضرت ورداء سے شادی کر لوں؟ یزید نے کہا تیرا اس ہو دفع ہو جا۔ اس آدمی نے کہا اللہ آپ کی اصلاح فرمائے آپ مجھے اجازت دے دیں۔ یزید نے کہا اچھا۔ چنانچہ اس آدمی نے حضرت ورداء سے شادی کا پیغام دیا تو حضرت ابو الدرداءؓ نے اس آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اس پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یزید نے حضرت ابو الدرداءؓ کو بیٹی سے شادی کا پیغام دیا تو اسے تو انکار کر دیا اور ایک عام غریب مسلمان نے اسی بیٹی سے شادی کا پیغام دیا تو اس سے شادی کر دی اس پر حضرت ابو الدرداءؓ نے فرمایا میں نے ایسا اپنی بیٹی کے فائدے کی وجہ سے کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ (اگر میں ورداء کی شادی یزید سے کر دیتا تو) ہر وقت اس کے سر پر خواجہ سرا یعنی حصی غلام (خدمت کے لئے) کھڑے رہتے اور گھروں پر نگاہ ڈالتی تو (سونے چاندی کی کثرت کی وجہ سے) اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتیں لیکن پھر اس کا دین کیسے باقی رہتا (اس ہر وقت دنیا میں لگی رہتی)۔

## حضرت علی بن ابی طالبؓ کا اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے حضرت عمر بن خطابؓ کی شادی کرنا

حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کو ان کی بیٹی سے شادی کا پیغام دیا حضرت علیؓ نے کہا وہ تو چھوٹی ہے۔ کسی نے حضرت عمرؓ سے کہا (وہ چھوٹی نہیں ہے بلکہ حضرت علیؓ یہ کہہ کر انکار کرنا چاہتے ہیں اس پر حضرت عمرؓ نے ان سے دوبارہ بات کی) تو حضرت علیؓ راضی ہو گئے اور انہوں نے حضرت عمرؓ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور انہوں نے کہا میں اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں اگر آپ کو پسند آگئی تو وہ آپ کی بیوی ہے ہی۔ چنانچہ حضرت علیؓ نے حضرت ام کلثومؓ کو حضرت عمرؓ کے پاس بھیجا تو حضرت عمرؓ نے ان کی پندلی سے کپڑا ہٹانا چاہا تو انہوں نے کہا کپڑا نیچے ہی رہنے دیں اگر آپ امیر

المومنین نہ ہوتے تو میں آپ کی آنکھ پر تھپڑ مارتی (واپس جا کر حضرت ام کلثومؓ نے حضرت علیؓ کو ساری بات بتائی تو حضرت علیؓ نے فرمایا وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تمہارے خاوند ہیں) حضرت محمد (بن علی) رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو (ان کی بیٹی) حضرت ام کلثومؓ سے شادی کا پیغام دیا تو حضرت علیؓ نے کہا میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنی تمام بیٹیوں کی شادی صرف (اپنے بھائی) حضرت جعفر (بن ابی طالب) رضی اللہ عنہ کے بیٹوں سے کروں گا حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں۔ آپ اس کی مجھ سے شادی کر دیں۔ اللہ کی قسم! روئے زمین پر کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو اس کے اکرام کا اتنا ہتمام کر سکے جتنا میں کروں گا حضرت علیؓ نے کہا اچھا میں نے (اس بیٹی کا نکاح آپ سے) کر دیا حضرت عمرؓ نے اگر مہاجرین سے کہا مجھے شادی کی مبارکباد دو انہوں نے انہیں مبارکباد دی اور پوچھا آپ نے کس سے شادی کی ہے؟ حضرت عمرؓ نے کہا حضرت علیؓ کی بیٹی سے کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرے رشتہ اور تعلق کے علاوہ ہر رشتہ اور تعلق قیامت کے دن ختم ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تو حضور ﷺ کی تھی اب میں نے چاہا کہ حضور ﷺ کی نواسی سے میری شادی ہو جائے تو مزید رشتہ کا تعلق حاصل ہو جائے حضرت عطاء خراسانیؒ کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ام کلثومؓ کو مہر میں چالیس ہزار دیئے۔ ۱

## حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا اپنی بیٹی سے حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ کی شادی کرنا

حضرت شعبیؒ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن حریثؓ نے حضرت عدی بن حاتمؓ کو (ان کی بیٹی سے) شادی کا پیغام دیا تو حضرت عدیؓ نے فرمایا مہر کے بارے میں میرا فیصلہ مانو گے تو میں اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کروں گا حضرت عمروؓ نے پوچھا آپ کا وہ فیصلہ کیا ہے؟ حضرت عدیؓ نے کہا تم لوگوں کے لئے رسول اللہ ﷺ کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے میرا تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ حضرت عائشہؓ والا مہر چار سو اس درہم دو گے ۱۔ حضرت حمید بن ہلالؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن حریثؓ نے حضرت عدی بن حاتمؓ کو شادی کا پیغام دیا تو حضرت عدیؓ نے کہا میں آپ سے شادی تو کروں گا لیکن مہر کے بارے میں میرا فیصلہ ماننا ہوگا حضرت عمروؓ نے کہا میرے بارے میں آپ کا جو فیصلہ ہے وہ مجھے بتادیں بعد میں حضرت

۱۔ اخراجہ عبدالرزاق وسعيد بن منصور كذا في الكنتن (ج ۸ ص ۲۹۱) واخراجہ ابن عمر

المقدسی عن محمد بن علی نحوه كذا في الاصابة (ج ۴ ص ۴۹۲)

۲۔ عند ابن سعد كذا في الاصابة

۳۔ اخراجہ ابن عساکر

عدیؓ نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ میں نے چار سو اسی درہم مہر کا فیصلہ کیا ہے جو حضور ﷺ کی سنت ہے۔

## حضرت بلال اور ان کے بھائی رضی اللہ عنہما کا نکاح

حضرت شعبیؓ کہتے ہیں کہ حضرت بلالؓ اور ان کے بھائی نے یمن کے ایک گھرانہ میں اپنی شادی کا پیغام دیا تو حضرت بلال نے یوں فرمایا میں بلال ہوں اور یہ میرا بھائی ہے ہم دونوں حبشہ کے غلام ہیں ہم گمراہ تھے ہمیں اللہ نے ہدایت دی اور ہم دونوں غلام تھے ہمیں اللہ نے آزاد کر دیا اگر آپ لوگ ہم دونوں کی شادی کر دیں گے تو الحمد للہ یعنی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑے ہیں وہ کوئی اور انتظام کر دیں گے آپ لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہوگی (ان لوگوں نے ان دونوں کی شادی کر دی) حضرت عمرو بن میمونؓ اپنے والد (حضرت میمونؓ) سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت بلالؓ کے ایک بھائی نسب میں اپنی نسبت عرب کی طرف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ عربوں میں سے ہیں انہوں نے عرب کی ایک عورت کو شادی کا پیغام بھیجا اس عورت کے رشتہ داروں نے کہا اگر حضرت بلالؓ آئیں گے تو ہم آپ سے شادی کریں گے چنانچہ حضرت بلالؓ آئے اور انہوں نے خطبہ مسنونہ پڑھ کر فرمایا میں بلال بن رباح ہوں اور یہ میرا بھائی ہے لیکن یہ اخلاق اور دین میں برا آدمی ہے اگر تم چاہو تو اس سے شادی کر دو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا جس کے آپ بھائی ہوں ہم اس سے ضرور شادی کریں گے چنانچہ انہوں نے اپنی عورت کی حضرت بلالؓ کے بھائی سے شادی کر دی۔

## نکاح میں کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے پر انکار

حضرت عبد اللہ بن قرظ ثمالی رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے تھے وہ حضرت عمرؓ کی طرف سے تمص کے گورنر تھے ایک رات وہ تمص میں پہرہ کے لئے گشت کر رہے تھے کہ اس کے پاس سے ایک بارات دلہن کو لئے ہوئے گزری اور ان لوگوں نے اس دلہن کے سامنے کئی جگہ آگ جلا رکھی تھی انہوں نے کوڑے سے بلاتوں کی ایسی پٹائی کی کہ وہ سب دلہن کو چھوڑ کر بھاگ گئے صبح کو حضرت عبد اللہؓ منبر پر بیٹھے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا حضرت ابو جندلہؓ نے حضرت امامہؓ سے شادی کی تو ولیمہ میں حضرت امامہؓ کے لئے چند مٹی کھانا تیار کیا اللہ تعالیٰ ابو جندلہؓ پر رحم کرے اور امامہؓ پر رحمت نازل کرے اور اللہ

۱ عند ابن عساکر ایضا کذا فی الکنز (ج ۸ ص ۲۹۹)

۲ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۲۳۷)

تمہاری رات والی دلہن اور بارہاتوں پر لعنت کرے ان لوگوں نے کئی جگہ آگ جلا رکھی تھی اور کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رکھی تھی اور اللہ کافروں کے نوکریاں والا ہے۔

## مہر کا بیان

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کا مہر بارہ اوقیہ اور ایک نش تھا جس کے پانچ سو درہم ہوتے ہیں کیونکہ ایک اوقیہ میں چالیس درہم اور ایک نش میں بیس درہم ہوتے ہیں۔ حضرت مسروقؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میرے علم میں ایسا آدمی کوئی نہ آئے جس نے چار سو سے زیادہ مہر مقرر کیا ہو کیونکہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کا مہر چار سو درہم یا اس سے کم تھا اگر مہر زیادہ کرنا کوئی تقویٰ اور عزت کی بات ہوتی تو تم لوگ ان مبارک حضرات سے مہر میں آگے نہیں جاسکتے تھے پھر منبر سے نیچے تشریف لے آئے پھر ایک قریشی عورت ان کے سامنے آئی اور اس نے کہا کیا آپ نے لوگوں کو چار سو سے زیادہ مہر رکھنے سے منع کیا ہے؟ حضرت عمرؓ نے کہا ہاں۔ اس عورت نے کہا، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو قرآن میں یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا وَاَتَيْتُمْ اِحْذَهْنَ فَنَطَرَا (سورۃ نساء آیت ۲۰) ترجمہ ”اور تم اس ایک (عورت) کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی مت لو“ (یعنی اس آیت میں مہر میں بہت زیادہ مال دینے کو اللہ نے ذکر فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ زیادہ مہر دینا بھی جائز ہے) یہ سن کر حضرت عمرؓ نے کہا اے اللہ! میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں تمام لوگ عمر سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں پھر واپس آکر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا لوگو! میں نے تمہیں چار سو سے زیادہ مہر دینے سے منع کیا تھا لیکن اب تمہیں اجازت ہے کہ جتنا چاہو یا جتنا تمہارا دل کے تم اتنا مہر دے سکتے ہو۔

حضرت شعبیؓ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطابؓ نے بیان فرمایا اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا غور سے سنو عورتوں کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو۔ اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے اس سے زیادہ مہر دیا ہے جتنا خود حضور ﷺ نے دیا تھا یا آپ کی بیٹیوں کو دیا گیا تھا تو میں زائد مہر لے کر بیت المال میں جمع کر دوں گا پھر حضرت عمرؓ منبر سے نیچے آئے تو قریش کی ایک عورت نے ان کے سامنے آکر کہا اے امیر المؤمنین! کیا اللہ کی کتاب اتباع کی زیادہ حقدار ہے یا آپ کی بات؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ کی کتاب۔ کیا بات ہے؟ اس عورت

۱ أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح عن عروة بن رويم كذا في الاصابة (ج ۴ ص ۳۷)

۲ أخرجه ابن سعد (۸ ص ۱۶۱) ۳ أخرجه سعيد بن منصور وأبو يعلى والمحاملى كذا في الكنز (ج ۸ ص ۲۹۸) رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق

النسب وأخرجه ابن سعد (ج ۸ ص ۱۶۱) من طريق عطاء بن يسار عن

نے کہا آپ نے لوگوں کو عورتوں کے مہر زیادہ بڑھانے سے منع کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں **وَآتِمْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا** (سورت نساء آیت ۲۰) ترجمہ گزر چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ تین مرتبہ فرمایا ہر ایک عمر سے دین کی سمجھ زیادہ رکھتا ہے پھر منبر پر واپس آکر لوگوں سے فرمایا میں نے تمہیں عورتوں کے مہر بہت زیادہ مقرر کرنے سے منع کیا تھا لیکن اب تمہیں اختیار ہے ہر آدمی اپنے مال میں جو چاہے کرے۔<sup>۱</sup>

حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر زیادہ مہر آخرت میں درجات اور مرتبہ کی بلندی کا ذریعہ ہوتا تو نبی کریم ﷺ کی بیٹیاں اور بیویاں اس کی زیادہ حقدار تھیں۔<sup>۲</sup>

حضرت ابن سیرینؒ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے عورت کو دو ہزار مہر دینے کی اجازت دی اور حضرت عثمانؓ نے چار ہزار کی اجازت دی۔<sup>۳</sup>

حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ نے حضرت صفیہؓ سے چار سو درہم پر شادی کی تو حضرت صفیہؓ نے حضرت ابن عمرؓ کو یہ پیغام بھیجا کہ یہ چار سو تو ہمیں کافی نہیں ہوں گے اس پر حضرت ابن عمرؓ نے حضرت عمرؓ سے چھپ کر دو سو درہم بڑھا دیئے۔<sup>۴</sup>

حضرت ابن سیرینؒ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علیؓ نے ایک عورت سے شادی کی اور اس کے پاس سو بانڈیاں تھیں ہر بانڈی کے ساتھ ہزار درہم بچے (کل لاکھ درہم مہر کے ہو گئے)۔<sup>۵</sup>

## عورتوں مردوں اور بچوں کی معاشرت اور آپس میں رہن سہن

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے آنا دودھ یا گھی ملا کر حضور ﷺ کے لئے حریرہ پکایا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا حضور میرے اور حضرت سودہؓ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے میں نے حضرت سودہؓ سے کہا آپ بھی کھالیں انہوں نے انکار کیا میں نے کہا تو آپ کھالیں ورنہ میں آپ کے منہ پر مل دوں گی انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو میں نے حریرہ میں ہاتھ ڈال کر ان کے چہرے پر لپ دیا اس پر حضور ہنس پڑے پھر حضور نے ان کا ہاتھ حریرہ میں ڈال کر کہا تم عائشہؓ کے چہرے پر مل دو۔ چنانچہ انہوں نے میرے چہرے پر مل دیا تو حضور اس پر بھی ہنسے اتنے میں حضرت عمرؓ وہاں سے گزرے وہ کسی کو پکارتے ہوئے اے عبد اللہ! اے عبد اللہ کہہ رہے تھے حضور سمجھے کہ حضرت عمرؓ اندر آئیں گے اس پر حضور نے فرمایا (عمر اندر آ رہے

۱۔ اخراجہ سعید بن منصور والبیہقی ۲۔ عند ابی عمر بن فضالہ فی امالیہ کذا فی کنز

العمال (ج ۸ ص ۲۹۸) ۳۔ اخراجہ ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۹۸)

۴۔ اخراجہ ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۹۸)

۵۔ اخراجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۴ ص ۲۸۴) رجالہ رجال الصحیح اتھی



ہیں) تم دونوں اٹھو اور اپنے منہ دھو لو۔ چونکہ حضورؐ نے عمر کا اتنا خیال فرمایا اس وجہ سے میں ہمیشہ حضرت عمرؓ سے ڈرتی تھی بلکہ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضورؐ نے حضرت سودہؓ کی خاطر اپنا گھٹنا نیچے کر دیا تاکہ وہ مجھ سے بدلہ لے سکیں چنانچہ انہوں نے پیالے میں سے کچھ حریرہ لیا اور میرے چہرے پر مل دیا اور حضورؐ ہنس رہے تھے۔

حضور ﷺ کی آزاد کردہ باندی حضرت رزینہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت سودہ یمانیہؓ حضرت عائشہؓ کو ملنے آئیں حضرت عائشہؓ کے پاس حصہ بنت عمرؓ بھی تھیں حضرت سودہؓ خوب بناؤ سنگھار کر کے بڑی اچھی شکل و صورت میں آئی تھیں انہوں نے یمنی چادر اور یمنی لوڑھنی اوڑھی ہوئی تھی انہوں نے گوشہ چشم کے قریب ایلوے اور زعفران کے دو بڑے بڑے نشان لگا رکھے تھے جو گردن کے پھوڑے کے برابر تھے۔ حضرت علیہؓ راویہ کہتی ہیں کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ ایلوے، زعفران وغیرہ زینت کے لئے استعمال کرتی تھیں حضرت حصہؓ نے حضرت عائشہؓ سے کہا اے ام المومنین! حضور ﷺ تشریف لائیں گے اور یہ ہمارے درمیان چمک رہی ہوں گی ام المومنین حضرت عائشہؓ نے کہا اے حصہؓ اللہ سے ڈرو حضرت حصہؓ نے کہا نہیں۔ میں تو ان کا بناؤ سنگھار سارا ضرور خراب کروں گی۔ حضرت سودہؓ اونچا سنتی تھیں انہوں نے پوچھا تم دونوں کی باتیں کر رہی ہو؟ حضرت حصہؓ نے ان سے کہا اے سودہؓ! کانا (دجال) نکل آیا ہے انہوں نے کہا اچھا۔ یہ سن کر بہت زیادہ گھبرا گئیں اور کانپنے لگیں پھر انہوں نے کہا میں کہاں چھپوں؟ حضرت حصہؓ نے کہا اس خیمہ میں چھپ جاؤ وہاں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک خیمہ تھا جس میں لوگ چھپتے تھے یہ جا کر اس میں چھپ گئیں اس میں گردوغبار اور مکڑی کے جالے بہت تھے اتنے میں حضور ﷺ تشریف لے آئے تو دیکھا کہ یہ دونوں ہنس رہی ہیں اور ہنسی کے مارے دونوں سے بولا نہیں جا رہا ہے۔ حضورؐ نے تین مرتبہ پوچھا اتنا کیوں ہنس رہی ہو؟ تو دونوں نے ہاتھ سے اس خیمے کی طرف اشارہ کیا آپ وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت سودہؓ کانپ رہی ہیں حضورؐ نے ان سے پوچھا اے سودہؓ! تمہیں کیا ہوا انہوں نے کہا یا رسول اللہ! کانا نکل آیا ہے حضورؐ نے فرمایا وہ ابھی نہیں نکلا لیکن نکلے گا ضرور۔ وہ ابھی نہیں نکلا لیکن نکلے گا ضرور۔ پھر حضورؐ نے انہیں باہر نکالا اور ان کے کپڑوں اور جسم کے گردوغبار اور مکڑی کے جالے صاف کیئے بلکہ طبرانی کی روایت میں مضمون اس طرح ہے کہ حضرت حصہؓ نے حضرت عائشہؓ سے کہا کہ حضورؐ ہمارے پاس

۱۔ اخرجه ابو يعلى قال الهيثمي (ج ۴ ص ۳۱۶) رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن اه واخرجه ابن عساكر مثله كما في المنتخب (ج ۴ ص ۳۹۳) وابن الجار نحوہ كما في الكنز (ج ۷ ص ۳۰۲) ۲۔ اخرجه ابو يعلى قال الهيثمي (ج

تشریف لائیں گے ہم میلی کچی نظر آئیں گی اور یہ ہمارے درمیان چمک رہی ہوں گی۔  
 حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں انہوں نے  
 لوگوں اور بچوں کے شور کی آواز سنی آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی عورت ناچ رہی ہے اور لوگ  
 اس کے ارد گرد جمع ہیں آپ نے فرمایا اے عائشہؓ اوہر اوہر اور ذرا دیکھو میں حضورؐ کے کندھوں پر  
 اپنا رخسار رکھ کر کندھے اور سر کے درمیان سے دیکھنے لگی آپ پوچھتے اے عائشہؓ ابھی تمہارا  
 دل نہیں بھر امیں کہہ دیتی نہیں میں دیکھنا چاہتی تھی کہ حضورؐ کے ہاں میرا درجہ کتنا ہے؟  
 میں اتنی دیریوں کھڑی دیکھتی رہی کہ حضورؐ تھک گئے اور کبھی ایک پاؤں پر آرام کرتے اور  
 کبھی دوسرے پر۔ اتنے میں حضرت عمرؓ آگئے تو سارے لوگ اور بچے اوہر اوہر چلے گئے اس پر  
 حضورؐ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عمرؓ کے آنے پر انسانوں اور جنات کے شیطان سب بھاگ  
 گئے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں اللہ کی قسم! میں نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ میرے حجرے  
 کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور مسجد (کے صحن) میں حبشی لوگ نیزوں سے کھیل رہے  
 ہوتے اور آپ میرے لئے اپنی چادر سے پردہ کرتے تاکہ میں حضورؐ کے کان اور کندھے کے  
 درمیان سے ان کا کھیل دیکھ سکوں۔ پھر آپ میری وجہ سے کھڑے رہتے یہاں تک کہ میں  
 دیکھنا س کر تی آپ لوگ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ایک نو عمر کھیل کود کی شوقین لڑکی کے دیکھنے  
 کی مقدار کیا ہوگی۔ ۱

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ حضرت زینب بنت جحشؓ کے پاس تشریف لے  
 جاتے اور ان کے ہاں شہد پیا کرتے (اس پر مجھے رشک آیا) میں نے اور حضرت حصہؓ نے آپس  
 میں طے کیا کہ ہم دونوں میں سے جس کے پاس حضورؐ تشریف لائیں وہ حضورؐ سے یہ کہے کہ  
 مجھے آپ سے مغفیر کی بو آ رہی ہے آپ نے مغفیر کھائی ہے (مغفیر ایک بو دار گوند ہے یعنی آپ  
 نے جو شہد پیا ہے اس کی کبھی مغفیر کے درخت سے رس چوس لیا ہو گا اور بو دار چتر حضورؐ  
 فرشتوں کی وجہ سے استعمال نہیں فرماتے تھے) چنانچہ ہم دونوں میں سے ایک کے پاس حضورؐ  
 تشریف لائے اور اس نے یہ بات حضورؐ سے کہہ دی حضورؐ نے فرمایا نہیں میں نے مغفیر  
 نہیں کھائی البتہ میں نے زینب بنت جحشؓ کے ہاں شہد پیا ہے وہ بھی آئندہ کبھی نہیں پیوں گا پھر  
 یہ آیات نازل ہوئیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ لَئِنْ كَرِهْتَ لَتُؤْتِيَنَّكَ اللَّهُ فَكَدَّ صَفَتْ قُلُوبَهُمْ  
 تَمَّكَ إِنَّ الْقَائِلَ مِنْ حَضْرَتِ عَائِشَةَ، حَضْرَتِ حَصَّةَ كُوْ خَطَابِ هِيَ۔ اِنْ فِيْ هَذِهِ آيَةٌ يَحْسَبُهَا  
 أَمْرًا لِلنَّبِيِّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا اس آیت سے مراد یہی ہے جو حضورؐ نے فرمایا کہ میں نے

۱ اخرجه ابن عدی وابن عساکر کما فی المنتخب (ج ۴ ص ۳۹۳)

۲ عند الشیخین کما فی المشکوٰۃ (ص ۲۷۲)

مغافیر نہیں کھائی البتہ شہد پیا ہے۔ لراہیم بن موسیٰ ہشام سے نقل کرتے ہیں اس آیت سے مراد حضور کا یہ فرمان ہے کہ میں آئندہ ہرگز شہد نہیں پیوں گا میں نے قسم کھالی ہے (اے حصہ) تم یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ آیات کا ترجمہ ”اے نبی! جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ (قسم کھا کر) اس کو (اپنے اوپر) کیوں حرام فرماتے ہیں پھر وہ بھی اپنی بیویوں کی خوشنوی حاصل کرنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کھولنا (یعنی قسم توڑنے کے بعد اس کے کفارہ کا طریقہ) مقرر فرمادیا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارا کار ساز ہے اور وہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے اور جب کہ پیغمبر (ﷺ) نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چپکے سے فرمائی پھر جب اس بی بی نے وہ بات (دوسری بی بی کو) بتلا دی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس کی خبر کر دی تو پیغمبر نے (اس ظاہر کرنے والی بی بی کو) تھوڑی سی بات تو چتلا دی اور تھوڑی سی بات کو نال گئے سو جب پیغمبر نے اس بی بی کو وہ بات بتلائی وہ کہنے لگی آپ کو اس کی کس نے خبر کر دی؟ آپ نے فرمایا مجھ کو بڑے جاننے والے خبر رکھنے والے (یعنی خدا) نے خبر کر دی اے (پیغمبر کی) دونوں بیویو! اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں“ لہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کو حلو اور شہد پسند تھا جب عصر پڑھ کر آتے تو اپنی بیویوں کے ہاں جاتے اور پہلے کسی ایک کے پاس چلے جاتے چنانچہ ایک دن آپ ﷺ حصہ بنت عمرؓ کے ہاں گئے اور روزانہ جتنا ان کے ہاں ٹھہرتے تھے اس سے زیادہ ٹھہرے اس پر مجھے غیرت آئی میں نے اس کی وجہ معلوم کی تو کسی نے مجھے بتایا کہ حضرت حصہؓ کی قوم کی ایک عورت نے انہیں شہد کی ایک کچی ہدیہ میں دی تھی تو حضرت حصہؓ نے اس میں سے کچھ شہد حضور کو پلایا ہے (اس وجہ سے حضور کو وہاں دیر لگ گئی) میں نے کہا غور سے سنو! اللہ کی قسم! ہم حضور کے لئے ضرور کوئی تدبیر کریں گی (تاکہ حضور آئندہ حضرت حصہؓ کے ہاں زیادہ دیر نہ لگایا کریں) میں نے حضرت سودہ بنت زمعہؓ سے کہا کہ حضور ﷺ آپ کے یہاں آئیں گے حضور جب تشریف لائیں تو آپ ان سے کہیں کہ آپ نے مغافیر کھائی ہے وہ فرمائیں گے نہیں تو آپ ان سے کہیں تو یہ بولیں گی ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے؟ حضور فرمائیں گے مجھ حصہؓ نے شہد پلایا ہے تو آپ کہہ دینا کہ اس شہد کی مکھی نے عرفط درخت سے رس چوسا ہو گا (جس کی وجہ سے مغافیر والی بو شہد میں آگئی ہوگی) میں بھی حضور کو یہی بات کہوں گی اے صفیہ! تم بھی حضور کو یہی بات کہنا حضرت سودہؓ کہتی ہیں اللہ کی قسم! (اے عائشہؓ) تمہاری بات حتم ہوئی ہی تھی کہ اتنے میں حضور ﷺ میرے دروازے پر تشریف لے آئے تو تمہارے ڈر کی وجہ سے میں حضور کو تمہاری بات اونچی آواز سے وہیں دروازے پر ہی کہہ دینے لگی تھی لیکن میں نے خود کو

روکا جب حضورؐ میرے پاس پہنچ گئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ! کیا آپ نے مغفیر کھائی ہے؟ حضورؐ نے فرمایا نہیں میں نے کما تو پھر یہ ہو کیسی ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے؟ حضورؐ نے فرمایا حصہؓ نے مجھے شہد پلایا تھا میں نے کہا شاید اس شہد کی مکھی نے عرفط درخت کا رس چوسا ہوگا حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں جب حضورؐ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے بھی یہی کہا جب حضورؐ حضرت صفیہؓ کے ہاں گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا پھر حضورؐ جب حضرت حصہؓ کے ہاں گئے تو انہوں نے حضورؐ سے کہا یا رسول اللہ! کیا میں آپ کو اس شہد میں سے پلاؤں؟ حضورؐ نے فرمایا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سودہؓ نے کہا اللہ کی قسم! ہم نے حضورؐ کو شہد پینے سے روکا ہے میں نے ان سے کہا آپ خاموش رہیں۔

حضرت لبن عباسؓ فرماتے ہیں میرے دل میں بڑی آرزو تھی کہ میں حضرت عمرؓ سے حضورؐ کی ازواج مطہرات میں سے ان دو عورتوں کے بارے میں پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان تَوَّ بَا لَی اللہ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُمْ فرمایا ہے لیکن بہت عرصہ تک مجھے پوچھنے کا موقع نہ ملا آخر ایک مرتبہ حضرت عمرؓ پر تشریف لے گئے میں بھی ان کے ساتھ حج پر گیا ہم لوگ سفر کر رہے تھے کہ حضرت عمرؓ ضرورت سے راستے سے ایک طرف کوچلے گئے میں بھی پانی کا برتن لے کر ان کے ساتھ ہو لیا آپ ضرورت سے فارغ ہو کر میرے پاس واپس تشریف لائے میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا آپ نے وضو کیا میں نے کہا اے امیر المؤمنین! نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات میں سے وہ دو عورتیں کون ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان تَوَّ بَا لَی اللہ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُمْ فرمایا ہے؟ حضرت عمرؓ نے کہا اے لبن عباس! تم پر تعجب ہے (کہ علم میں اتنے مشہور ہو اور پھر تمہیں معلوم نہیں کہ یہ عورتیں کون ہیں) حضرت زہریؒ کہتے ہیں حضرت عمرؓ کو اس سوال پر تعجب تو ہوا لیکن پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کچھ نہیں چھپایا اور فرمایا وہ دونوں حصہؓ اور عائشہؓ ہیں پھر تفصیل سے سارا قصہ سنانے لگے اور فرمایا ہم قریش قبیلہ والے عورتوں پر غالب تھے جب ہم مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہاں کہ مردوں پر عورتیں غالب ہیں تو ہماری عورتیں ان کی عورتوں سے سیکھنے لگیں میرا گھر عوالی میں قبیلہ ہوامیہ بن زید میں تھا۔ میں ایک اپنی بیوی پر ذرا ناراض ہوا تو آگے سے جواب دینے لگی میں اس کے یوں جواب دینے سے برآخیر ان ہوا میرے لئے بالکل نئی بات تھی وہ کہنے لگی آپ میرے جواب دینے سے کیوں حیران ہو رہے ہیں وہ تو اللہ کی قسم! حضورؐ کی ازواج مطہرات بھی آپ کو جواب دے دیتی ہیں بلکہ بعض تو ناراض ہو کر حضورؐ کو سارا دن رات تک چھوڑے رکھتی ہیں میں یہ سن کر گھر سے چلا اور حصہؓ کے پاس گیا اور

۱ عندا لیخاری ایضا واخرجه مسلم کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۴ ص ۳۸۷) وابو داؤد

کما فی جمع الفوائد (ج ۱ ص ۲۲۹) وابن سعد (ج ۸ ص ۸۵)

میں نے کہا کیا تم رسول اللہ ﷺ کو جواب دیتی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا تم میں سے جو بھی ایسا کرے گی وہ تو اپنے ان نقصان کرے گی اور اگر اللہ کے رسول کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے تو پھر تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے گی اس لئے آئندہ کبھی حضور کو آگے سے جواب نہ دینا اور ان سے کچھ نہ مانگنا اور مجھ سے جو چاہے مانگ لینا اور تم اپنی پڑوسن یعنی حضرت عائشہؓ سے دھوکہ نہ کھاؤ (کہ وہ حضور کو آگے سے جواب دے دیتی ہے اور حضور سے ناراض ہو جاتی ہے وہ ایسا کر سکتی ہے) کیونکہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور حضور کو اس سے تم سے زیادہ محبت ہے (تم ایسا نہ کرو) حضرت عمرؓ نے فرمایا میرا ایک انصاری پڑوسی تھا ہم دونوں باری باری حضور ﷺ کی خدمت میں جایا کرتے تھے، ایک دن وہ جاتا اور سارے دن میں جو جو وحی نازل ہوتی یا اور کوئی بات پیش آتی وہ شام کو آکر مجھے بتا دیتا اور ایک دن میں جاتا اور شام کو واپس آکر سب کچھ اسے بتا دیتا ان دنوں ہمارے ہاں اس کا بہت چرچا تھا کہ قبیلہ غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لئے تیار کر رہا ہے چنانچہ ایک دن میرا یہ پڑوسی حضور کی خدمت میں گیا اور عشاء میں میرے پاس واپس آیا اس نے میرا روزانہ کھنکھٹایا اور مجھے آواز دی میں باہر آیا اس نے کہا ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا غسان نے چڑھائی کر دی ہے؟ اس نے کہا نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا اور زیادہ پریشان کن حادثہ پیش آیا ہے۔ حضور ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے میں نے کہا حصہ تو نامراد ہو گئی اور گھائے میں پڑ گئی اور مجھے تو پہلے ہی خطرہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ صبح کی نماز پڑھ کر میں نے کپڑے پہنے اور مدینہ گیا وہاں سیدہ حانہؓ کے ہاں گیا وہ رورہی تھیں میں نے پوچھا کیا حضور نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ اس نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں ہے البتہ حضور ہم سے الگ ہو کر اس بالا خانہ میں تشریف فرما ہیں پھر میں آپ کے سیاہ غلام کے پاس آیا اور اس سے کہا عمر کو اندر آنے کی اجازت لے دو۔ وہ غلام اندر گیا اور باہر آیا پھر اس نے کہا میں نے حضور سے آپ کا ذکر کیا لیکن وہ خاموش رہے پھر میں (مسجد) چلا گیا جب میں منبر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ رورہے ہیں میں کچھ دیر بیٹھا رہا پھر جب میری بے چینی بڑھی تو میں نے جا کر پھر اس غلام سے کہا عمر کو اجازت لے دو وہ غلام اندر گیا پھر اس نے باہر آکر کہا میں نے حضور سے آپ کا ذکر کیا لیکن حضور خاموش رہے۔ میں لوٹنے لگا تو غلام نے مجھے بلایا اور کہا آپ اندر چلے جائیں حضور نے اجازت دے دی ہے میں نے اندر جا کر حضور ﷺ کو سلام کیا آپ ایک خالی بورے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور بورے کے نشانات آپ کے جسم اطہر پر ابھرے ہوئے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ میں نے (خوشی کی وجہ سے) کہا اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ! آپ نے ہمیں دیکھا ہو گا کہ ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر غالب تھے جب

ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی عورتیں غالب تھیں تو ہماری عورتیں ان کی عورتوں سے سیکھنے لگیں ایک دن میں اپنی بیوی پر ناراض ہو اتو وہ آگے سے مجھے جواب دینے لگی میں اس کے جواب دینے پر بواجیر ان ہو اس نے کہا آپ میرے جواب دینے پر کیا حیران ہو رہے ہیں حضور ﷺ کی ازواج مطہرات حضورؐ کو جواب دیتی ہیں بلکہ سارا دن رات تک حضورؐ کو چھوڑے رکھتی ہیں میں نے کہا ان میں سے جو بھی ایسا کرے گی وہ نامراد ہوگی اور گھائے میں رہے گی اگر اللہ کے رسول کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے تو وہ تو ہلاک و برباد ہو جائے گی اس پر حضورؐ مسکرانے لگے میں نے کہا یا رسول اللہ! پھر میں حصہ کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا تم اپنی بیویوں (حضرت عائشہؓ) سے دو سو کہ نہ کھانا وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور حضورؐ کو اس سے تم سے زیادہ محبت ہے۔ حضورؐ دوبارہ مسکرائے میں نے کہا یا رسول اللہ! جی لگانے کی لوریات کروں؟ آپ نے فرمایا کرو پھر میں بیٹھ گیا اور سر اٹھا کر حضورؐ کے گھر پر نظر ڈالی تو اللہ کی قسم! مجھے صرف تین کھالیں بغیر رنگی ہوئی نظر آئیں میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعت فرمادے اللہ تعالیٰ نے روم اور فارس پر وسعت کر رکھی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں اس پر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اے لمن خطاب! کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ ان لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا گیا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! میرے لئے استغفار فرمادیں چونکہ حضورؐ کو اپنی ازواج مطہرات پر زیادہ غصہ آگیا تھا اس وجہ سے آپ نے قسم کھالی تھی کہ ایک مہینہ تک ان کے پاس نہیں جائیں گے آخر اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو متنبہ فرمایا۔

حضرت لمن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے مجھے بتایا کہ جب نبی کریم ﷺ نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار فرمائی تو میں مسجد میں گیا اور دیکھا کہ صحابہ سوچ میں پڑے ہیں اور کنگریاں الٹ پلٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضورؐ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے اور یہ واقعہ پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے میں نے دل میں کہا میں اس طلاق والی بات کا پتہ ضرور چلاؤں گا (کہ حضورؐ نے دی ہے یا نہیں) پھر حضرت عمرؓ نے حضرت عائشہؓ اور حضرت حصہؓ کے پاس جا کر انہیں نصیحت کرنے کی تفصیل بتائی پھر فرمایا میں حضورؐ کی خدمت میں گیا تو آپ کے غلام حضرت رباحؓ بالاخانہ کی دہلیز پر موجود تھے میں نے آواز دے کر کہا اے رباح! مجھے حضورؐ سے اندر آنے کی اجازت لے دو پھر آگے کھینچلی حدیث جیسا مضمون ذکر فرمایا پھر فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! عورتوں کا معاملہ آپ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اگر آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو کوئی فکر اور پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ کے فرشتے، حضرت

جبرائیل، حضرت میکائیل میں، حضرت ابو بکر اور سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں اور میں اس بات پر اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ جب بھی میں کوئی بات کہا کرتا تھا تو مجھے امید ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری بات کی تصدیق فرمائیں گے چنانچہ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی **عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَنَّكَ أَن يُدْلِكَ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ وَأَنَّ رَبَّكَ يَتَّظَاهَرُ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا** (سورت تحریم آیت ۵، ۴) ترجمہ ”اگر پیغمبر تم عورتوں کو طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں دے دے گا اور اگر (اسی طرح) پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کا رویاں کرتی رہیں تو یاد رکھو کہ پیغمبر کا رفیق اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے (آپ کے) مددگار ہیں۔“ میں نے پوچھا کیا آپ نے انہیں طلاق دے دی ہے حضورؐ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے اونچی آواز میں اعلان کیا کہ حضورؐ نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی **وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ إِذَا عَوْبَهُمْ وَلَوْ زَدُّوا إِلَيَّ الرَّسُولَ وَاللَّيْ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ** (سورت نساء آیت ۸۳) ترجمہ ”اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے خواہ امن ہو یا خوف تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں اور اگر یہ لوگ اس کے رسول کے اور جوان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے اوپر حوالہ رکھتے تو اس کو وہ حضرت تو پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔“ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں اس طلاق کے بارے میں میں نے ہی تحقیق کی تھی۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ حضورؐ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو بکرؓ آئے اور انہوں نے اندر جانے کی اجازت مانگی لیکن انہیں اجازت نہ ملی پھر حضرت عمرؓ نے آکر اجازت مانگی تو انہیں بھی نہ ملی لیکن تھوڑی دیر کے بعد دونوں حضرات کو اجازت مل گئی دونوں حضرات اندر گئے تو حضورؐ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ارد گرد آپ کی ازواج منظر ات بیٹھی ہوئی تھیں حضورؐ بالکل خاموش تھے حضرت عمرؓ نے اپنے دل میں کہا کہ میں ضرور ایسی بات کروں گا جس سے حضورؐ کو ہنسی آجائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! اگر آپ دیکھتے کہ میری بیوی بنت زید نے ابھی مجھ سے خرچہ مانگا تھا تو میں نے اس کی گردن پر مارا تھا یہ سن کر حضورؐ ہنس پڑے اور اتنے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر حضورؐ نے فرمایا یہ بھی میرے چاروں طرف بیٹھی

۱ عند مسلم ایضا کذا فی التفسیر لا بن کثیر (ج ۴ ص ۳۸۹) وخرجه الحدیث ایضا عبدالرزاق وابن سعد وابن حبان والبیہقی وابن حریر وابن المنذر وابن مردویہ وغیرہم کما فی الكنز (ج ۱ ص ۲۶۹)

ہوئی مجھ سے خرچہ مانگ رہی ہیں یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ حضرت عائشہؓ کو مارنے کے لئے ان کی طرف اٹھے اور حضرت عمرؓ حضرت حصہؓ کی طرف اٹھے دونوں کہہ رہے تھے تم دونوں حضورؐ سے وہ کچھ مانگتی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے حضورؐ نے ان دونوں حضرات کو مارنے سے روک دیا تو آپؐ کی ازواج مطہرات کہنے لگیں اللہ کی قسم! اس مجلس کے بعد ہم کبھی حضورؐ سے ایسی چیزیں نہیں مانگیں گی جو حضورؐ کے پاس نہ ہو پھر اللہ نے اختیار دینے والی آیت نازل فرمائی جس میں ازواج مطہرات کو حضورؐ کے پاس

رہنے نہ رہنے میں اللہ نے اختیار دیا ہے حضور سب سے پہلے حضرت عائشہؓ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا میں تمہارے سامنے ایک بات رکھوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں جلد بازی سے کام نہ لینا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرنا حضرت عائشہؓ نے پوچھا وہ بات کیا ہے حضورؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَّا زَوَاجِكُمْ (سورت احزاب آیت ۲۸، ۲۹) ترجمہ ”اے نبی! آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ تم اگر دنیوی زندگی (کامیابی) اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ مال و متاع (دنیوی) دے دوں اور تم کو خوبی کے ساتھ رخصت کروں اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو اور عالم آخرت کو تو تم میں نیک کرداروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔“ حضرت عائشہؓ نے کہا کیا میں آپ کے بارے میں والدین سے مشورہ کروں؟ ہرگز نہیں بلکہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی اختیار کروں گی اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کو نہ بتائیں کہ میں نے کیا اختیار کیا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ سکھانے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تمہارے اختیار کے بارے میں جو عورت بھی پوچھے گی میں اسے بتا دوں گا۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ جب اختیار والی آیت نازل ہوئی تو حضورؐ نے اپنی بیویوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا اور فرمایا میں تمہارے سامنے ایک بات رکھوں گا تم اس میں جلدی فیصلہ نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنا حضورؐ جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے حضورؐ کے چھوڑنے کا ہرگز مشورہ نہیں دیں گے پھر حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَّا زَوَاجِكُمْ (دو آیتیں) میں نے کہا کیا میں اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ ہرگز نہیں۔ میں تو اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں پھر حضورؐ نے اپنی تمام بیویوں کو اختیار دیا لیکن سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہؓ نے دیا تھا۔ ۱۱



حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے ہم ازدواج مطہرات کو (اپنے پاس رہنے نہ رہنے میں) اختیار دیا تھا اور ہم نے آپ کے پاس رہنے کو ہی اختیار کیا تھا اور حضور نے اسے ہم پر کوئی طلاق وغیرہ شمار نہ کیا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو (اگرچہ تم دونوں حالتیں مجھ سے چھپاتی ہو لیکن) مجھے پتہ چل جاتا ہے میں نے کہا آپ کو اس کا کسے پتہ چلتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہو تو کہتی ہو نہیں۔ مجھ کے رب کی قسم! اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں اور اہیم کے رب کی قسم! میں نے کہا جی ہاں! اللہ کی قسم یا رسول اللہ! میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ کی محبت میں کمی نہیں ہوتی۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھی میں نے دوڑ میں حضور ﷺ سے مقابلہ کیا تو میں حضور سے آگے نکل گئی اور یہ مقابلہ پیدل دوڑنے میں ہوا تھا پھر جب میرا جسم بھاری ہو گیا تو پھر میں نے آپ سے دوڑ میں مقابلہ کیا لیکن اس مرتبہ حضور مجھ سے آگے نکل گئے اور آپ نے فرمایا میری یہ جیت تمہاری اس جیت کے بدلہ میں ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت میمونہؓ (خالہ جان) کا مہمان بنا اور اس رات حضرت میمونہ نے (حیض کی وجہ سے) نماز نہیں پڑھی تھی۔ لیٹتے وقت ایک چادر لائیں پھر دوسری چادر لائیں جسے بستر کے سرہانے رکھ دیا پھر انہوں نے لیٹ کر اپنے اوپر چادر ڈال لی اور اپنے پہلو میں میرے لئے بھی ایک بستر بچھا دیا اور میں ان کے پاس ان کے تکیہ پر سر رکھ کر لیٹ گیا پھر حضور ﷺ تشریف لائے آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے بستر کے پاس آکر سرہانے سے وہ چادر اٹھائی اور اسے لنگی کے طور پر باندھا اور اپنے دونوں کپڑے اترا کر ٹانگ دیئے پھر حضرت میمونہ کے ساتھ ان کی چادر میں لیٹ گئے۔ آخر رات میں آپ کھڑے ہو کر ایک لنگے ہوئے مشکیزہ کی طرف گئے آپ نے اسے کھولا اور اس سے وضو کرنے لگے میرا ارادہ ہوا کہ میں کھڑے ہو کر پانی ڈالوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس طرح حضور کو پتہ چل جائے گا کہ میں جاگ رہا ہوں اور شاید یہ آپ کو اچھا نہ لگے۔ پھر آپ بستر کے پاس آئے اور لنگی اتار کر دونوں کپڑے پہن لئے پھر نماز پڑھنے کی جگہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے پھر میں بھی اٹھا اور وضو کر کے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا آپ نے پیچھے سے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا آپ نے تیرہ رکعتیں پڑھیں میں نے بھی آپ کے ساتھ تیرہ رکعتیں پڑھیں پھر آپ بیٹھ گئے میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا

پھر آپؐ کو اونگھ آگئی جس کی وجہ سے آپؐ کا خیار مبارک میرے رخسار کے قریب آگیا اور مجھے آپؐ کی سانس کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے کہ سونے والے کی ہوتی ہے پھر حضرت بلالؓ نے آکر کہا نماز یا رسول اللہ! حضورؐ کھڑے ہو کر مسجد تشریف لے گئے وہاں آپؐ نے دو رکعت نماز پڑھی حضرت بلالؓ نے نماز کے لئے اقامت کہی۔ لہ

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک بڑھیا حضورؐ کی خدمت میں آئی حضورؐ نے اس سے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا جاثمہ مزنیہ حضورؐ نے فرمایا تمہیں آج سے تمہارا نام جاثمہ مزنیہ ہے تم کیسی ہو؟ تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے بعد تم لوگ کیسے رہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! خیریت ہے میرے ماں باپ آپؐ پر قربان ہوں جب وہ باہر چلی گئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ! آپؐ نے اس بڑھیا پر بڑی توجہ فرمائی؟ حضورؐ نے فرمایا اے عائشہ! یہ خدیجہؓ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی اور پرانے تعلقات کی رعایت کرنا ایمان میں سے ہے لہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک بڑھیا حضورؐ کے پاس آیا کرتی تھی حضورؐ اس کے آنے سے بہت خوش ہوتے تھے اور اس کا اکرام فرماتے تھے میں نے کہا میرے ماں باپ آپؐ پر قربان ہوں آپؐ اس بڑھیا کا جتنا خیال فرماتے ہیں اتنا کسی اور کا نہیں فرماتے۔ حضورؐ نے فرمایا یہ حضرت خدیجہؓ کے پاس آیا کرتی تھی اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تعلق اور محبت والے کا اکرام کرنا ایمان میں سے ہے؟ لہ

حضرت ابو الطفیلؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضورؐ جعرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے میں اس وقت نو عمر لڑکا تھا اور لونٹ کا ایک عضو اٹھا سکتا تھا کہ اتنے میں ایک عورت حضورؐ کے پاس آئی حضورؐ نے اس کے لئے اپنی چادر بچھائی میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضورؐ نے بتایا یہ ان کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپؐ کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ لہ

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں حضورؐ کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا حبشی لڑکا حضورؐ کی کمر دبا رہا ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا آپؐ کو کوئی تکلیف ہے؟ حضورؐ نے فرمایا لو مثنیٰ نے آن جرات مجھے گرا دیا تھا۔ لہ

حضرت قاسم بن عبد الرحمنؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ حضورؐ کو جوتی پہنایا کرتے تھے پھر لاٹھی لے کر حضورؐ کے آگے چلتے جب حضورؐ اپنی مجلس میں پہنچ جاتے تو وہ حضورؐ کی دونوں جوتیاں اتار کر اپنے بازوؤں میں ڈال لیتے اور حضورؐ کو لاٹھی دے دیتے پھر

۱ اخراجه ابن النجار كذا في الكنز (ج ۵ ص ۱۱۹)

۲ اخراجه البيهقي وابن النجار ۳ عند البيهقي ايضا كذا في الكنز (ج ۷ ص ۱۱۵)

۴ اخراجه البخاري في الادب (ص ۱۸۸) ۵ اخراجه الطبراني والبيهقي وابن السنني وابو نعيم

وسعيد بن منصور كذا في الكنز (ج ۴ ص ۴۴)

آپؐ مجلس سے اٹھنے لگتے تو حضرت عبداللہؓ حضورؐ کو جوتی پہناتے پھر لاٹھی لے کر حضورؐ کے آگے چلتے یہاں تک کہ وہ حضورؐ سے پہلے حجرے میں داخل ہوتے۔<sup>۱</sup>  
حضرت ابو بلیحؓ کہتے ہیں کہ جب حضور ﷺ غسل فرماتے تو حضرت عبداللہؓ آپؐ کے لئے پردہ کرتے اور جب آپؐ سو جاتے تو حضرت عبداللہؓ آپؐ کو اٹھاتے اور آپؐ کے ساتھ اکیلے چلتے۔<sup>۲</sup>

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے اس وقت میری عمر دس سال تھی اور جب حضورؐ کا انتقال ہوا اس وقت میری عمر بیس سال تھی اور میری والدہ اور خالائیں وغیرہ مجھے حضورؐ کی خدمت کی ترغیب دیا کرتی تھیں۔<sup>۳</sup>  
حضرت ثمامہؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت انسؓ سے کہا کیا آپؐ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ حضرت انسؓ نے فرمایا تیری ماں نہ رہے! میں غزوہ بدر سے کہاں غائب رہ سکتا تھا۔ حضرت محمد بن عبداللہ انصاریؓ کہتے ہیں کہ جب حضور ﷺ بدر تشریف لے گئے تو حضرت انس بن مالکؓ بھی حضورؐ کے ساتھ گئے اس وقت وہ نو عمر لڑکے تھے اور حضورؐ کی خدمت کیا کرتے تھے۔<sup>۴</sup>

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ بیس انصاری نوجوان مختلف ضرورتوں کیلئے ہر وقت حضور ﷺ کے ساتھ رہا کرتے تھے جب آپؐ کو کوئی کام پیش آتا تو اس کے لئے انہیں بھیج دیتے۔<sup>۵</sup>  
حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں کہ چار مایا بیچ صحابی نبی کریم ﷺ سے یا حضورؐ کے دروازے سے کبھی جدا نہ ہوتے تھے بلکہ ہر وقت پڑے رہتے تھے۔<sup>۶</sup>

حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ باری باری حضور ﷺ کی خدمت میں رہا کرتے تھے کہ آپؐ کو کوئی ضرورت ہوگی یا آپؐ کسی کام کے لئے ہمیں بھیج دیں گے۔ اس طرح آخرت کے ثواب کی امید میں باری باری خدمت کرنے والے بہت ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن حضورؐ ہمارے پاس باہر تشریف لائے اس وقت ہم لوگ آپس میں رجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپؐ نے فرمایا یہ کیا سرگوشی ہو رہی ہے؟ کیا میں نے تمہیں سرگوشی کرنے سے منع نہیں کیا ہے؟<sup>۷</sup>

حضرت عاصم بن سفیانؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو درداءؓ یا حضرت ابو ذرؓ کو یہ

۱ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۵۳) ۲ عند ابن سعد ایضا

۳ اخراجہ ابن ابی شیبہ ابو نعیم ۴ عند ابن سعد وابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص

۱۶۱) ۵ اخراجہ البزار وفيه من لم اعرفهم قاله الهيثمي (ج ۹ ص ۲۲)

۶ عند البزار ايضاً وفيه موسى بن عبيدة الترمذی وهو ضعيف كما قال الهيثمي

۷ عند البزار ايضاً ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف كما قال الهيثمي

فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور ﷺ سے اس بات کی اجازت مانگی کہ میں آپ کے دروازے پر رات گزاروں تاکہ آپ کو رات میں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ مجھے اٹھالیں حضور نے اجازت دے دی اور میں نے وہ رات وہاں گزار لی۔

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے مہینہ میں حضور ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی پھر آپ کھڑے ہو کر نہانے لگے تو میں نے آپ کے لئے پردہ کیا (غسل کے بعد) برتن میں کچھ پانی مچ گیا حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس سے غسل کر لو اور چاہو تو اسی میں اور پانی ملا لو میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ کا چاہا ہوا یہ پانی مجھے اور پانی سے زیادہ محبوب ہے چنانچہ میں نے اسی سے غسل کیا اور حضور میرے لئے پردہ کرنے لگے تو میں نے کہا آپ میرے لئے پردہ نہ کریں حضور نے فرمایا نہیں۔ جس طرح تم نے میرے لئے پردہ کیا اسی طرح میں بھی تمہارے لئے ضرور پردہ کروں گا۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے زیادہ بچوں پر شفقت اور مہربان کوئی نہیں دیکھا مدینہ کی عوالیستیوں میں (آپ کے صاحبزادے) حضرت ابراہیمؓ کے لئے دودھ پینے کا انتظام ہوا تھا حضور وہاں تشریف لے جاتے ہم آپ کے ساتھ ہوتے آپ گھر کے اندر تشریف لے جاتے حالانکہ اندر دھواں ہوتا تھا کیونکہ دودھ پلانے والی عورت کے خاوند لوہار تھے آپ حضرت ابراہیمؓ کو لے کر چوتے اور پھر واپس کر دیتے جب حضرت ابراہیمؓ کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا ابراہیمؓ میرا بیٹا ہے دودھ پینے کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا ہے اس کے لئے دودھ پلانے والی دو حوریں مقرر ہوئی ہیں جو جنت میں اس کے دودھ پینے کی باقی مدت پوری کریں گے۔

حضرت عبد اللہ بن حارثؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ حضرت عبد اللہ، حضرت عبید اللہ اور کثیر بن عباسؓ کو ایک صف میں کھڑا کرتے اور فرماتے تم میں سے جو پہلے میرے پاس آئے گا اسے یہ انعام ملے گا تو وہ سارے حضور کے پاس پہلے پہنچنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اور اگر آپ کی کمر اور سینے پر گرتے حضور انہیں چوتے اور اپنے سے چمٹا لیتے۔

حضرت عبد اللہ بن جعفرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کے خاندان کے بچے آپ کے استقبال کے لئے مدینہ سے باہر جاتے چنانچہ ایک

۱ عند البزار ایضا ورجاله ثقات كما قال الهیثمی (ج ۹ ص ۲۲)

۲ اخرجه ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۶۴)

۳ اخرجه مسلم (ج ۲ ص ۲۵۴) واخرجه احمد کما فی البدایة (ج ۶ ص ۴۵)

۴ اخرجه احمد قال الهیثمی (ج ۹ ص ۱۷) رواه احمد و اسنادہ حسن

مرتبہ آپؐ ایک سفر سے واپس تشریف لائے تو مجھے گھر والے پہلے باہر لے گئے تو آپؐ نے مجھے اپنے آگے بٹھالیا پھر لوگ حضرت فاطمہؓ کے دو بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسینؓ میں سے ایک کو لائے انہیں حضورؐ نے اپنے پیچھے بٹھالیا تو اس طرح ہم تین آدمی ایک سواری پر سوار مدینہ میں داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفرؓ فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اتنے میں حضور ﷺ میرے پاس سے سواری پر گزرے آپؐ نے مجھے اور حضرت عباسؓ کے ایک نو عمر بیٹے کو سواری پر بٹھالیا اس طرح ہم سواری پر تین آدمی ہو گئے۔ ۱

حضرت عبداللہ بن جعفرؓ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ دیکھنے کے قابل تھا کہ میں، حضرت عبید اللہ بن عباس اور حضرت قثم بن عباس رضی اللہ عنہم سچے تھے اور ہم لوگ کھیل رہے تھے کہ اتنے میں حضور ﷺ سواری پر ہمارے پاس سے گزرے آپؐ نے فرمایا (اے لوگو!) یہ بچہ اٹھا کر مجھے دے دو چنانچہ حضورؐ نے مجھے اپنے آگے بٹھالیا پھر فرمایا (قثم) کو بھی اٹھا کر مجھے دے دو (لوگوں نے اٹھا کر دیا) اور انہیں اپنے پیچھے بٹھالیا حضرت عباسؓ کو حضرت عبید اللہؓ سے محبت حضرت قثمؓ سے زیادہ تھی آپؐ نے حضرت عبید اللہؓ کو رہنے دیا اور حضرت قثمؓ کو اٹھالیا تو اس میں اپنے چچا کی زیادہ محبت کا خیال نہ کیا اور ان سے کوئی شرم محسوس نہ کی پھر آپؐ نے میرے سر پر تین مرتبہ ہاتھ پھیرا جب بھی آپؐ سر پر ہاتھ پھیرتے تو فرماتے اے اللہ! تو جعفر کی اولاد میں جعفر کا خلیفہ بن جا (یعنی وہ تو شہید ہو کر دنیا سے جا چکے اب تو ہی ان کے بچوں کو سنبھال لے) ۲

حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت حسینؓ کو حضور ﷺ کے کندھوں پر دیکھا تو میں نے کہا تم دونوں بچوں کے نیچے کتنا عمدہ گھوڑا ہے حضورؐ نے فرمایا یہ دونوں گھوڑے سوار بھی تو کتنے عمدہ ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور ﷺ حضرت حسنؓ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے تو ایک آدمی نے کہا اے میاں! تم بڑی عمدہ سواری پر سوار ہو حضورؐ نے فرمایا یہ سوار بھی تو بہت عمدہ ہے۔ ۳

حضرت ابراہیم بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسینؓ دونوں یا دونوں میں سے ایک آئے اور اگر حضورؐ (سجدے

۱ اخراجہ ابن عساکر ۲ عند ابن عساکر ایضاً

۳ عند ابن عساکر ایضاً کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۲۲)

۴ اخراجہ ابو یعلیٰ کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۱۰۶) والمجمع (ج ۹ ص ۱۸۲) ورجالہ رجال الصحیح کما فی المجمع وقال ورواہ البزار باسناد ضعیف واخراجہ ابن شاہین کما فی الکنز

۵ عند ابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۱۰۴)

میں تھے وہ حضورؐ کی پشت پر سوار ہوئے حضورؐ نے جب (سجدہ سے) سر اٹھایا تو انہیں ہاتھ سے تھامے رکھا اور (نماز کے بعد) فرمایا تمہاری سواری کبھی عمدہ ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت جلدؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضورؐ اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر چل رہے ہیں اور حضرت حسن اور حضرت حسینؑ آپ کی گمر پر بیٹھے ہوئے تھے اور فرماتا ہے میں تم دونوں کا لونٹ بڑا عمدہ ہے اور تم دونوں بہت اچھا بوجھ ہو۔<sup>۲</sup>

حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور ﷺ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ام ایمنؓ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ! حسن اور حسینؑ گم ہو گئے ہیں اس وقت دن چڑھ چکا تھا حضورؐ نے صحابہؓ سے فرمایا اٹھو اور میرے دونوں پیٹوں کو تلاش کرو چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضورؐ کا راستہ لے کر چل پڑا حضورؐ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ دونوں ایک دوسرے سے چمپے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا ہے جس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں (عنا لبا اللہ نے ناگ بھجایا تاکہ چوں کو آگے جانے سے روکے) حضورؐ جلدی سے اس ناگ کی طرف بڑھے اس ناگ نے حضورؐ کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سوراخ میں داخل ہو گیا پھر حضورؓ دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہوں تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل اکرام ہو پھر ایک کو دائیں کندھے پر اور دوسرے کو بائیں کندھے پر بٹھالیا میں نے کہا تم دونوں کو خوشخبری ہو کہ تمہاری سواری بہت ہی عمدہ ہے حضورؐ نے فرمایا یہ دونوں بہت عمدہ سوار ہیں اور ان کے والد ان دونوں سے بہتر ہیں۔<sup>۳</sup>

حضرت جلدؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ تھے ہمیں کسی نے کھانے کے لئے بلایا (ہم حضورؐ کے ساتھ کھانے کے لئے چلے تو راستہ میں حضرت حسینؓ ملے جو چوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حضورؐ جلدی سے لوگوں سے آگے بڑھے اور انہیں پکڑنے کے لئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا حضرت حسینؓ اوہ اوہ بھاگنے لگے۔ حضورؓ اور حضرت حسینؓ آپس میں ہنسنے لگے آخر حضورؐ نے انہیں پکڑ لیا اور ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پر اور دوسرا ان کے سر اور کانوں کے درمیان رکھا اور اپنے سے چمٹا کر ان کا بوسہ لیا پھر فرمایا حسینؓ مجھ سے ہے اور

۱ عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۸۲) و اسنادہ حسن

۲ عند الطبرانی ایضا قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۸۲) و فیہ مسروح ابو شہاب و هو ضعیف اہ

۳ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۸۲) و فیہ احمد بن راشد الہلالی و هو ضعیف اہ

واخرجه الطبرانی عن یعلی بن مرة مثله كما فی الكنز (ج ۷ ص ۱۰۷)

میں حسینؓ سے ہوں۔ جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے حسنؓ اور حسینؓ دونوں  
نواسوں میں سے ہیں۔<sup>۱</sup>

## نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی معاشرت

حضرت ابو اسحاق سمیعیؓ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی میلی  
پہلی پرانے کپڑوں میں حضور ﷺ کی ازواج مطہرات کے پاس آئیں انہوں نے پوچھا تمہیں کیا  
ہوا ہے؟ جو تم نے ایسی شکل و صورت بنا رکھی ہے ان کی بیوی نے کہا حضرت عثمانؓ رات بھر  
عبادت کرتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ کسی نے یہ بات حضورؐ کو بتائی جب حضورؐ کی  
حضرت عثمان بن مظعونؓ سے ملاقات ہوئی تو آپ ان پر ناراض ہوئے اور فرمایا کیا تم میرے  
نمونہ پر نہیں چلتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے اس کے بعد  
ان کی بیوی اچھی شکل و صورت میں عمدہ خوشبو لگا کر آئیں اور جب حضرت عثمانؓ کا انتقال ہوا  
تو انہوں نے یہ اشعار کہے۔

یا عین جودی بد مع غیر ممنون  
علی رزقہ عثمان بن مظعون  
اے آنکھ! عثمان بن مظعون کی (وفات کی) مصیبت پر ایسے آنسو بہا جو کبھی نہ رکھیں۔

علی امری بات فی رضوان خالقه  
طوبی له من فقیہ الشخص مدفون  
ایسے شخص پر آنسو بہا جو اپنے خالق کو راضی کرنے میں ساری رات گزار دیتا تھا یہ دفن  
ہو کر گم ہو گئے ہیں۔ ان کے لئے جنت کا طوبی درخت ہے۔

طاب البقیع له سکنی و غرقده  
واشرقت ارضه من بعد تقنین  
بقیع اور اس کے غرق درختوں میں اس کا ٹھکانہ بہت ہی عمدہ بنا ہے اور بقیع کی زمین  
کفار کے دفن ہونے کی وجہ سے فتنہ والی تھی اب حضرت عثمانؓ کے دفن ہونے سے وہ  
روشن ہو گئی۔

واورث القلب حزناً لا انقطاع له  
حتى الممات فما ترقی له شونی  
اور ان کی موت سے دل میں ایسا غم پیدا ہوا ہے جو موت تک ختم نہیں ہو گا اور ان کے  
لئے آنسوؤں کی رگیں کبھی خشک نہ ہوں گی۔ حضرت عروہ کی روایت میں حضرت عثمانؓ کی  
بیوی کا نام خولہ بنت حکیمؓ بتایا گیا ہے اور یہ کہ وہ حضرت عائشہؓ کے پاس گئی تھیں اور ان کی  
روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اے عثمان! رہبانیت کو ہمارے لئے قابل اجر

۱۔ اخروجه الطبرانی کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۱۰۷) ۲۔ اخروجه ابو نعیم فی الحلیة  
(ج ۱ ص ۱۰۶) و اخروجه ابن سعد (ج ۳ ص ۳۹۴) عن ابی بردة رضی اللہ عنہ بمعناه  
وعبدالرزاق عن عروہ بنحوہ کما فی الكنز (ج ۸ ص ۳۰۵) الا انہما یدکر الا شعاع

عبادت نہیں بنایا گیا کیا میں تمہارے لئے اچھا نمونہ نہیں ہوں؟ اللہ کی قسم! تم لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اس کی حدود کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا میں ہوں حضرت عبد اللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے قریش کی ایک عورت سے میری شادی کی جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کی کوئی پروا نہ کی کیونکہ مجھے نماز روزے عبادت کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ (میرے والد) حضرت عمرو بن عاصؓ اپنی بہو (یعنی میری بیوی) کے پاس گئے اور اس سے پوچھا تم نے اپنے خاوند کو کیسا پایا؟ اس نے کہا وہ اچھے آدمی ہیں یا کہا اچھے خاوند ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے ہمارے کسی پہلو کو کھول کر دیکھا ہی نہیں اور ہمارے بستر کے قریب ہی نہیں آئے۔ حضرت عمروؓ میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے خوب برا بھلا کہا اور کہا کہ میں نے قریش کی خاندانی عورت سے تیری شادی کی اور تو نے اسے بیچ میں لٹکار کھا ہے (تو اس کے پاس جاتا ہی نہیں) پھر انہوں نے جا کر حضور ﷺ سے میری شکایت کر دی حضورؐ نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا میں حضورؐ کی خدمت میں گیا۔ حضورؐ نے فرمایا کیا تم دن بھر روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضورؐ نے فرمایا کیا تم رات بھر عبادت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضورؐ نے فرمایا لیکن میں تو کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی افطار کرتا ہوں اور رات کو کبھی نماز پڑھتا ہوں اور کبھی سوتا ہوں اور بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں (یہ میری سنت ہے) اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں (اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے) پھر حضورؐ نے فرمایا مہینہ میں ایک قرآن ختم کر لیا کرو میں نے کہا مجھ میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت ہے آپ نے فرمایا دس دن میں ایک ختم کر لیا کرو میں نے کہا مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ نے فرمایا اچھا تین دن میں ختم کر لیا کرو پھر آپ نے فرمایا ہر مہینہ تین دن روزہ رکھا کرو۔ میں نے کہا مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ دن بڑھاتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن افطار کیا کرو کیونکہ یہ بہترین روزے ہیں اور یہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ حضرت حصینؓ کی حدیث میں یہ ہے کہ پھر حضورؐ نے فرمایا عبادت کے ہر شوقین پر کچھ عرصہ ایسا آتا ہے جس میں اسے عبادت کا بہت جوش و جذبہ ہوتا ہے اور جوش و جذبہ کچھ عرصہ چلتا ہے پھر اس میں کمی آجاتی ہے جب کمی آتی ہے تو کوئی اس وقت سنت طریقہ اختیار کرتا ہے اور کوئی بدعت طریقہ کو۔ جس نے جوش و جذبہ کی کمی کے زمانے میں سنت طریقہ کو اختیار کیا وہ ہدایت پا گیا اور جو کسی اور طرف چلا گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ جب بوڑھے اور کمزور ہو گئے تو وہ کئی دن مسلسل روزے رکھتے پھر اس کے بعد کچھ دن نہ رکھتے تاکہ کچھ طاقت آجائے اور اسی طرح وہ قرآن کی منزل پڑھا کرتے کبھی زیادہ پڑھتے اور کبھی کم۔ لیکن تین یا سات دن میں مقدار پوری کر لیا کرتے پھر اس کے



بعد کمزوری بڑھ جانے کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں حضور ﷺ کی رخصت قبول کر لیتا تو یہ مجھے اس کثرت عبادت سے زیادہ محبوب ہوتا جسے میں نے اختیار کیا ہے لیکن میں اس طریقہ کو اختیار کرتے ہوئے حضورؐ سے جدا ہوا ہوں اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اسے چھوڑ کر اور کوئی طریقہ اختیار کروں (یعنی حضورؐ کی زندگی میں آپؐ کے انتقال تک جو معمولات میں نے روزانہ تلاوت کے بنا لئے تھے اب میں ان میں کمی کرنا اچھا نہیں سمجھتا چاہے مجھے کتنی مشقت اختیار کرنی پڑے میں کیا کروں گا)۔ لہ

حضرت ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت سلمانؓ اور حضرت ابو درداءؓ کے درمیان بھائی چارہ کر لیا ایک دن حضرت سلمانؓ حضرت ابو درداءؓ کو ملنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ام درداءؓ نے پرانے سادہ سے کپڑے پہن رکھے ہیں تو ان سے کہا تمہیں کیا ہوا؟ (تم نے ایسے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟) انہوں نے کہا آپ کے بھائی حضرت ابو درداءؓ کو دنیا کی رغبت بالکل نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت ابو درداءؓ آگئے اور انہوں نے حضرت سلمانؓ کے لئے کھانا تیار کیا اور ان سے کہا آپ کھائیں میرا تو روزہ ہے حضرت سلمانؓ نے کہا جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداءؓ نے کھانا کھالیا جب رات ہوئی تو حضرت ابو الدرداءؓ عبادت کے لئے کھڑے ہونے لگے۔ حضرت سلمانؓ نے کہا ابھی تو سو جاؤ چنانچہ وہ سو گئے کچھ دیر کے بعد پھر کھڑے ہونے لگے تو حضرت سلمانؓ نے کہا ابھی اور سو جاؤ جب آخر رات ہوئی تو حضرت سلمانؓ نے کہا اب کھڑے ہو جاؤ پھر دونوں نے نماز پڑھی پھر حضرت سلمانؓ نے ان سے فرمایا آپ کے رب کا بھی آپ پر حق ہے لیکن آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے اور آپ کے گھر والوں کا بھی آپ پر حق ہے ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ پھر حضرت ابو الدرداءؓ نے جا کر حضور ﷺ کو یہ ساری بات بتائی تو حضورؐ نے فرمایا سلمانؓ نے ٹھیک کہا۔ لہ

حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ فرماتی ہیں کہ حضرت زبیرؓ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس زمین تھی اور ایک گھوڑا تھا اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی مال تھا نہ غلام اور نہ کوئی اور چیز گھوڑے کی خدمت کے سارے کام حضرت زبیرؓ کے لئے جئے میں ہی کرتی تھی اس کی دیکھ بھال کرتی تھی اس کے لئے گھاس چارہ وغیرہ لاتی تھی اور کنویں سے پانی کھینچنے والے لونٹ

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۸۵) و اخرجہ ایضا البخاری و انفر دہہ کما فی صفۃ الصوفیۃ (ج ۱ ص ۲۷۱) نحوہ معطولا  
 ۲۔ اخرجہ البخاری (ج ۱ ص ۲۶۴)  
 و اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۸۸) عن ابی جحیفۃ نحوہ مع زیادات و ابو یعلیٰ کما فی الکنز (ج ۱ ص ۱۳۷) و الترمذی و البزار و ابن خزیمۃ و الدار قطنی و الطبرانی و ابن حبان کما فی فتح الباری (ج ۴ ص ۱۵۱) و اخرجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۸۵) با لفاظ مختلفۃ

کے لئے کچھور کی گھٹلیاں کو ٹپتی تھی اور گھر کا آٹا بھی گوندھتی تھی لیکن مجھے روٹی اچھی پکانی نہیں آتی تھی اس لیے میری انصاری پڑوسن عورتیں روٹی پکا دیا کرتی تھیں وہ بڑی سچی اور مخلص عورتیں تھیں اور حضور ﷺ نے حضرت زبیرؓ کو جو زمین دی تھی وہ مدینہ سے دو تہائی فرسخ یعنی دو میل دور تھی میں وہاں سے اپنے پر گھٹلیاں سر پر رکھے ہوئے آ رہی تھی کہ راستہ میں حضورؐ (اونٹ پر سوار) مجھے مل گئے آپ کے ساتھ صحابہؓ کی ایک جماعت بھی تھی۔ حضورؐ نے مجھے بلایا اور (اونٹ کو بٹھانے کے لئے) انخ فرمایا تاکہ مجھے اپنے پیچھے بٹھالیں مجھے لوگوں کے ساتھ چلنے سے شرم آئی اور مجھے حضرت زبیرؓ کی غیرت یاد آگئی کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت والے تھے حضورؐ سمجھ گئے کہ مجھے شرم آ رہی ہے اس لئے آپ تشریف لے گئے میں نے جا کر حضرت زبیرؓ کو بتایا کہ میں سر پر گھٹلیاں لے کر آ رہی تھی راستہ میں مجھے حضور ﷺ ملے آپ کے ساتھ صحابہؓ کی ایک جماعت تھی حضورؐ اونٹ بٹھانے لگے تاکہ میں آپ کے ساتھ سوار ہو جاؤں لیکن مجھے شرم آگئی اور آپ کی غیرت کا خیال آ گیا حضرت زبیرؓ نے کہا اللہ کی قسم! تم حضورؐ کے ساتھ سوار ہو جاؤں اس سے مجھے اتنی گرانی نہ ہوتی جتنی مجھے تمہارے گھٹلیاں سر پر لانے سے ہوئی ہے اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے میرے پاس ایک باندی بھیجی جس نے گھوڑے کی دیکھ بھال اور خدمت کے تمام کام سنبھال لئے تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے مجھے قید سے آزاد کر دیا ہو۔

حضرت عکرمہؓ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ حضرت زبیر بن عوامؓ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت زبیرؓ ان پر سختی کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماءؓ نے جا کر اپنے با جان سے حضرت زبیرؓ کی شکایت کی حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اے میری بیٹی! صبر کرو کیونکہ جب کسی عورت کا نیک خاوند ہو پھر وہ خاوند مر جائے اور وہ عورت اس کے بعد اور شادی نہ کرے تو ان دونوں کو جنت میں جمع کر دیا جائے گا۔

حضرت ہمیس ہلانیؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت آ کر حضرت عمرؓ کے پاس بیٹھ گئی اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین! میرے خاوند کا شرب بڑھ گیا ہے اور اس کی خیر کم ہو گئی ہے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا تمہارا خاوند کون ہے؟ اس نے کہا حضرت ابو سلمہؓ حضرت عمرؓ نے فرمایا انہیں تو حضور ﷺ کی صحبت حاصل ہے اور وہ سچے آدمی ہیں، حضرت عمرؓ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس سے حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا وہ آدمی ایسے نہیں ہیں؟ اس آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ نے ان کے بارے

میں جو کہا ہے ہمیں بھی یہی معلوم ہے پھر حضرت عمرؓ نے ایک آدمی سے کہا جاؤ ابو سلمہؓ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب حضرت عمرؓ نے اس عورت کے خاندان کے پاس آدمی بھیجا تو وہ عورت اٹھ کر حضرت عمرؓ کے پیچھے آکر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ آدمی اس عورت کے خاندان حضرت ابو سلمہؓ کو بلا کر لے آیا اور وہ آکر حضرت عمرؓ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ میرے پیچھے بیٹھی ہوئی عورت کیا کہہ رہی ہے حضرت ابو سلمہؓ نے پوچھا اے امیر المؤمنین! یہ عورت کون ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ آپ کی بیوی ہے حضرت ابو سلمہؓ نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی خیر کم ہو گئی ہے اور آپ کا شر زیادہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابو سلمہؓ نے کہا اے امیر المؤمنین! اس نے بہت بری بات کہی ہے۔ یہ اپنے قبیلہ کی نیک عورتوں میں سے ہے لیکن اس کے پاس کپڑے ان سب عورتوں سے زیادہ ہیں اور گھر میں سہولت اور راحت کا سامان بھی سب سے زیادہ ہے اس اتنی بات ہے کہ اس کا خاندان بڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس عورت سے کہا اب تم کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ کو ڈال لے کر اس عورت کی طرف بڑھے اور کوڑے سے اس کی خبر لی پھر فرمایا اے اپنی جان کی دشمن! تو اس کا سارا مال کھا گئی اور اس کی جوانی فنا کر دی اور اب اس کی ایسی شکایت لگا رہی ہے جو اس میں نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ جلدی نہ کریں اللہ کی قسم! آئندہ میں کبھی (شکایت کی) اس مجلس میں نہیں بیٹھوں گی (یعنی کبھی شکایت نہیں لگاؤں گی) پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس عورت کو تین کپڑے دیئے جائیں اور اس عورت سے کہا میں نے جو تجھے مارا ہے یہ کپڑے اس کے بدلے میں لے لو۔ رلوی کہتے ہیں کہ وہ قصہ مجھے ایسا یاد ہے کہ گویا کہ میں اب بھی اس عورت کو کپڑے لے کر اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضرت عمرؓ نے اس عورت کے خاندان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم نے جو مجھے اس کو سزا دیتے ہوئے دیکھا ہے اس کی وجہ سے تم اس کے ساتھ براسلوک نہ شروع کر دینا۔ انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا چنانچہ وہ میاں بیوی دونوں واپس چلے گئے پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کا بہترین زمانہ وہ ہے جس میں ہوں پھر دوسرا زمانہ پھر تیسرا زمانہ پھر اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو گواہی دینے سے پہلے ہی قسمیں کھانے لگ جائیں گے اور ابھی ان سے گواہی مانگی نہ جائے گی کہ وہ پہلے ہی گواہی دینے لگ جائیں گے اور بازاروں میں شور مچاتے پھریں گے۔

۱۔ اخرجه الطيالسي والبخاري في تاريخه والحاكم في الكنى قال ابن حجر اسنا ده قوی كذا في

الكنز (ج ۸ ص ۳۰۳) واخرجه ايضا ابو بكر بن ابي عاصم كما في الاصابة (ج ۴ ص ۹۳)

حضرت شعبیؓ کہتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عمر بن خطابؓ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے پاس ایسے آدمی کی شکایت کرنے آئی ہوں جو تمام دنیا والوں سے زیادہ بہتر ہیں ان سے بہتر وہی آدمی ہے جو ان سے زیادہ عمل کرے یا ان کے برابر عمل کرے وہ رات سے صبح تک عبادت کرتے ہیں اور صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں اتنا بتانے کے بعد اس عورت کو شرم آگئی اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ مجھے معاف فرمادیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے تم نے اس آدمی کی بہت اچھی تعریف کی ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے جب وہ عورت چلی گئی تو حضرت کعب بن سورؓ نے کہا اے امیر المؤمنین! اس عورت نے آپ سے شکایت کرنے میں کمال کر دیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اس نے کیا شکایت کی ہے؟ حضرت کعب نے کہا اس نے اپنے خاوند کی شکایت کی ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اس عورت کو میرے پاس لاؤ اور اسی طرح آدمی بھیج کر اس کے خاوند کو بھی بلایا جب وہ دونوں آگئے تو حضرت عمرؓ نے حضرت کعب سے کہا تم ان دونوں میں فیصلہ کرو۔ حضرت کعب نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمرؓ نے کہا تم اسکی شکایت کو سمجھ گئے میں نہ سمجھ سکا اس لئے تم ہی فیصلہ کرو۔ حضرت کعب نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانكِحُوْا اَمَّا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّيْ وَوَدِعَ (سورۃ نساء آیت ۳) ترجمہ ”اور عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہوں نکاح کر لو دو، دو عورتوں سے اور تین تین عورتوں سے اور چار چار عورتوں سے“ اس کے خاوند سے کہا تم تین دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن افطار کیا کرو اور اس کے پاس رہا کرو اور تین رات نفل عبادت کیا کرو ایک رات اس کے ساتھ گزارا کرو حضرت عمرؓ نے فرمایا تمہارا یہ فیصلہ تو مجھے تمہاری پہلی بات سے بھی زیادہ پسند آیا ہے پھر حضرت عمرؓ نے حضرت کعب کو بصرہ والوں کا قاضی بنا کر بھیج دیا۔ پھر حضرت شعبیؓ سے یہی واقعہ اس سے زیادہ لمبا نقل کیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس عورت سے کہا تم مجھے سچ بات بتاؤ اور حق بات کے ظاہر کرنے میں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہئے۔ اس نے کہا اے امیر المؤمنین! میں ایک عورت ہوں مجھ میں بھی وہ خواہش ہے جو عورتوں میں ہوا کرتی ہے عبدالرزاق حضرت قتادہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اگر حضرت عمرؓ سے کہا میرا خاوند رات بھر عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا تم مجھے یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اسے رات کی عبادت سے اور دن کے روزے سے روک دوں؟ وہ عورت چلی گئی دوبارہ آکر اس نے وہی بات پھر کہی حضرت عمرؓ نے پھر وہی جوا ت دیا۔ اس پر حضرت کعب بن سورؓ نے کہا اے امیر المؤمنین! اس عورت کا بھی حق ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کیا حق ہے؟ حضرت کعب نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے خاوند

کے لئے چار بیویاں حلال قرار دی ہیں تو آپ اس عورت کو چار بیویوں میں سے ایک شمار کر لیں اسے ہر چار راتوں میں سے ایک رات اور ہر چار دنوں میں سے ایک دن ملنا چاہئے چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس کے خاوند کو بلا کر کہا کہ ہر چار راتوں میں سے ایک رات اپنی بیوی کے پاس گزارا کرو اور ہر چار دنوں میں سے ایک دن اس کی وجہ سے روزہ نہ رکھا کرو۔

حضرت ابو غرزہؓ حضرت ابن ارقمؓ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کے پاس لے گئے اور اس سے کہا کہ کیا تم مجھ سے بغض رکھتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت ابن ارقمؓ نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو غرزہؓ نے کہا کیونکہ لوگ میرے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرنے لگ گئے تھے حضرت ابن ارقمؓ نے جا کر حضرت عمر بن خطابؓ کو یہ بات بتائی۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو غرزہؓ کو بلا کر کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو غرزہؓ نے کہا کیونکہ لوگ میرے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرنے لگ گئے تھے حضرت عمرؓ نے حضرت ابو غرزہؓ کی بیوی کو بلایا وہ بھی آئی اور اس کے ساتھ ایک پھوپھی بھی آئی جسے کوئی نہیں جانتا تھا پھوپھی نے اس سے کہا اگر حضرت عمرؓ سے پوچھیں کہ تم نے ایسا صاف جواب کیوں دیا؟ تو تم کہہ دینا کہ انہوں نے قسم دے کر مجھ سے پوچھا تھا (کہ کیا تم مجھ سے بغض رکھتی ہو؟) اس لئے جھوٹ بولنا مجھے برا لگا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس سے پوچھا تم نے یہ بات کیوں کہی؟ حضرت ابو غرزہؓ کی بیوی نے کہا کہ انہوں نے مجھے قسم دے کر پوچھا تھا اس لئے جھوٹ بولنا میں نے مناسب نہ سمجھا حضرت عمرؓ نے فرمایا نہیں۔ تمہیں جھوٹ بول دینا چاہئے تھا اور کوئی اچھی بات کہہ دینی چاہئے تھی (میاں بیوی تعلقات اچھے رکھنے کیلئے ایک دوسرے سے جھوٹی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں) کیونکہ تمام گھروں میں حسن معاشرت کی بنیاد (میاں بیوی کی) محبت ہی نہیں ہوتی بلکہ بعض گھروں میں (میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی لیکن حسن معاشرت کی بنیاد خاندانی شرافت اور اسلام ہوتا ہے۔)

حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوفؓ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ بنت زید بن عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہا، حضرت عبد اللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے نکاح میں تھیں۔ حضرت عبد اللہؓ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی حضرت عبد اللہؓ نے ان کو ایک باغ اس شرط پر دیا کہ وہ ان کے مرنے کے بعد کسی سے شادی نہیں کریں گی۔ غزوہ طائف میں حضرت عبد اللہؓ کو ایک تیر لگا تھا جس کا زخم اس وقت تو ٹھیک ہو گیا لیکن حضور ﷺ کی وفات کے چالیس دن بعد وہ زخم پھر ہرا ہو گیا جس سے حضرت عبد اللہؓ کا انتقال ہو گیا ان کی بیوی

۱۔ کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۳۰۷، ۳۰۸) واخرجه ابن ابی شیبہ من طریق ابن سرین والزہیر بن بکار فی الموفقیات من طریق محمد بن لعن وابن درید فی الاخبار المشورة عن ابی حاتم السجستانی عن ابی عبیدة وله طرق کذا فی الاصابة (ج ۳ ص ۳۱۵)

۲۔ اخرجه ابن جریر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۳۰۳)

حضرت عائکہؓ نے مرثیہ میں یہ اشعار کہے۔

وآلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ینفک جلدی اصفراً

مدی اللہر ماغنت حما مة ایكة وما طرد اللیل الصباح المنورا  
اور میں نے قسم کھائی ہے کہ زندگی بھر اس وقت تک میری آنکھیں آپ پر گرم آنسو بہاتی رہیں  
گی (غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں) اور میرا جسم گرد آلود رہے گا (یعنی میں زیب و زینت نہیں کروں  
گی) جب تک گھنے جنگل کی کبوتری گاتی رہے گی اور رات کے بعد روشن صبح آتی رہے گی یعنی ہمیشہ  
روتی رہوں گی۔

پھر حضرت عمر بن خطابؓ نے ان کو شادی کا پیغام دیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ حضرت  
عبداللہؓ نے مجھے اس شرط پر ایک باغ دیا تھا کہ میں ان کے بعد شادی نہ کروں گی حضرت عمرؓ نے  
کہلوایا کہ کسی عالم سے شادی کے بارے میں مسئلہ پوچھ لو تو انہوں نے حضرت علی بن ابی طالبؓ  
سے پوچھا حضرت علیؓ نے فرمایا حضرت عبداللہ کے ورثہ کو باغ واپس کر دو اور شادی کر لو (چنانچہ  
انہوں نے وہ باغ واپس کر دیا اور) حضرت عمرؓ نے ان سے شادی کر لی اور حضور ﷺ کے چند صحابہؓ  
میں سے حضرت علیؓ کا حضرت عبداللہ بن ابی بکرؓ سے بھائی چارہ کا تعلق تھا۔ حضرت علیؓ نے حضرت  
عمرؓ سے کہا آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضرت عائکہؓ سے کچھ بات کر لوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا  
کر لو۔ حضرت علیؓ نے کہا اے عائکہ (تم نے یہ شعر کہا تھا اب اس کے خلاف کر لیا)

وآلیت لا تنفک عینی سخینة

علیک ولا ینفک جلدی اصفراً

میں نے قسم کھائی ہے کہ میری آنکھیں پر گرم آنسو بہاتی رہیں گی اور میرا جسم گرد آلود رہے گا  
(یہ سن کر حضرت عائکہؓ زور سے رو پڑیں) حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے میری  
بیوی کا ذہن خراب نہ کریں۔!

حضرت میمونہؓ کی آزاد کردہ باندی حضرت عدہ بنہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہؓ نے مجھے (اپنے  
بھانجے) حضرت ابن عباسؓ کے پاس بھیجا میں ان کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر  
میں دو بستر بچھے ہوئے ہیں (ایک ان کا اور ایک انکی بیوی کا) میں نے واپس جا کر حضرت میمونہؓ  
سے کہا میرے خیال میں تو حضرت ابن عباسؓ نے اپنی بیوی کو چھوڑ رکھا ہے۔ حضرت میمونہؓ نے  
حضرت ابن عباسؓ کی بیوی بنت سرج کندی کو پیغام بھیج کر بلایا اور ان سے پوچھا (کیا تمہیں  
حضرت ابن عباسؓ نے چھوڑ رکھا ہے؟) حضرت بنت سرج نے کہا نہیں میرے اور ان کے

۱۔ اخرجه وكيع كذا في الكنز (ج ۸ ص ۳۰۲) واخرجه ابن سعد بسند حسن عن يحيى بن  
عبدالرحمن بن حاطب مختصراً كما في الاصابة (ج ۳ ص ۳۵۶)

درمیان کوئی جدائی نہیں وہ تو آجکل مجھے حیض آ رہا ہے (اس لئے بستر الگ الگ کر رکھے ہیں) اس پر حضرت میمونہؓ نے حضرت ابن عباسؓ کو یہ پیغام بھیجا کہ تم حضور ﷺ کی سنت سے اعراض کر رہے ہو حضورؐ کی حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ لیٹنا کرتے تھے البتہ آپ کی بیویاں گھٹنے یا آدھی پنڈلی تک کپڑا ڈال لیا کرتی تھیں۔<sup>۱</sup>

حضرت عکرمہؓ کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ نہ چل سکا کہ کھانا کس نے دوسرے کے لئے تیار کیا تھا حضرت ابن عباسؓ نے یا ان کے پچازاد بھائی نے بہر حال یہ حضرات کھانا کھا رہے تھے اور ایک باندی ان کے سامنے کام کر رہی تھی کھانا وغیرہ لارہی تھی کہ ان میں سے کسی نے اس باندی سے کہا اوزانیہ! تو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ایسے نہ کہو اگر اس باندی کی وجہ سے تمہیں دنیا میں حد شرعی نہ لگ سکی تو آخرت میں تو ضرور لگے گی اس آدمی نے کہا اگر بات واقعی ایسی ہی ہو جیسی میں نے کہی ہے تو؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا (اگر یہ بات ایسی ہو بھی سہی تو بھری مجلس میں کہتی نہیں چاہئے کیونکہ) اللہ تعالیٰ بخش گو اور قصد بدکلامی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے اور بخش گو اور بدکلامی والے کو اللہ کے پسند نہ کرنے کی بات حضرت ابن عباسؓ نے خود کہی تھی۔<sup>۲</sup>

حضرت ابو عمران فلسطینیؒ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاصؓ کی بیوی ان کے سر میں سے جو کچھ نکال رہی تھی ان کی بیوی نے اپنی باندی کو آواز دی باندی نے آنے میں دیر کر دی تو ان کی بیوی نے کہا اوزانیہ! حضرت عمروؓ نے کہا کیا تم نے اسے زنا کرتے دیکھا ہے؟ ان کی بیوی نے کہا نہیں حضرت عمروؓ نے کہا اللہ کی قسم! تمہیں اس باندی کی وجہ سے قیامت کے دن اسی کوڑے مارے جائیں گے ان کی بیوی نے اس باندی سے معافی مانگی باندی نے معاف کر دیا۔ حضرت عمروؓ نے کہا یہ بے چاری تمہیں کیوں معاف نہ کرے یہ تمہاری ماتحت جو ہے اسے آزاد کر دو ان کی بیوی نے کہا کیا یہ آزاد کرنا کافی ہو جائے گا؟ (پھر مجھے آخرت میں سزا تو نہیں ملے گی) حضرت عمروؓ نے کہا ہاں امید ہے۔<sup>۳</sup>

حضرت ابو التیوکلؒ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک جشن باندی تھی جس کی کسی حرکت کی وجہ سے تمام گھر والے بڑے غمگین اور پریشان تھے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہؓ نے اسے مارنے کے لئے کوڑا اٹھا لیا لیکن پھر فرمایا اگر مجھے قیامت کے دن کے بدلے کا ڈرنہ ہوتا تو میں تجھے اس کوڑے سے مار مار کر بے ہوش کر دیتا لیکن اب میں تجھے ایسے کے ہاتھ بچوں گا جو تیری قیمت پوری پوری دے گا (یعنی اللہ تعالیٰ) جا تو اللہ کے لئے آزاد ہے۔<sup>۴</sup>

۱۔ اخروہ عبد الرزاق کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۱۳۸) ۲۔ اخروہ البخاری فی الادب (ص ۳۹)

۳۔ اخروہ ابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۳۸) ۴۔ اخروہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۸۲)

حضرت عبداللہ بن قیس یا لکن ابی قیسؓ کہتے ہیں جب حضرت عمرؓ ملک شام تشریف لائے تھے تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حضرت عبیدہؓ کے ساتھ ان کا استقبال کیا تھا۔ حضرت عمرؓ چل رہے تھے کہ انہیں اذرعات شہر کے کرتب دکھانے والے لوگ تلواریں اور نیزے لئے ہوئے ملے۔ حضرت عمرؓ نے کہا ٹھہرو انہیں روکو اور واپس کرو حضرت ابو عبیدہؓ نے کہا اے امیر المؤمنین! یہ ان عجمیوں کا رواج ہے (کہ امیر کے آنے پر اظہار خوشی کے لئے اپنے کرتب دکھاتے ہیں) اگر آپ ان لوگوں کو اس سے روکیں گے تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ آپ ان کا امن کا معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں (اس معاہدہ میں ان کو اپنے رواج پر چلنے کی اجازت حاصل ہے) حضرت عمرؓ نے فرمایا پھر ان کو چھوڑ دو کیونکہ اس وقت عمر اور آل عمر سب کو حضرت ابو عبیدہؓ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ۱

حضرت لکن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے دوڑ میں مقابلہ کیا تو حضرت زبیرؓ آگے نکل گئے اور انہوں نے کہا اب کعبہ کی قسم! میں آپ سے آگے نکل گیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے ان سے دوبارہ مقابلہ کیا اس مرتبہ حضرت عمرؓ آگے نکل گئے تو انہوں نے کہا اب کعبہ کی قسم! میں آپ سے آگے نکل گیا۔ ۲

حضرت سلیم بن حنظلہؓ کہتے ہیں کہ ہم حدیثیں سننے کے لئے حضرت ابی بن کعبؓ کے پاس گئے جب (حدیثیں سنا کر) حضرت ابی کعبؓ ہوئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر چلنے لگے۔ حضرت عمرؓ ان سے ملے اور انہوں نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ یوں لوگوں کے تمہارے ساتھ چلنا خود تمہارے لئے فتنہ اور بھگوانے کا سبب ہے اور ان کے لئے ذلت کا ذریعہ ہے۔ ۳

حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا آج لوگوں کا معاملہ کتنا عمدہ ہے میں سفر سے آ رہا ہوں اللہ کی قسم! میں جس کے ہاں بھی ٹھہرا مجھے ایسے لگا جیسے کہ اپنے باپ کے بیٹے کے ہاں ٹھہرا ہوں ہر ایک نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ حضرت سلمانؓ نے فرمایا اے میرے بھائی! یہ ایمان کے تازہ اور عمدہ ہونے کی نشانی ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب جانور پر سامان لا دیا جائے (اور سفر قریب کا ہو جانور بھی تازہ دم ہو) تو پھر جانور سامان لے کر خوب تیز چلتا ہے اور جب سفر لمبا ہو (اور جانور تھک چکا ہو) تو پھر جانور رک رک کر چلتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے (اس لئے ایمان کو تازہ کرتے ہو اور اس سے عمدہ بناتے رہو) ۴

۱ اخراجہ ابو عبیدہ وابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۳۳۴) ۲ اخراجہ الحاملی کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۳۳۴) ۳ اخراجہ ابن ابی شیبہ والخطیب فی الجامع کذا فی الکنز (ج ۸ ص ۶۱) ۴ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۰۳)



حضرت جیہ بنت ابی جیہؓ کہتی ہیں کہ ایک دن عین دوپہر کے وقت ایک آدمی میرے پاس اندر آیا میں نے کہا اے اللہ کے بندے! تمہیں کیا ضرورت پیش آگئی؟ انہوں نے کہا میں اور میرا ایک ساتھی ہم دونوں اپنے اونٹ ڈھونڈنے آئے ہیں میرا ساتھی اونٹ تلاش کرنے چلا گیا ہے اور میں یہاں سایہ میں آیا ہوں تاکہ کچھ دیر سائے میں بیٹھ جاؤں اور کچھ پی بھی لوں میں نے کھڑے ہو کر انہیں تھوڑی سی لمبی پلائی اور انہیں پہچاننے کی کوشش کی میں نے کہا اے اللہ کے بندے! آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ابو بکرؓ میں نے کہا وہی ابو بکرؓ جو حضور ﷺ کے خاص صحابی ہیں جن کا میں سن بھی چکی ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں پھر میں نے انہیں بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں ہماری قبیلہ حنظلہ کے ساتھ لڑائی رہتی تھی اور ہم آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں الفت و محبت نصیب فرمادی (یہ سب اسلام کی برکت ہے) میں نے کہا اے اللہ کے بندے! لوگوں میں یہ الفت و محبت کب تک رہے گی انہوں نے فرمایا جب تک امام سیدھے رہیں گے۔ میں نے پوچھا امام کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہر قبیلہ میں ایک سردار ہوتا ہے جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جب تک یہ ٹھیک چلتے رہیں گے لوگوں میں تمام کام ٹھیک رہیں گے۔

حضرت حارث بن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں (ملک شام سے) حضرت عمر بن خطابؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے حضرت عمرؓ نے پوچھا تم نے شام والوں کو کس حال میں چھوڑا! میں نے انہیں شام والوں کا حال بتایا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی تعریف کی پھر فرمایا شاید تم لوگ مشرکوں کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں اے امیر المؤمنین! حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر تم مشرکوں کے ساتھ بیٹھنے لگو گے تو تم ان کے ساتھ کھانے پینے لگ جاؤ گے اور تم لوگ اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک تم یہ (ان کے ساتھ کھانے پینے کا) کام نہیں کرو گے۔ حضرت عیاضؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنا سارا لہن دین کھال کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر حضرت عمرؓ کو پیش کریں حضرت ابو موسیٰؓ کا ایک نصرانی منشی تھا اس نے سارا حساب لکھ کر حضرت عمرؓ کو پیش کیا جو حضرت عمرؓ نے فرمایا اس کا حافظہ بڑا تیز ہے (پھر اس منشی سے کہا) ہمارے پاس ملک شام سے ایک خط آیا ہے کیا تم چل کر مسجد میں ہمیں وہ خط پڑھ دو گے؟ حضرت ابو موسیٰؓ نے کہا یہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیوں، کیا یہ جہنی ہے؟ حضرت ابو موسیٰؓ نے کہا نہیں یہ تو نصرانی ہے راوی کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عمرؓ

۱۔ اخرجه مسدد و ابن منيع والدارمي قال ابن كثير اساده حسن جيد كذا في الكنز (ج ۳ ص

۱۶۲) ۲۔ اخرجه يعقوب بن سفيان والبيهقي وابن عساكر كذا في الكنز (ج ۲ ص ۳۰۰)

نے مجھے ڈانٹا اور میری ران پر مار کر کہا سے یہاں سے نکال دو پھر یہ آیت پڑھی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ** (سورت مائدہ آیت ۵۱) ترجمہ ”اے ایمان  
والو! تم یہود و نصاریٰ کو دوست مت مانتا“

### کھانے پینے میں حضور ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کا طریقہ

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے اگر  
طبیعت چاہتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ ۱

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو بجزی کے گوشت میں سب سے زیادہ دوستی پسند  
تھی ۲۔ حضرت لئن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو دوستی بہت پسند تھی اور دوستی کے  
گوشت میں ہی حضور ﷺ کو زہر ڈال کر دیا گیا تھا اور سب کا خیال یہ تھا کہ یہود یوں نے ہی آپ  
کو زہر دیا تھا۔ ۳

حضرت جلد بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہمارے پاس گھر میں تشریف  
لائے ہم نے آپ کے لئے ایک بجزی ذبح کی حضور نے (دلدار کی کے لئے اظہار مسرت کے  
طور پر) فرمایا کہ بظاہر ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں گوشت پسند ہے آگے حدیث میں  
مشہور قصہ ہے۔ ۴

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو کدو پسند تھا۔ آپ کے پاس کھانا لایا گیا آپ کو  
کھانے کے لئے بلایا گیا چونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کو کدو پسند ہے اس لئے میں کدو تلاش  
کر کے آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ ۵

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تین انگلیاں پاٹ لیا  
کرتے۔ ۶

حضرت لئن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور دودھ  
نکالنے کے لئے بجزی کی ٹانگوں کو باندھا کرتے اور جو کی روٹی پر بھی غلام کی دعوت قبول کر لیا  
کرتے (یعنی آپ بہت متواضع تھے) ۷

حضرت یحییٰ بن ابی کثیرؓ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہؓ روزانہ ٹرید کا ایک پیالہ

۱۔ اخرجہ ابن جریور کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۳۷)

۲۔ اخرجہ ابن ابی حاتم کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۶۸)

۳۔ اخرجہ الشیخان کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۴۰) ۴۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز

(ج ۴ ص ۳۷) ۵۔ عند الترمذی فی الشمال (ص ۱۲)

۶۔ عند الترمذی ایضا فی الشمال ۷۔ عند الترمذی ایضا

۸۔ اخرجہ ابن النجار کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۴۴)

حضور ﷺ کی خدمت میں بھیجا کرتے اور حضورؐ جس بیوی کے ہاں ہوتے وہ وہاں ہی بیچ دیا کرتے۔ ۱

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے لئے ایک بھری کا دودھ نکالا گیا اس میں سے آپؐ نے کچھ دودھ نوش فرمایا اور پھر پانی لے کر آپؐ نے تلی کی اور فرمایا کہ دودھ میں چکنا چٹ ہونی ہے۔ ۲

حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (سفر میں) ایک جگہ قیام فرمایا وہاں ایک عورت نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک بھری آپؐ کے پاس بھیجی آپؐ نے اس کا دودھ نکالا پھر اس لڑکے سے کہا یہ اپنی ماں کے پاس لے جاؤ (وہ اپنی ماں کے پاس لے گیا) اس کی ماں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیادہ لڑکا دوسری بھری لے آیا حضورؐ نے اس کا دودھ نکالا اور مجھے پلایا پھر وہ لڑکا ایک اور بھری لے آیا اس کا دودھ نکال کر حضورؐ نے خود نوش فرمایا۔ ۳

حضرت ابراہیمؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اپنا دلیاں ہاتھ کھانے پینے وضو اور ان جیسے کاموں کے لئے فارغ رکھتے اور اپنا بایاں ہاتھ استنجانا ک صاف کرنے اور ان جیسے کاموں کے لئے رکھتے۔ ۴

حضرت جعفر بن عبد اللہ بن حکم بن رافعؓ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور کبھی ادھر سے کھا رہا تھا کبھی ادھر سے۔ حضرت حکمؓ مجھے دیکھ رہے تھے انہوں نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے! ایسے نہ کھاؤ جیسے شیطان کھاتا ہے نبی کریم ﷺ جب کھانا کھاتے تو آپؐ کی انگلیاں آپؐ کے سامنے ہی رہتی تھیں (ادھر ادھر نہ جاتی تھیں) ۵

حضرت عمر بن ابی سلمہؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور ﷺ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو میں پیالہ کے ارد گرد سے گوشت لینے لگا حضورؐ نے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ۶

حضرت امیہ بن محشیؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے دیکھا کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے۔ کھاتے کھاتے بس ایک لقمہ رہ گیا جب اسے منہ کی طرف اٹھانے لگا تو اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہا اس پر حضور ﷺ ہنس پڑے اور فرمایا اللہ کی قسم! شیطان تمہارے ساتھ کھاتا رہا پھر جب تم نے بسم اللہ پڑھی تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا وہ سب اس نے قے کر دیا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب تم نے اللہ کا نام

۱۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۳۷) ۲۔ اخرجہ ابن جریر کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۳۷)

۳۔ عند ابی یعلیٰ کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۴۴)

۴۔ اخرجہ سعید بن منصور کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۴۵)

۵۔ اخرجہ ابو نعیم کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۴۶) وقال فی الاصابة (ج ۱ ص ۳۴۴) سندہ

ضعیف ۶۔ اخرجہ ابن النجار کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۴۶)

لیا تو اس کے پیٹ میں جو کچھ تھا وہ اس نے قے کر دیا!

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کھانے کا ایک پیالہ لا کر رکھا گیا۔ حضورؐ نے کھانے سے ہاتھ روکے رکھا تو ہم نے بھی اپنے ہاتھ روکے رکھے کیونکہ جب تک حضورؐ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے ہم بھی نہیں بڑھاتے تھے اتنے میں ایک دیہاتی آیا ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی دھکے دے کر لا رہا ہو اس نے کھانے کے لئے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضور ﷺ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ایک لڑکی آئی ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی دھکے دے کر لا رہا ہو وہ بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی تو حضورؐ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا لوگوں کے جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کھانا شیطان کے لئے حلال ہو جاتا ہے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ روکے ہوئے ہیں تو وہ ان دونوں کو لے کر آتا کہ یہ بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیں اور کھانا اس کے لئے حلال ہو جائے اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے! شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ ۱

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ چھ آدمیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی داخل ہو اور ان کے سامنے سے سارا کھانا دو لقموں میں کھا گیا۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھتا تو یہ کھانا سب کے لئے کافی ہو جاتا۔ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو اسے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اگر بسم اللہ پڑھنا شروع میں یاد نہ رہے تو جب بسم اللہ یاد آجائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لے۔ ۲

حضرت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ میرے والد صاحب کے ہاں آکر ٹھہرے میرے والد حضورؐ کی خدمت میں ستوا اور کھجور اور گھی کا بنا ہوا حلوا لے کر آئے حضورؐ نے اسے کھایا پھر میرے والد پینے کی کوئی چیز لے کر آئے جسے حضورؐ نے نوش فرمایا پھر پیالہ اپنے دائیں طرف کے ایک صاحب کو دے دیا اور آپؐ جب کھجور کھایا کرتے تو تھٹھی کو اس طرح ڈالا کرتے حضرت عبد اللہؓ نے اپنی انگلی سے اس کی پشت کی طرف اشارہ کر کے بتایا جب حضورؐ سوار ہونے لگے تو میرے والد کھڑے ہو کر حضورؐ کے خچر کی لگام پکڑی اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا فرمادیں۔ حضورؐ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! ان کو جو روزی تو نے دی ہے اس میں برکت نصیب فرما ان کی مغفرت فرما ان پر رحم فرما ۳

۱ اخراجه احمد وابو داؤد والنسائی وابن قانع والطبرانی والحاكم وغيرهم كذا في الكنز (ج ۸ ص ۴۵)

۲ اخراجه النسائی كذا في الكنز (ج ۸ ص ۴۶)

۳ اخراجه ابن النجار كذا في الكنز (ج ۸ ص ۴۷) ۴ اخراجه ابن ابی شیبہ وابو نعیم

اگر تم حضور ﷺ کے لئے کچھ کھانا پکالو تو بہت ہی اچھا ہو۔ چنانچہ میری والدہ نے شدید تیار کیا پھر میرے والد گئے اور حضورؐ کو بلا کر لے آئے۔ حضورؐ نے شدید کے درمیان میں سب سے اونچی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ چنانچہ سب نے پیالے کے کنارے سے کھانا شروع کیا جب سب کھا چکے تو حضورؐ نے فرمایا اے اللہ! ان کی مغفرت فرما ان پر رحم فرما اور ان کے رزق میں برکت نصیب فرما۔

حضرت ابن اعبدؓ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا اے ابن اعبد! کیا تم جانتے ہو کہ کھانے کا حق کیا ہے؟ میں نے کہا کھانے کا حق کیا ہے؟ حضرت علیؓ نے فرمایا تم یوں کو بسم اللہ! اے اللہ! جو رزق تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت نصیب فرما پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جب تم کھانا کھا چکو تو اس کا شکر کیا ہے؟ میں نے کہا کھانے کا شکر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کھانے کا شکر یہ ہے کہ تم کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو الحمد لله الذی اطعمنا وسقانا۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا بہت زیادہ کھانے پینے سے بچو کیونکہ زیادہ کھانے پینے سے جسم خراب ہو جاتا ہے اور اس سے کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور نماز میں سستی آ جاتی ہے لہذا کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو کیونکہ میانہ روی سے جسم زیادہ ٹھیک رہتا ہے اور اسراف سے انسان زیادہ دور رہتا ہے اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں فرماتے (جسے اپنا جسم زیادہ کھاپی کر موٹا کرنے کی فکر ہو) اور آدمی تب ہی ہلاک ہوتا ہے جب اپنی شہوتوں کو اپنے دین پر مقدم کر دیتا ہے۔

حضرت ابو محذورہؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت صفوان بن امیہؓ ایک پیالہ لے کر آئے اور حضرت عمرؓ کے سامنے رکھ دیا حضرت عمرؓ نے مسکینوں کو اور اس پاس کے لوگوں کے غلاموں کو بلا یا اور ان سب نے حضرت عمرؓ کے ساتھ یہ کھانا کھایا اور پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کرے جو اس بات سے اعراض کرتے ہیں کہ ان کے غلام ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ حضرت صفوانؓ نے کہا ہمیں ان کے ساتھ کھانے سے انکار نہیں لیکن ہمیں عمدہ کھانا اتنا نہیں ملتا جو ہم خود بھی کھالیں اور انہیں بھی کھلا دیں۔ اس لئے ہم کھانا الگ بیٹھ کر کھالیتے ہیں۔

امام مالک بن انسؓ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ حضرت ابن عمرؓ نے ایک مرتبہ بحفہ مقام پر پڑاؤ ڈالا تو ابن عامر بن کریزؓ نے اپنے نانبائی سے کہا تم اپنا کھانا حضرت ابن عمرؓ کے پاس

۱ عند الحاكم كذا في الكنز (ج ۸ ص ۴۷) ۲ اخرجہ ابن ابی شیبہ وابن ابی الدنيا فی الدعاء

۳ ابو نعیم فی الحلیة والبیہقی كذا فی الكنز (ج ۸ ص ۴۶)

۴ اخرجہ ابو نعیم كذا فی الكنز (ج ۸ ص ۴۷)

۵ اخرجہ ابن عساکر كذا فی الكنز (ج ۵ ص ۴۸)

لے جاؤ وہ پیالہ لے کر گیا۔ حضرت لئن عمرؓ نے کہا رکھ دو وہ نانبائی دوسرا پیالہ لے کر گیا اور پہلا پیالہ اٹھانے لگا حضرت لئن عمرؓ نے کہا کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا میں اس پیالے کو اٹھانے لگا ہوں۔ حضرت لئن عمرؓ نے کہا نہیں دوسرے میں جو کچھ ہے وہ پہلے میں ہی ڈال دو چنانچہ وہ نانبائی جو بھی لاتا اسے پہلے میں ڈالتے۔ وہ نانبائی غلام جب لئن عامر کے پاس گیا تو اس سے کہا یہ تو اجڑ دیرماتی ہیں حضرت لئن عامر نے اس سے کہا یہ تمہارے سردار ہیں یہ حضرت لئن عمرؓ ہیں۔ ۱

حضرت جعفرؓ کہتے ہیں کہ حضرت لئن عباسؓ انار کا ایک دانہ لیتے اور اسے کھا لیتے کسی نے ان سے کہا لئن عباسؓ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت لئن عباسؓ نے فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ زمین میں جو انار بھی آگتا ہے اس میں جنت کا ایک دانہ ضرور ہوتا ہے تو میں ایک ایک دانہ اس خیال سے کھا رہا ہوں کہ شاید جنت والا دانہ یہی ہو۔ ۲

حضرت زید بن صوحان رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سالمؓ کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا حضرت زید بن صوحانؓ کے ساتھ بازار میں تھا۔ حضرت سلمان فارسیؓ ہمارے پاس سے گزرے انہوں نے ایک وسق (ساتھ صاع یعنی سو پانچ من) غلہ خرید رکھا تھا حضرت زیدؓ نے ان سے کہا لئن عباسؓ کے بندے آپ حضور ﷺ کے ساتھی ہو کر یہ کر رہے ہیں (اتنا غلہ جمع کر رہے ہیں) حضرت سلمانؓ نے کہا انسان جب اپنی روزی جمع کر لیتا ہے تو اس کا نفس مطمئن ہو کر عبادت کے لئے فارغ ہو جاتا ہے اور دوسرے ڈالنے والا شیطان اس سے ناامید ہو جاتا ہے۔ ۳

حضرت ابو عثمان نمدیؓ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسیؓ نے فرمایا میں اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے کو پسند کرتا ہوں ۴ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میرے پاس پندرہ ٹھوڑیں تھیں پانچ ٹھوڑیں میں نے افطاری میں کھائیں اور پانچ سحری میں اور پانچ ٹھوڑیں میں نے اپنے افطار کے لئے بچالیں۔ ۵

حضرت علی بن ابی طالبؓ کے غلام حضرت مسلمؓ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے پینے کی کوئی چیز منگوائی میں ان کے پاس پانی کا ایک پیالہ لایا اور میں نے اس پیالہ میں پھونک مار دی تو حضرت علیؓ نے اسے واپس کر دیا اور پینے سے انکار کر دیا اور فرمایا تم ہی اسے پی لو (تمہیں پھونک نہیں مارنی چاہئے تھی)۔ ۱

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۰۱) ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ

(ج ۱ ص ۳۲۳) عن عبد الحمید بن جعفر عن ابیہ ۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۰۷)

۴۔ عند ابی نعیم ایضاً (ج ۱ ص ۲۰۰) ۵۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۸۴)

۶۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۶ ص ۲۳۷) عن القاسم بن مسلم عن ابیہ

## لباس میں نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام کا طریقہ

حضرت عبدالرحمن بن ابی لہییٰ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطابؓ کے ساتھ تھا انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو القاسمؓ کو دیکھا کہ آپ نے ایک شامی جبہ پہنا ہوا تھا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ ۱۔

حضرت جندب بن محببؓ فرماتے ہیں کہ جب کوئی وفد آتا تو حضور ﷺ اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنتے اور اپنے بڑے اور اونچے صحابہؓ کو بھی اس بات کا حکم دیتے چنانچہ میں نے دیکھا کہ جس دن کندہ کا وفد گیا اس دن حضور نے یمنی جوڑا پہنا ہوا تھا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ نے بھی ایسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ۲۔

حضرت سلمہ بن اکوعؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفانؓ اُدھی پنڈلی تک لنگی باندھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے محبوب ﷺ کی لنگی ایسی ہوا کرتی تھی کہ حضرت اشعث بن سلیمؓ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی سے سنا وہ اپنے بچپا سے نقل کر رہی تھیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ میں چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی نے میرے پیچھے سے کہا اپنی لنگی کو اوپر اٹھا لو کہ اس میں تقویٰ بھی زیادہ ہے اور اس سے لنگی بھی زیادہ چلے گی۔ میں نے مزکر دیکھا تو وہ حضور ﷺ تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو سیاہ و سفید دھاریوں والی (ایک معمولی) چادر ہی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تمہیں میرے نمونے پر چلنے کا شوق نہیں ہے؟ میں نے دیکھا تو حضور کی لنگی اُدھی پنڈلیوں تک تھی۔ ۳۔

حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے ایک بیوند والی چادر اور ایک موٹی لنگی نکال کر دکھائی اور فرمایا کہ حضور ﷺ کا ان دو کپڑوں میں انتقال ہوا تھا۔ ۴۔  
حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کو کپڑوں میں تمیض سب سے زیادہ پسند تھی۔ ۵۔  
حضرت اسماء بنت یزیدؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کی تمیض کی آستینیں گٹوں تک تھی۔  
حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ عمامہ پہنا ہوا تھا۔

حضرت عمرو بن حریشؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور ﷺ نے سیاہ عمامہ پہن کر لوگوں

۱۔ اخرجہ ابن سعد کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۳۷) وقال سندہ صحیح

۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۳۴۶) ۳۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ والترمذی فی الشمالئ

کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۵۵) ۴۔ عند الترمذی فی الشمالئ (ص ۹)

۵۔ عند الترمذی فی الشمالئ (ص ۹)

میں بیان کیا۔

حضرت لئن عباسؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور آپ کے سر پر چکنی پٹی تھی۔

حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ حضرت لئن عمرؓ نے فرمایا کہ حضور ﷺ جب پگڑی باندھتے تو اس کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا لیتے حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ حضرت لئن عمرؓ بھی ایسا ہی کرتے۔ حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد اور حضرت سالم دونوں کو بھی ایسا کرتے دیکھا ہے۔<sup>۱</sup>

کسی نے حضرت عائشہؓ سے حضور ﷺ کے بستر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ چڑے کا بستر تھا جس کے اندر کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔<sup>۲</sup>

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک انصاری عورت میرے پاس اندر آئی اور اس نے دیکھا کہ حضور ﷺ کا بستر ایک چغہ ہے جسے دوہرا کر کے پھھلایا ہوا ہے اس نے جا کر ایک بستر میرے پاس بھیجا جس میں اون بھر اہوا تھا پھر حضور میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے عائشہؓ! یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی اس نے آپ کا بستر دیکھا پھر اس نے جا کر یہ بستر میرے پاس بھیج دیا۔ حضور نے فرمایا اسے واپس کر دو لیکن میں نے واپس نہ کیا کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ بستر میرے گھر میں رہے یہاں تک کہ آپ نے تین دفعہ واپس کرنے کا حکم دیا اور آخر میں فرمایا اے عائشہؓ! یہ بستر واپس کر دو واللہ کی قسم! اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتے۔<sup>۳</sup>

حضرت محمدؐ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور ﷺ کا بستر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا چڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور کسی نے حضرت حصہؓ سے پوچھا آپ کے گھر میں حضور ﷺ کا بستر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور ﷺ کا بستر ایک ٹاٹ تھا جسے ہم دوہرا کر کے پھھلاتے تھے اس پر حضور آرام فرماتے ایک رات میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں اسے چوہرا کر کے پھھادوں تو زیادہ نرم ہو جائے گا چنانچہ اس رات ہم نے اسے چوہرا کر کے پھھادیا صبح کو حضور نے فرمایا آج رات تم نے میرے لئے کیا پھھایا تھا؟ ہم نے کہا آپ کا وہی بستر تھا بس آج ہم نے اسے چوہرا کر کے پھھادیا تھا خیال تھا کہ

۱ کذا فی الشمانل (ص ۹)

۲ اخرجه الشيخان واخرجه ابن سعد (ج ۱ ص ۴۶۴) نحوه

۳ عند الحسن بن عرفه اخرجه ابن سعد (ج ۱ ص ۴۶۵) عن عائشه نحوه



اس طرح آپ کا ستر زیادہ نرم ہو جائے گا حضورؐ نے فرمایا کہ اسے پہلی حالت پر کر دو کیونکہ اس کی نرمی نے آج رات مجھے نماز سے روک دیا (یا تو اٹھ ہی نہ سکا یادیر سے اٹھا)۔<sup>۱</sup>

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور ﷺ نے نئے کپڑے منگوا کر پہنے جب آپ کی ہنسی تک کرتے پہنچا تو آپ نے یہ دعا پڑھی۔ الحمد للہ الذی کسانہ ما اوارى به عورتی واتجمل به فی حیاتی۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! جو مسلمان بندہ نیا کپڑا پہنے پھر دعا پڑھے جو میں نے ابھی پڑھی ہے پھر جو پرانے کپڑے اتارے ہوں وہ کسی مسلمان فقیر کو اللہ کے لئے دے دے تو جب تک اس فقیر پر ان کپڑوں میں سے ایک دھاگہ بھی رہے گا یہ بندہ اللہ کی حفاظت میں۔ اللہ کی ذمہ داری اور اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ وہ پہنانے والا چاہے زندہ رہے یا مر جائے چاہے زندہ رہے یا مر جائے۔<sup>۲</sup>

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن بارش ہوئی تھی میں بقیع کے قریب حضور ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک عورت گدھے پر سوار گزری اس پر کہ یہ پردینے والا یعنی گدھے کا مالک بھی تھا وہ زمین کے نشیبی حصہ سے گزرنے لگی تو وہ گر گئی حضور نے چہرہ دوسری طرف فرمایا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! یہ تو شلوار پہنے ہوئے ہے (لہذا اس کا ستر ننگا نہیں ہوا) آپ نے فرمایا اللہ! میری امت کی شلوار پہننے والی عورتوں کی مغفرت فرمائے لوگو! شلوار پہنا کر دو کیونکہ شلوار سے سب سے زیادہ ستر چھپتا ہے اور جب تمہاری عورتیں باہر نکلا کریں تو شلوار پہنا کر ان کی حفاظت کیا کرو۔<sup>۳</sup>

حضرت وحید بن خلیفہ کلبیؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے ہر قل (بادشاہ روم) کے پاس بھیجا جب میں وہاں سے واپس آیا تو حضور نے مجھے مصر کا بنا ہوا ایک باریک سفید کپڑا دیا اور فرمایا آگے سے تم اپنی قمیص بنا لو اور آگے اپنی بیوی کو دے دو وہ اس کی لوڑھنی بنالے گی۔ جب میں واپس جانے لگا تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ وہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا بھی لوڑھے تاکہ نیچے کا بدن نظر نہ آئے۔<sup>۴</sup>

حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ حضرت وحید کلبیؓ جو ہدیئے لائے تھے ان میں سے

۱ عند الترمذی فی الشمائل عن جمعہ بن محمد عن ابیہ کذا فی البدایہ (ج ۶ ص ۵۳) وخرجه ابن سعد (ج ۱ ص ۴۶۵) عن عائشۃ ۲ اخرجہ ابن المبارک والطبرانی والحاکم والبیہقی وغیرہم قال البیہقی اسنادہ غیر قوی وحسنہ ابن حجر فی امالیہ کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۵۵) ۳ اخرجہ البزارو العقیلی وابن عدی وغیرہم وارودہ ابن الجوزی فی الموضوعات فلم یصب والحديث له عدة طرق کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۵۵)

۴ اخرجہ ابن مندہ وابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۶۱)

ایک سفید کھر دربار یک مصری کپڑا حضورؐ نے مجھے پہننے کو دیا میں نے وہ اپنی بیوی کو دے دیا پھر ایک دن مجھ سے حضورؐ نے فرمایا کیا بات ہے تم وہ مصری سفید باریک کپڑا کیوں نہیں پہنتے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے وہ کپڑا پہننے کو اپنی بیوی کو دے دیا۔ حضورؐ نے فرمایا اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ وہ اس کے نیچے جیان وغیرہ پہنا کرے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس کپڑے میں اس کا جسم نظر آئے گا۔<sup>۱</sup>

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن کپڑے پہنے اور گھر میں چل رہی تھی اور اپنے دامن اور کپڑوں کو دیکھ رہی تھی (اور خوش ہو رہی تھی) کہ اتنے میں حضرت ابو بکرؓ میرے پاس اندر تشریف لائے اور فرمایا اے عائشہ! اس وقت اللہ تمہیں (رحمت کی نگاہ سے) نہیں دیکھ رہے ہیں لہٰذا حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نئی قمیض پہنی میں اسے دیکھ کر خوش ہونے لگی وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کیا دیکھ رہی ہو؟ اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب دنیا کی زینت کی وجہ سے بندے کے دل میں عجب کی کیفیت پیدا ہو جائے تو جب تک وہ اس زینت کو اپنے سے دور نہیں کر دے گا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہیں گے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ قمیض اتار کر فوراً صدقہ کر دی تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا شاید یہ صدقہ کرنا اس عجب کا کفارہ بن جائے۔<sup>۲</sup>

حضرت عبدالعزیز بن ابی جمیلہ انصاریؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کی قمیض کی آستین گٹوں سے آگے بڑھی ہوئی نہیں ہوتی تھی لہٰذا حضرت بدیل بن میسرہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطابؓ جمعہ کے لئے تشریف لے جا رہے تھے انہوں نے سہلان مقام کی بنی ہوئی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی اور اپنی تاخیر کی معذرت کرنے لگے اور فرمانے لگے اس قمیض کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی وہ اپنی آستین کو کھینچتے تھے جب اسے چھوڑتے تو وہ انگلیوں کے کنارے تک پھر واپس آجاتی حضرت ہشام بن خالدؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ ناف سے اوپر لنگی باندھا کرتے تھے حضرت عامر بن عبیدہ باہلیؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انسؓ سے رؤیہ ملے ہوئے لوئی کپڑے کے بارے میں پوچھا، حضرت انسؓ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کپڑے کو پیدا ہی نہ فرماتے اور حضرت عمرؓ اور حضرت ابن عمرؓ کے

۱۔ اخرجه ابن ابی شیبہ و ابن سعد و احمد و الر و یانی و الباوردی و الطبرانی و البیہقی و سعید بن منصور کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۶۲) ۲۔ اخرجه ابن المبارک و ابو نعیم فی الحلیة

۳۔ عند ابن نعیم فی الحلیة کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۵۴) قال و هو فی حکم المرفوع

۴۔ اخرجه ابن سعد

علاوہ نبی کریم ﷺ کے ہر صحابی نے اس کپڑے کو پہنا ہے (یہ کپڑا احلال تھا لیکن اسے عجم کے مالدار لوگ پہنتے تھے اس لئے حضرت انسؓ نے اسے پسند نہ کیا)۔  
حضرت مسروقؓ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمرؓ باہر تشریف لائے۔ انہوں نے سوتی جوڑا پہنا ہوا تھا لوگوں نے انہیں تیز نظر سے دیکھا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا:

لا شئىء فىما ترى تبقى بشا شته بيقى الا له وبو دى المال والولد  
دنیا کی جتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو ان میں سے کسی چیز کی چمک دمک باقی نہیں رہے گی  
اللہ باقی رہیں گے مال اولاد سب ختم ہو جائیں گے پھر فرمایا آخرت کے مقابلہ میں تو دنیا  
خرگوش کی ایک چھلانگ کی طرح ہے۔ ۱

حضرت شدا بن ہاد کے آزاد کردہ غلام حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جمعہ  
کے دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو منبر پر دیکھا انہوں نے عدن کی بنی ہوئی  
موٹی لنگی باندھی ہوئی تھی جس کی قیمت چار پانچ درہم تھی اور ایک گیر وے رنگ کی کوئی چادر  
اوڑھی ہوئی تھی ان کے جسم پر گوشت کم تھا داڑھی لمبی اور چہرہ خوبصورت تھا ۲۔ حضرت  
موسیٰ بن طلحہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ جمعہ کے دن لاٹھی پر سہار لے کر چلتے تھے آپ  
لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے انہوں نے ایک زرد لنگی باندھی رکھی تھی اور  
دوسری زرد چادر اوڑھی رکھی تھی وہ چلتے رہتے یہاں تک کہ منبر پر بیٹھ جاتے۔ ۳

حضرت سلیم ابو عامرؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمانؓ بن عفان پر ایرانی چادر دیکھی  
جس کی قیمت سو درہم تھی ۴۔ حضرت محمد بن ربیعہ بن حارثؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے  
صحابہؓ اپنی عورتوں کے لباس میں اتنی وسعت دیتے تھے جس سے گرمی سردی سے بچاؤ اور اور  
گہرو کی حفاظت اور زینت حاصل ہو سکے۔ چنانچہ میں نے حضرت عثمانؓ پر ریشم طے ہوئے  
لوئی کپڑے کی ایک چادر دیکھی جس کی قیمت دو سو درہم تھی جس کے دونوں طرف کے  
کنارے پر حاشیہ تھا۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا یہ چادر (میری بیوی) حضرت نائلہ کی ہے میں  
نے انہیں پہننے کو دی تھی اب میں انہیں خوش کرنے کے لئے خود پہن رہا ہوں۔ ۵

حضرت زید بن وہبؓ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کے پاس بصرہ والوں کا ایک وفد آیا اس میں

۱۔ کذا فی منتخب الكنز (ج ۴ ص ۶۹) وهو صحیح ۲۔ اخرجه هنادو ابن ابی الدنيا فی  
قصر الامل کذا فی منتخب الكنز (ج ۴ ص ۶۰) ۳۔ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۹۶)  
واخرجه ايضا الطبرانی عن عبد الله بن شداد بن الهاد مثله واسناده حسن كما قال الهیثمی (ج  
۹ ص ۸۰) ۴۔ اخرجه الحاكم ايضا قال الهیثمی (ج ۹ ص ۸۰) رواه الطبرانی عن  
شیخه المقدم بن داؤد وهو ضعيف. ۵۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۵۸)  
عند ابن سعد ايضا (ج ۳ ص ۵۸)

ایک خارجی تھا جسے جعد بن نجر کہا جاتا تھا اس نے حضرت علیؓ کی قمیص پر ناراضگی کا اظہار کیا حضرت علیؓ نے فرمایا تجھے میری قمیص سے کیا، میری قمیص تکبر سے بہت دور اس لائق ہے کہ مسلمان میرا اقتداء کر سکے۔ ۱۔

حضرت عمرو بن قیسؓ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علیؓ سے پوچھا اے امیر المؤمنین! آپ اپنی قمیص پر بیوند کیوں لگاتے ہیں؟ حضرت علیؓ نے فرمایا اس سے دل میں تواضع پیدا ہوتی ہے اور مومن اس کی اقتداء کر لیتا ہے۔ ۲۔

حضرت عطاء ابو محمدؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ پر بے دھلے کھدر کی ایک قمیص دیکھی۔ ۳۔

حضرت عبداللہ بن ابو بزیلؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ پر رے مقام کی بنی ہوئی قمیص دیکھی جب حضرت علیؓ اپنے ہاتھ کو لمبا کرتے تو آستین انگلیوں کے کناروں تک پہنچ جاتی اور جب ہاتھ (لمبا کرنا) چھوڑ دیتے تو آدھے بازو کے قریب تک پہنچ جاتی۔ ۴۔

حضرت علیؓ جب قمیص پہنا کرتے تو آستین کو لمبا کرتے اور جتنی آستین انگلیوں سے آگے بڑھ جاتی اسے کاٹ دیتے اور فرماتے آستینوں کو ہاتھوں سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ۵۔

حضرت ابو سعید ازدیؓ قبیلہ ازد کے اماموں میں سے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا کہ وہ بازار تشریف لے گئے اور فرمایا کسی کے پاس ایسی قمیص ہے جس کی قیمت تین درہم ہو؟ ایک آدمی نے کہا میرے پاس ہے وہ آدمی وہ قمیص حضرت علیؓ کے پاس لے آیا حضرت علیؓ کو وہ قمیص پسند آئی اور فرمایا شاید یہ تین درہم سے بہتر ہو یعنی اس کی قیمت تین درہم سے زیادہ ہو اس آدمی نے کہا نہیں اس کی قیمت یہی ہے پھر میں نے دیکھا کہ حضرت علیؓ اپنے کپڑے میں سے درہموں کی گانٹھ کھول رہے تھے پھر کھول کر انہوں نے اسے تین درہم دیئے اور وہ قمیص پہن لی تو اس کی آستین انگلیوں کے کنارے سے آگے بڑھی ہوئی تھی حضرت علیؓ کے فرمانے پر انگلیوں سے زائد حصہ کو کاٹ دیا گیا۔ ۶۔

حضرت ابو غصین کے ایک آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا کہ وہ باہر تشریف لائے اور ایک کھدر بچنے والے کے پاس گئے اور اس سے فرمایا کیا تمہارے پاس

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ ج (۱ ص ۸۲) ۲۔ اخرجہ ہناد عن عمرو بن قیس مثلہ کما فی

المنتخب ج ۵ ص ۵۷) و اخرجہ ابن سعد ج ۳ ص ۲۸) عن عمرو نحوہ

۳۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ و ہناد ۴۔ عند ہناد و ابن عساکر کذا فی المنتخب

ج ۵ ص ۵۷) ۵۔ اخرجہ ابن ابی عیینہ فی جامع والعکسری فی المواعظ وسعید بن

منصور والبیہقی وابن عساکر کذا فی الكنز ج ۸ ص ۵۵)

۶۔ عند ابی نعیم فی الحلیۃ ج ۱ ص ۸۳)

سبلان شہر کا بنا ہوا المباکر تہا ہے؟ اس کھدروالے نے ایک کرتا نکالا جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہنا تو وہ ان کی آدھی پنڈلیوں تک آیا پھر انہوں نے دائیں بائیں دیکھ کر فرمایا مجھے تو یہ ٹھیک ہی لگ رہا ہے یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا اے امیر المؤمنین! چار درہم کا۔ حضرت علیؓ نے لنگی میں سے کھول کر چار درہم اسے دیئے اور پھر وہاں سے تشریف لے گئے۔  
حضرت سعد بن ابراہیمؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ چار پانچ سو کی چادر یا جوڑا پہنا کرتے تھے۔

حضرت قرعہؓ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمرؓ پر کھر درے کپڑے دیکھے میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا اے ابو عبدالرحمن! چونکہ آپ نے کھر درے کپڑے پہن رکھے ہیں اس لئے میں آپ کے لئے خراسان کا بنا ہوا نرم کپڑا لایا ہوں انہیں آپ پر دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی انہوں نے فرمایا مجھے دکھاؤ میں بھی ذرا دیکھوں۔ چنانچہ انہوں نے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا اور فرمایا کیا یہ ریشم ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ روئی کا ہے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اسے پہن کر کہیں میں تکبر کرنے والا اور اترانے والا نہ بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ کو کوئی تکبر کرنے والا اور اترانے والا پسند نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن حبیبؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ پر معافر شہر کے بنے ہوئے دو کپڑے دیکھے اور ان کا کپڑا آدھی پنڈلی تک تھا۔

حضرت وقدانؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا کہ میں کون سے کپڑے پہنا کروں؟ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ایسے کپڑے پہنو جن میں بے وقوف لوگ تمہیں حقیر نہ سمجھیں اور عقلمند اور بربدار لوگ تم پر ناراض نہ ہوں اس آدمی نے پوچھا ایسے کپڑے کس قیمت کے ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا پانچ درہم سے لے کر بیس درہم تک۔

حضرت ابو اسحاقؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کو آدھی پنڈلی تک لنگی باندھتے ہوئے دیکھا دوسری روایت میں حضرت ابو اسحاقؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے کئی صحابہؓ حضرت اسامہ بن زید بن ارقمؓ، حضرت براء بن عازبؓ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کو آدھی پنڈلیوں تک لنگی باندھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عثمان بن ابی سلیمانؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے ہزار درہم کا کپڑا خرید کر پہنا۔

۱۔ اخرجه احمد في الزهد كذا في البداية (ج ۸ ص ۳) ۲۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۱۳۱)

۳۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۰۲)

۴۔ عند ابی نعیم ایضا واخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۱۷۵) عن عبد اللہ بن حنشل نحوہ

۵۔ عند ابی نعیم (ج ۱ ص ۳۰۲) ۶۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۴ ص ۳۴۱)

۷۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۲۱)

حضرت کثیر بن عبیدؓ کہتے ہی کہ میں ام المومنین حضرت عائشہؓ کی خدمت میں گیا تو انہوں نے فرمایا ذرا ٹھہرو میں اپنا پھٹا ہوا کپڑا سی لوں میں نے کہا اے ام المومنین! اگر میں باہر جا کر لوگوں کو بتاؤں (کہ ام المومنین حضرت عائشہؓ تو اپنا پھٹا ہوا کپڑا سی رہی ہیں) تو وہ سب آپ کے اس سینے کو کتبوسی شمار کریں (کہ آپ بڑی کتبوسی ہیں اس لئے پھٹا ہوا کپڑا سی رہی ہیں) حضرت عائشہؓ نے فرمایا تو اپنا کام کر جو پرانا کپڑا انہیں پہنتا ہے نیا کپڑا پہننے کا کوئی حق نہیں جو دنیا میں پرانا نہیں پہننے کا اسے آخرت میں نیا کپڑا نہیں ملے گا۔

حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عائشہؓ کے پاس اندر گیا وہ اس وقت اپنا نقاب سی رہی تھیں اس آدمی نے کہا اے ام المومنین! کیا اللہ تعالیٰ نے مال میں وسعت نہیں عطا فرما رکھی؟ انہوں نے فرمایا ارے میاں ہمیں ایسے ہی رہنے دو جس نے پرانا کپڑا نہیں پہنا اسے نیا پہننے کا کوئی حق نہیں۔

حضرت ہشام بن عروہؓ کہتے ہیں کہ حضرت منذر بن زبیرؓ عراق سے آئے تو انہوں نے (اپنی والدہ) حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں مروارہ قوہ کے بنے ہوئے باریک اور عمدہ جوڑے بچھے۔ یہ واقعہ ان کی پینائی کے چلے جانے کے بعد کا ہے انہوں نے ان جوڑوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا پھر فرمایا او ہو۔ اس (منذر) کے جوڑے ایسے ہی واپس کر دو حضرت منذرؓ کو یہ بات بہت گراں گزری انہوں نے کہا اے اماں جان! یہ کپڑے اتنے باریک نہیں ہیں کہ ان سے جسم نظر آئے۔ حضرت اسماءؓ نے فرمایا اگر جسم نظر نہیں آئے گا تو جسم کی بناوٹ تو ان کپڑوں سے معلوم ہو جائے گی پھر حضرت منذرؓ نے ان کے لئے مروارہ قوہ کے عام اور سادہ کپڑے خرید کر دیئے تو وہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہما نے قبول فرمائے اور فرمایا ایسے کپڑے مجھے پہنایا کرو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے آکر حضرت عمر بن خطابؓ کی خدمت میں عرض کیا اے امیر المومنین! میرا کپڑا پھٹ گیا ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے پہلے پہننے کا کپڑا نہیں دے چکا ہوں اس عورت نے کہا دیا تھا لیکن وہ اب پھٹ گیا ہے حضرت عمرؓ نے اس عورت کے لئے ایک عمدہ جوڑا اور دھاگہ منگایا اور اس سے فرمایا جب روٹی یا سالن پکاؤ پھر تو یہ پرانا جوڑا پہنا کرو جب کھانا پکانے سے فارغ ہو جایا کرو تو پھر یہ نیا جوڑا پہنا کرو کیونکہ جو پرانا کپڑا نہ پہننے کا حق نہیں ہے۔

حضرت خرشہ بن حرؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس سے ایک نوجوان گزرا جس کی لنگی ٹخنے سے نیچے جا رہی تھی بلکہ وہ اسے زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہا

۱۔ اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۶۸) ۲۔ ابن سعد (ج ۸ ص ۷۳)

۳۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۸ ص ۲۵۲) ۴۔ اخرجہ البیہقی کذا فی الکنز (ج ۸ ص ۵۵)

تھا۔ حضرت عمرؓ نے اسے بلا کر فرمایا کیا تمہیں حیض آتا ہے؟ اس نے کیا مرد کو بھی حیض آتا ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا پھر تمہیں کیا ہوا کہ تم نے لنگی قدموں سے نیچے لٹکا رکھی ہے؟ پھر حضرت عمرؓ نے ایک چھری منگائی اور اس کی لنگی کا کنارہ پکڑ کر ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دیا حضرت خرشہ کہتے ہیں اب بھی وہ منظر میرے سامنے ہے اور مجھے اس کی ایزبوں پر لنگی کے دھاگے نظر آ رہے ہیں۔ ۱۔

حضرت ابو عثمان نمدیؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آذربائی جان میں تھے وہاں ہمارے پاس حضرت عقبہ بن فرقدہؓ کے ذریعے حضرت عمر بن خطابؓ کا خط آیا جس میں یہ مضمون تھا الما بعد ! لنگی باندھا کرو اور چادر اوڑھا کرو اور جوتے پہنا کرو اور موزے اتار پھینکو اور شلواریں اتار دو (ان کی جگہ لنگی باندھا کرو) اور اپنے والد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لباس اختیار کرو اور ناز و نعمت کی زندگی اور عجمی لوگوں کا لباس اختیار نہ کرو اور دھوپ میں بیٹھا کرو کیونکہ یہی عربوں کا حجام ہے اور معد بن عدنان جیسی سادہ اور مشقت والی زندگی اختیار کرو اور سخت کھر درے اور پرانے کپڑے پہنو۔ تیروں سے نشانہ بازی کیا کرو گھوڑوں کی رکائیں کاٹ دو اور کود کر گھوڑوں پر سوار ہوا کرو۔ حضور ﷺ نے ایک لنگی سے زیادہ ریشم پہننے سے منع کیا ہے حضرت عمرؓ نے درمیانی لنگی سے اشارہ کیا۔ ۲۔

## نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات کے گھر

حضرت معاذ بن محمد انصاریؓ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں حضرت عمر ان بن انسؓ بھی تھے اس مجلس میں حضرت عطاء خراسانیؓ قبر اطہر اور منبر کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے ان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ کی ازواج مطہرات کے گھر کچھور کی ٹہنیوں کے بنے ہوئے تھے اور ان کے دروازوں پر کالے بالوں کے بنے ہوئے پردے تھے پھر میں اس وقت موجود تھا جب کہ ولید بن عبد الملک بادشاہ کا خط پڑھا جا رہا تھا جس میں اس نے حکم دیا تھا کہ نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات کے گھر مسجد نبوی میں شامل کر دیئے جائیں اس دن سے زیادہ رونے والے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ چنانچہ میں نے حضرت سعید بن مسیبؓ کو اس دن یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کی قسم! کاش یہ لوگ ان گھروں کو ان کے حال پر رہنے

۱۔ اخرجه سفیان بن عیینة فی جامعه کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۵۹)

۲۔ اخرجه ابو ذر الہروی فی الجامع والبیہق کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۵۸)

دیتے تاکہ مدینہ میں پیدا ہونے والی نسلیں اور اطراف عالم سے آنے والے لوگ دیکھ لیتے کہ حضور ﷺ نے اپنی زندگی میں کس چیز پر اکتفا فرمایا اس سے لوگوں کے دلوں میں دنیا کے بڑھانے اور اس میں فخر کرنے کی بے رغبتی پیدا ہوتی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ جب حضرت عطاء خراسانی اپنی بات پوری کر چکے تو حضرت عمران بن ابی انس نے کہا ان میں سے چار گھر کچی اینٹوں کے تھے اور ان کا صحن کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا اور پانچ گھر کھجور کی ٹہنیوں کے تھے جن پر گارا لگا ہوا تھا اور ان کا صحن کوئی نہیں تھا۔ ان کے دروازوں پر بالوں کے پردے تھے میں نے پردے کی پیمائش کی تو وہ تین ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ سے زیادہ چوڑا تھا اور آپ نے اس دن لوگوں کے بہت زیادہ رونے کا تذکرہ کیا (تو یہ مجھے بھی یاد ہے) میں بھی ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں حضور ﷺ کے صحابہؓ کے چند بیٹے بیٹھے ہوئے تھے جن میں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور حضرت ابو امامہ بن سہل بن حذیف اور حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہم بھی تھے اور یہ سب اتنا زیادہ رورہے تھے کہ داڑھیاں تر ہو گئی تھیں اور اس دن حضرت ابو امامہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کاش یہ گھر ایسے ہی چھوڑ دیئے جاتے اور انہیں گریانہ جاتا تاکہ لوگ (ان گھروں کو دیکھ کر) لوٹنے اور بڑے گھر نہ بناتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لئے کیا پسند کیا حالانکہ دنیا کہ خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھیں۔

